

ردِّ قادیانیت

رسائل

حضرت مولانا محمد عالم آسی امرتسری

احتساب قادیانیت

جلد ۲۶

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

مضوری باغ روڈ، ملتان - فون: 4514122

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

نام کتاب :	احساب قادیانیت جلد چہمیس (۲۶)
نام مصنف :	حضرت مولانا محمد عالم آسیؒ
صفحات :	۶۸۸
قیمت :	۳۰۰ روپے
طبع اول :	مارچ ۲۰۰۹ء
مطبع :	ناصرزین پریس لاہور
ناشر :	عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان

Ph: 061-4514122

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

## عرض مرتب

قارئین! لیجئے احتساب قادیانیت کی پچیسویں (۲۶) جلد پیش خدمت ہے۔ یہ جلد ”اکاویۃ علی الغاویۃ“ یعنی چودھویں صدی کے مدعیان مسیحیت و مہدویت کے حالات“ پر مشتمل ہے۔ احتساب قادیانیت کی پچیسویں جلد ”اکاویۃ علی الغاویۃ“ کے حصہ اول پر مشتمل تھی۔ یہ جلد حصہ ثانی پر مشتمل ہے۔ احتساب قادیانیت کی اس جلد سے ہم حضرت مولانا محمد عالم آسی امرتسریؒ کی ”اکاویۃ علی الغاویۃ“ مکمل کتاب کی اشاعت سے فارغ البال ہو گئے۔ فلحمد للہ!

حضرت مولانا محمد عالم آسیؒ امرتسر کے رہائشی تھے۔ مولانا غلام قادر بگویؒ (بھیرہ ضلع سرگودھا) کے شاگرد رشید بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیلات نہ مل سکیں۔ جس کے لئے اپنے طور پر نام اور قارئین سے معذرت خواہ ہیں۔

اس تصنیف میں مصنف نے جھوٹے مدعیان نبوت، مسیحیت و مہدویت کے عقائد پر بحث کرتے ہوئے ان کے لٹریچر (کتب و رسائل و پوسٹر) کے خلاصہ جات مع تنقیدات اہل اسلام کو درج کیا ہے۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے عقائد کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بھی ان کو طویل بلکہ طویل تر اقتباسات درج کرنے

پڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ملعون اور خلاف اسلام، عقائد ہمیشہ کے لئے اس کتاب کے ذریعہ مسلمانوں کو معلوم ہو گئے۔

یہ کتاب جولائی ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔ گویا پاکستان بننے سے بھی چودہ سال قبل کی یہ کتاب ہے۔ فقیر راقم کی پیدائش سن ۱۹۴۵ء کی ہے۔ راقم کی پیدائش سے بارہ سال قبل کی یہ تصنیف لیتھو پرنٹ شائع شدہ اور اتنی گھنی اور بے ذہب کتابت کی دوبارہ اشاعت کا دشوار تر مرحلہ صرف وہی دوست ہی اس مشکل کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں جو اس میدان کے شناور ہیں۔ ورنہ دوسروں کے سامنے بین بجانے کا فائدہ نہیں۔

جن دوستوں نے اس کتاب کی تیاری میں تعاون فرمایا: مولانا فقیر اللہ اختر، مولانا راشد مدنی، مولانا عبدالحکیم نعمانی، مولانا عبدالرشید غازی، عزیز الرحمان رحمانی، مولانا عبدالستار حیدری۔ وہ سب مبارک باد کے مستحق ہیں۔

کمپوزنگ کے لئے برادر یوسف ہارون اور برادر عدنان سنپال نے جانفشانی سے کام لیا۔ ان سب کے شکر یہ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کی محنت کو قبول فرمائیں۔

اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔

فقیر اللہ وسایا

۱۰ فروری ۲۰۰۹ء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلَدِ السُّنَنِ لَإِبْنِ بَعْرَانَ  
تَمَّتْ طَبْعًا فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ  
سَنَةِ ١٣٧٧ هـ

# الكاوية العاوية

يعنى

چودھویں صدی ہجری

کے مدعیان نبوت کے مختصر تاریخی حالات

حصہ دوم

حضرت مولانا محمد عالم آسئی

بسم الله الرحمن الرحيم!

## معروضات آسی

- .....۱ اقتباسات میں مختصر عبارات نقل کی گئی ہیں۔ کیونکہ اصل عبارتیں بہت لمبی تھیں۔ اس لئے اصل کتاب سے تصدیق کر لینا ضروری ہوگا۔
- .....۲ عبارات کتاب ہذا میں گولفظی اغلاط بعض جگہ رہ گئی ہیں۔ مگر وہ ایسی ہیں کہ پڑھنے والا خود صحیح کر سکتا ہے۔
- .....۳ مدعیان نبوت کا مبلغ علم بتانے کے لئے ان کی وہ خاص عبارات نقل کی گئی ہیں۔ جن میں انہوں نے قواعد کی فاش غلطیاں کی ہیں۔ اہل علم غور سے پڑھ کر لطف اٹھائیں۔
- .....۴ یہ تمام مدعی رسالت کم و بیش ذیل کے امور میں متحد الخیال ہیں۔
- (☆) قرآن مجید کا پہلا مفہوم غلط ہے۔ صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ (☆) ہم سب کچھ ہیں۔ (☆) ہم تناخ اور بروز کے ذریعہ سے محمد ثانی بنے ہیں۔ (☆) ہمیں شریعت جدید پھیلانے کا حکم ہوا ہے۔ (☆) ہم نے علوم شریعت اسلامیہ سے (امی) ناواقف ہو کر خدا سے وحی پائی ہے۔ اس لئے ہماری غلط عبارات پر اعتراض کرنا خدا کی وحی پر اعتراض کرنا ہوگا۔ (☆) بیت المال قائم کرنا ضروری ہے۔ (☆) ہمارے مخالف کافر اور جہنمی ہیں۔ (☆) رسول قیامت تک آتے رہیں گے۔ (☆) ہمارے سوا خاتم النبیین کا معنی آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔ (☆) دنیا چاہتی تھی کہ کوئی مجدد پیدا ہو کر اسلامی قیود سے ہمیں آزاد کرائے۔ سو ہم نے آ کر ان کی یہ تمنا پوری کر دی۔ (☆) ہم کرشن ضرور ہیں اس لئے خدا نے ہم میں روپ لیا ہے۔ ورنہ ہم میں اس کا بروز نہ ہو سکتا تھا۔ (☆) سب مذاہب کو حق سمجھو۔ مگر شریعت وہی قابل تقییل ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔
- .....۵ ان کے نزدیک تمام قومیں اچھی ہیں۔ صرف مسلمان ہی برے ہیں اور آج تک گمراہ چلے آئے ہیں۔
- .....۶ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت کا مذہب اور تمدن یورپ کی پابندی اختیار کی جائے۔ کیونکہ مثل مشہور ہے کہ: "الناس علی دین ملوکھم سالکون طرائق سلوکھم"
- .....۷ ساتویں صدی ہجری کے ماحول میں بھی اس قسم کے مدعیان نبوت شام، مصر اور ممالک مغرب میں پیدا ہوئے تھے۔ جن میں سے حسن بن صباح زیادہ مشہور ہے۔ غالباً چودھویں صدی کے مدعیان نبوت ان کا ہی بروز ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا کہ زمانہ اولیٰ کے کاذب مجددین کا ہوا تھا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

## الكاوية على الغاوية

یعنی چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت

حصہ دوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

”الحمد لله وحده . والصلوة على حبيبه محمد لا نبى بعده . وعلى  
اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين وبعد فيقول العبد العاصى محمد عالم  
عفى عنه بن عبد الحميد الوثير الوسير الآسى عفا الله عنهما، رب اشرح لى  
صدرى ويسر لى امرى“

میں اس کتاب کی وجہ تسمیہ پہلی جلد میں بتا چکا ہوں اور یہاں پر صرف یہ امر بتا دینا  
ضروری سمجھتا ہوں کہ مرزائی تعلیم بہائی مذہب کی ایک عکس اور بروزی تصویر ہے جو اسلامی رنگ  
آئینہ کے ساتھ احمدیہ چوکھٹ میں دکھائی گئی ہے۔ ناظرین دونوں مذاہب کا تطابق خود ہی کر  
سکیں اور آسانی کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ جو متلاشی اسلامی تعلیم چھوڑ کر مرزائی تعلیم قبول  
کرتا ہے اس کے لئے یہ بہتر ہی ہے کہ پہلے بہائی مذہب کا گردیدہ ہو کر شریعت محمدیہ کو خیر باد کہہ  
دے۔ تاکہ اپنے عقائد تبدیل کرنے میں اسے کمال آسانی حاصل ہو جائے۔

..... سوانح حیات حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام

..... اقتباسات انجیل برنابا (برنبا)

..... موضع ناصره میں رہنے والی پارسا مریم علیہا السلام کے پاس جبریل نے  
آ کر کہا کہ خدا نے تجھے ایک نبی کی ماں ہونے کے لئے چنا ہے۔ کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیسے  
جنوں گی؟ کہا کہ یہ بات خدا کے نزدیک محال نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے بغیر انسان کی موجودگی کے  
آدم علیہ السلام پیدا کیا تھا۔ کہا اچھا خدا کی مرضی۔ اب مریم علیہا السلام کو اندیشہ ہوا کہ یہودی اسے  
بدنام کریں گے۔ اس لئے اپنے رشتہ دار یوسف نجار (عبادت گزار) سے نکاح کیا اور جب اس  
نے دیکھ کر مریم کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ مت ڈرو مشیت ایزدی سے  
یسوع نبی پیدا ہوگا۔

..... ۲ قیصر روم (اوغسطس) نے حاکم یہودیہ (ہیردوس اکبر) کو حکم دیا کہ اپنے

علاقہ کی مردم شماری کرے۔ اس لئے یوسف کو اپنے گھر (بیت اللحم) جانا پڑا اور ایک سرائے میں وہاں پہنچ کر قیام کیا تو مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سات روز کے بعد یہ کل میں ختنہ کیا گیا۔ پورب کے تین مجوسی مسیح علیہ السلام کا ستارہ دیکھ کر اور یہودیہ پہنچ کر بیت المقدس میں آٹھ گھرے اور مسیح علیہ السلام کا پتہ پوچھا۔ تب بادشاہ نے نجومیوں سے پوچھ کر ان کو بتایا کہ وہ بیت اللحم میں پیدا ہوا ہے۔ تم وہاں جاؤ اور واپس ہو کر مجھے ملنا مجوسی ستارے کے پیچھے ہو لئے اور بیت اللحم میں جا کر مسیح پر نیاز چڑھائی۔ بچہ نے خواب میں کہا کہ تم بادشاہ سے نہ ملو۔ تب وہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ یوسف مریم کو مصر لے آیا اور پیچھے بیت اللحم کے بچوں کو مار ڈالنے کا حکم جاری ہوا۔ (کیونکہ حاکم کو یسوع سے بڑا خطرہ تھا) اور یوسف حاکم کی وفات تک مصر ہی رہا۔ سات سال کے بعد یوسف یہودیہ سے واپس آیا تو اریخا دس بن ہیرودس وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس لئے اس سے ڈر کر جلیل میں چلا گیا۔ یسوع بارہ سال کا ہوا تو بیت المقدس سجدہ کرنے آیا اور لوگوں سے بحث کی۔ جس سے وہ دنگ رہ گئے تو والدین کے ہمراہ ناصرہ میں آٹھ گھرے۔

۳..... یسوع تین برس کا ہوا تو جبل زیتون لینے پر زیتون کو پھر ماں بیٹا دونوں گئے تو بعد از نماز یسوع کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ وہ یہود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ والدہ نے تصدیق کی کہ مجھے یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا تو تبلیغ کے لئے یسوع پہلی دفعہ بیت المقدس آئے اور راستہ میں ایک کوڑھی کو دعاء سے اچھا کیا تو اس نے چلا کر کہا کہ اے بنی اسرائیل اس نبی کی پیروی کرو۔

۴..... تب آپ دوسری دفعہ معہ یہود کے ہیکل میں نماز پڑھنے کے لئے بیت المقدس آئے اور شہر میں شور مچ گیا۔ کانہوں نے منبر پر کھڑا کر کے لوگوں کو وعظ سننے کا حکم دیا اور آپ نے وعظ میں تمام فقیروں، استادوں اور علمائے بنی اسرائیل کو خصوصیت سے آڑے ہاتھوں لیا۔ تب وہ باطنی طور پر مخالف بن گئے۔ مگر بظاہر تسلیم کیا اور آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ تبلیغ کے لئے وہاں سے چلے گئے۔

۵..... چند دن بعد مسیح علیہ السلام جبل زیتون پر دوسری دفعہ گئے اور وہاں ساری رات نماز میں دعا کی کہ مجھے پوجاریوں سے بچا۔ جو میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبح خدا کی طرف سے کہا گیا کہ دس لاکھ فرشتے تیری حفاظت کریں گے۔ جب تک تیرا کام انتہاء تک نہ پہنچے اور دنیا کا اختتام نہ ہو تب تک تم نہ مرو گے۔ تو آپ نے سجدہ کیا اور ایک دنبہ قربانی کیا۔ اردن کے گھاٹ سے عبور کر کے چلے گئے اور چالیس دن روزہ رکھا۔ پھر اورشلیم تیسری بار واپس آ کر تبلیغ کی

اور لوگ مطیع ہو گئے۔ جن میں سے آپ نے بارہ حواری چن لئے اور اوس، پطرس، برنابا (برناباس جس نے یہ انجیل لکھی) متی، عشار، یوحنا، یعقوب، انداؤس، یہودا، برتولوماؤس، فیلیس، یعقوب ثانی، یہوداخریوطی وغدار۔

۶..... عید مظال کے موقع پر ایک امیر نے ماں بیٹے دونوں کو مدعو کیا اور آپ نے وہاں پانی کو شراب بنایا اور حواریوں کو وعظ کی کہ: ”سیاح بنو اور تکلیف سے نہ گھبراؤ اہلیا کے وقت دس ہزار نبی کا قتل ہوا تھا۔ ایک گال پر تھپڑ پڑے تو دوسری آگے کر دو۔ آگ پانی سے بجھتی ہے آگ سے نہیں بجھتی۔ خدا ایک ہے۔ نہ اس کا بیٹا ہے نہ باپ۔“ پھر دس کوڑھے جو آپ کی دعاء سے اچھے ہو گئے ان سے کہا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ لوگوں سے جا کر کہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدے خدا نے کئے تھے نزدیک آرہے ہیں۔ پھر آپ دوسری دفعہ ناصرہ کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں جہاز ڈوبنے لگا مگر آپ کی دعا سے بچ گیا۔ ناصرہ میں علماء نے معجزہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ بے ایمانوں کو نشانی نہیں ملے گی۔ کیونکہ کوئی نبی اپنے وطن میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس پر لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈبونا چاہا مگر آپ بچ گئے۔

۷..... پھر آپ کفرناحوم میں آئے اور ایک کا شیطان دور کیا۔ لوگ ڈر گئے اور کہا کہ اس علاقہ سے نکل جاؤ۔ تو آپ صور اور صیدا میں آئے اور کنعانی عورت کا جن نکالا۔ اگرچہ وہ یہودی نہ تھی اور آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے۔

دوسری دفعہ عید مظال کے وقت آپ چوتھی دفعہ اور ہلیم میں آئے اور پوجاریوں کو بحث میں لاجواب کیا۔ اتنے میں ایک بت پرست نے اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعا کروائی تو تندرست ہو گیا اور گھر جا کر باپ نے بت توڑ ڈالے۔ پھر آپ نے توحید کی طرف پوجاریوں کو دعوت دی اور بیمار مذکور کو ذکر کر کے ان کو نادم کیا تو وہ قتل کے درپے ہو گئے۔ اس لئے آپ وہاں سے صحراء اردن میں آ گئے اور چار حواریوں کے شکوک رفع کئے اور انہوں نے باقی آٹھ حواریوں کو بھی سمجھا دیا۔ مگر یہوداخریوطی نہ سمجھا۔

۸..... پھر آپ کو فرشتہ نے پانچویں دفعہ اور ہلیم بھیجا تو آپ نے ہفتہ کے دن تبلیغ کی تو پوجاریوں کا سردار کہنے لگا کہ تم ہمارے خلاف تبلیغ نہ کرو۔ آپ نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جو خدا سے نہیں ڈرتے اور جنہوں نے کئی نبی مار ڈالے اور ان کو کسی نے دفن بھی نہ کیا۔ رئیس الکہنہ نے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا مگر لوگوں سے ڈر گیا۔

۹..... نبوت کے دوسرے سال آپ فائین کو پہلی دفعہ گئے۔ وہاں آپ نے

ایک بیوہ کا لڑکا بڑے اصرار کے بعد زندہ کیا اور لوگ عیسائی ہوئے۔ مگر رومانیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تو ایسے پیر کو خدا جانتے ہیں تم نے تو کچھ قدر ہی نہیں کی۔ اب شیطان کے بہکانے سے اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ یہ خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدا محسوس نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ خدا کا بیٹا ہے اور تیسرا تو حید کا قائل رہا اور آپ کفرناحوم میں چلے گئے اور ایک مجمع میں آپ تبلیغ کر کے جنگل کو نکل گئے۔

۱۰..... ایک دفعہ قریہ الما صریہ پہنچے تو انہوں نے روٹی بھی نہ دی۔ تو یعقوب اور یوحنا نے کہا کہ آپ بددعا کریں کہ ان پر آگ برسے۔ آپ نے فرمایا کیا صرف اس لئے کہ انہوں نے ہم کو روٹی نہیں دی؟ کیا تم نے ان کو رزق دیا ہے؟ یونس علیہ السلام نے نینوی والوں کو بددعا دی تھی تو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی وہ تو بچ گئے۔ مگر آپ کو مچھلی نے نگل کر نینوی کے پاس پھینک دیا تھا۔ تب دونوں حواری تائب ہوئے۔

۱۱..... چھٹی بار آپ عید فصیح منانے اور شلیم آئے۔ وہاں بیت الصدے چشمہ پر ایک لوہنجما ۳۸ سال سے بیٹھا تھا اور جب چشمہ میں جوش آتا تھا تو بیمار اس میں جا کر شفاء حاصل کرتے تھے۔ مگر اس کو کسی نے اندر نہ جانے دیا تھا۔ آپ نے دعا سے اس کو اچھا کیا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تبلیغ کی اور بحث میں پوجاریوں کو لاجواب کیا اور وہاں سے روانہ ہو کر حدود قیصریہ میں آئے اور حواریوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ پطرس نے جواب دیا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ تب آپ نے ناراض ہو کر اس سے توبہ کرائی۔ مگر عام لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو کر جم چکا تھا۔ تو آپ جلیل میں چلے آئے اور بیماروں کو اچھا کیا۔

۱۲..... رات کو حواریوں سے کہا کہ اب امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ تب فرشتہ نے بتایا کہ یہود آپ کا اندرونی دشمن ہے۔ وہ کاہنوں سے اندرونی سازش رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ: ”ایک حواری ہلاک ہوگا۔“ برنباس نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ میں دنیا سے جاتا ہوں۔ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو میری تصدیق کرے گا اور بت پرستی کو دور کرے گا۔“ پھر آپ کو سینا پر چلے گئے اور چالیس دن وہیں رہے۔ پھر اور شلیم کو ساتویں دفعہ چلے راستہ میں کسی نے کہا کہ یہ اللہ ہے اور اپنی قوم کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے کہا: ”نہیں میں بشر ہوں۔“

۱۳..... اس کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز روزے کی تلقین کی اور ان کو کھانا لانے کے واسطے کسی بستی میں بھیجا تو سب چلے گئے۔ مگر برنباس آپ کے پاس رہا

تو آپ نے فرمایا کہ: ”اے برنباس! میرا ایک شاگرد مجھے تیس روپے پر بیچ دے گا اور میرے نام پر قتل کیا جائے گا۔ خدا مجھ کو زمین سے اوپر اٹھالے گا اور اس شاگرد غدار کی شکل تبدیل کر دے گا۔ تب ہر ایک یہی سمجھے گا کہ وہ مسیح ہے۔ مگر جب مقدس رسول آئے گا تو میرے نام سے یہ دھبہ اڑا دے گا۔ خدا تعالیٰ یہ قدرت اس لئے دکھائے گا کہ میں نے مسیحا کا اقرار کیا ہے۔ جو مجھے یہ بدلہ دے گا کہ میں زندہ ہوں اور موت کے دھبے سے بری ہوں۔“ برنباس نے کہا کہ مجھے آپ بتائیے وہ شاگرد کون ہے۔ میں اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں۔ آپ نے نہ بتایا اور کہا میری ماں کو یہ بات بتا دو تا کہ اس کو تسلی رہے۔

۱۳..... تب آپ نے آٹھویں دفعہ اور شلیم آ کر تبلیغ کی اور پوجاریوں نے رومانی فوج کو اطلاع دی کہ آپ بت پرستی کو برا کہتے ہیں۔ اس لئے وہ واجب القتل ہیں۔ مگر آپ کونہ پاسکے۔ کیونکہ آپ بحر جلیل میں کشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ مگر لوگوں نے ہجوم کیا تو آپ نے لنگر ڈال کر ان کو ساحل کے قریب تبلیغ کی اور نائن کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک یتیم کے گھر قیام کیا اور اس کی ماں نے بڑی خدمت کی۔ تب لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ مگر آپ وہاں سے بھاگ گئے اور پندرہ دن تک حواریوں کو بھی نہ ملے۔ تب یوحنا، یعقوب، اور برنباس نے آپ کو پا کر عرض کی اے معلم! تو ہم سے کیوں بھاگ گیا تھا؟ کہا کہ اس لئے بھاگا ہوں کہ شیطانی فوج میرے قتل کے سامان کر رہی ہے۔ دیکھ لو گے کہ پوجاری حاکم رومانی حاکم سے میرے قتل کا حکم حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ ان کو میرے بادشاہ بننے کا خطرہ لگا ہوا ہے اور میرا ایک شاگرد مجھ کو ان کے حوالے کر دے گا۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں بیچا گیا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ اس کو پکڑا دے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم پورا ہوگا۔ (چاہ کن راجا در پیش) مجھے ان کے ہاتھوں سے بچا کر دنیا سے اٹھالے گا۔

اب دوسرے دن آپ کے شاگرد دو دو ہو کر حاضر ہوئے اور باقیوں کا انتظار دمشق میں کیا تو ان کو موت کے متعلق وعظ کیا کہ انسان کو عارضی گھر کا خیال نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اصلی وطن (آخرت) کا سامان کرنا چاہئے۔ پھر کہا کہ میں تم کو اس لئے نہیں کہتا کہ میں اب مرجاؤں گا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا کے اختتام تک زندہ رکھا جاؤں گا۔

۱۵..... یہود آپ کا توشہ دان سنبھالے رہتا تھا کہ جس میں نذرانے ہوتے تھے۔ صرف اس خیال سے کہ آپ جب بادشاہ بن جائیں گے تو مجھے بھی اچھا عہدہ مل جائے گا۔ اب انکاری ہو کر کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو ضرور جان لیتا کہ میں اس کا چور ہوں۔ حکیم ہوتا تو

سلطنت لینے سے نہ بھاگتا۔ اب اس نے رئیس الکھنہ کو وہ تمام ماجرا سنا دیا جو نائین میں پیش آیا تھا۔ تو پوجاریوں نے یہ سوچا کہ آپ ہماری بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیابنی اسماعیل سے ہوگا اور داؤد علیہ السلام سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہو چکی ہے اور لوگ آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ مناسب ہے کہ حاکم رومی سے مدد لے کر آپ کو رات کے وقت گرفتار کیا جاوے۔ ورنہ اس کی بادشاہی میں ہم تباہ ہو جائیں گے۔

۱۶..... اس وقت تمام شاگرد دمشق میں تھے۔ آپ ہفتہ کی صبح کو ناصرہ تیسری دفعہ چلے آئے اور لوگوں سے ملاقات کر کے یہودیہ چلے گئے۔ راستہ میں شاگردوں نے ہر چند روکا مگر آپ نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ تم موجودہ فریسیوں کے خمیر سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ خمیر کی ایک گولی من بھر آئے کو خمیر بنا دیتی ہے۔

۱۷..... پھر نوویں دفعہ اور شلمیم میں آئے اور فوج گرفتار کرنے کو آئی۔ مگر قابونہ پاسکی۔ تو نہر اردن عبور کر کے آپ صحرا میں چلے گئے۔ پوجاریوں نے آ کر بحث کی تو تنگ ہو کر سنگباری شروع کر دی۔ مگر آپ بچ نکلے اور آپس ہی میں ہزار آدمی تک مرٹے تو آپ معاصحاب کے سمعان کے گھر آ گئے۔ نيقوذیموس نے کہا کہ آپ اور شلمیم سے نکل کر قدرون کے نالہ سے پار چلے جائیں تو آرام میں رہیں گے۔ آپ کی والدہ کو فرشتہ نے سب حال بتایا تو روتی ہوئی اور شلمیم آگئیں اور اپنی بہن مریم سالومہ کے گھر قیام کیا۔

۱۸..... اب رئیس الکھنہ نے یورشلیم میں جلسہ کیا۔ جس میں کچھ لوگ اس کی تقریر سن کر مرتد ہو گئے اور پوجاری ہیرودس اصغر کے پاس چلے گئے۔ اس سے فوج لے کر آپ کی تلاش کرنے لگے۔ مگر نہ پایا۔ اسی رات آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور جہاں جاؤں گا تکلیف محسوس نہ کروں گا۔ نيقوذیموس کے باغ میں آپ رہتے تھے کہ ایک دن آپ نے یہودا غدار سے فرمایا کہ جو تمہیں کرنا ہے جاؤ کرو تو وہ مخبری کرنے کو اور شلمیم چلا گیا۔ دوسروں نے سمجھا کہ عید صبح کے لئے کچھ خریدنے گیا ہے۔ تو یہودا نے رئیس الکھنہ سے جا کر کہا کہ اگر تیس روپے دے دو تو میں آج رات ہی حضرت مسیح علیہ السلام کو بمعہ گیارہ حواریوں کے تمہارے قبضہ میں کر دوں گا۔ رئیس نے رقم ادا کر کے یہودا کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا مشعلیں اور ہتھیار دے کر روانہ کر دیا۔

۱۹..... اس رات آپ نے یہودا کو روانہ کر کے نيقوذیموس کے باغ میں سو رکعت نماز پڑھی اور جب فوج آئی تو آپ نے حواریوں کو گھر جا کر جگایا مگر وہ نہ جا گئے۔ جب خطرہ زیادہ



ہو گیا تو خدا نے جبرائیل علیہ السلام، رفائیل علیہ السلام اور اوریل علیہ السلام کو بھیج کر گھر کی جنوبی کھڑکی سے آپ علیہ السلام کو اٹھالیا اور تیسرے آسمان پر اپنے پاس رکھ لیا۔

۲۰..... تب یہود اذور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا۔ جہاں سے آپ اٹھائے گئے تھے اور شاگرد سوسر ہے تھے اور اس نے ان کو جگانا شروع کر دیا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس وقت اپنی قدرت دکھائی کہ وہ بولی اور شکل میں آپ کے مشابہ بن گیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو تلاش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ یہ وہی مسیح علیہ السلام ہے تو ہم نے کہا کہ اے معلم تو ہی تو ہمارا معلم ہے۔ کیا تو ہم کو بھول گیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا: ”احقوا! یہود! احقر یوٹی کو نہیں جانتے ہو۔“ اتنے میں سپاہی اندر آ گئے اور اس کو مسیح سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ ہر چند اس نے کہا کہ میں وہ مسیح نہیں ہوں۔ مگر انہوں نے اسے مخول سمجھ کر ایک نہ سنی۔ کہا کہ میں ہی تو تم کو لایا ہوں۔ تم مجھے ہی باندھ لو گے۔ سپاہیوں نے جانا کہ وہ ان سے فریب کرتا ہے۔ تب انہوں نے اس کو کئے اور لاتیں مار کر ذلیل کیا اور شلیم کو گھنٹینے ہوئے لے چلے اور یوحنا اور پطرس ساتھ گئے اور انہوں نے برنباس سے آ کر کہا کہ تمام کاہن جمع تھے اور قتل کرنے پر اتفاق کیا تھا اور یہود نے وہاں دیوانگی سے بہت باتیں کیں۔ مگر انہوں نے مخول سمجھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہی وہ مسیح ہے اور موت سے ڈر کر باتیں بناتا ہے اور جنون کا اظہار کر رہا ہے۔

۲۱..... صبح جلسہ ہوا اور رئیس الکہنہ نے گواہی لی کہ یہی مسیح ہے۔ میں یہ کیوں کہوں کہ رئیس نے ہی جانا کہ وہ مسیح ہے۔ بلکہ تمام شاگردوں نے بھی اعتقاد سے کہا کہ یہ وہی مسیح ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام بھی اپنے اقارب و احباب کے ہمراہ وہیں آ گئیں۔ آپ نے بھی یہود کو اپنا بیٹا مسیح سمجھ کر رونا شروع کر دیا۔ برنباس کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے اس وقت وہ بات بھول گئی تھی کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دنیا سے اٹھالیا جاؤں گا اور دوسرا شخص میری جگہ عذاب دیا جائے گا اور میں دنیا کے خاتمہ تک نہ مروں گا۔ تب برنباس، یوحنا اور مریم صلیب کے پاس گئے تو یہود کو مشکلیں باندھ کر رئیس کے سامنے لائے۔ تب اس نے تعلیم اور شاگردوں کے متعلق پوچھا۔ مگر یہود نے جواب نہ دیا۔ گویا کہ وہ دیوانہ ہے۔ پھر خدا کی قسم دلا کر پوچھا کہ سچ کہو۔ تب اس نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں وہی یہود احقر یوٹی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسیح کو تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ مگر میں نہیں جانتا کہ تم کیوں پاگل ہو گئے ہو اور چاہتے ہو کہ میں ہی مسیح ناصری بن جاؤں؟

۲۲..... تب اسے مشکلیں باندھے ہوئے پیلطس (حاکم اور شلیم) کے پاس لے

گئے اور وہ در پردہ حضرت مسیح کا خیر خواہ تھا اور چونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہود اسی مسیح ہے۔ اس لئے کمرہ میں لے جا کر پوچھنے لگا کہ مسیح بتاؤ کہ رئیس الکہنہ نے معہ تمام قوم کے کیوں تجھ کو میرے سپرد کیا ہے۔ کہا کہ میں مسیح کہوں گا تو تم نہیں مانو گے۔ حاکم نے کہا کہ میں یہودی نہیں ہوں سچ بتاؤ۔ مجھے اختیار ہے کہ چھوڑوں یا قتل کروں۔ کہا کہ میں یہود اسرائیل یوطی ہوں اور یسوع جادوگر نے مجھے اپنی شکل پر بدل دیا ہے۔ مگر رئیس اور قوم نے شور مچایا کہ یہی مسیح ناصری ہے۔ ہم اسے خوب پہچانتے ہیں۔ تب حاکم نے خود بری الذمہ ہونے کے لئے اس کو ہیرودس اصغر کے پاس بھیج دیا۔ کیونکہ مسیح کو جلیل کا باشندہ تھے۔ یہودانے وہاں بھی جا کر انکار کیا۔ مگر اوروں کی طرح ہیرودس نے بھی اس پر ہنسی اڑائی اور اس کو سفید کپڑے پہنادیئے۔ (جو پاگلوں کا امتیازی لباس تھا) اور بیلاطس کے پاس واپس روانہ کر دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو انصاف عطا کرنے میں کمی نہ کرے۔ تب اس نے اس کو ان کے حوالے کر دیا کہ مجرم ہے اور موت کا مستحق ہے تو وہ اسے حجیہ پہاڑی پر لائے۔ جہاں صلیب دیا کرتے تھے۔ وہاں اسے ننگا کر کے صلیب پر لٹکا دیا تو یہود سخت چلایا۔ برنباس کہتا ہے کہ یہود کی آواز چہرہ اور تمام شکل حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ ہونے میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شاگردوں اور مومنین تمام نے یہی سمجھا کہ وہ مسیح ہے۔ تب بعض لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو جھوٹا نبی سمجھ کر مرتد ہو گئے۔ کہتے تھے کہ اس کے معجزات جادو تھے اور یہ کہنا غلط نکلا کہ میں نہیں مروں گا۔ جب تک کہ دنیا کا خاتمہ قریب نہ ہو جائے اور وہ دنیا سے لے لیا جائے گا اور جو لوگ دین پر مضبوطی سے قائم رہے انہوں نے بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بھول گئے۔ کیونکہ انہوں نے یہود کو آپ سے بالکل مشابہ دیکھا تھا اور اسی غلط فہمی میں۔ تھوڈیوس اور یوسف اباریمائٹی کی سفارش سے یہود کی لاش بیلاطس سے حاصل کر کے یوسف کی نئی قبر میں (جو اس نے پہلے بنا رکھی تھی) ایک مورطل خوشبو بھر کے یہود کو دفن کیا۔

۲۳..... تب برنباس، یعقوب اور یوحنا مریم کے ہمراہ ناصرہ گئے اور وہ فرشتے جو مریم علیہا السلام کے محافظ تھے آسمان پر گئے اور تمام ماجرا مسیح علیہ السلام سے کہا تو آپ نے والدہ کا غم سن کر خدا سے دعا مانگی کہ مجھے والدہ سے ملنے کی اجازت ہو۔ تب فرشتے اپنی حفاظت میں آپ کو نور کے شعلوں میں مریم علیہا السلام کے گھر واپس لے آئے۔ جہاں آپ کی والدہ اور دونو خالہ مرثا اور مریم مجدلیہ اور برنباس یوحنا، یعقوب اور پطرس مقیم تھے۔ آپ کو دیکھ کر یہ سب بیہوش ہو گئے۔ مگر آپ نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں زندہ ہوں۔ تب والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تو پھر خدا نے تیری تعلیم کو کیوں داغدار بنایا اور کیوں اقارب و احباب کے نزدیک تیری موت دکھلائی اور بدنام

کیا۔ فرمایا: ”اماں سچ جانو، میں نہیں مرا اور مجھ کو اللہ نے دنیا کے خاتمہ تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر چار فرشتوں کو شہادت کے لئے طلب کیا۔ تب فرشتوں نے تصدیق کی۔“ تب برنباس نے پوچھا کہ چوروں کے درمیان قتل ہونے کا دہبا تو آپ پر ہمیشہ لگا رہے گا۔ فرمایا کہ: ”میرے بعد محمد رسول اللہ ﷺ آئیں گے اور یہ دہبا اڑائیں گے اور لوگوں پر واضح کر دیں گے کہ میں زندہ ہوں۔“ پھر برنباس کو آپ نے اپنے حالات قلمبند کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ میری والدہ کو جبل زیتون میں لے جاؤ۔ کیونکہ میں وہاں سے آسمان کو چڑھوں گا۔ تب وہ مریم علیہا السلام کو وہاں لے گئے اور فرشتے تمام کے سامنے مسیح علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گئے۔

تمت اقتباسات انجیل برنباس، مطبوعہ لاہور

خلاصہ یہ ہے کہ یہ انجیل صاف بتا رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ بحکم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہود اپنے کفر کردار میں مشابہ با مسیح بن کر مصلوب ہو اور مسیح علیہ السلام نے اخیر میں یہ بھی فرمادیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ (احمد، محمد، مسیا) آپ سے قتل و صلب کا دہبہ اٹھادیں گے۔ اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے ہم کس زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ (وی آتسی من بعدی اسمہ احمد) کی پیشین گوئی سے مرزا قادیانی مراد ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو یہود کے موافق اپنے زعم باطل میں آپ کو قتل اور مصلوب کر چکے تھے اور دشمنان اسلام کو اپنی طرف سے کامیابی دے چکے تھے۔ صرف ہڈی توڑنے کے سوا باقی سارا کام ختم ہو چکا تھا۔

۲..... اقتباس از انجیل سیاہ روسی مسٹر ٹکنس نو کروچ

”ایک بچہ پیدا ہوا جس میں خدا بولتا تھا۔ اس نے توحید کی دعوت دی اور اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو سودا گروں کے ہمراہ ملک سندھ کو نکل گیا اور بیارس و جگن ناتھ کے مصافحات میں چھ سال تک اپنے کام میں مشغول رہا اور بتایا کہ وید خدا کا کلام نہیں ہیں اور یہ بھی کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ نہیں سنتے۔ اس پر براہمنوں نے اس کو مار ڈالنے کی ٹھان لی۔ کیونکہ عام لوگ اس کے تابع ہو گئے تھے۔ یسوع کو اس ارادہ کی خبر لگ گئی تو رات ہی رات جگن ناتھ سے نکل کر نیپال کو چلا گیا۔ پھر کوہ ہمالیہ کو عبور کرتا ہوا راجپوتانہ آ پہنچا اور وہاں سے فارس پہنچ کر تبلیغ شروع کی۔ تو وہاں کے بت پرستوں نے اس کو وعظ توحید سے روک دیا تو ملک شام میں آ گیا اور اس وقت اس کی عمر ۲۹ سال تھی۔ اب جانجا وعظ کرنا شروع کیا اور ہزاروں لوگ تابع ہو گئے۔ چند حکام نے بادشاہ پلاطوس سے جا کر

شکایت کی کہ عیسیٰ نامی ایک واعظ اس ملک میں وارد ہوا ہے جو اپنی سلطنت کی دعوت دیتا ہے اور تیرے خلاف لوگوں میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تابع بھی ہو گئے ہیں۔ پلاطوس نے اسے گرفتار کر کے مواذب (مذہبی سرداروں) کے پیش کیا۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم آئے تو لوگوں نے بڑے اعزاز سے آپ کا استقبال کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت جلد تم لوگ ظالموں سے رہائی پا کر ایک قوم بن جاؤ گے اور تمہارا دشمن بہت جلد تباہ ہو جائے گا۔ جو خدا سے خوف نہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں میں نے سنا تھا کہ میرے بھائی اور بہنیں ظالموں کے ہاتھ گرفتار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جا بجا شہر بشہر وعظ کہنا شروع کیا اور عبرانیوں سے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ بہت جلد تم نجات پاؤ گے۔ تب جاسوسوں نے پوچھا کہ کیا ہم قیصر روم کے ماتحت رہ کر اپنے بادشاہ پلاطوس کا حکم مانتے رہیں یا اپنی نجات کا انتظار کریں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم قیصر روم سے نجات پاؤ گے۔ بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم بہت جلد گناہوں سے نجات پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف مقامات پر توحید کا وعظ تین سال تک کیا اور آپ کی عمر تیس سال تک پہنچ گئی۔

جاسوسوں نے اپنا کام شروع رکھا اور پلاطوس کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ کہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو سچ مچ ہی بادشاہ نہ تسلیم کر لیں۔ اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم لگا کر آپ کو اندھیری کوٹھری میں بند کیا گیا اور مجبور کیا کہ آپ بغاوت کا اقبال کریں۔ مگر آپ نے نہ کیا اور تکالیف برداشت کرتے رہے اور جب دربار میں آپ پیش کئے گئے تو پلاطوس نے پوچھا کہ کیا تم نے یوں نہیں کہا کہ مسیح کو خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت پھیلا کر خود بادشاہ بن جائے؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ جب تم صلیب پر قتل کر سکتے ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں سے اس جرم کا اقبال کرایا جائے۔ اس روکھے جواب پر پلاطوس نے غصہ کھا کر آپ کو صلیب پر لٹکانے کا حکم دیا اور باقی مجرموں کو رہا کر دیا تو سپاہیوں نے آپ کو بمعہ دو اور چوروں کے صلیب دیا تو سارا دن لاش صلیب پر رہی۔ سپاہیوں کا پہرا تھا تا بعد از لوگ دیکھ دیکھ کر روتے تھے اور ان کو اپنی جان کا خوف بھی لگ رہا تھا۔ شام کے قریب مسیح کی روح خدا کے پاس چلی گئی۔ اب پلاطوس کو ندامت آئی کہ اس نے برا کیا ہے۔ اس لئے اس نے آپ کی لاش آپ کے رشتہ داروں کے سپرد کی۔ جس کو انہوں نے صلیب خانہ کے پاس ہی دفن کر دیا اور لوگ اس قبر کی زیارت کرنے لگے۔

### ۳..... اکمال الدین و اتمام النعمۃ للفقہی

مرزا قادیانی (روضۃ الصفا جلد اول ص ۱۳۳) سے لکھتے ہیں کہ یہودی آپ کے عہد میں بارہ قبائل تھے۔ جن میں سے نو قبائل کو بخت نصر نے تبت، کشمیر، ہند اور افغانستان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کی وضع قطع اور شہروں یا بستیوں کے نام وہی ہیں جو ملک شام میں تھے۔ مثلاً باہل، گلگت، طور، صور، صیدا، تخت سلیمان، نیوی وغیرہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد کشمیر کو آئے اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی بھٹیروں کی خبر لی اور ۸ سال بعد وفات پا گئے اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے اپنی معشوقہ مریم کو خدا کے سپرد کیا اور وہاں سے کوہ جلیل میں آئے جو بیت المقدس سے تیس میل کے فاصلہ پر ہے اور دشمنوں سے خوف کھا کر اس پر چڑھ گئے۔ اس وقت پہاڑ پر ابر چھایا ہوا تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ آپ آسمان کو چڑھ گئے ہیں۔ حواریوں نے بھی یہی خیال کر لیا تھا یا یوں اصل واقعہ پر پردہ ڈالتے ہوئے رفع سماوی کا قول ظاہر کیا۔ مگر آپ نے شہر نصیبین پہنچ کر سلطان اڑیسہ کو خط لکھا کہ میں اب آسمان کو جاؤں گا اور تمہاری طرف چند حواری بھیجتا ہوں۔ کتاب کروسی فلشن میں ہے کہ جب کانفس کا ہنوں کے سردار کو معلوم ہوا کہ آپ صلیب نہیں دیئے گئے تو اس نے قسیر روم کو شکایتی خط لکھا کہ پلاطوس نے یوسف اور حواریوں سے سازش کی بناء پر مسیح علیہ السلام کو صلیب سے بچا لیا ہے تو پلاطوس کو عتاب نامہ پہنچا۔ جس سے اس نے غصہ کھا کر یوسف کو قید کر لیا اور ایک رسالہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تلاش میں روانہ کیا کہ وہ آپ کو پکڑ کر واپس لائیں۔ مگر چونکہ آپ کشمیر پہنچ چکے تھے۔ وہاں تک کوئی نہ پہنچا۔ کشمیریوں نے یسوع کے نام کو کچھ تبدیل کر کے یوں کہنا شروع کر دیا تھا۔ یوز آصف، یوز آسف پھر ارض صولابت میں آئے اور وہاں تبلیغ وحدانیت کی۔ وہاں سے نکل کر بہت شہروں میں وعظ کیا اور کشمیر کو واپس آئے اور وہیں قیام کیا اور وہیں ۸ سال بعد واقعہ صلیب فوت ہو گئے۔

اس تحریر میں مرزا قادیانی نے خواہ مخواہ یوز آصف کی سوانح عمری کو یسوع کی زندگی پر چسپاں کیا ہے۔ ورنہ اصل کتاب دیکھنے پر یہ تحریر ہر طرح سے مخالف ہے۔ کیونکہ اس میں یہ تحریر نہیں ہے کہ اس قبر کا مالک کبھی بھی بیت المقدس سے جان بچا کر زندگی بسر کرنے کو یہاں آیا تھا۔ کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ: ”راجہ جمیسر ملک صولابت (سولابت) کا باشندہ تھا۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام اس نے یوز آصف رکھا۔ جب وہ بالغ ہوا تو حکیم منو ہرنکا سے اس کے پاس آیا۔ راجہ نے اس کی عزت و آبرو سے تواضع کی اور اپنے

بیٹے یوز آصف کا اتالیق مقرر کیا۔ شہزادہ نے اس سے مذہبی تعلیم حاصل کی اور دنیا سے بے تعلق رکھنے کی تعلیم نے اس کا دل بادشاہت سے برداشتہ کر دیا اور حکیم منوہر اس کا تعلیمی نصاب مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو ایک دفعہ شہزادہ کو فرشتہ نظر آیا۔ اس نے خدا کی رحمت کی اسے بشارت دی اور کچھ راز بتایا۔ جس پر وہ عمل پیرا رہا۔ پھر فرشتہ نے اسے حکم دیا کہ سفر کے لئے تیاری کرے تاکہ میں تیرے ہمراہ یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے بعد شہزادہ ہجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تو اس نے ایک صحرا میں پانی کے پاس ایک درخت دیکھا۔ جہاں اس نے کچھ دن قیام کیا اور وہاں اس کو وہی فرشتہ نظر آیا۔ پھر اس نے بستیوں میں وعظ کہنا شروع کیا تو کچھ مدت کے بعد اپنے اصلی وطن سولابت کو واپس چلا گیا اور والدین نے بڑے تپاک سے اس کا استقبال کیا اور شہزادہ نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ کچھ مدت کے بعد کشمیر میں آیا اور وہاں کے باشندے اس سے مستفید ہوئے اور اس نے ان کو بھی توحید کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ یہیں رہنے لگا اور جب مرنے لگا تو اپنے چیلے یا بد کو توحید کی وصیت کی اور جہاں فانی سے رخصت ہوا۔

اب اس عبارت کو حضرت مسیح علیہ السلام پر منطبق کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ سولابت کا معنی بیت المقدس کیا جائے اور حکیم منوہر سے مراد روح القدس آیا جائے۔ اسی طرح والدین سے مراد یوسف اور مریم ہوں اور ان کو کسی علاقہ کا بادشاہ بھی تصور کیا جائے اور جب تک یہ امور ثابت نہ ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے سوانح سے اس عبارت کا تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔

۴..... مؤرخ طبری

الف..... مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اور یوسف (چچا اور شہتہ دار) دونوں ایک مسجد میں خادم تھے۔ جو جبل صیہون کے پاس تھی۔ آپ ایک دن چشمہ سے پانی لینے گئیں تو جبرئیل نے نفع کیا۔ جس سے آپ کو حمل رہ گیا۔ یوسف نے بدظن ہو کر پوچھا کہ بیچ کے سوا بھی کوئی پودا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب پودے ابتداء میں بغیر بیج کے تھے۔ آدم کا بھی ماں باپ نہ تھا۔ تو یوسف خاموش ہو گئے اور جب وضع حمل کے آثار پیدا ہوئے تو یوسف آپ کو مصر لے گئے۔ ابھی دور ہی تھے کہ دردزہ شروع ہو گیا تو گدھے پر سے اتر کر ایک کھجور کے نیچے ڈیرہ لگا دیا اور وہاں حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ سردی کا موسم تھا۔ فرشتوں نے آ کر آپ کو تسلی دی۔ اس رات تمام بت سرنگوں ہو گئے۔ شیاطین آپ لپکے گرنا کام رہے اور یہ عہد کیا کہ اس کی زندگی میں اس کا کام تمام کر ڈالیں گے۔ مجوسی ستارہ دیکھ کر مر، لوبان اور سونا کی نیاز چڑھا گئے۔ کیونکہ مر سے شفا ہوتی ہے اور اس نبی سے شفا حاصل ہوگی۔ لوبان اس لئے کہ اس کا دھواں سیدھا آسمان کو جاتا

ہے اور یہ نبی بھی سیدھا آسمان کو جائے گا اور سونا اس لئے کہ تمام مال و دولت کا سردار ہے اور یہ نبی بھی اپنے زمانہ میں بہترین شخص ہوگا۔ (ہیرودس کا قصہ مذکور ہے) پھر بارہ سال آپ مصر میں رہے۔ (اور یہی ربوہ کا مقام ہے) آپ زمیندار کے گھر رہتے تھے۔ ایک رات اس کی چوری ہوگئی تو آپ نے وہاں کے خیرات خوار جمع کر کے ایک اندھے اور ایک لوجے کو پکڑ کر کہا کہ تم نیچے بیٹھو اور اندھے کو کا ندھے پر اٹھاؤ۔ اس طریق سے وہ زمیندار کے خزانہ تک پہنچ گئے تو آپ نے ان کو چور ثابت کیا اور واپس شام میں آ گئے۔ تیس سال کے تھے کہ آپ کو نبوت ملی اور تین برس کے بعد خدا نے آپ کو اپنی طرف اٹھالیا۔

ب..... ایک روز تین شیطانوں نے انسانی بھیس میں ایک جلسہ کیا۔ لوگ جمع ہوئے تو ایک شیطان نے کہا کہ مسیح خود خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدا رحم میں نہیں آتا۔ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ دوسرا مستقل خدا ہے۔ اب عیسائیوں میں شرک پیدا ہو گیا اور جب واقعہ صلیب قریب تھا تو آپ نے حواریوں سے کہا کہ میرے لئے تاخیر اجل میں دعا کرو۔ مگر وہ سب سو گئے اور دعا نہ کرنے پائی تو آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور ایک حواری تیس درہم سے مجھ کو بیچ ڈالے گا۔ چنانچہ وہ تیس درہم رشوت لے کر آپ کو گرفتار کرانے آیا تو وہ خود ہی آپ کا شبیہ بن گیا اور انہوں نے اس کو صلیب دے دیا اور آپ نے بعد از صلیب ایک اور جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ تب حواری گئے تو ایک کم تھا اور وہ نہ تھا کہ جس نے خبری کی تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ پھانسی لے کر مر گیا ہے۔ دہب کہتے ہیں کہ سات گھنٹے مسیح مرے تھے۔ پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے۔ عیسائیوں کا بھی یہی مذہب ہے۔ پھر آسمان سے اتر کر مریم مجدیہ کے ہاں اتر کر حواریوں کو تبلیغ کے لئے روانہ کیا۔ چنانچہ پطرس اور پولس روما کو گئے۔ (پولس تب حواری نہ تھا) متی اور اتدراہس انسان خواروں کے ملک کو فیلبوس افریقہ کو، کنس فسوس (قریہ اصحاب الکہف) کو، یعقوب اور شلیم کو، ابن تلماعرب کو، اور سیمون بربر کو روانہ ہوئے اور جو حواری باقی رہ گئے تھے ان کو یہودیوں نے دھوپ میں بٹھا کر عذاب دینا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ سلطان روم نے عیسائیت قبول کی تو یہودیوں کو مار ڈالا اور صلیب پرستی شروع ہوگئی۔

ج..... ”قال الطبری الشام صار بعد طيبا ريوس الى جايوس ثم ابنه قلو ديوس ثم نيرون الذي قتل پطرس وبولس وصلبه منكسائم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل . فالزمان بين

تخریب بخت نصر الی الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ۹۲۱ سنة وبين ظهوره ومولد عيسى ۳۰۳ سنة وبين مولده وارتفاعه ۳۲ سنة وبين ارتفاعه الی الهجرة ۵۸۶ سنة“  
 ۵..... ابن جریر

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کو ایذا رسانی شروع کی۔ تو آپ بمعہ والدہ کے سفر میں ہی رہنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے حاکم دمشق کے پاس شکایت کی کہ بیت المقدس میں ایک شخص بغاوت پھیلا رہا ہے تو اس نے حاکم بیت المقدس کی طرف حکم بھیجا کہ ایسے آدمی کو فوراً سولی چڑھا کر قتل کر دو۔ جب یہودی گرفتار کرنے کو آئے تو اس وقت آپ اپنے حواریوں میں بیٹھے تھے (کہ جن کی تعداد ۱۲ سے ۱۸ تک بتائی گئی ہے) تو انہوں نے بروز جمعہ بعد العصر آپ کو محاصرہ میں لے لیا۔ تب آپ نے کہا کہ میرا شبیہ کون بنا چاہتا ہے تاکہ میری جگہ مصلوب ہو کر میرے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک نو عمر جوان آدمی اٹھا۔ آپ نے ہر چند ٹالا۔ مگر اس کے سوا کسی نے جرأت نہ کی تو جس کو ٹھہری میں تھے اس کا ایک روشندان کھول کر نیند کی حالت میں آپ کو فرشتے آسمان پر لے گئے۔ جب کوٹھری سے حواری باہر آ گئے تو شبیہ کو لے جا کر صلیب پر لٹکا دیا۔ اب جو لوگ کمرہ میں تھے انہوں نے کہا کہ مسیح آسمان پر ہے اور جو لوگ باہر تھے ان کو یقین ہو گیا کہ مسیح کو انہوں نے قتل کر ڈالا ہے۔

ابن جریر نے خود آنحضرت ﷺ کا بیان بھی نقل کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل روما وابق یا عمان میں اتریں گے تو مدینہ شریف سے ایک لشکر مقابلہ کو نکلے گا اور رومی کہیں گے کہ ہمارے قیدی واپس کرو تو مسلمان انکار کریں گے پھر لڑائی شروع ہوگی تو ایک ٹلٹ مسلمان بھاگ جائیں گے۔ ایک ٹلٹ شہید ہوں گے۔ باقی ایک ٹلٹ روم پر فتح پائے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ غنیمت تقسیم ہو رہی ہوگی تو کوئی آواز دے گا کہ مسیح دجال آ پڑا ہے تو وہ ملک شام میں پہنچیں گے تو دجال کو دیکھ لیں گے کہ وہ آ رہا ہے۔ تب لڑائی کی صفیں تیار کریں گے تو نماز فجر کا وقت ہو جائے گا۔ تب حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ مگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر جب آپ کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ مگر آپ اپنے نیزہ سے اس کو خود جا کر قتل کریں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ معراج کی رات جب حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی تو قیامت کا ذکر چھڑ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ



مجھے خدا سے وعدہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو میرے پاس دو نیزے ہوں گے تو وہ مجھے دیکھ کر پگھلنا شروع ہوگا اور جب یہود کا خاتمہ ہوگا اور لوگ واپس چلے جائیں گے تو یا جوج ماجوج نکل کر تباہی ڈالیں گے تو میری دعا سے خدا ان کو ہلاک کر دے گا اور ان کے جسم بارش کے ذریعہ سمندر میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ (ابن ماجہ)

آپؐ نے یوں بھی فرمایا کہ اس وقت (امام مہدی علیہ السلام کے ماتحت) تین شہر ہوں گے ایک بحرین میں، دوسرا شام میں اور تیسرا حیرہ میں۔ لوگ اختلاف رائے میں ہوں گے کہ مسیح دجال ستر ہزار فوج لے کر نکلے گا کہ جن میں اکثر یہودی اور عورتیں ہوں گی اور ان کے سر پر تاج ہوں گے۔ تب مسلمان جبل اقیق پر جمع ہوں گے اور بھوک سے تنگ آئیں گے۔ تب آواز آئے گی کہ امداد نبی آگئی ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے۔ (ابن ماجہ)

ایک وعظ میں آپؐ نے فرمایا کہ خروج دجال کی خبر ہر ایک نبی دیتا رہا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اگر میرے زمانہ میں ظاہر ہوا تو میں خود سنبھال لوں گا۔ میرے بعد ظاہر ہوا تو تم اپنا بندوبست کرو۔ شام و عراق کے درمیان خروج کرے گا تو دائیں بائیں پھیلے گا۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ: ”انا نبی، لا نبی بعدی“ میں نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کہے گا کہ میں رب ہوں۔ ایک آنکھ بیٹھی ہوگی۔ دوسری ابھری ہوگی۔ پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ جسے ہر خواندہ و ناخواندہ شناخت کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گے۔ تم کو اگر دوزخ میں ڈالے تو سورہ کہف پڑھو تا کہ اس کی آگ سرد ہو جائے۔ ایک عربی کے والدین زندہ کرے گا تو دو شیطان اس کے والدین بن کر کہیں گے کہ بیٹا یہی رب ہے۔ اسے مان لو۔ ایک کو دو حصوں میں چروا ڈالے گا۔ پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہے گا وہی جو تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ تم دجال ہو۔ آج مجھے خوب اطمینان ہو گیا ہے، وہ بارش اور قحط بھی اپنے ساتھ رکھے گا۔ جو قوم اسے مانے گی اس کو بھرپور کر دے گا اور جو نہ مانے گا اسے تباہ کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ پر چونکہ فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔ اس لئے وہاں نہ جاسکے گا۔ مگر مدینہ شریف کے پاس ضریب احمر کے مقام پر کھڑا ہو کر لوگوں کو دعوت دے گا۔ تو منافق زن و مرد نکل کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص پڑ جائے گا۔ اس وقت عرب قلیل تعداد میں امام صاحب کے ماتحت بیت المقدس میں جمع ہوں گے تو صبح کی نماز میں نزول مسیح ہوگا۔ دجال دیکھ کر بھاگے گا تو آپؐ فرمائیں گے کہ تیرا قتل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کر قتل کریں گے اور یہود کو شکست ہوگی۔ شجر و حجر بھی ان کو پناہ نہ دیں گے۔ طرف ایک غرقہ درخت کی آڑ میں پناہ

لے سکیں گے۔ اس کی سلطنت چالیس دن ہوگی۔ یا جس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگی جن میں سے ایک دن ایک سال کا ہوگا اور آخری دن ایک سلطنت کا کہ ایک دروازہ سے نکل کر دوسرے تک پہنچو گے تو شام ہو جائے گی اور نماز اپنے اپنے وقت پر اندازہ لگا کر پڑھنی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تین سال پہلے ایک ایک حصہ کم ہوتے ہوتے بارش بالکل بند ہو جائے گی اور عبادت گزار شیخ و تہلیل سے پیٹ بھر لیا کریں گے۔ (کنز العمال)

اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا عہد مبارک ہوگا۔ آپ حاکم عادل ہوں گے۔ یہود پہلے ہی تباہ ہو چکے ہوں گے تو اور بھی تباہ ہو جائیں گے۔ جزیہ قبول نہ ہوگا۔ مال و دولت آپ کے عہد میں بکثرت ہوگی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک انار ایک کنبہ کو کافی ہو جائے گا۔ آپ صلیب اور خنزیر کو نیست و نابود کر دیں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف خدا ہی کی پرستش ہوگی۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہو جائیں گے۔ زمین جو ان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت جیسی نباتات نکالے گی۔ گھوڑے چند روپوں میں ملیں گے۔ کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑائی کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ بیل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کیونکہ کھیتی میں بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔ نزول کے وقت آپ کے سر سے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ پر دوز عفرانی چادریں ہوں گی۔ آپ کے دم سے یہودی خود ہی بھسم ہوں گے۔ باب لد میں دجال کو قتل کریں گے۔ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس ٹھہریں گے۔ آپ نوح روحاء کے مقام سے حج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ شادی کریں گے۔ آپ کے بچے ہوں گے۔ آپ کی وفات پر اہل اسلام جمع ہو کر نماز جنازہ پڑھیں گے اور روضہ نبویہ میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ (کنز العمال)

یا جوج ماجوج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام جبل طور پر ہوگا اور یہ قوم بحیرہ طبریہ کو بھی پی کر خشک کر دے گی۔ پھر ان کے آخری حصہ کا گذر ہوگا تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ مسلمان ایسے تنگ ہوں گے کہ ایک بیل کا سر یا خود ایک بیل سو درہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت کی بددعا سے ان کو پھوڑا نکل کر تباہ کر دے گا اور ان کی لاشوں سے بدبو پھیل جائے گی۔ پھر دعا کریں گے تو بڑے بڑے پرندان کی لاشیں اٹھالے جائیں گے اور بعد میں بارش ہو کر زمین صاف ہو جائے گی اور خوب کھیتی ہوگی۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی تو مسلمان مر جائیں گے اور بے ایمان باقی رہیں گے۔ جن پر قیامت قائم ہوگی۔ (کنز العمال)

ان تصریحات کو پیش نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام مہدی الرضوان کی سلطنت ملک

شام میں اس وقت ہوگی کہ قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ عرب کی سلطنت از سر نو قائم ہوگی۔ یہودی قوم کا کانادجال خدائی دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کو مٹانے کے لئے نکلے گا۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے نازل ہونے سے یہودی سلطنت بالکل تباہ ہو جائے گی اور ملک شام میں کم از کم چالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولاد ہو کر مدینہ شریف میں روضہ نبویہ کے اندر دفن ہوں گے اور بعد میں اسلام مٹ جائے گا اور بد کرداروں پر قیامت قائم ہوگی۔

(کنز العمال، ابن جریر)

یہ واقعات بالکل صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت مسیح اور حضرت امام مہدی نکلک شام میں ظاہر ہوں گے۔ ان کا تعلق ہندوستان وغیرہ سے نہیں ہے اور جو لوگ اس پیشین گوئی کو افسانہ خیال کر کے تکذیب کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ زمانہ کے انقلابات میں آئے دن کئی ایک نئی نئی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ جن کا کسی کو وہم و خیال تک بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے واقعات پیش آئیں جن کا اثر قسطنطنیہ تک بھی پہنچ جائے۔ اگرچہ اس وقت اس پیشین گوئی کے آثار موجود نہیں ہیں۔ لیکن موجود ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ خدا جب چاہتا ہے تو گریٹ وار پیدا کر کے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے اور مسلمان ایسے مٹ جاتے ہیں کہ لنگوئی سنبھالنے کو مستقل حکومت خیال کر لیتے ہیں۔

جس طرز پر اسلامی تصریحات نے ظہور مہدی اور نزول مسیح کو پیش کیا ہے وہ حاکمانہ رنگ ہے۔ محکومانہ یا رعیتانہ بواسطہ میں نہیں آتی اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کے ظہور پذیر ہونے میں کچھ اشکال بھی نہیں۔ گو آج تک مجموعی طور پر یہ تمام واقعات پیش نہیں آئے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ سرے سے ناممکن بھی ہیں۔ دنیا کی مادی ترقی، انکشافات جدید اور علوم و فنون کی تہذیبیاں یا اقوام میں سیاسی اور تمدنی انقلابات یہ سب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن کے سامنے اس پیشین گوئی کا اظہار اصلی رنگ میں دکھائی دینا کوئی ناممکن بات نہیں رہ جاتا اور جن لوگوں نے جلت پسندی سے یا اس پیشین گوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلط فہمی اور مغالطہ اندازی سے یہ یقین کر لیا ہے یا یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں یا یہ کہ انکا جائے وقوع ہندوستان یا کوئی دوسرا ملک ہے انہوں نے دیدہ دانستہ اس پیشین گوئی کے تمام اجزاء پر نہ کبھی خود غور کیا ہے اور نہ کسی کی توجہ اس طرف منعطف ہونے دی ہے۔ ورنہ بالکل صاف ہے کہ خروج مہدی اور نزول مسیح کے آثار ابھی تک نمایاں طور پر کہیں بھی نمودار نہیں ہوئے اور قیامت کے آثار یعنی علامات صغریٰ ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں البتہ ان میں ترقی ہو رہی ہے۔ معلوم

نہیں کب تک پایہ تکمیل کو پہنچ کر ایک دفعہ پھر اسلام ہی اسلام نظر آنے کا موقعہ پیدا ہوگا۔

حضور ﷺ نے قرب قیامت کے علامات سینکڑوں بیان کئے ہیں۔ جن میں سے جس قدر آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو قلمبند کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ: ”بد زبان لوگ پیدا ہوں گے۔ جو سلام بھی گالیوں میں دیں گے۔ کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونا باعث توہین ہوگا۔ جھوٹ زیادہ ہوگا اور سچائی بہت کم ہوگی۔ اپنی ظنی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا۔ زمانہ ساز آدمی بہتر خیال کیا جائے گا۔ قرآن کی بجائے خانہ زاد اصول پیش کئے جائیں گے۔ لیکچرار بہت تیار ہوں گے۔ شراب نوشی بکثرت ہوگی۔ اسلامی جہاد ترک ہو جائے گا۔ شریف انفس کس مپرسی کے عالم میں ہونگے اور کم ذات عالی قدر ہو جائیں گے۔ دنیا میں عامل بالقرآن نہ رہیں گے نو عمر ایک دوسرے پر گدھوں کی طرح چڑھیں گے۔ تجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی اس کام میں امداد کریں گی اور جہاں کہیں مال جائے گا نفع نہ ہوگا۔ رذیل عالم ہوگا اور شریف جاہل گدھوں اور کتوں کی طرح برب سڑک، عورتوں اور بچوں سے بد فعلی کی جائے گی۔ چھوٹے پر رحم نہ ہوگا اور بڑے کی عزت نہ ہوگی۔ حرام زادے کثرت سے ہوں گے۔ بلا ضرورت قسم کھائیں گے۔ ناگہانی موتیں واقع ہوں گی۔ ایمانداری کم ہو جائے گی۔ بے ایمان اپنی اپنی قوم پر حکومت کریں گے۔ عورتیں اکثر کر چلیں گی۔ جاہل عبادت گزار ہوں گے اور اہل علم بے عمل ہوں گے۔ شراب کو شربت بنا لیں گے اور سود کو خرید و فروخت، رشوت ستانی تحفہ بن جائے گا اور چندہ کے مال سے تجارت چلے گی۔ ایماندار کو جانور سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا۔ نیک عمل برے تصور ہوں گے اور برے عمل نیک عمل خیال کئے جائیں گے۔ زہد و تقویٰ صرف روایات میں نظر آئے گا اور دکھانے کے لئے پرہیزگاری ظاہر کی جائے گی۔ اولاد سے سکھ نہ ہوگا۔ والدین کہیں گے کہ اس کے بجائے پلا پالتے تو بہتر ہوتا یا پتھر ہوتا تو کسی کام آتا۔ گانے والیاں مہیا کی جائیں گی۔ نو عمر حکمران ہوں گے۔ ناپ اور تول میں کمی بیشی ہوگی۔ مسلمان کے پیٹ میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی نہ ملے گی۔ لا الہ الا اللہ کی رسم ہوگی اور اس کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہ ہوگا۔ غیر قوم میں نکاح زیادہ پسند ہوگا اور اپنی رشتہ دار عورت پسند نہ آئے گی۔ وغیرہ وغیرہ“ (کنز العمال)

## ۶..... حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق قادیانی خیالات

- .....۱ آپ بیت اللحم ملک شام میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے۔  
(اتمام الحجہ ص ۱۹ حاشیہ، خزانہ ج ۸ ص ۲۵)
- .....۲ جب پیدا ہوئے تو بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ پیدا

ہوا ہے۔ اس لئے اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کو بشارت ہوئی کہ اس ملک سے نکل جاؤ تو وہ مصر میں چلے گئے۔ وہاں ایک زمیندار نے مریم کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو بادشاہ مذکور مرچکا تھا تو آپ اپنے وطن واپس آ گئے۔ وہ گاؤں تھا ٹیلے پر اور پانی وہاں کا خوب تھا۔ (موضح القرآن ص ۲۵۰)

۳..... آپ کی کوئی ظاہری اولاد نہ تھی۔ (الفضل ص ۶، ۲۹، جنوری ۱۹۲۵ء)

(اس کی وجہ اپنی طرف سے یوں بتائی ہے) کیونکہ آپ فرقہ صوفیہ بنام اسیر میں داخل تھے۔ اس لئے شادی ہی نہیں کی۔ (بدر ص ۲، جولائی ۱۹۱۱ء)

دیلمی اور ابن نجار نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ آپ سفر کرتے تھے۔ جب شام پر تھی تو جنگل کا ساگ پات کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے اور مٹی کا تکیہ بناتے۔ کہتے کہ نہ تو میرا گھر ہے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور نہ کوئی اولاد ہے کہ جن کے مرنے کا غم ہو۔

(عسل مصفا حصہ اول ص ۱۹۱)

۴..... آپ بیت المقدس سے نصیبین آئے جو وہاں سے ساڑھے چار سو میل کے فاصلہ پر تھا۔ پھر موصل میں تشریف لائے جو نصیبین سے اڑتالیس میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے حدود فارس میں داخل ہوئے جو موصل سے ایک سو میل کے فاصلہ پر واقع ہیں۔ ہرات اور کابل کو دیکھ کر پشاور اور گلگت میں پہنچے جو وہاں پانچ سو میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ (باب چہارم مسیح ہندوستان میں ص ۶۷، خزائن ج ۱۵ ص ۶۷، مخلص)

۵..... پشمی طاہرہ سر پر اور ریشمی کرتہ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں عصا لے کر سفر کرتے تھے۔ شہر شہر ٹھہرتے۔ سبزی کھاتے رفیقوں نے گھوڑا خرید کر دیا۔ مگر چارہ نہ ملنے سے واپس کر دیا۔ آپ نصیبین پہنچے جو بیت المقدس سے کئی کوس پر تھا۔ حواری تبلیغ کے لئے شہر گئے تو بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ آپ نے وہاں پر کئی بیمار اچھے کئے تو وہاں کے باشندے اور بادشاہ آپ کے تابعدار ہو گئے۔ (باب چہارم مسیح ہندوستان میں ص ۶۶، ۶۷، خزائن ج ۱۵ ص ۶۷، مخلص)

۶..... یہ توج ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ مگر یہ سچ نہیں ہے کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ (ازالہ اوہام ص ۲۷۳، خزائن ج ۳ ص ۳۵۳)

۶-A..... ہم نے لکھا ہے کہ مسیح کی قبر بلا دشام میں ہے۔ مگر تحقیق جدید یہ ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے اور شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا۔ جس سے آپ نکل آئے تھے۔

(ست بچن ص ۲، خزائن ج ۱۰ ص ۳۰۷، حاشیہ)

..... ۷ ..... افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے۔ تاکہ ہندوستان دیکھ کر کشمیر کو بعد میں جائیں۔ (کیونکہ پنجاب کے راستہ سے کشمیر اور افغانستان کے درمیان صرف اسی کوس کا فاصلہ ہے اور چترال کے راستہ سے کشمیر تک سو میل کا فاصلہ ہے) تاکہ تبت میں آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ پرانی تواریخ سے معلوم ہوتا ہے اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ آپ نے نیپال اور بنارس وغیرہ کی سیر بھی کی ہوگی اور جموں یا راولپنڈی کی راہ سے کشمیر گئے ہوں گے اور گرمی کا موسم وہیں گزارا ہوگا۔ کیونکہ آپ سرد ملک کے باشندہ تھے اور چونکہ کشمیری آپ سے شکل و شبہت میں ملتے جلتے تھے۔ اس لئے وہیں اقامت اختیار کر لی ہوگی۔ یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان بھی اس سے پیشتر کچھ مدت ٹھہرے ہوں گے اور شادی کر لی ہوگی۔ کیونکہ عیسیٰ خیل آپ کی ہی اولاد معلوم ہوتی ہے۔ (سج ہندوستان میں ص ۶۹، ۷۰، خزائن ج ۱۵ ص ایضاً مخلص)

..... ۸ ..... یسعیاہ باب ۵ میں ہے کہ مسیح کو صلیب سے اتار کر سزایافتہ مردوں کی طرح قبر میں رکھا جائے گا۔ مگر چونکہ وہ حقیقی طور پر مردہ نہیں ہوگا۔ اس لئے قبر میں سے نکل آئے گا اور آخر عزیز اور صاحب شرف لوگوں میں اس کی قبر ہوگی۔ چنانچہ سری نگر میں قبر مسیح علیہ السلام کے پاس اولیاء اللہ بھی مدفون ہیں۔ (تحفہ گولڑویہ حاشیہ ص ۲۲۸، خزائن ج ۷ ص ۳۱۳، مفہوم)

..... ۹ ..... مسیح علیہ السلام صاحب اولاد ہیں۔ جس کی تصدیق یسعیاہ سے ہوتی ہے کہ کسی لغزش کی وجہ سے مسیح پر ایک جانناہ دکھ آئے گا۔ مگر وہ نجات پائے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ یسعیاہ میں ہے کہ وہ غار میں نہ مرے گا۔ اس کی روٹی کم نہ ہوگی۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ۸۷ سال زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔

(عمل مصطفیٰ ج ۱ ص ۳۵۱، طبع ثانی)

..... ۱۰ ..... ناٹو وچ روسی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کے برہمنوں سے آپ نے مباحثے کئے اور جب نیپال میں تھے تو آپ کی عمر ۳۶ سال کی تھی۔ (عمل مصطفیٰ ج ۱ ص ۱۹۲، طبع ثانی)

..... ۱۱ ..... عیسائی اور مسلمان بالاتفاق کہتے ہیں کہ یوز آسف نبی کہ جس کا زمانہ وہی مسیح کا زمانہ تھا۔ دور دراز سفر کر کے کشمیر میں پہنچا اور نہ صرف نبی بلکہ شہزادہ بھی کہلاتا تھا اور مسیح کے ملک ہی کا باشندہ تھا۔ اسی کی تعلیم بھی مسیحی تعلیم سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض فقرے بھی انجیلوں میں اس کی تعلیم سے ملتے ہیں۔ (ریویو ص ۳۳۸، دسمبر ۱۹۰۳ء)

..... ۱۲ ..... قبر کشمیر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً انیس سو برس کی ہے۔

(راز حقیقت ص ۱۱ حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۶۳)

- ۱۳..... حال ہی میں مسلمانوں کی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں۔ جن میں لکھا ہے کہ یوز آسف نبی تھا جو کسی ملک سے آیا تھا اور شہزادہ بھی تھا۔ کشمیر میں اس نے انتقال کیا اور حضور علیہ السلام سے پہلے چھ سو سال ہو گزرے۔ (راز حقیقت ص ۱۲ حاشیہ، خزائن ج ۱۴ ص ۱۶۴)
- ۱۴..... یہ ثابت ہے کہ مسیح ہندوستان میں آئے اور آپ کی قبر کشمیر میں ہے۔ یوز آسف کی کتاب اور انجیل کی عبارتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ یہ کتاب انجیل مسیح ہے جو ہندوستانوں کے لئے لکھی گئی ہے۔ (چشمہ مسیحی ج ۲، خزائن ج ۲۰ ص ۳۳۹ مخلص)
- ۱۵..... پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جو قبر کشمیر کا بیان کرتی ہیں۔ پرانے کتبہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ مسیح کی قبر ہے۔ قرب وجوار کے لاکھوں آدمی شہادت دیتے ہیں کہ یہ قبر انیس سو سال سے ہے۔ صاحب قبر ملک شام سے یہاں آیا تھا۔ اسرائیلی نبی اور شہزادہ نبی کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ قوم نے قتل کا ارادہ رکھا تو وہ بھاگ آیا۔ (ریویو ج ۱ ص ۴۱۹، نمبر ۱۰)
- ۱۶..... ہم نے کشمیر کی تاریخ کی کتابیں فراہم کی ہیں۔ ان میں ہے کہ اس وقت کے رو سے دو ہزار برس کے قریب گزر گیا ہے کہ ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا۔ جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شہزادہ نبی کہلاتا تھا۔ اس کی قبر خانیا میں ہے جو یوسف کی قبر مشہور ہے۔
- (ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۲۲۸، خزائن ج ۲۱ ص ۴۰۴)
- ۱۷..... کتاب سوانح یوز آسف کہ جس کی تالیف کو ہزار سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس میں ہے کہ یوز آسف کی کتاب کا نام انجیل تھا۔ اس میں وہی تعلیم لکھی ہے جو انجیل میں ہے۔ مگر تثلیث کا مسئلہ موجود نہیں۔ چنانچہ پڑھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا اور اسی کتاب کا مصنف ایک ہی ہے اور استعارہ کے طور پر یہودیوں کو ظالم باپ بیان کرتے ہوئے ایک پر لطف قصہ بیان کیا ہے۔ (تحفہ گولڈویہ ص ۱۴، خزائن ج ۱ ص ۱۰۰)
- ۱۸..... یوز آسف کی کتاب میں ہے کہ اس پر خدا کی طرف سے انجیل اتری تھی۔
- (ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۲۲۹، خزائن ج ۲۱ ص ۴۰۴)
- ۱۹..... اکمال الدین میں لکھا ہے کہ جب یسوع کشمیر آیا تو اس کے پاس انجیل تھی۔ جس کا اصل نام بشوری ہے۔ (مصل مصلا ج ۱ ص ۵۸۵)
- ۲۰..... اکمال الدین میں (جو گیارہ سو برس کی کتاب ہے) لکھا ہے کہ شہزادہ نبی جو غیر ملک سے آیا اور کشمیر میں وفات پائی۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی تھے۔ کوئی اور نبی نہ تھا۔ کیونکہ بشوری عبرانی زبان میں انجیل کو کہتے ہیں اور عربی میں بشری کہتے ہیں اور انگریزی میں

گاسپل اور یوز آسف حضرت مسیح کا دوسرا نام ہے اور یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں۔ جس پر انجیل یعنی بشری نازل ہوئی تھی۔  
(ریویو ص ۴۷۱، نومبر ۱۹۰۳ء)

۲۱..... حکیم نور الدین بھیروی نے سری نگر میں کئی ماہ تک رہ کر یہ تحقیق کی کہ فی الواقع یہی حضرت مسیح کی قبر ہے جو یوز آسف کے نام سے مشہور ہے۔ یوز، یسوع کا بڑا ہوا ہے یا مخفف ہے اور آسف آپ کا انجیلی نام ہے۔ جس کا یہ ترجمہ ہے کہ متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کشمیر اسے عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں اور پرانی تاریخوں میں ہے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا اور اب تقریباً انیس سو سال گذر چکے ہیں اور اس کے ہمراہ کچھ شاگرد بھی تھے۔ کوہ سلیمان پر عبادت کرتا تھا۔ اس کے عبادت خانہ پر ایک کتبہ بھی تھا جو سکھوں کے عہد میں مٹا دیا گیا۔ اس پر یہ لفظ لکھے تھے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلاد شام سے آیا ہے۔ اس کا نام یوز ہے۔ اب وہ لفظ اچھی طرح پڑھے نہیں جاتے۔ وہ قبر بنی اسرائیل کی قبروں کی طرح ہے۔ بیت المقدس کی طرف اس کا رخ ہے۔ تقریباً پانچ سو آدمیوں نے محضر نامہ پر دستخط کئے کہ صاحب قبر اسرائیلی نبی تھا۔ جیسا کہ پرانی تاریخ کشمیر سے ثابت ہے۔ کسی بادشاہ کے ظلم سے یہاں آیا تھا اور بہت بوڑھا ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کو عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں اور شہزادہ نبی بھی اور یوز آسف بھی۔  
(تحفہ گلڑویہ ص ۱۳۰، خزائن ج ۷ ص ۱۰۰)

۲۲..... اکمال الدین میں یوز آسف مخفف و مرکب ہے یسوع بن یوسف کا۔

(ریویو ص ۳۴۰، اگست ۱۹۲۵ء)

۲۳..... یوز اصل میں یسوع تھا۔ جو اصل میں عیسیٰ کو کہتے ہیں اور آج کل یسو کہتے ہیں۔ شاید آپ کا اصل نام یوسح ہو۔ کیونکہ ایسے نام عبرانی میں مروج تھے پھر یوز بن گیا۔ پھر یوز آ سے یوسا بنا اور یوسف کا مخفف ہے۔ صف، سف، آسف۔ پس سارا نام یوز آسف یسوع یوسف کا مختصر ہے۔ یوسف حضرت مریم کے شوہر تھے اور مسیح ان کے ربیب یا پروردہ۔ اس لئے حضرت عیسیٰ کو یوسف کا بیٹا کہتے تھے۔  
(ریویو دسمبر ۱۹۲۵ء)

۲۴..... یہ لفظ عبرانی زبان سے مشابہ ہے۔ مگر عیسیٰ نظر سے کھل جائے گا کہ دراصل یہ لفظ یسوع آسف ہے۔ یعنی یسوع نمگین۔ چونکہ مسیح اپنے وطن سے نمگین ہو کر نکلے تھے۔ اس لئے یہ لفظ ساتھ شامل ہو گیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اصل میں یہ لفظ یسوع صاحب ہے۔ کثرت استعمال سے یوز آسف بن گیا۔ مگر میرے نزدیک یوز آسف اسم باسٹے ہے جو آپ کے نم پر



دلالت کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ ان پر آسف اور غم وارد ہوئے تھے۔

(ست بچن ص ۷، خزائن ج ۱۰ ص ۳۰۶)

..... ۲۵ چونکہ اس قصہ کے واقعات گوتم بدھ کے واقعات سے مشابہ ہیں۔ اس

لئے کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یوز آسف بھی گوتم بدھ کا دوسرا نام ہے۔ (ریویوس ۲۳۸، جون ۱۹۱۰ء)

..... ۲۶ واقعات کی مشابہت سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دونوں اسم ایک شخص کے

(ریویوس ۲۳ ص ۲۷۲)

ہی ہوں۔

..... ۲۷ اگر سری نگر میں گوتم بدھ کی قبر ہوتی تو دنیا کے کل بدھ مذہب کے پیروؤں کا

(ریویوس ۲۳۹، جون ۱۹۱۰ء)

مرجع ہونا۔ چاہئے تھی

..... ۲۸ تبلیغ رسالت کے رو سے آپ کا پنجاب میں آنا ضروری تھا۔ کیونکہ بنی

اسرائیل کے دس فرقے کہ جن کو انجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑیں لکھا ہے۔ ان ملکوں میں

آگئے تھے۔ جب تک ایسا نہ کرتے رسالت نامکمل تھی۔

(مسح ہندوستان میں ص ۹۳، خزائن ج ۱۵ ص ایضاً)

..... ۲۹ (تاریخ طبری ص ۷۳۹) میں ہے کہ مدینہ شریف کے پاس کوہ راس جماع پر

ایک قبر پائی گئی ہے۔ جس پر یہ کتبہ لکھا ہوا تھا کہ: ”ہذا قبر عیسیٰ ابن مریم“ اس روایت

سے کم از کم وفات مسیح کا پتہ ضرور لگتا ہے۔ خواہ کہیں مرا ہو۔ یہ قصہ ابن جریر نے بھی اپنی کتاب میں

لکھا ہے جو نہایت معتبر اور آئمہ حدیث میں سے ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۵۱، خزائن ج ۲۳ ص ۲۶۱)

..... ۳۰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اس میں یہ اشارہ ہے کہ آدم

ہجرت کر کے ہند میں آئے تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح بھی یہیں ہجرت کر کے آئے تھے اور چونکہ

مسیح موعود دونوں کا مثل ہے۔ اس لئے وہ بھی ہند میں ہی ہوا۔ (رسالہ تحقید غلام رسول ص ۳۱)

..... ۳۱ لاکھوں نے دیکھ لیا کہ آپ کی قبر سری نگر میں موجود ہے۔ جس جگہ آپ کو

صلیب پر کھینچا گیا۔ اس کا نام گلگت یعنی سری اور سر ہے اور جس جگہ انیسویں صدی میں آپ کی قبر

ثابت ہوئی۔ اس کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گلگت جو کشمیر میں موجود ہے۔ یہ

بھی سری کی طرف اشارہ ہے۔ غالباً یہ شہر حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں بنایا گیا ہے اور واقعہ

صلیب کی یادگار مقامی کے طور پر اس کا نام گلگت یعنی سری رکھا گیا۔

(مسح ہندوستان میں ص ۵۵، خزائن ج ۱۵ ص ایضاً)

..... ۳۲ اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح میں دو ایسی باتیں جمع تھیں

جو کسی دوسرے نبی میں نہ تھیں۔ اول کامل عمر یعنی ۱۲۰ برس زندہ رہنا دوم دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت اس لئے ان کو نبی سیاح کہتے تھے۔ رفع جسمانی تسلیم کیا جائے تو ۱۲۰ والی روایت صحیح نہیں رہتی اور نہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ ۳۳ سال میں انہوں نے دور دراز کے سفر کے کئے ہوں۔ حالانکہ یہ روایتیں ایسی متواتر ہیں کہ ان سے بڑھ کر خیال نہیں کیا جاسکتا۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۳۴) پر ہے کہ:

”اوحی من اللہ الی عیسیٰ انتقل من مکان لثلا تعرف فتوذی“ ایک مکان سے دوسرے کو انتقال کرو تا کہ تم کو شناخت کرنے سے دکھ نہ پہنچے اور (ج ۲ ص ۷۱) میں ہے کہ: ”کان یسیح فاذا امسے اکل بقل الصحراء ویشرب الماء القراح“ آپ دن بھر سیاحت کرتے تھے۔ شام کو گھاس وغیرہ کھا لیتے اور پانی پیتے اور (ج ۶ ص ۵۱) میں ہے کہ: ”احب شئی الی اللہ الغرباء..... الذین یفرون بدینہم ویجتمعون الی عیسیٰ“ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو وہ غریب بہت پیارے ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔ (سج ہندوستان میں ص ۵۶، ۵۷، خزائن ج ۱۵ ص ایضاً)

نوٹ! صحیح ترجمہ یوں ہے کہ مسیح کے پاس جمع ہوتے تھے۔ مگر قادیانی عربی الگ ہے۔  
۳۲..... ”سمى عیسیٰ مسیحا لانہ کان سآحافی الارض لا یستقر“ آپ کو مسیح اس لئے کہا گیا کہ آپ ہمیشہ سیاحت میں رہتے تھے۔

(سج ہندوستان میں ص ۷۱، خزائن ج ۱۵ ص ایضاً)  
۳۳..... نصیبین کو آپ نے اس لئے سفر کیا تا کہ فارس کی راہ سے افغانستان آئیں اور وہاں کے یہود کو جو افغان کے نام سے مشہور تھے تبلیغ کریں۔

(حوالہ مذکور ص ۶۹، خزائن ج ۱۵ ص ایضاً)  
۳۴..... واقعہ صلیب سے چالیس روز تک آپ حواریوں سے ملتے رہے۔ مگر خفیہ دروازے بند کر کے کیونکہ افشاء راز کی ممانعت تھی۔ اسی واسطے ان کو مصنوعی بات بنانی پڑی کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے اور بعض یہودیوں کی توجہ مصروف کرنے کی خاطر مصنوعی قبریں بنالیں۔ تا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مسیح مر گئے ہیں اور تعاقب نہ کریں۔ حالانکہ مسیح پہاڑ سے اتر کر کئی سو میل نصیبین کو چلے گئے تھے۔ (عسل مصطفیٰ ج ۱ ص ۵۷۱)

روضہ الصفاء میں ہے کہ آپ کے ہمراہ نصیبین میں آپ کی والدہ اور حواری بھی تھے۔ (مریم، یعقوب، شمعون، تومان) یہ وہی تھو ما حواری ہے کہ جس کے متعلق انسائیکلو پیڈیا بلیکا میں لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا تھا۔ اس لئے ضروری ہے کہ کشمیر میں یوز آسف کا نام پانے والا

حضرت یسوع آسف ہے نہ کوئی اور۔

(کشف الاسرار ص ۳۸)

۳۵..... بلکہ قدس میں حضرت مسیح کی قبر ہے۔ اس پر بڑا گر جا بنا ہوا ہے۔ اسی میں

حضرت مریم کی قبر بھی ہے۔ (اتمام الحجۃ ص ۲۱، خزائن ج ۸ ص ۲۹۹)

۳۶..... معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی ممالک مشرقیہ

میں آگئیں تھیں۔ کیونکہ ان کی قبر بھی ارض مقدسہ میں نہیں ہے۔ مریم کی قبر کا شجر میں ہے۔

(عسل مصطح ص ۴۵۳)

۳۷..... شام سے نصیبین کو پھر وہاں سے کوہ مری اور عیسیٰ خیل گئے جن سے نشان

ملا ہے کہ اصل میں کوہ مریم تھا اور عیسیٰ کی جماعت یا اولاد وہاں موجود ہے اور ضروران سے آپ کو کچھ تعلق ہے۔ (تقید از غلام رسول ص ۳۳)

۳۸..... مریم صدیقہ کشمیر میں ”للہ ودی“ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ لفظ عبرانی

الماہ بمعنی جوان عورت کا بگڑا ہوا ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۱۵ حاشیہ، از اسماعیل دہلوی)

۳۹..... تاریخ میں آیا ہے کہ یوز آسف صولا بت سے آیا تھا۔ اصل میں صولا بت

ہے اور صلیب کا بگڑا ہوا ہے۔ کیونکہ کشمیری میں صلیب کو صولیب کہتے ہیں۔ ان کو بہت سمجھایا بھی مگر پھر بھی صولیب ہی کہتے ہیں۔ (ریویو ڈسمبر ۱۹۲۵ء)

۴۰..... کوئی تعجب نہیں کہ مرور زمانہ اور کثرت استعمال سے برتہو ما حواری کا نام

بگڑ کر بلوہر بن گیا ہو۔ (کشف الاسرار از سید صادق حسین اثاوی)

۴۱..... بچی روٹی میں لکھا ہے کہ مسیح کی عمر ۳۰ برس تھی۔ صلیب کے بعد اگر زندہ نہ

تھے تو یہ عمر کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ (ضمیمہ ظہور المسیح از ظہور الدین اکمل)

۴۲..... اسکول تے کچھ نہ پھول۔ پنجابی میں مشہور ضرب المثل ہے۔ اس میں

اشارہ ہے کہ ایسو (عیسیٰ) تو کول (پاس) ہی کشمیر میں مدفون ہیں۔ زیادہ کرید کی کیا ضرورت ہے۔ (فاروق ص ۱۱، ۱۹۱۶ء)

۴۳..... ہر ایک نبی کے لئے ہجرت مسنون ہے۔ مسیح نے بھی کہا ہے کہ نبی بے

عزت نہیں۔ مگر اپنے وطن میں مخالف یہ تو مانتے ہیں کہ مسیح نے سیاحت کی۔ مگر جب کہا جاتا ہے کہ کشمیر بھی گئے تو انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ مان لیا کہ عہد نبوت میں آپ نے سیاحت کی

تھی تو کیا کشمیر جانا حرام ہو گیا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہاں گئے ہوں اور وفات پائی ہو۔ پھر جب

صلیبی واقعہ کے بعد آپ سیاحت کرتے رہے تو آسمان پر کب گئے۔ اس کا جواب نہیں بن پڑتا۔

(تحفہ گولڈ ویس ۱۳ حاشیہ، خزائن ج ۷ ص ۱۰۶، ۱۰۷)

۳۴..... ممکن ہے کہ کوئی شہزادہ بھی یوز آسف ہو۔ جس کا نام مسیح کے نام پر رکھا گیا

ہو۔ جسے داؤد سلیمان وغیرہ نام بطور تقاؤل رکھے جاتے ہیں۔ (تحفید غلام رسول ص ۲۵)

۳۵..... لیڈی مسز فود کا قول ہے کہ ایک روایت ہے کہ مسیح خود بھی ہندوستان میں

آئے تھے۔ ممکن ہے کہ تھوما کا کام دیکھنے آئے ہوں۔ کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ مسیح نے مجھے بھیجا تھا۔

(فاروق ص ۱۵، ۲۷ اپریل ۱۹۱۶ء)

۳۶..... بعض مؤرخین کی رائے ہے کہ تھوما اور اس کے بعد بار تھولو میو ہندوستان

میں آئے تھے۔ ممکن ہے کہ بعض دیگر حواری بھی آئے ہوں۔ کیونکہ مرقس نے بھی اپنی بیسجے تھے۔

(فاروق ص ۱۰، ۱۱ مئی ۱۹۱۹ء)

۳۷..... اگر یوز آسف کے واقعات گوتم کے واقعات سے ملتے ہوں تو اس سے

ایک شخص کا نام ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح گوتم کو بدھ کا خطاب دیا گیا تھا اسی

طرح حضرت مسیح کو بھی بدھ کا خطاب دیا گیا ہو۔ اس لئے کہ بدھ حکیم کو کہتے ہیں اور گوتم سے پہلے

کئی بدھ ہو چکے تھے۔ (ریویو ص ۲۷، نومبر ۱۹۰۳ء)

۳۸..... واقعہ صلیب کے بعد ہجرت کشمیر کے دلائل کتاب المسیح فی الہند باب نمبر ۱

میں یوں دیئے ہیں کہ پلاطوس نے یوسف نامی ایک معتبر رئیس خیر خواہ مسیح کو بلوا کر آپ کے مرنے

سے پیشتر ہی لاش دے دی تھی۔ آپ ساری رات اپنی نجات کے لئے دعا مانگتے رہے تو کوئی وجہ

نہیں کہ وہ منظور نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ آپ راست باز اور خدا کے بیٹے کہلاتے تھے۔ متی ب ۲۳ میں

ذکر یا علیہ السلام کو آخری مقتول نبی لکھا ہے جو یہود نے قتل کئے تھے۔ نہ کہ مسیح علیہ السلام کو اور

ب ۱۶ میں ہے کہ آپ واقعہ صلیب سے واپس آ کر یورشلم کی تباہی کے وقت ملے تھے۔ اگر یہ

واپسی ہجرت کشمیر کے بعد مراد نہ لی جائے تو ضروری ہے کہ یہ ملاقات روحانی ہو۔ کیونکہ کئی دفعہ

زندہ کو عین بیداری کی حالت میں مردہ کا ملنا صوفیائے کرام کے تجربہ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک

حواری حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لشکر اسلام کو ایک پہاڑ پر ملا تھا۔ آپ کی پیشین گوئی تھی کہ میں

دوسری دفعہ آؤں گا۔ جس سے مراد صلیب کے بعد زندگی ہے۔ متی ب ۲۳ میں ہے کہ آپ بادل

سے اتریں گے۔ اس سے مراد مسیح موعود ہے۔ کیونکہ اس کے عہد میں وہ تمام علامات پائی گئی ہیں جو

آپ نے ذکر کی تھیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ تمام قومیں چھاتی پیشیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ

مرزائی جماعت نے سب کو بیزار کر رکھا ہے) اور ب ۲۷ میں ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد مردے قبروں سے نکل کر تقدیق مسیح کے لئے بیت المقدس میں آئے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک خواب تھا۔ جس کی تعبیر یہ تھی کہ مسیح کو صلیب سے نجات ملی ہے۔ کیونکہ کتاب تعطیر الانام میں لکھا ہے کہ خواب میں مردہ نکلتا ہوا دکھائی دے تو قیدی کی رہائی ہوتی ہے۔ علاوہ بریں ہجرت کشمیر کی شہادت ملتی ہے۔ مگر ہجرت سماوی کی عین شہادت نہیں ملی۔ آپ کا قول مشہور ہے کہ میں ہادی ہوں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ اس سے میں نے پاک پیدائش پائی ہے اور اس کا پیارا بیٹا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلیبی موت سے بچ کر کشمیر چلے گئے تھے۔ ورنہ لعنت کی زد میں آجاتے۔ متی باب ۲۶ میں ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے جلیل کو جاؤں گا۔ مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمان پر جاؤں گا۔ برنباس حواری کی انجیل میں موت صلیبی سے بالکل انکار ہے۔ اس انجیل کو اگرچہ یونہی باطل سمجھا گیا ہے۔ مگر تاریخی نکتہ خیال سے دوسری اناجیل سے کم درجہ نہیں رکھتی۔ اس لئے تاریخی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اناجیل میں ہے کہ آپ حواریوں کو ملے جب کہ وہ کچھ کھا رہے تھے اور اپنے زخم بھی دکھائے تو ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ روحانی ملاقات ہے۔ اس لئے آپ نے مچھلی اور شہد کھا کر یقین دلایا کہ آپ کی زندگی واقعہ صلیب کے بعد جسمانی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ قبر سے نکل کر آپ جلیل کو گئے تھے۔ قرآن بھی جسمانی حیات کے موجود ہیں۔ کیونکہ جمعہ کے دن عصر کے قریب آپ کو صلیب دیا گیا۔ مگر اس وقت تین گھنٹے طوفان باد اور زلزلہ آیا۔ جس سے یہودی بے دل ہو گئے اور اگلے دن عید فصح اور سبت اکبر کی تقریب تھی۔ اس لئے وہ نہ چاہتے تھے کہ ہفتہ کی رات کو بھی کوئی مجرم صلیب پر رہے۔ دوسری طرف خیر خواہین مسیح تاک میں تھے کہ ان کو جلدی لاش مل جائے۔ پلاطوس کی بیوی کو فرشتہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر مسیح صلیب پر مرجائیں گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو بیوی کے کہنے سے پلاطوس بھی آپ کو بچانے کی دھن میں لگا ہوا تھا۔ حسن قسمت سے یوسف ارمیتا یہودی نے وہ لاش مانگی تو اسے فوراً یہ کہہ کر دی گئی کہ وہ تو مر ہی گیا ہوگا۔ یہود نے بھی اپنی افراتفری میں زیادہ کرید نہیں کی کہ آپ نیم مردہ تھے تو آپ کے خیر خواہوں نے ایک کھڑکی دار قبر میں (جو بلا د شام کے دستور کے مطابق ایک ہوادار کمرہ کی صورت میں سب کے لئے پہلے ہی تیار کی جاتی ہے) لے گئے۔ کشمیر کی قبر بھی کھڑکی دار ہے۔ ایک اور قرینہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چور بھی صلیب پر لٹکائے گئے تھے۔ مگر ان کی ٹانگیں اور پسلیاں توڑ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لیکن مسیح کے پہلو میں برچھی مار کر خون اور پانی دیکھ کر بھی کہہ دیا کہ یہ مر گیا ہے۔ اس لئے آپ کی ٹانگیں نہ توڑیں اور صحیح سلامت

صلیب سے اتار لیا اور وہ صلیب بھی آج کل کی پھانسی کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ وہ ایک ٹکٹکی کی شکل کی لکڑی ہوتی تھی۔ جس پر آدمی کو کیلوں سے باندھا جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں میں میخوں کے ٹھونکنے سے گوتکلیف تو بہت ہوتی تھی۔ مگر دو تین روز تک جان نہیں نکلتی تھی۔ اس لئے آپ کا صلیب پر لٹکایا جانا تین گھنٹہ سے زیادہ ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح اس کتاب کے ب ۲ میں لکھا ہے کہ شبہ لہم کا یہ مطلب ہے کہ واقعہ صلیب کے وقت زلزلہ اور طوفان باد سے یہودیوں کی اپنی بدھ ماری گئی تھی۔ اس لئے وہ شناخت نہ کر سکے کہ واقعی مسیح فوت ہو چکے ہیں اور سطحی تحقیق پر ہی یقین کر لیا کہ آپ مر ہی گئے ہوں گے۔ ”وجیہا فسی الدنيا“ میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کشمیر میں واقعہ صلیب کے بعد آئے اور یہودی دس قوموں میں اعزاز حاصل کیا اور آپ کی تصویر سکہ پر بھی دکھائی گئی۔ ورنہ ملک شام میں آپ کو دنیاوی وجاہت حاصل نہ تھی۔ مطہرک میں یہ اشارہ ہے کہ یہودی آپ کو صلیبی موت سے ملعون کرنا چاہتے تھے۔ مگر خدا نے حکمت عملی سے آپ کو بچا کر کشمیر بھیج دیا۔ کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کی عمر ۱۲۵ برس تھی۔ اگر یہ ہجرت نہ مانی جائے تو یہ روایت جو بہت ہی متواتر ہے جھوٹی ثابت ہوگی۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر صرف ۳۳ برس تھی۔ یہ بھی وارد ہے کہ آپ کو وحی ہوئی تھی کہ: ”انتقل من مکان الی مکان اخر“ آپ شام چھوڑ کر کشمیر کو چلے جائیں۔ مرہم عیسیٰ جو خاص واقعہ صلیب کے بعد آپ کو چنگا کرنے کے لئے بذریعہ وحی حواریوں نے ایک ایک دو تجویز کر کے بنائی تھی چالیس روز تک برابر استعمال کرنے سے تمام زخم درست ہو گئے تھے۔ اس کی تصدیق یونانی کتب طب میں موجود ہے اور ان میں یہ نسخہ بطور کتبہ کے نقل کیا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ مسیح کے لئے تیار ہوئی تھی اور یہ خیال کرنا درست نہیں کہ شاید واقعہ صلیب سے پہلے کسی اور موقعہ پر آپ کو چوٹ لگی تھی تو حواریوں نے تیار کی تھی۔ کیونکہ واقعہ صلیب سے پہلے کسی تاریخ میں آپ کو چوٹ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت کے پہلے بھی آپ کے حواری تھے۔ یہ مرہم لوگوں نے مذہب سے غافل ہو کر اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی۔ مگر تاریخی فائدہ اٹھانے سے محروم رہے۔ کیونکہ خدا کی تقدیر میں اس سے فائدہ اٹھانا مسیح موعود کے لئے مخزون تھا۔ حالانکہ یہ مرہم کم از کم ہزار کتاب طب میں لکھی جا چکی ہے۔

آخری باب میں لکھا ہے کہ گوتموان کہتا تھا کہ میں چچیواں بدھ ہوں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ بانی مذہب کا تشریحی خطاب ہوتا تھا۔ اس لئے جنہوں نے یوز آسف اور یسوع کو بدھ قرار دیا ہے صحیح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بدھ مذہب میں آپ کو متیا گوارا (مسیح سپید رنگ) مسیح

(سج) ”راحولتا“ (روح اللہ) لکھا ہے۔ آپ بدھ کے چھٹے مرید تھے۔ یعنی چھ سو سال بعد پیدا ہوئے۔ گویا آپ بدھ کے بروز تھے۔ کیونکہ انجیل میں تناخ تین قسم لکھا ہے کہ انسان انسان رہے یا دوسرے جون میں انسان کے آثار اس میں پائے جائیں یا تمام جنم بھو گئے کے بعد پھر انسان کی جون میں آئے۔ اس لئے پہلی قسم کا تناخ بروز ہوگا۔ کیونکہ آپ نے بدھ کے خواص حاصل کئے تھے۔ تعلیم بھی تقریباً اسی کی طرح تھی اور پیدائش بھی بغیر باپ کے اسی کی طرز پر تھی۔ بال بچے اور ماں کی خبر گیری سے دونوں بے نیاز تھے۔ بہر حال بدھ مذہب اور نصرانیت ایک ہی ہیں اور تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت خالد بن الولید کے داخلہ سے پہلے تمام افغانستان یہودی تھا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ضرور کشمیر میں آئے اور انہوں نے اسرائیلی اقوام کو تبلیغ کی۔

## ۲..... ہجرت کشمیر پر ایک لمحہ نظریہ

یہاں پر مرزائی خیالات کے باہمی تضاد کو نظر انداز کر کے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ۳۳ برس کی عمر میں عصر جمعہ کو مصلوب ہوئے۔ تین گھنٹہ کے بعد نیم مردہ اتار لئے گئے اور ایک زمین دوز سردخانہ میں چالیس روز تک مرہم عیسیٰ سے چنگے ہو کر دجلہ و فرات کے درمیانی فاصلہ کو کاٹتے ہوئے فارس اور کابل پہنچے۔ پھر افغانستان میں شادی کی۔ بچے پیدا ہوئے تو وہاں سے چل دیئے اور پشاور پہنچ کر ہندوستان کے مشہور مقامات بنارس اور جن گڑھ اور جگن ناتھ وغیرہ مقامات میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں پھرتے پھرتے کشمیر میں ۸۷ برس گزار کر وفات پائی اور محلہ خانیاں سری نگر میں آپ کا مقبرہ تیار ہوا۔ جس میں اب تک دو قبریں موجود ہیں اور رو قبلہ دونوں شمالاً و جنوباً واقع ہیں۔ حکیم نور الدین کا بیان ہے کہ قبر کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ شاید قبر کا سر مراد لیا ہوگا۔ پہلی قبر پنجرہ چوبین کے اندر شمالی طرف رو قبلہ ہے اور دوسری قبر اسی لائن میں پامری کی طرف پہلی کی طرح رو قبلہ ہے۔ مگر پہلی سے چھوٹی ہے۔ پہلی قبر یقیناً یوز آسف کی ہے۔ شاہزادہ اور عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قبر حضرت مریم کی ہے یا سید نصیر الدین مرحوم کی۔ اس پنجرہ کو جنوب کی طرف سے دروازہ رکھا گیا ہے جو عموماً بند رہتا ہے اور پنجرہ کے چاروں طرف مطاف اور پھرنے کی جگہ ہے۔ جیسے کہ عام مزاروں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ مگر یہ مطاف بھی مسقف ہے اور اس کی مغربی دیوار میں جنوب و مغرب کے کونے میں اب تک ایک سوراخ موجود ہے۔ جس سے پہلے زمانہ میں خوشبو آتی تھی اور خیال کیا گیا تھا کہ اس میں ایک خزانہ بھی مدفون ہے۔ اس تھیوری (نظریہ) پر یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ:

.....۱ مسیح علیہ السلام کی عمر واقعہ صلیب کے وقت ۳۳ برس بتا کر قیام کشمیر کی مدت عمر ۸۷ سال بتائی جاتی ہے۔ تاکہ دونوں عمریں مل کر ۱۲۰ سال کی عمر مکمل کریں۔ مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے جلیل سے پشاور تک ہزار کوس سے زیادہ کا فاصلہ کتنی مدت میں طے کیا تھا اور وہاں سے ہندوؤں کے مقامات و معابد کو جاتے ہوئے کون سا راستہ اختیار کیا تھا اور تندرینا دو ہزار کوس کا چکر کاٹ کر کشمیر میں کس سال اور کس تاریخ کو داخل ہوئے تھے؟

.....۲ وہ مدت اقامت بھی متعین نہیں کی گئی جو آپ نے افغانستان میں خانہ آبادی کے لئے گزاری تھی۔ غالباً تیس چالیس برس سے وہ بھی زائد عمر ہوگے۔ کیونکہ عیسیٰ خیل قوم کا وہاں آج تک موجود رہنا ایک پوری زندگی کا منتفضی ہے۔ ورنہ صرف چند سال سے قوم کا آغاز نہیں ہو سکتا۔

.....۳ تین ہزار میل کا سفر اور قیام افغانستان کی مدت کے لئے کم از کم دس سال تجویز کئے جائیں تو قیام کشمیر کی مدت ۷۷ سال رہ جاتی ہے اور اگر روٹی انجیل کے مطابق تعلیم دیدار تبلیغ کے لئے بھی الگ وقت نکالا جائے تو دس سال اور کم ہو جائیں گے اور قیام کشمیر کی مدت صرف ۶۰ اور ۶۶ سال کے درمیان رہ جاتی ہے۔ اس لئے یقینی طور پر قیام کشمیر کو ۸ سال قرار دینا قرین قیاس نہیں ہے۔

.....۴ ایک اولوالعزم نبی اس تھیوری کے مطابق کشمیر میں پورے ۸۷ سال روپوش ہو کر رہتا ہے اور کوئی ایک کشمیری یا افغان عیسائی مذہب قبول نہیں کرتا اور ملک شام میں تو تین سالہ تبلیغ نے تمام ملک کو عیسائیت کا گرویدہ کر لیا تھا۔ مگر یہاں نہ کشمیر میں کسی گرجا کا نشان پایا جاتا ہے نہ کوئی بیکل ہے اور نہ کوئی صلیبی نشان یا صلیبی تعلیم موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ نے پوری پوری تبلیغ سے کام لیا تھا اور راجہ کو عیسائی بنایا تھا۔ جس نے کہ آپ کی تصویر اپنے سکہ پر چھپوائی تھی تو یہ شبہ اور بھی زور دار ہو جاتا ہے کہ جس نبی کو شاہانہ قوت حاصل ہو اور تبلیغ رسالت میں ناکام رہے بہت ہی تعجب انگیز امر ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تھیوری صرف خیالی امور پر مبنی ہے اور بس۔

.....۵ ہمیں کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے افغانستان کو اپنے زمانہ میں یہودی پایا تھا۔ اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کا مذہب اب تک یہودی تھا تو حضرت مسیح کی تبلیغی کوشش کو ناکام تصور کرنا پڑتا ہے اور اگر یہ مراد ہو کہ گو وہ لوگ مذہب کی رو سے یہودی نہ تھے۔ مگر قومیت کی رو سے یہودی ضرور کہلاتے تھے تو ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ کم از کم



عیسیٰ خیل کو تو اس عنوان سے خالی ضرور ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ وہ تو آپ کی صلیبی اولاد تھی اور آپ یہودی مشہور نہ تھے۔

۶..... ایک اور بھی مشکل آپڑتی ہے کہ جب حیات مسیح کے قائل یوں کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر تبلیغ اسلام میں مصروف ہوں گے تو شروع شروع میں گولڑائیاں ہوں گی۔ مگر بعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف ایک ہی مذہب رہ جائے گا اور یہود و نصاریٰ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے تو ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ آیات قرآنیہ کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں صاف مذکور ہے کہ: ”الْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الی یومِ الْقِيَمَةِ“ ہم نے یہود و نصاریٰ کے درمیان قیامت تک دشمنی ڈال دی ہے۔ پس اگر وہ سارے مسلمان ہوں گے تو ان کو یہود و نصاریٰ کیسے کہہ سکیں گے۔ کیونکہ یہ دونوں عنوان مذہبی ہیں اور ان کا قیام ان کے مذاہب کا قیام ہے۔ مگر اس سوال و جواب کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا افغانستان اور بالخصوص عیسیٰ خیل باوجود عیسائی ہونے کے یہودی کہلاتے تھے؟ نہیں تو پھر یہ لفظ مذہبی عنوان نہیں رہ سکتا اور اگر یوں کہا جائے کہ آپ نے تبلیغی جدوجہد بالکل ترک کر دی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی عیسائی نہ بنا سکے تو یہ الزام پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سچے نبی تھے تو آپ نے کوتاہی کیوں کی اور اگر آپ کی وعظ سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا تو آپ کی صداقت مخدوش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب نبی کا مقابلہ یا انکار کیا جاتا ہے تو منکرین کا وجود اپنی حالت پر قائم نہیں رہتا۔

۷..... ہندوستان میں آپ نے دو ہزار میل کا چکر لگا کر تبلیغ کی اور ایک بھی عیسائی نہ ہوا اور بغیر فیصلہ آسمانی کے یہاں کشمیر میں آچھے تو آپ کی صداقت کیسے ثابت ہوگی اور ناکامی کا دھبہ آپ کی سوانح سے کیسے اٹھ سکے گا۔ کیونکہ سچے اور جھوٹے کا معیار قادیانی تعلیم کی رو سے کامیابی اور ناکامی پر مبنی ہوتا ہے۔

۸..... ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اسرائیلی قبائل کی جستجو میں یہاں آئے تھے اور اسی بناء پر آپ کو عبرانی زبان میں آسف (مبتلاشی) کہا گیا تھا۔ مگر صرف کشمیر اور افغانستان میں گو کمزور دلائل سے یہودی قوم بتائی جاتی ہے۔ لیکن جگن ناتھ اور بنارس میں یہودی قوم کا ایک فرد بشر بھی ثابت نہیں کیا جاتا تو پھر کیوں منوایا جاتا ہے کہ آپ غیر اقوام کی طرف سینکڑوں میل کا چکر کاٹ کر گئے تھے اور خواہ مخواہ بے فائدہ تبلیغ کرتے رہے۔ بالخصوص جب کہ ابھی تک یہودی کشمیر میں تبلیغ کے محتاج تھے اور آپ کو وہاں جا کر تبلیغ کرنا فرض کیا گیا تھا تو ایک

فرض تبلیغ کو چھوڑ کر زندگی تبلیغ کی طرف قدم اٹھانا ایک صاحب شریعت نبی کی شان کے شایان معلوم نہیں ہوتا۔

۹..... بارگاہ الہی میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اظہار بیان یوں مذکور ہے کہ: ”کننت علیہم شہیداً مادمت فیہم“ جب تک میں بنی اسرائیل میں دیکھ بھال کرتا رہا۔ کون نے میرے سامنے اظہار شرک نہیں کیا تھا۔ اب یہودی تین قسم کے بتائے جاتے ہیں۔ شامی، کشمیری اور افغانی۔ مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اپنے اس بیان میں کون سے یہودی مراد لئے ہیں۔ کشمیری اور افغانی یہودیوں میں جب آپ کی تبلیغ کا کوئی سچا اور پختہ ثبوت نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ اس آیت میں شامی یہودی ہی مراد ہوں گے اور یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبلیغ وہیں منحصر تھی نہ کشمیر میں تھی اور نہ افغانستان یا بنارس میں۔ بالخصوص بنارس کی تبلیغ کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ ان اطراف میں کوئی یہودی ثابت نہیں کیا گیا۔ اگر یہ عذر کیا جائے کہ یہ جواب آپ کی تبلیغی عمر کے تمام حصوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ صرف اس حصہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جو آپ نے خاص شامی یہودیوں میں بسر کی تھی تو حیات مسیح کا دروازہ بالکل کھل جاتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف اسی اصول پر بند تھا کہ آپ ساری تبلیغی عمر میں یہودیوں سے باخبر رہے تھے۔

۱۰..... آیت متذکرہ بالا کے ماقبل وما بعد ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن یہودیوں میں آپ کا دوام عمر اور بقاء ہا انہی میں ہی تونی ہوئی یعنی شام کے یہودیوں میں آپ نے تبلیغی عمر بسر کی اور ان ہی میں تونی کا واقعہ پیش آیا۔ مگر اس تھیوری نے اس آیت کو ایسا بے لطف کر دیا ہے کہ دوام عمر کی جگہ تو شام میں معین کی ہے اور تونی کشمیر کے فرضی یہودیوں میں مقرر کر ڈالی ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں نہ افغانی یہودیوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ کشمیری یہودیوں کا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تھیوری معقولیت سے بھی بالکل خالی ہے۔

۱۱..... آیت شریف ”انسی متوفیک ورافعک ومطہرک“ میں بھی ترحیب مضمون کی رہنمائی کے ماتحت یہ کہنا پڑتا ہے کہ تونی، رفع اور تطہیر کا ایک ہی مقام ہے۔ کیونکہ مرزائی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شام کے یہودیوں نے آپ کو صلیب پر کھینچنے سے ملعون ثابت کرنا چاہا تھا۔ مگر خدا نے اپنی حکمت عملی سے آپ کو اس لعنت سے بچالیا۔ اب رفع روحانی اور تونی بھی اگر ان ہی مخالفوں کے سامنے ہوتی تو ان پر تمام حجت ہو سکتی تھی کہ یہ جو جس کو تم ملعون ثابت کرتے تھے، دیکھو اس کا رفع روحانی بذریعہ موت جسمانی ہو رہا ہے۔ مگر حیرت ہے کہ آپ کو روپوش کر کے کس مہرے کے عالم میں کشمیر پہنچایا جاتا ہے اور مطلقاً مخالفین کو اطلاع نہیں دی جاتی کہ کشمیر میں

آپ کی رفع روحانی قرار پائی ہے تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا نکل سکتا ہے کہ یہودیوں کو اگر کہا جائے کہ آپ کی رفعت روحانی کشمیر میں ہو چکی ہے تو وہ صاف کہیں گے کہ تم میں شے لطیف کی بہت کمی ہے۔

۱۲..... یہ تھیوری اس لئے بھی غلط ہے کہ کبھی تو یوں کہا جاتا ہے کہ مسیح کی اولاد نہ تھی اور کبھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ خیل آپ کی اولاد ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے کہ والدہ سے آپ کو نفرت تھی اور اسے کس پسر کی حالت میں چھوڑ دیا تھا اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں وہ بھی کشمیر میں آپ کے ہمراہ تھیں اور شیخ نصیر الدین کی قبر کو مریم کی قبر قرار دیا جاتا ہے۔

۱۳..... مرہم عیسیٰ کو واقعہ صلیب کے بعد صحت جسمانی اور حیات جسمانی کی دلیل بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مرہم ضربہ سقطہ اور ناسور و طاعون کے لئے بنائی گئی ہے۔ مخصوص طور پر زخموں کے لئے نہیں بنائی جاتی تو کیا حضرت مسیح کو واقعہ صلیب کے بعد قبر نما سردخانہ میں طاعون بھی ہوا تھا۔ یا ناسور بھی پڑ گئے تھے۔ کہیں سے گر بھی پڑے تھے یا کہیں چوٹ بھی لگی تھی؟ اگر زخموں کے لئے بنانا اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت مسیح کو صلیبی زخم ہوئے تھے تو یہ بھی امکان ہوگا کہ دوسری بیماریاں بھی آپ کو ہوئی ہوں گی۔ اس اصول کے مطابق یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ جبریل بھی ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے کہ طب کی کتابوں میں دواء جبریل بھی مشہور نسخہ ہے۔ نمک سلیمانی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاید بنایا تھا؟ ایک ذوائی کا نام بید اللہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ دوائیوں کا بنا ہوا ہے۔ شرب الصالحین ایک شربت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین شراب بھی پیا کرتے تھے۔ کتاب ضربت عیسوی میں لکھا ہے کہ اس کا نام صرف مرہم عیسیٰ نہیں ہے بلکہ اسے مرہم رسل، مرہم سلیمان، مرہم حواریں، مرہم مندیا، مرہم زہرہ، مرہم اثنا عشری بھی کہتے ہیں۔ یونانی زبان میں اسے ڈوویکارفار میکم کہتے ہیں۔ یعنی بارہ دوائیں (موم سپید، راتینج اشق، زراوند طویل، کندر، جاء شیر، مرکب، بیروزہ، مقل مردہ سنگ، روغن زیت، زنگار) مگر اس وجہ تسمیہ میں زخم مسیح کا کوئی ذکر نہیں۔ غالباً بعد میں جب دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے تو اس کا تقدس بڑھانے کے مجوسیوں نے تو اسے مرہم زہرہ کہہ دیا نہ اس لئے کہ زہرہ ستارہ کو بھی کبھی زخم ہوا تھا۔ بلکہ اس لئے کہ وہ اس کی پرستش کرتے تھے اور یہ عادت ہے کہ بہت مفید اور کامل الازاء چیز کو اپنے معبود یا کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ اسی بناء پر حضرات شیعہ نے اسے مرہم اثنا عشری کا لقب دے کر تصور دلایا ہے کہ گویا ائمہ اہل بیت کے بارہ اماموں کا فرمودہ ہے۔ حالانکہ بارہویں امام کا ظہور ابھی تک زیر بحث ہے۔ عیسائیوں نے اس کو بارہ رسولوں کی طرف

منسوب کر دیا۔ لیکن باوجود اس مقدس وجہ تسمیہ کے یہ لفظ کسی نے نہیں لکھے کہ خاص طور پر واقعہ صلیب کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ مرہم استعمال کی گئی تھی۔ جب کہ آپ کو صلیب پر میخوں سے زخم آئے تھے اور طبی نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مرہم اس جگہ استعمال کی جاتی ہے کہ جب پھوڑے پھنسی گندے مواد سے بھر جائیں۔ نہ ان تازہ زخموں کے لئے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ ہاں ضربہ سقطہ کے لئے کارآمد ہے۔ مگر لوہے سے جو زخم آئے ہوں اور ان میں ضربہ سقطہ کے آثار نہ ہوں۔ ان کے واسطے یہ مرہم مخصوص نہیں ہے۔ اس لئے اس مرہم کو ہجرت کشمیر پر دلیل پیش کرنا قابل اعتبار نہ ہوگا۔

۱۳..... مرزائی تعلیم میں جب معجزات عیسویہ کو عمل بالید، عمل ترب اور دوائیوں یا خاص خاص چشموں کے پانیوں کی تاثیرات پر مبنی کیا گیا ہے تو صاف یوں کیوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ حواریوں کے پاس یہ مرہم ہر وقت تیار رہتی تھی۔ جس سے اعجاز نمائی کے طور پر پھوڑے پھنسیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ مگر چونکہ ہجرت کشمیر ثابت کرنا تھا۔ اپنا مذہبی اصول چھوڑ کر بات کا بتکلم بنادیا اور اخیر میں لکھ دیا کہ لوگوں نے گواہی سے مرہم عیسیٰ تسلیم کیا ہے۔ مگر اس سے تاریخی فائدہ نہیں اٹھایا۔ مگر مخالف کہہ سکتا ہے کہ۔

خن شناس نہ دلبرا خطا اینجاست

جناب نے جو تاریخی فائدہ اٹھایا ہے وہ سب خیالی ہے اور واقعات اس کی سخت تردید کر رہے ہیں۔ اگر ایسے وہی مواد کو کچھ وقعت دی جا سکتی ہے تو ہندوستان و پنجاب میں مکہ، مدینہ، مہدی آباد، مصطفیٰ آباد، محمدی پور وغیرہ بہت سے مقامات موجود ہیں۔ معلوم نہیں کہ قادیانی موشگافی یہاں پر کیا کیا گل کھلاتی ہوگی۔ خصوصاً شیعہ آبادی میں جب ائمہ اہل بیت کے نام پر بارہ بستیوں کے نام ائمہ اطہار سے منسوب پائیں گے تو اور بھی ان کے لئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہہ دیں کہ بارہ اماموں کی اصل جگہ یہی بستیاں ہیں یا کم از کم یہاں بروز ضرور ہوا ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے اس طرح کے نام مشہور ہوں۔ گویا مرزائی تعلیم میں ہر ایک چیز کی وجہ تسمیہ میں ضرور واقعات مسیح سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ (بہت خوب)

۱۵..... چونکہ یہ نظریہ اسلام کی مسلسل تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے قابل التفات

نہیں اور جو اسلامی ثبوت پیش کئے جاتے ہیں ان میں قطع و برید کی گئی ہے۔ چنانچہ اکمال الدین ایک شیعہ مذہب کی مسئلہ غیبیہ پر کتاب لکھی گئی ہے اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے حالات و اقوال سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا ہے۔ مگر مرزائی تعلیم میں اس کو کتاب یوز آسف کا ترجمہ صرف اس بناء پر

بتایا جاتا ہے کہ اس میں چند اوراق کے اندر حکیم بلوہر کے نصاب بھی درج ہیں۔ اسی طرح روضۃ الصفاء ایک مسلمہ اور مذہبی تاریخ ہے۔ اس میں واقعہ صلیب سے اول کے حالات متعلقہ مسیح کا ذکر ہے۔ مگر اس نظریہ میں اس کو تبدیل کر کے واقعہ بعد صلیب قرار دیا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اکمال الدین میں شہزادہ یوز آسف کے تفصیلی سوانح حیات قلمبند کرتے ہوئے مصنف نے اس کے باپ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ شہزادہ ایک دفعہ اپنے ملک میں خدارسیدہ ہو کر واپس بھی گیا تھا اور والدین نے بہت خوشی منائی تھی۔ مگر یہ تبلیغ کرتے ہوئے پھر اپنے ملک سے چلا آیا تھا اور کشمیر میں آ کر گوشہ نشین ہوا اور یابدشاگرد کو وصیت کر کے وفات پائی۔ بہر حال یوز آسف کی تاریخ میں واقعہ صلیب کا ذرہ بھر بھی ذکر نہیں اور نہ ہی یہ ذکر ہے کہ کوئی قوم اس کو گرفتار کر کے سلطان وقت کے دربار میں بغاوت کے الزام میں لے گئی تھی۔ لیکن مرزائی تعلیم نے اس تاریخی واقعہ کو اس طرح تبدیل کر دیا ہے کہ اس کا سراور پاؤں دونوں کاٹ کر درمیانی حصہ مسیح پر چسپاں کر کے دکھلادیا ہے کہ یوز آسف، یسوع بن یوسف ہی تھا۔ وہی بیانات کو یقینی اصول و عقائد کی صف میں کھڑا کرنے میں کمال جرأت سے کام لیا ہے۔ اس لئے محققین کی نظر میں یہ نظریہ گناہ عظیم کا ارتکاب ثابت ہوا ہے۔

۱۶..... اس نظریہ میں کچھ معقولیت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قرین قیاس کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد قبر نما سردخانہ میں چالیس روز تک زیر علاج رہیں اور بارہ حواری جمع ہو کر کمال اطمینان کے ساتھ ایک مرہم عیسیٰ بھی تیار کریں اور باقاعدہ تیمارداری میں لگے رہیں۔ مگر یہودیوں کو ذرہ بھی اطلاع نہ ہوئی ہو اور ایک روایت کی رو سے حضرت مسیح تیسرے روز جلیل تک سفر بھی کر کے واپس آ گئے ہوں۔ لیکن یہودی ایسے اندھے اور بہرے ہو گئے ہوں کہ نہ ان کو حواریوں کا اجتماع نظر آیا تھا اور نہ ان کو حضرت کے متعلق کوئی واقعہ سنائی دیا۔ سب سے بڑھ کر اس نظریہ میں یہ نامعقولیت بھی ہے کہ خواہ مخواہ حضرت کو تکلیف دی گئی ہے کہ بنارس تک تین ہزار کوس کا دور دراز سفر کاٹ کر پھر واپس تشریف لائیں۔ یہاں قدرۃ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنارس کیوں گئے تھے؟ اگر وہ دیکھنے گئے تھے تو انجیل کلام الہی تسلیم نہیں کی جاسکتی اور اگر تبلیغ کے لئے گئے تھے تو بنارس میں یہودی قوم کا وجود ثابت کرنا پڑتا ہے جو بالکل ناممکن ہے۔ ایک اور نامعقولیت ادنیٰ غور کے بعد بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ آج سے انیس سو سال قبل ہندوستان میں نہ امن تھا، نہ سرکیں تھیں نہ اس قدر گنجان آبادی تھی اور نہ خورد و نوش کے سامان مہیا کرنے کے وسائل حاصل تھے۔ ان دنوں ایک سو میل طے کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا تو آپ نے کس طرح پانچ

ہزار میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ اپنے آپ کو پنجاب کے دریاؤں اور جنگلوں سے کیسے پارا تارا تھا اور اپنے چار شاگردوں اور اپنی والدہ کو کیسے امن کے ساتھ بنارس تک پہنچایا تھا۔ بہر حال ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا؟

۱۷..... جب یوں کہا جاتا ہے کہ یوز آسف مہا تمباہہ اور یسوع ایک شخص کے نام ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے قبر مہا تمباہہ کی ہے جو بگڑ کر یوز آسف کی قبر مشہور ہو گئی ہے۔ ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر نہیں ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ اگر بدھ کی قبر ہوتی تو آج بدھ مذہب کے ماننے والوں کا اس پر قبضہ ہوتا اور ساری دنیا کے بدھ اس پر جمع ہوا کرتے۔ مگر یہ خیال نہیں کیا کہ اگر یہی قبر مسیح علیہ السلام کی ہوتی تو ساری عیسائی دنیا اس پر الٹ کر آ جاتی اور اس کو موجودہ حالت میں شکستہ و ویران نہ چھوڑتی اور کبھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ گو بدھ اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں مشابہت ہے۔ مگر اس مشابہت سے دو شخص ایک آدمی نہیں بن سکتے۔ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ گو یوز آسف اور حضرت مسیح کے سوانح حیات کچھ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہوں۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دو شخص سے ایک آدمی بن جاتا ہے۔ بلکہ یہ صرف توہمات ہیں۔ جن سے کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا۔

۱۸..... صرف نبی کے لفظ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت مسیح علیہ السلام کی تھی۔ کیونکہ یہ لفظ یا مسلمانوں میں مروج ہے اور یا یہودیوں اور عیسائیوں میں۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ اگر صاحب قبر اسلام سے پہلے ہو چکا ہے تو ضرور بنی اسرائیلی ہوگا۔ مگر بحث تو اس میں ہے کہ کشمیریوں نے اس کو نبی کیوں کہا۔ کیا کشمیری زبان بھی عربی یا عبرانی کی ایک قسم ہے تاکہ کہا جاسکے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے سوا یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ غور سے اگر دیکھا جائے تو کشمیری زبان فارسی زبان کی تبدیل شدہ صورت ہے اور فارس و ایران میں زرتشت کو نبی مانا جاتا تھا اور اب بھی مرزائی تعلیم میں اسے نبی کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ زرتشت نہ مسلمان تھا اور نہ یہودی یا عیسائی۔ بلکہ ایک مستقل مذہب کا مالک تھا۔ اس لئے یہ ثبوت بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اسلامی تاثرات سے پہلے یوز آسف کے ساتھ رشی کا لفظ شامل کیا گیا ہو جس کا ترجمہ نبی گھڑ لیا گیا ہے۔ بہر حال یہ امر ثابت کرنا مشکل ہے کہ یوز آسف کی وفات کے وقت اس کو نبی کے لفظ سے پکارا جاتا تھا اور رشی، ہنسی وغیرہ سے معنون نہیں ہوتا تھا۔

۱۹..... کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دے کر ثابت کیا گیا ہے کہ آپ نے بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہندوستان میں ہجرت کی تھی۔ مگر

لفظ کمال آدم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں کی وفات بھی ایک ہی جگہ ہوئی تھی۔ کیونکہ ہجرت سے وفات لازم نہیں آتی۔ بلکہ اگر آیت زیر بحث کا مفہوم واقعہ ہجرت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توفی سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام بھی ہندوستان چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ اگر خلق من تراب کا حصہ بھی ساتھ ملا یا جائے تو یہ ساری کوشش خاک میں مل جاتی ہے۔ کیونکہ صاف اور صحیح مطلب یہی ہوگا کہ حضرت آدم و مسیح علیہم السلام دونوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی نہ کہ ذات باری تعالیٰ سے۔ جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹا تھے اور وفات مسیح علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتے۔

۲۰..... مدینہ شریف کے پاس جس قبر سے استدلال کیا گیا ہے کہ کم از کم اس روایت سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ مسیح واقعہ صلیب کے بعد زمین پر ہی تھے۔ آسمان پر نہیں گئے۔ مگر یہ خیال رہے کہ یہ قبر کس حواری کی ہے۔ خود مسیح علیہ السلام کی نہیں ہے۔ جیسا کہ اپنے مقام پر ثابت کیا جائے گا۔ ہاں مگر تعجب خیز یہ امر ہے کہ: ”مرزائی خیالات کی روایت اس امر کی بھی مظہر ہے کہ کوئی شخص کشمیر سے کتبہ اٹھا کر لے گیا تھا اور اس قبر پر رکھ دیا تھا۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کب عربی کشمیر میں آئے تھے۔ کب ان دو ملکوں کی تجارت باہمی ہوئی تھی اور کون عقل کا دشمن ہتلا رہا تھا کہ قبر کا کتبہ ایک عربی سینکڑوں میل تک اٹھا کر لے گیا تھا۔ اگر لے بھی گیا تھا تو راوی بتائے کہ کیوں لے گیا؟ کیا وہ جیب میں ڈالا جا سکتا تھا؟ یا کشمیر اور مدینہ شریف کے درمیان ریلوے جاری تھی کہ آسانی کے ساتھ ایک بو جھل پتھر کو لے جانا آسان کام سمجھا گیا ہے۔ شاید بقول شخصے اس راوی نے دھوپ میں بیٹھ کر یہ گپ جوڑی تھی۔“

۲۱..... کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ سیاح نبی تھے۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعہ صلیب کے بعد یہ لقب حاصل کیا ہوگا۔ کیونکہ ۳۳ برس تک سیاحت نہیں کی جاسکتی۔ مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ سیاح کے لئے ہجرت کشمیر بھی ضروری ہے۔ کیا دوسرے ملک سیاحت کے لئے کافی نہیں ہیں؟ آپ کی سیاحت کا ثبوت لینا ہوتا تو انجیل برنباس پڑھیں۔ جس میں لکھا ہے کہ یوم ولادت سے واقعہ صلیب تک آپ کو کہیں آرام نہیں ملا۔ ورنہ خیالی گھوڑے نہ دوڑائیں۔

۲۲..... یہاں ایک اور وہی تصور پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ حواریوں کو افشائے راز کا حکم نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے کبھی تو یوں کہہ دیا کہ مسیح آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور کبھی کہہ دیا کہ مر گئے ہیں تاکہ یہود تعاقب نہ کریں اور جس جگہ کا نام لیتے تھے وہیں مصنوعی قبریں تیار کی جاتی تھیں۔ مگر حواریوں کو جب رسالت کا مرتبہ دیا جاتا ہے تو پھر انہوں نے جعل سازی اور خلاف

بیانی سے کیوں کام لینا شروع کیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں دورخی باتیں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گودہ حواری رسول تھے اور ملہم بھی تھے۔ مگر جھوٹ بھی بولتے تھے اور جلسازی بھی کر لیا کرتے تھے۔

بریں عقل و دانش بپاید گریست

۲۳..... ”لہ و دی“ کی اصلیب الماہ بمعنی جوان عورت بتائی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد مریم علیہا السلام ہیں۔ مگر اس نکتہ آفرینی میں علاوہ مخالفت تاریخ کے ایک پر لطف نظریہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے وقت ۳۳ برس کے تھے۔ مگر کشمیر پہنچتے وقت آپ کی والدہ ابھی جوان تھیں۔ بہت خوب بچہ ۳۳ سال سے اوپر اور ماں ابھی جوان ابھی مریم علیہا السلام کی دوسری اولاد کا ذکر نہیں کیا۔ ورنہ تو آپ کا سن بلوغ بھی خطرہ میں پڑ جاتا۔

۲۴..... قادیانی لغات دنیا سے الگ ہے۔ جن کی تصدیق کسی محاورہ یا کتاب سے نہیں ہو سکتی اور عوامان میں پنجابی خیالات کو دخل ہوتا ہے۔ گویا ازسرنو الفاظ کے معنی تجویز کئے گئے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف اور اسلامی تعلیمات کے معانی جب بطرز جدید اختراع ہوئے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ باقی الفاظ متعلقہ بھی ازسرنو وضع نہ کئے جاتے۔ اس لئے نئی وضع کے معنی ان لوگوں کے لئے حجت نہیں ہو سکتے جو قدیم وضع کو ماننے والے ہیں اور ایسی نکتہ آفرینیوں کو خیال توہمات کے سوا نہیں مان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے نئے نظریے قائم کئے گئے ہیں۔ جنہوں نے موجب افتراق و اشتقاق بن کر باہمی جنگ و جدال کو برپا کر دیا ہے۔ ورنہ اگر اصل پر ان الفاظ کو قائم رکھا جاتا تو بہت سی مذہبی اسحاٹ کا خاتمہ ہی ہو جاتا۔ اس مقصد کے نظائر پیش کرنے کے لئے ذیل میں چند لغات قادیانیہ پیش کئے جاتے ہیں تاکہ ناظرین انصاف سے فیصلہ کریں کہ یہ لوگ کہاں تک حق بجانب ہیں۔

### ۳..... لغات قادیانیہ

- ۱..... یوز آسف یسوع بن یوسف کا مخفف ہے۔
- ۲..... آسف غمگین یا جامع المعترقین کا معنی دیتا ہے
- ۳..... ”لہ و دی“ حضرت مریم علیہا السلام کا نام ہے۔
- ۴..... ایسکول اصل میں عیسیٰ کول یعنی نزدیک ہے۔



- .....۵ ”ارض سولابت“ ارض صلیبی کا مخفف ہے۔
- .....۶ نبی اور مرسل خدا سے دعایا باتیں کرنے والا۔
- .....۷ زخمیل زنا اور جبل سے مرکب ہے۔
- .....۸ سوراصل میں ارہہ سوء تھا۔
- .....۹ خنزیر اصل میں ارہہ خنز یعنی نجس ہے۔
- .....۱۰ برزخ کا معنی ہے اس کی کمائی انتہاء کو پہنچ گئی۔
- .....۱۱ برتھو ما بگڑ کر بلوہر بن گیا ہے۔
- .....۱۲ بدھ ایک لقب ہے جو راست بازوں کو دیا جاتا ہے۔
- .....۱۳ صلب پیٹھ کی ہڈی توڑنا صلیب پر مر جانا۔
- .....۱۴ خاتم نمبردار جس کے پاس تصدیقی مہر ہو۔
- .....۱۵ خاتم النبیین جامع النبوات اور چانسٹر۔
- .....۱۶ خاتم الخلفاء تمام خلفوں کا جامع۔
- .....۱۷ خاتم الاولاد صرف اپنی نسل چلانے والا۔
- .....۱۸ باجون ماجوج آگ سے کام لینے والا۔
- .....۱۹ دجال ایک تاجر نہ جماعت ہے۔
- .....۲۰ دجالون، حق پر پردہ ڈالنے والی جماعت۔ یا ملک میں پھیلنے والی مکار اور فریبی جماعت۔
- .....۲۱ زقوم، ذوق انک انت العزیز انکریم کا مخفف ہے۔
- .....۲۲ جن، پوشیدہ رہنے والا۔
- .....۲۳ بروز کسی کی مانند اخلاق حاصل کرنا۔
- .....۲۴ ظل ماتحت رہنا۔
- .....۲۵ عکس فوٹو یا تصویر بننا۔
- .....۲۶ مہدی اسم علم نہیں اس لئے مسیح موعود بھی مہدی بن سکتا ہے۔
- .....۲۷ قیامت دوسرے جہاں میں چلے جانا۔
- .....۲۸ جنت دوسرے عالم میں روحانی لذت پانا۔
- .....۲۹ نار دوسری دنیا میں تکلیف اٹھانا۔
- .....۳۰ کدعہ قادیان کا نام ہے۔

.....۳۱ بشوری انجیل کو کہتے ہیں۔

.....۳۲ لد، لدھیانہ شہر۔

.....۳۳ کفر انگریزی ٹوپی۔ (نہ کوٹ)

.....۳۴ تجدید، اسلامی تعلیم کو بدل ڈالنا۔

.....۲۵ انجیل متی کے حوالہ جات سے ثابت کیا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنی

وفات کے بعد یوحنا کو روحانی طور پر جسمانی رنگ میں ملے تھے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے حواریوں سے بھی ملے تھے اور جسمانی رنگ میں ہو کر کباب اور شہد بھی استعمال کیا تھا تا کہ ان کو یہ شک پیدا نہ ہو کہ یہ روحانی ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حواری آپ کا علاج کرتے تھے اور آپ کے راز دار تھے اور لوگوں کو بہکا کر کہتے تھے کہ مسیح آسمان پر چلا گیا ہے یا جھوٹی قبریں بنا کر موت کا یقین دلاتے تھے۔ بہر حال یہ متضاد بیان ثابت کرتے ہیں کہ یا تو ان بیانات کا پیدا کرنے والا وہمیات کا شکار ہو کر ایک عقیدہ پر قائم نہیں اور یا معاذ اللہ حواری ہی ایسے کمزور دماغ تھے کہ اپنی بات ان کو یاد نہیں رہتی تھی۔

.....۲۶ انجیل میں لکھا ہے کہ تصدیق مسیح کے لئے بیت المقدس کے مردے نکل

آئے تھے۔ یہ بات گو قرین قیاس نہ ہو اور تاریخی ثبوت کی محتاج ہے۔ مگر اس کو صحیح مان کر یوں کہنا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ صرف قادیانی معارف کا ایک کرشمہ ہے کہ واقعات کو خواہ مخواہ خواب تصور کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس مذہب میں خواب اور اونگھ سے بہت کام لیا گیا ہے تو لوگوں کو بھی ہر وقت سوئے ہوئے ہی خیال کرتے ہیں۔ المرئی قیس علی نفسه!

.....۲۷ نزول مسیح کی پیشین گوئی کو جو انجیل متی میں مذکور ہے موڑ توڑ کر ایسا بدل دیا

ہے کہ ایک سرسری نظر سے بھی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انجیل میں تو قحط، طاعون، جنگ و جدال، انقلاب اقوام اور آیات ارضی و سماوی نزول مسیح سے پہلے لکھے ہیں۔ مگر اس تعلیم میں ظہور مسیح علیہ السلام کے بعد پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ گویا غیر کا مال چور کر اپنا بنا لیا گیا ہے۔ معلوم نہیں خدا اس جلسا سازی کا بدلہ کیادے گا۔

.....۲۸ کہا جاتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہودی یقین کئے ہوئے تھے کہ

حضرت مسیح علیہ السلام صلیبی موت سے مر کر معاذ اللہ ملعون ہوئے ہیں اور ان کی روح خدا کی طرف نہیں گئی۔ (بلکہ کسی اور جگہ چلی گئی ہے) مگر قرآن شریف نے شبہ لہم کہہ کر بتا دیا کہ ان کو اشتباہ میں ڈالا گیا تھا۔ ورنہ اصل میں آپ نیم مردہ اتارے گئے تھے اور ۸۷ برس بعد کشمیر میں اپنی

جسمانی موت سے مرے تھے اور آپ کی روح خدا کی طرف گئی تھی۔ چنانچہ ”اوینا ہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین“ میں مذکور ہے۔ اس عقیدہ پر دلیل یوں دی گئی ہے کہ چونکہ یہود و نصاریٰ میں صرف یہ تنازع چلا آتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع روحانی ہوا ہے یا نہیں؟ تو قرآن شریف نے بتا دیا کہ رفع روحانی ہو گیا ہے اور رفع جسمانی کا باہمی تنازع کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے رفع جسمانی ثابت کرنا بیجا اور بے محل ہوگا۔ لیکن اس خیالی استدلال سے کچھ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ مرزائی تعلیم سے پہلے کسی مذہبی تعلیم نے قرآنی تعلیم کو اس طرح پیش نہیں کیا اور نہ کوئی تصریح موجود ہے کہ یہودیوں کو ایسا جواب دیا گیا تھا۔ اس لئے اگر یہ نظریہ الہام پر مبنی ہے تو غیر مذہب کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا اور اگر اجتہادی رنگ میں پیش کیا گیا ہے تو جب تک اس خیال کو تاریخی یا مذہبی حوالہ جات سے مستند نہ کیا جائے قابل توجہ نہیں ہے اور اگر اس خیال کو کسی تاریخ یا مذہبی روایت کی ضرورت نہیں تو تحریف قرآنی میں درج ہوگا۔ اس کے علاوہ اس خیال میں معقولیت ذرہ بھر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جن یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب پر مار ڈالا ہے۔ انیس سو سال کے بعد ان سے یوں کہنا کہ مسیح کا رفع روحانی کشمیر میں ہوا ہے۔ ایسا مضحکہ خیز امر ہوگا کہ جس پر بچے بھی پھبتی اڑا سکتے ہیں۔ کیونکہ نزول قرآن تک بلکہ مرزائی تعلیم کے آغاز تک عیسائیوں کی طرف سے اور اسلام نے یہی جواب دیا جا رہا تھا کہ مسیح کا رفع روحانی (کشمیر میں مرنے سے نہیں ہوا بلکہ) آسمان پر رفع جسمانی کے ذریعہ سے ہوا ہے۔ مگر آج مسلسل تعلیم کے خلاف یوں کہا جاتا ہے کہ رفع روحانی کشمیر میں ہوا ہے اور اس کا ثبوت بھی سوائے وہی باتوں کے پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ یوز آسف کا حصہ لیا، کچھ تاریخ بدھ کا اور کچھ سیاح روسی کا بیان تبدیل کیا اور کچھ روضۃ الصفاء کی عبارتوں میں قطع و برید کی تو ایک قصہ اختراع کر لیا کہ مسیح کشمیر میں مرے تھے۔ ورنہ یکجائی حالات کسی کتاب سے پیش کرنے سے وفات مسیح کے متوالے بالکل عاجز ہیں جو کچھ پیش کرتے ہیں۔ ظالمانہ قطع و برید اور گداگری سے پیش کرتے ہیں۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھان متی نے کوٹھا جوڑا۔

۲۹..... ”وجیہا فی الدنیا“ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر کشمیر میں سکھ رائج ہوا تھا اور ”اوینہما“ سے پیش کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں مسیح علیہ السلام اور مریم علیہا السلام دونوں نے یہودیوں سے ڈر کر پناہ لی تھی۔ پہلا بیان ثابت کرتا ہے کہ ان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ کیونکہ مسیحی سکھ کسی ملک میں محدود نہ تھا۔ بالخصوص جب کہ یہ مانا گیا ہے کہ کسی تاجر عربی نے ایک کتبہ بھی قبر مسیح سے چرا کر مدینہ شریف کے پاس ایک قبر پر لگا دیا تھا تو اس بات کے انکار کی

کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ مسیحی اسکے یہودی تاجروں کے ذریعہ ملک شام میں ضرور ہی پہنچ نہ گیا ہوگا۔ مگر چونکہ مسیح اس وقت بادشاہ تھے۔ اس لئے یہودیوں کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو گرفتار کر کے دوبارہ پلاطوس کے سامنے حاضر کر دیتے۔ مگر اتنا تو کر سکتے تھے کہ اپنا عقیدہ ضرور تبدیل کر دیتے کہ ہم مسیح کو صلیبی موت دینے میں کامیاب نہیں ہوئے اس کا جواب مرزائی تعلیم میں نہیں ملتا۔ دوسرا ایمان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مسیح روپوش ہو کر کس پرسی کی حالت میں پناہ گزین تھے اور کوئی وجاہت دنیاوی ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اگر افغانستان کی شادی کا خیالی منظر شامل کیا جائے تو واقعات کی یوں ترتیب دی جا سکتی ہے کہ پہلے پناہ گزین تھے۔ پہلے آپ کا سکہ رائج ہوا۔ پھر افغانستان میں شادی کی۔ پھر واپس آ کر گوشہ نشین ہوئے تو پہلے آپ مرے یا ماں مری تو آپ کی قبر کو یوز آسف کی قبر سے مشہور کیا گیا اور آپ کی والدہ کی قبر کو شیخ نصیر الدین مرحوم کی قبر بتایا گیا اور کسی وقت یہ دونوں قبریں بیت المقدس کی طرف رخ نما تھیں۔ بعد میں کسی اسلامی عہد میں ان کو قبلہ رخ کر دیا گیا۔ کیا مرزائی تعلیم اس ترتیب واقعات کو تسلیم کرے گی؟ اور یا ہماری طرف پائے تحقیر سے ٹھکرا کر مجذوب کی بڑ سمجھے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی وجاہت مذہبی طور پر نزول قرآن سے پہلے تسلیم ہو چکی تھی۔ جس کی تصدیق اسلام بھی آج تک کر رہا ہے۔ باقی رہا سکہ جمانا اور اس پر وجاہت دنیاوی متفرع کرنا سو یہ ایک ایسی بات ہے کہ بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی پناہ گزینی جو واقعات اور تصریحات انجیلی سے ثابت ہے۔ وہ آپ کا ابتدائی سفر ہے جو آپ نے اپنی والدہ کے ہمراہ مصر کو کیا تھا۔ جیسا کہ انجیل برنباں میں مذکور ہے نہ یہ کہ کشمیر میں آئے تھے۔ جس کا کوئی ثبوت آج تک پیش نہیں کیا گیا۔

۳۰..... جب حیات مسیح کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے تو مرزائی تعلیم مخول اڑاتی ہے کہ خدا نے مسیح علیہ السلام کو کھڑکی کی راہ سے یا چھت پھاڑ کر ڈاکہ کے ذریعہ مسیح علیہ السلام کو اڑا لیا تھا تو سیدھا کیوں نہ بلا لیا۔ کیا ضرورت تھی کہ دوسرے کو مسیح علیہ السلام کا ہم شکل بنایا تو کیا دھوکا دینا اچھا کام ہے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جس کو مسیح علیہ السلام کی جگہ صلیب دیا گیا تھا وہ کون تھا؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ بے وجہ اس کو سولی دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے۔ اگر آسمان پر مسیح علیہ السلام تھے تو پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ جسمانی چیز ہے۔ تحقیق جدید تو اسے ایک رقیق عنصر سمجھتی ہے۔ یا صرف حدنگاہ ثابت کرتی ہے تو اس پر انسان کا گذار کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ خورد و نوش کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ پرانی تحقیق کے مطابق جب آسمان گول ہے تو گول چیز پر تو کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی تو آپ کیسے اب تک زندہ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک وہ بوڑھے نہیں

ہوئے۔ کیا آپ کی عقل ابھی تک قائم ہے؟ آسمان سے نزول کے بعد اسلامی تعلیم اور عربی زبان کس سے سیکھیں گے۔ وہ عبرانی بولیں گے اور لوگ عربی جدید یا انگریزی، تو آتے ہی آپ کو حکومت کس طرح حاصل ہوگی؟ مہدی الرضوان کے ساتھ ملکر نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ان کو طریق جماعت پہلے سے ہی کسی نے سکھلا دیا ہے؟

مگر اپنی تھیوری کا پتہ نہیں کہ کس طرح بھی درست نہیں۔ نہ کشمیر میں تبلیغ کا نشان بتایا جاتا ہے۔ نہ وہ سکھ پیش کیا جاتا ہے کہ جس پر آپ کی تصویر چھپی تھی۔ نہ عیسیٰ خیل کا اقرار موجود ہے کہ ہم پہلے عیسائی تھے اور مسیح کی اولاد۔ نہ بتایا جاتا ہے کہ اثنائے سفر میں آپ نے کہاں کہاں قیام کیا۔ کس کس جگہ آپ کے چار حواری اور والدہ آپ کے ہمراہ ہوتے گئے۔ حواری کہاں مرے ان کی قبریں کہاں ہیں۔ دشوار گزار گھاٹیوں کو آپ بلا سفر خرچ کے کیسے طے کیا۔ روزانہ آپ کا سفر کتنا تھا؟ کیا آپ روزانہ سفر کرتے تھے یا کبھی وقفہ بھی کیا تھا۔ تو کتنی مدت میں بنارس تک تین ہزار کوس سے زیادہ سفر کیا۔ کیا آپ کے حواری بنارس بھی گئے تھے۔ والدہ بھی وہاں ساتھ تھیں۔ اگر تھیں تو ان کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بنارس سے واپسی کب ہوئی؟ اور اثنائے سفر میں دریاؤں جنگلوں اور ڈاکوں اور پر خطرات راستوں سے آپ کو کس طرح نجات ملی؟ بھلا آپ تو سیاح نبی مشہور تھے تو کیا مریم علیہا السلام کو بھی سیاح کا لقب دیا گیا تھا اور آپ کے حواری بھی اس سفر کے وجہ سے سیاح کہلاتے تھے؟ کیا آپ کی والدہ جو اس وقت کم از کم چالیس پچاس سال کے درمیان تھی اس قدر تاب رکھتی تھی کہ اپنے بیٹے کے برابر روزانہ سفر کر سکے؟ کیا یہودیوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ مسیح کشمیر کو چلے گئے ہیں اور چالیس روز تک متواتر بارہ حواری علاج کرتے رہے۔ مگر یہودی کیوں معلوم نہ کر سکے؟ آخر مسیح علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر حواری خورد و نوش کرتے ہوں گے اور دوائیاں استعمال کراتے ہوں گے اور مقویات سے مسیح علیہ السلام کو طاقتور بناتے ہوں گے۔ تاکہ ہزاروں میل کے سفر کو کاٹنے کو تیار ہو جائیں وہ کون سے مقویات ادویہ تھے؟ کہاں سے لاتے تھے؟ کیا ان تمام حالات سے یہودی بے خبر تھے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کو تو کشمیر پہنچا دیا اور یہودیوں کو اس شبہ میں (چھ سو سال تک بلکہ آج تک) رکھا کہ مسیح علیہ السلام کی موت صلیبی واقع ہو چکی تھی؟ کیا یہ بیان ان کی تشریح کے لئے کافی ہے کہ باوجودیکہ عیسائی اور مسلمان آج تک ہجرت کشمیر کے معتقد نہیں ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ انیس سو سال بعد معلوم ہوا کہ آپ کشمیر میں مدفون ہیں۔ گھویا اتنی مدت یہ جواب مخفی رکھا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا مرزائی تعلیم کا جواب اگر کچھ عرصہ کے لئے مخفی رکھا جائے تو کیا آپ لوگ اس کو بے پرکی اڑائی ہوئی بات سمجھیں گے؟ اور کیا جو

مخول اس موقعہ پر حیات مسیح علیہ السلام کے متعلق اڑائے جاتے ہیں۔ ان کا جواب انجیل برنباس سے نہیں ملتا؟ یا جان بوجھ کر عوام الناس میں اپنی چلانے کی سوجھی ہوئی ہے؟

..... ۳۱ (کشف الاسرار ص ۱۰) میں تاریخ ہند مؤلفہ ہنٹر سے بدھ کی سوانح عمری یوں نقل کی ہے کہ گوتم بدھ بانی مذہب کا آغاز قبل از مسیح ۵۴۳ میں ہوا۔ باپ چاہتا تھا کہ وہ سپاہی بنے مگر اس نے بچپن کا زمانہ آزادی سے کاٹا اور جوانی میں ایک طاقتور سپاہی بن گیا اور شہزادی سے بیاہ کر لیا تو دس برس کے بعد اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور تیس برس کی عمر میں ہال بچے اور بیوی کو چھوڑ کر زاہد بن گیا اور ضلع پٹنہ میں دو صحرائنشین برہمنوں سے تعلیم پائی اور چھ برس تک پانچ چیلوں کی معیت میں گیا کہ جنگلوں میں ریاضت کی پھر واعظانہ رنگ میں بدھ (عارف) مشہور ہوا اور عبادت چھوڑ دی ۳۶ برس سے ۸۰ برس تک لوگوں کو بنارس میں تعلیم دی اور تین ماہ میں ساٹھ آدمی مرید ہوئے۔ جن کو اس نے اپنے مبلغ بنا کر۔ ہر ایک ملک میں روانہ کر دیا۔ خود صوبہ بہار، ممالک مغربی و شمالی اور اودھ میں تبلیغ کی۔ اب خلاصہ ہے کہ ۳۰ برس میں تارک الدنیا ہوا۔ ۳۶ برس کی عمر میں تعلیم پائی اور ۴۴ سال تک واعظ رہا۔ اسی سال کی عمر میں ۵۴۳ قبل مسیح انجیر کے درخت کے نیچے وفات پائی اور (تاریخ بنارس ص ۹، مطبوعہ ۱۸۷۷ء ہند پریس) پر سید محمد رفیع عالی مصنف کتاب ہڈانے لکھا ہے کہ ساڑھے پانچ سو سال مسیح علیہ السلام سے پہلے ساکیومنو (موجد مذہب بدھ) نے اپنا صدر مقام سارناٹھ مہادیو کے پاس بنایا تھا جو بنارس کی پرانی آبادی کے قریب شہر سے ڈیڑھ کوں پر ہے۔ جس کے چند نشان اب بھی پائے جاتے ہیں۔ جن کو سارناٹھ کی دھمیکھ کہتے ہیں اور یہ اونڈھی ہانڈھی کی شکل کا ایک پرانا گنبد ہے جو کسی بدھ بزرگ کی قبر معلوم ہوتا ہے۔ مسیح سے ۵۴۳ برس پہلے بدھ کے مرنے پر راجاؤں نے چاہا کہ اسے اپنے وطن میں لے جا کر دفن کریں۔ تنازع ہو گیا تو چیلوں نے لاش جلا کر ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی راکھ دے کر رخصت کر دیا۔ جس کو انہوں نے اپنے اپنے ملک میں دفن کر کے گنبد بنوائے اور پرستش شروع کر دی۔ جو بھلسا، مانکیالا میں اب تک موجود ہیں اور جن کی نقلیں اتار کر سہلہل، برہما، چین، تبت وغیرہ میں گنبد بنائے گئے ہیں۔ جیس پرنسپ نے ایک ایک دھمیکھ کھدا کر دیکھا تو ایک ڈبیہ میں تھوڑی سی ہڈی اور راکھ اور کچھ مروجہ سکے اور تانبے کی پتی پر ایک شکوک لکھا ہوا پایا گیا۔ (تاریخ ہند لٹھبرج ص ۳۰) میں ہے کہ پھون جب یوز آسف پر ایمان لایا تھا تو اس وقت تین سو برس بدھ کو ہو چکے تھے۔ بدھ مسیح سے پہلے ۵۵۰ برس پیدا ہوا اور ۴۸۷ میں مر گیا۔ کتاب (چشمہ مستحی ص ۴، خزائن ج ۲۰ ص ۳۲۰) میں ہے کہ یوز آسف کی کتاب کہ جس کے متعلق انگریز محققین کے یہ خیالات ہیں کہ وہ میلاد مسیح سے پہلے شائع

ہو چکی ہے اور جس کے تراجم ممالک مغربہ میں ہو چکے ہیں۔ انجیل کو اس کے اکثر مقامات سے ایسا توارد ہے کہ بہت سی باتیں آپس میں ملتی ہیں..... مگر ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہ کتاب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے جو سفر ہند میں لکھی گئی تھی۔ (کتاب الہدیٰ ص ۱۰۹، خزائن ج ۱۸ ص ۳۶۲) میں ہے کہ: ”یوز آسف کی نسلی بخش سوانح عمری کتاب اکمال الدین میں مذکور ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ یوز آسف نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔“ کتاب شہزادہ یوز آسف و حکیم بلوہر مطبوعہ ۱۸۹۶ء مفید عام پریس آگرہ میں بحوالہ کتاب (اکمال الدین ص ۳۱۷) میں لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں ہندوستان کا ایک بادشاہ بڑا عیش پسند اور صاحب اقبال تھا۔ اپنے ہم خیالوں کو اپنا دوست سمجھتا تھا اور حقیقی خیر خواہوں کو اپنا دشمن جانتا تھا اور چونکہ خود اصول سلطنت سے خوب ماہر تھا۔ اس لئے رعایا تابع تھی اور دشمن مغلوب رہتے تھے اور گوغر و شباب اور مال و منال کی وجاہت سے ہمیشہ مغرور رہتا تھا۔ مگر اس کے ہاں کوئی لڑکانہ تھا اور اپنی تخت نشینی کے وقت سے خدا پرستی کا دشمن بن گیا تھا اور ملک میں بت پرستی شروع کر دی تھی۔ یہاں تک کہ دینداروں کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ آخر جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام یوز آسف رکھا تو اپنا تمام خزانہ بتوں کی نذر کر دیا اور رعایا کو حکم دیا کہ ایک سال تک جشن مناتے رہیں۔ جنم پتری کے لئے نجومی جمع کئے تو سب نے کہا کہ اس لڑکے کی برکت سے ہندوستان مشرف ہوگا۔ مگر ایک منجم نے کہا کہ یہ لڑکا دینداروں کا پیشوا ہوگا اور دنیاوی عظمت اس کے سامنے ہیچ ہوگی۔ جب شہزادہ کا چہرہ عام ہوا تو لڑکا کا ایک زاہد بلوہر نامی نے ارادہ کیا کہ شہزادہ سے ملے تو بحری سفر کر کے سولاپت میں آیا اور تاجرانہ لباس پہن کر شہزادہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حاضر باشی میں مشغول رہا۔ (ص ۳۳۶ سے ۳۵۵) تک وہ تمام حالات درج ہیں جو حکیم بلوہر اور شہزادہ کے درمیان تبادلہ خیالات کے موقع پر پیدا ہوئے تھے) آخر جب حکیم بلوہر کو معلوم ہوا کہ شہزادہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق خیر خدا تعالیٰ نے عطا فرمادی ہے تو اپنے وطن کو واپس چلا گیا۔ اس لئے شہزادہ اپنے ہمراز کی جدائی میں غمزدہ رہتا تھا۔ آخر تبلیغ حق کے لئے اپنا وطن چھوڑ دیا اور شاہی لباس و زری کو دے کر واپس کر دیا اور خود اپنی راہ لی تو کچھ عرصہ تک مسافرانہ زندگی بسر کی اور اپنے وطن مولوف کو واپس آ گیا تو باپ نے بڑے تپاک سے استقبال کیا اور خوشی منائی۔ پھر طبیعت اکتا گئی تو تبلیغ حق کے لئے دوسری دفعہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تو شہر بشہر و عظ کرتا ہوا کشمیر آ پہنچا تو وہاں تبلیغ حق میں مصروف رہا اور اقامت اختیار کر لی تو جب وفات کا وقت آ گیا تو اپنے مرید یا بد کو وصیت کی کہ حق پر قائم رہو اور باطل کی طرف میلان نہ کرو۔ یہ کہہ کر پھر کہا کہ میرا مقبرہ بناؤ۔ یہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور مرتے وقت

منہ مشرق کو کیا اور سر مغرب کو اور اسی حالت میں جاں بحق ہوا۔ اب ان بیانات سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ:

۱..... بدھ یوز آسف اور مسیح علیہ السلام الگ الگ تین ہستیاں ہیں اور ان کو ایک ہستی تسلیم کرنا صرف ان لوگوں کی خوش فہمی ہے جو عیسیٰ اور مہدی دو ہستیوں کو ایک ہستی ثابت کرنے کے متوالے ہیں۔

۲..... قبر کشمیر جب قبلہ رخ اسلامی قبروں کی طرح ہے اور شیخ نصیر الدین کی قبر کے متوازی ایک خط میں واقع ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی اسرائیلی کی قبر ہو۔ کیونکہ دونوں کا بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہے۔ ورنہ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ شیخ نصیر الدین مرحوم بھی اسرائیلی بزرگ تھے۔

۳..... کتاب اکمال الدین میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب شہزادہ یوز آسف کشمیر کو آ رہا تھا تو راستہ میں اسے ایک جگہ نظر آئی۔ جہاں گھنے درخت سرد پانی اور قسم قسم کے پرندے چھپا رہے ہیں۔ وہاں فروکش ہو کر آرام کیا اور اپنے آئندہ حالات پر نیک شگون حاصل کیا کہ گویا اس کی تعلیم درخت ہے۔ پند و نصائح چشمہ بہا اور پرندے وہ لوگ ہیں جو اس کی تعلیم سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس عبارت سے یہ ثابت کرنا کہ یوز آسف پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ جس کو بشارت ملی کہا جاتا ہے۔ کمال خوش فہمی ہے۔ کیونکہ اول سے آخر تک یوز آسف کا حال پڑھ جائے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ یوز آسف نے کہیں نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ہاں اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ شہزادہ اپنے وقت میں خدا پرست زاہد و تارک الدنیا ضرور تھا۔ جس کی نظیریں پرانے ہندوؤں میں بکثرت ملتی ہیں جو رہبانیت کی زندہ مثالیں ہیں۔

۴..... کتاب اکمال الدین شیعہ مذہب کی کتاب ہے۔ ابن بابویہ قمی نے عربی میں مرتب کی ہے اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہر ایک نبی اور امام تبلیغ کے زمانہ میں مشکلات سے محفوظ رہنے کی خاطر کچھ عرصہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر موقعہ پر ظاہر ہو کر اپنی تبلیغ کو مکمل کرتا ہے۔ اس موضوع کے نظائر قائم کرتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس نے سب کی غیبت (غائب رہنے کا زمانہ) کو ثابت کیا ہے۔ جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی زندگی کو غیبت کبریٰ ثابت کیا ہے اور روایات اہل بیت رضی اللہ عنہم سے یوز آسف کی غیبت اور ہجرت بھی ثابت کی ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ مصنف کے نزدیک یوز آسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بھول کر بھی ایک ہستی



تھے۔ ورنہ ان کو الگ الگ بیان کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ افسوس ہے کہ قادیانی تعلیم کے متوالے قرآن و حدیث کی طرح اس کتاب کو بھی اپنی تحریف معنوی اور قطع و برید سے رہائی نہیں بخشے۔ بارہا اعلان کیا گیا کہ اس کتاب کو اول سے اخیر تک پڑھ کر ایمان داری سے بتاؤ کہ یوز آسف اور حضرت مسیح علیہ السلام اس کے نزدیک دو شخص تھے یا ایک؟ مگر کون سنتا ہے اور کون دیکھتا ہے۔ اس تعلیم نے تو ان کی چشم بصیرت پر تعصب کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اب کے سمجھائیں اور کے بتائیں؟ فذرہم فی طغیانہم یعمہون!

۵..... (کشف الاسرار ص ۴) میں ہے کہ کتاب یوز آسف کے تراجم عربی میں بھی ہوئے جو کتابی صورت میں اکمال الدین کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے معلوم ہوتا ہے کہ یوز آسف و بلوہر کی عظمت نے یہاں تک مجتہدین شیعہ پر ایسا اثر کیا تھا کہ انہوں نے اس کو علی بن حسین بن علی علیہم السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا اور ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمی نے جو چوتھی صدی میں ہو گزرا ہے۔ اس کو احادیث میں درج کیا ہے۔ کشف الاسرار کے مصنف پر سخت افسوس ہے کہ سمجھے خود نہیں اور صرف تعلیم قادیانی پر غرہ ہو کر کہہ دیا کہ یہ ساری کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے۔ اگر مؤلف کو چشم بصیرت حاصل ہوتی تو وہ ساری کتاب کا مطالعہ اول سے اخیر تک کرتا تا کہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ نصائح بلوہر اس کتاب میں صرف چند اوراق پر درج ہیں۔ جن کو کتاب یوز آسف کہا جا رہا ہے۔ باقی چار سو صفحہ کی کتاب قرآن و حدیث اقوال ائمہ اور حالات انبیاء پر شامل ہے۔ اس لئے یہ گمراہ کن فقرہ کہ اکمال الدین کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے بالکل غلط ہے۔

۳۲..... مرزائی تعلیم میں یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ پطرس حواری کی تحریر ۱۳ جولائی ۱۸۷۹ء میں اٹلی کے ایک اخبار نے شائع کی ہے۔ جس کے اخیر پر یہ فقرہ درج ہے کہ میں پطرس مابھی گرنے اپنی اپنی عمر کے نوے سال میں یہ محبت کے الفاظ اپنے آقا مسیح ابن مریم کی تین عید فتح یعنی تین سال بعد خدا کے مقدس مکان کے نزدیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔

(کشف الاسرار ص ۲۹)

میں (پطرس) ابن مریم کا خادم ہوں اور اب میں نوے سال کی عمر میں یہ خط لکھتا ہوں۔ جب کہ ابن مریم علیہ السلام کو مرے ہوئے تین سال گزر چکے ہیں۔

(تحفہ الندوہ ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۰۴)

اس کے بعد عبد اللہ کشمیری کا خط درج کیا ہے کہ قبر کشمیر کے متعلق پوری تحقیقات کے

بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک بنی اسرائیل کے نبی کی قبر ہے جو چھ سو سال حضور ﷺ سے پہلے یہاں آ کر دفن ہوئے تھے۔ اس قبر کو شہزادہ یوز آسف کی قبر بھی کہتے ہیں۔ اس لئے ثابت ہوا کہ یہ حضرت مسیح کی قبر ہے۔ کیونکہ وہ اسرائیلی شہزادہ مشہور تھے۔ (حوالہ مذکور) اخیر میں لکھا ہے کہ ایک یہودی سلمان یوسف بسحاق نامی تاجر نے تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ قبر کسی بنی اسرائیلی کی ہے اور اس نے عبرانی زبان میں ۱۲ جون ۱۸۹۹ء میں ایک تصدیقی تحریر مع شہادت مفتی محمد صادق بھیروی کلارک دفتر گورنمنٹ جنرل لاہور شائع کی کہ جو کچھ مرزائی تعلیم نے تحقیق کیا ہے درست ہے۔ لیکن پطرس کی تحریر سے ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح علیہ السلام عیسائیوں کے نزدیک ہمیشہ کے لئے مرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ قائل ہیں کہ تین دن تک مر کر پھر زندہ ہو گئے تھے۔ غالباً اس سہ روزہ موت کی طرف ہی اس نے اشارہ کیا ہے اور عبد اللہ کشمیری کا خط یہ ظاہر نہیں کرتا کہ خصوصیت کے ساتھ یقیناً یہ قبر حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے۔ اسی طرح یہودی کی تصدیق سے بھی صرف صاحب قبر کا اسرائیلی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لئے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ واقعی یہ قبر کسی اسرائیلی نبی کی ہے۔ کیونکہ اس کے خلاف کتاب اکمال الدین میں پوری تشریح مذکور ہے کہ ایک ہندوستانی توحید پرست شہزادہ کی قبر ہے۔ ممکن ہے کہ شروع میں اس کی لاش جلا کر قبر کا نشان بنا دیا ہو اور کچھ راکھ لے کر بنارس میں بھی دفن کی گئی ہو اور متعدد مقامات پر شہزادہ مذکور کی قبریں موجود ہوں۔ جیسے بدھ کی قبریں متعدد مقامات پر پائی جاتی ہیں اور اس خیال کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ بنارس میں یوز آسف کی قبر پر ایک سالانہ میلہ بھی لگتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ایک قبر وہاں بھی موجود ہے۔ کذا اقیل!

۳۳..... مسٹر نکولس نوٹو وچ ۱۸۸۷ء میں ہندوستان آیا تو سری نگر ہوتے ہوئے

تبت میں مولیک مٹھ کے مقام پر پہنچ کر لام سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھا۔ جس کے حالات بدھ مذہب کی کتابوں میں درج ہیں۔ پھر ہمس کے مندر پر پہنچا تو وہاں کے لامہ سے دریافت کرنے پر اس کو معلوم ہوا کہ تین ہزار برس ہو گزرے ہیں کہ بدھ اعظم نے شہزادہ ساکیا منوکا اوتار دہارن کیا تھا اور پچیس سو برس گزر چکے ہیں۔ جب کہ انہوں نے گوتم کا اوتار دہارن کر کے ایک بادشاہت قائم کی۔ پھر اٹھارہ سو برس کا عرصہ ہوا کہ بدھ دیوکا اوتار بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اور وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ مذہب کی تعلیم پاتا رہا۔ پالی زبان میں اس کے سوانح لکھے گئے اور تبت کی زبان میں ترجمہ ہوئے۔ اس کے بعد مسٹر مذکور نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ لامہ نے تبتی زبان کی کتابیں مچا کر مجھے

ترجمان کی مدد سے تمام حالات سنائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا۔ چودہ برس کی عمر میں جب کہ وہ وعظ و نصیحت میں مصروف تھا اور والدین شادی پر آمادہ تھے۔ بھاگ کر تاجروں کے ہمراہ سندھ آ پہنچا۔ تاکہ وہید سیکھے اور ہندوستان میں شہرت پائی اور جب پنجاب اور راجپوتانہ میں سے گذر اتو بین دیو کے تاجداروں نے درخواست کی کہ وہ ان کے پاس رہے۔ مگر وہ اڑیسہ کوچلا گیا۔ جہاں ویاس کرشن کی ہڈیاں دفن تھیں اور برہمنوں سے وعظ پڑھے اور شفا بخشی کا طریقہ بتایا جن بھوت نکالنے کا ڈھنگ بھی اس کو سکھا دیا تو جگن ناتھ، راجن گڑھ وغیرہ میں چھ برس رہا اور شودروں کو اپدیش سنائے۔ جس سے برہمنوں نے اسے قتل کرنا چاہا۔ مگر شودروں نے اسے خبر کر دی کہ آپ کی تلاش میں ایک آدمی پھر رہا ہے تو جگن ناتھ سے رات ہی رات بھاگ کر گومت بدھ کے تابعداروں میں آ کر مقیم ہو گیا اور یہ کوہستانی علاقہ تھا۔ جس میں ساکی منی بدھ دیو پیدا ہوئے تھے۔ پھر پالی زبان میں وعظ کیا کہ ہر ایک انسان کمال حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جب فارس پہنچا تو وہاں کے اہل مذہب نے اس کا وعظ بند کر دیا اور ۲۹ برس کی عمر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور شہر بشہر وعظ کرتا ہوا یہودیوں کے حوصلے بلند کئے اور تین برس تک تبلیغ کی۔ مگر حاکم کے حکم سے اس کو بمعہ دو چوروں کے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ ان کے جسم دن بھر لٹکتے رہے اور سپاہی پہرہ دیتے رہے اور لوگ چاروں طرف کھڑے دعائیں مانگتے تھے۔ غروب آفتاب کے وقت عیسیٰ کا دم نکلا اور روح خدا سے جا ملی۔ اس کتاب کو انجیل روسی سیاح کہتے ہیں۔ جو انگریزی اور فرانسیسی زبان میں شائع ہوئی تھی اور اس کا اردو ترجمہ لالہ جے چند سابق منتری آریہ پرتی مذہبی سہا پنجاب نے کر کے مطبع دہرم پر چارک جالندھر شہر میں ۱۸۹۸ء میں چھپوا کر شائع کیا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کتاب نے کہاں تک مرزائی نظریہ کا ساتھ دیا ہے۔ گو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت ہندوستان میں آئے تھے۔ مگر اس امر کی سخت تردید کی ہے کہ آپ کشمیر میں مرے تھے یا آپ کا سفر واقعہ صلیب کے بعد ہوا تھا یا یہ کہ آپ کشمیر میں پورے ۸۷ برس مقیم رہے تھے۔ کیونکہ تعلیم وید کے چھ سال اور تعلیم سوتر کے چھ سال ملا کر بارہ سال ہوتے ہیں اور دو سال قطع مسافت کے ملا کر چودہ سال ہوتے ہیں تو اگر ان کو ۸۷ سال سے وضع کیا جائے تو ۳۳ سال رہ جاتے اور قادیانی نظریہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔

۳۳..... روسی سیاح کے خیالات اور مرزائی تعلیم کے توہمات آپس میں سخت

متعارض ہیں۔ اس لئے دونوں قابل استدلال نہیں ہیں۔ اس واسطے ان حالات کو یقینی سمجھنا

ضروری ہوگا۔ جو اہل اسلام نے پیش کئے ہیں اور جن سے مرزائی تعلیم متنفر ہے اور تعجب ہے کہ قطع و برید کر کے اسلامی اور غیر اسلامی تحقیقات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور ان کی تردید بھی کی جاتی ہے اور نئے اجتہاد کی بنیاد پر ایک نئی شرک نکالی جاتی ہے جو قادیان سے نکل کر چھوٹے چھوٹے راستوں میں نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ جس پر چلنے والا کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اگر روسی سیاح کا کہاں مانا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اناجیل اربعہ بدھ اور وید کی تعلیم کا خلاصہ ہیں۔ حالانکہ ان کی تعلیم تو رات سے حاصل کی گئی تھی اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے ہندوؤں کی شاگردی کر کے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حالانکہ پیغمبر کا علم خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور چودہ سال تک تعلیم پانا نشان پیغمبری کے خلاف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بھی تعجب خیز امر ہے کہ چودہ سال کی عمر میں مسیح علیہ السلام شادی سے بھاگ کر سادھو بن گیا تھا اور عین جوانی کے عالم میں پھر ملک شام میں واپس آ گیا تھا تو کیا اس وقت شادی کے قابل نہیں رہا تھا؟ بہر حال یہ روسی انجیل اس قابل نہیں ہے کہ اسلامی تحقیق کے سامنے اس کو پیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کو پیش کرنے کا حق رکھتی ہے۔

۳۵..... مرزائی تعلیم مانتی ہے کہ بدھ مذہب کے تابعداروں نے اپنے بانی مذہب کے مقبرے مختلف مقامات پر تیار کئے ہوئے ہیں اور یہ بھی مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی قبریں بھی یروشلم، جلیل اور مدینہ طیبہ وغیرہ مقامات میں موجود ہیں اور اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ پنجاب و ہندوستان میں اور بزرگوں کی متعدد قبریں بھی موجود ہیں۔ مثلاً نخی سرور کی قبریں پنجاب میں کئی ایک مقامات میں پائی جاتی ہیں۔ خاکروبوں نے بالک ناتھ کی قبر جا بجا تیار کی ہوئی ہے تو ان حالات کو پیش نظر رکھ کر یوں کہا جاسکتا ہے کہ یوز آسف کی اصلی قبر بنارس یا شولاپت میں ہے۔ جہاں (بقول شخصے) سال بسال اس پر میلہ لگتا ہے اور اگر بنظر تعق دیکھا جائے تو یہ بھی ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس قبر کو یوز آسف کی قبر کہا جاتا ہے واقعی وہ اس کی ہی قبر ہے۔ کیونکہ کتاب اکمال الدین سے اگرچہ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یوز آسف کشمیر میں مرا تھا۔ مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی قبر بھی خاص محلہ خانیاں میں ہی بنائی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ اس کی لاش یا اس کی ہڈیاں اس کے اپنے ملک سولاپت میں واپس پہنچ چکی ہوں اور قبر مصنوعی ہو۔ بہر حال جب یوز آسف کے متعلق ایسے خیالات ممکن ہیں باوجودیکہ اس قبر کو یوز آسف سے معنون کیا جاتا ہے تو جب اس کو بالفرض حضرت مسیح علیہ السلام سے معنون کیا جائے تو ضروری ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کئی ہزار گنا خیالات پیدا ہو کر اس نظریہ کو باطل کر دیں کہ یہ قبر یوز آسف کی نہیں بلکہ حضرت مسیح کی ہے۔

۳۶..... عوام الناس میں یہ بھی مشہور ہے کہ درخبر حضرت علیؑ نے فتح کیا تھا۔ وہاں مسجد علیؑ بھی موجود ہے۔ مگر تاریخ اس کی تکذیب کرتی ہے۔ کیونکہ جس خیبر کو حضرت علیؑ نے فتح کیا تھا وہ عرب میں ہے۔ پشاور کا درہ خیبر نہیں۔ اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ یہ علیؑ اور شخص ہے۔ اسی طرح اگر قبر زیر بحث کو قبر عیسیٰ صرف اس لئے قرار دیا جائے کہ عوام الناس میں مشہور ہے تو درہ خیبر کی طرح ممکن ہوگا کہ کوئی اور عیسیٰ بزرگ یہاں پر مدفون ہوا ہو اور لوگوں نے بے پرکی اڑا کر اسے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا ہو۔ اس لئے مرزائی تعلیم کے اس نظریہ کی بنیاد بہت ناپائیدار اصول پر رکھی گئی ہے جو کسی طرح بھی قابل توجہ نہیں ہو سکتی۔ مرزائی بھی اگر محض بالطح ہو کر غور کریں تو ضرور اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے بانی مذہب کی یہ تحقیق اجتہادی غلطی پر مبنی ہے اور جس طرح لاہوری جماعت نے اپنے مرشد کے خلاف متعدد جگہ اختلاف رائے قائم کر لیا ہے اور اپنے مرشد کی تحقیق کو اجتہادی غلطی تصور کیا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس نظریہ کو بھی اجتہادی غلطی پر محمول کیا جائے۔

### ۴..... سوانح باب اور اقتباسات نقطۃ الکاف

بابی مذہب کے جو حالات مسٹر براؤن نے خود بابیوں سے حاصل کر کے کتابی صورت میں شائع کئے ہیں۔ فارسی زبان میں وہ حالات نقطۃ الکاف سے معنون ہیں۔ جن کو مختصر طور پر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکیں کہ آیا مرزائی تعلیم کے اصول پختہ دلائل پر مبنی ہیں۔ یا بابی مذہب اپنی قوت استدلالیہ میں اس پر فخر استاذیت کا حق رکھتا ہے؟

پیشتر اس کے کہ ہم اس کتاب سے اقتباسات لکھیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابی مذہب کے مذہبی اصول اور اصولی عقائد بھی نقطۃ الکاف کے ابتدائی مباحث میں درج ہیں۔ مگر ہمیں چونکہ صرف تاریخ سے غرض ہے۔ اس لئے ان کو یہاں پر نظر انداز کیا گیا ہے اور تاریخی حصہ کے بقیہ صفحات کو اردو میں پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ ناظرین آسانی سے بہرہ اندوز ہو سکیں اور جب عقائد کی بحث میں ضرورت محسوس ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ نقطۃ الکاف کا پہلا اصولی حصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ رسالہ کوکب الہند دہلی اور کتاب قضیۃ الباب الہباء سے بھی جو باتیں حاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ قلمبند کرنے میں کوشش کی جاوے گی۔ نقطۃ الکاف کا مضمون ص ۹۸ سے یوں شروع ہوتا ہے کہ:

ظہور ابواب اربعہ

حضور علیہ السلام کی ہجرت سے بارہویں امام محمد بن عسکری علیہ السلام کی پہلی روپوشی

تک دو سو ساٹھ سال کا عرصہ ہوتا ہے اور یہ روپوشی (غیبت صغریٰ) ستر سال تک رہی۔ جس میں (ابواب اربعہ) چار نقیب حضرت امام غائب کی طرف سے تعلیم دیتے رہے۔ پھر یہ تبلیغ بالواسطہ بھی منقطع ہوگئی اور دوسری مکمل روپوشی (غیبت کبریٰ) شروع ہوئی۔ جو (عمر نوح) نو سو پچاس سال پر ختم ہوگئی تو بار دوم:

### باب اول

باب اول شیخ احمد احسانی کا ظہور ہوا۔ جس نے امام عسکری کی تعلیم جو جامع کبیر میں درج تھی لوگوں تک پہنچائی اور عرب سے نکل کر عجم میں ہر ایک مسجد اور مجلس میں اپنے پند و نصائح سے لوگوں کو مشرف کیا۔ مگر اپنی ساری تبلیغ میں صاف طور پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں باب ہوں (اور امام غائب کی خدمت میں حاضر ہو کر علوم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہوں) گو کبھی کبھی اشارۃً اپنے منصب کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ مگر چونکہ رفتار زمانہ مخالف تھی۔ اس لئے آپ نے انخفاء ہی بہتر سمجھا۔ باب اول کی وفات کے بعد:

### باب ثانی

باب ثانی حاجی سید کاظم رشتی ملقب بہ نور احمد کا ظہور ہوا کہ جس نے باب اول کی مختصر تعلیم کو مشرف اور مفصل کر کے بیان کیا اور قصیدہ سنیہ کی شرح لکھی اور حضرت موسیٰ بن جعفرؑ کے مناقب شائع کئے تو آپ کی تعلیم ہندوستان تک پہنچ گئی۔ مگر عام لوگ مخالف ہو گئے۔ چنانچہ آپ کا ایک مرید اخوند ملا عبدالخالق یزدی جب مقامات مقدسہ اور (مشہد) میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی خورد و نوش بھی بند کر دی اور لعن و تشنیع سے توہین کی اور یہ توہین یہاں تک بڑھ گئی کہ علمائے مشاہد نے فتویٰ دے دیا کہ چونکہ اخوند یہاں بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس لئے تمام بازاری اشیاء خوردنی حرام ہیں۔ انہی ایام میں ایک شخص طہران سے اخوند کی شہرت سن کر ملاقات کو مشاہد میں داخل ہوا تو بہت محظوظ ہوا اور جب واپس طہران کو جانے لگا تو راستہ میں اسے ایک آدمی ملا۔ جس نے اخوند کے حالات دریافت کئے تو اس نے کہا کہ وہ شخص بہت مقدس ہے اور کمال اخلاص سے آبدیدہ ہو کر کہا کہ جو کچھ مخالف خیال کرتے ہیں سب جھوٹ ہے اور اخوند میں کوئی نقص نہیں۔ مگر سامعین ایسے بگڑے کہ فوراً چیخ اٹھے کہ جاؤ تم نجس۔ تمہارے آنسو نجس اور تمہارے کپڑے نجس۔ علیٰ ہذا القیاس باب ثانی کو بہت ایذا دی گئی۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ سر بسجود تھے تو کسی نے آپ کا عمامہ سر سے اتار لیا۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ ہنکرائے اور فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی پیشین گوئی سچ نکلی کہ جب شیعہ آپس

میں سکتھم لگتا ہوں گے تو امام آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور ستر آدمی خدا اور رسول پر بہتان باندھیں گے۔ جس سے وہ برسریکار ہوگا۔ ”کذا فی البحار“ جب وفات قریب ہوئی اور امام آخر الزمان کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے کوئی تصریح نہ فرمائی۔ بلکہ اشارات استعمال کئے جو شرح قصیدہ اور رسالہ ”الحجة البالغة فی علامات النائب“ میں پائے جاتے تھے اور کچھ آپ کے اشعار میں بھی موجود تھے۔ جن میں سے ایک یہ شعر بھی ہے۔

یا صغیر السن یا رطب البدن

یا قریب العهد من شرب اللبن

جس میں ایک فارسی النسل بچہ کی طرف اشارہ تھا۔ جناب سے امام کا نام پوچھا گیا تو آپ نے کمرہ کی طرف اشارہ کیا تو اس میں باب اعظم داخل ہوئے۔ مگر چونکہ اس وقت آپ مدعی امامت نہ تھے۔ اس لئے آپ کی شناخت نہ ہو سکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسی روپوشی کی حالت میں باب اعظم آپ کے وہاں آئے تو آپ متواضع ہو کر بیٹھ گئے اور جناب امام نے فرمایا کہ کیا جو کچھ ہم نے کہا تھا اس کی تبلیغ تم نے کر دی ہے؟ اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ (مصنف کتاب کہتا ہے کہ) میں اتفاقاً آپ کے پاس چلا گیا تو دونوں نے سلسلہ کلام ختم کر دیا۔

باب ثالث اعظم

باب اوّل نے مسجد نبوی میں کسی سے (غالباً وہ محمد حسین بشری تھا) کہا تھا کہ باب اعظم کا ظہور قریب ہے۔ تم اس سے ملو گے تو میرا اس سے سلام عرض کر دینا۔ آپ نے کچھ علامات بھی بتائے۔ باب اوّل وفات پا گئے۔ باب ثانی کا زمانہ بھی گذر گیا اور وہ شخص مسجد کوفہ میں چالیس روز معتکف رہا تو امرحق اس پر منکشف ہوا تو شیراز میں آ کر متلاشی ہو کر جب باب اعظم (ثالث) کے پاس آیا تو آپ نے اندرونی کشش سے اس کو اپنی طرف کھینچ کر اپنا تعارف کرایا اور اس نے بھی علامت علم سے آپ کو معلوم کر لیا۔ کیونکہ اس نے حدیث الجاریہ کی تشریح کے لئے جب درخواست کی تو آپ نے فوراً اس کی شرح لکھ دی اور اس وقت باب ثانی کا قول بھی پورا ہو گیا کہ باب اعظم حدیث جاریہ کی تشریح کرے گا۔ پھر اس معتکف نے اپنی قلبی کمزوری اور غشی کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے سونے کا کشتہ درکار ہے تو آپ نے اپنے پیالہ سے اپنا پس خوردہ پانی ایک دو گھونٹ پلا دیا۔ جس سے اس کو شفا ئے کلی حاصل ہو گئی۔ تب وہ معتکف آپ کا مرید ہو گیا اور آپ کی طرف سے دور دراز ممالک میں مبلغ بن کر پہنچا۔ آپ کا قول ہے کہ میں چار زبانوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ اوّل لسان الایات جس کا مقام قلب ہے۔ اسے سان

اللہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مقام لاهوت سے امداد ملتی ہے۔ یہی مقام قلم ہے اور اس کا حامل میکائیل ہے اور ذاکر الہیہ ہے۔ (گویا جو کچھ باب کا کلام ہوگا وہ خدا کا کلام ہوگا اور یوں سمجھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ باب کی زبان سے بول رہا ہے) دوم لسان المناجاة ہے۔ اس میں شان عبودیت ظاہر ہوتی ہے اور وہی لسان نبوة بھی ہے۔ اس کا مقام عقل ہے اور اسے حروف سے امداد ملتی ہے۔ اس کا بادشاہ جبرائیل ہے۔ جہ صفر میں عقول کی خوراک ہے اور اس کا مقام لوح محفوظ ہے۔ (گویا باب اسی وقت بحیثیت نبی اور انسان ہونے کے خدا سے باتیں کرتا ہے) سوم لسان الخطب جو منسوب الی الولاية ہے۔ اس کا مقام نفس ہے۔ اس کو ملکوت سے امداد ملتی ہے۔ اس کا مقام کرسی ہے۔ بادشاہ اسرافیل ہے۔ جو حامل رزق حیات ہے اور اس کے سر پر زمرہ کا تاج ہے۔ (گویا اس مقام پر باب ولی اللہ ہوگا اور لوگوں کو اپنے مواعظ و نصائح سے مستفیض کرے گا) چہارم لسان الزیارة و تفسیر القرآن والحديث اور یہی رتبہ بابت ہے۔ اس کا مقام جسم ہے اور عالم الملك والکثرات کا حصہ ہے۔ اس کا بادشاہ عزرائیل ہے۔ جس کا تخت یا قوت سرخ ہے۔ (گویا اس وقت باب امام غائب سے احکام حاصل کرتا ہے اور مبلغ بن کر امام غائب کی حکومت قائم کرتا ہے اور خود صرف مبشر ہے) جناب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ان چاروں زبان پر متصرف ہوں اور مجھ میں یہ بھی کمال ہے کہ چھ گھنٹے میں بے ساختہ ایک ہزار شعر کہہ سکتا ہوں۔ اس دعویٰ کی تصدیق یوں ہوئی کہ کوئی رادع (اور مد مقابل) پیدا نہ ہوا۔ جو یہ دعویٰ کرتا کہ میں بھی چھ گھنٹے میں ایک ہزار شعر بول سکتا ہوں۔ اگر کچھ لوگ منکر ہو گئے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور کچھ لوگ محو حیرت تھے جو نہ منکر تھے اور نہ مصدق۔

### باب اعظم کے ابتدائی حالات

اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے شیراز سے ابوشہر تک تیل کی تجارت شروع کی جو صرف پانچ سال تک جاری رہی۔ ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے سلسلہ کلام دراز کرتے ہوئے اس قدر تسائل کیا کہ جس نرخ پر اپنے دوست سے تیل کی فروخت تکمیل پا چکی تھی۔ اس سے ستر تومان (روپیہ) نرخ کم ہو گیا۔ مگر آپ کی کمال شرافت تھی کہ اب سستے نرخ پر اسے دے دیا اور اپنے آپ کو گاہک پر ترجیح نہیں دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چلہ کشی یا مجاہدہ کیا یا کسی شیخ وقت کے ہاتھ پر بیعت کی یہ سب جھوٹ اور افتراء ہے۔ تجارت کے چھٹے سال آپ نے تجارت چھوڑ دی۔ (جس کا اشارہ لفظ بہاء میں مضمحل تھا۔ یعنی باء ہاء۔ چھ حرف) اور نجف اشرف کو تشریف لے گئے اور وہاں ایک سال ٹھہرے تاکہ اپنے باب کی تربیت کی زیارت سے مشرف ہوں۔ لوگ کہتے ہیں



کہ سید مرحوم سے آپ کو تلمذ کا فخر حاصل تھا۔ مگر یہ غلط ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور قابل تسلیم ہے کہ آپ سید مرحوم کی مجالس و وعظ میں حاضر ضرور ہوا کرتے تھے۔ لیکن تلمذ کا ثبوت نہیں ملتا۔ سال کے بعد ارض فاء (غالبا شیراز) میں واپس آ گئے اور اپنے آپ کو کس مپرسی کے عالم میں پوشیدہ رکھا۔ مگر جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ محمد حسین بشروی نے آپ سے تعارف حاصل کر لیا تھا۔

ایام رضاعت میں آپ نے یہ آیت پڑھی تھی۔ ”لمن الملك اليوم“ اور ایک دفعہ اپنے باپ سے یوں خطاب کیا تھا کہ: ”اذا زلزلت الارض زلزالها“ تو یہ حالات ایسے ہی پیدا ہوئے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا۔

### باب کی تبلیغی جدوجہد

آپ نے شاہان اسلام کو تبلیغی خطوط روانہ کئے اور مکہ شریف جا کر اپنے دعویٰ کا اعلان کر دیا۔ اس سے پیشتر گویہ اعلان ہو چکا تھا کہ آپ شہر کوفہ کے مضافات میں اظہار دعویٰ کریں گے۔ مگر چونکہ وہاں لوگ کافی تعداد میں جمع نہ ہو سکتے تھے۔ اس لئے یہ اظہار مکہ شریف کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔ حاجی محمد رضا بن حاجی رحیم محل فروش کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا کہ آپ کمال خضوع و خشوع سے طواف کر رہے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ امام وقت ہیں یا اس کے نقیب اور مبشر ہیں۔ پھر بار بار مجھے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف کرتے رہے۔ آخر جب مدینہ شریف میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ حاجی صاحب بارہ برس آپ کی صحبت میں رہے اور ۱۲۷۳ء میں آپ کا انتقال ہوا۔

### باب کی گرفتاری

آپ مکہ سے ارض فاء (شیراز) کو بحری راستہ سے واپس آئے تو سلطان وقت نے آپ کو نظر بند کر لیا۔ اسی حالت میں جب گھر پہنچے تو آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا اور خط و کتابت بھی ممنوع قرار دی گئی۔ مگر آپ بدستور مخفی طور پر اپنے مریدوں کی طرف اپنی تحریرات ارسال کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد دشمن دیوار پھاند کر آندر آ گئے اور آپ کا اور آپ کے ماموں کا تمام مال و متاع لوٹ کر واپس چلے گئے۔ اس سے پیشتر آپ کے مریدوں کی تشہیر و تعزیر بھی ہو چکی تھی اور ان کو جلاوطن بھی کر دیا تھا۔ جن میں سے بعض کے یہ نام ہیں۔ حاجی حبیب، ملا صادق خراسانی، ملا علی اکبر کردستانی۔ پھر آپ کو داروغہ کے محل میں نظر بند کر دیا گیا تو وہاں و بآء پڑ گئی اور حدیث کا مضمون صادق ہوا کہ امام کے عہد میں طاعون ابیض (وباء) اور طاعون احمر

(کشت و خون) پڑے گی اور داروغہ کا لڑکا بیمار ہو کر قریب المرگ ہو گیا۔ باب نے دعاء کی تو فوراً تندرست ہو گیا اور داروغہ نے بابی مذہب اختیار کر لیا۔

## باب کی ہجرت

آپ نے محمد حسین کردستانی کی وساطت سے تین گھوڑے منگائے اور شیراز سے اصفہان کو ہجرت کی۔ محمد حسین کا بیان ہے کہ آپ نے مجھے بچپن تو مان (ایرانی روپے) دیئے اور فرمایا کہ ان سے فلاں فلاں علامت کے تین گھوڑے خرید کر لاؤ تو میں اسی قیمت پر انہی علامات کے گھوڑے خرید کر حاضر خدمت ہوا اور ان کے سوا دوسری قسم کے گھوڑے مجھے دستیاب نہ ہو سکے۔ میں نے ان کو آپ کی خدمت میں مقام حافظیہ پر پیش خدمت کیا تو ایک پر آپ سوار ہوئے۔ دوسرے پر سید کاظم رنجانی اور تیسرے پر میں۔ آپ کا گھوڑا بہت چست و چالاک معلوم ہوتا تھا۔ اگرچہ اسے خوراک کافی نہیں ملتی تھی۔ ہم نے دوسرا گھوڑا تبدیل کر دیا تو وہ بھی آپ کی برکت سے چست چالاک ہو گیا اور جب ہم زردگاہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے عصر کی نماز بہت لمبی کر دی۔ جب ہم نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس خوفناک مقام سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے پوچھا کہ تمہارا راج بیچ (پستول) کہاں ہے تو میں نے عرض کیا میں بھول گیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ تو تمہاری پاکٹ میں موجود ہے میں نے دیکھا تو وہیں تھا۔ ایک دفعہ ہم سیاہ رات میں جا رہے تھے تو ہم آپ سے پچھڑ گئے اور سخت تشویش ہوئی کہ یا تو راستہ سے میں بھٹک گیا ہوں یا کاظم یا جناب؟ تو آپ نے دور سے ہمیں آواز دی ہم آپ پہنچے اور اس وقت آپ جلال میں تھے تو کاظم کو غش ہو گئی۔ آپ نے چائے پلائی تو ہوش سنبھالا اور جب اصفہان پہنچے تو وہ مر گیا اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یہی محمد حسین جب قلعہ تبریز پہنچا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور ہر چند پوچھا گیا مگر اس نے رازداری کی باتیں نہ بتائیں۔ اس لئے اس کی دائیں آنکھ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔

## قیام اصفہان

جب آپ اصفہان پہنچے تو معتمد الدولہ منوچہر گاہ سے درخواست کی کہ آپ کو چند یوم اصفہان میں قیام کی اجازت بخشے تو اس کی اجازت سے چالیس یوم تک وہاں قیام کیا۔ چنانچہ آپ امام جمعہ کے گھر ٹھہرے۔ امام جمعہ آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ کو خود وضو کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے عرض کیا کہ جناب آپ کی صداقت کا نشان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چھ گھنٹے میں ایک ہزار شعر فی البدیہہ کہہ سکتا ہوں۔ پھر امام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ جس طرح آپ نے سید

یہی دارابی کو سورہ کوثر کی تفسیر لکھ کر عنایت فرمائی تھی۔ اسی طرح مجھے بھی سورہ عصر کی تفسیر لکھ کر عنایت فرمائیں تو آپ نے فوراً لکھ دی اور چونکہ معتمد الدولہ بھی آپ کا معتقد ہو چکا تھا۔ اس لئے آپ نے اثبات نبوت میں ایک رسالہ اسے لکھ کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ باب معتمد الدولہ کے مکان میں ملاقات کو آئے تو اس وقت محمد مہدی بن حاجی گلہاسی اور ملا حسن ابن ملا علی نوری پہلے ہی موجود تھے تو دونوں نے باب سے سوالات کئے جن کا جواب باب نے باصواب دیا۔ مگر بعد میں جب دیکھا کہ لوگ جوق در جوق آرہے ہیں تو حاسد بن گئے اور امام جمعہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو معتمد نے کہا کہ تم لوگ اس کی تردید کریں۔ مگر وہ نہ کر سکے پھر باب نے اس دن کے بعد مہبلہ کی دعوت دی۔ مگر مقابلہ پر کوئی نہ آیا۔ مرزا اقا سی کے پاس امام جمعہ اور تمام لوگوں کی شکایت کی گئی کہ وہ باب سے حسن عقیدت رکھتے ہیں۔ اس لئے امام جمعہ کو خوف پیدا ہو گیا اور لوگوں نے باب پر حملہ کر دیا۔ مگر معتمد نے آپ کو اپنے گھر میں پوشیدہ رکھ لیا اور عرض کی کہ اگر بادشاہ آپ سے اعلان جنگ کرے گا تو میں دو قسم کے لوگ (مختیاری اور شاہ سون) جمع کر کے بالمقابل کر دوں گا۔ اگر صلح و صفائی سے آپ کو بلائے تو میں آپ کے ہمراہ طہران جاؤں گا اور حق بات کہہ دوں گا۔ امید ہے کہ بادشاہ آپ کا معتقد ہو جائے اور اپنی لڑکی کا نکاح بھی آپ سے کر دے گا تو آپ خوب تبلیغ کر سکیں گے۔ مگر آپ نے اسے منظور نہ کیا اور معتمد الدولہ آپ کا یوں معتقد ہوا کہ وہ ایک دن حقہ پی رہا تھا۔ اتفاقاً ایک چنگاری اڑ کر زمین پر آگری تو آپ نے چوں میں لپیٹ کر ٹوپی میں ڈال دی اور سر پوش لگا دیا۔ معتمد نے دیکھا تو وہ ٹوپی سونے کی بن چکی تھی۔ اسے خیال ہوا کہ شاید کسی پتی کی تاثیر ہے تو آس پاس سے تمام پتے جلا کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ مگر ایک دفعہ بھی سونا نہ بنا تو اس نے اپنا تمام مال باب کے نام نذر کر دیا۔ مگر دل سے تصدیق نہیں کی اور جب آپ کی ترقی دیکھی تو حسد سے مرہی گیا اور جب باب کو اس کی خبر موت پہنچی تو اقا سی سے مال طلب کیا۔ مگر اس نے ایک پائی نہ دی اور دو آدمیوں کو باب نے پہلے ہی ۱۹ دن اس کے مرنے کی خبر دے دی تھی۔ جن میں سے ایک سید یحییٰ یزدی بھی ہے۔ میں نے (مؤلف) پوچھا تھا کہ جناب نے حضرت باب کی تصدیق کیسے کی تھی۔ فرمایا کہ جب میں نے آپ کا دعویٰ سنا تو شیراز کو کوچ کیا اور حاضر خدمت ہو کر باب سے چند سوالات کئے۔ جن کا جواب اطمینان بخش آپ نے مجھے نہ دیا۔ جس سے میرے قلب پر صدمہ ہوا۔ مگر احباب نے کہا کہ ضرور حضرت باب آپ کی طرف کسی وقت توجہ مبذول فرمائیں گے تو واقعی آپ نے مجھے خلوت میں بلا بھیجا۔ جب میں پیش ہوا تو میں نے اپنے دل میں تین سوال سوچ رکھے تھے۔ جن میں سے دو میں نے پیش کئے اور آپ نے ان کا فوزی

جواب دے دیا۔ تیسرا سوال میں نے ابھی تک مخفی رکھا تھا۔ لیکن آپ نے جوابی پرچہ کے دوسرے صفحہ پر وہ سوال بھی معہ جواب کے مفصل تحریر فرما دیا۔ جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی آپ باب الوصول الی اللہ ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کے والد صاحب حضرت باب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ابھی تک خاموش ہیں۔ مگر جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ باب کی تصدیق نہیں کرتے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔

### سفر طہران

معمت کی وفات کے بعد گرگین خان نائب السطنت مقرر ہوا تو اس نے حضرت باب کو بلوا کر کہا کہ آپ طہران یا کاشان تشریف لے جائیں۔ کیونکہ اقا سی آپ کا مخالف ہے۔ جب وہ مجھے حکم دے گا کہ میں آپ کو اس کے سپرد کر دوں تو میں انکار نہ کر سکوں گا۔ کیونکہ معتمد مرحوم کی طرح میں طاقتور نہیں ہوں۔ باب نے عذر کیا کہ میرے پاس سفر خرچ نہیں کیسے جاسکتا ہوں تو گرگین خان نے اپنی طرف سے سفر خرچ اور سواری کا انتظام کر دیا اور باب فوراً روانہ ہو گئے۔ مگر آپ کو بہت ہی ملال تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تمام منافقانہ کارروائی ہے اور گرگین خان چاہتا تھا کہ شاہی دربان میں اقتدار حاصل کرے۔ مگر اس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس عجلت سے آپ نے تیاری کی کہ آپ نے جو وہاں پر ایک پا جامہ اور جوتہ (ساغری، عیالی) بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ بھی وہیں رہنے دیا اور راستہ میں خورد و نوش بھی ترک کر دیا۔ آخر جب کاشان کے قریب پہنچے اور وہاں پر کھانا نہ کھایا اور اس وقت آپ کے ہمراہی چھ آدمی تھے تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ بھوک سے کہیں آپ تلف نہ ہو جائیں۔ اس لئے انہوں نے آپ کے دو طہرانی مبلغین کو آمادہ کیا کہ آپ کو کھانا کھلائیں۔ یہ دو مبلغ آپ کے حکم سے پہلے ہی دو روز طہران کو روانہ ہو چکے تھے اور ان کا یہ کام تھا کہ طہران میں تبلیغ کریں۔ مگر حضرت باب ان کو راستہ میں ہی جا ملے تھے۔ بہر حال رفتائے سفر نے شیخ علی خراسانی سے کہا کہ حضرت باب خالی پیٹ سفر کر رہے ہیں تو اس نے کھانا تیار کرایا۔ جس میں سے آپ نے قدر قلیل کھا کر باقی واپس کر دیا اور جلدی روانہ ہو کر کاشان پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے موضع خاتق تشریف لے گئے تو طہران میں خبر پہنچ گئی کہ آپ آرہے ہیں اور سلطان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور معلوم ہوا کہ خود سلطان بھی زیارت کے خواستگار ہیں۔ مگر گرگین خان وزیر اعظم نے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کر دی اور آپ کو بارہ سپاہیوں کے ہمراہ ماکو بھیج دیا گیا۔ (غالباً وزیر اعظم نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ اس وقت حضرت سلطان خود سفر کو جا رہے ہیں۔ اگر آپ سے ملاقات کریں تو سلطان کو اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ اس لئے جب آپ واپس

آئیں گے تو آپ کو بلوایا جائے گا اور سلطان کی خدمت میں یہ عذر پیش کیا کہ حضرت باب جب آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو لوگ جوق در جوق جمع ہو جائیں گے اور خواہ مخواہ بانی تحریک از سر نو شروع ہو جائے گی۔ جس سے رعایا میں طرح طرح کے فسادات پیدا ہو جائیں گے)

سفر زنجان اور ظہور خوارق

محمد بیگ جو بارہ سپاہیوں پر افسر تھا۔ باب کا مرید ہو گیا۔ کیونکہ اس نے اثنائے سفر میں ایک روز صبح حوالات کا معائنہ کیا۔ (کیونکہ باب زیر حراست تھے) تو دروازہ کھلا تھا اور باب ایک نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قفل پر ہاتھ رکھا تو فوراً کھل گیا تھا۔ اس لئے میں باہر چلا گیا۔ چند سپاہیوں کا ارادہ ہوا کہ باب پر سختی کریں تو ان سب کو وجع الفروم معدہ کی درد اٹھی۔ آخر سب نے معافی مانگی تو آپ کی دعا سے فوراً شفا یاب ہو گئے۔

حاکم زنجان نے محمد بیگ کی معرفت ایک درخواست بھیجی کہ وہ باب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر اس وقت مشاغل سفر سے محمد بیگ چونکہ بالکل چور ہو چکا تھا۔ اس لئے اسے وہ درخواست باب کی خدمت میں پیش کرنے کی فرصت نہ مل سکی اور اسے فراموش ہو گئی۔ جب آپ زنجان پہنچے (جو اراض رضوان کہلاتا تھا کیونکہ اس میں آپ کا مبلغ اخوند ملا محمد علی رہتا تھا۔ جس نے اپنی قوت تبلیغ سے لوگوں پر اچھا اثر ڈال رکھا تھا) تو خاص دار الخلافہ میں چوہدری محمود خان کے گھر اترے اور حضرت باب نے محمد بیگ کو یافلان کہہ کر پکارا۔ مگر اسے جرأت نہ ہوئی کہ انکار کرے۔ گو پہلے بہت مغرور تھا اور اس قدر مخالف تھا کہ سلطان کے دربار میں چند مسائل فقہ پر شیخ الاسلام باقر شتی بابی سے مباحثہ کرنا چاہتا تھا۔ مگر سلطان نے اس کو روک دیا تھا۔ کیونکہ یہ صرف اخباری تھا اور علم فقہ میں مہارت نہ رکھتا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی خطرہ تھا کہ بانی تحریک زور پکڑ جانے سے فساد نہ ہو جائے۔ آخر جب اس نے قرآن الباب کا ایک صفحہ پڑھا تو فوراً اس کے قلب پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اسے انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آئی تو داخل بیعت ہو گیا۔ اس کا بیان ہے کہ جب ہم زنجان پہنچے تو میں نے حضرت باب کی امداد میں سر توڑ کوشش کی اور آپ کے اعزاز میں حکم دے دیا کہ زنجان میں کوئی شخص حقہ نوشی نہ کرے۔ مگر میری شکایت ہو گئی تو سلطان نے مجھے واپس طہران طلب کیا۔ اب میں باب سے خواستگار ہوا کہ کیا میں سلطان سے مقابلہ کروں یا سر تسلیم خم کر کے وہاں جا کر قید ہو جاؤں تو آپ نے حکم دیا کہ تمہارے لئے قید ہو جانا دو جہاں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر وہاں کے مزید حالات بیان کرتا ہے کہ جب ہم زنجان پہنچے تھے تو ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا۔ لوگ سنتے ہی تو پیادہ سرکاری کے ہمراہ حکم نامہ ہمارے نام آ پہنچا کہ مغرب سے پہلے ہی شہر سے نکل جاؤ۔ ہم

نے بہتر اعذر کیا کہ معاف کیجئے۔ ہم تھکے ماندے ہیں۔ مگر حاکم نے ایک نہ سنی تو باب ناراض ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ حاکم کس جوش سے ہماری زیارت کا خواہاں تھا۔ اب کس طرح اس نے اپنی رائے تبدیل کر دی ہے۔ (گویا یہ اشارہ اس رقعہ کی طرف تھا جو اثنائے سفر میں حاکم خراسان کی طرف سے ہمیں ملا تھا کہ میں حضرت باب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور وہ خط پیش کرنا بھول گیا تھا) اے میرے خدا دیکھ! آل رسول ﷺ سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کا قیام ایک پتھر کی بنی ہوئی سرائے میں تھا۔ آپ نے وہاں سے دو فرسخ (چھ میل) کے فاصلہ پر ایک دوسری سرائے میں اترنے کا فیصلہ کیا جو پکی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جب ہم میلان پہنچے تو راستہ میں ہی زائرین کا ہجوم ہو گیا۔ مگر باب بالا خانہ میں جا کر عزت نشین ہو گئے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دوسرا دن ہوا تو ایک بڑھیا عورت ایک کوڑھے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی۔ جس کے تعفن سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے اور وہ بہرا بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو دیکھ کر بہت ہی رحم آیا تو چند کلمات پڑھ کر دم کیا تو اسے چند دن بعد آرام ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر دوسو سے زائد داخل بیعت ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ: ”میلان قطعة من الجنة“ یہ بستی جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب وہاں سے کوچ کر کے شہر تبریز کے قریب ایک منزل پر ہم نے قیام کیا تو ہم رفقائے سفر کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بکری کے کباب کھائیں۔ تو کسی نے اسی وقت بکری کا ایک بچہ بطور نذرانہ پیش کیا۔ جس کے کباب بنا کر ہم نے خوب کھا کے پھر ایک دفعہ رفقائے سفر اور شاہی سپاہیوں نے آپ سے نقدی طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر وہ عاجز ہو کر بہت ہی پیچھے پڑ گئے۔ تو آپ جلال میں آ گئے اور اپنا (راء) توشہ دان جنگل میں ان کے سامنے پھینک دیا۔ جس کو ہم نے جھاڑا تو اندر سے مجھے پورے طور پر یاد نہیں دس تومان نکلے تھے یا تیس تومان (طہرانی روپے) دستیاب ہوئے تھے۔ ایک دفعہ آپ گھوڑا دوڑا کر اثنائے سفر میں ہم سے دور نکل گئے اور ہمیں حیرت ہوئی کہ سلطان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ باب ہم بارہ سپاہیوں سے بچ کر نکل گئے۔ مگر ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے تو ہمیں آپ کھڑے ہوئے نظر پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ اگر میں چاہتا تو تم سے بھاگ سکتا تھا۔ بہر حال یہ حالات دیکھ کر میرا ارادہ ہوا کہ آپ کو تبریز پہنچا کرواپس طہران چلا جاؤں اور تبریز سے ما کو تک کا سفر چونکہ نہایت ہی دشوار گزار تھا۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مہم شہزادہ کے زیر اہتمام انصرام پائے جو تبریز میں رہتا تھا۔ آپ نے بھی میری رائے کو پسند فرمایا اور کہا کہ تبریز سے آگے سفر کرنا ظلم ہے۔ تم اس میں دخل نہ دو۔ میں خود تبریز سے آگے جانا نہیں چاہتا۔

## ورود تبریز و سفر ما کو

اور جا کر شہزادہ سے کہہ دو کہ ہمیں تبریز میں رہنے دے۔ کیونکہ میں نے دوگانہ چھوڑ کر پوری نماز شروع کر دی ہے اور میرا ارادہ یہیں رہنے کا ہے۔ مجھے بخار تھا۔ اس لئے میں نے عذر پیش کیا کہ میں نہیں جاسکتا۔ آپ نے فوراً چائے کی ایک پیالی سے اپنی جھوٹی چائے مجھے پلا دی۔ تو مجھے فوراً شفا ہو گئی تو میں نے شہزادہ کو آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ مگر اس نے تسلیم نہ کیا اور جب آپ کو اس کے انکار کی میں نے اطلاع دی تو آپ نے نہایت افسوس سے ایک آہ کھینچ کر کہا کہ:

”راضیاً بقضاء اللہ اللهم افتح بینی و بین عبادک“ یا اللہ میں رضا بالقضاء کو اختیار کرتا ہوں تو ہی میرے اور اپنے بندوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ صادر فرما۔ اس کے بعد آپ کو میں اپنے گھر لے آیا جو تبریز کے مضافات میں تھا تو آپ چند ایام وہاں تشریف فرما رہے اور میرے گھر کے لوگ جب حضرت وضو کرتے تو آپ کا مستعملہ پانی بطور تبرک کے اپنے لئے اٹھالے جاتے اور دوائی کے طور پر استعمال کرتے۔ دوسری دفعہ باب نے مجھے یوں کہہ کر شہزادہ کے پاس بھیجا کہ میں تبریز سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ مجھے قتل بھی کیا جائے تو میرا جانا مشکل ہے تو شہزادہ نے جواب میں کہا کہ جو کچھ سلطان نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل نہایت ضروری ہے۔ لیکن جب میں واپس آنے لگا تو مجھے پھر بخار ہو گیا اور وہیں پڑا رہا اور مجھے یہ طاقت نہ رہی کہ شہزادہ کا یہ پیغام آپ کو پہنچا دوں۔ اس کے بعد شہزادہ نے ۱۳۰ سپاہ سمیت پہنچ کر آپ کو ما کو جانے پر مجبور کیا تو آپ مجھے رخصت کی آخری ملاقات کرنے آئے تو میں کمال حسرت سے رویا اور آپ کو رخصت کیا۔ تو آپ ما کو تشریف لے گئے۔ دو ماہ کے بعد جب مجھے صحت ہوئی تو میں بھی ما کو گیا اور حاضر خدمت ہو کر اس کو تاہی سے معافی مانگی کہ میں شہزادہ کا پیغام آپ کو نہیں پہنچا سکا تھا تو آپ نے مجھے معاف کر دیا اور میرے حق میں دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ میں نے ابھی سلطان محمد شاہ اور وزیر اقا سی کو بددعا نہیں دی۔ اگرچہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ مگر بتاؤ حاکم زنجان کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خود بے ریش اور زن سرشت تھا۔ اس نے کسی کی عورت اغوا کر لی تھی۔ جس پر اہل زنجان بگڑ گئے اور اس کی تشہیر کر کے اسے نکال دیا اور اسی غم میں دیوانہ ہو کر مر گیا ہے اور شہزادہ بھی بہت ذلیل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے حق کو ذلیل کیا تھا۔ اس لئے خدا نے بھی اس کو ذلیل کر دیا ہے۔

ما کو میں تین سال نظر بندی

باب کو ما کو کے ایک قلعہ میں جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا نظر بند کر دیا گیا اور اقا سی

(وزیر اعظم) نے علی خان حاکم ماکو کو حکم دے دیا تھا کہ باب سے کوئی آدمی ملاقات کرنے نہ پائے اور نہ ہی کوئی خط و کتابت کرے۔ مگر لوگ دھڑا دھڑا آنے لگے اور خلاف توقع ہر وقت بھینٹ لگی رہتی تھی۔ اس لئے علی خان نے لکھ بھیجا کہ مجھ سے حراست مشکل ہے۔ مناسب ہے کہ باب کو یہاں سے چہر لٹ روانہ کیا جائے۔ بظاہر علی خان آپ کا مرید تھا۔ جب تین سال بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو علی خان معافی کا خواستگار ہوا۔ مگر باب نے نور باطن سے اطلاع پا کر کہا کہ ارے وزیر سے خط و کتابت بھی کرتے ہو اور مجھ سے معافی کے خواستگار بنی ہو۔ یہ کیا دور لگی ہے؟ ملا کو اگر چہ ذی عزت اور تین سو خان پر افسر تھا۔ مگر جب آپ سے مسائل میں مختلف ہوا تو آپ نے اس زور سے لٹھی رسید کی کہ لٹھی اس کے سر پر ٹوٹ گئی اور آقا سید حسین کو حکم دیا تو ملا کو آپ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ اسی نظر بندی میں آپ نے سلاطین کو تبلیغی خطوط لکھے جو ایک لاکھ شعر پر مشتمل تھے اور یہ بھی مشہور ہے کہ سلطان اور آقا سید کو ایک ہزار قہری خطبہ (لیکچر) بھی لکھا تھا۔ بہر حال جب آپ ماکو سے روانہ ہوئے تو چہر لٹ کے قریب رومیہ شہر میں اترے۔ کیونکہ روانگی سے پیشتر علی خراسانی کو آپ نے مبلغ بنا کر رومیہ روانہ کر دیا ہوا تھا اور یہ شخص سید مرحوم (باب ثانی) کا بڑا مخلص اور عظیم الشان مرید تھا اور اب اس کو خاتم اور عظیم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے اور آپ نے ایک رسالہ علم حروف میں لکھا جس میں بیان کیا تھا کہ کس طرح حسین کو علی بنایا جاتا ہے اور علی کس طریق پر عظیم بن جاتا ہے۔ وہاں کے حاکم یحییٰ خان نے جناب کو خواب میں دیکھا تھا۔ جب آپ آئے تو اس نے پہچان لیا اور داخل بیعت ہو گیا۔ مگر آپ کو تبریز میں نظر بند کیا گیا اور لوگ زیارت کے لئے اس اشتیاق سے آئے کہ آپ نے جب حمام میں غسل کیا تو آپ کا مستعملہ پانی ستر تومان سے فروخت ہوا۔ جس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔

تبریز میں مناظرہ

کچھ مدت کے بعد حکومت نے باب سے تبریز میں مناظرہ کرانے کی تجویز پاس کی تو شہزادہ نے اپنے دربار میں باب کو طلب کیا اور مقابلہ میں بہت سے اہل علم جمع کئے گئے۔ جن میں سے ملا محمود ولی عہد کا اتالیق اور ملا محمد مامقانی بھی تھے اور یہ قرار پایا تھا کہ اگر باب پاگل ثابت ہو تو قید میں رکھا جائے نہیں تو اسے ضرور قتل کیا جائے۔ باب نے پہلے غسل کیا اور لباس بدل کر چوبے بدست عطر لگائے ہوئے مجلس میں السلام علیکم کہہ کر حاضر ہو گئے۔ مگر کسی ایک نے بھی ولیم السلام نہ کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے مجلس کی آخری صف میں بیٹھ گئے۔ دو چار منٹ کے بعد ملا محمد مامقانی نے آپ سے سوال کیا کہ جو تحریرات لوگوں کے پاس تحریک بابیت کے متعلق ہیں وہ آپ کی تحریر



کردہ ہیں یا کسی اور یعنی محمد حسین شیری کی۔ (کیونکہ اس کو باب الالباب اور باب کا مبلغ اوّل کہتے تھے) تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری تحریریں ہیں اور یہ کلمات الہیہ ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ باب ہیں؟ فرمایا ہاں ضرور پھر پوچھا کہ باب کا کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ: ”اننا مدینة العلم وعلیٰ بادیہا“ سے اس کا مطلب سمجھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مشاعر (حواس) چار ہیں۔ اوّل آنکھ جو دل کا ترجمان ہے۔ اس کا عامل رکن توحید ہے اور یہی مقام مشیت ہے۔ یعنی انسانی ارادہ اور خدا کی توحید کا یہی مقام ہے۔ دوم کان جو عقل کا مرتبہ رکھتا ہے اور رتبہ نبوت کا حامل ہے اور ارادہ کا مصداق ہے۔ یعنی کان سے خدائی آواز سنائی دیتی ہے اور مکالمہ سے نبوت حاصل ہوتی ہے۔ سوم قوۃ شامہ جو نفس کا ترجمانی ہے اور رکن ولایت ہے اور مقام قدر کا حامل ہے۔ چہارم نم (منہ) جو جسم کا ترجمان ہے۔ رکن شیعہ کا مقام ہے اور بمنزلہ قضاء کے ہے اور تمام چہرہ مشعر خامس یعنی بحیثیت مجموعی پانچویں حس ہے جو عدد باب کو ظاہر کرتی ہے اور ہائے ہویۃ کے برابر ہے۔ (کیونکہ حروفی حساب سے اس کے عدد پانچ ہیں) خلاصہ یہ کہ پانچ کا عدد خدا میں موجود ہے اور انسان کے چہرہ پر ظاہر ہو رہا ہے اور باب میں ظاہر ہو کر یہ اشارہ کرتا ہے کہ الباب وجہ اللہ باب خدا کا مظہر اور چہرہ ہے۔ ملا محمود نے اعتراض کیا کہ کان تو دو ہیں۔ آپ کے نزدیک ایک کیسے ہوئے۔ اسی طرح آنکھیں بھی دو ہیں۔ آپ نے ان کو ایک کیوں شمار کیا تو باب نے جواب دیا کہ آواز ایک ہی سنائی دیتی ہے اور ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس لئے ان کو ایک ایک تصور کیا گیا ہے۔ ملا محمود نے پوچھا کہ کب سے آپ باب ہوئے۔ جناب نے جواب دیا کہ تم ہزار سال سے منظر تھے کہ محمد بن حسن قائم آل محمد آتے ہیں تو میں وہی ہوں۔ پوچھا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس آیات ہیں امیر ارسلان اور ولی عہد شہزادہ نے کہا کہ اپنی لائٹھی کے متعلق کچھ آیات پڑھیں تو آپ فوراً شروع ہو گئے اور کئی ایک شعر بول دیئے۔ کسی نے کہا کہ ہم آپ کے آیات نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ بے معنی ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ پھر تم نے آیات کے ساتھ قرآن شریف کی تصدیق کیسے کی ہے؟ امیر ارسلان نے کہا کہ ایسے شعر تو میں بھی بول سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بھی بے جوڑ تک بندی شروع کر دی اور شعر سازی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر ولی عہد نے پوچھا کہ کیا آپ ستاروں کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہہ آپ کی طرف لڑھکا دیا۔ مگر باب نے کہا میں علم نجوم نہیں جانتا۔ کسی نے کہا کہ آپ بتائیے قولہ کا کیا صیغہ ہے؟ باب بالکل خاموش ہو گئے اور مجلس سے واپس چلے آئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو جنون ہے۔ مگر طبیب کی تشخیص پر معلوم ہوا کہ آپ کو جنون کا عارضہ نہیں ہے۔

## باب کی سزایابی

دوسرے دن ولی عہد نے بلوا کر پیادوں کو حکم دیا کہ باب کو دورے لگاؤ۔ مگر سب نے انکار کر دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مرجانا منظور ہے۔ لیکن ایک سید آل رسول ﷺ کو دورہ لگانا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام خود سید تھا۔ اس نے کہا کہ سید کو سید پینے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ چنانچہ باب کو بلا کر زیر تہ پہنایا اور آپ کو اٹھارہ عدد دورے لگائے جو عدد جی کی طرف اشارہ ثابت ہوئے کہ باب زندہ رہیں گے اور اس سزایابی کی خبر آپ نے پہلے ہی دی ہوئی تھی۔ بہر حال آپ چہرہ بقی کو واپس آ گئے۔ اس واقعہ کے بعد مرزا احمد مرگیا اور شیخ الاسلام کو بہت ذلت اٹھانی پڑی۔ مرزا مہدی علی خاں حاکم مازندران کا بیان ہے کہ مجھے خواب آیا کہ سلطان محمد شاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور نو جہیں سلامی میں حاضر ہوئیں تو ناگہاں ایک نوجوان سید (یعنی حضرت باب) آیا جس نے کہ بادشاہ کو ایک تھپڑ رسید کیا اور بادشاہ وہیں مر گیا۔ اس خواب کے بعد سلطان تین روز بیمار رہا کر مر گیا اور وزیر اعظم اقباسی معطل ہو کر بھیک مانگنے لگا۔

## اخوند باب الباب محمد حسین بشروی

اسی اثناء میں خراسانی جماعت بسر کر گئی۔ محمد حسین بشروی وارد مازندران ہوئی اور یہ صاحب وہ ہیں کہ روپوشی کی حالت میں مستور الحال بن کر حضرت باب کے ہمراہ ماکو تک پہنچے تھے تو وہاں سے آپ نے ان کو مبلغ بنا کر مازندران کے راستہ سے خراسان بھیج دیا ہوا تھا۔ مگر جب اثنائے سفر میں شہر بار فروش میں حاجی محمد بار فروش کے پاس قیام کیا تو آپ نے حاجی صاحب پر اپنی شان بڑھائی۔ مگر دوسرے روز آپ کو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب کا تو یہ پایہ ہے کہ حضرت باب جناب کو حبیب کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے فروتنی اختیار کر لی اور اللہ الصمد کی تشریح میں بیس ہزار شعر کہہ کر پیش کئے۔ اس کے بعد آپ نے اہل خراسان کو عموماً اور سعید العلماء کو خصوصاً تبلیغ کی۔ جس کے معاوضہ میں حضرت باب نے آپ کو خلعت انعام فرمائی۔ جو سفید عمامہ اور قباء پر مشتمل تھی اور ایک توقع مبارک (یعنی سند حسن کارکردگی) عطاء فرمائی۔ بہر حال اس وقت اخوند صاحب بمعہ جماعت خراسانی کے مازندران میں فروکش ہوئے اور حاجی محمد علی صاحب بار فروش بھی آپ سے آ ملے۔ کیونکہ سعید العلماء نے ان کو شہر بدر کر دیا تھا۔ علی ہذا القیاس بابی مذہب کے پیرو ایک کافی جمعیت میں وہاں جمع ہو گئے تو حضرت باب نے ان کو فتنہ خراسان کی خبر قبل از وقوع دے دی۔

## بروز فاطمہ قرۃ العین طاہرہ

ملا صالح قزوینی کی لڑکی سید مرحوم (باب ثانی) کی پیر تھی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ بھی اخوند صاحب (مہرستان بشری) کی طرح تلاش باب میں نکل کھڑی ہوئی اور جب اخوند صاحب کو حضرت باب کی خدمت میں شیراز کے مقام پر شرف یابی حاصل ہوئی تو انہوں نے طاہرہ کو خط لکھا اور وہ پہلے ہی غائبانہ بیعت میں داخل تھیں۔ مگر اب تو طاہرہ بیعت میں بھی داخل ہو گئیں اور مبلغ بن کر کربلا پہنچیں۔ جہاں پر لوگ زیارت کو کثرت سے آئے اور وعظ میں ایک خاص بھیڑ لگی رہتی تھی۔ زن و مرد اکٹھے آتے تھے اور داخل بیعت ہوتے تھے اور یہ لوگ اس قدر متقی اور پرہیزگار بن گئے کہ بازار کربلا کی پکی ہوئی ہانڈی چھوڑ رکھی تھی۔ کیونکہ حضرت باب رکن رابع تھے۔ (یعنی شیعہ کامل تھے) اور شیعہ کامل کو گالی دینے والا ائمہ اہل بیت کو گالیاں دینے والا ہوتا ہے اور ائمہ کو گالیاں دینے والا حضور ﷺ کا گالیاں دینے والا ثابت ہوتا ہے اور چونکہ اہل بازار کربلا حضرت باب کو گالیاں دے چکے تھے۔ اس لئے یوں سمجھے گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ حضور ﷺ کو گالیاں دی ہیں۔ اس لئے وہ واجب الترتک کافر ہو گئے اور ان کا پکا ہوا کھانا حرام ہو گیا۔ قرۃ العین طاہرہ کا یہ دعویٰ تھا کہ میں مظہر فاطمہ ہوں اور آپ کا بروز مجھ میں ہوا ہے۔ اس لئے اس نے بازار کی تمام اشیاء پر ایک دفعہ نظر ڈالی تو تمام اشیاء پاک ہو گئیں اور بابی تمام اشیاء کو پاک اور حلال سمجھنے لگ گئے۔ کیونکہ حضرت باب نے اپنے ایک رسالہ الضروع میں یہ اصول لکھا تھا کہ نظر آل اللہ بھی نجس چیز کو پاک کر دیتی ہے اور آل اللہ سے مراد چہارہ معصوم ہیں اور ان کی نظر خود ان کا ارادہ ہے اور ان کا ارادہ خود اللہ کا ارادہ ہے اور جس چیز کو خدا چاہتا ہے وہ کیسے حرام ہو سکتی ہے۔ اس لئے قرۃ العین نے بروز فاطمہ بن کر نظر ڈالی تو تمام نجس اشیاء پاک ہو گئیں۔ مگر حاکم کربلا کو سخت اندیشہ پیدا ہوا اور خلیفہ بغداد کو اطلاع دی اور فرمان خلافت کا منتظر رہا تو اسی اثناء میں اس کا یہ ارادہ ہوا کہ تا وصولیت حکم آپ کو نظر بند رکھے۔ مگر آپ کو کسی نے خبر کر دی۔ اس لئے رات ہی رات بغداد کو چلی گئیں اور وہاں مفتی اعظم کے گھر جا کر پناہ لی۔ لیکن وہاں بھی آپ کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ تو عراق کو چلی گئیں اور تبلیغ کا سلسلہ بدستور جاری رکھا اور بہت سے لوگ داخل بیعت ہو گئے۔ جن میں سے یہ لوگ مشہور ہیں۔ شیخ صالح العرب، ابراہیم واعظ، ملا شیخ طاہر، آغا سید گلپایگانی ملقب بہ ملیح اور کچھ مرید مرتد بھی ہو گئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے آپ کا رویہ اسلام کے خلاف پایا تھا اور انہوں نے حضرت باب کی خدمت میں ایک شکایت نامہ بھیج دیا تو آپ نے جواب میں لکھ دیا کہ قرۃ العین کا کلام الہی ہے اور وہ پاکدامن (طاہرہ) ہے۔ اس لئے

ان کو بھی آیات طاہرہ سے انکار نہ ہو سکا۔ (اور اس دن سے قرۃ العین کا لقب طاہرہ مشہور ہو گیا) اس کے بعد طاہرہ نے کرمان اور ہمدان میں تبلیغ کی اور طہران جانے کی خواہش تھی۔ مگر آپ کے والد نے آپ کو مجبوراً واپس قزوین میں بلا لیا اور کہا کہ اگر تو بیٹا ہوتی تو تبلیغ باہیت پر مجھے کچھ افسوس نہ ہوتا۔ مگر کیا کروں تم لڑکی ہو تو مجھے سخت شرم دامنگیر ہو رہی ہے اور ہر چند اپنے خاوند کے ساتھ مصالحت کرنے کو کہا گیا۔ مگر طاہرہ نے کہا میں طاہرہ ہوں اور وہ خبیث ہے۔ اس لئے ہمارا باہی نکاح فسخ ہو چکا ہے۔ کیونکہ شیعہ کامل کو گالی دینے والا بحکم حدیث کافر ہوتا ہے اور کافر مسلم کا باہی نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔

قتل ملاقی

جیسا کہ اہل اسلام کی عورتیں جب مکہ چلی گئی تھیں تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ اسی اثناء میں صالح شیرازی ملاقی کے پاس چلا گیا۔ جب کہ وہ نماز میں مشغول تھا۔ فراغت کے بعد اس نے سوال کیا کہ شیخ احمد احساوی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہا کہ وہ ملعون تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی صالح شیرازی نے وہیں مصطلے پر پینٹنا شروع کر دیا اور اتنا پینٹا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اس پر شور اٹھا تو ستر آدمی پکڑے گئے اور یہ مواد دیر سے پک رہا تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ حضرت قزوین کے پاس گذر رہے تھے تو آپ نے ملاقی سے کچھ امداد مانگی تھی تو اس نے بجائے امداد کے گالیاں دی تھیں اور آپ نے جوش میں آ کر کہا تھا کہ کیا اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ تاکہ آل محمد کو گالیاں نہ دے۔ مگر اب وہ بات پوری ہو گئی اور صالح شیرازی نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا اور ملاقی نے اپنے قاتل کو معافی بھی دے دی تھی۔ مگر حاکم نے یہ مصالحت قبول نہ کی اور ستر میں سے چھ آدمی طہران بھیج دیئے۔ جن میں سے اسد اللہ نامی تو طہران پہنچتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ کیونکہ وہ بیمار تھا اور صالح شیرازی جو اصل قاتل تھا راستہ میں ہی فرار ہو گیا۔ باقی رہے چار تو ان پر محمد ابن تقی نے دعویٰ کیا کہ یہ بانی ہیں۔ انہوں نے ہی میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لیکن سلطان نے آقا محمود کو بھیج کر تفتیش کی تو صاف جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ مگر اشتباہ میں پھر بھی صالح عرب کو مار ڈالا۔ باقی تین مجرم ملامحمد کو مل گئے اور وہ ان کو اپنے وطن قزوین کو واپس لے آیا تاکہ اپنے باپ کی قبر پر طواف کر آ کر آزاد کر دے۔ مگر لوگوں نے عین طواف کے وقت ہجوم کر کے تینوں کو مار ڈالا اور ان کی لاشیں آگ میں جلادیں اور اس وقت طاہرہ خراسان کو بھاگ گئی تھیں اور جب آپ کا قیام شاہرود کے مقام پر ہوا تو آپ کے مرید بھی آپہنچے اور جناب حاجی محمد علی بارفروش بھی مشہد مقدس کی زیارت سے فراغت پا کر شامل ہو گئے۔ گویا خمس و قمر جمع ہو گئے اور مشیت ایزدی

آسمان تھا اور ارادہ الہی زمین تھی۔ جہاں دلوں میں توحید کا تخم بویا گیا۔ باب نے فرمایا کہ:  
 .....۱ حضرت امیر علیہ السلام نے کمیل (خادم) کے جواب میں فرمایا تھا کہ  
 حقیقت کے مقام پانچ ہیں۔ جس کا راز میری ذات میں مضمر ہے اور میں اس کو باب کے نام سے  
 معنون کرتا ہوں۔ اس لئے میرا پہلا کام یہ تھا کہ حجاب جلالت کو دور کرتا۔

بیعت بدشت اور بروز رسالت و ولایت

تو میں نے علوم کے چہرہ سے پردے اٹھا دیئے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ موہوم کو مٹا دیتا اور  
 معلوم کو روشن کر دیتا تو میں نے سورہ یوسف کی تفسیر لکھ کر مٹا دی۔ کیونکہ لوگ ابھی اس قابل نہ تھے  
 کہ اسے سمجھ سکتے اور اس کی بجائے دوسرے علوم روشن کر دیئے اور میرا تیسرا کام یہ تھا کہ راز کا  
 اظہار کروں۔ کیونکہ وہی راز مجھ پر غالب آچکا تھا اور یہ وہ مقام ہے جس کو مقام ولایت کہتے ہیں تو  
 میں نے اس کا اظہار مقام بدشت میں کر دیا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ معارف و علوم  
 سمجھنے کے قابل ہیں۔

.....۲ درخت میں پھل ہوتا ہے اور پھل میں درخت اور یہی مراد ہے کہ خدا اول  
 و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔

.....۳ اسلام ایمان اور عبادات حقیقت میں صرف توحید کا نام ہے۔

.....۴ اذین پیدائش "الست بربکم" کے مقام پر تھی۔ جس کا خاتمہ "لمن  
 الملك اليوم؟ لله الواحد القهار" کے دن مقدر تھا اور اسی کی طرف "انا لله وانا اليه  
 راجعون" میں اشارہ ہے اور "فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين" یوم تبدل  
 الارض غیر الارض، عبدی اطعنی اجعلک مثلی "تینوں ارشاد بھی یہی بتا رہے  
 ہیں۔

یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ذات باری اشارات مبدأ، معاد، اول، آخر سے پاک ہے اور  
 اس کی مخلوق ہی ان صفات سے موصوف ہوتی ہے۔

.....۵ یہ بھی ثابت ہے کہ مشیت ایزدی چاروں دنیا (لاہوت، جبروت، ملکوت  
 اور ناسوت) میں جاری ہے اور اپنے ہر ایک دور میں اپنے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے  
 ہی تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ہی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ  
 السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں ہی محمد ہوں اور حدیث میں آیا ہے کہ:  
 "القائم بامر اللہ" (امام آخر الزمان) بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ حقیقت پر قابض ہے۔ جس

کے ظہورات مختلف ہیں۔ اس کی مثال ظاہری سورج ہے۔ جس کے ظہور میں دن ہوتے ہیں اور حجاب میں راتیں اور گویہ ظہور و حجابات مختلف ہیں۔ مگر حقیقت میں پر تو انداز صرف حقیقت واحد ہی ہے۔ جس کو ہم سورج یا شمس کہتے ہیں اور اس میں تعدد نہیں اور رجحہ کا معنی بھی اسی سے حل ہو سکتا ہے۔

۶..... حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”انا صاحب الرجعات بعد الرجعات وصاحب الکرات والمرات“ میں یکے بعد دیگرے رجعتوں کا مالک ہوں اور نئے نئے دور کا مالک ہوں۔

۷..... امیر علیہ السلام کی رجعت چشم زدن سے بھی قلیل وقت میں ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ جب آپ حقیقت نبویہ میں ظاہر ہوئے تو محمد کہلوائے اور امیر علیہ السلام کو آپ کا غلام تصور کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ: ”انا عبد من عبید محمد“ میں حضور علیہ السلام کا کمترین غلام ہوں تو جب حضور ﷺ نے وفات پائی تو امیر علیہ السلام اپنی ولایت کی طرف لوٹ آئے۔

۸..... حضور علیہ السلام کی مثال ہفتہ کے دن کی ہے اور امیر علیہ السلام کی مثال اتوار ہے۔ اسی طرح باقی اماموں کی شان باہمی اختلاف فضیلت سے حل کر سکتے ہو۔

۹..... کتاب زیارت جامع کبیر میں ہے کہ حضرت امام نے جناب حسن عسکری کے حق میں فرمایا تھا کہ تم آل رسول ﷺ کی سرشت ایک ہی ہے جو بالکل پاک اور مصفا ہے اور بعضہا من بعض کی شان رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم آل عبا دراصل ایک ہی حقیقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ جس کو درہ بیضاء ایک چمکتا ہوا سفید موتی بنایا گیا ہے۔

۱۰..... شمس حقیقت (اور درہ بیضاء) اپنی اصلیت پر قائم ہے۔ مگر جب حجاب اس کے سامنے ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی ہادی نہیں ہوتا اور جب حجاب اٹھ جاتا ہے تو ہادی پیدا ہو جاتے ہیں اور وہی مرجع خلائق بن جاتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: ”اینا ب الخلق الیکم وحسابہم علیکم“ مخلوقات کا انتظام تمہارے سپرد ہے اور ان کا حساب و کتاب تمہیں ہی لینا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر ذکر خیر ہو تو تم ہی اس کی بنیاد ہوتے ہو اور اصل و فرع یا مبداء و معاد ہوا کرتے ہو۔

۱۱..... خیر اول معرفت ذات باری ہے جس کو علم توحید کہتے ہیں اور جس کے چار

- اول ..... خدا کی وحدانیت اور یکتائی کا اقرار کرنا اور اس کو نقطہ وجود میں موجود ماننا۔
- دوم ..... خدا کی صفات تسلیم کرنا (اور مشیت الوجود اور ارادۃ الوجود تمام سے فائق ہے اور اسی طرح باقی صفات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہو)
- سوم ..... توحید الافعال اس مقام پر فعل وجود فعل الہی ہے۔
- چہارم ..... توحید عبادات اور یہ فنانی الوجود اور تقرب الی الوجود کا مقام ہے اور چونکہ ذات باری میں قرب و بعد نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے مراد اس کے مظہر اور اتار ہوتے ہیں۔
- ۱۲ ..... خمس و زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اصلی مالک صرف حضرت وجود (امام الزمان) ہی ہیں اور لوگ اپنے مال کے مالک نہیں ہیں۔ صوم سے مراد یہ ہے کہ حضرت وجود کی خلاف ورزی نہ کرو۔ حج سے مراد یہ ہے کہ حضرت وجود کے مشیت اور خواہش کو ہمیشہ ملحوظ رکھو۔ اس کا ارادہ معلوم کرو۔ اس کی قضا و قدر (یعنی تجویز اور شروع فعل) کی طرف نظر رکھو۔ اس کا اذن اور اجازت حاصل کرو اور اس کی اجل اور کتاب کا انتظار رکھو اور یہی فعل کے سات مراتب ہیں۔ جن کا حاصل کرنا ضروری ہے اور عبودیت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے معبود میں فنا ہو جائے۔ کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: "العبودية جوہرۃ کنہہا الربوبیۃ" عبودیت وہ حالت ہے جس کی اصلیت خدائی ہے۔
- ۱۳ ..... چونکہ وجود کے سات مراتب ہیں۔ اسی مناسبت سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد سات دفعہ طواف واجب کیا گیا ہے۔ تاکہ ظاہر و باطن آپس میں مطابق ہو جائیں۔
- ۱۴ ..... حضرت نقطہ یعنی باب کا مکان تمام مکانوں سے اشرف ہے۔ جہاں آپ رہتے ہیں اور قیام کے مقام پر بیت اللہ سے مراد حضرت نقطہ کا جسم مبارک ہے یا اس سے مراد "خلق شرافۃ" اور شرافت کا اظہار ہے۔ کیونکہ "تعز من تشاء" میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور "اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون" میں اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی چیز کو عزت دیتا ہے تو وہ چیز اس کے ارادہ کے مطابق حرف کن سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کا ارادہ خود خدا کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ یا اس سے مراد حضرت نقطہ کا قلب ہے۔ کیونکہ خدا کا قول ہے کہ: "لا یسعی ارضی ولا سماء الا قلب عبدی المؤمن" "زمین و آسمان میں میری گنجائش نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو عبد المؤمن کے قلب میں ہوئی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اول المؤمنین حضرت نقطہ ہی ہیں۔ (کیونکہ بروز رسالت و ولایت ہیں) اور مرجع خیرات بھی آپ ہی ہیں۔
- ۱۵ ..... اسی اصول پر حضرت امام حسین علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہوئے یوں کہنے

کا حکم ہے کہ: "السلام عليك يا ابن زمزم والصفاء والمشعر" یعنی اے نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے تم پر سلام ہو تو گویا آپ ہی زمزم کو صفا اور مشعر الحرام کا مرجع ہیں۔

۱۶..... اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک مخلوقات حجاب و جودی میں رہتی ہے اس کے واسطے تمام حدود اور احکام مقرر ہوتے ہیں اور جب حجاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قیود اور عبادات رفع ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ ظاہر نہیں کہ نفس اور زکوٰۃ مال کی موجودگی تک ہی فرض ہوتے ہیں اور جب مال ہی امام کے سپرد کیا جائے تو یہ دونوں حکم خود بخود مرفوع ہو جائیں گے۔ باقی احکام کو بھی اسی اصول سے حل کر سکتے ہو اور "واعبد ربك حتى ياتيك اليقين" میں بھی حصول یقین کو انتہائے عبادت قرار دیا گیا ہے۔

۱۷..... انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں احکام سفر یا مشاغل زراعت کی طرح تھیں۔ جب انسان منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو سفر کے تمام احکام دو گانہ اور اظفار روزہ وغیرہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کھیت کٹ کر کھلاڑے میں صاف ہو جاتا ہے تو اس وقت حفاظت، پانی دینا اور کھیتی باڑی کی تمام مصروفیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔

۱۸..... محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ کیونکہ انسانی ترقی کی راہ میں یہ شریعت احکام سفر تھی۔ اب جب کہ وہ مقام توحید پر پہنچ چکا ہے تو دین محمدی کے تمام احکام ساقط ہو چکے ہیں۔ اس لئے اب امام آخر الزمان کی شریعت توحیدی جو ناقابل تنسیخ ہے۔ اس پر عمل در آمد کرنا انسانی فرض ہوگا۔

۱۹..... "ان حلال محمد حلال الی یوم القیامة" میں گویہ ذکر ہے کہ حضور ﷺ کا حلال و حرام قیامت تک جاری رہیں گے۔ مگر اس سے مراد قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت ہے۔ (جو دوسرے صاحب شریعت کے ظاہر ہونے پر پہلے صاحب شریعت کے لئے ظاہر ہوا کرتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس قیامت کا سلسلہ بدستور جاری رہا ہے)

۲۰..... قائم آل محمد کی شریعت تمام ادیان سابقہ کی ناخ قرار پائی ہے۔ کیونکہ کمال توحید کار زنی صفات میں مضمر ہوتا ہے۔ "کمان الناس امة واحدة" میں بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں نے لوگوں کو مختلف کر دیا تھا۔ (اب وہ زمانہ چلا گیا ہے۔ اس لئے جس طرح پہلے کمال توحید پر لوگ قائم تھے اب بھی قائم ہوں گے)



۲۱..... روایت ہے کہ: ”يجعل العلل مله واحدة“ امام آخر الزمان تمام مذاہب کو ایک مذہب بنا دے گا یہ بھی روایت ہے کہ: ”احكامه من الباطن“ اس کے احکام باطنی ہوں گے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب باطن آجاتا ہے تو ظاہر خود بخود دور ہو جاتا ہے۔

۲۲..... خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا تمام مال قائم آل محمد کا ہے۔ تمام آدمی اس کے غلام ہیں اور عورتیں اس کی لونڈیاں ہیں اور روایت ہے کہ امام اگر چاہے تو بیوی میاں میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ (یعنی تمہارے نکاح کی باگ ڈور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے)

۲۳..... تمام اطراف قبلہ ہیں۔ جس طرف رخ کرو وہیں خدا کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے اور چونکہ پہلے زمانہ میں لوگ توحید کے احکام برداشت کرنے کے ناقابل تھے۔ اس لئے ان کو الگ طرفین سجدہ کی بتائی گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ ”رجعة بعد رجعة“ کے ذریعہ سے وہ احکام اٹھتے گئے۔ یہاں تک کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس میں کمال توحید کے احکام جاری ہوں گے۔ کیونکہ اب لوگ توحید فی العمل کے برداشت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ (اس لئے سب کو اتفاق اور اتحاد مذہبی کا اصول بتایا جا رہا ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ بشرطیکہ وحدت ادیان کو ملحوظ رکھا جائے۔ ورنہ اختلاف کی صورت میں باطل ظہریں گے)

۲۴..... بابیوں کو لوگ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر اور لائق کشتنی ہیں اور یہی ان کی صداقت کا نشان ہے۔ کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جب رلیۃ الحق یعنی حقانیت کا علم اٹھایا جائے گا تو اہل مشرق اور اہل مغرب اس پر لعنت بھیجیں گے اور جو لوگ حجاب میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کی طبیعت میں جمود اور دقیانوسی خیالات جمع ہوئے ہیں وہ بھی ان کو لعنت بھیجیں گے۔ یہ بھی صداقت کا نشان ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق سے آپ کے لئے ہی نکلے تھے اور یہ کہ چار قسم کے علم یعنی جناب ذکر علی محمد کے ماتحت حسینی جناب قدوس محمد علی کے ماتحت خراسانی سید الشہداء کے ماتحت اور طالقانی طاہرہ کے ماتحت۔ (کیونکہ آپ کا باپ طالقانی تھا) بھی آپ کی صداقت کا نشان ہیں اور یہ کہ سفیانی علم یعنی شاہ ناصر الدین تباہ ہو چکا ہے۔

۲۵..... خلاصہ یہ ہے کہ حاجی محمد علی صاحب کا دعویٰ رجعت رسول اللہ ﷺ کا ہے۔ کیونکہ وہی صاحب آیات ہیں اور مناجات و اعلیٰ خطبوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔

۲۶..... خلاصہ یہ ہے کہ القائم بامر اللہ سے چونکہ مراد رجعت رسول ہے۔ اس لئے وہ حضور قدوس ہی ہیں اور چونکہ جناب ذکر رجعت امیر ہیں اور رجعت نبی سے پہلے سبقت کر چکے

ہیں۔ اس لئے جناب کا ذکر کا نام علی محمد ہو گیا اور جناب قدوس کا نام محمد علی بن گیا اور اس وجہ سے بھی آپ کا نام محمد علی ہوا کہ لڑائی میں ۳۱۳ نقیب حاضر ہوئے تھے۔

۲۷..... یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے نقیب ہوا میں بھی اڑیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ علوم سابقہ سے پرواز حاصل کر کے قدوس سے آملیں گے۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ وہ زمین کو لپیٹ لیں گے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ کچھ جاہل ہوں گے۔ مگر قعر جہالت سے نکل کر آسمان عقل پر جا پہنچیں گے۔

### باب چہارم

خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت قدوس میدان بدشت میں ظاہر ہوئے تو بابی خوشی سے اپنے کپڑوں میں نہیں سماتے تھے۔ اچھلتے کودتے اور ناچتے پھرتے تھے اور وجد میں آ کر نعرہ لگا کر دیوانہ وار حرکتیں کرتے تھے۔ مگر یہ تمام شور وغل ابھی فرو نہیں ہوا تھا کہ مخالفین آ پڑے تو حضرت قدوس نے حکم دے دیا کہ اپنے مال چھوڑ کر الگ ہو جاؤ اور کسی کی مزاحمت نہ کرو۔ اس لئے بابی وہاں سے چل کر آمل اشرف اور بار فروش میں آ گئے۔ خود حضرت قدوس بھی کچھ مدت بار فروش میں روپوش رہے۔ سعید العلماء نے حاکم وقت کو رپورٹ دی تو جناب قدوس کو ساری روانہ کیا گیا اور طاہرہ کو نور کی طرف بھیجا گیا اور سید الشہداء اپنے ستر ہما ہیوں اور زاد راہ کے ساتھ خراسان سے مازندران کو روانہ ہو گئے۔ جب قدوس منزل میامی میں پہنچے تو ملا زین الدین بھی اپنے تیس سے زائد ہما ہیوں کی معیت میں آپ سے شامل ہو گئے۔ (ملا صاحب کا داماد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ حالانکہ بیاہ کو چند دن ہی گذرے تھے اور اس کی عمر بھی اٹھارہ سال تھی اور ملا صاحب خود عمر رسیدہ بوڑھے تھے۔ ملا صاحب کی سواری کے ساتھ دوڑتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حبیب بن مظاہر ہوں اور کر بلا بابیہ میں یہ سب شہید ہو گئے تھے) یہ لشکر جب مازندران کے قریب پہنچا تو حضرت قدوس نے قطع مسافت کو بہت ہی کم کر دیا۔ یہاں تک کہ روزانہ سفر نصف فرسنگ رہ گیا تھا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی امر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دن ابن السلطان (شہزادہ) سفر میں آپ کو ملا اور پوچھا کہ جناب کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کر بلا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد متصل ہی آپ کو خبر ملی کہ بادشاہ مرچکا ہے تو آپ تیز ہو گئے۔ (گویا آپ اسی کا انتظار کر رہے تھے) اور جبل فروز پر پہنچ گئے اور خطبہ دیا کہ جو شخص حکایت بدشت کا ذکر کرتا ہوا معلوم ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ ہم شہادت کے لئے جا رہے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتا وہ واپس چلا جائے۔ میں ظہر کوفہ یعنی بار فروش کے قریب قتل کیا جاؤں گا۔ (اس کو خطبہ ازلیہ کہتے ہیں اور اس شہادت کو

شہادت ازلیہ بتاتے ہیں) آپ کے دوسو ہمراہیوں نے شہادت پر بیعت کر لی اور باقی تیس آدمی رو رو کر واپس چلے گئے۔ کیونکہ وہ کمزور تھے اور مباحثین میں کچھ لوگ ذی عزت بھی تھے۔ مثلاً صدایسی، صد تومانی، پنجاہ تومانی ایک خراسانی تاجر بھی تھا۔ جس کے ہمراہ پانچ ہزار تھان یمنی کپڑا تھا۔ (یعنی شال تیرمہ و فیروزج) جب دوبارہ بار فروش پہنچے تو سعید العلماء نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

### بار فروش میں چچقلش

مگر آپ نے عذر کیا کہ ہم چند روزہ کر چلے جائیں گے اور چونکہ بادشاہ مرچکا ہے اور راستہ خطرناک ہو رہا ہے۔ اس لئے چند یوم قیام ضروری ہے۔ پھر ہم کربلا کو چلے جائیں گے۔ مگر سعید العلماء نے کوئی عذر تسلیم نہ کیا۔ اسی اثناء میں ایک نانباتی نے سید رضا پر تیر چھوڑ دیا جو مشہد سے واپس آ کر آپ کے ہمراہ ہو لیا تھا تو بمعہ گھوڑے کے مر گیا۔ دوسرا تیر حضرت اقدس پر چلایا گیا مگر وہ خطا گیا اور حضرت قدوس نے تلوار اٹھائی تو وہ ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ دوسری طرف دیوار تھی۔ اس لئے آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار چلا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ گو آپ کو بائیں بازو میں رعشہ تھا۔ مگر تلوار خوب زور سے چلائی تھی۔ پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ سعید العلماء کے گھر زبردستی داخل ہوں۔ مگر کسی حکمت سے نہ گئے اور اس وقت یہ مشہور ہو گیا کہ ظالم بایوں نے بچے بھی مار ڈالے ہیں اور حقیقت یہ تھی کہ ایک گداگر فقیر اپنے بچے کو گود میں لئے کھڑا تھا کسی بابی نے اس سے منزل مقصود کا راستہ پوچھا مگر اس نے عمد اغلط بتایا۔ پھر پوچھا تو پھر بھی غلط بتایا۔ تیسری دفعہ اسے غصہ آیا تو اس نے اس فقیر کو معہ بچہ کے مار ڈالا۔ ورنہ ابھی صرف سات خون ہوئے تھے تو بابی صحیح و سلامت شہر سے باہر آ گئے تھے اور ایک سرائے میں ایک برج تھا۔ اس میں پناہ گزین ہو گئے اور شہریوں نے محاصرہ کر لیا۔ حضرت قدوس نے حکم دیا تو ایک نے سرائے پر اذان کہی تو لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ دوسرا مؤذن بھی نکلا تو وہ بھی مارا گیا۔ تیسرے نے اذان مکمل کر لی تھی کہ وہ بھی مارا گیا۔ پھر بایوں نے مدافعت شروع کر دی۔ جس میں اہالیان شہر ہزیمت اٹھا کر واپس آ گئے۔ عباس علی خان بار فروش میں آیا تو اس نے اپنا داماد حضرت کے پاس بھیجا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ آپ نے راستہ کا خوف پیش کیا تو اس نے اپنی طرف سے اپنے داماد کے ماتحت کمک بھیج دی۔ جو آپ کا مصدق تھا اور خسرو بھی ساتھ ہو لیا۔ جس کے ہمراہ سو سوار تھے۔ جب تھوڑی دور نکل گئے تو داماد واپس لوٹ آیا اور خسرو بھٹور محافظ کے آپ کے ہمراہ رہا۔ مگر وہ بھی

ایک دن پیش ہو کر عذر پیش کرنے لگا اور آپ سے اس حفاظت کی مزدوری طلب کی تو آپ نے اسے ایک سو روپیہ دیا اور کچھ جنس بھی دی۔

### خسرو کی لڑائی

مگر اس نے اصرار کیا کہ میں ضرور گھوڑا بھی لوں گا اور آپ کو چونکہ سخت ضرورت تھی۔ اس لئے آپ نے انکار کر دیا۔ اب وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم تم کو مار ڈالیں گے اور تمہارے تمام مال کو لوٹ لیں گے اور سخت وست لفظ بھی کہنے شروع کر دیئے۔ جس پر ایک بابی نے غصہ کھا کر اسے مار ڈالا۔ اب خسرو کی سپاہ بھی کود پڑی۔ مگر بابیوں نے ان کو مار مار کر بھگا دیا تو انہوں نے قریب کی بستوں میں پناہ لی۔ گردنواح سے لوگوں کو جمع کر کے بابیوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ مال چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ چنانچہ تمام بابی مال چھوڑ کر قلعہ طبرہ میں پناہ گزین ہو گئے اور یہ وہ مقام ہے کہ حضرت نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہاں کثرت سے خون ہوں گے۔ مگر انہوں نے اپنی اپنی تمام جائیداد ایک جگہ جمع کر لی جو مختلف طریق سے حاصل کر چکے تھے اور آپس میں عقد اخوت قائم کر لیا۔

### طبرہ کی لڑائی

اور حضرت کو اپنا باپ تصور کر لیا۔ (گویا یہ ایک کنبہ تھا جس کا مربی حضرت کی ذات تھی) دوسری دفعہ پھر خسرو کے لشکر نے حملہ کیا تو آپ نے حکم دے دیا تو مرید قلعہ سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے اور ان کو حکم دیا کہ دشمن خواہ کسی طرح تم کو قتل کرے تم کو اجازت نہیں کہ اس کے مقابلہ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ اب وہ بت بن کر کھڑے ہیں اور دشمن تیر و تفنگ سے اپنے مواد کو نذر آتش کر رہا ہے۔ مگر ان کا بال بیکانہ ہوتا۔ کیونکہ آپ نے کچھ پڑھ کر کنکریاں ان پر پھینک دی ہیں۔ جس سے تیر و تفنگ اثر نہیں کرتے۔ بابیوں کی استقامت دیکھ کر مخالف اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ طالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی کام کیا تھا۔ کچھ مدت کے بعد سید الشہداء اپنے تمام مریدوں کی معیت میں آپ سے شامل ہو گئے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا تو سید صاحب نے بھی آپ کی کمال عزت کی۔ جس سے آپ کے مریدوں پر حضرت قدوس کی جلالت کا سکہ جم گیا۔ (اور سید الشہداء سے مراد محمد حسین بشری ہیں جو باب کے مبلغ تھے)

### لڑائی کی تیاری

اب سید صاحب نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ قلعہ کی مرمت کریں اور اسلحہ سازی میں مشغول ہو جائیں تو ہر ایک سپاہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور یہ روایت سچ نکلی کہ امام

آخر الزمان کے مرید صلوٰۃ کے کام کریں گے اور صلوٰۃ سے مراد باہمی اتفاق اور تعاون ہے۔ اس لئے وہ سب ایک جماعت بن گئی۔ جب سید العلماء کو یہ معلوم ہوا تو اس نے سلطان ناصر الدین کو طہران میں لکھا کہ قدوسیوں کے مقابلہ پر ایک لشکر بھیج دیا جائے۔ چنانچہ شاہی لشکر نے وہ نظر خان کے مقام پر ڈیرے ڈال دیئے اور قدوسیوں نے قلعہ سے باہر نکل کر پہلے حملہ میں ہی تمیں سپاہی مار ڈالے۔ اس گاؤں اور تمام سرکاری گودام کو لوٹ کر صاف کر دیا اور یہ خدا کی قدرت تھی اور قدوس کے لئے یہ نشان صداقت تھا۔

### سلطانی لشکر سے قدوسیوں کی لڑائی

کہ قدوسی اس لڑائی میں بھی ایک نہیں مرا اور اس فتح یابی کی خبر قدوس نے پہلے دے دی ہوئی تھی۔ اس طرح پر قدوسیوں نے دو سال کا خرچ قلعہ میں جمع کر لیا اور موضع مذکور کا بالکل صفایا کر دیا۔ کیونکہ وہاں کے باشندوں نے پہلے آپ کی تصدیق کی تھی اور جب شاہی لشکر پہنچا تو وہ سب مرتد ہو گئے اور جب یہ خبر طہران پہنچی تو سلطان نے اپنے بیٹے مہدی قلیخان کو مقابلہ کے لئے روانہ کیا اور عباس قلیخان کو حکم دیا کہ شہزادہ کی امداد میں مصروف رہے۔ یہ مہدی قلی خان وہی ہیں جو حضرت قدوس کو ساری کے مقام پر ملے تھے اور آپ کی تصدیق کی تھی۔ اس کے بعد بار فروش میں آ کر سید الشہداء کی بھی تصدیق کی تھی۔ آپ نے شہزادہ کی امداد سے جی چرایا۔ کیونکہ آپ بابی مشہور تھے۔ اس لئے علمائے اسلام سے فتویٰ دریافت کیا کہ کیا حضرت قدوس واجب القتل ہیں۔ تو امام جمعہ نے قتل کا حکم دیا اور ملا محمود کرمان شاہی خاموش رہے اور اس سے پہلے آپ نے حضرت قدوس سے ایک دفعہ سوال کیا تھا تو جناب نے فرمادیا تھا کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں اور تمام سلاطین میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور تمام لوگ میرے تابعدار ہیں تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ قدوس کی خدمت میں رہ کر دنیاوی مال و متاع سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر اس مقولہ کا اصل مطلب عباس قلیخان کو معلوم نہ تھا۔ کیونکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضرت قدوس کی حکومت قلوب الناس سے وابستہ ہے اور باطنی طریق سے ان پر حکومت کرتے ہیں اور تمام سلاطین پر فوقیت سے یہ مطلب تھا کہ حکومت ہاشمیہ جب قائم ہوگی تو آہستہ آہستہ سب لوگ اس کے ماتحت ہوتے چلے جائیں گے۔ بہر حال شہزادہ دو تین ہزار سوار لے کر وازگرد کے مقام پر آٹھ ہر اجو قلعہ سے دو فرسنگ کے فاصلہ پر تھا اور منتظر تھا کہ عباس قلیخان اس کے ساتھ شامل ہوگا۔

### جناب قدوس سے خط و کتابت

اس لئے دفع الوقتی کے طور پر خط و کتابت شروع کر دی۔ جس میں یہ پوچھا کہ جناب کا

دعویٰ کیا ہے تو جناب قدوس نے جواب میں لکھا ہے کہ ہم اصحاب دین ہیں۔ دنیا دار نہیں ہیں۔ مناسب ہے کہ علمائے اسلام سے ہمارا تبادلہ خیالات کرایا جائے۔ ہم پیشتر بھی کئی ایک خط روانہ کر چکے ہیں تو کبھی تم نے کہا کہ قدوس دیوانہ ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو تم نے اس کا علاج کیوں نہ کیا اور یا اسے دوسرے پاگلوں کی طرح آزاد کیوں نہ چھوڑ دیا اور کیوں اسے قید کیا اور تکلیف دیتے رہے اور کبھی یہ سمجھا کہ یہ مفسد ہے تو پھر بغیر اصلاح کے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تم سے تو ہارون رشید اور مامون خلیفہ ہی اچھے تھے۔ جنہوں نے حسینہ کے لئے چار سو اہل علم جمع کئے تھے اور تمہیں ایک عالم پیش کرنے سے بھی نفرت ہوئی۔ تاکہ حضرت ذکر سے تبادلہ خیالات ہو جاتا۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کے لئے کئی ایک جادوگر جمع کئے تھے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا ایک آدمی بھی مار ڈالا ہوا تھا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ تم لوگ اس سے بھی زیادہ متکبر ہو اور فرغتہ الاسلام ہو۔ ہم چار سو مسلمانوں نے (کہ جن میں کچھ ادنیٰ درجہ کے تھے اور کچھ اعلیٰ درجہ کے) حضرت باب کی تصدیق کی کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو اگر ہماری شہادت ناقابل تسلیم تھی تو پھر تم لوگ ایک مسلم قتل کرنے کے لئے دو گواہوں پر کیسے تصدیق کر لیا کرتے ہو؟ ہم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا تو اس نے ہم کو ہدایت بخشی۔ کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ: ”وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنُهْدِيَنَّهُمْ سَبِلْنَا“ جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے تو ہم اسے ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں اور سلطنت سے مقابلہ کے متعلق تم کو معلوم رہے کہ چیونٹی بھی اپنی جان کی حفاظت کے لئے تن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کوئی تنگدست اپنی جان فروشی کر کے مال حاصل نہیں کرتا۔ تاکہ اس کے پسماندہ بال بچے آرام سے زندگی بسر کریں تو ثابت ہوا کہ جان بہت عزیز ہے اور اس کی حفاظت ایک فطرتی امر ہے۔ اس لئے ہم بھی اپنی جان بچانے کے لئے مدافعت کے طور پر لڑتے ہیں۔ مرین گے تو شہید کہلائیں گے زندہ رہے تو مجاہد ثابت ہوں گے۔ باہمی فیصلہ کے لئے مناسب ہے کہ تم اپنے علماء مناظرہ کے لئے جمع کرو تا کہ بحث و تحقیص سے امر زیر بحث کا فیصلہ ہو جائے یا تم ہم سے دس دن کے لئے مبادلہ کرو یا جلتی آگ میں گھس کر دکھلاؤ۔ اگر تینوں امر مشکل نظر آتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دو ہم کر بلائے معلئے کو چلے جائیں۔ ورنہ مدافعت جنگ ہم پر بھی واجب ہے۔ شہزادہ! تم دنیاوی مال و دولت پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ محمد شاہ تم سے پہلے واصل جہنم ہو چکا ہے۔ خدا سے ڈرو اور ہماری طرف دوڑ کر ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جب شہزادہ کو یہ جواب ملا تو اس نے جواب الجواب دیا کہ ہم انشاء اللہ علمائے اسلام کو جمع کریں گے۔ مگر یہ وعدہ صرف حکمت عملی پر مبنی تھا تاکہ عباس قلی شامل ہو جائے اور بڑے زور سے لڑائی کی جائے۔ لیکن حضرت

قدوس کو یہ بھی حکمت عملی معلوم ہوگئی۔ اس لئے آپ نے جواب آنے پر فوراً تین سو باہیوں کو حکم دیا کہ رات کو لشکر سلطانی پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ خود جناب قدوس اور سید الشہداء اپنے مریدوں کو ہمراہ لے کر لشکر کے قریب نعرہ زن ہوئے تو شاہی لشکر نے یہ سمجھا کہ عباس قلی خان شمولیت کے لئے آ گیا ہے۔ اس لئے خوشی کے مارے اچھلنے لگے اور لڑائی سے بالکل غافل ہو گئے تو انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں اہل مازندران سے بھی ایک سو بیس سوار شامل ہو گئے جو آقا رسول ہممیزی کے ماتحت آئے تھے وہ آتے ہی اسلحہ خانہ میں جا گھسے اور بارود کو آگ لگا دی۔ اس لئے شاہی لشکر رات ہی رات بھاگ گیا اور ان چند باہیوں کو رہا کر دیا جو بار فروش سے حضرت قدوس کی خدمت میں حاضر ہونے کو آئے تھے تو سرکاری آدمیوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد شہزادہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت اس کے مکان میں دو اور بھی شہزادے موجود تھے۔ (یعنی حسین بن فتحعلی شاہ داؤد بن ظل سلطان اور مہدی قلی) مہدی قلی خاں تو پاخانہ سے چھلانگ لگا کر جنگلات میں جان بچا کر نکل گیا۔ مگر دو شہزادوں کو قدوسیوں نے آگ لگا کر زندہ ہی جلا دیا۔ اس کے بعد مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے اور جناب قدوس نے ہر چند روکا مگر وہ نہ رکے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ دشمن کا ایک ہزار سپاہی پہاڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ جب جناب قدوس کا وہاں پر گذر ہوا تو انہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور تیر برسوں کے شروع کر دیئے اور سید الشہداء آپ کی طرف سے مدافعت کرنے کو ہی تھے کہ ایک تیر سے حضرت قدوس کے چار دانت (رباعیہ) ٹوٹ کر منہ بھر گیا۔ اب سید الشہداء نے غضب میں آ کر تلوار چلائی اور تین سو دشمن مار ڈالے اور قدوسی صرف تین آدمی مرے۔ یہ لڑائی غزوہ احد کی رجعت تھی۔ کیونکہ وہاں پر بھی صحابہ نے مال لوٹنے پر حرص کی تھی اور حضور ﷺ کے چار دانت شہید ہو گئے تھے۔ اب سید الشہداء کو آپ کے دانت نکل جانے کا بہت رنج ہوا۔ کیونکہ تین ماہ تک حضرت قدوس نے سوائے ریشمی حلوے اور چائے کے کچھ نہیں کھایا تھا تو آپ نے جناب کا بدلہ لینے کو ایک رات اجازت لے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ آپ آگے بڑھے اور کچھ سوار آپ کے پیچھے پیچھے آتے تھے۔ ننگے پاؤں سروں پر بازو اٹھائے ہوئے مندے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے قدارات (ایک قسم کی تلواریں) گلے میں لٹکائے ہوئے جب دشمن کے سامنے ہوئے تو یکجائی ہلہ بول دیا اور صاحب الزمان، یا قدوس کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس استقامت سے لڑے کہ جب ایک مرجاتا تھا تو فوراً اس کی جگہ پہلے کی لاش کے اوپر یا اسے پیچھے سرکا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں نے واقعہ کو بلا بھلا دیا تھا۔ کیونکہ اس وقت دشمن سات ہزار تھے اور انہوں نے سات لنگر (مورچے) لگائے ہوئے تھے۔ مگر

قدوسیوں نے سب تباہ کر ڈالے تھے اور قتل عام شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ عباس قلی خان بھیس بدل کر بھاگ نکلا اور کسی پہاڑ کی کھوہ میں اپنے آدمیوں سمیت جا چھپا۔ اس کے بعد قدوسیوں نے دشمن کے خیمے جلادیئے اور اپنی گردنوں کے ارد گرد سفید کپڑے شعار (امتیازی نشان) کے لئے باندھ لئے۔ کیونکہ اس وقت دشمن بھی جان بچانے کے لئے یا صاحب الزمان اور یاسید الشہداء کے نعرے لگاتے تھے۔ جب آگ کے شعلے آسمان پر پہنچے۔ ہوا تیز ہو گئی اور اتفاقیہ طور پر بارش کا ترشح بھی شروع ہو گیا تو لوگ ذرہ سنبھل گئے اور میدان کا رزار روز روشن کی طرح دکھائی دینے لگا۔ اسی اثناء میں عباس قلی خان نے سید الشہداء کو دیکھ لیا اور دو تیر چلائے۔ پہلے سے تو آپ کا سینہ چاک ہو گیا اور دوسرے نے آپ کو ست کر دیا تو قدوسیوں نے آپ کو فوراً قلعہ میں پہنچایا۔ آپ نے گھوڑے سے اترتے ہی جان دے دی۔ حضرت قدوس نے اپنی لاشی سے اشارہ فرما کر کہا کہ لاش وہاں رکھ کر چلے جاؤ اور قبر تیار کرو۔ (مؤلف کتاب ہذا کہتا ہے کہ) جب لوگ چلے گئے میں نظر بچا کر دیکھتا رہا تو حضرت قدوس لاش کے پاس جا کر چپکے سے باتیں کرنے لگے۔ جب میں سر ہو گیا تو فوراً آپ نے سید الشہداء کے چہرے پر چادر ڈال دی اور خاموش ہو گئے۔ ایک روز پہلے ہی ہمیں آپ نے سید الشہداء کے شہادت کی خبر دے دی تھی۔ جب کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھیڑوں کے بچے قلعہ میں بھوکے پھر رہے ہیں اور ان کی مائیں دشمن کی خوارک بن چکی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان سے بھی زیادہ بھوکے ہیں اور ان سے بڑھ کر یتیم ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ سید الشہداء کے کاندھے پر رکھ کر فرمایا کہ یہ حسین بنے گا۔ دجال ثابت نہ ہوگا تو یہی ہوا کہ دوسرے دن رحمت کا ظہور ہو گیا۔ چنانچہ دشمن یزیدیوں کی رجعت ثابت ہوئے سید الشہداء نے رجعت حسنی کا رتبہ پایا۔ عباس قلی خان نے ابن سعد کی رجعت قبول کی اور میدان کا رزار رجعت کر بلا ثابت ہوا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس جگہ حقانیت کا جھنڈا لہرائے وہی مقام کر بلا بن جاتا ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ چالیس روز تک قائم بامر اللہ امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے گا۔

مسئلہ رجعت

پھر اس کے بعد ہرج مرج ہوگی۔ رجعت کے متعلق تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور علی علیہ السلام کی رجعت فوری اور چشم زدن میں ہوا کرتی ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

اول ..... رجعت بالتولد جیسے خود علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حالانکہ آپ کی اور ان کی جسمانیت الگ الگ تھی۔



دوم..... رجعت بالاشراق جیسا کہ روایت میں ہے کہ: ”ارواحکم فی الارواح  
واجسادکم فی الاجساد و نفوسکم فی النفوس و قبورکم فی القبور و ذکرکم  
فی الذاکرین“ تمہاری روحوں میں روشن ہیں۔ تمہارے جسم اجسام ہیں۔ تمہارے نفوس  
نفوس میں، تمہاری قبریں قبروں میں اور تمہارا ذکر ذاکرین میں روشن ہے۔

سوم..... بروز اور رجعت کسی اور طریق سے جس کو صاحب الرجعت ہی سمجھ سکتا  
ہے۔ دوسرے کو لیاقت ہی نہیں کہ دریافت کر سکے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ رجعت تناخ اور حلول نہیں  
ہے اور نہ ہی اسے اتحاد کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ دوسری قسم ہے جو تناخ وغیرہ سے الگ ہے۔ یہ بھی یاد  
رہے کہ رجعت دونوں سلسلوں (نوری و تاری) میں چلتی ہے۔ جس طرح کہ رات دن بدلتے  
رہتے ہیں اور رجعت نوری و ظلماتی رکھاتے رہتے ہیں۔ یہ قول کہ امام آخر الزمان ہزار سال کے  
بعد ظاہر ہوگا اور قاتلان حسین بھی ظاہر ہوں گے اور یہ ان سے امام حسین کا بدلہ لے گا۔ اس کا یہ  
مطلب نہیں ہے جو ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ اس کا کوئی دوسرا اور مطلب ہے جو اہل  
باطن سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ قاعدہ تسلیم شدہ ہے کہ: ”لا تزر وازرة وزر اخری“ ایک کا بوجھ  
دوسرے پر نہیں لادا جاسکتا۔ بہر حال جب رات کو سید الشہداء کو دفن کیا گیا اور صبح ہوئی تو آپ نے  
اذان دلوائی اور تمام قدوسی جمع ہو گئے۔ ورنہ تو وہ اپنی اپنی جگہ پر ذکر و شغل میں مصروف تھے اور  
دشمن لہو و لعب میں مشغول تھا اور معلوم ہوا کہ دشمن کے آدمی ایک ہزار سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں  
اور چار سو تک مارے گئے ہیں اور قدوسی صرف ستر مارے گئے ہیں۔ جیسا کہ قدوس نے اپنے خطبہ  
ازلیہ میں پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا۔ پینتیس آدمی دشمن کے مقتولوں کے بڑے سرگروہ تھے۔ اس لئے  
ان کو اٹھا کر آمل لے گئے اور جب سید العلماء کو یہ خبر ملی کہ شاہی فوج کو شکست ہوئی ہے تو اس کو  
سخت خوف پیدا ہوا کہ کہیں حضرت قدوس اس پر بھی حملہ نہ کر دیں۔ حالانکہ جناب کا ارادہ سلطنت  
باطنیہ قائم کرنے کا تھا۔ تاکہ لوگ اپنی رضامندی سے اس بادشاہت میں داخل ہوں۔ جیسا کہ:  
”لا اکراه فی الدین“ سے ظاہر ہے اور ظاہری سلطنت قائم کرنے کی نیت نہ تھی۔ کیونکہ اس  
میں جبر و استبداد ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے سید العلماء نے رات دن پہرہ لگوا دیا اور کبھی جناب  
قدوس کے خوف سے آپ کو غشی بھی ہو جاتی تھی اور گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ  
تھی کہ حضرت قدوس نے آپ کو دعوت مناظرہ دی تھی۔ مگر آپ نے نہ مانی۔ پھر دس دن تک کا  
مباہلہ پیش کیا۔ وہ بھی منظور نہ کیا۔ اخیر میں جلتی آگ میں داخل ہو کر صحیح و سلامت نکلنا پیش کیا۔ مگر  
وہ بھی آپ نے نہ مانا اور سلطان ناصر الدین سے امداد طلب کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ (مصنف

کا بیان ہے کہ) میں ایک دفعہ بارفروش گیا تو وہاں لوگوں میں خوب چل رہی تھی کہ قدوسی مرتد ہیں تو علمائے اسلام ان سے مقابلہ کے لئے کیوں نہیں نکلتے؟ مسلمان ہیں تو لڑائی کیسی؟ کچھ اہل علم خاموش ہیں۔ مگر یہ خاموشی چہ معنی دارد؟ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی اختلاف رائے میں سید العلماء نے عباس قلی خان کو لکھا کہ قدوسیوں پر تم خود حملہ کر دو۔ کیونکہ شہزادہ کو شکست ہو چکی ہے اور قدوسی بھی بے خرچ ہو رہے ہیں۔

قدوسیوں کی دوسری لڑائی

اس لئے تمہارے نام پر فتح ہوگی۔ مگر اس وقت وہ سلطان محمد باور کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھا۔ اس لئے وہ جواب بھی نہ دے سکا۔ لیکن سید العلماء نے بار بار لکھا کہ اس کو آمادہ کر ہی لیا۔ مگر اس نے یہ اعتراض پیش کیا کہ اگر یہ لڑائی جہاد ہے تو سید العلماء اور دوسرے علمائے اسلام اس میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ یا کم از کم عوام الناس میں تحریک کیوں نہیں کرتے کہ وہ لڑائی میں بھرتی ہوں۔ مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بہر حال عباس قلی خان قلعہ قدوسیہ کے قریب ایک گاؤں میں جا اترا۔ اس وقت حضرت قدوس نے حکم دیا ہوا تھا کہ دشمن کی لاشوں سے سر جدا کر کے قلعہ کے ارد گرد لٹھیوں پر کھڑے کر دو۔ شاہی لشکر نے جب یہ منظر دیکھا تو رعب کھا گئے اور پیچھے ہٹ کر تیاری کرنے لگے اور حضرت قدوس کو اس وقت غنیمت بے شمار حاصل ہو چکی تھی۔ آپ قلعہ کے اندر مزے اڑاتے تھے۔ خوراک و پوشاک پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ سامان رہائش شاہانہ طور پر فراہم کر لیا ہوا تھا اور فرماتے تھے کہ یہ آل محمد کا دور حکومت ہے۔ محمد حسن برادر خور محمد حسین سید الشہداء بشروی ابھی انیس سالہ جوان تھا کہ پندرہ قدوسیوں کی معیت میں دشمن پر حملہ آور ہوا اور اس وقت دشمن کی تعداد تین سو سے پانچ سو تک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ (مصنف کا قول ہے کہ) میں نے اس سے پہلی دفعہ طہران میں ملاقات کی تھی۔ جب کہ ابھی وہ کربلا کی زیارت کر ہی چکا تھا۔

خاندان بشروی

اس وقت اس کی والدہ اور ہمشیرہ (زوجہ ابوتراب قزوینی مرید سید مرحوم) بھی ہمراہ تھیں۔ یہ عورت جب کربلا پہنچی تو صرف فارسی میں لکھ پڑھ سکتی تھی۔ مگر جب طاہرہ سے بیعت ہو کر واپس آئی تو آیات قرآنیہ کی تفسیر میں اس کو خاص لیاقت حاصل ہو گئی تھی۔ گویا یہ طاہرہ کی برکت تھی اور اس کی والدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت قصیدے بھی لکھے تھے اور اپنا اخلاص دکھایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خاندان نور علی نور ہے۔ جب محمد حسین واپس آیا تو حضرت قدوس نے

دستار اور علم عنایت فرما کر اپنے تمام لشکروں کا جرنیل مقرر کر دیا تو اس وقت حضرت امیر علیہ السلام کا قول پورا ہو گیا کہ: ”یخرج نار من قعر عدن“ یعنی بالابو شہر سے آگ نکلے گی۔ ”ابیض ایبن کشنن“ شبن گھاس کی طرح سفید ہوگی۔ ”اسمہ حسین وحسن“ اس کا نام حسن ہے یا حسین ہے۔ ”معجم البلدان“ میں ہے کہ ابین وہ علاقہ ہے جس میں عدن واقع ہے۔ یہ نار جب باب سے مل گئی تو نور بن گئی۔ (کیونکہ حروفی حساب میں باب کے اعداد پانچ ہیں) اسی امر کو ملحوظ رکھ کر اس نار کو بیضاء کہا گیا ہے۔ ورنہ وہ تو سفید نہیں ہوتی۔ (نار سے نور کا معاملہ کرو)

باب پنجم و ششم

علی محمد باب نے پہلے سال باب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسرے سال جب آپ نے مقام ذکر کا اظہار کیا تو بابت محمد حسین بشروی سید الشہداء کے سپرد کردی تھی اور یہ پانچویں باب بن گئے تھے۔ باب سوم نے اسی وجہ سے آپ کا نام محمد حسین کی بجائے السید علی رکھ دیا تھا۔ جب قدوسیوں کے پہلے حملے میں باب پنجم کی وفات ہو چکی تو بابت آپ کے بھائی حسن کے سپرد ہو گئی اور وہ باب ششم ہو گئے۔ (مصنف کا قول ہے کہ) اس قسم کی باتیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتیں۔ ان کو اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ”صاحب الدار ادرے بما فیہا“ مالک مکان اپنے مکان کی اشیاء کو خوب جانتا ہے۔ فتنہ آخر الزمان کے متعلق بھی جو کچھ روایات میں مذکور ہے ان کے اندرونی مطالب بھی اہل بیت ہی کو معلوم ہیں۔ جن کو صرف عقول کاملہ ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد دشمن نے ایک برج کے اوپر چار چوبہ کھڑا کر کے خاکریز بھی کر دیا اور طہران سے آتش خانہ بھی منگوا لیا۔ مگر تاہم اہل علم کو قدوسیوں کے خوف سے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس لئے عباس قلی خان نے صلح کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جو حضرت قدوس نے بھی منظور کر لیا۔ کیونکہ خوراک کم ہو رہی تھی اور سامان جنگ ختم ہو چکا تھا۔

بھوکے قدوسیوں کے حیرت ناک حالات

صرف دو سو گھوڑے تھے۔ پچاس گائیں اور پانچ سو بھیڑ بکریاں۔ آپ نے اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم قلعہ میں اپنا پیٹ پالنے آئے تھے؟ تم اپنے چلتوک (خوراک کی تھیلیاں) ان جانوروں کے سپرد کر دو۔ کیونکہ ان کو خوراک کی تم سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ رفتہ رفتہ دشمن نے ہر طرف سے گھیرا ڈال لیا اور جو قدوسی باہر نکلتا تھا اسے قید کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ملا سعید برزکناری چائے اور کھانڈ لینے کو ایک جمعیت کے ساتھ باہر نکلا تو وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ گو اس سے پیشتر علمائے نور کو اثبات بابت کے متعلق بہت سے ثبوت لکھ کر بھیج چکا تھا اور ان کو قلعہ کے

حالات بھی حضور سے اجازت حاصل کر کے بیان کر چکا تھا۔ جس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر انصاف ملحوظ ہو تو باب کی صداقت میں کلام نہیں ہے۔ مگر اب جو دشمن نے پکڑ لیا اور اندرون قلعہ کے حالات پوچھتے ہیں تو خاموش ہو جاتا ہے۔ ہاں محمد حسین قمی اس کے بعد جب گرفتار ہوا تو اس نے سب کو بتا دیا تھا۔ اس وقت قدوس کا یہ حکم تھا کہ ناقابل خوراک گھوڑے قلعہ سے باہر نکال دو اور جو قابل خوراک ہیں ان کو ذبح کر کے کباب بنا کر کھاؤ تو قدوسیوں نے کباب کھانے شروع کر دیئے۔ مگر ان کو بد مزہ معلوم ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت قدوس نے ایک کباب کھا کر فرمایا کہ آہا کیا ہی لذیذ ہے۔ تو اس روز سے تمام قدوسیوں کو کباب لذیذ معلوم ہونے لگ گئے۔ محمد حسین قمی کو یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ قدوس کی حکومت باطنی ہے ظاہری نہیں۔ اس لئے آپ سے رخصت حاصل کر کے قلعہ سے باہر نکل آیا اور آپ نے اس لئے رخصت دے دی تھی کہ اس سے کچھ نشانات ظاہر ہونے والے تھے۔ اس لئے جب وہ رات کو اپنے دو دوستوں کے ہمراہ قلعہ سے باہر آیا تو زور سے کہنے لگا کہ مجھے گرفتار کر لو تو اسے شہزادہ کے پاس گرفتار کر کے لے گئے تو شہزادہ نے اس کی بہت خاطر ومدارات کی۔ کیونکہ وہ اسماعیل قمی کا داماد تھا اور ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شہزادہ نے پوچھا تو کہنے لگا کہ قدوس نے ہمیں بڑی امیدیں دلا کر اپنی طرف دعوت دی تھی۔ مگر کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ پھر اس نے بتایا تھا کہ یوں ہو گا یوں ہو گا۔ مگر سب جھوٹ نکلا اس لئے میں اس کو جھوٹا مدعی سمجھ کر باہر نکل آیا ہوں۔ یہ تقریر جن لوگوں نے سنی تو ان کے واسطے فتنہ بن گئی۔ کیونکہ کچھ دیر بعد اس نے اپنے بیانات بدل کر کہا کہ جس عقیدہ پر ہوں میں اس سے تائب نہیں ہوں۔ ضرورت یہ ہے کہ تم توبہ کرو۔ اس مخالف بیانی پر شہزادہ کو یہ شک پیدا ہوا کہ شاید جاسوس ہے۔ اس لئے چھ اور قدوسیوں کے ہمراہ ساری کے جیل خانہ میں بھیج دیا گیا۔ اب قدوسی نازک حالت میں ہو گئے۔ کیونکہ گھوڑے بھی ختم ہو چکے تھے تو گھاس کھانا شروع کر دیا اور جب وہ بھی نہ ملا تو گرم پانی پر گزارہ کرنے لگے اور لشکر نے چاروں طرف دم دے بتائے۔ جس پر بیٹھ کر گولی چلانی شروع کر دی۔ اس لئے قدوسی تہ زمین میں گڑھے کھود کر رہنے لگے۔ اب اور یہ مشکل آ پڑی کہ قلعہ مازندران کی زمین میں پانی قریب تھا۔ اس لئے کچھڑ میں ان کو رہنا پڑا اور جو بھی باہر نکلتا تھا مارا جاتا تھا۔ مگر اس وقت بھی حضرت قدوس نے یوں کہا کہ: ”من عرفنی فقد اشرك“ جس نے مجھے شناخت کیا وہ مشرک ہو گیا۔ ”ومن لم يعرفنی فقد کفر“ جس نے مجھے شناخت نہیں کیا وہ کافر ہو گیا۔ ”ومن قال فی حقی لم وبم فقد جحدنی“ اور جس نے میرے کام میں دخل دیا یا چون و چرا کی تو وہ میرا منکر ہو گیا اور یہ بھی کہا کہ: ”ما عبدتك

خوفاً للنارک ولا طمعاً فی جنتک بل وجدتك اھلاً للعبادة "یا اللہ میں نے تیری عبادت اس لئے نہیں کی کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا تھا یا مجھے جنت کی خواہش تھی۔ بلکہ صرف اس لئے کہ تجھے میں نے عبادت کئے جانے کا مستحق پایا ہے۔ شیخ صالح شیرازی، ملائقی قزوینی کا قاتل جب باہر نکلا تو گولی کا نشانہ بن گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اسے دفن کرنے لگے تو محمد علی بن جناب آقا سید احمد کو گولی لگی۔ جو دس سال کا بچہ تھا اور والد کی گود میں بیٹھا تھا تو وہ بھی وہیں سرد ہو گیا۔ حضرت قدوس کے برآمدے میں گولہ آ پڑا تو محمد صادق نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے تو آپ نے کہا کہ: "السننا علی الحق" کیا ہم حق پر قائم نہیں ہیں؟ خدا کی قدرت سے وہ گولہ اوپر جا کر آسمان میں پھٹ گیا اور آپ صحیح سلامت بچ رہے۔ دشمن نے ایک رات قلعہ کی ایک طرف کا برج توڑ دیا اور اندر گھسنے لگے۔ مگر قدوسیوں نے خوب مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست ہوئی۔ پھر دشمن نے دوسری رات قلعہ کی ایک دیوار میں بارود کی ایک دیگ رکھ کر آگ لگا دی۔ مگر قدوسی پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ دیوار پھٹی تو انہوں نے دشمن پر فائر کرنے شروع کر دیئے۔ اس لئے دشمن قریب نہ آسکا اور قدوسی صرف تین مرے۔ بارہ سلامت واپس آ گئے۔ آقا رسول مہمیزی قلعہ سے باہر نکل آیا۔ شہزادہ نے اس کی خاطر ومدارت کی مگر عباس قلی خان نے اس پر تشدد برتا۔ اس لئے اسے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد دس دس ہو کر تیس قدوسی اور نکلے۔ جن کو گرفتار کر کے آمل ساری اور بارفروش میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ نے حکم دیا کہ ایک جگہ سے قلعہ مسمار ہو چکا ہے اور قدوسی اس کو مرمت نہیں کر سکے۔ اب جو شخص سب سے پہلے علم شاہی لے کر قلعہ میں داخل ہوگا اس کو پانچ سو تومان (ایرانی روپے) دیئے جائیں گے۔ دوسرے نمبر کو تین سو۔ چنانچہ سات ہزار کی جمعیت میں شاہی فوج نے حملہ کر دیا اور ایک سپاہی انعام کی خاطر مسمار شدہ جگہ سے آگے بڑھا تو فوراً سے یکے بعد دیگرے دو تیر آ گئے۔ جن سے وہ وہیں سرد ہو کر رہ گیا اور اندر سے قدوسیوں نے اپنا سخت مقابلہ کیا کہ شاہی لشکر کو پسپا ہونا پڑا۔

### قتل قدوس و قدوسین

اب سلیمان خان طہران سے آیا کہ قلعہ کسی طرح فتح کرے۔ خواہ جبر و استبداد سے یا دھوکہ فریب سے اور یا کسی اور طریق سے۔ تو ان کی خوش قسمتی سے حضرت قدوس نے ایک خط روانہ کیا کہ ہمیں اپنے وطن کو جانے دو۔ شہزادہ اور عباس قلی خان نے اس درخواست کو غنیمت سمجھ کر منظور کر لیا اور قرآن شریف پر مہر لگا کر (حسب دستور) امن لکھ دیا اور ایک گھوڑا روانہ کیا تو حضرت قدوس اس پر سوار ہو کر دو سو تیس آدمیوں کی جمعیت میں شہزادہ کے پاس پہنچ گئے اور جب

دعوت ہو چکی تو شہزادہ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ فساد کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو حضرت قدوس نے جواب میں کہا کہ محمد حسین بشری سید الشہداء نے اس فتنہ کی ابتداء کی تھی۔ جس سے ہم ان مصائب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا تو سید الشہداء پر لعنت برسائی گئی۔ (مقولہ مصنف) درحقیقت یہ کلام کچھ اور معنی رکھتا تھا جو صرف رازدان ہی سمجھ سکتے تھے۔ اس لئے یہ بھی ایک اور فتنہ ہوا۔ پھر شہزادہ نے حکم دیا کہ حضرت آپ اپنے مریدوں کو حکم دے دیں کہ ہتھیار رکھ دیں تو آپ کے حکم پر کسی نے ہتھیار رکھ دیئے اور کسی نے نہ رکھے۔ کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو میرے کہنے پر ہتھیار نہ ڈالنا۔ مگر شہزادہ نے بہت زور دیا اور قدوس نے بھی بارہا حکم دیا تو مریدوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ بداء ہے اور آپ کی رائے تبدیل ہو چکی ہے اور بالخصوص ملا یوسف خوی نے بھی یہی حکم دیا تو مریدوں کو اور بھی یقین ہو گیا۔ اس لئے سب نے ہتھیار کھول دیئے اور منتظر رہے کہ ابھی ہمیں اپنے وطن کو جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ مگر جب شہزادہ ناشتا کھا کر فارغ ہوا تو قدوس کو دعوت دی۔ جب آپ چادر سے نکلے ہی تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے خواص بھی گرفتار کر لئے گئے۔ جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ محمد حسن، محمد صادق خراسانی، مرزا محمد صادق، محمد حسن خراسانی، نعمت اللہ آملی، محمد نصیر قزوینی، یوسف اردبیلی، عبدالعظیم مرانہ اور محمد حسین قمی اور باقی تمام قدوسی قتل کئے گئے۔ (آپ کی پیشین گوئی صادق نکلی کہ اس زمین پر اس قدر خون چلے گا کہ گھوڑوں کے گھٹنے تک پہنچ جائے گا) اور ان کی لاشیں باہر پھینک دی گئیں نہ جلائی گئیں اور نہ دفن ہوئیں۔ اب قدوس کو بمعہ خواص کے بارفروش لایا گیا۔ مگر بعض کہتے ہیں کہ خواص میں سے بھی کچھ آدمی وہیں معرکہ کارزار میں قتل کئے گئے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ محمد حسن، مرزا حسن اور محمد نوری۔ اب قدوس نے طہران پہنچ کر بادشاہ سے ملاقات کرنے کی درخواست کی اور شہزادہ ابھی اسی پر غور ہی کر رہا تھا کہ سید العلماء نے کہلا بھیجا کہ اسے وہاں مت بھیجنا۔ کیونکہ یہ تو بادشاہ کا من باتوں ہی میں موہ لے گا۔ اس نے چار سو تومان (بقول شخصے ایک ہزار تومان) دے کر قدوس کو خرید لیا اور قتل کرنا شروع کر دیا کہ پہلے تو دونوں کان کاٹ ڈالے۔ پھر تہر آہنی سے سر پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد قتل گاہ میں بھیج دیا اور کپڑے اتار لئے تو لوگ اس پر تھوکتے اور تحصیل ثواب کی خاطر آپ کو گھونٹے مارتے تھے۔ جیسا کہ احادیث ائمہ میں پہلے بیان ہو چکا تھا کہ ایسے واقعات امام قائم کو پیش آئیں گے۔ آخر ایک طالب علم نے آپ کا سرتن سے جدا کر دیا۔ مگر خون نہ نکلا تو کہنے لگا کہ میرے خوف سے خون بھاگ گیا تھا ارادہ ہوا کہ آپ کی لاش جلائیں ہر چند بھٹی میں ڈالی گئی۔ مگر وہ نہ جلی۔ پھر ٹکڑے

کلڑے کر کے باہر پھینک دیئے۔ مگر آپ کی عقیدت مندوں نے تمام کلڑے جمع کر کے ایک ویران مدرسہ میں دفن کر دیئے۔ جس کے متعلق جناب نے ایک سال پہلے ہی جب یہاں سے کہیں جا رہے تھے فرمایا تھا کہ یہی میرا مقل ہے اور یہی میرا دفن ہے اور خطبہ ازلیہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو دفن کروں گا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ مجھے کوئی دفن نہ کرے گا۔

### دعوائے مسیحیت

اس لڑائی سے پہلے ایک سال جناب قدوس نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ اب کے سال مصائب آئیں گے۔ مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ آپ کے باپ کا نام آقا صالح تھا۔ جب اس نے پہلی شادی ایک باکرہ سے کی تو معلوم ہوا کہ تین ماہ کا حمل اس پیٹ میں موجود ہے تو آپ نو ماہ کے بعد اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے اور ماں مر گئی۔ باپ نے دوسرا نکاح کیا۔ جس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور سوتیلی ماں نے آپ کی پرورش کی تھی۔ ایام فتنہ میں شہزادہ نے سب کو قید کر کے آپ کے والد سے کہا کہ قلعہ میں جا کر اپنے بیٹے سے کہو کہ دعوائے قدوسیت چھوڑ دو۔ آپ کا والد قلعہ میں آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے کو ہی تھا کہ آپ نے لفظ بلفظ شہزادہ کا حکم سنا دیا۔ پھر فرمایا کہ چلے جاؤ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ (کیونکہ میں باکرہ کے پیٹ سے تمہارے پہلے نکاح سے پیدا ہوا ہوں) تمہارا بیٹا وہی ہے جو دوسرے نکاح سے پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک دن ہیزم فروش کی دکان کے پاس پہنچا تھا تو اسے اپنے گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ اس وقت سے وہ فلاح شہر میں موجود ہے۔ جاؤ اسے اپنا بیٹا بناؤ۔ میں تیرا نظفہ نہیں ہوں۔ میں تو مسخ ہوں جو باکرہ کے پیٹ سے تیرے گھر ظاہر ہوا ہوں اور تم کو مصلحت وقتی ملحوظ رکھ کر باپ بنا لیا تھا۔ باپ نے یہ تلخ جواب پا کر رجوع کیا اور شہزادہ سے ملتی ہوئی ہوا کہ جب میرا وہ بیٹا ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لئے شہزادہ نے اسے رہا کر دیا۔

### قاتل قدوس

جناب قدوس کے قتل پر یہ حدیث صادق آئی کہ: ”ان القائم تقتله سعیدة من اليهود فی قارطہران“ امام الزمان کو سعیدہ یہودن مقام طہران میں قتل کرے گی۔ یعنی سید العلماء اس کو مازندران میں قتل کرے گا۔ کیونکہ وہ زن سرشت تھا نہ کبھی جہاد میں نکلا اور نہ قلعہ کی لڑائی میں شریک ہوا۔ بلکہ اپنے گھر ہی خوف کھاتا رہا اور شاہی پہرا لگوا دیا تھا اور داڑھی بھی چھوٹی تھی۔ اس کے آباؤ اجداد یہودی تھے اور قارطہران سے مراد مازندران ہے۔ قتل قدوس کے بعد باقی قیدی کچھ بیچ ڈالے۔

جیسے سید عبدالعظیم اور ملا صادق علی خراسانی، نصیر قزوینی، محمد حسین قمی اور کچھ بارفروش میں مارڈالے اور کچھ ساری میں اور دو بانی نعمت اللہ و مرزا باقر خراسانی آمل میں قتل کئے گئے۔ مرزا باقر کو جب قتل کرنے لگے تو امیر المعصب یعنی جلاد کی زبان سے حضرت قدوس کے شان میں کچھ گندے لفظ نکلے تو مرزا نے فوراً اس کے ہاتھ سے حربہ لے کر اپنی بیڑیاں توڑ کر اس کو اسی کے حربہ سے مارڈالا اور میدان میں شیر کی طرح گرجنے لگا تو سپاہی لوگوں نے دور سے اس پر تیر برساکر مارڈالا۔ (قادیانی تعلیم میں قدرت ثانیہ، دعوت مہبلہ، دعوت مناظرہ پیشین گوئیاں، بروز اور تناخ میں فرق، دعویٰ مسیحیت، تکذیب و تصدیق، قتل سرفردایاں اور کلام فتنہ اور بداء سب کچھ موجود ہے۔ ناظرین غور سے پڑھیں)

### باب ہفتم

جناب مؤمن ہندی نجباء میں سے تھے۔ آپ باب کی تلاش میں چہر لق پہنچے تھے۔ جب آپ نے جناب باب سوم کو دیکھا تو یوں کہتے ہوئے سجدہ میں گر گئے کہ: ”ہذا ربی“ اور جناب باب نے فرمایا کہ: ”انا القائم الذی ظہر“ میں امام الزمان ہوں۔ جو بروزی طور پر ظاہر ہوا ہوں۔ اس کے بعد جناب کی طبیعت بابتیہ کی طرف منتقل ہو گئی اور سلسلہ میں آگئے۔ جہاں لوگوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ نے چالیس روز تک گلقتند کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ شہزادہ حاکم خوی کو خبر ہوئی تو آپ کو بمعہ دو ہمراہیوں کے (ملاحسین خراسانی اور شیخ صالح عرب) گرفتار کر لیا اور شیخ صالح عرب وہی ہیں جو باب ثالث کی خدمت میں رہ چکے تھے۔ جناب ہندی سے جب پوچھا گیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ: ”انسی انا القائم“ میں ہی امام الزمان ہوں تو شیخ صالح عرب کو تو درے مار مار کر مارڈالا اور باقی دو صاحبوں کو درے لگا کر تشہیر کیا اور اس کے بعد صحراء میں چھوڑ آئے۔ تو جناب ہندی شہر ارزن الرودم میں جا پہنچے اور لوگ وہاں پر بھی جمع ہو گئے اور بانیوں کی جمعیت موجود ہو گئی۔ انہی ایام میں کسی منافق نے اڑادی کہ طہران پر بانی حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اس لئے بادشاہ نے حکم دیا کہ جو مشتبہ شخص حضرت باب کو لعنت بھیجے اسے چھوڑ دو ورنہ دوسرے کو مارڈالو۔ یہ حکم سن کر ملا اسماعیل قمی عالم کر بلا جو حضور کا مخلص عقیدت مند تھا۔ بانیوں میں اثنائے وعظ میں کہنے لگا کہ جب ہم نے حضور کی تصدیق کر لی ہے تو ہم کیسے لعنت کر سکتے ہیں۔ اس لئے میں تو قتل اختیار کروں گا اور جس کی مرضی ہو میرے ساتھ شامل ہو جائے تو چھ بانی آپ کے ہمراہ مرنے کو تیار ہو گئے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ قربان علی درویش، سید محمد حسین تریزی اور سید



علی جو حضور کا خالو تھا۔ ملاقاتی کرمانی، مرزا محمد حسین تبریزی اور ایک مراغہ کا آدمی اور باقی تیس بایوں نے اپنا مذہب پوشیدہ کر لیا تو یہ بیخ گئے اور باقی قتل کئے گئے۔ قربان علی کو قتل کرنے لگے تو رشتہ داروں نے شور مچایا کہ یہ بابی نہیں ہے۔ ویسے ہی شبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مگر اس نے زور سے اعلان کر دیا کہ میں بابی ہوں۔ اب ساتوں کو قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جس جگہ یہ ساتوں دفن کئے گئے اس کو اکب سبعبہ کا مقام کہتے ہیں۔ (مرزائی تعلیم میں اپنی موت کی خبر دعویٰ امامت اپنی تعلیم کو موجب نجات قرار دینا اپنے مذہب کی رازداری اور اپنا تقدس سب کچھ موجود ہے)

### باب ہشتم

سید یحییٰ کو حضور نے تبلیغ کلمۃ الحق کا حکم دیا تھا۔ تو آپ میں جلال اور انقطاع عن الخلق کے آثار نمودار ہو گئے۔ (گویا بابت کا مرتبہ حاصل کر لیا) آپ پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ مجھے کس نے قتل کرنا ہے اور مجھے کس جگہ مرنا ہے۔ شہر یزد میں وارد ہوئے تو آپ نے تصریح کر دی۔ لوگ بیعت میں داخل ہوئے تو حاکم شہر نے گرفتار کرنے کو لشکر بھیجا۔ مگر ایک قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس لئے لڑائی ہوئی۔ جس میں شاہی آدمی بیس تک مر گئے اور بابی صرف سات ہی مرے۔ کچھ دنوں بعد ہمراہیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ شیراز کو بھاگ گئے اور وہاں سے اپنے وطن مالوف تبریز میں پہنچے۔ جہاں آپ کی بیوی اور بال بچے تھے تو حاکم شہر نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ تو آپ نے ایک پرانے قلعہ میں پناہ لی۔ جو شہر سے باہر تھا۔ ایک دفعہ مسجد میں منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کہ ابن رسول ہوں اور میں سچ کہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ ورنہ میرے دادا کی شفاعت شامل نہ ہوگی۔ تو ستر آدمی قلعہ میں جمع ہو گئے۔ جن کو والی شہر نے محاصرہ میں لے لیا اور لڑائی ہوئی اور دشمن کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد شہزادہ فرہاد نے شیراز سے شاہی لشکر روانہ کیا۔ جس نے گھیرا ڈال لیا اور باہمی مقابلے شروع ہو گئے۔ اخیر پر تنگ آ کر حاکم شہر نے کہلا بھیجا کہ آپ قلعہ سے باہر آ جائیے اور امن و چین سے جو چاہیں کریئے تو آپ باہر آ گئے اور سرکاری آدمیوں نے آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کی اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن حکم ہوا کہ آپ ہارک سے باہر نہ جائیں۔ جب ہمراہیوں نے سنا تو کہنے لگے کہ یہ کوئی ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جو خلیفہ مامون نے علی بن موسیٰ الرضیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر لڑائی چھڑ گئی تو سرکاری آدمیوں نے معافی مانگ کر کہا کہ کسی جاہل نے یہ حکم اتنا ہی جاری کر دیا تھا۔ ورنہ ہم تو آپ کو چادر (بارک) سے روکنے والے نہیں ہیں۔ اس لئے آپ اپنے مریدوں

سے کہہ دیں کہ گھر چلے جائیں تو جب وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ فوراً شیخ کو گرفتار کر لیا اور جو کچھ تھا سب لوٹ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر غضب بڑا جا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا قاتل نہیں ہے۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ سید آل رسول کو میں قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے وہ آدمی پیش ہوا کہ جس کے دو بیٹے شیخ کے ہاتھ سے قتل ہو چکے تھے تو اس نے آ کر گریبان پکڑ لیا اور دوسروں نے سنگ باری شروع کر دی۔ یہاں تک کہ آپ مر گئے تو امیر غضب نے آپ کی گردن کاٹ ڈالی اور آپ کے ہمراہیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر لاشوں میں بھوسہ بھر کر سروں کے ہمراہ سب کی تشہیر کر دی۔

### واقعة زنجان

روایت ہے کہ جناب ذکر نے جب بایبیت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے محمد علی سے امامت جمعہ کا حکم فرمایا۔ کیونکہ فروع (فقہ شیعہ) میں لکھا ہوا ہے کہ بلا اجازت باب کے کوئی امام جمعہ نہیں بن سکتا۔ اس لئے گڑ بڑ مچ گئی۔ کیونکہ حاکم شہر نے باب کو ضیافت کے بہانہ سے گھر بلا کر گرفتار کر لیا تو لوگ اس کے گھر پر ٹوٹ پڑے۔ اس لئے مجبوراً اسے چھوڑنا پڑا اور آپ نے ہزار آدمی کی معیت میں ایک قلعہ پر قبضہ جمایا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جس میں دشمن کو بار بار شکست ہوئی۔ یہاں تک کہ نصف زنجان پر بایبیت کا قبضہ ہو گیا۔ اب انہوں نے انیس سگر (دمدے) بنائے اور ہر ایک سگر پر انیس انیس آدمی اسم واحد کے برابر مقرر کئے تو پانچ وقت مناجات کا انتظام یوں ہوا کہ ایک کہتا تھا اللہ البھا اور دوسرے اس کی پیروی کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ترانوںے دفعہ اسم محمد کے برابر یہ اسم دہرایا جاتا تھا۔ مگر جب لڑائی سخت زور پکڑ گئی تو کمزور چلے گئے اور باقی تین سو کے قریب بابی قائم رہے اور دشمن کے لشکر میں سے بھی کچھ بابی بن گئے۔ جیسے سید حسین فیروز کو ہی اور کچھ مستور الایمان ہو گئے۔ جیسے جعفر قلی خان وغیرہ کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے روس کے مقابلہ پر جانا ہے۔ سادات اور فقراء کے مقابلہ پر مجھے حکم نہیں ہوا۔ کر دی فوج نے بھی دشمن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیونکہ ان کے افسر نے کہا کہ امام الزمان کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ ایک علامت سلطان ناصر الدین کے عہد میں ظاہر ہو چکی ہے کہ بازکوراں کا داخلہ دربار میں ہوگا۔ کر دو قوم کے مذہبی اشعار بھی ہیں۔ جن میں تاریخ ظہور امام معین تھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صاحب الزمان خود خدا ہی ہے۔ اس لئے اس فرقہ کو علی الامی کہتے ہیں۔ شیخ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے صاحب الزمان گو اس وقت ہم آپ کی امداد نہیں کر سکتے۔ مگر آپ کی باقی رجعتوں میں ہم ضرور کوشش کر کے آپ کی اعانت کریں گے۔ بہر حال دشمن کی جمعیت تیس ہزار سے اوپر ہو گئی اور برابر نو ماہ تک

یہ فساد قائم رہا۔ باہی صرف تین سو ساٹھ تھے۔ اس لئے باب نے حکومت کو لکھا کہ ہم سلطنت کے طلب گار نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصد تو صرف دین الہی ہے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ علمائے اسلام کو ہم سے مناظرہ کے لئے جمع کریں۔ تاکہ حق ظاہر ہو جائے۔ ورنہ ہمیں آزاد کر دیا جائے تاکہ ہم کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ مگر حکومت نے کہا کہ ہم لڑائی ہی کریں گے۔ تب ممالک غیر سے سفارشیں بھی آئیں۔ مگر مفید نہ پڑیں۔ اس کے بعد روم و روس کے سفیر باب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا ان لوگوں سے ظہورِ حجیت کے متعلق تنازع ہے۔ جس کا فیصلہ تین طریق سے ہو سکتا ہے کہ یا تو دس روز کا مباحلہ کریں یا مناظرہ کریں اور یا جلتی آگ میں داخل ہو کر صحیح و سلامت نکل کر دکھلائیں۔ مگر پھر بھی حکومت نے لڑائی کو جاری رکھا۔ دونوں سفیر واپس چلے گئے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت باب سنگر پر چڑھے تو ایک سپاہی نے دور سے آپ کو تیر کا نشانہ بنایا تو آپ وہیں سرد ہو گئے۔ اب باہی لڑتے تھے۔ مگر ان کا سردار کوئی نہ تھا۔ جس سے دشمن کو کمال حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اپنے مذہب پر کس جانفشانی سے لڑ رہے ہیں تو پھر ان کو امن دے کر حکم دیا کہ قلعہ سے باہر آ جائیں تو نکلتے ہی ان کو مار ڈالا اور حضرت باب کی لاش کو جلادیا۔

باہیوں کے بال بچے غلام بنائے گئے۔ مال لوٹ کھسوٹ سے برباد کئے گئے تو اس وقت حدیث فاطمہؑ کی صداقت ظاہر ہو گئی کہ: ”الداعی الی سبیلی والخازن لعلمی هو الحسن واکمل ذلك بانبه محمد . وهو رحمة للعلمین . علیہ کمال موسیٰ وبہاء عیسیٰ وصبر ایوب فتذل اولیاؤہ فی زمانہ وتتہادی روسہم کروں الدیلم یقتلون ویحرقون ویحرقون مرعو بین وجلین . وتضبع الارض بدمائہم وتظہر الرنة والویل فی نساہم اولئک اولیائی حقاً بہم ادفع کل فتنہ عمیاء وبہم اکشف الزلازل والاصال وارا غلال اولئک علیہم صلوة من ربہم ورحمة واولئک ہم المہتدون“ میرے مسلک کی طرف دعوت دینے والا اور میرے علم کا خزانچی وہ حسن ہے اور اس کی تکمیل اس کے بیٹے محمد سے ہوئی ہے۔ وہ رحمتہ للعالمین ہے۔ اس میں کمال موسوی ہے اور جلال عیسوی اور صبر ایوبی اس کے تابع دار ذلیل ہوں گے۔ ان کے سرکاروں کی طرح پھرائے جائیں گے۔ ان کو خوفزدہ حالت میں ان کو چلایا جائے گا۔ زمین ان کے خون سے رنگین ہوگی۔ گریہ زاری ان کی عورتوں میں ظاہر ہوگی۔ میرے بچے تابع دار وہی ہیں۔ ان کے طفیل ہر ایک سیاہ فتنہ دفع ہوگا اور ان کی ذریعہ سے تکالیف دور ہوں گی۔ ان پر خدا کی رحمت ہوگی اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔

## باب نہم.....صبح ازل

جناب ازل کا باب اراکین سلطنت کا ایک ممتاز فرد تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو والدہ آپ کی چنداں پروا نہیں کرتی تھی۔ آپ کے بھائی حضرت بہاء کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بیان کیا کہ مجھے ایک دفعہ حضور علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا کہ: ”اس بچہ کی خوب پرورش کرو۔ یہ ہماری ملکیت ہے۔ پھر امام قائم کے سپرد کر دینا۔“ تب سے والدہ نے کمال محبت سے پرورش کی تو آپ خوردسالی تک فارسی سے کمال رغبت تھی اور عربی سے کچھ میلان بھی نہ تھا تو آپ کی والدہ وفات پا گئیں اور آپ کی پرورش آپ کے بھائی جناب بہاء اللہ نے کی۔ (قول مؤلف) ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اس سلسلہ میں کیسے میلان ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے بھائی جناب بہاء نے چند مہمانوں کی اپنے گھر پر دعوت کی تو میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں حضرت ذکر (رب اعلیٰ) کا تذکرہ کر رہے تھے اور آہ آہ کی آواز سے مناجاتیں دھراتے تھے تو میرے قلب پر گہرا اثر ہو گیا اور جناب ذکر نے جب اپنے عقیدت مندوں کو خراسان میں جمع ہونے کا حکم دیا تو جناب ازل نے بھی وہاں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ مگر جناب بہاء نے آپ کو روک دیا۔ کیونکہ آپ ابھی پندرہ سالہ لڑکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے رشتہ دار مازندران کو گئے تو آپ کا ارادہ ہوا کہ ان کے ہمراہ چلے جائیں اور وہاں سے خراسان کو سفر کریں۔ مگر جب آپ کے بھائی جناب بہاء حضرت طاہرہ سے مشرف ہوئے اور اراض قدس کی طرف کوچ کیا تو انہوں نے آپ کو پانچ سو تومان تک مالی امداد دی اور آپ کچھ عرصہ سبزوار میں رہے اور وہیں حضرت قدوس کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور آپ کے اصحاب میں شمار ہونے لگے۔ فتنہ بدشت میں بھی آپ شریک کار تھے اور جناب کی محبت میں اپنا مال خرچ کر ڈالا تھا۔ جب بارفروش کو واپس آئے تو راستہ میں آپ کو جناب قدوس کی خدمت میں شرف باریابی حاصل ہوا تو جناب نے آپ کو خلوت میں بٹھا کر خطبہ دیا اور مناجاتیں گا کر سنائیں۔ اس لئے آپ جناب کے دلدادہ ہو گئے۔ اس کے بعد بارفروش کو آئے اور وہاں طاہرہ سے ملاقات ہوئی۔ مگر اس کے بعد جناب قدوس کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ جناب طاہرہ نے آپ کو اپنے زیر تربیت عالم شباب تک پہنچایا۔ (قول مؤلف) جب جناب قدوس قلعہ میں محصور تھے تو امداد کی خاطر دونوں بھائی (جناب ازل و بہاء) قلعہ کو روانہ ہو گئے۔ میں بھی ساتھ ہی تھا۔ ہم تینوں کو دشمنوں نے گرفتار کر کے آمل میں پہنچا دیا۔ راستہ میں حضرت ازل رات کے وقت ایک گاؤں میں روپوش ہو گئے تھے۔ جو آمل سے دو فرسنگ کے فاصلہ پر تھا اور صبح کے وقت آپ کو امل قریہ نے

آمل پہنچا دیا تھا۔ مگر جب راستہ میں جا رہے تھے تو مناجات اور اشعار میں مستغرق تھے تو آمل کے حاکم شرع نے سب کو حد تعزیر لگائی اور جناب ازل کو صحیح سلامت چھوڑ دیا تو سیدھے گھر واپس آ گئے۔ (قول مؤلف) میں آپ کا خاص راز دار تھا۔ اس وقت باب کو حجیت کا دعویٰ نہ تھا۔ مگر حضرت قدوس کی مناجاتوں کا آپ کو شغف کمال تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے بھائی صاحب کو خیال ہوا کہ آپ کو طہران بھیجا جائے۔ کیونکہ گھر پر خطرہ تھا۔ چنانچہ آپ طہران کو روانہ ہو گئے اور جب چالیس روز کا سفر طے کر چکے تو جناب قدوس کی وفات کی خبر آپ کو پہنچ گئی تو آپ کو اس غم سے تین روز بخار ہا۔ اس کے بعد آپ میں رجعت قدوس نمودار ہو گئی اور آپ نے حجیت کا اعلان کر دیا اور جناب ذکر کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو کمال خوشی ہوئی۔ جناب نے آپ کی طرف قلمدان دوات اور کاغذ معہ تحریرات خاصہ کے روانہ کر دیئے اور خاص لباس بھی آپ کو پہنایا گیا۔ اپنی انگٹھی بھی آپ کو دے دی اور وصیت فرمائی کہ آپ بیان ہشت واحد لکھیں۔ یہاں تک کہ: ”من ینظر اللہ“ کا ظہور ہو تو اس وقت اس بیان کو منسوخ کر دو۔ اس کے بعد جناب باب (حضرت ذکر) کو اپنے قتل کے حالات معلوم ہو گئے۔ چنانچہ شاہی حکم سے آپ کو چہر لبق سے تبریز پہنچایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں امام قائم ہوں اور میرے دلائل صداقت میرے خطبے ہیں اور مناجات ہیں تو تین روز آپ کو حوالات میں رکھا۔ اس وقت دو بھائی حسن و حسین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔

### قتل جناب ذکر

جناب حسین آپ کی خاص خدمت وحی کی کتاب پر مقرر تھے اور آپ کے کاتب السر کہلاتے تھے۔ جناب باب نے اپنی کتاب بیان میں لکھا ہے کہ حسین سے اس کتاب کے معارف حاصل کرو۔ محمد علی اور سید احمد بھی آپ کے خاص مرید تھے جو تبریز میں آپ کی تبلیغ کرتے تھے اور آپ نے ان کو بھی اتمام حجت کے لئے خطبے لکھ کر دیئے تھے۔ مگر جب حاکم تبریز کو خبر ملی تو اس نے مبلغین بابیہ کی توہین کی اور جناب باب کے آنے تک ان کو بھی حوالات میں رکھا تھا۔ جناب باب نے اپنی شہادت سے پہلے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا کہ تم خود مجھے مار ڈالو تا کہ دشمن کے ہاتھ سے نہ مروں تو محمد علی نے اس پر آماجگی ظاہر کی۔ تاکہ ”الامر فسوق الادب“ پر عملدرآمد ہو جائے۔ مگر باقی اصحاب نے روک دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کا حکم ماننے کو تھا اور چاہتا تھا کہ آپ کو شہید کر کے خود کشی کر لوں تو جناب باب نے مسکرا کر اظہار خوشنودی فرمایا۔ تم! آپ نے اپنے اصحاب کو عموماً اور محمد حسین کو خصوصاً حکم دیا کہ تقیہ کرو اور مجھ پر لعنت بھیجو۔ مگر محمد علی نے کہا کہ

میں تو آپ کے ہمراہ قتل ہو جاؤں گا تو آپ نے اس کو منظوری دے دی۔ اس کے بعد باب کی تشہیر کر کے قتل میں لائے تو محمد علی کو باب کے سامنے یوں قتل کیا کہ پہلے اس سے کہا کہ توبہ کرو اور رشتہ داروں نے کہا کہ وہ دیوانہ ہے۔ اس لئے اسے چھوڑ دو۔ مگر اس نے کہا کہ میں ضرور باب کے ہمراہ قتل ہوں گا۔ تو باب کی رضا مندی بھی ہو گئی۔ پھر باب کو زنجیروں میں جکڑ کر تیر برس سائے۔ مگر وہ سارے زنجیروں پر پڑے اور زنجیر ٹوٹ گئے تو حضرت باب صحیح سلامت پاس ہی ایک حجرہ تھا۔ اس میں جا گھسے اور جب غبار تھم گیا۔ دیکھا تو باب وہاں نہ تھے۔ کہنے لگے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں۔ مگر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ حجرہ میں ہی موجود ہیں۔ تب آپ نے لوگوں سے منت سماجت کی اور وعظ و نصیحت شروع کیا۔ مگر کسی نے نہ سنی اور دوسری دفعہ زنجیروں میں باندھ کر تیر برس سائے تو آپ کو عدد علی کے برابر تیر لگے۔ جن سے آپ کی وفات ہوئی۔ بقول شخصے دوسری دفعہ تیر چلانے والے آریبیہ کے رہنے والے عیسائی سپاہی تھے۔ بہر حال آپ کی لاش دو دن تک وہیں پڑی رہی اور تیسرے دن دفن کی گئی۔ مگر آپ کے مریدوں نے محمد علی اور باب دونوں کی لاشیں نکال کر ریشم میں لپیٹ کر وہاں دفن کر دیں۔ جہاں وحید ثانی نے حکم دیا تھا۔ جہاں آج کل انہیں گنبد موجود ہیں اور لوگ ان کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔

### باب دہم..... ذبح

اس کے بعد جناب ازل نے اعلان کیا کہ میرا بروز ایک جوان میں ہوگا۔ ”ہو شباب ابن ثمانی عشرة سنة شکله ملیح شغله قنادی اسمہ ذبیح“ جو خوش شکل قد فروش ۱۸ سالہ ہوگا۔ کو اکب سبغہ کا غروب ۶۷ میں ہوا تھا اور ذبح کا ظہور سنہ سات میں ہوا تھا۔ پس صبح ازل نے اس میں تجلی ظاہر کی اور جوان نے کہا کہ: ”انی انا اللہ . لا اله الا انا“ مگر جناب ازل کو کچھ معلوم نہ تھا۔ بلکہ آپ کو آپ کے احباب نے اس بروز کی خبر دی تھی اور جب آپ سے سوال ہوا تو فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو میں تو اپنے سوا تمہارا رب کسی کو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ اگر مدعی جامع شرائط حجیت ہو تو انکار نہ کرو۔ جناب ذکر کا یہ دعویٰ تھا کہ میں چھ گھنٹہ میں ایک ہزار شعر نظم کر سکتا ہوں اور میں تین گھنٹہ میں ایک ہزار شعر کہہ سکتا ہوں اور جو آج مدعی بابیت ہے اس کا فرض ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ میں ایک ہزار شعر نظم کر سکے۔ اب آپ کے پاس ذبح کے متعلق شکایات کا تانا بندا گیا۔ یہاں تک کہ جناب ازل کو ذبح کی طرف لکھنا پڑا کہ تین میم اختیار کرو اور اشارہ یہ تھا۔ گلو و منویس و منشین با اصحاب تو ذبح نے اپنا دعویٰ ظاہر کرنا چھوڑ دیا۔

## باب یازدہم، بصیر

شجرہ ازلیہ کی دوسری شاخ جناب بصیر ہیں۔ جو ایک ہندوستانی سید شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا مورث اعلیٰ سید جلال تھا۔ ابھی سات سال کے تھے کہ چچک سے آپ کی بینائی جاتی رہی۔ جب بیس سال کے ہوئے توج کو تشریف لے گئے۔ پھر کر بلا گئے اور امام قائم کی تلاش میں ایران پہنچے۔ کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں سے ظہور امام کا یہی وقت معلوم کیا ہوا تھا۔ مگر آپ کو امام کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ اس لئے واپس بمبئی آ گئے اور وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ ایران میں ایک آدمی نے امامت کا دعویٰ کر دیا ہے تو فوراً آپ نے اسی طرف سفر کیا۔ مگر امام صاحب اس وقت حج کو جا چکے تھے۔ اس لئے آپ بھی پیچھے ہوئے اور مسجد حرام میں امام صاحب سے ملاقات حاصل کی اور مقام قائم آپ پر منکشف ہوا تو آپ نے جناب امام کی صداقت پر ایمان قبول کر لیا اور واپس ایران آ کر شہر بصرہ تبلیغ شروع کر دی اور جب مازندران کا واقعہ پیش آیا تو آپ اس وقت نور کے مضافات میں مصروف تبلیغ تھے۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس لئے اسم اعظم اعلیٰ (حضرت قدوس) کی خدمت میں کچھ عرصہ تک حاضر رہے اور آپ میں جذب ہو گئے۔ مگر جب اہل قلعہ کی جمعیت پر اگندہ ہو گئی تو آپ بھی مرزا مصطفیٰ کردی کے ہمراہ گیلان کو چلے گئے۔ راستہ میں موضع انزل میں فرکوش ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے بری طرح سے آپ کو نکال دیا اور کھانا بھی نہ دیا۔ یہ جب دونوں بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے تو بستی میں آگ لگ گئی اور لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ پھر جناب قزوین پہنچ کر ارض قدس میں دونوں بہائیوں (الوحیدین الازل والہباء) کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ حضرت بہاء نے پہلے تو استغناء دکھایا مگر جب آپ کا خلوص نیت دیکھا تو آپ نے تربیت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ کی بیکل میں جناب کی ربوبیت ظاہر ہونے لگی۔ انہی ایام میں حضرت ذبح سے بھی وہیں آپ کا تعارف ہوا اور نہ اس سے پہلے گفت و شنید بھی نہ تھی اور جب باہمی تبادلہ خیالات ہوا تو آپ ذبح میں جذب ہو گئے۔ اب جناب بصیر کو مقام فنا حاصل ہو گیا اور دعویٰ کیا کہ میں بروز حسن ہوں اور مجھ میں رجعت حسینہ ہے اور اسی مضمون پر آپ نے وعظ و نصائح کہنے شروع کر دیئے اور خطبات توحید انشاء فرمائے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے دونوں بہائیوں (ازل و بہاء) کی خدمت میں ایک مخلصانہ عریضہ ارسال کیا۔ جس کے جواب میں حضرت ازل نے آپ کو ”الابصر الابصر“ کے عنوان سے ممتاز فرمایا اور ارشاد کیا کہ: ”انسی قد اصطفیتک بین الناس“ تو ارض قدس میں آپ سے خوارق اور معجزات ظاہر ہونے لگے

اور کثیر التعداد لوگوں نے اطاعت قبول کر لی اور اسرار پنہانی کی خبر بھی دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک کتاب دیکھا کہ وہ زور سے لمبی آواز کے ساتھ چونک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلاں بدکار آدمی کی رجعت ہے اور متوفی مذکور کے تمام علامات بھی بتا دیئے۔ اس کے بعد ارض نور سے نقطۃ الکاف (شہر کا شان) میں آئے۔ جہاں نقطۃ الکاف (حاجی کا شانی مؤلف کتاب نقطۃ الکاف) کے گھر قیام کیا اور نقطہ اور بصیر میں کشمکش اور جذب و انجذاب شروع ہو گیا۔ مگر آخر نقطہ بصیر میں جذب ہو گیا۔ عقیدت مند سب مرتد ہو گئے۔ مگر نقطہ اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس کے بعد آپ کا جناب عظیم سے مناظرہ چھڑ گیا۔ جس میں جناب عظیم نے اپنا ثبوت یوں پیش کیا کہ: ”انساب الحضر تین وجلیب الشمس الازلیة والسلطان المنصور بنصور عدیدة“ میں جناب ازل اور سلطان منصور کی متعدد اور صاف تحریرات سے بیعت لینے پر مامور ہوا ہوں۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیشک آپ سچ کہتے ہیں۔ مگر جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے۔ عند النقطہ صرف دو امر ہیں۔

اول ..... مقام عبودیت اور حضور کا تقرب۔

دوم ..... شمس تربیت کے ظہور کا دعویٰ۔

کہ آپ کی طرف سے ہوا ہے اور مجھے بھی یہ دونوں فخر حاصل ہیں۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میری عبودیت جناب کی عبودیت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس لئے آثار ربوبیت میری ذات میں آپ کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ اب جناب عظیم خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے یا تو اس لئے کہ آیت فتنہ ظاہر ہو اور یا اس لئے کہ یہ مناظرہ درجہ کمال تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کے بعد مریدوں نے حضور (ازل) کے پاس شکایات روانہ کیں کہ یہ شخص فلاں فلاں کا مدعی ہے تو آپ نے حضرت بصیر کو خط لکھا کہ: ”ایا بصیر هل فیک بصیرة القلب موجودة ام تقول بمحض التقليد“ ارے کچھ نور باطن بھی رکھتے ہو یا ایسے ہی اندھی تقلید ہے؟ اب یہ خط بابیوں کے لئے دوسرا فتنہ بن گیا۔ جو چھ ماہ تک قائم رہا اس کے بعد دونوں میں صلح و صفائی ہوئی تو بابیوں کو چین آیا اور ان دونوں ظہوروں سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جناب ذکر نے جناب عظیم کو دو ظہوروں کی بشارت دی تھی۔ اول ظہور حسنی (یا بقول شخصے ظہور یحییٰ) دوم ظہور حسینی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں ظہور اپنی اپنی ماں کے پیٹ میں چھ ماہ سے زائد نہ ٹھہریں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی آپ کے ظہور میں جیسے ظہور فی ارض الطاء، ظہور ارض الغاء، ظہور فی بغداد۔ جس کو سید علو بھی کہتے ہیں اور ظہور اقا محمد کراوی وغیرہ یہ لوگ سب کے سب صاحب آیات ہیں اور ان کے پاس اپنی اپنی



صداقت کے پختہ بینات اور دلائل ہیں۔ ”انتهی اقتباس کتاب نقطۃ الکاف فی تاریخ البایۃ الذی عنوانہ المطبوع ہکذا“ نقطۃ الکاف در تاریخ ظہور باب و وقائع ہشت سال اول از تاریخ بابیہ تالیف۔ حاجی مرزا کاشانی مقتول در ۱۲۶۸ء بسعی اہتمام ایڈورڈ براؤن پروفیسر زبان۔

(شیریں بیاں) فارسی در دار الفنون کیمرج از بلاد انگلستان و طبع گردید، در مطبع بریل در لیدن از بلاد ہلانہ ۱۹۱۰ء

## ۵..... انتخاب مقالہ شخصے سیاح کہ در تفصیل قضیۃ باب نوشتہ است

جناب باب (غ، ر، جن سہ) میں پیدا ہوئے۔ آپ سید تاجر سید محمد رضا شیرازی کے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد ماجد انتقال کر گئے تھے تو اپنے ماموں مرزا سید علی تاجر کے پاس شیراز میں تربیت پائی۔ جوان ہو کر اپنے ماموں کے ساتھ ہی تجارت کرتے رہے۔ جب پچیس سال کے ہوئے تو آپ نے باہیت کا دعویٰ کیا کہ میں ایک مرد غائب کی دعوت دیتا ہوں جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ پھر سورہ یوسف کی تفسیر لکھی۔ جس میں مرد غائب سے استمداد کی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ: ”یا بقیۃ اللہ قد فدیت بکلی لک و رضیت اللسب فی سبیلک و ما تمنیت الا القتل فی مجتک . و کفی باللہ العلی معتصما قدیما“ اس کے علاوہ بہت سے وعظ، مناجات اور تفسیر آیات قرآنیہ بھی آپ نے تصنیف فرمائیں۔ جن کا نام صحائف الہامیہ اور کلام فطری رکھا۔ مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ آپ نے وحی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مگر چونکہ آپ نے مدارس میں تعلیم نہیں پائی۔ اس لئے آپ کے اس بحر علمی کو وحی تصور کر لیا گیا۔ آپ کے معتقدین (مرزا احمد ارغندی، ملا محمد حسین بشری، ملا محمد صادق مقدس، شیخ ابوتراب اشتہاروی، ملا یوسف اردبیلی، ملا جلیل اوروی، ملا مہدی کندی، شیخ سعید ہندی، ملا علی بسطامی وغیرہ) نے آپ کو رکن ”رابع“ اور ”مرکز سنوح حقائق“ کا خطاب دیا ہوا تھا اور اطراف ایران میں آپ کی دعوت تبلیغ دینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب حج کر کے جناب بوشہر پہنچے تو شیراز میں شور برپا ہو گیا اور جمہور العلماء نے آپ کو واجب القتل قرار دے دیا۔ آپ کے تین مبلغ تھے۔ (محمد صادق، مرزا محمد علی بارفروشی اور ملا علی اکبر اردستانی) ان کو حاکم فارس حسین خان اجودان ہاشمی نے علمائے اسلام کے حکم سے تظہیر لگائی اور تشہیر کر کے کمال توہین کی اور جناب باب کو بلوا کر مجبور کیا کہ آپ اپنا دعویٰ چھوڑ دیں۔ مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اس لئے اس نے آپ کو پھنسر سید کر کے پگڑی

اتار ڈالی اور حکم دیا کہ اپنے ماموں کے گھر نظر بند رہیں۔ دوسری دفعہ پھر بلوا کر ترک دعویٰ کے لئے حکم دیا۔ مگر آپ نے اس وقت ایسی تقریر کی کہ سامعین نے یقین کر لیا کہ واقعی امام غائب سے آپ کو تعلیم ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں امام منتظر کے لئے باب نہیں ہوں۔ بلکہ ایک اور شخص (بہاء اللہ) کے لئے تبلیغی وسیلہ ہوں۔ محمد علی شاہ قاجار نے اپنے معتمد الدولہ سید یحییٰ وارانہ کو حالات دریافت کرنے کو بھیجا تو پہلی دو صحبتوں میں مصروف تبادلہ خیالات ہی ہوتا رہا۔ مگر تیسری صحبت میں معتمد نے سورہ کوثر کی تفسیر کی درخواست کی جو آپ نے فوراً لکھ دی۔ جس سے جناب معتمد حیران رہ گئے اور شہر یزد جرد میں جا کر سب سے پہلے اپنے باب سید جعفر شہیر کشفی کو تبلیغ کی۔ پھر مرزا لطف علی کو تمام واقعات لکھ کر کہا کہ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیں اور خود کمال اشتیاق سے اطراف ایران میں دعوت دینے لگے کہ لوگوں نے آپ کو مجنون سمجھا اور آپ کے کلام کو سحر کہنے لگے۔

### واقعہ زنجان

اس کے بعد زنجان میں ملا محمد علی بڑے مشہور عالم تھے۔ انہوں نے ایک معتبر آدمی کے ذریعہ حالات دریافت کئے تو جناب باب نے آپ کو اپنی تصانیف بھیج دیں۔ جن کو پڑھ کر ملا صاحب نے فرمایا کہ: ”طلب العلم بعد الوصول الی المعلوم مذموم“ جب مطلب حل ہو گیا تو اب پڑھائی کیسی اور تحریری بیعت کر لی۔ جس کے معاوضہ میں حضرت باب نے کہا بھیجا کہ میری طرف سے زنجان میں ضرور جمعہ قائم کرو۔ مگر زنجان میں سخت مخالفت ہوئی اور سلطان نے ملا صاحب کو اپنے دربار میں بلوا کر علمائے اسلام سے مناظرہ کرایا۔ جس میں ملا صاحب غالب رہے اور سلطان نے پچاس تومان دے کر واپس زنجان بھیج دیا۔ اب سلطان کو کہا گیا کہ باب کو قتل کرنا ضروری ہے۔ ورنہ سخت فساد ہوگا۔

### پہلا مقابلہ شیراز میں

اس لئے باب نے اپنے معتمد جمع کر لئے اور داروغہ کو حکم ہوا کہ رات کو باب پر چھاپا مار کر تمام کو قید کرے۔ مگر اسے اس رات صرف تین آدمی معلوم ہوئے۔ (باب کا ماموں اور سید کاظم زنجانی) اس لئے وہ ناکام رہا۔ اتفاقاً اسی رات وہاں وباء (طاعون) پھیل گیا۔ اس لئے حاکم شیراز کو حکم دینا پڑا کہ باب شہر بدر ہو جائیں اور خود بھی چلا گیا تو آپ سید کاظم کے ہمراہ اصفہان جا کر امام جمعہ کے گھر چالیس روز ٹھہرے۔ ایک دفعہ امام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ سورہ عصر کی تفسیر لکھ دیں تو آپ نے فوراً لکھ دی۔ پھر حاکم اصفہان نے نبوت خاصہ کے متعلق پوچھا تو

آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس مناظرہ منعقد ہوئی۔ جس میں آقا محمد مہدی اور حسن نوری نے آپ سے صدر کتاب کے مسائل دریافت کئے تو باب جواب نہ دے سکے اور باقی اہل علم نے کہہ دیا کہ مناظرہ کرنے میں اسلام کی توہین ہے۔ کیونکہ باب صراحۃ اپنے کفر کا اقبال کر رہا ہے۔ مگر حاکم کا یہ منشاء ضرور تھا کہ مباحثہ ہو۔ اس لئے اس نے باب کو طہران بھیج دیا اور سلطان کو تمام واقعات لکھ کر مناظرہ کا مشورہ دیا۔ لیکن جب باب مورچہ کے مقام پر پہنچے تو مخفی طور پر حاکم اصفہان نے آپ کو واپس بلا لیا تو آپ وہاں چار ماہ تک ٹھہرے رہے اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ باب کہاں ہے۔ مگر گرگین برادرزادہ حاکم کو خبر لگ گئی تو اس نے فوراً حاجی مرزا قاسمی وزیراعظم کو خبر دے دی اور اس نے اپنے نوکر بھیج کر باب کو روپوشی کی حالت میں طہران بلا لیا۔ مگر جب آپ کرد کے مقام پر پہنچے تو وزیر نے کلین کے مقام پر ٹھہرنے کا حکم بھیج دیا اور وہاں سے باب نے سلطان کو چٹھی لکھی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر وزیر نے جواب میں لکھوا دیا کہ سلطان اس وقت طہران سے باہر جا رہے ہیں اور عام شورش کا بھی خدشہ ہے۔ اس لئے آپ کو ما کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ جب تک سلطان اپنے سفر سے واپس نہ آئیں آپ وہیں سلطنت کے زیر امن قیام کریں۔ پھر آپ کو بلا لیا جائے گا۔

تبریز اور ما کو میں قیام

جس کے جواب میں باب نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے مناظرہ کے لئے اصفہان سے مجھے بلایا۔ مگر اب انکار کر دیا۔ لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اس لئے محمد بیگ چیرچی کے ماتحت شاہی رسالہ کے ہمراہ آپ کو تبریز پہنچایا گیا۔ جہاں آپ چالیس روز ٹھہرے اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ اس سے ملاقات بھی کر سکے۔ اس کے بعد آپ کو ما کو کے قلعہ پہاڑی میں پہنچایا گیا۔ جہاں آپ نو ماہ رہے اور علی خان حاکم ما کو نے اثنائے قیام میں ملاقات کی قدرے اجازت دے رکھی تھی اور خود بھی عزت کرتا تھا۔ مگر جب اہل اذربجان کو فساد کا اندیشہ ہوا تو حکومت سے درخواست کی گئی اور آپ کو قلعہ چہریق میں نظر بند کیا گیا۔ جہاں علی خاں کرد حاکم تھا اور اس نقل و حرکت سے بانی مذہب کا چہ چا جا بجا ہونے لگا اور باب صبح شام ”الغائب المنتظر“ کو پکار کر کہا کرتے تھے کہ: ”یا غائب انی وان کان المصائب والالام قد استوات علی نفسی ولكن قلبی فیہ جنۃ بذکرک“ اگرچہ مجھ پر مصائب آتے ہیں۔ مگر تیری یاد سے دل میں جنت کا لطف ہے۔ تین ماہ کے بعد علمائے تبریز نے حکومت سے درخواست کی کہ بایوں کو تعزیر لگائی جائے۔ وزیراعظم بھی اس پر طوعاً و کرہاً رضی ہو گیا۔ اس لئے باب چہریق سے تبریز کو روانہ

ہوئے۔ راستہ میں رومیہ کے حاکم بہت عزت سے پیش آیا اور جب تمبریز پہنچے تو چند یوم کے بعد دارالعدالت میں ان کو طلب کیا گیا۔ جب کہ وہاں علمائے اسلام پہلے ہی موجود تھے۔ (مثلاً نظام العلماء ملا محمد ماما قانی، مرزا احمد امام الجمہ اور مرزا علی اصغر شیخ الاسلام وغیرہ) وہاں آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ نشان صداقت طلب کیا گیا تو آپ نے فر فر عربی کلام میں بولنا شروع کر دیا۔ اعتراض ہوا کہ آپ غلط عربی بولتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ تمہارے اصول کے مطابق تو قرآن شریف بھی غلط ہے تو مجلس ختم ہو گئی اور باب واپس اپنے مقام پر آ گئے۔ اس وقت آ ذریبجان کا حاکم ولی عہد تھا۔ اس نے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ مگر اہل علم نے یہ پاس کر لیا کہ ان کو ضرور سرزنش ہونی چاہئے۔ مگر فر اشوں نے چوبکاری سے انکار کر دیا۔ لیکن سید علی اصغر نے آپ کو اپنے ہاتھ سے درے لگا کر واپس چہر ترق بھیج دیا اور پہلے سے زیادہ تنگی شروع کر دی اور گردنواح کے تمام علمائے اسلام کی یہ رائے قرار پائی کہ بایوں کا خاتمہ کر دینا از بس ضروری ہے۔ لیکن سلطان نے کہا کہ میں سادات کو قتل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ اب بایوں کو جرأت پیدا ہو گئی اور مباہلہ یا مناظرہ کے لئے کھڑے ہو گئے اور جا بجا شور برپا ہو گیا۔ اسی اثناء میں سلطان کو نفرس (پاؤں کے انگوٹھے کی درد) نے مضمحل کر دیا اور وزیر اعظم مختار کل ہو گیا۔ مگر کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکا اور بدحواسی میں یوں کہنے لگا کہ: ”ان موسسی یقاتل موسیٰ“ اور کبھی کہتا کہ: ”ان ہسی الافتنتک“ اس لئے کبھی علمائے اسلام کے مخالف ہو جاتا اور کبھی موافق۔

### دلائل مہدویت

مگر لوگ بڑے جوش میں آ گئے اور اہل علم نے خود حکم دے دیا کہ لوگ بایوں کا خود انتظام کر لیں۔ اب جا بجا منبروں پر شور مچ گیا کہ امام آخر الزمان کی غیبت (شیعہ مذہب میں) ضروری ہے۔ جابلقا اور جابلصاء کیا ہوئے؟ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کہاں گئیں؟ حسین بن روح کے اقوال کیا ہوئے؟ مہرباری کی روایات کہاں گئیں۔ نقباء و نجباء کا ہلاک میں پرواز کرنا کیسے ہوا؟ مغرب مشرق کی فتوحات کہاں ہیں؟ ظہور سفیانی اور خردجال کہاں ہیں؟ اور حدیث میں جو باقی علامات مذکور ہیں وہ کیسے پوری ہوئیں۔ روایت جعفریہ تو خواب و خیالات ہیں۔ اس لئے باب قطعاً کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی صحیح روایات کو چھوڑیں تو مذہب کا نام و نشان نہیں رہتا۔ علاوہ بریں ہم اہل سنت والجماعت نہیں ہیں کہ عوام الناس کی طرح یہ بھی یقین کر لیں کہ امام آخر الزمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر ظاہر ہوگا۔ آپ کی دو بڑی علامتیں ہیں کہ

آپ شریف النسب سادات ہیں اور تائیدات الہی آپ کے ہمراہ ہمیشہ سے ہیں۔ ہزار سال سے جو مسلسل عقائد چلے آئے ہیں ہم ان کو کیا کریں؟ فرقہ ناجیہ اثنا عشریہ کے متعلق کیا رائے قائم کریں۔ علمائے سابقین کے متعلق کیا کہیں؟ کیا وہ سب کے سب گمراہی پر ہی قائم رہے؟ ”واشریعتاہ و امذہبہا“ بایوں نے ان دلائل کے جواب یوں دیئے کہ برہان کوروایت پر فوقیت ہے۔ کیونکہ روایت برہان کی فرع ہے۔ اس لئے جو فرع اپنے اصل سے مطابقت نہ رکھے مردود ہوگی اور یوں بھی کہتے کہ تاویل اصل تفسیر اور جو ہر قرآن ہے اور فتوحات سے مراد فتوحات قلبیہ ہیں اور حکومت سے مراد دلوں پر حکومت ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام امام حق ہو کر مغلوب رہے۔ باوجود یہ کہ: ”ان جندنا لہم الغالبون“ آپ کے حق میں وارد تھا۔ یوں کبھی کہتے تھے کہ:

.....۱ باب کی صداقت کا نشان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا۔

.....۲ اگر کچھ روایات مخالف ہیں تو مذہب میں آپ کے موافق بھی تو بہت سی روایات ہیں۔

.....۳ اقوال سلف بھی آپ کی تائید کرتے ہیں۔

.....۴ اگر آپ میں صداقت نہ ہوتی تو اکابر علماء اور بڑے بڑے متقی صوفیائے کرام آپ کی بیعت میں داخل نہ ہوتے۔

.....۵ اپنے دعویٰ پر باوجود کثرت مصائب کے قائم رہنا بھی صداقت کا کھلا نشان ہے۔

.....۶ اس سلسلہ میں بڑے بڑے کامل انسان پیدا ہوئے۔ مثلاً مرزا محمد علی (بارفوشی) مارزندرانی تلمیذ، حاجی کاظم رشتی آپ حضرت باب کے ہمراہ حج کو گئے تھے۔

جب واپس ہوئے تو آپ سے خوارق اور معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ اس لئے بایوں کو یقین ہو گیا کہ حاجی صاحب مقررین بارگاہ الہی میں سے ہیں۔ اس لئے تمام بابی آپ کے مرید بن گئے اور حضرت محمد حسین بشروی جو بایوں کے سردار کل تھے وہ بھی آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے۔ (آپ کا مرتبہ قدوسیت تک پہنچ گیا) آپ نے دعوت باب میں کمال تک تبلیغ کی اور باب آپ پر خوش ہو کر فرمانے لگے کہ اس شخص کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ آخر (بڑی لڑائیوں کے بعد) سید العلماء نے ۶۵ء میں قتل کر دیا۔ قرۃ العین قزوینی بھی ایک بے نظیر عورت تھی اور تبلیغ میں مردوں سے سبقت لے گئی تھی۔ آخر جب کلانتر کے زیر حراست طہران میں نظر بند ہوئی تو اس وقت اس کے گھر شادی کی مجلس منعقد

ہو رہی تھی۔ قرۃ العین نے موقعہ پا کر تبلیغ اس زور سے کی کہ سامعین دنگ رہ گئے اور ان کو تمام راگ و رنگ بھول گیا۔ مگر علمائے اسلام کے فتوے سے مار ڈالی گئی۔

انقلاب عظیم

ان دنوں ہی سلطان محمد شاہ مرگیا اور ولی عہد تخت نشین نے اپنا وزیر مرزا محمد تقی خان کو منتخب کیا۔ جو نہایت ہی سخت گیر تھا۔ چونکہ شہزادہ ابھی نو عمر تھا۔ اس لئے وزیر نے خود مختار ہو کر بایوں کو پسینا شروع کر دیا۔ مگر جس قدر تشدد سے کام لیا۔ اسی قدر بانی مذہب دنیا میں ترقی کرتا گیا۔ روایت ہے کہ کاشان میں ایک دفعہ بایوں کی تشہیر کی جا رہی تھی تو ایک مجوسی نے (جو ایک سرانے میں رہتا تھا) اصل واقعہ دریافت کر کے کہا کہ اگر بانی مذہب سچا نہ ہوتا تو اتنے مصائب کے مقابلہ میں کیسے قائم رہ جاتا۔ اسی صداقت کو دیکھ کر بایوں میں شامل ہو گیا۔ بہر حال بانی مقابلہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ کیونکہ باب نے ان کو مقابلہ کرنے سے بلکہ اپنے پاس آنے سے بھی روک دیا ہوا تھا۔ اس لئے وہ بے خانماں ہو گئے اور مسکین ہو کر جا بجا مانگنے لگے۔ مگر جس جگہ پر ان کی جمعیت کافی تھی۔ وہاں پر انہوں نے مدافعت بھی شروع کر دی۔

### قتل بشری

مازندران میں جب ملا محمد حسین بشری کے متعلق علمائے اسلام نے فتویٰ دے دیا کہ وہ اور اس کے مرید واجب القتل ہیں اور ان کا مال لوٹ لینا واجب ہے۔ بار فروش میں سید العلماء نے اس فتوے کی رو سے سات بانی مار بھی ڈالے تھے۔ مگر جب بشری نے دیکھا کہ لوگوں نے آدیا ہے تو خود تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور سب کو بھگا دیا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ بانی یہاں سے نکل جائیں اور خسرو کے ماتحت کہیں چلے جائیں۔ مگر خسرو کے آدمی گھات لگائے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو مار ڈالنا شروع کر دیا اور بشری نے اذان دیکر سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا تو مرزا لطف علی مستونی نے خسرو کی جگر پر کاری زخم لگایا۔ جس سے وہ وہیں مر گیا۔ اس کے بعد بشری ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوا۔ جو مقبرہ شیخ طبری کے پاس تھا۔ محمد علی کو مازندران کے آدمی بھی آئے۔ جن کی مجموعی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ جن میں سے صرف ایک سو دس آدمی سپاہی تھے اور باقی طالب علم یا مولوی تھے۔ مگر سلطانی لشکر نے چار دفعہ حملہ کیا اور چاروں دفعہ ہی ہزیمت اٹھائی۔ چوتھی شکست میں عباس قلی خان جرنیل تھا اور نواب مہدی قلی خان امیر لشکر تھا۔ چوتھی لڑائی رات کو ہوئی تھی۔ بایوں نے شاہی خیمے جلا دیئے تھے۔ آگ کی روشنی میں بشری اپنی جماعت میں جا رہا تھا کہ عباس قلی خان نے (جو اس وقت کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا) دیکھ

گر گولی کا نشانہ بنایا تو بشروی وہیں مر گیا اور فوراً قلعہ میں پہنچایا گیا۔ مگر پھر بھی سلطانی لشکر نے ان پر فتح نہ پائی۔ حالانکہ بایوں کی رسد ختم ہو چکی تھی۔ گھوڑوں کی ہڈیاں تک کھا گئے تھے اور گرم پانی پر گزارہ کرنے لگے تھے تو لشکر نے ان کو پناہ دی اور چھاؤنی میں بلا کر دعوت دی۔ جب کھانے بیٹھے تو سب کو مار ڈالا اور اس سے پیشتر جو بہادری بھی بایوں نے دکھائی تھی وہ مغلوبانہ بہادری تھی۔ کیونکہ مثل مشہور ہے کہ: ”کسنور مغلوب یصول علی الکلب“ کھسانی بلی کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔

### قتل باب و واقعہ زنجان

ملا محمد علی مجتہد زنجان کا رئیس اعظم تھا اور سید یحییٰ دارابی مارزندران میں زعم القوم (لیڈر) کہلاتا تھا۔ ان دونوں نے بھی مخالفین کے چکے چھڑا دیئے تھے۔ مگر اخیر میں ہر طرف سے ان پر گھیرا ڈال دیا گیا تھا اور دھوکہ سے سب بایوں کو قلعہ سے نکال کر قتل کر دیا تھا۔ (جیسا کہ نقطہ الکاف میں مذکور ہے) جنگ زنجان کے دنوں میں امیر زنجان کی یہ رائے قرار پائی تھی کہ خود باب کو قتل کیا جاتا کہ سرے سے فساد کا مادہ ہی اٹھ جائے۔ اس لئے اس نے حاکم آذربایجان (شہزادہ حمزہ مرزا) کو اس حکم کے نافذ کرنے کا حکم دیا۔ مگر شہزادہ خود اس فعل کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس لئے اپنے بھائی حسن کو لکھا کہ میں تو روس اور افغانوں کے مقابلہ میں جانے والا ہوں۔ اس لئے مجھے فرصت نہیں۔ آپ اس کام کو سرانجام دیں۔ چنانچہ اس نے امیر سے خط و کتابت شروع کر دی۔ جس میں امیر نے صاف لکھ دیا کہ علمائے تبریز نے قتل باب کا صریح فتویٰ دے دیا ہے۔ اس لئے تم آرمینہ فوج کے ہاتھ سے تمام لوگوں کے سامنے باب کو لوہے کی میخوں سے معلق کر کے گولی سے اڑا دو اور باب کو جب خبر ہوئی تو اپنے تمام اوامر و نواہی، مکتوبات، انگوشی اور قلمدان وغیرہ سب کچھ ایک تھیلے میں بند کر کے قتل لگا دیا اور اس کی چابی اپنی جیب میں رکھ لی اور یہ تھیلہ امانت کے طور پر عبدالکریم قزوینی کی طرف ایک اپنے خاص مرید ملا باقر کی وساطت سے روانہ کر دیا تو اس نے تم شہر میں گواہوں کے سامنے وہ امانت عبدالکریم کے سپرد کر دی۔ حاضرین مجلس نے بہت اصرار کیا کہ اس تھیلہ کو کھول دیا جائے۔ مگر عبدالکریم نے اس میں سے صرف ایک تحریر (لوح آبی) شکستہ خط میں دکھائی جو بشکل انسان تھی۔ جب اسے پڑھا گیا تو اس میں لفظ بہاء سے تین سو ساٹھ لفظ پیدا کر کے ایک نقشہ دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد عبدالکریم نے وہ امانت جہاں پہنچانی تھی پہنچا دی۔ اب حسن خان نے باب سے سر باز خانہ تبریز میں بلوا کر عمامہ اور شمال جو سادات کی علامت ہیں لے کر اپنے قبضہ میں کر لیں اور فراشوں کا حکم نامہ سنا دیا کہ باب کو قتل کیا

جائے اور باب کو اپنے چار مریدوں کے ہمراہ ستر آرمینی سپاہیوں کے حراست میں جیل بھیج دیا۔ جہاں اس کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح کو فراش باشی آقا محمد علی تبریزی کو ساتھ لے کر ہوئے جیل خانہ آیا۔ (کیونکہ ملا محمد مامقانی، ملا باقر اور مرتضیٰ قلی وغیرہ نے اس کے قتل کا بھی حکم دے دیا تھا) اور سر تیب فوج ارمنی سام خان کو دروازہ کی حفاظت سپرد کر دی اور دروازہ کے پایہ میں ایک آہنی میخ ٹھونک کر اس سے ایک رسی باندھ دی۔ جس کے ایک طرف باب کو جکڑ دیا اور دوسری طرف آقا محمد علی تبریزی کو اس طرح باندھ دیا کہ اس جوان کا سر باب کے سینہ پر آ گیا۔ اب فوج کے تین دستے ہو گئے۔ پہلے نے گولی چلائی دوسرے نے آگ پھینکی اور تیسرے نے تیر برسائے۔ مگر خدا کی قدرت سے بعد میں دیکھا گیا تو باب آقا سید حسین کے پاس کوٹھری میں تشریف فرما ہیں اور محمد علی اس میں جکڑا ہوا صحیح سلامت کھڑا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر سام خان نے انکار کر دیا کہ میں قتل سادات کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آقا جان بیگ (خمسہ سر تیب فوج خاصہ) کو حکم ہوا تو اس نے پھر اسی میخ سے باب کو باندھ کر گولیوں کا نشانہ بنایا۔ جس سے باب کا سینہ چھلنی ہو گیا اور چہرہ کے سوا باقی اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور یہ واقعہ ۲۸ شعبان ۱۲۶۸ میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد دونوں لاشیں خندق میں پھینک دیں۔ دوسرے روز صبح کو روس کا فوٹو گرافر آیا تو اس نے خندق میں سے دونوں لاشوں کا فوٹو حاصل کر لیا اور دوسری رات بانی دونوں لاشیں اٹھا کر کہیں لے گئے تھے۔ لیکن مولویوں نے گپ اڑادی کہ ان کی لاشوں کو درندے کھا گئے ہیں۔ حالانکہ شہدائے کربلا کی طرح ان کی لاشیں بھی محفوظ تھیں اور کسی درندہ کی جرات نہ تھی کہ ان سے ذرہ بھر بھی توڑ کر گوشت کھاتا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ باب کو معلوم تھا کہ وفات نزدیک ہے۔ اس لئے اپنی تحریرات تقسیم کر چکا تھا اور مصائب کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی بناء پر سلیمان خان بن یحییٰ خان آذربایجان سے روانہ ہو کر دوسرے روز تبریز آیا اور وہاں کے کلانتر (حاکم) کے گھر قیام کیا جو اس کا دوست تھا اور بایوں سے عموماً کاوش بھی نہیں رکھتا تھا اور درخواست کی کہ یہ دونوں لاشیں مجھے مل جائیں۔ کلانتر نے اپنے نوکر اللہ یار خان کو حکم دیا تو اس نے دونوں لاشیں سلیمان کے سپرد کر دیں۔ صبح کے وقت قراول پہرہ داروں نے مشہور کر دیا کہ درندوں نے دونوں لاشیں کھالی ہیں۔ اس رات ایک میلانی آدمی کے کارخانہ میں وہ لاشیں پڑی رہیں جو باب کا مرید تھا اور دوسرے روز صندوق میں بند کر کے آذربایجان سے لے گئے۔ جس طرح کہ طہران سے پہلے ہی حکم آچکا ہوا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ۱۲۶۷ھ میں چالیس ہزار بانی مارے گئے اور یہ سب کارروائی مرزا تقی خان کے حکم سے ہوئی تھی۔ اس کو خیال



تھا کہ یہ تحریک دب جائے گی۔ مگر جس قدر دبایا گیا زور پکڑتی گئی۔  
سلطان پر گولی چلانا

جن دنوں باب آذربجان میں تھے محمد صادق نامی آپ کے ایک مرید نے ایک ہماز کو اپنے ہمراہ لے کر بادشاہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور جب طہران پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان شمران میں ہے۔ وہاں پہنچ کر گولی چلا دی۔ مگر خطا گئی اور بادشاہ بال بال بچ گیا۔ اب تفتیش شروع ہوئی اور بابائی گرفتار ہونے لگے تو ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ بہاء اللہ ان دنوں انجمن میں تھے۔ جو طہران سے ایک منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ آپ گرمیوں کے ایام میں وہیں رہا کرتے تھے اور آپ کا وہاں ایک مکان بھی تھا اور آپ کا بھائی یحییٰ فقیرانہ لباس میں کاسہ گدائی ہاتھ میں لئے ہوئے وہاں آ پہنچا۔ مگر بہاء اس وقت نیاوران کو گئے ہوئے تھے۔ سلطانی لشکر نے آپ کو گرفتار کر کے شمران پہنچا دیا اور پھر وہاں سے طہران چلا گیا اور یہ سب کارروائی حاجی علی خان صاحب الدولہ کی تحریک سے وقوع پذیر ہوئی تھی اور بہاء کو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سلطان نے جب بہاء اللہ سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو بہاء اللہ نے کہا کہ محمد صادق کو اپنے پیر کی محبت نے اندھا اور بے عقل کر دیا ہوا تھا۔ اس لئے بغیر اس کے کہ کسی کو خبر کرتا یا کسی سے پوچھتا۔ خود ہی اس فعل کا مرتکب ہو گیا۔ اس کی بدحواسی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس نے طپانچہ میں ساچمہ (چہرہ) داخل کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ کوئی ذی عقل اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے اس تقریر کو واقعی سمجھ کر آپ کو رہا کر دیا اور حکم ہوا کہ لشکر نے جو کچھ آپ کا مال و متاع لوٹ گھسوٹ میں حاصل کیا ہے۔ واپس کر دیا جائے۔ مگر چونکہ وہ ہضم ہو چکا تھا۔ اس لئے بہت کم مقدار میں واپس کیا گیا۔

### تعلیمات باب

چند ماہ کے بعد حکومت نے بہاء کو اجازت دی تو سرکاری آدمیوں کے ہمراہ آپ عتبات عالیہ کی زیارت کو کربلا تشریف لے گئے۔ باب کی تعلیم مختلف تحریرات، خطبات، مواعظ نصائح، تفسیر الایات، تاویل آیات، مناجات، خطب، ارشادات بیان، مراتب توحید، اثبات النبوة خصوصاً سید الکائنات تحریریں و تشویق برتھج اخلاق تعلق بنجات اللہ میں قلمبند ہے اور سلسلہ تعلیمات میں آپ نے حقیقت شاہصہ کا بیان کیا ہے۔ کیونکہ اپنے آپ کو مقام تبشیر میں سمجھے ہوئے تھے اور ظہور اعظم کے انتظار میں شب و روز مشغول رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ: ”اننا

حرف من ذلك الكتاب وظل من ذلك البحر . اذا ظهر ظهر ماكتبته من  
الاشارات ويظهر ذلك بعد حين“ یعنی ۱۲۶۹ھ

۶..... من يظهره الله! بهاء الله یعنی ظہورِ اعظم اور حقیقتِ شاخصہ

جن دنوں حضرت باب کا ظہور ارض مقدس طہران میں ہوا خاندان وزارت میں ایک  
نوجوان (شاب) تیز طبع، ذہین، فہیم فخر قوم امیر فیصل مظہر آثار النجافۃ والشرافۃ پیدا ہوا۔ جس کے  
متعلق یہ خیال تھا کہ تائید الہی آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ حضرت باب کی طرح آپ بھی امی  
تھے۔ پڑھا پڑھایا ایک حرف بھی نہ تھا۔ آزاد منش، سر کے بال بڑے بڑے اور وہ بھی اڑتے  
ہوئے نظر آتے تھے۔ سر پر ٹوپی ہوتی تو وہ بھی ذرہ سی کسی کو خیال تک نہ تھا کہ باب کے بعد آپ  
مدعی ہوں گے۔ جب باب نے طہران میں دعویٰ کیا تو بہاء نے اپنے خویش واقارب میں دعوت  
دی۔ پھر مجالس ومساجد میں خطبے دیئے اور لوگ اس قدر مطیع ہو گئے کہ اس مذہب میں قتل ہونے کو  
شہادت سمجھنے لگے۔ شہر نور کے چار عالم آئے۔ تقریریں کر مفتون ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم  
نو تعلیم یافتہ ہو۔ الف ب پڑھو۔ اس کے بعد الف اور نقطہ کی تشریح مختلف مجالس میں بیان فرمائی۔  
اب آپ کا شہرہ بار فروش اور نور تک پہنچ گیا۔ ان دنوں مجتہد اعظم ملا محمد نوری قشلاق میں تھے۔  
انہوں نے بہاء اللہ کی خدمت میں دو لائق اور فصیح البیان مناظر بھیجے کہ آپ کو ساکت کر دیں اور یا  
کم از کم آپ کا فروغ کم کر دیں تاکہ لوگ داخل بیعت نہ ہوں۔ مگر انہوں نے جب دیکھا کہ آپ  
بحرنا پیدا کنار ہیں تو خود آپ کے مبلغ بن گئے اور مجتہد اعظم نوری کو کہلا بھیجا کہ تم بھی بیعت میں  
داخل ہو جاؤ اور جب آپ آمل اور ساری کو سفر کر رہے تھے تو مجتہد اعظم سے آپ کی ملاقات  
ہوئی۔ مگر مجتہد مذکور نے استخارہ کر کے کہا کہ اس وقت مناظرہ مفید نہیں۔ اس لئے لوگوں نے سمجھ لیا  
کہ جناب مجتہد بھی مناظرہ میں عاجز آ گئے ہیں۔ اس لئے نوجوان (خوشاب) بہاء اللہ کی مقبولیت  
اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اب اس نوجوان نے تمام اطراف ایران میں تبلیغ باب کا ڈنکا بجا دیا اور عرصہ  
دراز تک اسی کام میں مصروف رہا۔ یہاں تک خاقان (محمد علی) مر گیا تو اس وقت یہ نوجوان طہران  
واپس آ گیا۔

رازداری

جناب بہاء کی مخفی خط و کتابت حضرت باب سے ہمیشہ جاری تھی اور ملا عبد الکریم قزوینی  
درمیانی وسیلہ تھا اور اسی بناء پر جب طہران میں بابی مذہب کی بنیاد پڑ گئی اور باب و بہاء دونوں

سیاسی زنجیروں میں جکڑے گئے تو یہ تجویز ہوا کہ مرزا یحییٰ برادر بہاء کو یہ عہدہ دیا جائے تو اس طریق سے بہاء کی رہائی ہوگئی اور مرزا یحییٰ روپوش ہو کر گمنام ہوا کہ کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر حضرت باب بہت ہی خوش تھے۔ کیونکہ آپ کا ارادہ بھی یہی تھا۔ اب بہاء جب عتبات عالیات کی زیارت کر کے بغداد پہنچے تو آپ نے وہ دعویٰ ظاہر کر دیا جو باب نے بعد حین کے فقرہ میں پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ (یعنی آپ کا دعویٰ عدد حین کے بعد ۷۹ میں ہوگا) اب لوگ حیران ہو گئے اور اسی حیرت میں کچھ تو بیعت میں داخل ہوئے۔ مگر عام طور پر مخالفت شروع ہوگئی اور روپوش یحییٰ کبھی کبھی فقیرانہ لباس میں وقتاً فوقتاً ملاقات کرتا تھا۔ ایک سال کے بعد آپ نے عراق عرب سے کرد عثمانیہ کے علاقہ میں جا کر اقامت اختیار کر لی اور وہاں دو سال کی اقامت میں ایسی عزت نشینی اختیار کی کہ کسی رشتہ دار اور خدمت گار کو بھی اطلاع نہ تھی۔ اس کے بعد جب جبل سرکار میں وارد ہوئے تو آپ کی شہرت ہونے لگی اور چاروں طرف سے اہل علم نے آپ سے مشکل مسائل حل کرانے شروع کر دیئے اور آپ کی عزت و احترام کرنے لگے اور اب بایوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جبل سلیمانہ میں ایک بزرگ ظاہر ہوا ہے تو وہ شناخت کر کے اپنے وطن لے گئے۔ آپ آئے تو بابی بہت ہی بد نظمی میں تھے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ اب مقابلہ بالکل چھوڑ دو۔ تاکہ نقض امن کا الزام تم سے جاتا رہے اور چونکہ عقائد پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اس لئے تبدیل عقائد کا امکان نہ رہا اور اسی طریق پر پینتیس سال گذر گئے اور اسی عرصہ میں جب کبھی بھی قتل بابی وقوع پذیر ہوتا تو بایوں کی طرف سے بالکل خاموشی رہتی اور صبر و استقلال نشرو اشاعت کا باعث ہوتا۔ ”لان التدمیر سبب الثعمیر“

### خاموش مقابلہ

روایت ہے کہ ایک تعلیم یافتہ بابی نے مقابلہ شروع کر دیا تو دوسروں نے خاموشی کی تعلیم دی۔ اس لئے اس غلطی کو محسوس کر کے مازندران چلا گیا۔ مگر مسلمانوں نے اسے پکڑ کر جبراً زیر حراست کر دیا۔ جب کپڑے اتارے تو اس کی جیب سے یہ تحریر نکلی۔ ”قال بہاء اللہ ان اللہ برئی من المفسدین ان تقتلوا خیر لکم من ان تقتلوا فاذا عوقبتم فعلیکم بولایة الامور ولا ذابجمہور۔ وان اہلتم فوضوا الامور الی الرب الغیور۔ هذا سمة المخلصین وصفة الموقنین“ افسر نے کہا کہ اس رقعہ کے بموجب بھی تمہیں سزا ملے گی تو اس نے بسر و چشم قبول کر کے سزایابی کو برداشت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پر افسر نے مسکرا کر اسے رہا کر دیا۔ بہر حال جناب بہاء اللہ کی تعلیم میں امور ذیل کی بنیاد کو مستحکم کرنا منظور تھا۔

تعلیمات بہاویہ جو خاموش مقابلہ پر مبنی ہیں اور جنہوں نے حکومت کو نیچا دکھایا تھا ان کی مختصر فہرست یہ ہے کہ تثنوی، محسن اخلاق، تحصیل معارف، فی الافاق ہو۔

تعلیمات بہاویہ

جمع اقوام عالم سے حسن سلوک، ہر ایک کی خیر خواہی اور الفت و اتحاد، اطاعت و انقیاد، تربیت اطفال، بہر سانی ضروریات انسانی، تائیس سعادت، حقیقت وغیرہ۔ ان واقعات کے متصل ہی آپ نے اطراف ایران میں صحائف روانہ کر دیئے جو آج سوائے چند تحریرات کے بدخواہ دشمن کی دستبرد سے تمام کے تمام ناپید ہیں۔ ان میں بھی یہی تعلیم تھی کہ تہذیب اخلاق کی طرف توجہ دلائی جائے اور اہل فساد سے شکایت اور اپنے بے لگام مریدوں کی سرزنش کی تھی۔ ایک تحریر کا خلاصہ یہ بھی تھا کہ مجھے قید میں ذلت نہیں بلکہ وہ میرے لئے باعث عزت ہے۔ لیکن جو میرے عقیدت مند مجھ سے تعلق پیدا کر کے بعد میں شیطان اور نفس کے تابع ہو چکے ہیں۔ ان کا وجود میرے لئے باعث ذلت ہے۔ ”منہم من اخذ الہوی، و اعرض عما امر و منہم من اتبع الحق بالہدی، فالذین ارتكبوا الفحشاء و تمسکوا بالدنیا انہم لیسوا من اهل البہاء“ خدا تعالیٰ نے ہر ایک دور زمانہ میں اپنا ایک امین مبعوث کیا ہے۔ تاکہ معدن انسانی سے جو اہر معانی کا استخراج کرے۔ دین الہی کی بنیاد یہ ہے کہ اختلاف مذاہب کو بغض و عناد کا سبب نہ سمجھا جائے۔ ”لان لہا مطلقاً واحداً و الاختلاف انما هو بمصالح الوقت و الزمان“ اے اہل بہاء تو حید کے لئے اٹھو اور سب کو ملا دو۔ تاکہ درمیان سے اختلاف مذہبی رفع ہو جائے۔ محبت الہی اور مخلوقات پر رحم کرنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ مذہبی کینہ سخت آگ ہے۔ جس کا فرو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ تمہاری کوشش سے یہ آگ بجھ جائے گی۔ کئی دفعہ دو حکومتیں اسی باعث سے آپس میں ٹکرا کر باہمی ہلاکت کا سبب بن چکی ہیں اور کئی ایک شہر اسی کے نذر ہو چکے ہیں۔ آج ان کا نشان تک بھی نہیں ملتا۔ ”هذا الکلمة مصباح لمشکوۃ البیان“ اے اہل عالم تم سب شرم و واحد ہو اور ایک ٹہنی کے پتے ہو۔ اتحاد سے معاشرت کرو۔ ”اقسم بشمس الحقیقة“ نور اتفاق سے اطراف عالم منور ہوتے ہیں۔ ”اللہ رقیب بما اقول لکم“ پوری کوشش کرو۔ صیانت عالم اور حفاظت انسانی کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جاؤ۔ ”هذا هو قصد سلطان الآمال و ما مول ملک المقاصد“ ہمیں خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ سلاطین عالم کو شمس عدل کی تجلیات سے منور کرے گا اور وہ اس سے دنیا کو منور کریں گے۔ ”نحن قلنا مرة بلسان الشریعة و مرة بلسان الحقیقت و الطریقة، و المقصود اظہار

هذا المقام الاعلیٰ . وكفی بالله شهیدا“ دوستو! روح در بحران سے معاشرت کرو۔ اگر کلمہ خیر تمہارے پاس ہو اور غیر کے پاس نہیں تو اسے پہنچا دو۔ منظور کرے تو بہتر ورنہ جانے دو اور اس کے حق میں نیک دعاء کرو۔ بے رحمی اور جفاء کاری کا برتاؤ اس سے مت کرو۔ ”لان لسان الشفقة جذاب القلوب ومائدة الروح بمثابة المعانى للالفاظ وكلاهما لا شراق الحكمة والعقل“ اگر اس آخری زمانہ میں لوگ خاتم المرسلین (روح ماسواہ فداہ) کی شریعت پر عمل پیرا رہتے تو ان کی حکومت کا قلعہ کبھی مسام نہ ہوتا اور ان کے آباد شہر کبھی ویران نہ ہوتے۔ بلکہ امن وامان کے طرہ امتیاز سے مزین ہو جاتے۔ مگر اختلاف امت کی ظلمت سے طت بیضاء کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ ”لو عملوا بها لما غفلوا عن شمس العدل“ یہ مظلوم (میں بہاء اللہ) ایام ظہور سے لے کر آج تک غافلوں کے ہاتھ میں مبتلا رہا ہے۔ کبھی عراق بھیجا گیا اور کبھی اور نہ (اڈریانو پیل) اور کبھی عقائیں جلاوطن کیا گیا۔ ”الذی هو منفسی اللصوص والقاتلین“ اور اس وقت معلوم نہیں کہ ہمیں کہاں پر جلاوطن کیا جائے گا۔ اب جو ہوسو ہو گئے ہمارے احباب کا فرض ہے کہ اصلاح عالم میں کوشاں رہیں۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہم پر مصیبت گذرتی ہے وہ رفعت کلمہ توحید کا باعث ہے۔ ”خذوا امر اللہ وتمسکوا بہ انہ نزل من لدن امر حکیم . فاقسم بشمس الحقیقة“ اہل بہاء کا اصلاح عالم کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ صدق و صفاء پر ان کی بنیاد ہے اور ظاہر و باطن یکساں ہے۔ ”اعمالہم علیہم شاهدة“ ان کے اعمال دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایام عراق (بغداد) میں مجھے ہر ایک مذہبی فرقہ سے الفت تھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو منافق بن کر بھی ہماری جماعت میں داخل ہوا وہ مؤمن بن کر نکلا۔ فضل کا دروازہ ہر ایک موافق و مخالف کے لئے کھلا ہوا ہے۔ ”لعل المجرمین یہتدون الی بحر رحمة“ اسم ستار کے تجلیات ظاہر ہو رہے ہیں اور اشرار بھی ابرار کی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لوگ ہم سے کنارہ کش ہیں۔ کس لئے؟ اس کے دو سبب ہیں۔ اول علمائے ایران کی مخالفت۔ دوم جاہل بائیوں کے اعمال، علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بحر رحمت پر آنے سے روکتے ہیں۔ ورنہ جوان میں سے عامل ہیں وہ تو دنیا کی جان اور روح رواں ہے۔ وہ عالم بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ جس کے سر پر تاج عدل ہے اور بدن پر انصاف کا لباس نمودار ہے۔ ”فیوضی قلم النصح للاحباب بالمحبة والشفقة والحکمت والمباراة . المظلوم مسبحون الیوم وناصره جنود اعماله واخلاقه لا انصفوف والجنود ولا المدافع ولا القذائف“ نیک عمل ایک بھی ہو تو مٹی کو جنت بنا دیتا

ہے۔ دوستو! (مجھ) مظلوم کی اعانت اخلاق مرضیہ اور اعمال طیبہ کے ساتھ کرو۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ ذرّہ کمال پر پہنچے۔ اپنی کمالیت پر نظر نہ ڈالے۔ بلکہ خدا کی رحمت پر نظر ہونی چاہئے۔ اپنے منافع پر نظر نہ کرو۔ بلکہ وہ اشیاء پیش نظر رکھو جن سے کلمہ تو حید بلند ہو اور ہو او ہوس سے نفس کو پاک رکھو۔ کیونکہ مؤمن اور متقی کا ہتھیار تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہی وہ زر ہے جس پر نبی اور فحشاء کے تیر نہیں پڑتے۔ اسی کا علم فتح مندر رہا ہے اور ایک زبردست لشکر شمار کیا گیا ہے۔ ”بہاء فتح المقربون مدن القلوب باذن اللہ“ دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی ہے اور اس میں روشنی صرف حکمت و سائنس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لئے ہر حالت میں اس کے مقتضیات کا خیال ضرور ہونا چاہئے۔ ہر ایک کام اور ہر ایک بات کی موقعہ شناسی ایک بڑا فلسفہ ہے۔ ”ومن الحكمة الحزم لان الانسان لا يجب عليه ان يقبل ماقاله كل نفس“ تم خدا سے ہی اپنے حاجات کی درخواست کرو۔ ”لانہ لا يحرم عباده من رحيق المختوم وانوار اسمه القيوم . يا احباء الله يوصيكم قلم الصدق بالامانة الكبرى . لعمر الله نورها اظهر من نور الشمس . قد خسف كل نور عند اشراقها نطلب من الحق ان لا تحرم من اشراقاً تهانجن دللنا الجميع بالامانة والعفة والصفاء والوفاء واوضيناهم بالاعمال الصالحة الطيبتوا الاخلاق المرضية لتكون الكلمة قائمة مقابل السيف او الصبر مقابل السطوة والالتيام في مقام الظلم والتفويض عند الشهادة“ جو مصائب اس مظلوم جماعت پر عرصہ تیس سال سے نازل ہو رہے ہیں۔ ان کو صبر و شکر سے جھیل رہی ہے۔ ”و يشهد بذلك كل من له عدل وانصاف“ اس مظلوم نے نصح شافیہ اور مواعظ حسنہ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو تیر مصائب کا نشانہ صرف اس لئے بنایا ہوا ہے کہ جو نفوس میں خزانے مضمحل ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں۔ کیونکہ تنازعات مذہبی انسانی اعمال صالح کے لئے ارنڈے ثابت ہو رہے تھے۔ ”تبارك الرحمن الذى خلق الانسان علمه البيان“ مگر باوجود ان مصائب کے نہ امرائے ملک کو رحم آیا اور نہ ہی علمائے ملت نے ترس کھایا کہ حضور سلطان کے خدمت میں ایک ہی سفارش کا کلمہ بیان کرتے۔ ”لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا“ انہوں نے کوئی احسان نہ کیا اور ایذا رسانی میں کچھ کوتاہی نہ کی۔ اس لئے انصاف عنقاء ہو گیا ہے اور صدق کبریت احمر۔

شکایت از اہل زمان

دنیا انصاف کی دشمن ہے اور اہل حق کی طرح ان کو اس سے نفرت ہے۔ ”سبحان

اللہ . لم يتكلم احد بما حکم به اللہ فی مقدمة ارض طابا“ اپنی وفاداری اور اقتدار بڑھانے کے لئے انہوں نے اچھی بات کو برے پیرایہ میں ظاہر کیا اور مصلح کو مفسد بتایا۔ اسی قسم کے آدمی ذرہ کو سورج بنا دیتے ہیں اور قطرہ کو سمندر ظاہر کرتے ہیں اور مصلحین عام کو مفسد ثابت کرتے ہیں۔ بخدا یہ لوگ صرف اظہار وفاداری اور شکم پروری کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو! خدا سے درخواست کرو کہ جو دنیا کرنا چاہتی ہے اسے پورا کرے اور خدا سلطان کی امداد کرے۔ تاکہ تمام مزین طراز امن سے مزین ہو جائے اور اس مظلوم کی وفاداری پر نظر کرتے ہوئے رہا کر دے اور اسے حریت کا تمغہ عطا فرمائے۔ مجھے ایک گزارش کرنا بھی ضروری ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور کی خدمت میں جناب نواب اعظم معتمد الدولہ مرزا فرہاد نے اس مظلوم کے متعلق کچھ جھوٹ موٹ شکایت کی ہے۔ جس کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ایسے آدمیوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا۔ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میرا مقام اسیری شمران میں تھا تو ایک دفعہ عصر کے وقت مجھے ملے تھے اور دوسری دفعہ صبح جمعہ کو ملاقات ہوئی۔ تو مغرب سے پہلے واپس آ گئے تھے۔ مگر آپ کا فرض تھا کہ سچ سچ بات کہتے جو آپ کو معلوم ہوا۔ یا ابن الملک میری درخواست آپ سے صرف یہی ہے کہ عدل و انصاف سے دیکھیں کہ اس مظلوم پر کیسے مصائب آئے تھے اور آرہے ہیں۔

”طوبے لندفس لم یمنعه شبہات اهل الهوی من اظہار العدل ولم یحرمه من انوار نیر الانصاف . یا اولیاء اللہ فی اخر القول نوصیکم مرة اخرى بالعفة والصفاء والامانة والدیانة والصدق ضعوا المنکر وخذوا المعروف هذا ما امرتم به فی کتاب اللہ العزیز الحکیم . طوبیہ للعلیمین فی هذا الحین ینوح القلم ویقول یا اولیاء اللہ کونوا ناظرین الی افق الصدق منقطعین عن سواہ احرار طلقاء لاحول ولا قوۃ الا باللہ“ بہر حال اس جماعت کے متعلق ممالک ایران میں ایسی روایات مشہور ہو چکی تھی جو انسانی تہذیب کے خلاف ہیں اور موہبت الہیہ کے مخالف ہیں۔ مگر جب ان کا صحیح مسلک معلوم ہو گیا تو وہ تمام شکوک رفع ہو گئے اور حقیقت حال کھل گئی اور ثابت ہو گیا کہ ان روایتوں کی بنیاد صرف ظنون فاسدہ پر تھی۔ ہمیں لوگوں کے اخلاق پر اعتراض نہیں۔ مگر بعض عقائد پر ضرور ہم معترض ہیں۔

مسئلہ عراق

خلاصہ یہ ہے کہ جوں جوں اس جماعت کو تنگ کیا گیا۔ اس کی شہرت بڑھتی گئی اور جس قدر اسے دبایا گیا اسی قدر ابھرتی گئی۔ یہاں تک کہ غیر ممالک کے لوگوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس

جماعت سے مل کر اپنے کاروبار میں ترقی حاصل کریں۔ مگر شیخ طائفہ (حضرت بہاء) اس قدر ہوشیار تھے کہ کسی کو اپنا راز دار نہ بناتے تھے اور صرف نیک نیتی اور مقاصد خیر کی نصیحت کر کے رخصت کر دیتے تھے۔ چنانچہ عراق میں یہ مسلک بہت مشہور ہو گیا۔ ممالک غیر کے مامورین بھی آپ سے عقداخت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ مگر آپ نے اپنی حکومت کے خلاف ان سے کوئی پخت و پز نہیں کی۔ یہاں تک کہ اگر شاہی خاندان میں سے کسی ایک نے بھی اس مخالفانہ تحریک میں حصہ لیا تو اس کو بھی ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ یہ کیسی فبیح حرکت ہے کہ انسان شخصِ ادا کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر دینی اور دنیاوی رسوائی حاصل کرے۔ ممکن ہے کہ انسان تمام جرائم کی برداشت کر سکے۔ مگر ہم وطنوں سے خیانت کی تاب نہیں لاسکتا۔ علیٰ ہذا اقیاس تمام گناہ قابل مغفرت ہیں۔ مگر اپنی حکومت سے غداری اور بے وفائی کرنے کا گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے انسان کا دین بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ حکومت کے خیر خواہ ثابت ہوئے اور حقوق و فاداری میں مقدس سمجھے گئے تو اہل عراق نے ان کی تحسین کی اور مجانب وطن نے ان کا شکر یہ ادا کیا۔ اس لئے خیال تھا کہ حکومت ایران کو صحیح رپورٹ دی جائے گی۔ مگر راستہ میں بعض مشائخ کی مہربانی سے کچھ ایسی الٹ پلٹ باتیں گھڑی گئیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے اور خیال پرا ہوتا ہے کہ یہ باتیں صرف رفعت دنیاوی حاصل کرنے کے لئے گھڑی گئی تھیں کہ بادشاہ کے حضور میں اقتدار دنیوی حاصل ہو جائے اور چونکہ شاہی دربار میں اراکین سلطنت آزادی سے کلام نہیں کر سکتے تھے اور وزراء بھی کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش تھے۔

### جنرل بغداد کی ناکامی

اس لئے مسئلہ عراق کے متعلق بہت سی جھوٹی روایات شائع ہو کر کدورت مزاج شاہی کا باعث بن گئیں اور چغل خوروں نے دل کھول کر جو چاہا گھڑ لیا اور مسئلہ عراق نے بڑی اہمیت پیدا کر لی۔ مگر جنرل تو سولوس نے جب اصلیت پر پوری پوری اطلاع پائی تو استقلال سے اس مسئلہ کے حل کرنے میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب مرزا بزرگ خان بغداد کے جنرل کو نسل مقرر ہوئے تو چونکہ ناعاقبت اندیش تھے اور عموماً اپنے اوقات عزیز کو غفلت میں گزار دیتے تھے تو مشائخ عراق نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس گروہ کا استیصال کر دیا جائے اور جس قدر بھی ہو سکتا تھا حکومت ایران کو اس ارادہ کے پورے کرنے میں تقریر و تحریر کے ذریعہ سے بڑے زور سے براہیختہ کرنے کے لئے روزانہ شکایات کا ایک بڑا طومار لکھ کر روانہ کرتے تھے۔ مگر چونکہ ان شکایات کی کچھ اصلیت نہ تھی۔ اس لئے خدا کی طرف سے ان پر عمل درآمد کرنے میں تاخیر اور دیر پڑتی گئی۔ آخر تنگ آ کر خود



جنرل بغداد اور مشائخ بغداد نے باہمی مشاورت کے لئے کاظمین میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ جس میں علمائے نجف اور علمائے کربلائے معلیٰ کی حاضری ضروری قرار دی گئی تو تمام مجتہد تشریف لائے۔ مگر کچھ تو واقعات پر اطلاع پا کر تشریف لائے تھے اور کچھ صرف تعمیل حکم سلطانی کے لئے حاضر ہو گئے۔ ورنہ ان کو اصلی حالات سے اطلاع نہ تھی۔ چنانچہ حضرت خاتمہ المحققین شیخ مرتضیٰ رئیس النکل بھی لاعلمی کی حالت میں آ کر شامل ہو گئے۔ مگر جب آپ کو اصل حقیقت منکشف ہوئی تو فرمانے لگے کہ مجھے ابھی تک بابی مذہب کی واقفیت نہیں اور بظاہر مجھے یہ فرقہ قرآن شریف کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے مجھے معذور سمجھا جائے اور تکفیری فتویٰ دینے میں ہر ایک کو مجبور نہ کیا جائے۔ اب جنرل بغداد اور مشائخ کونا کامی اور ندامت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جلسہ برخواست ہوا اور لوگ واپس گھر چلے گئے۔ انہی ایام میں مفسدہ پرداز اور معزول شدہ وزیر بھی پیچھے پڑ گئے اور جھوٹی افواہیں اڑادیں کہ حکومت ایران بایوں کی بیخ کنی کا فیصلہ کر چکی ہے اور عنقریب تمام بابی گرفتار ہو کر ایران پہنچائے جائیں گے۔ مگر وہ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب بزرگ خان نے لوگوں کو بایوں کے خلاف اشتعال دلانا شروع کر دیا۔ تاکہ لوگ ہر ایک جگہ فساد برپا کر کے ان کو دق کریں۔ لیکن جب یہ دوسری چال بھی نہ چلی تو پورے نو ماہ تک ان کے خلاف علمائے اسلام سے مشورہ کرتا رہا اور چند بایوں نے مصلحت وقتی کی بناء پر حکومت عثمانی کی تابعداری اختیار کر لی۔ جس سے یہ چال بھی ٹیل ہو گئی۔ بہر حال عراق میں جناب بہاء اللہ گیارہ سال یا کچھ زیادہ عرصہ تک مقیم رہے اور بایوں کی شہرت اس قدر دور دور تک پھیل گئی کہ ہر ایک فرقہ ان سے خوش تھا اور بڑے بڑے علمائے اسلام اپنی مشکلات حل کرانے کو آپ کے پاس حاضر ہوتے اور لوگ خیال کرتے کہ آپ کا علم جادو ہے یا کوئی عجیب قسم کا غیبی فیضان ہے۔ اس کے بعد حکومت عثمانیہ نے حکم دے دیا کہ بابی بغداد چھوڑ دیں۔ اس وقت اور اس سے پہلے گیارہ سال کے قیام میں بھی مرزا یحییٰ بدستور سابق بھیس بدل کر ہی ادھر ادھر گھومتا رہا اور اسرار نویسی کا کام کرتا رہا۔

### اڈریانو پل کو روانگی

اور جب یہ قافلہ ادرنہ کو روانہ ہوا اور حکومت عثمانیہ نے راستہ کی حفاظت ہر طرح سے اپنے ذمہ لی تو پھر بھی یحییٰ نے اپنی طرز معاشرت نہ چھوڑی اور اپنے آپ کو غیر جانبدار ہی ظاہر کرتا رہا۔ کبھی معلوم ہوتا کہ ہندوستان جائے گا۔ کبھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہیں ٹرکی میں رہے گا۔ مگر بعد میں کوک اور ارنیل جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ جہاں پر اس قافلہ کو گزرنہ تھا۔ پھر موصل بھی پہنچ گیا۔ مگر وہاں قافلہ سے کچھ فاصلہ پر ڈیرہ جمالیہ۔ گو کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ مگر وہ اپنی شناخت

کرانا نہیں چاہتا تھا۔ تاکہ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ اس کے بعد قافلہ استنبول پہنچا تو حکومت نے کمال عزت و توقیر کے ساتھ فروکش کیا۔ پہلے قیام ایک سرائے میں تھا۔ مگر جب زائرین زیادہ ہو گئے تو تیس یوم کے بعد دوسری جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ مگر وہاں دشمنوں نے اڑا دیا کہ یہ لوگ گویا ہر خوش مزاج اور نیک خصال ہیں۔ مگر درحقیقت فساد و بغاوت کا مجسم شعلہ آتش ہیں اور ہر قسم کی سزا کے مستوجب ہیں۔ اس وقت گو بعض اراکین سلطنت نے بھی مشورہ دیا کہ حکومت سے درخواست کی جائے کہ اس قسم کی شکایات بے جا ہیں۔ اس لئے ہمیں واپس اپنے وطن ایران کو بھیجا جائے۔ مگر بایوں نے کہا کہ حکومت عثمانیہ جو حکم دے ہمیں منظور ہے۔ اس سے سرتابی نہیں کر سکتے اور ایسا استقلال دکھایا کہ جو اراکین سلطنت بھی ملاقات کو آتے تھے ان سے بھی شکایت کی بجائے مسائل الہیہ کی بحث شروع رہتی تھی اور علوم و فنون پر بحث چلتی تھی اور یہ بھی کہا کہ اگر خود حکومت کو مطلوب ہو تو ہمارے حالات کا مطالعہ کرے۔ ورنہ ہمارے کہنے سے حقیقت حال کا انکشاف مشکل ہوگا۔ اس لئے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ہے۔ ”قل کل من عند اللہ ان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ لنا برہان شافی“ کچھ عرصہ بعد حکم ہوا کہ صوبہ دومیلی ادرنہ میں چلے جائیں تو وہاں جا کر بایوں نے ڈیرے ڈال دیئے اور مکانات تعمیر کر لئے۔

### مرزا محمد یحییٰ کی علیحدگی

اس امن و راحت کے ایام میں سید محمد اصفہانی نے مرزا یحییٰ سے آپس میں سمجھوتہ کیا کہ تم یہاں سے نکل چلو کہ میں مرید بنوں اور تم پیر اور تبلیغ کے کام میں مصروف ہوں۔ احباب نے ہر چند سمجھایا کہ تم اپنے بھائی بہاء اللہ کی گود میں اتنے بڑے ہو کر صاحب مراتب عالیہ ہوئے ہو۔ اب ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ مگر اس احسان یا ددہانی کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے اپنے مبلغ سراپیہ میں بھیج دیئے اور وہاں جا کر چندہ شروع کر دیا۔ مگر جب حضرت بہاء کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بہت ملال ہوا اور اسی غصہ میں آ کر دونوں (یحییٰ و محمد) کو ادرنہ سے نکال دیا تو دونوں اسلامبول پہنچ گئے اور اصفہانی نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیر تھی وہ سید محمد یحییٰ تھے۔ بہاء اللہ نہ تھے تو کسی فتنہ پرداز نے مشہور کر دیا کہ یہاں تبلیغ کا کام شروع کر دو۔ کامیابی ہوگی۔ اسی دھوکے میں آ کر خوب تبلیغ کی اور ان ہی فتنہ پردازوں نے لوگوں کو ان دونوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور حکومت کو توجہ دلائی کہ بابی فساد کا مادہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا اخراج ضروری ہے۔ اس لئے حکم ہوا کہ صرف بہاء اللہ کو ادرنہ سے جلا وطن کیا جائے اور کوئی بابی ہمراہ نہ جانے پائے اور یہ نہ بتایا کہ کہاں جلا وطنی ہوگی۔ اس لئے کمال اضطراب میں بابی آتش در نعل

ہو گئے اور التجاء کی کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ ہی جلاوطن بن گئے۔ مگر حکومت نے منظور نہ کیا کہ تو اسی اضطراب و مایوسی میں حاجی جعفر آپ کے فراق میں دیوانہ ہو گیا اور خودکشی کر لی۔ اب حکومت نے اجازت دے دی کہ بہاء اللہ اپنے احباب کے ہمراہ عکا بھیجا جائے اور یحییٰ کو ماغوسا میں نظر بند کیا جائے۔

### حکومت ایران کی خدمت میں درخواست

جب بہاء اللہ ادرنہ میں قیام پذیر تھے تو وہاں ایک درخواست سلطان ایران کی طرف لکھی تھی۔ جس میں اپنی صداقت دعویٰ، حسن نیت اور شعار بابت کو درج کیا تھا اور وہ درخواست کچھ فارسی میں تھی اور کچھ عربی میں۔ بہر حال اسے لفافہ میں بند کر کے یوں معنوں کیا کہ باسما سلطان ایران اب کوئی بانی یہ درخواست پہنچانے کو تیار نہ ہوا۔ آخر مزید بدیع خراسانی نے حوصلہ کر کے عرض کی کہ میں یہ درخواست ایران پہنچا دوں گا تو وہ روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان اس وقت شہر سے باہر تشریف رکھتے ہیں۔ اس لئے راستہ کے قریب تین روز ایک پتھر پر قیام کیا جو شاہی خیموں کے محاذ پر تھا اور شب و روز صوم و صلوة میں مصروف رہ کر منتظر تھا کہ سلطان کا یہاں پر گذر ہو تو وہ درخواست پیش کر دوں۔ مگر اسی انتظار میں بھوکا پیاسا اس قدر کمزور ہو گیا کہ صرف تنفس ہی باقی رہ گیا تھا۔ چوتھے روز سلطان دور بین سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر بدیع پر پڑی تو فی الفور اسے حاضر کیا گیا اور اس سے درخواست لے کر اسے نظر بند کر لیا گیا۔ اب سلطان اگرچہ شدت پسند نہ تھے۔ مگر اراکین سلطنت نے اس کو سزا دینا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ ان بانیوں میں سے تھا جو بلغار اور سقلا ب وغیرہ میں جلاوطن کئے گئے تھے اور یہ خیال کیا کہ اگر اس کو سزا نہ دی گئی تو آئے دن ان کے قاصد آنے شروع رہیں گے۔ اب اسے شکنجہ میں کھینچا۔ تاکہ باقی پارٹی کے حالات بھی بتائے۔ مگر اس نے صبر و سکوت سے کام لیا اور پھر اسے زنجیروں میں جکڑ کر تشہیر کیا۔ وہ اس میں بھی خاموش رہا۔ آخر جب کوئی حیلہ کار گرنہ ہو سکا تو اس کی تصویر لے کر اسے قتل کر دیا گیا۔ (قول مصنف) میں نے وہ خود تصویر دیکھی ہے۔ سلطان نے جب درخواست پڑھی تو بعض فقرات نے آپ کے دل پر گہرا اثر کیا اور جب معلوم ہوا کہ بانی مذکور قتل ہوا ہے تو آپ نے ناراضگی میں کہا کہ کیا قاصد کو پیغام رسانی کے جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ پھر حکم دیا کہ علمائے شہر اس درخواست کا جواب لکھیں تو شہر کے سرکردہ علمائے اسلام نے جواب میں عرض کیا کہ قطع نظر اس سے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے۔ آئین حکومت کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے اس گروہ کا استیصال از حد ضروری ہے۔ مگر سلطان کو اس جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ کیونکہ

اس درخواست میں حکومت اور اسلام کے خلاف کوئی بات درج نہ تھی۔

## اقتباسات درخواست

ذیل میں ہم اس درخواست کے چند فقرات بطور نمونہ درج کرتے ہیں کہ اس درخواست کے باب اول میں یہ امور درج ہیں۔ مراتب ایمان و ایقان، فدائے روح فی سبیل اللہ، مقام تسلیم و رضا، کثرت مصائب و آلام، دشمنوں کی شکایت سے بدنامی، اپنی برأت مفسدہ پردازوں سے بیزاری، خلوص ایمان بصوص القرآن، لزوم خلاق الرحمن، امتیاز عن سائر الخلق، اتباع الاوامر، اجتناب عن النواہی، ظہور قضیہ باب بتائید الہی، اہل دنیا کا اس کے مقابلہ سے عاجز ہونا، باب کا مصائب میں پڑنا، تعلیم کے بغیر موہبت ایزدی کا حصول، غیب الہی سے استفاضہ، اشراق علم لدنی، باب نصیحت کرنے میں معذور تھا۔ اکتساب کمالات انسانیہ، اشتغال بالحجۃ الالہیہ، تشویق حصول مقام اعلیٰ جو سلطنت سے بھی اوپر ہے۔ المناجات والابہتال وغیرہ۔

باب دوم میں اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ جس کا اقتباس ذیل میں درج ہے کہ: ”یا الہی هذا کتاب لم یدان ارسله الی السلطان . انت تعلم انی ماردت الاظہور عدله لخلقک وبروز الطافہ لاہل مملکتک . وحشتیک غابۃ رجائی . ایدیا الہی حضرت السلطان علی اجراء حدودک بین عبادک و اظہار عدلک حین خلقک لیحکم علیٰ هذه الفئۃ (البابیۃ) کما یحکم علی من دونہم انک انت العزیز المقتدر الحکیم“ حسب الحکم حضور سلطان کے بندہ طہران سے عراق کو جلا وطن ہو کر وہاں بارہ سال مقیم رہا اور اس عرصہ قیام میں مجھے یہ قدر نہ تھی کہ حضور کی خدمت میں اپنا حال لکھ کر پیش کرتا یا کم از کم غیر ممالک میں اپنا حال لکھ کر بھیجتا۔ اس کے بعد ایک سرکاری آدمی نے ہم فقیروں کو ستانا شروع کر دیا اور علمائے اسلام کو ہمارے خلاف برا بھینٹہ کرتا تھا۔ حالانکہ ہم سے حکومت کے خلاف کوئی امر سرزد نہیں ہوا تھا اور صرف اس امر کو ملحوظ رکھ کر کہ ہم سے کوئی امر مخالف سرزد نہ ہو جائے اپنا تمام حال لکھ کر مرزا سعید خاں کو دیا تا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جو حکم صادر ہو ہم پر نافذ کرے۔ مگر بہت عرصہ گزرنے پر بھی کوئی شاہی حکم جاری نہ ہوا۔ اس لئے ہم محدودے چند عراق کو چلے گئے۔ تا کہ مخلوق خدا کی خوزری نہ ہو۔ اگر حضور غور فرمائیں تو یہ سب کچھ مصلحت عامہ کو مد نظر رکھ کر پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم جہاں کہیں ہوتے حکام وقت کو ہمارے خلاف اکسایا جاتا تھا۔ مگر اس عبد فانی (بہاء اللہ) کا ہمیشہ یہی حکم ہوتا تھا کہ کوئی بانی فتنہ پردازی میں حصہ نہ لے۔ اس پر میرے اعمال شاہد ہیں اور تمام دنیا جانتی ہے کہ بانی گواہ وقت پہلے کی بہ

نسبت زیادہ ہیں۔ لیکن فتنہ و فساد سے متنفر ہیں۔ آج پندرہ برس ہو رہے ہیں کہ صبر و تسلیم سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب بندہ فانی اور نہ آیا تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ نصرت کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کو کئی ایک طرح جواب دیئے گئے۔ ان میں سے ایک جواب یہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تاکہ حضور بھی معلوم کر سکیں کہ اصلاح عالم کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگرچہ حضور پر وہ الطاف الہیہ تو منکشف نہیں ہو سکتے۔ جو خدا تعالیٰ بغیر استحقاق کے انعام کئے ہیں۔ مگر تاہم اس قدر جناب کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ مجھے عقل و فراست سے ضرور آراستہ و پیراستہ کیا ہوا ہے۔ ”اے لست مجنوناً کما یظنہ الاعداء“ ہاں ایک جواب جو سائل کو لکھ بھیجا تھا وہ یوں تھا کہ: ”هو اللہ تعالیٰ“ یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا و مافیہا سے مستغنی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے لڑائی کرے۔ سلطان بالفعل مایشاء بحر و بر کی حکومت اس نے سلاطین کے سپرد کر دی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ قدرت الہیہ کے اپنے اپنے مقدر کے مطابق مظاہر ہیں اور جو کچھ اس نے اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔ وہ دل ہے جو علوم الہیہ ذکر و شغل اور محبت الہی کا مخزن ہوتا ہے اور ہمیشہ سے خداوند تعالیٰ کا یہ ارادہ بھی چلا آتا ہے کہ دنیا و مافیہا کے کچھ اشارات اپنے بندوں کے دلوں پر منکشف کرے۔ تاکہ اپنے تجلیات کے قبول کرنے کے لئے ان دلوں کو مستعد کرے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مدینہ قلب میں غیر کو دخل نہ دیا جائے۔ تاکہ حبیب اپنے مکان میں قیام کر سکے۔ یعنی خدا کے اسماء و صفات کی تجلی قلوب پر ہو ورنہ تو ذات باری صعود و نزول سے پاک ہے۔ اب نصرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی پر اعتراض کیا جائے یا نفسانی بحث کی جائے۔ بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان مدائن قلوب کو فتح کیا جائے جو ہوا و حرم اور آزادی کے لشکروں کی دستبرد میں فنا ہو چکے ہیں اور حکمت و بیان کی تلوار چلا کر اپنے قبضہ میں کر لیا جائے۔ ”هذا هو معنی النصرة“ فساد خدا کو پسند نہیں ہے اور جاہل (بابی) اس سے پیشتر جو فساد کر چکے ہیں وہ کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا اور جو شخص نصرت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ سیف بیان و معانی کے ساتھ اپنے قلب پر تصرف کرے اور غیر اللہ کی یاد سے اس کو چاروں طرف سے روک دے۔ اس کے بعد مدائن قلوب العباد کو رخ کرے۔ ”هذا هو المقصود بالنصرة“ خدا تعالیٰ کی رضا میں مار ڈالنے سے خود مرجانا بہتر ہے۔ احباب لو چاہئے کہ ایسی شان دکھائیں جس سے مخلوق الہی کو تسلیم و رضا کا راستہ دکھائیں۔ ”اقسم بشمس افق التقديس“ خدا کے بندوں کی نظر مٹی اور احوال اراضی کی طرف ہرگز نہیں ہوتی اور خدا تعالیٰ بھی محض فضل و کرم سے صرف دلوں کو دیکھتا ہے تاکہ وہ دل اور نفوس فانیہ خاکی آلائشوں سے پاک ہو کر مقامات عالیہ میں پہنچ سکیں۔ ورنہ اس سلطان حقیقی کو کسی

طرح کے نفع و نقصان سے تعلق نہیں ہے۔ ”کل الیہ راجعون والحق فرد واحد مستقر فی مقره مقدس عن الزمان والمكان والذکر والبیان والاشارة والوصف والعلو والدنور ولا یعلم ذلك الا هو ومن عنده علم الكتاب لا اله الا هو العزیز الوهاب“ اب سلطان کا فرض ہے کہ عدل ورحم ہے اس امرمہم میں کام کریں اور لوگوں کی معروضات پر توجہ نہ کریں۔ کیونکہ وہ سب فرضی اور بغیر دلیل کے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں حکم ہوا تو استنبول حاضر ہوئے۔ مگر وہاں بھی ہمیں حکومت عثمانیہ کے حضور اپنے اصلی حالات پیش کرنے کا موقعہ نہ ملا اور ہم نے خود بھی ارادہ نہ کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ارادہ کسی قسم کے فساد اور بغاوت کا نہیں ہے۔ سلطان ظل الہی ہوتا ہے۔ جس طرح خدا کی تربیت کسی خاص انسان سے مختص نہیں ہے۔ اسی طرح ظل الہی کی تربیت بھی کسی خاص بنی نوع انسان سے مخصوص نہیں ہونی چاہئے۔ تا کہ رب العالمین کی تجلی تربیت میں ظاہر ہو۔ اس اصول پر بانی قائم ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد چھوڑ کر مشیت ایزدی کو پیش نظر رکھا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر اس صداقت کا نشان اور کیا ہو سکتا ہے کہ محبت الہی میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ ورنہ بغیر کسی خاص مطلب کے کوئی عقلمند اپنی جان ضائع نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم مجنون اور پاگل ہیں۔ مگر ایک دو شخص مجنون اور دیوانے ہوں تو ممکن ہوگا۔ لیکن ایک بڑی جماعت کا دیوانہ ہونا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس اصول کو قائم کرنے کی خاطر اپنی جان و مال قربان کر دیئے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ اپنے دعاوی میں سچے ہیں تو مخالفین کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہ ہم جھوٹے ہیں۔ حاجی مرحوم سید محمد نے روس کی لڑائی میں جہاد کا فتویٰ دیا اور خود بھی اس جہاد میں شریک ہوئے۔ اگرچہ آپ علامہ زمان تھے۔ مگر ان پر بھی یہ راز منکشف نہ ہوا کہ تربیت ایک بہت بڑا کام ہے۔ بیس برس ہو رہے ہیں کہ بانی دوردراز ملکوں میں جلاوطن کئے جا رہے ہیں اور ان کے بچے یتیم اور ماٹیں بے اولاد کر دی گئیں ہیں اور ان کو سطوت سلطانی سے اس قدر بھی قدرت نہیں کہ اپنی اولاد پر نوحہ کر سکیں۔ باوجود اس کے پھر بھی محبت الہی ان میں جلوہ گر ہے۔ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے۔ مگر ان کے اس عقیدہ میں فرق نہ آیا۔ جس سے ثابت ہو گیا کہ وحدت رحمانیہ کی طرف بالکل جذب ہو چکے ہیں۔ گو علمائے ایران نے سلطان کا دل ہماری طرف سے مکدر کر دیا ہوا ہے۔ افسوس ہے کہ مجھے یہ موقعہ نہیں دیا گیا کہ آپ کے روبرو تبادلہ خیالات کے لئے ان سے گفتگو کروں۔ اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجلس مناظرہ منعقد کر کے ہمارے دعاوی پر مباحثہ ہو جائے۔ ”فتنمناوا الموت انکنتم صادقین“ میں صداقت کی علامت تمنائے موت قرار دی گئی ہے۔ اب خود

بتائیں کہ خدا کی راہ میں کس قوم نے اپنی قربانی دی ہے اور کس کا ظاہر و باطن یکساں نظر آ رہا ہے؟ بعض علمائے ایران نے بغیر اس کے کہ مجھے دیکھا ہو یا میرے مقاصد پر غور کیا ہو۔ میری تکفیر کا فتویٰ دے دیا ہے۔ حالانکہ دعویٰ بلا دلیل تسلیم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ظاہری زہد و تقویٰ کسی کام آتا ہے۔ اب میں صحیفہ فاطمیہ سے جو کلمات مکنونہ کے عنوان سے مشہور ہے۔ چند فقرات ایسے علمائے اسلام کی کلی کھولنے کے لئے پیش کرتا ہوں۔ جس میں آپ نے ایسے علماء کے لئے یوں فرمایا تھا کہ اے دھوکہ باز تم کیوں حفظ نفس کا دعویٰ کرتے ہو۔ حالانکہ تم بھیڑیے ہو؟ تمہاری مثال صبح کا ستارہ ہے کہ بظاہر روشن اور چمکدار ہے اور باطن میں رہروان ممالک بعیدہ کے لئے ہلاکت کا باعث ہے۔ (کیونکہ اس وقت رہزن لوٹ مار کرتے ہیں) یا کڑوا پانی تمہاری نظیر ہے کہ بظاہر مٹھے اور دلر با نظر آتا ہے۔ مگر باطن میں ایسی تلخی رکھتا ہے کہ ایک قطرہ بھی زبان پر نہیں رکھا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ کی تجلی ہر ایک پر ہے۔ مگر مٹی اور فرقد ستارہ میں قبولیت روشنی کے رو سے بڑا فرق ہے۔ حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے کہ کئی دفعہ اے ابن دنیا میں نے تجھ پر صبح کو اپنی تجلی ڈالی۔ مگر تم بستر راحت پر سوئے رہے اور غیر سے مشغول ہوتے دیکھ کر میں واپس جا کر خاموش رہا اور اپنے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم کو ندامت نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ: ”الداعی لمحبتی قد هبت عليك نسيم عنایتی و وجدتك نائما علی فراش الراحة فبکیت علی حالک و رجعت“ اس لئے ضروری ہے کہ سلطان ہمارے مخالفین کی بے دلیل شکایت پر توجہ نہ کریں۔ قرآن مجید میں ہے کہ: ”ان جاء کم فاسق بنبأ فتبینوا“ اور حدیث شریف میں ہے کہ: ”لا تقبلوا النمام“ چغزل خور کی بات نہ مانو۔ بہت سے علماء نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور جنہوں نے دیکھ لیا وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم اس امر پر عمل پیرا ہیں کہ جس کا ہمیں خدا نے حکم دیا ہے اور ان کو یہ آیت پیش نظر ہے کہ: ”هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل“ ہماری نظریں آپ کے توجہ کریمانہ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس شدت کے بعد ہمیں ضرور آرام ملے گا۔ مگر معروض الامر صرف یہی ہے کہ حضور خود اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ ”یا الہی ان قلب السلطان بین اصبعی قدرتك لو تر قلبه الی شطر الرحمة انک انت المقتدر المنان لا اله الا انت العزیز المستعان“ ہاں جو علمائے اسلام اپنے نفس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ دین کے محافظ ہیں۔ ہوائے نفس کے مخالف ہیں اور فرمان الہی کے تابع ہیں تو عوام کا فرض ہے کہ ایسے علماء کی تقلید کریں۔ اگر سلطان ان بیانات پر نظر ڈالیں جو مظہر الہام الرحمن (بہاء اللہ) پر ظاہر ہوئے ہیں تو یقیناً سمجھ لیں گے کہ جو عالم

صفات مذکور سے متصف ہو سکتا ہے وہ کبریت احمر (سرخ گندھک) سے بھی زیادہ کمیاب ہے اور جو اس وقت کے علمائے اسلام ہیں۔ ”شر فقہاء تحت ظل السماء“ کے حکم میں داخل ہیں۔

”منہم الفتنة خرجت والیہم تعود“ اگر ان روایات میں شک ہو تو بندہ ثابت کرنے کو حاضر ہے۔ مگر جو سید مرتضیٰ مرحوم جیسے علمائے اسلام غیر جانبدار ہیں۔ ان کے متعلق ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اصل مقصد سے چشم پوشی کی ہوئی ہے اور صرف بایون کی ایذا پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کون سی اسلامی خدمت انجام دی ہے یا کس امر متعلقہ ترقی حکومت پر توجہ کی ہے کہ جس سے ملکی یا سیاسی ترقی ہو تو خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ یہ معترض بابی ہے۔ پھر اسے قتل کروا کر مال لوٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ تبریز کا واقعہ مشہور ہے اور سلطان تک خبر بھی نہیں پہنچتے دیتے۔ کیونکہ اس جماعت کا کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ جب سلطان کی رعایا بننے کا حق رکھتے ہیں۔ ان کے سوا اور مذاہب بھی ظل عافیت میں پرورش پا رہے ہیں تو اس جماعت کو بھی ملک میں رہنے کی اجازت ہونی چاہئے اور اراکین سلطنت کا فرض ہے کہ ایسے قواعد پاس کریں کہ تمام مذہبی فرقے امن و امان سے زندگی بسر کر سکیں اور ملک میں ترقی ہو۔ کیونکہ خدا کا منشاء صرف یہی ہے کہ عدل و انصاف سے رعایا کی حفاظت کی جائے۔

”ولکم فی القصاص حیوة“ یہ امر بعید ہے کہ ایک شخص کی بد عملی سے ایک جماعت کو سزا دی جائے۔ ”لا تزر وازرة وزر اخری“ نیک و بد ہر ایک فرقہ میں ہوتے ہیں۔ مگر عقلمند برائی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر وہ طالب مولیٰ ہے تو اس کو ایسے افعال کے ارتکاب کی طرف مطلقاً توجہ نہ ہوگی۔ اگر وہ طالب دنیا ہے تو وجاہت طلبی اس کو ایسے امور سے مانع ہوگی کہ کہیں لوگ اس سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ ”سبحنک اللہم یا اللہی تسمع کلامی وتری حالی وضری فان کان ندای خالصاً لوجهک فاجزب بہ قارب بریتک الیٰ افق سماء عرفک وقلب السلطان الیٰ یمین اسم عرشک الرحمن . ثم ارزقه النعمة التي نزلت من سماء کرمک لینقطع عما عنده ویتوجه الیٰ شطر الطافک . اے رب ایدہ علی اعانة المظلومین واعلا کلمتک وانصرہ بجنود الغیب والشهادة لیسخر المدائن باسمک لا الہ الا انت العزیز“ اگر ہم میں سے کوئی فعل قبیح کا مرتکب ہو جاتا ہے تو یہ لوگ شکایت کر دیتے ہیں کہ یہ فعل قبیح بھی ان کے مذاہب میں داخل ہے۔ حاشا دکلام میں نے کبھی ایسے مکروہ افعال کی کبھی اجازت نہیں دی۔ بالخصوص ان افعال قبیح کی کہ جن کی تصریح قرآن شریف میں موجود ہے۔ دیکھئے شراب نوشی کی ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے اور یہ لوگ بھی



ممانعت کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی لوگ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو سزایابی کے مستوجب صرف یہی غافل نفوس قرار پاتے ہیں۔ نہ یہ کہ علمائے اسلام پر کوئی امر عائد کیا جاتا ہے۔ ”بل ان هذا الحزب يعلم ان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد“ اعتراضات ہمیشہ ہر ایک عالم و جاہل دونوں پر ہوتے چلے ہیں۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام اعتراضات سے نہ بچ سکے تو بھلا یہ فرقہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ”وهمت كل امة برسولها لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وماياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤن“ حضور خاتم المرسلین ﷺ کا ظہور ہوا تو چاروں طرف سے جبر و استبداد کی کالی گھٹائیں آپ پر چھا گئیں اور لوگ اذارسانی کو کارثواب سمجھنے لگے اور علمائے یہود و نصاریٰ نے حق سے چشم پوشی کی اور اس تیر اعظم کو تاریک کرنے میں کوشاں ہو گئے۔ کعب بن اشرف، وہب بن راہب اور عبد اللہ بن ابی جیسے لوگ مقابلہ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ آخر یہ مشورہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ”اذ يمكرو بك الذين كفروا وان كان كبر عليك اعراضهم“ غرض کہ مطمح انوار الہیہ کے وقت ایسے واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر علمائے یہود نے کفر و طغیان کا فتویٰ لگا دیا تھا اور مفتی حنان اور قاضی فیافا کے حکم سے آپ کو وہ حالات پیش آئے جو قابل ذکر نہیں ہیں۔ ”الی ان رفعه الله الى السماء“ اگر سلطان حکم دیتے تو میں آپ کی خدمت میں اپنے وہ بیانات تسلی بخش پیش کر دیتا جن سے جناب کو یقین ہو جاتا کہ: ”عنده علم الكتب“ اگر اب بھی علمائے اسلام کی رنجیدگی کا خوف نہ ہوتا تو ایک ایسا مقالہ سپرد قلم کرتا جو موجب اطمینان ہوتا۔ مگر مقتضائے وقت سے قلم کو روک دیا گیا ہے۔ ”سبحنك اللهم يا الهی تحفظ سراج امرک بزجاجة قدرتك لثلاث تمر عليه ارياح الانكار من الذين غفلوا من اسرار اسمك ولا تدعني بين خلق وارفعني اليك واشربني من زلال عنايتك“ حضور! تمام اطراف میں کجروی کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہاں تک کہ میرے اہل و عیال کو قید کر لیا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلا موقعہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے لوگوں نے آل رسول کو قید کر لیا تھا اور جب دمشق پہنچے تو جناب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ کیا تم خارجی ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں ہم تو عباد اللہ ہیں کہ جن کی بدولت ایمان کی سرحد روشن ہوئی ہے۔ ”امنا بالله فراياته“ اور ہماری طفیل دنیا سے ظلمت اٹھ گئی اور روشنی پھیل چکی ہے۔ ”ونحن اصل الامر ومبداه واول خیر ومنتها“ پھر سوال ہوا کہ کیا تم نے قرآن شریف چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ: ”فینا انزلہ الرحمن“ پھر پوچھا گیا کہ کیا تم نے خدا کے حلال و حرام کو تبدیل کر ڈالا تھا؟ تو آپ نے جواب

دیا کہ: ”نحن اول من اتبع اوامر الله“ سب سے پہلے ہم نے ہی تو قرآن کی تابعداری کی تھی۔ آخر یہ پوچھا گیا کہ پھر تم ایسے مصائب میں کیوں گرفتار ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ: ”لحب الله وانقطاعنا عما سواه“ خدا کی محبت اور دنیا سے دل اٹھالینے کی وجہ سے ہم پر مصائب نازل ہو گئے ہیں۔ ہم نے حضور علیہ السلام کا فرمان صرف لفظی رنگ میں پیش نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس کے بحریات میں سے ایک قطرہ پیش کیا تھا۔ تاکہ مردہ دل زندہ ہو جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے جو اس بد بخت قوم سے ہم پر نازل ہوا ہے۔ ”تالله ما ارادت الفساد بل تطهير العباد عما منعهم من التقرب الى الله“ میں تو سو رہا تھا۔ اچانک عنایت الہی نے مجھے جگا دیا۔ ”مرت على نفحات ربي الرحمن وايقظتني من النوم يشهد بذلك سكان جبروته وملكوته واهل مدائن غره ونفسه الحق“ مجھے آلام و مصائب سے کچھ گھبراہٹ نہیں۔ ”قد جعل الله البلاء غادية لهذه السكرة الخضراء وذباله لصباحه الذي به اشرفت الارض والسماء“ جس قدر لوگ مر چکے ہیں۔ ان کو ان کے مال و دولت نے کچھ فائدہ نہیں دیا اور آج مٹی میں مل کر شاہ گدا یکساں ہو گئے ہیں۔ ”تالله لقد رفع الفرق الامن قضي الحق وقضى بالحق . اين العلماء والفضلاء والامراء اين انظادقة رحم واين خزائنهم المستوره وزحار فهم المشهودة وسردهم الموضوعه هيهات صار الكل بورا جعلهم قضاء الله هباء منثورا . فاصبحوا الاترى الا مساكنهم الخاليه . وسقوفهم الخاويه . ايمارى القوم وهم يشهدون . لم ادر فى اى وادى يهيمنون الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله . طوبى لمن قال بلى يارب حان وان . هيهات لا يحصد الامازرع . ولا يوخذ الا ما وضع . هل لنا من العمل ما يزول به العلل . ويقربنا الى مالك العلل . يا ملك انى رايت فى سبيل الله ما لالعين رات ولا اذن سمعت . قد انكرنى المعارف وضاق على المخارف . كم من بلايا نزلت وتنزل قد استهل ومعى . الى ان بل مضجعى تالله راسى تشتاق الرماح فى موجب مولاه وما مروت على شجر الا وقد خاطبه فوادى ماليت قطعت لا سعى وصلب عليك جسدى . فى سبيل ربي بل بمالدى الناس يعمهون . غدا يرون ما ينكرون . سوف نتقل من هذا المتقى الى سجن عكاء ومما يقولون انها اخرب مدن الدنيا واقبها صورة وارداها هواء وانتنها ماء كانها دار حكومة الصدى

ارادوا ان يحبسوا العبد فيها ويسد واعلى وجوهنا ابواب الرخاء تالله  
لوينهكنى اللغب . ويهلكنى السغب ويجعل فرشى من الصخرة الصماء .  
وموانسى وحوش العزاء لا اجزع واصبر كما صبرا ولوا العزم ونوجو من  
الله عتق الرقاب من السلاسل والاعلال . نسال الله ان يجعل هذا البلاء  
الادهم در عاليهكل اوليائه . وبه يحفظهم من سيوف شاهده وقضب نافذه  
هذه سنة قد خلت فى القرون الخاليه . والاعصار الماضيه . فسوف يعلم  
القوم ما لا يفقهونه اليوم الى مشى يركبون مطية الهوى ويهيمون فى هيماء  
الغفلة والغوى اى سرير ما كسر . وائ سرير ما فقر . لو علم الناس ما وراء  
الختام من رحيق رحمة ربهم العزيز العلام لنبذ والملام واسترضوا عن  
الغلام اما الان حجبونى بحجاب الظلام . الذى نسبحوه بايدى الظنون  
والاوهام سوف تشق اليد البيضاء جيبا هذه الليلة الدلاء يومئذ يقول  
العباد ما قالته اللائمات من قبل ليظهر فى الغايات ما بدا فى البدايات .  
يومئذ يقوم الناس من الاجداث . ويسالون عن التراث . طوبى لمن لا تنؤبه  
الاثقال . فى اليوم الذى فيه تمر الجبال . ويحضر الكل للسؤال . فى محضر  
الله المتعال . انه شديد النكال . نسالى الله ان يقدس قلوب بعض العلماء من  
الضعينة والبغضاء . ويصدهم الى مقام لا تقلبهم الدنيا ورياستها عن  
المنظر الى الافق الاعلى . ولا يشغلهم المعاش عن يوم يجعل فيه الجبال  
كالفراش . ولو يفرحون بما رواه علينا من البلاء صنوف ياتى يوم فيه  
يبكون وربى نوحيرت بين ماهم فيه من الغناء وما انا فيه من البلاء لا  
خترت ما انا فيه اليوم“

اہل بنیش جانتے ہیں کہ میں ایک غلام ہوں۔ میرے سر پر ایک بال کے ساتھ لٹکی ہوئی  
تلوار ہے۔ ابھی پڑی کہ پڑی۔ پھر بھی خدا کا شکر گزار ہوں اور دعاء کرتا ہوں کہ سلطان کا سایہ  
دراز ہو کہ مخلص اور موجد بھی اس کی طرف دوڑیں اور اس کو توفیق دے کہ افق اعلیٰ کے قریب ہو اور  
رعایا کو نظر عنایت سے دیکھے اور اسے کجروی سے باز رکھے۔ اپنے حکم کا ناصر بنائے تاکہ لوگوں پر  
بھی ویسا ہی عدل کرے۔ جیسا کہ اپنے اہل قرابت پر کرتا ہے۔ ”انہ لہو المقتدر المتعال  
المہيمن القیوم“

## الواح بہاء

اب جناب بہاء کے اخلاقی احکام لکھے جاتے ہیں جو مختلف الواح سے منتخب کئے گئے ہیں۔ ”عاشروا الادیان بالروح والریحان کل بدء من اللہ ویعود الیہ قد منعتم من الفساد والجدال فی الصحف والا الواح ما رید بہ الاسموکم نسال اللہ ان یمد اولیاءکم ویوفق من حولی علی العمل بما امروا بہ من القلم الا علی انتم جمیعا ثمرة عضن واحد وارواق عضن واحد لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم ان الذی ربیہ ابنہ او ابنا من الابناء کانہ ربی احدا من ابنائی . علیہ بہاء اللہ و عنائتہ . یا اهل البہاء انتم مطالع العنایہ الالہیة لا تلوثوا السانکم بالطعن واللعن واحفظوا عینکم مما لا ینبغی ما عندکم فاعرضوه للناس فان قبلوا فبہا والا فدعوہم ولا تعرضوا بہم لا تكونوا سبب الحزن والغم فضلا عن الفساد دین اللہ ومذہبہ اتحاد اهل الدنیا واتفاقہم لا غیر لا تجعلوہ سببا للاختلاف والنفاق تربیة العالم من اصول اللہ علی الامراء ان یحفظوا هذا المقام . لانہم مظاهر العدل وعلی الملوک ان یطلبوا امر الرعیة تفحصا من عند نفسہم حزبا حزبا لیرتفع الاختلاف من البین لانہم مظاهر القدرة ما یطلبہ هذا العبد انما هو الانصاف . لا تکتفوا بالاصفاء فقط ما ظہر منی فتکفروا فیہ اقسم بشمس البیان لم نجعل مانطقنا بہ محل الشماتة ومفتريات العباد“

## درخواست اہل بصیر

۱۲۵۸ھ میں بہاء معہ اصحاب عکا میں پہنچ گئے اور مرزا یحییٰ مانغوسا میں۔ میں اس کے بعد اہل البصیر باب نے اراکین سلطنت سے درخواست کی کہ سلطان خود بایوں کے حالات دریافت کریں۔ کیونکہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کچھ تو مبالغہ ہے اور کچھ جھوٹ ہے۔ دراصل بایوں کو سیاسیات سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ بلکہ اس مذہب کی بنیاد صرف امور روحانی تحقیق اشارات اور تربیت نفوس پر ہے اور حکومت کا اصول ہے کہ ہر ایک فرقہ کی نگہداشت کرے۔ اس مذہب کی تحریرات جو جناب کو موصول ہو چکی ہیں۔ ان میں بھی منع عن الفساد اور ارشاد الی الطاعة والانقیاد کا حکم موجود ہے۔ اگرچہ حکومت نے عقائد پر قبضہ کرنا چاہا۔ مگر ناکامی رہی۔ بلکہ جس قدر دبایا اور ابھرتے گئے اس لئے حکومت کا فرض ہے کہ دوسری حکومتوں کی طرح یہ بھی بایوں کو آزادی بخشنے۔

کیونکہ جب چھیڑ چھاڑ بند کی جاتی ہے تو ایسے مذہب خود بخود فرو ہو جاتے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے۔ اب تعرض کا موقعہ نہیں رہا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعت کو دیا جائے۔ کیونکہ وہ حفظ امن کے خلاف ہے اور اس جماعت میں سے بھی جو کمینہ پن کرتے ہیں ان کی طرز عمل کو مذہب قرار نہ دیا جائے۔ کیونکہ ہر ایک مذہب و ملت کی مساوات کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ تیس سال گذر چکے ہیں۔ بایوں کو فتنہ و فساد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ بلکہ سکون و انقیاد سے زندگی بسر کرنا اپنا شعار مذہبی بنائے ہوئے ہیں۔ مذہبی مداخلت آئین حکومت کے خلاف ہے۔ جب تک حکومت ایران کا یہ مسلک رہا حکومت ترقی کرتی رہی اور جب سے مذہبی مداخلت شروع ہوئی بڑے بڑے علاقے کلدان، توران اور آشورہ وغیرہ ہاتھ سے نکل گئے۔ اگر فتوے شرعیہ کا یہ مقتضاء ہو تو موجودہ دوسرے مذہبی فرقے (مشرعہ، نصیریہ، شیخیہ، صوفیہ اور ساترہ وغیرہ) کا اخراج بھی ضروری ہوگا۔ ورنہ آج فتاویٰ شرعیہ پر حکومت نہیں چل سکتی۔ حکومت برطانیہ جو صرف شمالی حصہ میں قائم تھی آج دنیا کے ۵/۱ پر حکومت کر رہی ہے۔ کیونکہ اس نے مساوات مذہبی کو قائم رکھا ہے اور مداخلت مذہبی کو خلاف حکومت سمجھتی ہے۔ آج ہندوستان بھی اس حکومت پر مفتخر ہے اور عدل و انصاف کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے۔ متوسط زمانہ میں (جو حکومت روما کے تنزل سے شروع ہو کر فتح اسلام قسطنطنیہ تک ختم ہوتا ہے) یورپ میں بھی علمائے مذہب کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور رہی ہے تو دنیا کو چین نصیب نہیں ہوا اور جب مذہبی حکومت اٹھ گئی تو دنیا کو آرام حاصل ہو گیا اور ہر ایک مذہبی جماعت امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب یہ حال ہے کہ ایشیاء کی بڑی سے بڑی حکومت بھی یورپ کی چھوٹی سے چھوٹی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ (وجدان انسانی) اور مذہبی نکتہ نگاہ ایک ایسا امر مقدس ہے کہ جس قدر اس کو وسعت اور آزادی دی جاتی ہے۔ حکومت ترقی پذیر ہوتی ہے اور جس قدر اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی قدر حکومت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کیونکہ مذہب خدا کی امانت ہے۔ اس پر انسان کا دخل نہیں اور دل اور روح خدا کے قبضہ میں ہیں۔ حکومت کے قبضہ میں نہیں آسکتے اور نکتہ خیال ہر ایک کا الگ ہوتا ہے۔ کوئی دو شخص بھی آپس میں متحد الحیال نہیں پائے جاسکتے۔ ”لکل جعلنا منسکا“ حکومت نے جس قدر بائبل مذہب کے خلاف ہمت خرچ کی ہے۔ اگر وہ اصلاح حکومت میں خرچ ہوتی تو آج ایران سب پر ممتاز ہوتا۔

حکومت کا رویہ

(درخواست بہاء اللہ اور درخواست بصیر کے بعد) حکومت ایران نے خود حالات کی

پڑتال شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ تمام شکایات و جاہت طلبی اور مذہبی عداوت یا ذاتی مفاد پر مبنی تھیں۔ اس لئے حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کر دیا اور جو مظالم باہیوں پر ڈھائے جاتے تھے یکدم بند کر دیئے گئے۔ ورنہ اس سے پیشتر بارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ دو بھائی طباطبائی خاندان کے سید حسن اور حسین نامی اصفہان میں کمال دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور ملا محمد حسین خطیب جامع مسجد اصفہان سے ان کا لین دین تھا۔

## قتل حسنین

جب حسابات کی پڑتال ہوئی تو خطیب کی طرف اٹھارہ ہزار روپے کی رقم نکلی۔ چیک سر بمبر لکھ دینے کو کہا گیا تو خطیب نے برا منایا اور اپنے بچاؤ کے لئے لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ دونوں تاجر بانی مذہب کے پیرو ہیں۔ اس لئے واجب التعزیر اور مستوجب غارت ہیں۔ اس لئے لوگوں نے ان کا باقی مال بھی لوٹ لیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں سلطان تک یہ شکایت نہ پہنچ جائے۔ خطیب نے تمام علمائے اسلام سے فتویٰ حاصل کر کے دونوں کو قتل کروا دیا۔ وہ دونوں بھائی بھی اپنے وجدانیت پر ایسے قائم رہے کہ ہر چند ان سے کہا گیا کہ صرف اتنا کہہ دو کہ: ”لسنا من هذه الطائفة“ ہم بانی نہیں ہیں تو تم کو رہا کر دیا جائے گا۔ مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور ایسے برے طریق سے ان کا قتل وقوع پذیر ہوا کہ غیر مذاہب بھی چونک اٹھے۔ مگر اس وقت حکومت ایران میں کسی کو ایسے واقعات پیدا کرنے کی جرأت باقی نہیں رہی۔

”الحمد لله على ذلك فرغ من كتابته كاتبه المسكين حرف الزاء ليلة الجمعة ١٨ شهر جمادى الاولى ١٣٠٧ هـ“

## رباعیات نکتۃ الکاف

اس کتاب کا انتخاب پہلے درج ہو چکا ہے۔ اب ہم وہ اصول درج کرتے ہیں کہ بہائیوں کے نزدیک جن کے اجزاء چار چار ہیں اور نقطۃ الکاف نے کتاب کے شروع میں لکھے ہیں۔

..... ۱ ”اعداد: احاد (فی الناسوت) عشرات (فی الملكوت) مئات (فی

الجبروت) الوف (فی لللاهوت)“

..... ۲ ”مراتب القلم: مشيئة (مقام نار) اراده (مقام هوا) قدر (جهة

ماء) قضاء (عنصر تراب)“

”مراتب خلق: العلقة والمضغه العظام العروق والاعصاب اللحم والجلد“

ظہورات نبوت: آدم و نوح، ابراہیم و داؤد، موسیٰ و عیسیٰ، محمد ﷺ

انہار اربعہ: اول نہر رسالت متعلقہ بحجت رسول رکن بیضاء مقام او در جنت درہ بیضاء رنگ سپید از زہر قاتل۔ دوم نہر ولایت مقام او در جنت زبرجد لباس زرد رنگ زرد، از زہر الشمشیر عبدالرحمن بن ملجم۔ سوم نہر حسن مقام او در جنت زمرد، لباس سبز رنگ سبز، از زہر۔ چہارم نہر حسنی مقام او یا قوت لباس سرخ، رنگ سرخ، از خون شہادت۔

قیامت: اصغر (قیامت ملک) صغیر (قیامت ملکوت) کبیر (قیامت جبروت) اکبر (قیامت لاہوت)

اسفار اربعہ: ”من الخلق الى الحق . فى الحق بالحق من الحق الى الحق . فى الخلق بالحق“

اہل باطن: اہل فواد اہل عقل اور اہل نفوس طیبہ

اہل ظاہر: متصرف بعلویات متصرف بالحووان، متصرف بالنبات، متصرف بالجمادات۔

لوازم نبوت: عدم دعویٰ محال، اظہار آیت، اقتران آیت با دعاء، آیت از صنف ادعاء عدم زادع۔

تردید رب سامریہ: لم یرہ الا النبی اعطى المعجزتين . ظهور عصمة موسیٰ تعلیم بداء

فتنة ابراهيم: معرفت الہیہ القاء فی النار، ذبح اسماعیل، فتنة مال کہ ملائکہ خواستند

ارکان اربعہ: کلمة توحید، اقرار نبوت، اقرار ولایت و امامت، اقرار بلا بواب الاربعہ

مقام فنا: در فوآد، در عقل، در نفس، در جسم۔

چہار فرقہ: حکما و اخباری عرفا و علمائے اصول شیخیہ و علمائے فقہ، بالاسری و الشرقی۔

۱۶..... ضرب اول: کہ احاد است دریں چہار ملک یک سال ناسوت در لاہوت ہزار سال  
میشود و ضرب دوم دہ ہزار و ضرب سوم صد ہزار سال و ضرب چہارم ہزار ہزار، چونکہ ہر  
ملکہ رادود و آسمان (غیب و شہادت) سے باشد ازیں جہت آسمان ہشت شد، ازیں  
در ضرب دوم ہر آسمانی دو ہزار سے سے باشد و ہفت آسمان ہفتاد ہزار، و اینکہ وارد دست  
کہ غلظت ہر آسمان و مابین ہر یک پانصد ہزار سال است، ہر گاہ چہار ملک بگیرید  
در ضرب دوم سے شود، و ہر گاہ ہشت فلک مراد باشد، در ضرب چہارم محسوب میگردد،  
معنی آنکہ یوم قیامت پنجاہ ہزار سال است بالیست دریں ملک قیامت واقع شود و پنج  
سال ناسوتی قیام نماید کہ ہر سال در ضرب اول ہزار شد و در ضرب دوم دہ ہزار۔ لہذا پنج  
سال پنجاہ ہزار سال لاہوت سے باشد و بالیست کہ یوم اللہ در ملک ملکوت ظاہر شود و  
در ناسوت در ہیکل شیعہ ظاہر گردد۔

۱۷..... دو ہزار سال تک زمین خالی رہی۔ پھر دو ہزار سال تک پانی اور اس کے مخلوقات رہی۔  
پھر نباتات (نے زار) کا زمانہ دو ہزار سال تک رہا۔ پھر حیوانات کا زمانہ دو ہزار سال  
رہا۔ جس میں چار پاؤں کا بادشاہ گھوڑا تھا اور پرندوں کا گدھ۔ پھر دو ہزار سال تک  
فرشتے رہے اور خلق آدم کا مشورہ ہوتا رہا۔ پھر جان بن جان کا زمانہ آیا جس میں  
عزازیل معلم المملکت بنا۔ اخیر میں ظہور الہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سجدہ کا حکم  
ہوا۔ مگر عزازیل نے کہا کہ خدا کا فیض بند ہو چکا ہے۔ اس لئے سجدہ نہ کیا۔

۱۸..... اس دور بدیع کا ظہور اول آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کا یہ نام اس لئے پڑا کہ اس سے  
پہلے غیر متناہی دور گذر چکے تھے۔ جیسا کہ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلہ  
پر آواز دی تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے ہزاروں موسیٰ ہو گزرے  
ہیں۔ جن کی تعداد اسی ٹیلہ کی ریت کے دانوں سے بھی زائد ہے اور جن کی آواز بھی  
آپ کی آواز جیسی تھی۔

## بہائی مذہب کے مزید حالات

عبدالبہاء عباس آفندی

جناب بہاء اللہ کے صاحبزادے عبدالبہاء یوم جمعہ کو طہران میں ۲۳ مئی ۱۸۴۴ء مطابق  
کیم محرم الحرام ۱۲۶۰ھ نصف رات کو پیدا ہوئے اور اسی روز جناب باب نے مہدی ہونے کا دعویٰ



کیا تھا۔ جب بہاء اللہ بغداد گئے تو یہ صاحبزادہ آپ کے ہمراہ تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف آٹھ سال تھی اور جب بہاء اللہ جبل سلیمان سے بغداد کو واپس آئے تو پھر بھی یہ آپ کے ہمراہ تھا اور اس وقت اس کی عمر بارہ سال تھی۔ مگر آتے ہی بڑے بڑے اہل علم کو نینچا دکھلانے لگا اور فخر یہ کہتا تھا کہ مجھے سب کچھ اپنے باپ کے طفیل حاصل ہوا ہے۔ ورنہ میں نے مکتب میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس لئے اس کا نام شاب حکیم رکھا گیا اور حسن و جمال کی رو سے بھی نوجوانان بغداد میں ممتاز تھا۔ گیارہ سال کے بعد حکومت ترکیہ نے جب آپ کو استنبول بلا لیا تو اس وقت بھی یہ صاحبزادہ آپ کے ہمراہ رہا۔ استنبول سے پانچ ماہ کے بعد آپ کو اور نہ جانے کا حکم ہوا تو یہ صاحبزادہ آپ کے ہمراہ تھا اور وہاں پانچ سال محبوس رہے۔ عکا کی جلاوطنی میں بھی عبدالبہاء ساتھ ہی رہے اور چونکہ آپ بہت سخی مشہور ہو چکے تھے۔ اس لئے آپ کا لقب سرکار آقا پڑ گیا تھا۔ آپ باپ کی خدمت میں آخری دم تک حاضر رہے۔ یہاں تک کہ بہاء اللہ ۷۵ سال کی عمر میں ۱۸۹۲ء کو وفات پا گئے۔ عکا میں جب کچھ عرصہ گذر گیا تو حکومت نے خاص خاص حدود میں نظر بند کر کے بیڑیاں اٹھالی تھیں اور بستان بھی آپ کی رہائش تھی اور عبدالبہاء کڑا کے کی گرمی میں بھی پیدل چل کر آپ کی حاضری سے مشرف ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ سواری کیوں نہیں خرید لیتے تو جواب میں کہا کہ جب مسیح بہاء اللہ پیدل سفر کرتے ہیں تو کیا میں ان سے افضل ہوں کہ سواری پر سفر کروں؟ آپ گو خاندانی امیر تھے۔ مگر حکومت نے آپ کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ مگر تاہم پانچ پانچ سو تک فقراء پر روپے تقسیم کیا کرتے تھے اور آپ اپنے باپ کی خدمت میں پچاس سال کی عمر تک شریک مصائب رہے۔ (کوکب ۲۵ نومبر ۱۹۲۵ء) خلاصہ یہ ہے کہ بہاء اللہ ۱۸۶۸ء میں عکا کو روانہ کیا گیا تھا اور عبدالبہاء عباس آفندی نے باپ کی وفات کے بعد گدی نشین ہو کر تبلیغ شروع کردی تو حکومت نے آپ کو بھی وہیں نظر بند کر دیا اور ۱۹۰۸ء جب کہ آپ کی عمر چونٹھ سال ہو چکی تھی رہا کر دیا تو امریکہ و یورپ کا سفر تین سال تک سرانجام دیا اور ۱۹۲۱ء میں وفات پائی۔

### شوقی آفندی

آپ کے بعد شوقی آفندی گدی نشین قرار دیئے گئے جو جناب عبدالبہاء کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اسی سال کے عرصہ میں بیس ہزار بابی قتل ہوا۔ (شمشیر آبدار سے نشتر یا راہ سے گرم پانی یا آگ سے) اور ۱۹۲۳ء میں شیخ عبدالمجید ملقب بصدیق العلماء قتل ہوئے اور آپ کے ہمراہ ایک امریکہ کا سفیر بھی قتل ہوا جو بہائی خیال کر لیا گیا تھا۔ اس وقت مذہب بہائیت کی نشر و اشاعت کے لئے گیارہ رسائل جاری

ہیں۔ شار آف دی ویسٹ، نجم باختر، ورلڈ فیلوشپ گارڈن امریکہ، خورشید خاور روس، شمس حقیقت جرمنی، حقیقت جرمنی، نجم خاور جاپان، ہیرلڈ آف دی ریسٹ کانپور، دی ڈان رنگون، الا شراق رنگون، کوکب دہلی، (کوکب ۹ فروری ۱۹۲۵ء)

بہاؤ اللہ

مرزا حسین علی صاحب نوری (منسوب بقریہ نور) ۱۸۱۷ء کو طہران میں پیدا ہوئے اور ۱۸۴۴ء میں جناب باب سے تعلق پیدا کیا۔ اپنے شیخ کی وفات کے بعد ادرنہ میں اپنا دعویٰ کر دیا اور سلاطین یورپ کو تبلیغی خطوط روانہ کئے۔ جو بابی آپ کے تابع ہوئے بہائی کہلائے اور ۲۹ مئی ۱۸۹۳ء کو وفات پائی اور آپ کا بڑا بیٹا عبدالہیاء عباس آفندی گدی نشین ہوا۔ یہودی مسیح کے منتظر تھے۔ عیسائی مسیح کے ظہور ثانی کے لئے چشم براہ تھے۔ اہل اسلام کو اپنے موعود کا انتظار تھا۔ بدھ مذہب کے پیرو پانچویں بدھ کے منتظر تھے۔ زرتشت کی امت شاہ بہرام کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ہندو کہتے تھے کہ کرشن دوم آنے والا ہے اور دہریہ خیر النظام کے اور بہترین انتظام کے منتظر تھے۔ اس لئے جناب بہاء نے تمام مذاہب کو دعوت اتحادیہ کی تعلیم دی اور دو کتابیں لکھیں۔ کتاب اقدس اور کتاب مبین بہت سی الواح بھی ہیں۔ جو لکھ کر بادشاہوں کو روانہ کی تھیں۔ جو لوگ عبادات پر عامل رہیں وہ بہائی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس مذہب کا دار و مدار کام پر ہے۔ اس لئے بچوں کی تعلیم ضروری ہے اور نکاح بھی ضروری ہو اور ہر ایک ملک کے لئے اپنا اپنا رسم و رواج اور فقہی ذخیرہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ ورنہ بیت العدل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ سلاطین کا احترام فرض ہے۔ کوشش کی جائے کہ ساری دنیا کی ایک زبان ہو جائے۔ جہاد اور بحث و مباحثہ ختم کرنا ضروری ہے۔ (کوکب ۲۵ اپریل ۱۹۲۵ء) یکم محرم الحرام ۱۳۶۰ھ (۲۳ مئی ۱۸۴۳ء) کو سید علی محمد شیرازی پچیس برس کے تھے۔ کیانی خاندان وزارت کے ممتاز فرد بہاء اللہ ستائیس برس کے تھے اور عبدالہیاء عباس آفندی اس روز پیدا ہوئے تھے۔ اسی روز سید علی محمد باب نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود اور قائم آل محمد ہوں اور ”من یشہد اللہ“ کا مبشر ہوں اور ۱۸۵۰ء میں اسی میدان میں قتل کئے گئے جو پہلے سے ہی میدان صاحب الزمان کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جناب بہاء اللہ نے اس مذہب کی دعوت دی تو اس قدر زنجیروں میں جکڑے گئے کہ ان کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ چار سو گاؤں جاگیر تھے۔ حکومت نے سب پر قبضہ کر لیا اور عوام الناس نے گھر کا تمام اثاثہ لوٹ لیا اور چار ماہ تک محبوس رہے۔ پھر معہ اہل و عیال اور نوکر چاکروں کے بغداد بھیجے گئے۔ وہاں بارہ سال رہے۔ اس عرصہ میں روپوش ہو کر دو سال برقعہ پوش ہو کر جبل کردستان میں

عبادت گزار رہے اور چند ماہ بعد ادرنہ کو جلاوطن ہوئے۔ وہاں اعلان کیا کہ باب نے جس کی بشارت دی تھی۔ وہ میں ہی ہوں۔ اب بابی بہائی بن گئے اور عکا کے قلعہ میں روانہ کئے گئے اور وہاں قصر البجۃ میں نظر بند رہے اور ۱۸۹۲ء میں آپ کی وفات ہوئی۔ عبدالہباء نے ۱۹۰۸ء میں رہائی پا کر امریکہ میں آپ کا مذہب پہنچایا اور ۱۹۲۱ء میں وفات پائی۔ آپ کی یہ تعلیم تھی کہ ترک تقلید کرتے ہوئے تمام مذاہب سے آزاد ہو اور اصل حقیقت کی تلاش میں رہو۔ تاکہ تم پر منکشف ہو جائے کہ سب ادیان اور مذاہب ایک ہی ہیں۔ اخوت عامہ، صلح عمومی، محبت نوعیہ، تعلیم عمومی، وجوب اکتساب المال "لقولہ تعالیٰ جعلنا اشتغالک بالامور نفس العبادۃ للہ" وحدۃ اللسان، مجلس الاقوام (کوکب ۹ فروری ۱۹۲۵ء) سلطان پر گولی چلانے کا واقعہ بغداد کو جلاوطن ہونے سے پہلے واقع ہوا تھا۔ دو سال کی روپوشی کے بعد پھر بغداد میں آٹھ سال قیام کیا۔ پھر قسطنطنیہ کو ۱۸۶۳ء میں روانہ ہوئے اور ادرنہ کے بعد عکا میں جس دوام کے لئے بھیجے گئے۔ جہاں چوبیس سال نظر بند رہے اور اسی نظر بندی میں الواح سلاطین نازل ہوئیں۔ جو سلطان ایران، نپولین ثالث، سلطان فرانس، ملکہ وکٹوریہ، زار روس، پوپ روم، صدر ممالک امریکہ کو روانہ کی گئیں۔ آخری عمر میں عکا سے نکل کر چارمیل کے فاصلہ پر قصر بھجت کے مقام پر جبل کرمل کے قریب دو سال تک قیام کیا۔ ۷۵ برس میں ۱۸۹۳ء کو وفات پائی۔ (کوکب ۲۰ اگست ۱۹۲۰ء) کوکب کنوئس نمبر ۵ میں ہے کہ علی محمد تاجر پشمینہ کے بیٹے تھے۔ ۳ اکتوبر ۱۸۱۹ء کو شیراز میں پیدا ہوئے اور ۱۸۴۴ء، ۱۲۶۰ھ میں ۲۵ برس کی عمر میں باب الوصول الی معرفۃ اللہ کا دعویٰ کیا۔ مکہ شریف میں حجاج کے سامنے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ میں قائم بامر اللہ ہوں۔ جب بوشہر واپس آئے تو ایران میں تہلکہ مچ گیا اور حکومت نے آپ کو قید کر لیا اور تبریز میں ۱۸۵۰ء کو شہادت پائی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی۔ عبادۃ الہی، تخلیق بمکارم اخلاق، مساوات زن و مرد در حقوق وغیرہ اپنی وفات سے پہلے نو سال کہا کہ: "من یظہر اللہ" آتے ہیں۔ ۱۸۵۲ء میں بیس ہزار بابی مارے گئے۔ مرزا حسین علی خاندان وزارت طہران کا بہترین فرزند طہران میں ۱۸۱۷ء کو پیدا ہوا۔ باپ دادا وزیر تھے۔ باب کی طرح آپ کو بھی عطائی علم تھا۔ ۲۷ برس کی عمر میں باب سے بیعت کی اور قید ہوا۔ پھر چار ماہ کے بعد بغداد گیا اور وہاں گیارہ برس رہا اور جب قسطنطنیہ کو سفر کیا تو بغداد سے بارہ دن کے فاصلہ پر نجیب پاشا کے باغ میں اپنے بیٹے اور مریدوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں من ظہر اللہ ہوں۔ جس کی بشارت باب اور انبیاء سابقین نے دی ہے اور کہا ہے کہ زمین پر حکومت الہی قائم کرے گا۔ ابھی قسطنطنیہ میں پانچ ہی ماہ قیام کیا تھا کہ ادرنہ کو جلاوطنی کا حکم آ گیا۔ جہاں

صرف یہود و نصاریٰ رہتے تھے اور وہاں تین سال قیام کیا اور ۱۸۶۶ء، ۱۸۶۹ء کے درمیانی عرصہ میں سلاطین عالم کو تبلیغی خطوط روانہ کئے۔ جن میں دعویٰ کیا کہ مجھ میں خدا ظاہر ہوا ہے۔ ملکہ و کٹوریہ نے جواب دیا کہ اگر تم خدا کے مظہر ہو تو دیر تک قائم رہو گے۔ ورنہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جواب الجواب میں آپ نے لکھا کہ تم دیر تک حکومت کرو گی۔ زار روس نے آپ کے خط کی عزت کی۔ پوپ نے برا منایا۔ آپ نے لوح ثانی لکھ کر روانہ کی کہ بہت جلد تم کو رسوائی ہو گی تو فرانس و جرمن کی جنگ میں ملک عمانو آئیل نے اس کو قلعہ میں قید کر دیا۔ شاہ جرمن فریڈرک تھرڈ جب ملک شام میں آیا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ اثناء میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ باوجودیکہ آپ نے اسے بلا بھی بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو حکومت نہ ملے گی۔ چنانچہ جب اس کی تاج پوشی ہوئی تو قریب الموت تھا اور ایک روز بھی حکومت نہ کر سکا۔ نپولین ثالث سلطان فرانس نے جواب میں کہا کہ اگر تم ایک خدا کے مظہر ہو تو ہم دو خداؤں کے مظہر ہیں اور میں خود خدا ہوں تو آپ نے لوح ثانی میں اس کو جواب دیا کہ تم اپنے وطن سے باہر مرو گے اور بہت جلد حکومت سے محروم کئے جاؤ گے تو جب فرانس و جرمن میں ۱۸۷۰ء کو لڑائی ہوئی تو حکومت جمہوریہ قائم کی گئی اور نپولین کو انگلستان میں پناہ ملی اور وہیں مرا۔ ۱۸۶۸ء میں بہاء اللہ کو عکہ میں جلا وطن کیا گیا۔ جہاں کی آب و ہوا ناموافق تھی اور آپ کے ساتھی آپ کے ہمراہ دو کوٹھریوں میں دو سال تک نہایت کم خوراک پر گزارہ کرتے رہے۔ پھر آپ کے لئے بڑا وسیع مکان بنایا گیا اور حکم ہوا کہ تم عکہ کے آس پاس سیر کر سکتے ہو تو قصر بھجت میں ۲۹ مئی ۱۸۹۲ء کو وفات پائی اور تحریر و تقریر میں اپنے بیٹے عبدالبہاء کو خلیفہ بنا دیا تھا۔

عبدالبہاء کی شخصیت

آپ وہ ہیں کہ جس کے متعلق عیسائیوں کا خیال تھا کہ اپنے باپ کے جلال میں ظاہر ہوگا۔ زبور ۳۸، ۷۹ میں ہے کہ: ”انہ یدعونى اباہ واجعله ابنا واحدا“ اور زکریا ۱۶، ۱۲ میں ہے کہ: ”ذالك الذی اسمه غصن یملك ارض اللہ ویکهن“ زبور ۶۱، ۱۲ میں ہے کہ: ”انى اجلسك سلطانى على جبل صیہون (کرمل)“ اور عبدالبہاء نے اپنے مقاصد میں کامیابی پا کر یہود و نصاریٰ زرتشتی اور مسلمانوں کو ایک دسترخوان پر جمع کر دیا۔ عکہ میں جب بابلی موسیٰ بخار سے بیمار ہوئے تو آپ ہی ان کی تیمارداری کرتے تھے۔ (اس وقت بابیوں کی تعداد ستر تھی) ترکوں نے آپ کو وہیں قید رکھا۔ مگر ۱۹۰۸ء میں آپ کو رہا کر دیا تو آپ نے ۱۹۱۰ء میں عکا چھوڑ دیا اور یہاں آپ چالیس برس قید رہے تھے۔ رہائی کے بعد آپ مصر آئے اور دس ماہ تک

وہاں قیام کیا۔ پھر سویزر لینڈ، امریکہ اور فرانس کا سفر کر کے اسکندریہ کو واپس تشریف لے گئے۔  
قرۃ العین

نکتہ الکاف میں لکھا جا چکا ہے کہ واقعہ بدشت کے بعد زرین تاج قرۃ العین کو شہر نور میں بھیج دیا گیا تھا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے تبلیغ اس سرگرمی سے شروع کر دی کہ علمائے اسلام کو شاہی امداد لینی پڑی۔ چنانچہ وہاں فریقین میں سخت لڑائی ہوئی اور قرۃ العین گرفتار ہو کر سلطان ناصر الدین قاچار کے سامنے حاضر کی گئی۔ مگر جب اس نے شاہی دربار میں ایک تبلیغی خطبہ دیا اور اپنے حسن و جمال کا جلوہ دکھایا تو سلطان نے بے ساختہ کہہ دیا کہ: ”اس را مکتید کہ طلعتی زیبا دارد“ اسے قتل نہ کرنا۔ کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مگر اس کو محتسب بلدہ محمد خان کے پاس نظر بند کر دیا گیا اور وہ بدستور تبلیغ میں مصروف رہی اور بانی لگاتار آتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد محتسب نے کہا کہ اگر تم اپنے پیرومرشد باب کو ایک ہی دفعہ برا کہہ دو تو میں ابھی تم کو نجات دلا سکتا ہوں۔ مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں پیش کی گئی تو جاتے ہی تبلیغی خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جس میں اپنے تمام عقائد کا خاکہ کھینچ کر سامنے رکھ دیا کہ مشیت اولی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ تمام انبیاء میں ظاہر ہوتی رہی اور آج میں اسے باب کے چہرہ میں دیکھ رہی ہوں۔ اس پر سلطان نے قتل کا حکم جاری کر دیا تو اخیر اگست ۱۸۵۲ء میں قتل کر کے بتان ایلخانی میں ایک ویران کنوئیں کے اندر اس کی لاش پھینک دی گئی اور اوپر اس قدر پتھر پھینکے گئے کہ لاش پتھروں میں دب گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کا قتل یوں وقوع میں آیا کہ مرنے کے لئے دیدہ زیب لباس میں ایک باغ میں لائی گئی تھی تو اس کی زلفیں خجر کے دم سے باندھ کر خجر کو دوڑایا گیا تھا۔ مگر کوکب ہند ۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء میں لکھا ہے کہ اس کو گلا گھونٹ کے مار ڈالا گیا تھا۔ قرۃ العین کی ادبی لیاقت کے چند اشعار ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مدعی بروز محمدی نبی قادیان کی ادبی لیاقت مدعی بروز قاطمہ قرۃ العین طاہرہ قزوینی کے سامنے کوہ واکہ کا وزن رکھتی ہے۔

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک

روایت ہے کہ ذیل کے اشعار میں قرۃ العین نے اپنے شیخ باب کو حضور علیہ السلام پر ترجیح دے کر جب سلطان کے سامنے تبلیغی خطبہ دیا تھا تو سلطان کو اسلامی غیرت نے آپے سے باہر کر دیا تھا اور فوراً حکم دے دیا تھا کہ اسے مار ڈالو۔ بڑی گستاخ ہے بہر حال وہ اشعار تین قصیدوں کی شکل میں ہدیہ ناظرین ہیں۔ تاکہ ان کو قادیانی اور ایرانی ادبیت کے توازن میں آسانی ہو۔

## قصیدہ اول مشتمل بر در خواست رحم و اظہار شان باب

جذبات شوک الحمت بسلاسل الغم والبلا  
لمعات وجہک اشرف شعاع وجہک اعتلا  
اگر آں صنم ز سرم پئے کشتن من بیگناہ  
تو کہ غافل از مئے شاہدی پئے مرد عابد و زاہدی  
تو و ملک و جاہ سکندری، من و رسم و راہ قلندری  
بجواب طبل الست تو زولا چوکوس بلی زدند  
چہ شود کہ آتش حیرتے زنی ام بقلہ طور دل  
پئے خوان دعوت عشق او ہمہ شب زخیل کرویاں  
بلہ اے گروہ اما میان بکشید لولہ رامیاں  
گرتاں بود طمع بقادر تاج بود ہوس لقا  
طلعت ز قدس بشارتے کہ ظہور حق شدہ بر ملا  
ط اے طوائف منتظر ز عنایت شہ مقدر  
دو ہزار احمد مجتبیٰ ز بروق آں شہ اصفیاء

تو کہ فلس ماہیے حیرتی چہ زنی ز بحر وجودم

بنشیں چو طاہرہ دمبدم بشنو خروش نہنگ لا

## قصیدہ طاہرہ دوم

طلعات قدس بشارتی کہ جمال حق شدہ بر ملا  
شدہ طلعت صدی عیاں کہ پیا کند علم بیاں  
بسریر عزت و فخر شان بنشستہ آں شہ بے نشان  
چو کسی طریق مرارود کنمش ندا کہ خبر شود  
کسی ار کرد اطاعتم گرفت جبل ولایتیم  
صدم ز عالم سر دم احدم ز منج او صدم  
قبسات نار مشتی نادت الست برکم  
منم آں ظہور مہیننی منم آں نیت بے منی  
شجر مرقع جاں منم ثمر عیان و نہاں منم

بزن اے صبا تو بسا ہنس بگروہ غمزدگان صلا  
ز گمان دو ہم جہانیاں جبروت اقدس اعتلا  
بزد آں صلا بیلا کشاں کہ گروہ مدی الولا  
کہ ہر آنکہ عاشق من شود بزد ز محنت و ابتلا  
کنمش بجز ساحتیم ہمیش جہم بیلا د لا  
پئے اہل اقصہ آدم لبم الینا مقبلا  
بگذر بساحت قدسیاں بشنو صفر بلی بلی  
منم آں سفینہ ایمنی ولقد ظہرت بجلجلا  
ملک الملوک جہاں منم ولی البیان وقد علا

سروجاں کئید نثار من کہ منم شہنشاہ کربلا  
 رفع القناع وقد کشف ظلم اللیال قد انجلی  
 بد مید شمس بدے غرب بدوید الیہ مہرولا  
 ظہران روح زشطرها ولقد علا وقد اعتلا  
 دیک الضیاء تذورقت متجمل متجمل  
 شدہ آہہ ہمہ والہہ بتغیبات یلی یلی  
 منظر است بہرہ دویزار وادی کربلا  
 دوہزار فرقہ وسلسلہ متفرقا متسلسلا  
 ہمہ دلبران یقائیش متولہا متزللا  
 صعق الحمود تلکلیبت بلقاء متجمل  
 دول جلال زسطوش متخعا متزللا  
 بتراب مقدم راہ او شدہ خون من متبللا  
 شدہ روح بیکل جسمیان متخفا متخللا  
 کہ رسانیم تو بکوے خود مترعا متجمل  
 بنشاط وقہبہ شد فرد کہ انا الشہید بکر بلا  
 فمشی الی مہرولا و یلی علی مجمل  
 واذا رایت جمالہ طلع الصباح کانما  
 شدہ ناقہ بہمہ ختن شدہ کافری بہمہ خطا  
 ہمہ عمر منکر مطلق زفقیر فارغ بے نوا  
 فاذا فعلت بمثل ذا فلقد بلغت بما تاشا  
 زغمت بہ سینہ کم آتشی کہ نہ زد زبانہ کما تاشا  
 بگرہ کشائی زلف خود کہ زکار من گرہے کشا

شہدائے طلعت نار من بدوید سوسے دیار من  
 بزیند نغمہ زہر طرف کہ زوجہ ما طلعت ما عرف  
 برسید باسپہ طرب صنمی عجم صدی عرب  
 فوران نار زارض فانوران نورز شہر طا  
 طیرا العماء تکلفقت ورق البہاء تصنفت  
 زظہور آں شہ آہہ زالست آں مہ مآلہ  
 بتموج آمدہ آں یسے کہ بکر بلاش بحرے  
 زکمان آں رخ پرولہ، زکند آں مہ دہ ولہ  
 ہمہ موسیاں عمایش ہمہ عسیان سمایش  
 بحر الوجود تموجت لعل الشہود تولجت  
 تلل جمال زطلعتش قلل جبال زرقتش  
 ولم از دوزلف سیاہ اوز فراق روی چوماہ او  
 زغم توای مہ مہریاں زفراقت ای شد دلبران  
 تو دآں تشعشع روئے خود تو دآں طبع موئے خود  
 من و عشق آں مہ خوب رو کہ چوز و صلاے یلی براد  
 چوشیند نلہ سرگ من پے ساز من شد و برگ من  
 سحر آن نگار ستمگرم قدم نہاد یہ بستر م  
 زچہ چشم فتنہ شعار اوز چہ زلف عالیہ بار او  
 بمراد زلف معلق بے اسب وزین مغرقی  
 بگذر ز منزل ما و من بگریں بملک فنا وطن  
 فحیات وصلک اوقدت حرات شوکک فے الحشا  
 چونک زلف تو پر شمنن گرہے فادہ بکار من

ہمہ اہل مسجد و صومعہ پے ورود صبح و دعائے شب  
 من و ذکر طہرہ و طلعت تو من الغداۃ الی العشا

قصہ یہ طاہرہ سوم

مستلم اظہار اشتیاق زیارت باب کیونکہ اس کو مدت سے شیخ کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔

گر بتو اقدم نظر چہرہ بچہرہ روبرو شرح وہم غم ترا نکتہ بکتہ موبہو  
 از پے دیدن رخت بچو صبا فادہ ام خانہ بخانہ در بدر کوچہ بکوچہ کو بکو  
 دور دہان تنگ تو عارض عنبریں نطت غنچہ بغنچہ گل بگل لالہ بلالہ بو بو  
 میروداز فراق تو خون دل ازد دیدہ ام دجلہ بدجلہ یم نیم چشمہ بچشمہ جو بجو  
 مہر ترا دل ضریں بانفہ برقاش جان رشتہ برشتہ نخ نخ تار بتار پوپو  
 دردل خویش طاہرہ گشت و نیافت جز ترا  
 صفحہ بصفحہ لا بلا پردہ پردہ تو بتو

- یہ قصیدہ بھی چونکہ آمد کا بہترین نمونہ ہے اس لئے اس کا ترجمہ کر دینا بھی مناسب ہے کہ:
- .....۱ اے باب اگر میری نظر تیرے چہرہ پر پڑے اور ہم روبرو ہو کر ملاقات کریں تو میں اپنے غم کی تفصیل ذرہ ذرہ اور بال بال کر کے بتا دوں۔
- .....۲ آپ کا چہرہ دیکھنے کو باد صبا کی طرح در بدر کوچہ کوچہ اور خانہ بخانہ پھر رہی ہوں۔
- .....۳ آپ کا تنگ حلقہ دار منہ غنچہ پر غنچہ نظر آ رہا ہے اور آپ کے رخسار گل لالہ نظر آ رہے ہیں اور آپ کے رخسار پر خط عنبریں (یعنی معطر ریش مبارک) خوشبو پر خوشبو دے رہا ہے۔
- .....۴ آپ کے فراق میں میرا خون دل دونوں آنکھ سے اس کثرت سے جاری ہے کہ گویا دجلہ پر دجلہ ہے۔ یا ندی پر ندی اور یا چشمہ پر چشمہ۔
- .....۵ میری دکھیا جان نے اپنے دل پر آپ کا عشق اور محبت تار تار تہ بتہ پلیٹ رکھا ہے۔
- .....۶ طاہرہ نے اپنے دل پر پردہ پردہ اور کٹڑہ کٹڑہ ٹول ڈالا۔ تیرے سوا اس میں کسی کو نہیں پایا۔
- مختصر تواریخ بابیہ

کوکب ہند نے جولائی ۱۹۳۱ء میں اپنے شیوخ کی سوانح عمری مختصر طور پر درج کی ہے۔ جس کا خاکہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

.....۱ سید علی محمد باب نیر اعظم شیراز میں ۲۰ اکتوبر ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوئے۔ ۳۰ مئی ۱۸۴۳ء کو دعویٰ کیا کہ میں ایللیاء اور مہدی موعود ہوں۔ ۱۸۴۳ء سے ۱۸۵۰ء تک چھ سال کام کرتے رہے۔ آپ کی کل عمر ۵۱ برس تھی۔

.....۲ ظہور اعظم بہاء اللہ حسین علی نوری ۱۲ نومبر ۱۸۱۷ء کو طہران میں پیدا ہوئے۔ پہلے آپ نے ۱۸۵۳ء میں دعویٰ کیا۔ پھر ۱۸۶۳ء میں اعلان کر دیا کہ میں وہ ظہور اعظم ہوں کہ جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی۔ حکومت ایران و ترکی نے بغداد سے قسطنطنیہ پہنچایا۔



وہاں آپ چار مہینے رہے۔ دسمبر ۱۸۶۳ء میں آپ کو ایڈریانو پبل بھیج دیا گیا اور وہاں چار سال اور دو ماہ رہے۔ ۱۸۶۸ء میں بمقام عکہ (ملک شام) پہنچائے گئے اور نظر بند رہے۔ ۲۸ مئی ۱۸۹۲ء کو وفات پائی۔ (تبلیغی عمر ۳۹ سال ہوئی اور طبعی عمر ۷۵ سال)

۳..... عفتن اعظم عبدالہیاء (عباس آفندی) ۲۳ مئی ۱۸۳۳ء کو پیدا ہوئے اور اخیر تک اپنے والد کے ہمراہ رہے۔ والد کے وفات کے بعد گدی نشین ہوئے۔ (عکا کی نظر بندی سے) ستمبر ۱۹۰۸ء میں حکومت ترکی نے رہا کر دیا۔ اگست ۱۹۱۱ء میں یورپ روانہ ہوئے۔ ستمبر ۱۹۱۱ء میں لندن پہنچے پھر پیرس گئے۔ دسمبر میں مصر واپس آئے۔ ۱۹۱۳ء میں امریکہ گئے۔ ۱۵ دسمبر کو گریٹ برٹن گئے۔ لور پول، لنڈن، برٹل، اڈنبرا پھرتے پھرتے پیرس میں واپس آ گئے۔ پھر سٹکارٹ جرمنی میں گئے۔ پھر پودھاپسٹ (ہنگری) اور ڈین (دارالخلافہ آسٹریا) مئی ۱۹۱۳ء کو مصر اور ۵ دسمبر ۱۹۱۳ء کو حیفہ پہنچے اور ۲۵ نومبر ۱۹۲۱ء کو ۷۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔

۴..... قائد اعظم شوقی آفندی ربانی، نواسہ اکبر جن کو عبدالہیاء نے حسب وصیت اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ حیفہ (فلسطین) میں رہے۔ عربی، فارسی، ترکی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ماہر ہیں۔

### تعلیمات

اسی رسالہ میں یہ تعلیمات شائع ہوئی ہیں کہ خدا کے مطلع کا پہچانا فرض ہے۔ مظہر کی ملاقات خدا کی ملاقات ہے۔ کیونکہ وہ خدا کا نائب ہے۔ حقیقت خداوندی ادراک سے باہر ہے۔ خدا کے مظہر اڈل ازاول سے ہیں اور آخرتا آخر ہیں گے۔ مظہر کے احکام پر چلنا واجب ہے۔ کیونکہ ایمان و اعمال لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح انسان مختلف لباس بدلتا ہے۔ اسی طرح مصلحت وقتی سے دین الہی بھی مختلف رنگ بدلتا رہا ہے۔ اس لئے وحدت ادیان کا عقیدہ فرض ہوگا۔ یہ نہ کہو کہ میرا دین اچھا ہے اور تمہارا برا۔ سب پیغمبر اور اوتار ایک ہیں۔ سب میں ایک ہی روشنی ہے۔ فانوس مختلف ہیں۔ تم روشنی دیکھو فانوس کی رنگت کے عاشق مت بنو۔ اب بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو اسے بھی تسلیم کر لو۔ بنی نوع انسان سب مساوی ہیں۔ ایک ہی کنبہ کے آدمی ہیں۔ زن و مرد میں روح مساوی ہے۔ اس لئے تعلیم و تربیت اور مال میں بھی زن و مرد کے حقوق مساوی ہوں گے۔ بچوں کی تعلیم ابتدائی جبریہ ہے۔ ورنہ ان کو جاہل رکھنا قتل کرنے کے برابر ہوگا اور یہ گناہ قابل معافی نہیں۔ عبادت کی طرح کاروبار کر کے مال و دولت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ کسب مال عین عبادت ہے اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ گداگری کو بند کرو۔ کیونکہ وہ تباہ کن بجلی ہے اور افلاس

قہر الہی ہے محتاج لوگوں کے لئے محتاج خانہ تیار کرو۔ جس میں ان کی پرورش کا انتظام ہو۔ تعصب مذہبی نے فساد قائم کیا ہوا ہے اور ناجائز کاموں کو حلال کر دیا ہوا ہے۔ اسے چھوڑ دو۔ قومی، نسلی، وطنی، سیاسی رنگ و زبان کا رسم و رواج کا، شکل اور لباس اور اس قسم کے تمام تعصب چھوڑ کر ایک بن جاؤ۔ سب کی زبان اور خط ایک ہونا ضروری ہے۔ اس لئے اس پر نہ تو زبان جو اسی مقصد کے لئے بنائی گئی ہے سیکھنا ضروری ہے۔ مزدوروں کو سرمایہ داروں میں حصہ دار بناؤ۔ کیونکہ سرمایہ داری کا تعصب بہت خطرناک ہے۔ غریب مالداری حاصل کریں اور مالداران کو مالدار بنانے میں کوشش کریں۔ محکمہ کبریٰ قائم کرو۔ جس میں مختلف مذاہب کے فیصلے ہوا کریں۔ گاؤں کے نمائندے تحصیل میں آئیں۔ وہاں سے انتخاب ہو کر ضلع میں جائیں۔ پھر وہاں سے انتخاب ہو کر صوبہ میں جائیں۔ پھر وہاں سے انتخاب پا کر صدر مقام پر جائیں اور یہاں ہر ایک ملک کے نمائندے منتخب ہو کر مجلس بین الاقوام قائم کریں۔ اس کے فیصلے تمام اقوام کے لئے ناطق ہوں۔ تبلیغ مذہب میں تشدد نہ کرو۔ اگر کوئی نہیں سنتا تو اس کے حق میں دعا کرو۔ ورنہ چھوڑ دو اور لعن طعن نہ کرو۔ کیونکہ یہ بہت برا ہے۔ جنگ و جدال تو شیطان سے بھی نہ کرو۔ اپنے مذہب کا نمونہ بن کر تبلیغ کرو۔ جنگ کو قانون سے منع کرو۔ جنگ سے نہ روکو۔ کیونکہ خون کا دھبہ خون سے صاف نہیں ہوتا۔ تبلیغ کی راہ میں تکلیف پہنچے تو صبر کرو۔ شروع بلوغ سے نماز روزہ فرض ہے۔ بیمار اور بوڑھوں کو معاف، مریض، مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ نہ رکھیں۔ کسی انسان کے ہاتھ نہ چومو اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی برائیوں کا اظہار کر کے توبہ کرو۔ سونے چاندی کے برتن استعمال کر سکتے ہو اور کھانے میں ہاتھ ڈال کر نہ کھاؤ اور صفائی و پاکیزگی برتو۔ صبح و شام خدا کی آیات اس قدر پڑھو کہ تم پر بوجھ معلوم نہ ہو۔ منبر پر نہ چڑھو جو تمہارے سامنے آیات تلاوت کرے اس کو کرسی پر بٹھاؤ جو تخت پر رکھی ہوئی ہو اور باقی کرسیوں پر تم بیٹھو۔ بردہ فروشی بند کرو۔ وہ علوم اور زبان حاصل کرو جن سے روحانی یا جسمانی فائدہ ہو اور وہ علم نہ پڑھو جو حروف سے شروع ہو کر حروف پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نئے موجد اور مفید کام کرنے والوں کی عزت تم پر فرض ہے۔ بحث و مناظرہ اور لفظی جنگ و جدال میں نہ پڑو۔ ریا کاری کی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ سننے والا بے رخی کرے تو نہ سناؤ۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ نقل مکانی کا نام ہے۔ مرنے کے بعد فوراً جزا سزا مل جاتی ہے اور روح کو اسی وقت ایک باقی رہنے والی شکل دی جاتی ہے کسی دور دراز زمانہ کا محتاج نہیں رہتا۔ موت کے بعد آرام پانا جنت ہے اور تکلیف میں رہنا دوزخ ہے۔ ان کا باعث اعمال نیک و بد ہیں اور امر حق پر ایمان لانا یا انکار کرنا تو گویا ابھی سے جنت و دوزخ شروع ہیں۔ مظہر الہی (نبی جدید) کا پیدا ہونا قیامت

ہے۔ اس پر ایمان لانے والے اپنی قبروں سے نکلنے والے ہیں۔ ندائے تبلیغی صورت (قرنائے قیامت) ہے۔ شریعت اول کارفع ہو جا کر آسمان کا ٹوٹ جانا ہے اور نئی شریعت کا اجراء نیا آسمان ہے۔ پہلے نبی کی روشنی کم ہو جانا سورج کی سیاہی ہے اور نور ولایت کا روپوش ہو جانا چاند کی سیاہی ہے۔ علمائے امت کی گمراہی ستاروں کا ٹوٹنا ہے۔ احکام شریعت کی منسوخی سلطنتوں کے بربادی اور بڑوں کی پستی پہاڑوں کا اڑنا، مظہر امر پر ایمان لانے والے کامیابی کے جنت میں داخل ہوتے ہیں اور سرتابی کرنے والے ناکامی کے دوزخ میں رہتے ہیں اور یہی حساب کتاب ہے خدا کا عدل میزان ہے۔ نئی شریعت پل صراط ہے۔ جس سے لڑکھڑانا جہنم میں جانا ہے۔ قیامت کی یہی حقیقت ہے۔ باقی سب اوہام ہیں۔ اسی قسم کی قیامت صغریٰ ہر نبی کے وقت ہوتی رہی ہے۔ مگر قیامت کبریٰ جس میں اب ہم جا رہے ہیں۔ واقع ہو چکی ہے۔ کیونکہ باب اعظم نے دعویٰ کیا تھا تو فتح اولیٰ اور پہلا صورت پھونکا گیا تھا اور بہاء اللہ نے امر اللہ کا اعلان کیا تھا تو دوسرا صورت پھونکا گیا تھا جو کلام الہی اب نازل ہوا ہے۔ اس میں بار بار اس کو دہرایا گیا ہے۔ خدا کے مظہر کا دیدار خدا کا دیدار ہے۔ کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ چنانچہ بہاء اللہ کی ہستی جلوہ گاہ الہی ہے۔ ایمان سے جلوہ نظر آتا ہے۔ انکار سے نظر نہیں آتا۔ قیامت کو جس ہیٹل میں ظہور خداوندی لکھا ہے وہ ایسا مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا اور ظہور نبی یا ظہور رسول کے لقب سے ملقب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دور نبوت حضرت محمد ﷺ پر ختم ہو چکا ہے اور اس دور جدید کے متعلق یہ حکم ہے کہ: ”ہذا یوم اللہ لا یذکر فیہ الا ہو“ یہ خدا کا دن ہے۔ اس میں اس کے سوا کسی کا ذکر نہیں۔ حضرت بہاء کا قول ہے کہ اس مقام پر وجود انسانی بالکل بے نام و نشان ہے اور یہ مقام فنا فی النفس اور بقا باللہ کا مقام ہے۔ کوکب ۸ ستمبر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ یہود و نصاریٰ اور ہنود کے معابد میں جاؤ۔ کیونکہ سب کا دین ایک ہی ہے۔ اندھی تقلید چھوڑ دو۔ کیونکہ اس سے دل مر جاتا ہے اور نور تحقیق جاتا رہتا ہے۔ سلسلہ روایات آج سے بند ہے۔ کیونکہ اس سے انتظام معاشرت میں خلل پڑتا ہے اور دھڑے بندی پیدا ہوتی ہے۔ گندہ دہانی اور بدزبانی تحریری و تقریری قطعاً بند ہے۔ بعثت محمدی اس طرح پر ہے کہ:

”ولئن قلت انکم مبعوثون اے بعثتم (ہود) ائذ امتنا وکنا ترابا ائنا لفی خلق جدید (رعد) بل ہم فی لبس من خلق جدید • نفخ فی الصور ..... جأت کل نفس (زمر)“ لوگوں سے کہا گیا کہ تم نئی نبوت کے دور میں ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم پر جادو چلایا گیا ہے۔ کہا کہ جب ہم موت غفلت سے مر چکے ہیں تو کیا نئی نبوت کی ہستی میں ہم کو دھکیل دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں ان پر یہ امر ابھی تک مشتبه رہا ہے۔ حالانکہ نفخ صور ہو چکا اور ہر ایک نفس

حاضر ہو چکا ہے۔ بعثت بہاء یوں ہے کہ: ”قال محمد ﷺ ان لكم يوم الفصل قال المسيح يحيى ابن ادم فى جلاله ويجزئى كلابا عماله (متى) الملائكة يجمعون الكفرة فى النار ويلتعم الصادقون فى الملكوت كالشمس (متى) قال بطرس هو زمان البهجة والنضارة اى دور البهائى و ظهور الذى ذكره الانبياء هو ظهور البهائى“ امراض اختلاف كاعلاج ضرورى ہے۔ تاکہ صحت وحدت حاصل ہو۔ گو اختلاف طبائع سے اختلاف رائے کا ہونا ضرورى ہے۔ مگر یہ اختلاف رائے خدا تعالیٰ کو صرف اس حد تک منظور ہے کہ ان میں جنگ وجدال پیدا نہ ہو۔ ورنہ وہ سب اہل نار ہوں گے۔ بیان وحکمت کی تلوار نکال کر خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ کیونکہ لوہے کی تلوار سے گلے کٹتے ہیں اور اس سے کئے ہوئے گلے درست ہو جاتے ہیں۔ اس لئے قتال مطلقاً حرام ہے۔ خواہ تلوار سے ہو یا قلم اور زبان سے ہو۔ ”لان الله يقول ان اللسان لذكرى لا تلوثوه بالمنكرات والتكفير والتلعين والشتم والجدال والقتال“ کو کب ۲۸ ستمبر ۱۹۲۷ء میں لکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرو اور وراثت کی ترتیب میں وسعت دے کر تمام وارثوں پر مال تقسیم کیا جائے اور جو اس مال متروکہ پر سود حاصل ہوا ہو وہ فقراء اور مساکین کی معین تعداد پر تقسیم کیا جائے۔ نئی تحریک جب پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ اپنا کوئی نیا مظہر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جس کو نبی کہا جاتا ہے اور جس کا کام یہ ہے کہ وحشت سے نکال کر دنیا کو بام ترقی پر پہنچائے۔ وعظ کر کے مال مت کماؤ۔ کیونکہ ایسی کمائی بالکل حرام ہو چکی ہے اور کمائی کر کے پیٹ پالنا واجب ہو چکا ہے۔ عورتوں کو فلسفہ، تاریخ اور زمانہ کے علوم پڑھانے میں بہت زور دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ قرۃ العین کے مرتبہ پر پہنچ جائیں۔ جس نے برقعہ اتار کر کمال دلیری کے ساتھ اپنے تبلیغی مناظروں میں مخالفین کو نیچا دکھایا تھا۔ کثرت ازدواج سے روکا جائے۔ منگنی کی رسم یوں ادا کی جائے کہ فریقین کو کچھ روز آزادی دی جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے حسن و قبح پر اطلاع پاسکیں۔ نکاح کے لئے صرف یہی لفظ کافی ہیں کہ: ”نحن راضون بعارضى به الله“ ہم خدا کی مرضی پر راضی ہیں۔ صرف اتنا کہنے سے نکاح بندھ جائے گا۔ طلاق بالکل حرام ہے۔ ضرورت پڑے تو ایک سال تک یہ معاملہ زیر غور رہے تو پھر اگر رضامندی ہو جائے تو فہماور نہ خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ یہ امر پایہ یقین تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ اگرچہ ہر ایک قسم کی خاص خاص مخلوقات کی ابتداء ضرور ہے۔ مگر عام مخلوقات کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ ورنہ یہ لازم آئے گا کہ خدا کو کسی وقت اس حالت میں مانا جائے کہ وہ ہے اور مخلوق نہیں تو خلق کی صفت منفی ہونے

سے خود خدا کی نفی ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کے صفات بعینہ اس کی ذات ہیں۔ اس لئے صفات کی نفی سے ذات کی نفی ہو جائے گی۔ مظہر الہی کی شعاع کا حاصل کرنا دنیا میں جنت ہے اور اس سے محروم رہنا دوزخ ہے۔ جن کو قرب الہی حاصل ہے ان کی شفاعت ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا میں گنہگار توبہ سے ترقی پاتا ہے اور دوسری دنیا میں کسی کی سفارش سے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان بننے سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر انسانیت کے مدارج بے شمار ہیں۔ بہائی مذہب کی جنتری میں انیس دن کے انیس مہینے ہوں گے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ بہاء، جلال، جمال، عظمت، نور، رحمت، کلمات، کمال، اسماء، عزت، مشیت، علم، قدرہ، قول، سائل، شرف، سلطان، ملک، عطاء۔ تمام الہامی کتابیں حق ہیں۔ خواہ کسی مذہب کی ہوں۔ قدیم زمانہ کی آسمانی کتابوں میں مجاز اور استعارہ بہت استعمال کیا گیا ہے۔ جناب بہاء نے بھی اپنے الواح میں مجاز و استعارہ بہت استعمال کیا ہے۔ تو جو لوگ غور نہیں کرتے۔ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہائی مذہب کے اصول فطرت انسانی پر مبنی ہیں۔ سورہ احزاب اور سورہ آل عمران میں مذکور ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے عموماً اور حضور علیہ السلام سے خصوصاً یہ عہد لیا گیا ہے کہ ایک نبی (بہاء اللہ) آنے والا ہے۔ اس کی تصدیق کرنا تم پر لازم ہے۔ ہر ایک نبی کے لئے ایک مدت مقرر ہوتی ہے اور جب دوسرا آتا ہے تو اس کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری رہے گا۔ شریعت محمدی کا دور دورہ بہاء اللہ کے آنے سے ختم ہو گیا ہے۔ دور محمدی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے زمانہ میں نبی غیر تفریحی آتے رہے ہیں۔ ”یحکم بہا النبیون“ مگر دور محمدی میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ”لا نبی بعدی انا خاتم النبیین فسیکون خلفاء سیکون فی امتی دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ“ سورہ آل عمران اور سورہ احزاب میں دونوں میثاق تصدیق کے لئے مذکور ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک تو تصدیق کے لئے ہو اور دوسرا تبلیغ کے لئے۔ کیونکہ مشہور ہے کہ: ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ قرآن شریف اپنی مختصر عبارتوں کو خود ہی مفصل عبارتوں سے حل کر لیا کرتا ہے۔ اس لئے اگر ایک آیت میں میثاق کا ذکر مختصر ہے تو دوسری آیت اس کی تشریح کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ قاعدہ ہے کہ تبلیغ اور تصدیق لازم و ملزوم ہوتے ہیں تو یہ فرق کرنا کہ ایک میثاق تبلیغ ہے اور دوسری میں میثاق تصدیق بالکل بے سود ہوگا۔ کوکب ۱۲۷ ستمبر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ وضع قانون عوام کا حق ہے۔ بچپن میں نکاح نہ کرو۔ جناب بہاء اللہ نبی نہ تھے۔ کیونکہ نبوت کا دور آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد خاتم النبیین ﷺ تک ختم ہو چکا ہے اور اب دور بہائی ہے۔ جس میں امر اللہ ظاہر ہوا ہے اور یہی یوم عظیم ہے۔ خدا نے ہیکل بہاء میں اپنا

ظہور کیا۔ ”بلا حلول و بروز“ جس طرح وادی مقدس میں ایک درخت پر ظہور کیا تھا اور اسی ظہور کی طرف ان آیات میں اشارہ بھی ہے کہ: ”یوم یاتی اللہ وجوہ یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة“ اس لئے جناب بہاء مظہر العبودۃ نہیں ہیں۔ بلکہ مظہر اللہ ہیں۔ جس کی خبر پہلے انبیاء دے چکے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں مجروح ہوں تو اس سے مہر جسمانی حالت ہوتی ہے۔ جب کہتا ہے کہ میں خوش ہوں تو اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور جب کہتا ہے کہ: ”انسی او حیث کذا و کذا“ میں نے فلاں کی طرف وحی بھیجی ہے تو اس وقت اس فقرہ کا تعلق ذات باری سے ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ”و ما رمیت ..... بل د و قول رسول کریم“ کتاب اقدس ص ۳۰ میں ہے کہ: ”ان السجدة کانت لحضرة الغیب ولا یجوز السجدة لہیکل الظہور والافتوبوا ان اللہ غفور رحیم“ اگر ہیکل ظہور کو سجدہ کیا جائے تو وہ درحقیقت ذات باری کو سجدہ ہوتا ہے۔ ورنہ صرف ہیکل کو سجدہ ناجائز ہوگا۔ بہاء اللہ کے بعد مظہر ثانی آیات بینات لے کر ایک ہزار سال بعد آئے گا تو اس وقت تعلیمات بہائیہ کی طرف لوگ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے اور تمام فیصلہ جات بیت العدل سے کرائیں گے جو اتنا کام کے لئے بنایا گیا ہوگا۔ تم انبیاء کو تسلیم کرو۔ مگر احکام وہی واجب التعمیل سمجھو۔ جو بہاء اللہ نے جاری کئے ہیں۔ رسالہ پیام اسلام جالندھر ۷ اکتوبر ۱۹۲۱ء میں عبدالحق عباس مدیر رسالہ ہذا اور احکام بھی لکھتے ہیں کہ واحد کے اعداد ۱۹ ہیں۔ اس عدد کو قائم رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص کسی کو ایک قدم کا سفر بھی جبراً کرائے یا بلا اجازت اس کے گھر میں داخل ہو جائے یا اس کا مال بلا اجازت اپنے قبضہ میں کر لے تو انیس روز اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی۔ جو شخص کسی کو ایک سال تک ستاتا رہے۔ وہ اپنی ایذا رسانی سے باز آ جائے۔ ورنہ ۱۹ دن اس پر اپنی بیوی حرام ہو جائے گی۔ توبہ کرے تو بہتر ورنہ جس کو ستاتا ہے۔ اسے ۱۹ مشقال سونا دینا ہوگا۔ جو شخص کسی کو جس میں رکھے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی تو پھر اگر اس بیوی کو اپنے گھر لانا چاہئے تو ۱۹ ماہ تک فی ماہ انیس انیس مشقال جرمانہ ادا کرے۔ ورنہ وہ ایمان سے خارج کر دیا جائے گا اور کبھی داخل نہ ہوگا اور نہ ہی توبہ منظور ہوگی۔ کتاب اقدس میں لکھا ہے کہ انیس آدمیوں کی ضیافت ۱۹ روز کرو۔ اگرچہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے۔ ایسے کپڑے نہ پہنو کہ جن سے تمہارے بچے ڈر جائیں۔ غیر کا خط نہ پڑھو اور نہ دیکھو۔ جس زبان میں خط لکھا ہوا ہو۔ اسی زبان میں جواب لکھو۔ بھول جاؤ تو آسان زبان میں لکھو۔ جو خط کا جواب نہیں دیتا یا اسے پھینک دیتا ہے وہ مذہب سے خارج ہوگا۔ بھیک مانگنا حرام ہے اور بھیک مانگنے والوں پر دنیا بھی حرام ہے۔ شادی کے موقع پر ریشم کے سوا

دوسرا کپڑا نہ پہنو۔ مسکرات سے کنارہ کشی فرض ہے۔ چہرہ کو بال سے صاف رکھو تا کہ فطرتی خوبصورتی سے بڑھ جاؤ۔ پردہ اٹھا دو اور عورتوں کو وہاں لے جاؤ۔ جہاں تم جاتے ہو تا کہ وہ بھی قوم کی رہبری کریں۔ (یہ مسائل بھی ان کی طرف منسوب ہیں) کہ نور رکعت نماز فرض ہے۔ دو صبح، دو مغرب اور پانچ پچھلی رات کو۔ نماز جنازہ چھ رکعت ہے۔ نماز کسوف و خسوف منسوخ ہیں۔ نماز جنازہ کے سوا جماعت کی ضرورت نہیں۔ عید نوروز کا روزہ فرض ہے۔ راگ سننے میں کوئی حرج نہیں۔ خروج منی سے غسل واجب نہیں۔ کوئی چیز نجس نہیں۔ مشرک بھی نجس نہیں۔ میت کو ریشم کے پانچ کپڑوں میں لپیٹو یا کم از کم ایک میں۔ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضیافت ضرور کرو۔ اگر چہ پانی ہی سے ہو۔ میت کو اتنی دور نہ لے جاؤ کہ گھنٹہ سے زائد وقت لگ جائے۔ وضو اور سجدہ معاف ہیں۔ بہاء اور جلال میں عید کرو۔ البیان کے سوا کوئی مذہبی کتاب نہ پڑھو۔ نماز جمعہ حرام ہے۔ نکاح میں والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے ۱۹ ہیں۔ قبلہ عکاء ہے۔ البیان قرآن سے افضل ہے۔ بیت اللہ شریف گرا کر شیراز میں مکان خرید سکتے ہو۔ مردے کو سونے کی انگوٹھی اور ہیکل پہناؤ۔ کتاب مبین میں ہے کہ اگر بہاء نہ ہوتا تو کوئی صحیفہ آسمانی نازل نہ ہوتا۔ کیونکہ آپ سلطان الرسل اور محبوب رب العالمین ہیں۔ گالیاں دینے والے کو ۵۰ مشقال جرمانہ لگاؤ۔ ہر ایک شہر میں بیت العدل قائم کرو۔ تاکہ تعلیم علم ہو۔ (کوکب ۹/ مارچ ۱۹۲۷ء میں ہے کہ) یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنایا۔ من و سلویٰ اتارا اور ہاتھ سے روشنی نکالی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کئے۔ مادرزاد اندھے بینا کئے۔ کوڑھیوں کو اچھا کیا۔ سمندر کو ڈانٹ دکھائی تو ساکن ہو گیا اور خود قبر سے زندہ ہو کر نکلے اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے چاند و نکلڑے کیا۔ براق پر سوار ہوئے۔ رفر ف پر چلے اور گوہ اور پتھر سے کلام کیا اور کلمہ توحید کہلوا یا۔ مگر یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزہ یہ ہے کہ اپنے دعاوی میں دشمنوں پر فتح حاصل کی جائے۔ جیسا کہ بہاء اللہ نے کر دکھایا ہے۔ (کوکب ۷/ مارچ ۱۹۱۷ء) میں ہے کہ انسان کی روحانی ترقی ہفت عالم میں ہوتی ہے۔ (جس کو ہفت منزل ہفت بحر ہفت آسمان ہفت شہریا ہفت درجات بھی کہتے ہیں) گویا یوں سمجھو کہ انسان کی روح پر گنڈھے کی طرح سات پردے آئے ہوئے ہیں۔ جوں جوں پردے اترتے ہیں الوہیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلی دنیا عالم ناسوت ہے۔ جس میں کھانا پیتا ہے اور مرتا جیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری دنیا عالم مثال ہے۔ اس میں اس کو وہ شفاف اور نورانی جسم دیا جاتا ہے۔ جو اس وقت بھی اس کے اندر پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ مگر زندگی کے بعد موت آنے پر جب بیرونی جسم چھوڑتا ہے تو اب عالم مثال کے نورانی جسم

کے اندر روح رہنے لگتی ہے۔ تیسری دنیا عالم روح ہے۔ جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو دنیاوی تعلق نہیں رہتے اور بجلی کی طرح تمام دنیا کی سیر کر سکتا ہے اور دریافت کرنے میں اس کو کسی عضو یا آلہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھی دنیا عالم نور ہے۔ جس میں پہنچ کر جمال الہمی کے نور میں غرق ہو جاتا ہے۔ پانچویں دنیا عالم صفات ہے۔ اس میں خدا کا چہرہ دیکھتا ہے۔ چھٹی دنیا عالم حرارت ہے۔ جس میں الوہیت کی گرمی محسوس کرتا ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ الوہیت کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ساتویں دنیا عالم اختلاط ہے۔ اس میں انسان اور خدا آپس میں مل جاتا ہے اور اپنی شخصیت بھی ضائع نہیں کرتا۔ جیسے کہ لوہا آگ میں اپنی شخصیت قائم رکھتے ہوئے آگ بن جاتا ہے۔ ان سات دنیا کی سیر زندگی میں ہی ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ کسی نبی وقت کی تابعداری کی جائے۔ روح شیشہ ہے۔ جس پر غبار پڑا ہوا ہے۔ تم اسے صاف کر کے ملکوت کی دریافت پر قادر ہو سکتے ہو۔ عبدالبہاء کا قول ہے کہ اگر تم انبیاء کی پیروی نہیں کرو گے تو ہم کہیں گے کہ تم ان کو مانتے ہی نہیں۔ بحوالہ مذکور (کتاب بین ص ۶۷) میں ہے کہ کیا لوگوں نے ہم کو اس لئے نظر بند کیا کہ ہم تجدید دین کے لئے کھڑے ہوئے تھے؟ اگر تجدید قابل اعتراض تھی تو انجیل یا تورات کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اگر تجدید جرم تھا تو ہم سے پہلے خود حضور ﷺ اس کے مرتکب ہو چکے ہیں اور آپ سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس جرم سے ملوث ہو چکے ہیں۔ اگر اعلیٰ کلمۃ اللہ جرم ہے تو ہم سب سے اول اس جرم کے اقبالی ہیں۔ تجدید شریعت کے منکر یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ”ما یاتیہم من ذکر محدث..... قالوا ید اللہ مغلولۃ (ای ینجل فی تجدید الشرائع) یمحو اللہ ما یشاء..... یمحو اللہ ما یشاء..... لا تبدیل للکلمات اللہ..... ما نعدت کلمات اللہ..... عندہ ام الکتاب“ جو شخص کتاب اقدس یا ایقان اور کتاب مبین یا بیان کو معترضانہ حالت میں پڑھے گا نقصان اٹھائے گا۔ ”لا یزید الظلمین الا خساراً“ اور جو شخص صدق دل سے پڑھنا چاہے تو اس پر فرض ہے کہ پہلے اپنا دل صاف کرے تاکہ اس میں معارف کی تصویر صحیح طور پر آسکے ورنہ ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ظہور بہاء کی طرف اس قسم کی آیات میں اشارہ ہے۔ ”ففضع من السموات..... کل اتوه داخرین..... وجوه یومئذ ناضرة..... وجوه یومئذ باسره..... انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون“ (نکتہ الکاف ص ۲۰۵) میں ہے کہ واقعہ کربلا کو واقعہ مازندران نے مٹا دیا ہے۔ کیونکہ مقابلہ اس میں وہ مصائب پیش آئے ہیں جو اس میں نہیں تھے۔ کیونکہ اول اہل کربلا راہ بہشت نشان سے دادند و ایشان را مجال چون و چرا نبود۔ دوم قتل او شان گفت اور کئی یا ابا عبد اللہ پس ملاطفت نمود۔ و ایشان دیدند کہ سید الشہداء را حضرت



قدوس باسر عصا پرت داند۔ سوم اسیری زنان اوشان بعد مہمات بود واسیری زنان ایشاں در حیات۔ چہارم اوشاں را غربت ده روز بود و ایشاں را غربت نہ ماہ۔ پنجم اوشاں را قتال باعداء یک شب و نصف روز بود و ایشاں را نوزدہ روز۔ ششم اوشاں را سہ شبانوز نعش ہا بصر ابود۔ پس زنان بنی اسد دفن نمودند و ایشاں را دفن نہ نمودند۔ ہفتم اوشاں را در لشکر اعدا ہفتاد ہزار حامل قرآن بودند و ایشاں را کے حامل قرآن در لشکر اعدا نبود۔ ہشتم مردان اوشاں را اسیر نہ نمودند و ایشاں را (مردان را) اسیر نمودند و کلاہ کاغذی بسر ایشاں نہادہ شہادت نمودند نہم دشمنان اوشاں را بمر داگی شہید نمودند و ایشاں را بنا مردی شہید کردند۔ دہم اوشاں بظاہر شریعت دعوت نمودند و ایشاں یعنی حضرت بیاطن شریعت دعوت نمودند۔ یازدہم اوشاں قوت یافتند و ایشاں نوزدہ روز قوت نیافتند۔

ڈاکٹر براؤن مقدمہ الکتاب میں لکھتا ہے کہ: ”باب اولاً باب بودند در سنہ۔ دوم ذکر گمشدہ و عنوان باب محمد حسین بشروی عطاء کردند و نام خود ہم عطا نمودند پس محمد حسین محمد علی نامیدہ شد۔ بعد از شہادت ایشاں مقام بابیت در کن رابع و منصب سید الشہداء بجناب حسن رسید۔ عمر عالم باب سال بود درجات ترقی و معرفت ایں ست اول علو عارف از معروف۔ دوم علو معروف از عارف و ہو مقام انطیلیتہ۔ سوم تسادی در میان عارف و معروف۔ چہارم اتحاد در میان عارف و معروف۔“

نفس کے درجات بھی چار ہیں۔ اول نفس ملہمہ جس کا ادراک شک ہے۔ دوم نفس لوامہ جس کا ادراک ظن ہے۔ سوم نفس مطمئنہ جس کا ادراک یقین ہوتا ہے۔ چہارم نفس امارہ جس کا ادراک جہالت ہے۔ یقین تین قسم ہے۔ علم یقین۔ عین یقین اور حق یقین۔ علی محمد باب کے نام یہ ہیں۔ واسطہ باب اول۔ قائم، ذکر، ذات حروف سبعہ، مہدی، نقطہ اور اعلیٰ، حسین علی اور مرزا یحییٰ سوتیلے بھائی تھے۔ حسین علی کے نام یہ ہیں۔ بہاء اللہ نور، مازندرانی اور وحید اول اور مرزا یحییٰ کے نام یہ ہیں۔ صبح ازل، باب دوم کیونکہ باب اول کے بعد پانچویں سال ظہور کیا تھا۔ اسم الوجود اور وحید ثانی۔ ”نور یشرق من صبح الازل فیلوح علی ہیا کل التوحید اثارہ“ حضرت قدوس کہ ۳۱۳ تن بنصرش بود اسم او اسم نبوت و اسم ولایت است یعنی محمد علی۔ ”من کلام المعصوم کلامنا صعب مستعصب لا یتحملہ ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن مستحن و فی روایۃ لا یحتملہ الا.....“ کوکب ۲۰ اگست ۱۹۲۹ء میں عبدالبہاء کا قول مذکور ہے کہ ہمیں آسمان کی زبان اور روح کی زبان سے بولنا چاہئے۔ یہ زبان ہماری زبان سے ایسی مختلف ہے۔ جیسے یہودیوں کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے۔ روح کی

زبان کے ساتھ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ نماز قطعاً فرض ہے۔ انسان کسی بہانہ سے بھی اس سے معاف نہیں کیا گیا۔ البتہ اگر اس میں کوئی دماغی فتور ہو یا کوئی اور ناقابل گذر عذر اس کی راہ میں ہو۔ مقام بھی شہرِ عکہ سے چار میل باہر ہے اور کرمل کے پاس ہے۔ اس میں دو سال آپ نظر بند رہے۔ شاہوں کے شاہنشاہ، موعودِ کل ادیان، انسانی شکل میں شمسِ حقیقت کے مظہر ۵۷ سال تک زندہ رہے اور ۱۸۹۲ء میں وفات پائی۔ کوکب ۲۲ نومبر ۱۸۲۹ء میں جناب بہاء اللہ کا قول یوں مذکور ہے کہ روپیہ اور چاندی سونے کا سود حلال طیب اور پاک ہے تاکہ مخلوق خدا کی یاد میں مشغول ہو۔ شریعت بہائیت کے مطابق ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی حینِ حیات میں جس طرح چاہے اپنی ملکیت کا انتظام کرے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وصیت نامہ لکھ کر تیار رکھے۔ اگر کوئی بلا وصیت مر جائے تو اس کی جائیداد اولاد، شوہر یا بیوی، باپ، ماں، بھائی، بہن اور استاد کے درمیان مخصوص مناسبت سے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر ایسا کوئی وارث نہ ہو تو وہ مال بیت المال میں داخل کرو۔ جو غریبوں، یتیموں اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ اگر صرف ایک شخص کے لئے وصیت ہو تو بھی جائز ہے۔ کوکب ۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ تربیت کے لئے نمونہ زیادہ مؤثر ہے۔ والدین، استاد اور دوستوں کا چال چلن اہم عنصر ہے۔ مظہرِ الہی اعلیٰ معلم ہیں۔ اس لئے سب سے پہلے کلمات بہائیت سکھائے جائیں۔ ان کو الواح الرحمن یاد کراؤ تاکہ وہ مشرق الاذکار میں اپنی سریلی آواز سے پردھیں۔ برے کام کا انجام بھی برا ہے۔ لیکن ہیئتِ اجتماعیہ کو تحفظ و مدافعت کا حق حاصل ہے۔ اخلاق اچھے ہوں تو انتقام کی ضرورت نہیں رہتی۔ (کوکب ۱۲۵، اپریل ۱۹۲۵ء ص ۱۲) میں ہے کہ امر یعنی بہاء اللہ اور یکہ بمعنی اتحاد۔ یعنی جب بہائی تعلیم امریکہ میں پہنچے گی تو اتحاد پیدا ہو جائے گا اور یہی امریکہ کی وجہ تسمیہ ٹھہری۔

## ۶..... صداقت باہیت و بہائیت

بابی اور بہائی اپنی صداقت یوں پیش کرتے ہیں کہ اولاً تو رات میں ظہورِ امام کا وقت یوم اللہ اور یوم الرب ظہورِ ایلیاء اور ظہورِ اللہ مذکور ہے۔ انجیل میں اس کو یوم الرب، ظہورِ یحییٰ اور ظہورِ ثانی بتایا گیا ہے۔ قرآن شریف میں یوم القیمۃ، یوم الساعۃ، یوم الجزاء اور یوم الدین کہا گیا ہے۔ احادیث میں ظہورِ مہدی اور قیامِ روح اللہ لکھا ہوا ہے اور کلامِ ائمہ میں ظہورِ اول (باب) اور ظہورِ ثانی (بہاء حسین نوری) آیا ہے۔ ثانیاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوم اللہ یعنی ظہورِ امام کی ۱۵۰۰ سال پہلے انجیل میں خبر دی تھی تو حضرت مسیح ارض مقدس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دعوت دی کہ: ”توبوا الی اللہ قد اقترب ملکوت اللہ“ ۶۲۰ سال گذرے تو حضورِ خاتم

المرسلین ﷺ کی بعثت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ: ”اتی امر اللہ فلا تستعجلوه . اقترب للناس حسابہم . انا علی نسیم الساعۃ“ اور اس کے وعدے کے مطابق ۱۲۶۰ھ حضرت باب شیرازی پیدا ہوئے۔ آپ نے سات سال دعوت دی کہ: ”بشری بشری صبح الہدی قد تنفس“ اور الواح مقدسہ سے دنیا کو آگاہ کیا اور چونکہ یہ وارد تھا کہ: ”لا بدلنا من اذربجان“ تو حکومت وقت نے قید کے بعد آپ کو تمبریز میں شہید کیا۔ (توفات پائی) آپ کے بعد قصبہ نور سے مرزا حسین علی الملقب بہاء اللہ الاقدسؒ لکھی مسج موعود ظاہر ہوئے اور حکومت ایرانی و ترکی نے آپ کو عکا شہر میں ۲۴ سال تک نظر بند رکھا تو احادیث کا مفہوم صادق ہوا کہ ظہور امام عکا ہے۔ آپ نے الواح مقدسہ سے تبلیغی احکام شاہان وقت کے نام بھیجے اور کتاب اقدس نازل ہوئی۔ جس میں موجودہ علم و عمل کی تلقین کی گئی اور اسلام سے سبکدوش کر دیا۔ تب یہ وعدہ پورا ہوا کہ: ”تری الارض غیر الارض . اشرققت الارض بنور ربھا . لكل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ“ اخیر عمر میں کتاب عہد اقدس لکھی اور ۲ رزیقہ ۱۳۰۹ھ، ۱۸۹۲ء میں شہادت پائی۔ ”ثالثاً الم لا الہ الا اللہ“ میں امام حسنؑ ظاہر ہوئے۔ ”المص“ میں سفا پیدا ہوا۔ ”المر“ کے شامل ہونے پر ۱۲۷۲ھ کو حضرت باب ظاہر ہوئے۔ جو حروف مقطعات بلا تکرار جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ رابعاً ۲۲۶ کو حسن بن علی امام عسکری پوشیدہ ہو گئے۔ ”فلا اقسام بالکنس“ کا اشارہ آپ کی طرف ہی ہوا تو آپ کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ لوگ امام کو بوڑھا سمجھیں گے۔ مگر آپ عند الظہور جوان ہوں گے۔ امام جعفر صادقؑ کے نزدیک آپ کی عمر ۲۵ سال ہوگی۔ حضرت علیؑ کا قول ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کرو۔ تمہیں منہاج رسول پر چلائے گا اور تم سے شریعت اسلام کا بوجھ اتار دے گا۔ سرگین چشم در میانہ قد تن اور رخسار پر خال سیاہ مشرق سے نمودار ہوگا اور شہر عکا میں قیام کرے گا۔ ظلمت کو دور کرے گا۔ نئی روشنی پھیلائے گا اور علم و فضل سے لوگوں کو مالا مال کر دے گا اور اپنی کتاب سے اس قدر قلوب کی اصلاح کرے گا کہ قرآن سے نہیں ہو سکی۔ آپ کے حواری اہل نجم ہوں گے۔ مگر عربی میں کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا جو اس قوم سے نہ ہوگا۔ سب قتل ہوں گے۔ آپ کا نزول مرجع عکا میں ہوگا۔ کتاب الغیبۃ میں ہے کہ امام کا ظہور گھنے درختوں میں ہوگا۔ جو بحیرہ طبریہ کے کنارے پر ہوں گے۔ عکا بھی بحیرہ طبریہ کے پاس ہی نہر اردن کے پاس واقع ہے۔ جو ہیرودس نے نکالی تھی اور شہر طبریہ ارض مقدس میں ہے۔ یہ ملک کثرت نباتات سے بلاد سور یہ کہلاتا ہے۔ خامساً تورات میں مقام بیعت جبل کرمل بیت المقدس کے پاس مذکور ہوا ہے۔ جس کی طرف

”یوم ینادی المناد من مکان قریب“ میں اشارہ ہے تو روح اللہ عکا میں تھے اور ندامہدی حضرت باب میں تھی۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام امام کے ساتھ ان کفار سے بھی بڑھ کر بدسلوکی کریں گے۔ جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کی تھی۔ کافی میں ہے کہ: ”بہ کمال موسیٰ وبہا عیسیٰ وصبر ایوب“ امام کے حواری مقتول ہوں گے۔ ذلیل ہوں گے اور ان کے خون سے زمین رنگین ہوگی۔ وہی خدا کے پیارے ہیں اور ”اولئک ہم المہتدون حقاً“ حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اس وقت منہ پرتھو کا جائے گا۔ لعنتیں برسائی جائیں گی۔ امام ابو جعفر کا قول ہے کہ اہل حق چھن چھن کر صاف رہ جائیں گے تو امام کے اصحاب نہیں گے اور خدا کے نزدیک عزت پائیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ: ”کما بداکم تعودون“ اہل حق ابتدائے اسلام میں مظلوم تھے۔ اخیر میں بھی مظلوم ہی ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ: ”حجة الله“ ہمیشہ موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو دنیا غرق ہو جائے۔ مگر لوگ اسے نہیں شناخت کرتے اور برادران یوسف علیہ السلام کی طرح حجة اللہ ان کو شناخت کرتے ہیں۔ کافی اور کتاب البحار میں ہے کہ امام دعوت جدیدہ (کتاب اقدس) دے گا۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام نے دعوت جدیدہ (قرآن) پیش کی تھی۔ ذیل کی تحریرات بھی اس کی مؤید ہیں۔ ”یخالف فی احکامہ مذهب العلماء (یواقیت) بنا یختم الله الدین کما فتح بنا (ملا علی قاری) یختم به الدین کما فتح بنا (مشارق الانوار) یقوم القائم بامر جدید علی العرب شدید۔ ینایع الناس بامر جدید و کتاب جدید و سلطان جدید من السماء (ابونصیر فی البہاد) اول من یتبعہ محمد و علی الثانی (مجلسی)“ اب یہ کہنا کہ ختم رسالت اور انقطاع وحی اسلامی عقیدہ ہے غلط ہوگا۔ کیونکہ یہ تحریرات اس کی تردید کر رہی ہیں۔ سادسا کاہنوں سے عہد نمرود میں نجم غلیل کی خبر دی تھی۔ (ابن اثیر) اور عہد فرعون میں نجم موسیٰ کی (مشنوی مولانا روم) یہودیوں اور مجوسیوں نے نجم مسیح کی (انجیل) یہودیوں اور چند آدمیوں نے ”نجم احمد خاتم المرسلین علیہ السلام“ کی اور نجومیوں اور دو معتبر عالموں نے نجم القائم کی خبر دی ہے۔ جن کے نام نامی یہ ہیں۔ شیخ احمد احسوی اور سید کاظم رشتی۔ انہوں نے ولادت امام سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تیمور خوارزمی کا قول ہے کہ جو ستارے ۱۲۳۰ھ سے ۱۲۵۰ھ تک نمودار ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب عظیم ہوگا۔ مرزا آقا خاں نجم منوچہر کا قول ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوگا جو شریعت جدیدہ کی دعوت دے گا۔ سابعاً سریانی زبان قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی یہی تھی۔ مذہب صابی حضرت

شيث عليه السلام سے منقول ہے۔ یہی دین اقدام الاديان ہے۔ اس میں کمزوریاں پیدا ہوگئی تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر کمزوریاں پیدا ہوئیں تو حضرت ختم المرسلین تشریف لائے۔ اخیر زمانے میں جب اس دین میں تاثیر نہ رہی تو حضرت بہاء تشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔

”قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدي والمسيح يد بر الامر (الاسلام) من السماء الى الارض (ينزله من السماء) ثم بعد المائتين يرجع (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون (اي يشرع رفع الدين) بعد ٢٦٠ اذ هو زمان اختفاء الامام الى سنة ١٢٦٠ هـ لا تحرك به لسانك الاية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذ به فصل القرآن ثم صار تكميل الحديث الى ٢٦٠ هـ (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الى الالف فتم التدبير والرجوع الى ١٢٦٠ هـ وهو زمان ظهور الباب من آل فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بينتون ويقال له مطلع العلوم ومطلع اهل فارس اذ لا يبقى من الاسلام الا رسمه ولا من القران الا اسمه وفي الحديث اقرء القرآن قبل ان يرفع فنا له رجل من الثريا . وفي الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المائتين اما آيات صغرى وهي شروور حدثت في الاسلام واما آيات كبرى بعد الالف اي في الماية الثالثة عشر . قال ابوالبركات في كتابه التوضيح هذه الايات تقع في المائة الاخيرة من اليوم الذي وعد به عليه السلام امة بقوله ان صلحت امتي فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم من ايام الرب وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هكذا في الجواهر ثم قال المجلسي ان لكل امة مدة معلومة تنتقى بعدها لقوله تعالى لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يد بر الامر الاية . ولما مضى ٢٦٠ الى زمان الامام العسكري حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعد يوم الرب لى الف سنة ١٢٦٠ هـ واليه نظر قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب اذ قالوا ان كان هذا هو الحق من عند ربك فامطر علينا حجارة من السماء او اتنا بعذاب اليم فقال لهم الله ت تعالى لكم

میعاد یوم لا تستاخرون منه ساعة ولا تستقدمون قال الآسی هذه الاستد  
لالات وانكانت علی غیر شیئے لكنها عند الخصم علی شئی خطیر“

## ۷..... اقتباس از کتاب مستطاب ایقان

”بسم الله العلی الاعلیٰ . العباد لن یصلوا الی العرفان الا بالا  
نقطاع عن الكل . قدسوا انفسکم لعل تصلن الی مقام قدر الله وتدخلن فی  
سرادق جعله الله فی سماء البیان مرفوعاً“ غیر کی بات پر کان نہ دھرتا کہ معرفت  
حاصل ہو۔ کیونکہ مباحثہ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو پہلے لوگ منتظر تھے کہ جمال موعود نظر  
آئے۔ مگر موقع آیا تو سب نے تکذیب کی۔ ”ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ  
یستہزؤن (یسین) وھمت کل امة برسولہم لیاخذوہ (مومن)“ سورہ ہود میں غور  
کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے ۹۵۰ سال نوحہ کیا۔ مگر کسی نے نہ مانا۔ بلکہ مارنے کو  
آئے۔ ”کلما مر علیہ قوم سخروا منہ (ہود)“ جب آپ اپنے تابعداروں کی فتح  
مندی کا وعدہ کرتے تو بڑا (تبدیلی شیت ایزدی) کا ظہور ہو جاتا تو تابعدار بگڑ جاتے۔ چنانچہ  
آپ کے تابعدار صرف چالیس یا بہتر (۷۲) تک رہ گئے۔ آخر الامر آپ نے بددعا کی کہ: ”رب  
لا تذر علی الارض من الکفرین دیاراً (نوح)“ اور بڑا میں حکمت یہ تھی کہ سچے اور  
جھوٹے تابعدار ممتاز ہو جائیں۔ ”احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وھم لا  
یفتنون (عنکبوت)“ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سات سو آدمی یا کم و بیش کی دعوت  
توحید میں ایک سو سال تک مصروف رہے۔ مگر آپ کو بھی تسلیم نہ کیا گیا۔ ”لا ینزید الکفرین  
کفرھم الا خساراً (فاطر)“ تو وہ عذاب صحیحہ (آسمانی گونج) سے ہلاک ہو گئے۔ پھر جناب  
ابراہیم علیہ السلام سے بھی ایسا ہی ہوا۔ ”الا الذین عرجوا بجناحی الایقان الی مقام  
جعلہ الله عن الادراک مرفوعاً“ آپ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر اور یہ  
بیضائے معرفت کے ساتھ کوہ قارآن محبت اور ثعبان قدرت کے لئے ظہور کیا۔ مگر فرعون نے آپ  
کی تکذیب کی اور ایک مومن نے کہا کہ: ”انقتلون رجلا ان یقول ربی الله (مومن)“  
تو اس کو بھی مار ڈالا۔ غور کا مقام ہے کہ گوہر نبی نے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی۔ مگر لوگ  
مخالف رہے۔ ”افکلنا جاء کم رسول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم (بقرہ)“  
اور کیوں مخالف رہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ تمام حجت نہیں ہوئی تھی تو صاف جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ

ممکن نہیں کہ خدائے تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی شریعت کا حکم دے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے علمائے مذہبی کی پیروی میں ڈوب کر حالات حاضرہ پر روشنی ڈالنے کی تکلیف گوارا نہ کی تھی۔ ورنہ وہ ضرور ایمان لے آتے۔ کسی کو حب ریاست مانع تھی۔ کوئی اپنے علم پر نازاں تھا اور بہت سے لوگ جاہل تھے۔ اس لئے ان کی میزان عقل میں انبیاء کا ظہور ناممکن تھا اور جس نے دعویٰ کیا اس کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ علمائے عصر کے متعلق سنئے۔ ”یا اهل الكتاب لم تکفرون بایات اللہ وانتم تشهدون (آل عمران)“ تاریخ شاہد ہے کہ صراط مستقیم سے روکنے والے علمائے عصر ہی تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ تاویل کلمات مظہر الہی کے سوا دوسرا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا۔ ”وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم (آل عمران)“ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہود نے کہا کہ ظہور مسیح کی علامات پوری نہیں اتریں اور اس نے طلاق اور سبت کو منسوخ کر دیا ہے۔ حالانکہ تورات پر عامل ہونا اسے ضروری تھا۔ آج تک اسی وجہ سے ظہور مسیح کے قائل ہیں۔ کیا معلوم کہ ان کا خیالی مسیح کب نازل ہوگا؟ درحقیقت یہود خود تورات نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے ”لقاء اللہ“ سے محروم ہو گئے۔ ہم اس مسئلہ کو ایک صاحب کی درخواست پر عربی میں ظاہر کر چکے ہیں اور اب فارسی میں ظاہر کرتے ہیں۔ ”لعل یجری من هذا القلم ما یحییٰ بہ افئدة الناس“ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ میں پھر آؤں گا اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ایک اور آئے گا جو میری تعلیم کو مکمل کر دے گا۔ درحقیقت دونوں کلام کا مطلب ایک ہی ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد جب جناب خاتم النبیین تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور میرا نام عیسیٰ ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا معنی آپ کا ظہور ہی تھا۔ کیونکہ دونوں قائم بامر اللہ تھے اور دونوں ہی ناطق بذکر اللہ تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر سورج کہے کہ میں پھر آؤں گا یا یوں کہے کہ کل اور سورج نکلے گا تو دو عبارتوں کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ سورج ایک ہی ہے اور صرف مطلع میں فرق ہے۔ اسی اصول سے تمام مظاہر کا ظہور حل ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ظہور کا نام اور علامات کو مختلف مقامات میں بیان فرمایا تو آپ کے شاگردوں نے عرض کی کہ یہ رجعت کب ہوگی؟ تو آپ نے ہر ایک رجعت کا وقت اور نشان بتا دیا اور یہ مظلوم (ہباء اللہ) جب بغداد میں نظر بند تھا۔ اس کی تشریح کر چکا ہے۔ اب پھر احسان کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ ”لا نرید منکم جزاء ولا شکورا (دھر)“ ماندہ سماوی ہرگز ہرگز منقطع نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ ”انزل علینا مائدة من السماء (مائدة)“ کیونکہ وہ شجرہ طیبہ ہے۔ ”اصلہا

ثابت و فرعہا فی السماء توتی اکلہا کل حین (ابراہیم) ”فسوس ہے کہ ہم اس ماندہ سے محروم رہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ: ”یا احبباء اللہ“ دل کے کان کھول کر باغِ قدس کا نغمہ سنو۔ کیونکہ غنیمت ہر وقت حاصل نہیں ہوتی۔

نزولِ مسیح کی پیشین گوئی اور بہائی تحریف

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رجعت کے متعلق یوں فرمایا تھا کہ ایک وقت لوگوں پر تنگی ہوگی۔ سورج سیاہ ہو جائے گا۔ ستاروں میں نور نہ ہوگا۔ ارکانِ ارض متزلزل ہوں گے تو اس وقت ابنِ انسان آسمان سے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ ابر سے فرشتوں کے ساتھ نزول کرے گا۔ (متی) عیسائیوں نے جب اصل مقصد نہ سمجھا۔ اس لئے حضور خاتم الانبیاء کی شریعت سے محروم رہے اور کہنے لگے کہ یہ علامات ظاہر نہیں ہوئے۔ حضور کے بعد صور ثانی پھوٹا گیا۔ قبورِ غفلت سے مردہ دل جاگ اٹھے۔ مگر لوگ پھر بھی منتظر ہیں کہ کب یہ علامات ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے۔ مگر میرا کہنا نہیں ٹلے گا۔ یہاں سے عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ انجیل منسوخ نہ ہوگی۔ اسی بناء پر انہوں نے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی تھی۔ اگر ایسے کلام کا مفہوم مظہرِ الہی سے پوچھ لیتے تو گمراہ نہ ہوتے۔ کیونکہ تنگیِ ایام سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ یقین اٹھ جائے گا۔ ظنونِ فاسدہ پھیل جائیں گے اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کی باگ ڈور ہوگی۔ آج کل یہی حالت ہے کہ باوجودیکہ ابوابِ علمِ الہی مفتوح ہیں۔ مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ بند ہیں۔ ان کو تو ابوابِ علم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ ابوابِ نان کھلے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عزت میں فرق آجائے۔ اگر کوئی معارفِ الہی پر نظر ڈالتا ہے تو درندوں کی طرح اس کا ماس کھا جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا تنگی ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس ہر ظہور کے وقت اس قسم کی تنگی ہوا کرتی ہے اور اسی تنگی کو احادیث میں ظلمتِ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معارفِ الہیہ سے تنگی مراد ہے کہ ایامِ غروبِ شمس حقیقت میں خدا رسیدوں کو پہنچتی ہے اور کسی کے پاس پناہ نہیں لے سکتے۔ ”کذلک نعلمک من تاویل الاحادیث“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ سورج میں سیاہی آئے گی اور ستاروں میں روشنی نہ رہے گی اور زمین پر گریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شمس حقیقت کا طلوع ہوگا تاکہ ایقان و توحید کے اشجار و اثمار اس کی روشنی سے حرارتِ محبتِ الہی میں پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ ”منہا ظہرت الاشیاء والی خزائن امرها رجعت ومنها البدء والیہا العود“ اگرچہ ان پاک ہستیوں کی تعریف و توصیف ناممکن ہے۔ ”سبحان اللہ من ان یعرف اصفیائہ



بغیر صفاتہم او یوصف اولیائہ بغیر انفسہم“ مگر شمس و قمر کا اطلاق ان پر وارد ہے۔ چنانچہ دعائے ندبہ میں مذکور ہے کہ: ”این الشموس الطالقة . این الاقمار المنيرة . این الانجم الزاهرة؟“ یعنی انبیاء اولیاء اور اصحاب کو شمس و قمر اور ستارے کہا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر شمس و قمر اور ستاروں سے مراد وہ علمائے عصر بھی ہیں جو ظہور قبل اور ظہور بعد کے درمیانی زمانہ میں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ شمس حقیقت سے نور حاصل کریں تو روشن ہوں گے۔ ورنہ سیاہ ہو جائیں گے۔ علم و فضل میں شہرت کی وجہ سے ان کو شمس کہا گیا ہے۔ مگر شمس حقیقت کے سامنے انکا نور ماند پڑ جاتا ہے۔ پس اگر شمس حقیقت سے نور حاصل کریں تو ان کو شمس عالیہ کہتے ہیں۔ ورنہ ان کو شمس سخیں کہا جاتا ہے۔ ”الشمس والقمر بحسبان (رحمن)“ (نوٹ! شمس و قمر موافق عقائد شیعہ لکھے گئے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے لکھنے سے ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو ہدایت ہو۔ ”نشہد انہم من المفترین . الا من اتی اللہ بقلب سلیم“ ) ”ایہا السائل“ ہمیں عروۃ الوثقی ہاتھ میں لانا ضروری ہے۔ تاکہ کئی سے اثبات میں آسکیں اور نارحسبان سے آزاد ہو کر وجہ منان کے نور سے مشرف ہوں۔ والسلام شمس و قمر سے ایک اور مقام پر شریعت کے احکام مرتفعہ مراد ہوتے ہیں۔

### شمس و قمر و نجوم کا دوسرا معنی

چونکہ ہر شریعت میں صوم و صلوة کی کیفیت جدا گانہ رہی ہے۔ اس لئے تنسیخ و تجدید کے رو سے قمر کہا گیا ہے۔ ”لیبلوکم ایکم احسن عملا (ملك)“ حدیث میں ہے کہ: ”الصوم ضیاء والصلوة نور“ میں ایک روز اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ صوم سے چونکہ حرارت پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو شمس کہا گیا اور صلوة اللیل سے سردی کا عالم نظر آتا ہے۔ اس لئے اس کو قمر کہا گیا ہے۔ مگر اصل حقیقت سے وہ مولوی صاحب واقف نہ تھے۔ میں نے کہا کہ یہ معنی تو عوام الناس کو بھی معلوم ہے۔ مگر اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ قرآن شریف آسمان ہے اور صوم و صلوة اس میں شمس و قمر ہیں اور تار کی شمس و قمر سے مراد ان کی تنسیخ ہے۔ جو اس ظہور سے معلوم ہو سکتی ہے۔ جس کو ابرار کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ”ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا (دھر)“ یہ مسلم ہے کہ ہر ایک ظہور بعد کے وقت ظہور قبل کے احکام اور امر و نواہی منسوخ ہو جاتے ہیں اور یہی معنی شمس و قمر کے سیاہ ہونے کا ہے۔ اگر عیسائی اس معنی کو سمجھ لیتے اور اس فقرہ کا معنی معدن علم سے اخذ کر لیتے تو گمراہ نہ ہوتے۔ کیا ان کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ شمس موعود افق ظہور سے روشن ہو چکا ہے اور ظہور قبل کے

علوم و احکام تاریک ہو چکے ہیں؟ دوستو! راہ راست پر آ جاؤ۔ تاکہ تم کو یہ اسرار اپنی آنکھ سے نظر آ جائیں۔ ”ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ (سجدہ)“ روحانی قدم اٹھا کر دور دراز کی منزل طے کر کے ان معارف تک پہنچ جاؤ۔ ”فلا اقسّم برب المشارق والمغرب (معارج)“ میں بھی یہی اشارہ ہے۔ کیونکہ ہر ایک شمس حقیقت کے لئے الگ الگ مشرق و مغرب ہوتا ہے۔ علمائے عصر چونکہ جاہل تھے۔ اس لئے ان کو ان معارف کی خبر نہیں ہوئی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ روزانہ نقطہ طلوع و غروب بدلتا رہتا ہے۔ اس لئے مشارق و مغارب کہا گیا یا فصول اربعہ کی تبدیلی مشرق و مغرب کی تبدیلی سے مراد ہے۔ ہماری تشریح سے آسمان کے پھٹنے کی کیفیت بھی کھل جاتی ہے۔ ”اذا السماء انفطرت (انفطار)“ کیونکہ آسمان سے مراد یہاں ایک شریعت ہے جو شریعت جدیدہ کے ظہور سے پھٹ جاتی ہے۔ یعنی منسوخ اور باطل ہو جاتی ہے۔ آسمان شریعت کا پھٹنا آسمان بالا کے پھٹ جانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جس کی جاہل مولویوں کو خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خیال کرو کہ مظہر الہی تمام اہل ارض کے بالمقابل حدود الہی قائم کرنے میں کس قدر زحمت اٹھاتے ہیں اور قوم کی ایذا رسانی میں کس طرح صبر کرتے ہیں۔

### تبدیل ارض

تبدیل ارض کا معنی بھی یہی ہے کہ دلوں کی زمین میں طرح طرح کے توحیدی پودے لگا کر نیل اور پھولوں سے مزین کر دیتے ہیں۔ اگر تبدیل ارض کا یہ معنی مراد نہ ہو تو کس طرح وہ لوگ جو کبھی ایک حرف بھی تعلیم نہیں پاتے اور استاذ کی شکل بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی مکتب میں قدم اٹھا کر جاتے ہیں۔ معارف و معانی بتانے لگتے ہیں کہ جن کو کوئی دوسرا محد و علم کا حاصل کرنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ گویا ان میں مٹی علم سردی ہوتی ہے اور پانی اسرار حکمت کا ہوتا ہے۔ جس سے خمیر پا کر ان کی سرشت تیار ہو جاتی ہے۔ ”العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء“ ورنہ سردی کے دوسرے علوم جو ایک دوسرے سے سرقہ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ کبھی قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ اے کاش لوگوں کے دل ان کلمات محدودہ اور خیالات مجوبہ سے پاک ہو جاتے اور شمس علوم حکمت لدنی سے منور ہو جاتے۔ اگر قلوب کی زمین تبدیل نہ ہو سکتی ہوتی تو کیسے ان میں علوم الوہیت کا ظہور ہوتا۔ ”یوم تبدل الارض غیر الارض (ابراہیم)“ اس وقت سلطان وجود کی عنایت سے ارض ظاہر بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ ”ل و انتم فی اسرار الظہور تتفکرون الارض جمعياً قبضتہ یوم القیمة والسماوات مطویات بیمی نہ (زمر)“

اگر اس آیت سے یہ سمجھا جائے کہ خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو اپنے ظاہری ہاتھ میں لے کر چھپالے گا تو بالکل بے معنی بات ہو جاتی ہے اور صریح کفر لازم آتا ہے۔ اگر یوں کہو کہ مظاہر امر قیامت کو ایسا کریں گے تو یہ حرکت بھی فضول نظر آتی ہے۔ بلکہ مراد یہاں ارض معرفت اور آسمان شریعت ہے جو آج خدا نے سمیٹ کر دوسری زمین اور دوسرا آسمان پیدا کر دیا ہے اور شمس و قمر و نجوم جدیدہ سے ان کو آراستہ کر کے مزین کر دیا ہے اور یہ رموز و اشارات جو مصادرا مر یہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سخت امتحان مضمحل ہوتا ہے کہ دیکھیں ارض قلوب میں سے کس قدر اچھی ہے اور کس قدر بری؟ آیت قبلہ میں بھی غور کرو کہ ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے۔ جو بعض کو ناگوار گذرتا تھا۔ پھر یہ حکم نازل ہوا کہ: ”قد نری تقلب وجهک فی السماء (بقر)“ ایک روز آپ نماز ظہر پڑھا رہے تھے اور ابھی دو رکعت باقی تھیں کہ حکم ہوا۔ ”فول وجهک شطر المسجد الحرام“ تو آپ نے اسی وقت بیت اللہ کی طرف رخ تبدیل کر لیا۔ اس میں بھی امتحان ہی مطلوب تھا۔ ورنہ اگر وہی بیت المقدس سجدہ گاہ بنا رہتا تو کیا بعید تھا۔ کیونکہ پہلے انبیاء علیہم السلام اسی کو سجدہ کرتے رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ یوں تو تمام روئے زمین کو خداوند تعالیٰ سے ایک ہی نسبت حاصل ہے۔ ”فاینما تولوا فثم وجہ اللہ“ مگر اسے اختیار ہے کہ ایک زمین کو اپنے لئے مخصوص کر کے اپنے بندوں کا امتحان کرے۔ ”الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ (بقرہ)“ کہ کون نماز توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ”حمر مستنفرہ (مدثر)“ اس قسم کی تبدیلیوں میں اگر غور کیا جائے تو تمام مطالب حل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ خدا کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اور یہ تبدیلیاں صرف تربیت نفس کے لئے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ بندہ اپنی ذاتی اغراض سے نکل کر احکام الہی کے ماتحت ہو جائے۔ اس لئے اس کے امتحانات ہر وقت بارش کی طرح نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر انبیائے سابقین پر نظر دوڑاؤ تو تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبلی کو قتل کر کے مدین کو دوڑ جاتے ہیں۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر واپس آتے ہیں تو وادی الیمین میں ”مامور من اللہ“ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کو دعوت تو حید دیتے ہیں تو قتل کا الزام لگا کر انکار کر دیتا ہے اور خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ: ”فعلتھا اذا وانا من الضالین (شعراء)“ اس سے پہلے فرعون کے گھر ہی تیس سال پرورش پاتے رہے۔ اگر ابتلاء خدا کو منظور ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو

ان الزمات سے روکا جاسکتا تھا۔ مریم علیہا السلام کو دیکھئے کہ تالیف عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تنگ آ کر یوں کہتی ہیں کہ: ”یلتنی مت قبل هذا (مریم)“ ”ہائے میں اس سے پہلے ہی مرجاتی۔“ اور دشمنوں کو ان کے تحقیر آمیز کلمات کا کوئی جواب نہیں دیتیں۔ پھر بے پدر بیٹے کو خدا نے پیغمبری بخشی تو اور ابتلاء ہوا اور لوگوں کے خواہش کے مطابق خدا نے نہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے تمام واقعات برے لوگوں کے لئے باعث نفرت ہوا کرتے ہیں اور نیک سرشت لوگوں کے حق میں رحمت ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ایسے واقعات رونما ہوں تو ایک بھی تسلیم نہ کرے گا اور کہیں گے کہ بے پدر کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے اور قاتل بے گناہ کو کس طرح پیغمبری مل سکتی ہے اور موجودہ ظہور میں اگرچہ اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوئے۔ مگر پھر بھی دیکھئے مخالفوں نے کیا کیا مصائب ڈھائے ہیں۔ جب ہم یہ بیانات ختم کر چکے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے تازہ بشارات حاصل ہوئی ہیں اور اس یار بے نشان سے بیشمار عنایات پہنچی ہیں۔ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسرار و دقائق ہمارے سینہ میں ودیعت رکھ دیئے ہیں اور اس قدر عنایات ہوئی ہیں کہ روح القدس بھی کمال حسرت میں خاموش ہے۔ گہریلے کو مشک نافہ کی امید ہو رہی ہے۔ جسمانی قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں۔ دوستو! دل میں روحانی چراغ جلاؤ اور عقل کی چمنی لگا کر محفوظ رکھو کہ کہیں باد مخالف سے گل نہ ہو جائے۔

### ظہور عیسیٰ علیہ السلام کا مفہوم

عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اس وقت ابن انسان ابر میں ظاہر ہو کر کمال جلال میں نازل ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مظہر الہی سے پہلے شریعت سابقہ کے منسوخ ہونے کے وقت آسمان پر ایک ستارہ نظر آئے گا کہ جس سے اس کی تصدیق ہوگی اور زمین پر ایک تصدیقی اور بشارت آمیز آواز بلند ہوگی جو ظہور مظہر سے پہلے لوگوں کو سنائی دے گی۔ (جیسا کہ ظہور بہاء کے اوّل ستارہ نمودار ہوا اور وہ مبشر احمد و کاظم بھی تبلیغ کرتے رہے) اور یہ قاعدہ ہے کہ مظہر الہی کے اوّل آسمان پر ایک تصدیقی ستارہ نمودار ہوتا ہے اور زمین پر ایک بشارت دینے والی آواز آتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کو خواب آیا تو نجومیوں نے بتایا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہستی ایسی زبردست ظاہر ہونے والی ہے کہ تیری تباہی اس کے ہاتھ سے ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک مبشر بھی پیدا ہوا۔ جو لوگوں میں حضرت خلیل علیہ السلام کی خبر سنایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ستارہ بھی کاہنوں نے فرعون کو بتا دیا تھا اور ایک عالم ایسا بھی پیدا ہوا تھا جو بنی اسرائیل کو ظہور موسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیا کرتا تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام ظاہر ہوئے تو یہودیوں نے ستارہ کی خبر دی اور حضرت یحییٰ مبشر بن کر پہلے آچکے تھے۔ حضور ﷺ کے وقت ایک نہیں کئی ہزار آثار سماوی ظاہر ہوئے تھے اور چار مبشروں نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ جن کی ہدایت کی رو (سلمان فارسی) مشرف باسلام ہوئے تھے اور عام نجومیوں نے بھی بتا دیا تھا کہ حضور ﷺ کا ظہور قریب ہے۔

### مسیح علیہ السلام کا ابر سے اترنا

مسیح علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اس وقت تمام روئیں گے تو ابن انسان کمال جلال میں ابر سے اترے گا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ جب شمس الہی کا نقدان ہوگا اور قمر علم سیاہ ہو جائے گا اور انجم حکمت لدنی پوشیدہ ہو جائیں گے تو لوگ روئیں گے۔ اس وقت مشیت ایزدی کے آسمان سے شمس الہی کا ظہور ہوگا اور ابر سے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیونتا قدیمہ ہمیشہ سے قالب بشری میں نمودار ہوتے ہیں اور ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ مگر باطن میں سماوات امر سے نازل ہوتے ہیں اور گو بظاہر کھاتے پیتے چلتے پھرتے جسمانی قوئی سے نظر آتے ہیں۔ مگر حقیقت میں عالم ارواح میں بے پراڑتے ہیں۔ بے قدم چلتے ہیں ایک لمحہ میں مشرق و مغرب کی خبر حاصل کرتے ہیں اور آسمان کا لفظ شمس معانی کے متعلق مختلف مراتب کمال پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں۔ ”سما مشیئة سما ارادہ، سما عرفان، سما ایقان، سما تبیان، سما ظہور، سما بطون“ وغیرہ اور ہر مقام پر سماء کا معنی وہ مراد ہوتا ہے جو ابرار کے سوا کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ قرآن شریف میں ہے کہ: ”وفی السماء رزقکم (ذاریات)“ حالانکہ خوراک زمین پر ہے۔ یہ بھی وارد ہے کہ: ”السماء تنزل من السماء“ جب تک ظاہری علوم سے نکل کر حقیقی علوم کی روشنی میں ان معانی کے سمجھنے کی کوشش نہ کرو گے یہ تمام امور خلاف ظاہر نظر آئیں گے۔ علم دو قسم ہے۔ اول الہی جو الہام سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا معلم خود خدا ہے۔ ”اتقوا اللہ یعلمکم“ اور اس سے صبر و عرفان اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوم شیطانی، جو وساوس نفسانی اور ظلمات نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا معلم شیطان ہے اور وساوس نفسانی ”العلم الحجاب الاکبر“ اور اس سے کبر و غرور و نخوت پیدا ہوتی ہے۔ ”ظلم نار مهلك وثمره سم قاتل . تمسک پا ذیال اھوی ناخلع الحیا . و خل سبیل النامکین وان جلا“ سید صاف کے بغیر علم الہی حاصل نہیں ہوتا۔ ”السالك فی النهج البیضاء والرکن الحمراء لن یعمل النی وطنه الا بالف الصفر عما فی ید الناس“ خلاصہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا ابر سے اترنا یہ ہے کہ مسیح کے خلاف توقع خواہشات اہل زلیغ نازل ہوگا۔ مثلاً تغیر احکام،

تبدیل شرائع، ارتفاع قواعد و رسوم عادیہ و تقدم مؤمنین بر معترضین از علماء و جہلاء، یا ابر سے مراد مسیح کا عوارض بشریہ سے ملتبس ہونا ہے۔ جیسے کھانا، پینا، نوم و نقطہ وغیرہ اور یہ وہی ابر ہے کہ جس سے علم و عرفان کا آسان پھٹ جائے گا۔ ”یوم تشقق السماء بالغمام (فرقان)“ اسی ابر سے شمس حقیقی نظر نہیں آتا۔ ”وقالوا ما لهذا الرسول یا کل الطعام (فرقان)“ یہ لوازم جسمانی اور بھوک، پیاس، یاغم و الم ایک رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ ایسا آدمی کس طرح اپنے آپ کو تمام دنیا کی ہستی کا سبب ثابت کر سکتا ہے۔ ”لولا انک لما خلقت الافلاک“ اور یہی سیاہ ابر ہے کہ شمس حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ساہا سال گنہ رجاتے ہیں۔ آباؤ اجداد کی تقلید میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ احکام و شرائع جاری ہیں اور ان کا خلاف کٹر سمجھا جاتا ہے۔ مگر دور جدید آتا ہے اور شمس حقیقت دوسری دفعہ چمک کر احکام جدیدہ لاتا ہے تو احکام سابقہ کے سیاہ ابر میں لوگ پھنسے ہوئے فوراً مظہر الہی کو کافر اور واجب القتل سمجھتے ہیں۔ جس کا ثبوت ہر ایک نبی کی سوانح حیات سے مل سکتا ہے اور اس وقت بھی موجود ہے۔ ”هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام (بقرہ)“ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی قیامت کے ایک روز خدا ابر سے ظاہر ہوگا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ ظہور جدید کے وقت لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گذشتہ شریعت نے لے کر ہی یہ ظہور بھی آئے گا۔ کیونکہ خدا کا آنا مظہر کا آنا ہے اور ابر سے مراد شریعت قدیمہ ہے اور یہ مضمون بارہا کتب سماویہ میں دہرایا گیا ہے۔ ”یوم تاتی السماء بدخان مبین (دخان)“ میں بھی یہی مضمون ہے کہ مخالفین کے لئے شریعت جدیدہ عذاب الیم اور دخان عظیم کا نمونہ بن جاتا ہے اور جس قدر ظہور جدید کو رفعت حاصل ہوتی ہے یہ لوگ اسی قدر اضطراب میں پڑ جاتے ہیں۔ عہد حاضر میں بھی جب مخالف سامنے آتا ہے تو سوائے اقرار و تصدیق کے کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر جب خلوت میں جا کر اپنے ہم مشربوں سے ملتا ہے تو وہی سب و شتم شروع کر دیتا ہے۔ ”اذا القواکم قالوا امننا فاذا خلوا عضوا علیکم الا نامل (آل عمران)“ امید ہے کہ بہت جلد ہماری تعلیم تمام روئے زمین پر پھیل جائے گی۔ ان آیات کو چونکہ لوگوں نے وہی قیامت پر چسپاں کر دیا ہوا ہے۔ اس لئے اصل مقصد سے بے بہرہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مسیح ابر سے فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہمراہی قوت روحانیہ کی وجہ سے فرشتہ صفت ہوں گے۔ کیونکہ حضرت صادق کا قول ہے کہ: ”قوم مسن شیعتنا خلف عرش“ پھر فرمایا کہ: ”المؤمن کبریت احمر“ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مؤمن بہت کم ہیں۔ اس وقت بے ایمانوں نے اہل ایمان پر ظالمانہ طور پر کفر کے فتوے

لگادیئے ہیں۔ عیسائیوں کو چونکہ اس پیشین گوئی کی اصلیت کا پتہ نہیں چلا۔ اس لئے جب بھی ظہور جدید ہوا اس سے انکار ہی کرتے رہے ہیں۔ اتنا نہیں سوچا کہ اگر مظہر جدید کے تمام نشان ویسے ہی ظاہر ہوں جس طرح کہ لوگوں نے اپنے وہم میں ہٹھا رکھے ہیں۔ تو ابتلاء الہی کیسے قائم رہ سکتا ہے اور شتی وسعید میں امتیاز کیسے ہوگا؟ کیونکہ انجیل کی پیشین گوئی کے مطابق اگر ظہور جدید کی آمد تسلیم کی جائے تو کسی کو انکار کا موقعہ ہی نہیں رہتا۔ بلکہ ابر سے فرشتوں کے ساتھ اترنے والے مسیح پر ایمان بالمشاہدہ پر مجبور ہو جائیں گے۔ مگر چونکہ اصل مقصد کچھ اور تھا۔ عیسائیوں نے ظاہری الفاظ پر زور دے کر حضور علیہ السلام کے ظہور پر بھی وہی اعتراض جڑ دیا کہ فرشتہ کہاں ہے۔ جو آپ کی صداقت ظاہر کرتا ہو۔ ”لو انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیراً (فرقان)“ اور یہ بیماری ہر ظہور کے وقت پھیلتی رہی ہے اور اگر علمائے نصر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی فلاں علامت نہیں پائی گئی اور اپنے اجتہاد سے ظہور جدید کا انکار کر دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ: ”حدیثنا صعب مستعصب لا یحتملہ الا ملک مقرب اونبی مرسل او عبدا متحن اللہ قلبہ الایمان“ اس کے ہوتے ہوئے بھی ان کو خیال پیدا نہیں ہوتا کہ علامات کا تصفیہ خود ظہور جدید سے کرا لینا ضروری ہے۔ درحقیقت یہ غافل ہیں۔ کیونکہ تمام نشان موجود ہو چکے ہیں۔ پل صراط رکھا جا چکا ہے۔ ”والمؤمنون کالبرق علیہ یمرن وہم لظہور العلامۃ ینتظرون“ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ظہور کے وقت بھی تو تمام ظاہری علامات پیدا نہیں ہوئی تھیں تو جواب دیتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کو بدل ڈالا تھا۔ ورنہ سب کا ظہور یقینی تھا۔

تحریف

حالانکہ قرآن خود شاہد ہے کہ یہ کتب سابقہ من عند اللہ ہیں۔ تحریف صرف ایک واقع میں ہوئی ہے کہ رجم کے متعلق ابن صوریہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بے شک تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ مگر جب بخت نصر کے زمانہ میں یہودی کم ہو گئے تھے تو علمائے نصر نے رجم کا حکم منسوخ کر دیا تھا۔ ”یحرفون الکلم عن مواضعہ (نساء)“ لوگ بے سمجھی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہود نے حضور علیہ السلام کے علامات ظہور بھی بدل ڈالے تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ تورات صرف مکہ مدینہ میں نہ تھی۔ بلکہ تمام عرب میں موجود تھی۔ اگر کسی نے تبدیلی کی ہوتی تو دوسرا صحیح نسخہ اس کی تکذیب کر سکتا تھا۔ ہاں تحریف سے مراد صرف یہ ہے کہ اپنے خیالات کے مطابق تورات کی تفسیر کی جاتی تھی۔ جیسا کہ آج قرآن شریف کی تفسیر اپنے خیالات کے

مطابق خود مسلمان کر رہے ہیں۔ اس لئے ان کو بھی حضور علیہ السلام کے ظہور میں تامل پیدا ہو گیا تھا۔ ”یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ (بقرہ)“ ورنہ وہ محکمات تورات کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ ”یکتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله (بقرہ)“ عہد حاضر میں علمائے عصر اپنے خیال کے مطابق تفسیر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ظہور بہاء قرآن کے خلاف ہے۔ کچھ احمق یوں کہہ دیتے ہیں کہ اصل انجیل آسمان پر اٹھالی گئی ہے اور عیسائیوں کے پاس نہیں رہی۔ مگر یہ غلط ہے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلک چہارم پر ارتقاء فرما کر قوم سے غائب ہو گئے تو جب انجیل بھی ساتھ ہی لے گئے تھے تو لوگوں کے لئے کون سا دستور العمل چھوڑ گئے تھے۔ جس پر عمل پیرا ہو کر نجات پاسکتے تھے؟ کیا چھ سو سال لوگ گمراہی میں ہی پڑے رہے اور خدا تعالیٰ نے اپنا فیض بند کر دیا تھا اور بخل سے کام لے کر نجات کی راہ بند کر دی تھی۔ ”فنعوذ بالله عما یظن العباد فی حقہ فتعالی عما ہم یعرفون“ دوستو! صبح ازل نمودار ہو گئی ہے۔ کرمہت باندھ لو، تا کہ انا اللہ کے مقام میں داخل ہو کر الیہ راجعون تک رسائی پاسکو۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا وجود محتاج دلیل نہیں۔ کیونکہ انسان جب روح وریحان کی ہوا میں پرواز کرتا ہے تو خدا کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر دلیل پر توجہ ہو تو یہی آیت کافی ہے کہ:

”اولم یکفہم انا انزلنا علیک الكتاب (عنکبوت)“ امید ہے کہ آپ لوگ اصل مقصد پر اطلاع پا کر کتاب کی بعض عبارتوں پر اس قسم کے اعتراضات پیدا نہ کریں گے۔ جو کور فرق (خردماغ) پیدا کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا قادر ہے کہ قبض روح کرے یا اپنی عنایت سے تمام کو حیات بدیہہ بخشے تم اسی کے منتظر رہو۔ کیونکہ اصل مقصد اس کا لقاء ہے۔ ”لیس البر ان تولوا وجوهکم (بقرہ) اسمعوا یا اهل البیان ما وصیناکم بالحق لعل تسکنن فی ظل کان فی ایام اللہ ممدودا“

شمس حقیقت

”الباب المذكور فی بیان ان شمس الحقیقہ ومظہر نفس اللہ لیکون سلطانا علی من فی السموات والارض وان لن یطیعہ احد من اهل الارض وغنیاً عن کل من فی الملک وان لم یکن عنده دینار۔ كذلك نظهرک من اسرار الامر ونلقى علیک من جواهر الحکمة لتطیرن بحناحی الانقطاع فی الهواء الذی کان عن الابصار مستورا“ ہر زمانہ میں مظہر الہی موجود ہوتا ہے۔ جس کو شمس حقیقت کہتے ہیں اور ایک زبردست سلطنت کے ساتھ ظاہر ہو کر ”یفعل اللہ ما یشاء



و یحکم ما یرید (انعام) ”کا محل بروز بنتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ذات باری بروز، ظہور، صعود، نزول، دخول، خروج اور ادراک بالہصر وغیرہ سے پاک ہے۔ ”لا تدركه الابصار (انعام)“ کیونکہ ممکنات سے اس کو نسبت، ربط، فصل وصل اور قرب و بعد یا جہت و اشارہ کا تعلق نہیں ہے اور جملہ کائنات کلمہ امر سے موجود ہوئی ہے اور اس کے ارادہ اور مشیت سے معرض وجود میں آئی ہے۔ بلکہ ممکنات اور کلمہ الہیہ کے درمیان بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ”یحذرکم اللہ نفسہ (آل عمران) کان اللہ ولم یکن معہ شیء“ تمام انبیاء و اصفیاء و اولیاء معترف ہیں کہ اس کی کنہ ذات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے تقاضائے رحمت الہیہ یوں ہوا کہ جو ہر قدس نورانی کو عالم روح و ربجان سے انسانی ہیکل میں ظاہر فرمائے تاکہ وہ ذات باری کی ترجمانی کریں۔ اس لئے ان مرایائے قدسیہ کا علم قدرت، سلطنت، جمال اور ظہور اسی کا علم و قدرت اور اسی کا جمال اور سلطنت اور اسی کا ظہور ہوتا ہے اور علوم ربانی کا مخازن اور فیض نامتناہی کے مظاہر ہوتے ہیں اور شمس لایزالی کے مطلع بھی یہی ہیں۔ ”لا فرق بینک و بینہم الا بانہم عبادک و خلقک“ اور یہی وہ مقام ہے کہ: ”انا هو و هو انا“ کائنات کا ہر ذرہ محل بروز صفات الہیہ ہے اور اس میں نامتناہی کمالات مرکوز ہیں۔ مگر انسان خصوصیت کے ساتھ تمام صفات الہیہ کا مکمل مظہر ہے۔ ”الانسان سری و انا سرہ سنریہم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم (سجدہ) و فی انفسکم افلا تبصرون (ذاریات) کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم (حشر) (قال علیؑ) ایکون لغيرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون ہو المظہر لک . ممیت عین لا تراك، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت اللہ فیہ اوقبلہ اوبعدہ . نور اشرق من صبح الازل فیلوح علی ہیاکل التوحید اثارہ“ اور جو انسان کامل ہوتے ہیں وہ شمس حقیقت کا مظہر بنتے ہیں اور باقی کائنات ان کے ارادہ سے موجود ہے اور انہی کے فیض سے متحرک ہے۔ ”لولاک لما خلقت الافلاک“ یہ ہیکل قدسیہ مرایائے اولیہ ازلیہ ہوتے ہیں۔ ان ہی سے اسمائے صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ گو اس کمال میں تمام مظاہر مساوی ہیں۔ مگر بعض میں چند صفات کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس لئے ان میں کچھ فرق پیدا ہو گیا ہے۔ ”فضلنا بعضهم علی بعض (بقرہ)“ اور چونکہ تمام مظہر اسمائے صفات الہیہ ہیں۔ اس لئے تمام کے تمام میں سلطنت و عظمت کا پایا جانا ضروری ہے۔ گو اس کا ظہور ان کے عین حیات میں ہو یا بعد میں، مخالف چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس لئے ان کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ: ”ان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا (اعراف)“

## قیام سلطنت

عقلت کی وجہ سے ان کو راہ راست نہیں ملا۔ ہم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ: ”القائم بامر اللہ“ کی سلطنت حسب روایات ظاہری طور پر معلوم ہوتی ہے۔ عہد بہاء میں اس کے برخلاف ظلم و ستم تجبر و استبداد اور قتل و غارت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر انبیاء ہو گزرے ہیں۔ ہر ایک نے دوسرے کی سلطنت کی خبر دی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی قائم بامر اللہ کے متعلق سلطنت کی خبر دی ہے۔ اس لئے جس طرح انبیاء میں سلطنت کا ظہور ہوا ہے۔ اسی طرح قائم بامر اللہ میں بھی ظہور تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہ سلطنت اور دیگر صفات الہیہ کے مظہر اتم ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں سلطنت سے مراد غلبہ اور تمام ممکنات پر قبضہ یا احاطہ ہے۔ خواہ یہ معنی سلطنت ظاہری سے پیدا ہو یا باطن سے اور نبی کے عہد حیات میں یا بعد از حیات۔ یہ سب خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ جب چاہے اس کا ظہور کرے۔ بلکہ سلطنت سے مراد احاطہ باطنی ہے اور آہستہ آہستہ احاطہ ظاہری بھی نمودار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھئے کہ کفار اور علماء عصر نے کس قدر آپ پر ظلم ڈھائے اور کس قدر آپ کو ایذا رسانی سے اپنی تحصیل ثواب میں کوشاں رہے اور کس قدر عبد اللہ بن ابی، ابو عامر راہب، کعب بن اشرف اور نضر بن حارث وغیرہ علمائے عصر نے آپ کی تکذیب کی۔ اب بھی علمائے عصر اگر کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو کس قدر اس کی شامت آجاتی ہے۔ جیسا کہ اس مظلوم پر وارد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ: ”ما اوذی نبی بمثل ما اوذیت“ اور قرآن شریف میں بھی آپ کے یہ جانفروا واقعات مذکور ہیں کہ جو شخص آپ کی حمایت کرتا تھا اس کی بھی شامت آجاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور کمال پریشانی میں تھے۔ تو یہ حکم ہوا کہ: ”وان کان کبر علیک اعراضہم (انعام)“ لیکن آج یہ حال ہے کہ سلاطین عالم آپ کی غلامی کو طرہ امتیاز بنائے ہوئے ہیں اور آپ کا نام کمال تعظیم و تکریم سے لیا جا رہا ہے۔ یہی سلطنت ظاہرہ کا مقام ہے جو ہر نبی کو نصیب ہوتا ہے۔ خواہ عین حیات میں یا بعد از عروج بموطن حقیقی اور سلطنت الہی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دم جدا نہیں ہو سکتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک ہی آیت سے آپ نے نور و ظلمت میں فرق کر دیا اور حشر و نشر حساب و کتاب تمام امور بھی اسی سے ظاہر ہو گئے اور یہی آیت ابرار کے لئے رحمت بن گئی۔ ”ربنا سمعنا و اطعنا“ اشرار کے لئے مصیبت ثابت ہوئی۔ ”سمعنا و عصینا“ اور یہی سیف اللہ ثابت ہوئی۔ جس سے مؤمن و کافر جدا ہو گئے۔ عاشقوں نے معشوق چھوڑ دیئے اور باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ مگر دوسری طرف سا لہا سال کی عداوت کا خاتمہ بھی کر دیا اور

حمت کے دشمن آپس میں ایسے ہو گئے کہ گویا صلیبی بھائی ہیں اور مختلف المذہب یا مختلف المزاج جب اس توحید جدید میں داخل ہوئے تو متحد الخیال بن گئے اور بھڑپے بھری کا نظارہ پیش ہو گیا کہ ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ مگر جاہل ابھی تک منتظر ہیں کہ یہ نظارہ کب ہوگا۔ "لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا (اعراف)" اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک ہی آیت کے نازل ہونے سے کس طرح تمام مخلوقات کا حساب ہو گیا ہے کہ سینات معاف ہو کر حسات کو سبقت کر رہی ہیں۔ "فصدق انہ سریع الحساب . كذلك یدبدل اللہ السیئات بالحسنات لو تتفرسون" ہر مومن نے حیوۃ ابدیہ حاصل کرنی ہے اور منکر موت ابدی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس مقام پر موت و حیاۃ سے مراد ایمانی موت و حیاۃ ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے اہل عصر پر موت و حیاۃ حشر و نشر کا حکم لگایا تو بخول کرنے لگے۔ اسی طرح ہمارے زمانہ میں معرض وجود میں آیا ہے۔ "ولئن قلت انکم مبعثون من بعد الموت (ہود)" اگر ان سے کہا جائے کہ تم موت کے بعد اٹھے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ دھوکا ہے۔ "فعجب قولہم ذاکنا تراباً ائنا لفی خلق جدید (رعد)" یہ ان کی بات بہت عجیب ہے کہ ہم تو مٹی تھے کیا ہم مبعوث ہو چکے ہیں۔ "یل ہم فی لبس من خلق جدید" مشرک اس نئی ہستی کے متعلق شک کر رہے ہیں۔ نادانوں نے غلط تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ: "اذا" حرف شرط یہاں موجود ہے۔ اس لئے ان آیات کا تعلق آئندہ عالم آخرت سے ہوگا۔ مگر جب وہ آیات پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں اذامہ موجود نہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسے "نفع فی الصور (ق)" بگل بیج گیا اور یہی یوم و عید ہے۔ پھر یا تو اذالہ اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں۔ یا یوں عذر کرتے ہیں کہ قیامت چونکہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اس لئے اس کو فعل ماضی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس جگہ فتح محمدی مراد ہے اور قیامت سے مراد آپ کا قیام ہے اور آپ نے مردہ دلوں کو نور ایمان سے زندہ کیا تھا۔ کیونکہ یہ صاف مذکور ہے کہ: "فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی ہو؟ (اسرنہ)" مخالف کہیں گے کہ یہ کب ہوگا تو آپ کہہ دیں کہ شائد وہ بالکل قریب ہے۔ مگر لوگوں نے نہ سمجھا اور علانے عصر کے خیالی بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے فرما چکے تھے کہ: "لا بد لکم بان تولد وامرۃ اخری" تم کو ایک دفعہ اور پیدا ہونا پڑے گا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ: "من لم یولد من الماء والروح لا یقدر ان یدخل ملکوت اللہ . المولود من الجسد جسد ہو . والمولود من الروح روح ہو" جو شخص آب معرفت اور روح عیسوی سے پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی حکومت میں داخل نہیں

ہوگا۔ کیونکہ جو جسم ظاہری سے پیدا ہوگا۔ وہ جسم ہی ہوگا اور جو نفس عیسوی سے پیدا ہوگا وہ خاص روح ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مظاہرِ قدس کے فحشہ اور روح سے تولد پا کر زندہ ہوتا ہے تو اس کا حشر جنتِ محبتِ الہی میں ہوتا ہے اور جو لوگ اپنے زمانہ کے روحِ القدس سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ ان پر موت، نار، عدم بصر وغیرہ کا حکم لگ جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک عقیدت مند کا باپ مر گیا۔ تو اس نے کفنِ دفن کے لئے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ: "دع الموتی بدفننہ الموتی" جانے دو مردے خود مردوں کو دفن کر لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیحجامہ تیار کرایا جانے کو آیا تو آپ نے منی سے فرمایا کہ لکھو: "قد اشتري ميت عن ميت بيتا محدودا بحدود اربعة . حد الى القبر وحد الى اللحد وحد الى الصراط وحد الى الجنة واما الى النار" اگر اس کاغذ کے دونوں فریق (بائع و مشتری) بھٹتے علوی کو تسلیم کئے ہوتے تو ہرگز آپ ان کو میت اور مردہ نہ کہتے۔ کیونکہ کبھی بھی انبیاء اولیاء کے نزدیک حشر، بھٹ اور حیات سے بجائے حقیقی معنی کے رواجی معنی نہیں لئے گئے اور حیاتِ حقیقی سے مراد حیاتِ قلب (زندہ دلی) ہے۔ جو صرف ایمانداروں کو ملتی ہے۔ جس کے بعد موت نہیں آتی۔ "المؤمن حسی فی الدارين" اب ہم اپنے مدعا پر ایک روشن دلیل پیش کرتے ہیں کہ امیر حمزہؑ جب مسلمان ہوئے تھے اور ابو جہل ایمان سے باز رکھا گیا تھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ: "افمن كان ميتا فاحييناه..... كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها (انعام)" جناب حمزہؑ مردہ دل تھے۔ ہم نے ان کو زندہ دل کر دیا ہے۔ اب کیا ابو جہل ان کے برابر ہو سکتا ہے جو ابھی تک ظلمتِ کفر میں پڑا ہوا ہے اور نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حمزہؑ کب مردہ دل تھے کہ اب زندہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ معارف سے آشنا نہ تھے۔ آج بھی چھوٹے بڑے جعل ہائے ظلمانی اور مظاہرِ شیطانی کی بیرونی کرتے ہیں اور انہی سے مشکل مسائل پوچھتے ہیں۔ جن کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے تقدس میں فرق نہ آئے۔ حالانکہ جعلِ سرشتوں کو خوشبوئے معرفت نصیب نہیں ہوئی تو دوسروں کو کیا خوشبو پہنچا سکتے ہیں۔ "لن يفوز بسائر الله الا الذين هم اقبلوا اليه واعرضوا عن مظاهر الشيطان . كذلك اثبت الله حكم اليوم من قلم الغرة على لوح كان على سوادق الغرمكنونا" ان تمام بیانات سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ سلطانِ السلاطین کی سلطنتِ حقیقی ثابت کریں۔ سو ناظرین خود انصاف کریں کہ کیا چند دن کی ظاہری سلطنت جو اعانت اور امن رعایا کی محتاج ہے بہتر ہے یا وہ سلطنتِ افضل ہے جو صرف ایک

کلمہ سے غالب اور قاہر رہتی ہے اور ہمیشہ کے لئے اس کے حکم رائج رہتے ہیں۔ ”ما للتراب ورب الارباب؟“ ہاں سلطنت کے اور بھی بہت معانی ہیں کہ جن کے بیان کرنے پر نہ میں طاقت رکھتا ہوں اور نہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ”فسبحان اللہ عما یصف العباد فی سلطنة وتعالیٰ عما ہم یذکرون“ اگر سلطنت کا ظاہری معنی لے کر یہ سمجھا جائے کہ اس سے دوست آرام پاتے ہیں اور دشمن ذلیل ہوتے ہیں تو ذات باری میں یہ معنی نہیں پایا جاسکتا۔ کیونکہ اس کے دوست ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں اور دشمن آرام میں رہتے ہیں۔ جناب حسین بن علی علیہ السلام ارض طف میں جام شہادت پیتے ہیں اور ”لولا لم یکن فی الملك مثله“ کا طرہ امتیاز حاصل کئے ہوئے ہیں۔ مگر ”ان جنودنا ہم الغالیون (صافات)“ کا مصداق نہیں بن سکتے۔ اس لئے یہاں غلبہ ظاہری مراد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کفار نے انبیاء کو بچا دکھا کر قتل تک پہنچا دیا۔ مگر حکم یہ ہوتا ہے کہ: ”واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون“ جس سے مراد یہ ہے کہ غلبہ حقیقی سے نور کی تکمیل ہوگی۔ چنانچہ جناب حسین علیہ السلام کا خون جس مقام پر گرا ہے اس کا ایک ذرہ بیماریوں کی شفا ثابت ہو چکا ہے اور گھر میں رکھنا موجب خیر و برکت اور کثرت مال و حفاظت مال و جان ہوتا ہے اور اس میں اس قدر فوائد ہیں کہ اگر بیان کروں تو لوگ کہیں گے کہ تم تو مٹی کو خدا سمجھنے لگ گئے ہو۔ اسی طرح جناب کو کمال کس پیر سی میں بلا غسل و کفن و دفن کیا گیا۔ مگر آج یہ عزت ہے کہ چاروں طرف سے لوگ زیارت کے لئے آپ کی آستان پر جبہ سائی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ”فنا کلی“ کے مقام پر خدا کی راہ میں مال و جان قربان کر دیا تھا۔ اس لئے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری جماعت میں سے بھی اس مقام پر بہت سے لوگ پہنچیں گے۔ مگر ابھی تک سوائے معدودے چند کے ہم کسی کو کامیاب نہیں دیکھتے۔ ”کذالک نذکر لکم من بدائع امر اللہ و نلقى علیکم من نعمات الفردوس . لعلکم بمواقع العلم تصلون . و من ثمرات العلم ترزقون“ یہ لوگ اگرچہ مفلس ہوں۔ پھر اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں۔ ذلیل ہوں تو دماغ عرش پر ہوتا ہے۔ عاجز ہوں تو سلطان وقت بنتے ہیں اور غیر کے قبضہ میں گرفتار ہوں تو اپنے آپ کو غالب اور فتح مند جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کرسی پر بیٹھ کر یوں فرمایا تھا کہ بظاہر میری غذا گھاس ہے۔ جس سے میں اپنی بھوک بند کر لیتا ہوں اور بسترہ سطح زمین ہے۔ چراغ چاند کی روشنی اور سواری میرے دونوں پاؤں ہیں۔ مگر اس ناداری پر ہزار مالدار ی نثار ہیں۔ اور اس ذلت پر لاکھوں عزت قربان ہیں۔ جناب صادق علیہ السلام کے پاس ایک عقیدت مند نے ناداری کی شکایت کی تو آپ نے

فرمایا کہ تم تو غنی ہو۔ وہ حیران ہوا کہ میں کیسے غنی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آیا تم میری محبت رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم اس کو ہزار دینار سے بیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جب تمہارے پاس ایسی قیمتی چیز موجود ہے تو پھر تم کیسے مفلس ہو؟ اس لئے خدا کے نزدیک سب فقیر ہیں۔ ”انتم الفقراء الى الله واللّٰه هو الغنى“ غیر سے استغناء کا نام مال داری ہے اور خدا کی طرف محتاج ہونے کا نام ناداری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب پلاطوس اور فیافا کے سامنے گرفتار ہو کر آئے تو پوچھا گیا کہ جناب نے یوں نہیں کہا کہ میں مسیح ہوں۔ شہنشاہ ہوں۔ صاحب کتاب ہوں اور مخرب یوم سبت ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ابن انسان قدرت و قوت الہی کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بظاہر گو میں گرفتار ہوں۔ مگر قدرت باطنی رکھتا ہوں۔ جو تمام عالم پر محیط ہے۔ اس جواب پر لا جواب ہو کر قتل کرنے کو آئے تو فلک چہارم پر آپ کو جانا پڑا۔ لوقا لکھتا ہے کہ ایک دن ایک فالج زدہ آپ سے شفاء حاصل کرنے آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیا خدا کے سوا کوئی گناہ بخش سکتا ہے؟ کہا کہ ابن انسان کو بھی گناہ بخشنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو اسی قسم کی سلطنت حقیقی دی گئی ہے مگر لوگ نادانف ہیں اور ہم پر بے عیبہ وہی اعتراض کرتے ہیں جو یہود و نصاریٰ نے حضور ﷺ کے زمانہ میں آپ پر کئے تھے۔ ”ذرہم فی خوضہم یلعبون (انعام) لعمرک انہم لفی سکرتمہم یعمہون (حجر)“ حضور ﷺ پر یہود نے ایک یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ ہاں ایک مظہر کا ظہور لکھا ہے کہ وہ تورات کی اشاعت کرے گا۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ: ”قالت الیہود یداللہ مغلولۃ (مائدہ) یداللہ فوق ایدیہم (فتح)“ یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ جکڑ دیئے ہوئے ہیں۔ اب کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیج سکتا۔ نہیں نہیں اس کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں اور ہر وقت نبی بھیج سکتا ہے۔ اس مقام پر بھی لوگوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہوئی ہے اور توہمات میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں تو یہودیوں پر اعتراض کرتے ہیں مگر خود بھی وہی بات کہتے ہیں جو یہود کہہ چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور ایسے بے سمجھ اور نادان جانور ہیں کہ خدا کے فضل و کرم کی وسعت کو انہوں نے محدود کر دیا۔ حالانکہ اس کی وسعت بے انتہاء ہے۔ ان کی ذلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ لقاء اللہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ جس کا وعدہ تمام مومنین کو دیا گیا تھا اور باوجود بے شمار نشانات صداقت کے پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ ”والذین کفروا بایات اللہ ولقائہ اولئک یتسوا من رحمۃ

واولئك لهم عذاب اليم (عنكبوت) انهم ملاقوا ربهم (بقرہ) انهم ملاقوا اللہ (بقرہ) من كان يرجوا لقاء ربه (كہف) لعلكم بقاء ربكم توقنون (رعد) “ ان آیات سے لقاء اللہ کا وعدہ ثابت ہوتا ہے۔ مگر یہ لوگ منکر ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ ان آیات میں تجلی الہی مذکور ہے جو قیامت میں ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تجلی الہی اس وقت ہر چیز میں موجود نہیں ہے؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہرزہ کائنات کا بروز الہی ہے۔ مگر انسان اس کا کامل بروز ہے۔ دیکھئے ارشاد ہے کہ: ”وان من شئ الا یسبح بحمدہ (بنی اسرائیل) کل شئ احصیناہ کتاباً (عم)“ تو جب ہر چیز میں اس کی تجلی موجود ہے تو پھر قیامت کو کس تجلی کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس سے مراد فیض اقدس اور تجلی اول ہو تو وہ چونکہ ذات غیب سے مخصوص ہے۔ اس لئے کسی کو وہاں تک رسائی ممکن نہیں تو پھر اس کا گیوں وعدہ دیا گیا ہے؟ اگر اس سے مراد تجلی ثانی اور فیض متدس ہو تو اس سے مراد ظہور اولیہ اور بروز بدعیہ ہوگا۔ جو انبیاء اولیاء سے مخصوص ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ذات باری کے لئے شیشہ ہیں۔ اس لئے ان کا لقاء اللہ ہوتا ہے۔ ان کا علم علم الہی ہوتا ہے اور ان کی ظاہریت و باطنیت اسی کی ظاہریت و باطنیت ہوتی ہے۔ ”ہو الاول والاخر والظاهر والباطن (حدید)“ علیٰ ہذا القیاس وہ تمام اسمائے صفاتی کا مظہر ہوتے ہیں۔ پس جو شخص ان سے ملاتی ہو وہ خدا سے ملاتی ہو اور جنت ابدی میں داخل ہو گیا اور یہ لقا الہی قیامت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت کہ خدا کسی میں روپ لے کر قائم ہو جائے اور اس روز سے عظیم تر کوئی دوسرا روز نہیں ہے تو پھر انسان کس طرح توہمات میں پڑ کر ایسے روز کی برکت سے محروم رہ سکتا ہے؟ ”اذا قام القائم قامت القيامة هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام (بقرہ)“ ان کی تشریح ائمہ معصوم نے وہی کی ہے جو ہم نے لکھ دی ہے۔ دوستو! قیامت کا معنی خوب سمجھ لو اور مردودوں کی بات نہ سناؤ۔ اس روز کا عمل ہزار سال کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ اس کی کوئی انتہاء ہی نہیں ہے۔ ”ہج رعاع“ یعنی بے عقل اور نادانوں نے جب قیامت اور لقا الہی کا معنی نہیں سمجھا۔ اس لئے فیض الہی سے محروم رہ گئے ہیں۔ خود غور کرو کہ ظہور حق کے روز اگر کوئی ہزار سال تک کا ظاہری علوم پڑھا ہوا۔ انکار کر دے تو کیا اس کو عالم کہا جاسکتا ہے؟ نہیں نہیں بلکہ ایک ناخواندہ جب اس روز کی شناخت کرتا ہے تو وہ اس عالم سے بڑھ کر ہوگا اور علمائے ربانی میں شمار ہوگا۔ یہ انقلاب بھی نشان صداقت ہے۔ روایت ہے کہ: ”یجعل اعلاکم اسفلکم واسفلکم اعلاکم“ اور آیت ہے کہ: ”نريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین

(قصص) ”چنانچہ آج کئی ایک عالم جہالت کے گڑھے میں گر گئے ہیں اور کئی ایک ناخواندہ جہالت سے نکل کر رفعت علم پر پہنچ گئے ہیں اور یہ خدا کی قدرت ہے۔“ **يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ (ابراہیم)** ”اس لئے کہتے ہیں کہ: **”طلب الدليل عند حصول المدلول قبيح والاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم . قل يا اهل الارض هذا فتى نادى يركض فى بركة الروح ويبشركم بسراج الله ويذكركم بالذکر الذى كان عن افق القدس فى شطر العراق تحت حجابات النور بالسستر مشهودا“** اگر قرآن مجید کو غور سے مطالعہ کرو تو تم کو یقین ہو جائے گا کہ جو امور حضور ﷺ کی رسالت کے منکروں کو پیش آئے تھے۔ آج بھی وہی ہماری صداقت کے منکروں کو پیش آئے ہوئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اسرار رجعت اور غوامض بعثت پر تم کو اطلاع ہو جائے گی۔ ایک دفعہ مخالفین نے بطور طنزیوں کہا تھا کہ: **”ان الله قد عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار (آل عمران)**“ خدانے ہمیں اس رسول پر ایمان لانے کو کہا ہے۔ جو ہاتیل و قاتیل کا مجزہ ناری ظاہر کرے تو آپ نے فرمایا کہ: **”قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلم فلم قتلتموهم (آل عمران)**“ ایسے معجزات مجھ سے پہلے رسول تمہارے پاس لاکھتے ہیں تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ گذشتہ مخالفین کا الزام قتل وغیرہ موجودہ مخالفین کے سر پر حضور ﷺ نے کیوں تھوپ دیا؟ کیا جھوٹ یا لغو الزام تھا؟ نہیں نہیں بلکہ آپ نے اپنے زمانہ کے مخالفین کو وہی مخالف رسالت سمجھا جو پہلے ہو گذرے تھے۔ اس مقصد پر چونکہ ان کی رسائی نہ تھی۔ اس لئے آپ کو جنون سے نسبت دینے لگ گئے۔ **”وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا (آل عمران)**“ آپ سے پہلے ہی لوگ مخالفین پر الہی فیصلہ چاہتے تھے۔ مگر جب حضور ﷺ تشریف فرما ہوئے تو منکر ہو بیٹھے۔ اس موقع پر بھی اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ کیونکہ ہر زمانہ میں مخالفین رسالت کی نوعیت ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح تمام مخلوق کی نوعیت ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے کہ: **”لما جاءهم ما عرفوا كفروا به“** جس جس نبی کو انہوں نے شناخت کر لیا ہوا تھا۔ جب سامنے آیا تو نا آشنا بن بیٹھے۔ اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ ان آیات میں تسلیم کیا گیا ہے کہ نبی بعد اپنے پہلے کی رجعت تھا اور مخالفین عہد رسالت پہلے مخالفین رسالت کے رجعت تھے۔ کیونکہ جس قدر مظاہر حق ظاہر ہوئے ہیں وہ سب کے سب گویا ایک ذات اور ایک نفس تھے اور شجرہ توحید سے خوراک حاصل کرتے تھے اور درحقیقت ان کے دو مقام ہیں۔ اوّل مقام تجرید اور امتیازی



حالت۔ جس میں وہ الگ الگ نظر آتے ہیں۔ مگر جب ان کو ایک اسم اور ایک ہی صفت سے موسوم و موصوف کر دو تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ کیونکہ ارشاد ہوا ہے کہ: ”لا نفرق بین احد من رسلہ (بقرہ)“ تم کہو کہ ہم ان میں تفریق کے قائل نہیں ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ: ”اما النبیون فاننا“ تمام انبیاء کا بروز میں ہی ہوں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ہی آدم اول ہوں، میں ہی نوح موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہوں اور اسی مضمون کو حضرت علیؑ نے دہرایا ہے۔ خدا کا فرمان ہے کہ: ”ما امرنا الا واحد (قمر)“ جب امر ایک ہو تو تمام مطلع امر اور انبیاء بھی ایک ہی ہوئے روایت ائمہ معصومین بھی اسی کو مؤید ہے کہ: ”اولنا محمدؐ اوسطنا محمدؐ و اخرنا محمدؐ“ ہمارے اول آخر اور درمیان حضور ہی حضور ﷺ ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام امر الہی کے مختلف ہیا کل ہیں کہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

رجوع و بروز انبیاء و اولیاء

مگر غور سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام ایک ہی جنت رضوان میں ساکن ہیں۔ ایک کلام کے ناطق ہیں اور ایک ہی حکم کے بتانے والے ہیں تو اگر کوئی نبی کہے کہ میں تمام انبیاء کا بروز اور رجوع ہوں تو صادق ہوگا اور رجوع اول کی تصدیق کرے گا۔ جب قرآن و حدیث سے رجوع انبیاء ثابت ہو گیا تو رجوع اولیاء بھی ثابت ہو گیا۔ بلکہ رجوع اولیاء ایسا ظاہر ہے کہ کسی دلیل کا محتاج ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک نبی تھے۔ آپ کی بعثت پر جو ایمان لائے ان کو حیات جدیدہ نصیب ہوگئی۔ کیونکہ اس ایمان سے پہلے وہ ایسے مقلد انہ علایق میں پھنسے ہوئے تھے کہ اگر ان کو قتل بھی کیا جاتا تو اس تقلید کو نہ چھوڑتے۔ ”انا علیٰ اثارہم مقتدرون (زخرف)“ مگر جب ایمان لائے تو ان میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ زن و فرزند اور مال و منال سے الگ ہو گئے اور خلق جدید میں موجود ہو گئے اور اس سے پہلے اپنی جان کو لومڑی سے بھی محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن اب وہ ایسے دلیر ہیں کہ گویا اپنی جان سے بیزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں اپنی جان مفت دے دیں۔ اس دور جدید سے پہلے وہ وہی تھے جو اب ہیں۔ مگر قدرت نے ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ ان میں طبعی اور اصلی حالات ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔ مشہور ہے کہ تانبا اپنی کان میں ستر سال پڑا رہے تو سونا بن جاتا ہے اور بعض کا قول ہے کہ خود سونے میں کمال پیوست آجاتی ہے۔ وہ تانبا بن جاتا ہے۔ بہر حال پہلی روایت کے بموجب یہ ماننا پڑتا ہے کہ عمل اکسیری نے اس میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ اب اس کو تانبا نہیں کہہ سکتے۔ علیٰ ہذا القیاس نفوس ترابی کو اکسیر الہی ایک ہی آن میں عالم قدسی میں پہنچا دیتی ہے اور وہ مکان سے لامکان تک پہنچ جاتے

ہیں۔ تم کو چاہئے کہ یہ اکیسیر حاصل کرو اور ظلمت جہالت سے نکل کر صبح نور میں داخل ہو جاؤ۔ اگر سونے کو اس وقت تاننا کہہ سکتے ہیں تو ان نفوس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پہلے ہی نفوس تھے۔ اب ان بیانات سے رجوع، بعثت اور خلق جدید کا مفہوم ثابت ہو گیا ہے اور جو لوگ ظہور قبل میں ایماندار ہیں۔ اسم واسم اور فعل و فعل یا امر کے لحاظ سے بعینہ وہی نفوس ہیں جو ظہور بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہر دو ظہور بھی تو خود متحد فی الذات ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان میں بیرونی عوارض مختلف پائے گئے ہیں۔ مگر تم اس پودے کی شاخیں دیکھ کر تکبر کے قائل نہ بنو۔ بلکہ خوشبو اور ذاتی آثار کی رو سے اسے متحد سمجھو۔ نقطہ فرقان (جناب محمد رسول اللہ ﷺ) کے وقت جن لوگوں نے اس راز کو سمجھ کر سب کے اول ایمان قبول کیا۔ انہوں نے حضور ﷺ پر اپنا مال و جان سب قربان کر دیا اور ایسے راسخ الایمان واقع ہوئے کہ شہادت پانے کو بھی موجب فخر سمجھتے تھے۔ اسی طرح اس وقت نقطہ بیان (ہباء اللہ) پر ایمان لانے والے بھی ایسے جان نثار واقع ہوئے ہیں کہ تمام سے انقطاع کلی حاصل کر کے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔

### بروز محمدی

کیونکہ یہ دونوں ایک ہی شمع کے پروانے ہیں اور ایک ہی درخت کے پھل اور پھول ہیں۔ ”ذک فضل اللہ یوتیہ من یشاء من خلقہ“ پس اگر آخراً خیرین قائم بامر اللہ ظاہر ہوں تو اول الاولین قائم بامر اللہ کی شکل ان میں ضرور ظاہر ہوگی۔ جس طرح کہ دور شمس میں دنیا کا پہلا سورج دکھائی دے گا۔ گو بظاہر ہر روز اپنے عوارض کی وجہ سے مختلف نظر آتا ہے۔ مگر درحقیقت ایک ہی ذات ہے جو بارہا ظاہر ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ختم نبوت کا انکشاف ہو گیا ہے۔

### ختم نبوت

کیونکہ جب حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ”اما النبیون فاننا . انا آدم علیہ السلام ونوح علیہ السلام وموسیٰ علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام . کنت نبیا و آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور درمیان میں آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور اس کے علاوہ تمام انبیاء خود میں ہی ہوں۔ تو اگر آپ کو آخری نبی اور خاتم النبیین کہا جائے تو کون سی مشکل نظر آئے گی۔ کیونکہ جب خود خدائے تعالیٰ اول و آخر ظاہر و باطن اور مختلف صفات سے موصوف ہے تو اس کے مظاہر بھی اول و آخر اور ظاہر و باطن کے اوصاف سے متصف ہوں گے۔ ورنہ اگر صرف

ذاتی تجربہ کا لحاظ کیا جائے۔ تو یہ سب اوصاف خارج نظر آتے ہیں۔ ”کان اللہ ولم یکن معہ شئ“ یہ مسئلہ اکثر دفعہ ہم سے پوچھا گیا ہے اور لوگوں کو ابھی تک اس راز کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔ اس لئے اسی حجاب میں پڑ کر انوار الہی سے محروم ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا حجاب علمائے عصر ہیں۔ جو جاہت طلبی کی وجہ سے امر اللہ کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی بات سنتے ہیں۔ ”یجعلون اصابعہم فی اذانہم“ اور ان کے تابعدار چونکہ ان کو ”اولیاء من دون اللہ“ بنائے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان بے حس پیروں کے رد و قبول کے منتظر رہتے ہیں۔ ”کانہم خشب مسندہ“ کیونکہ وہ خود سمع بصر اور عقل نہیں رکھتے کہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ حالانکہ انبیاء و اولیاء و اصفیاء کا حکم ہے کہ انسان خود اپنے حواس کو استعمال کرے اور دوسروں کی تقلید میں نہ رہے۔ مگر یہ ایسے پھنسے ہیں کہ اگر کوئی ناخواندہ دعوت تبلیغ دیتا ہے کہ: ”یقوم اتبعوا المرسلین“ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ شخص مرسل ہوتا تو سب سے پہلے علمائے عصر اور فضلاء دہر اس کی پیروی کرتے۔

پس یہی ایک بات ہے جو ہر زمانہ میں حق قبول کرنے سے مانع رہی ہے اور جو بھی نبی مبعوث ہوا ہے۔ اس کی راہ میں علمائے عصر ہی رکاوٹ پیدا کرتے رہے ہیں۔ ”قاتلہم اللہ بما فعلوا من قبل ومن بعد ما کانو یفعلون“ دوستو! اس حجاب اکبر سے بڑھ کر کوئی اور حجاب نہیں ہے۔ جس کا اثہاد بنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ”وقفنا اللہ وایاکم یا معشر الروح لعلکم بذاک فی زمن المستغاث . توفقون ومن لقاء اللہ فی ایامہ لا تحتجبون“ دوسرا حجاب اکبر مسئلہ ختم رسالت کا ہے۔ جس میں یہ ”حج رعاع“ نادان فرقہ مولویاں بھٹک رہا ہے۔ کیا انہوں نے حضرت امیر علیہ السلام کا یہ قول بھی نہیں پڑھا کہ: ”نکحت الف فاطمة کلہن بنت محمد خاتم النبیین“ میں نے ہزار فاطمہ سے نکاح کیا ہے۔ جس میں سے ہر ایک محمد خاتم النبیین کی بیٹی تھی۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش اول از اول تھی اور پھر اس کے مظاہر جمال غیر متناہی اور بے شمار ہوں گے اور اسی طرح جناب حسین بن علی علیہ السلام جناب سلمان فارسی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ: ”کننت مع الف ادم بین کل واحد منهم خمسون الف سنة وعرضت علی کل منهم ولایة ابی الی ان قال قاتلت فی سبیل اللہ الف مرة اصغرها غزوة خبیر الی حازب فیہا ابی بالکفار“ میں ہزار آدم کے ساتھ رہا ہوں۔ جن میں سے ہر ایک آدم کا زمانہ پچاس ہزار سال تھا اور ہر ایک پر میں نے اپنے باپ کی ولایت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ اسی

سلسلہ بیان کو دور تک چلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ہزار دفعہ خدا کی راہ میں ایسی لڑائیاں لڑا ہوں کہ خیبر کی لڑائی جو میرے باپ نے جیتی تھی ان کے مقابلہ میں بہت معمولی ہے۔ ان دو روایتوں سے ختم رسالت، رجح اور اولاد اولیت اور لا آخریت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مگر مخالفین اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ”بل لا یعرف ذلك الا اولو الالباب، قل هو الختم الذی لیس له ختم فی الابداع ولا بدء له فی الاختراع، اذا یا ملا الارض فی ظہورات البدن تجلیات الختم تشهدون“ تعجب ہے کہ یہ لوگ اپنے مطلب کی روایات مان لیتے ہیں اور دوسری روایات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ”قل اتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض (بقرہ) مالکم کیف تحکمون الا تشعرون“ حالانکہ قرآن مجید میں آیت خاتم النبیین کے بعد لقاء اللہ کا وعدہ دیا گیا ہے۔ جس میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ ”فہنیئاً لمن فاز به فی یوم اعرض عنه اکثر الناس کما انتم تشهدون“ قیامت کا شبہ تھا تو وہ بھی ثابت کر دیا ہے۔ مگر وہ اب بھی اسی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور یوم قیامت لقاء اللہ اور ختم و بدء سے مجرب ہو رہے ہیں۔ ”ولویؤ اخذ اللہ الناس بما کسبت ایدیہم ما ترک علی ظہر ما من دابة (ملائکہ)“ اگر یہ لوگ صرف یہی دیکھ لیتے کہ: ”یفعّل اللہ ما یشاء“ تو خدا پر کوئی اعتراض نہ کرتے۔ ”بیئدہ الامر والقول والفعل، من قال لم ولم فقد کفر“ یہ لوگ اگر کچھ بھی غور کریں تو جان لیں گے کہ وہ ایسے شبہات کی وجہ سے دوزخ میں گرتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ: ”لا یسئل عما یفعل (انبیاء)“ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ کوئی اس پر معترض نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور نادانی اور جہالت کیا ہو سکتی کہ یہ لوگ اپنے ارادہ اور علم کو تو مانتے ہیں۔ مگر جب مشیت ایزدی اور ارادہ الہی کا ذکر آ جاتا ہے تو فوراً منکر ہو جاتے ہیں۔ واللہ اگر قدرت میں مہلت نہ لکھی ہوتی تو یہ سب معدوم ہو جاتے۔ ”لکن یؤخر ذلك الی میقات یوم معلوم“ دیکھئے آج بارہ سو اسی سال ہو رہے ہیں اور یہ تمام حج رعاہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت سے مقصد تو یہ تھا کہ معافی پر بھی غور کرتے۔ کیونکہ تلاوت بے معرفت چنداں مفید نہیں ہوتی۔ مجھے ایک سے قیامت حشر نشر علامات قیامت اور حساب خلأق کے متعلق مباحثہ چھڑ گیا تو کہنے لگا کہ اگر ظہور بدیع (یعنی آپ کے زمانہ) میں یہ سب کچھ واقع ہو چکا ہے تو بتائیے تمام مخلوقات کا حساب کیسے لیا گیا ہے۔ حالانکہ کسی ایک کو بھی معلوم نہیں کہ اعمال کا حساب بھی ہونے کو تھا یا نہیں۔ تو میں نے جواب دیا کہ حساب و کتاب زبانی مراد نہیں ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے کہ: ”فیومئذ لا یسئل عن ذنبہ انس ولا جان، یعرف المجرمون

بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام (رحمان) ”اس روز لوگوں سے زبانی حساب نہیں ہوگا۔ بلکہ مجرم اپنے نشانات سے پہچانے جائیں گے اور اس شناسائی سے ہی حساب ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج خود ظاہر ہے کہ اہل ہدایت اہل ضلالت سے روز روشن کی طرح ظاہر اور ممتاز ہیں۔ اگر ”خالصاً لوجه اللہ“ یہ لوگ ان آیات میں غور کریں تو تمام امور زیر بحث ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس طرح مظہر صفات الہیہ اپنے وطن اور مال و منال سے نکال کر بے وطن اور بے خرچ کر دیا گیا ہے۔ ”ولکن لا یعرف ذلك الا اولوا الالباب۔ اختتم القول بما نزل علی محمد من قبل لیكون ختامه المسك الذی یهدی الناس الی رضوان قدس منیر هو قوله تعالیٰ واللہ یدعوا الی دار السلام (یونس) لهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم (انعام) لیسبق هذا الفضل علی العالم والحمد للہ رب العالمین“ اس مطلب کو ہم نے بار بار اس لئے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو ایک طرز بیان سے سمجھ نہیں آیا تو دوسری طرز پر سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ ”لیعلم کل اناس مشربہم“ واللہ مجھے وہ راز سمجھائے گئے ہیں کہ جن میں سے میں نے ابھی تک کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ شاید کسی آئندہ وقت میں ظاہر ہوں گے۔ ”وما من امر الا بعد اذنه۔ وما من قدرة الا بحوله۔ وما من اله الا هو له الخلق والامر وکل بامرہ ینطقون۔ ومن اسرار الروح یتکلمون“ یہاں تک کہ مشارق الہیہ کا پہلا مقام ذکر ہوا ہے۔ اب دوسرا مقام ذکر کرتا ہوں کہ جس میں حدود بشریہ کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ کیونکہ اس مقام پر ہر ایک مظہر کی حدود مخصوص ہوا کرتی ہیں اور ہر ایک کا اسم اور صفت الگ الگ ہوتے ہیں اور شریعت جدیدہ پر مامور ہوتے ہیں۔ ”فضلنا بعضهم علی بعض (بقرہ)“ اس لئے ان کی زبان پر مختلف بیانات ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ظاہری بیانات پر مطلع ہو کر مسائل الہیہ سے جو صرف ایک کلمہ میں منحصر ہیں۔ غافل ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان مظاہر پر ربوبیت والوہیت واحدیت صرفہ اور بیوت نہکتہ کا اطلاق ہوا کرتا ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ تمام مظاہر ظہور الہی کے عرش پر ساکن ہیں اور بطون اللہ کی کرسی پر واقف ہیں۔ یعنی ظہور الہی ان کے ظہور سے وابستہ ہے اور دوسرے مقام میں تمیز و تفصیل اور تحدید و اشارات یا عبودیت صرفہ اور فقر بحث یافتائے بات ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ”انی عبد اللہ وما انا الا بشر مثکم“ اگر یہ مظاہر ”انی انا اللہ“ کہہ دیں تو وہ بھی بجا ہوگا۔ کیونکہ ان کے ظہور اور اسماء صفات سے ہی ظہور الہی اور ظہور اسماء و صفات الہیہ ہوا کرتا ہے۔ ”وما رمیت اذ رمیت (انفال) انما

یبایعون اللہ (فتح) ”اگر تمام انبیاء یا حضور علیہ السلام نے ”انی رسول اللہ“ کا اعلان کیا ہے تو وہ بھی بجا ہوگا۔ ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ“ اس مقام میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ اگر تمام انبیاء ”انا خاتم النبیین“ کا دعویٰ کریں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ تمام یک ذات و یک روح و یک جسد اور ایک ہی امر کے مالک ہیں۔ اسی طرح سب کے سب مظہر بدیئت و ختمیت اؤلیت اور آخریت یا ظاہریت و باطنیت ذات باری تعالیٰ کے واسطے ثابت ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ: ”نحن عباد اللہ“ تو یہ بھی درست ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ استغراق کی حالت میں ان بزرگوں کی زبان پر دعویٰ الوہیت کا اجرا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت اپنی ہستی کو معدوم سمجھ کر اس کا ذکر شرک اکبر جانتے ہیں۔ کیونکہ اس مقام پر کسی قسم کی ہستی کا ذکر بھی غلط ہوتا ہے تو بھلا اپنی ہستی کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مقام مختلف ہیں۔ کسی میں ذکر ربوبیت ہوتا ہے۔ کسی میں رسالت اور کسی میں عبودیت اس لئے ان کی رسالت، عبودیت، الوہیت اور ولایت یا امامت تمام دعویٰ حق ہیں۔ ایسے مقامات سے اطلاع پانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ ورنہ کسی ایسے شخص سے دریافت کرنا ضروری ہوتا ہے جو ان مقامات سے بخوبی واقف اور مطلع ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ اپنی رائے ناقص سے خود ایسے مقامات کی تشریح کر کے اعتراض پر اعتراض کرنے لگ جائیں۔ جیسے کہ آج علمائے عصر اپنی نادانی کو علم سمجھ بیٹھے ہیں اور ظلم کو عدل قرار دیتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ جب سوال کا جواب اپنی سمجھ کے مطابق نہیں پاتے تو مظہر الہی کو جاہل بتانے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور ﷺ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ ہلال کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ: ”مواقیت للناس“ وقت شناسی کے نشان ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جواب ناواقفیت ظاہر کرتا ہے۔ روح کے متعلق سوال ہوا تو یوں جواب دیا کہ: ”الروح من امر ربی (بنی اسرائیل)“ تو شور مچا دیا کہ جس کو روح کی خبر نہیں ہے تو بھلا وہ علم لدنی کیا رکھتا ہوگا۔ عہد حاضر کے مسلمان بھی حضور ﷺ کو تھلیدی طور پر مانتے ہیں۔ ورنہ یہ لوگ اس وقت بھی سوال کرتے تو یقیناً کبھی نہ مانتے۔ چنانچہ اب بھی وہی طریق اختیار کر رہے ہیں۔ کیونکہ مظاہر الہی ان علوم مجہولہ سے منزہ ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ تمام علوم افک محض اور صاف جھوٹ ہیں اور جو کچھ ان مخازن الہیہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہی علم ہوتا ہے۔ باقی سب جہالت ہے۔

## علم و جہالت

”العلم نقطه کثرها الجاهلون والعلم نور یقذفه اللہ فی قلب من یشاء“ مگر لوگوں نے جو کچھ مظاہر جہالت سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو علم سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ ایک علامہ زمان اس عہد حاضر میں بھی موجود ہیں جو اہل حق پر سب و شتم بڑے زور سے کیا کرتے ہیں اور ان کے رسائل بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے خیال پیدا ہوا کہ ان کی تصنیفات کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تلاش کرنے پر ان کی عربی تصنیفیں تو مسیر نہ ہوں۔ مگر کسی نے بیان کیا کہ ان کی ایک تصنیف ارشاد العوام یہاں ملتی ہے۔ گو اس کا نام ہی بتا رہا تھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا عالم سمجھتے ہیں اور دوسروں کو جاہل قرار دیتے ہیں۔ کبر اور نخوت کا شکار ہو چکے ہیں۔ مگر بادل ناخواستہ وہ کتاب منگا کر چند روز میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اگرچہ مجھے غیر مذہب کی کتابوں کا شوق مطالعہ نہیں۔ مگر تاہم اس فاضل کی تصانیف کا شوق مطالعہ دامنگیر ہو گیا۔ ایک دو مقام دیکھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے نظر پڑا کہ جناب نے حدیث معراج نبوی ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ حدیث معراج کو سمجھنے کے واسطے بیس علوم کی ضرورت ہے۔ جن میں سے جناب نے علم فلسفہ مردود اور علم کیمیا و میسما کو بھی ضروری قرار دیا تھا۔ حقیقت میں اس فاضل علامہ نے علوم ہقیقہ کو بدنام کر دیا ہے اور ان پر ہزاروں اعتراضات کا دروازہ کھول دیا ہے۔

متہم داری کسانے را کہ حق  
کرد امین مخزن ہفتم طبق

یہ کس کو معلوم نہیں کہ اس قسم کے مردود علمائے حقیقی کے نزدیک حدیث معراج سمجھنے کے لئے شرط نہیں ہیں۔ کیونکہ خود حضور ﷺ نے ان علوم میں سے ایک حرف بھی تعلیم نہیں پایا تھا۔

جملہ ادراکات بر خربائے لنگ  
حق سوار باد پراں چوں خدنگ

واللہ اگر کوئی حدیث معراج کا مفہوم سمجھنا چاہے تو اگر اسے یہ علوم مردودہ حاصل بھی ہوں تو سب سے پہلے ان سے اپنے قلب کو صاف کر لینا ضروری ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو لوگ علوم الہیہ میں مستغرق ہیں۔ ایسے علوم کی تعلیم کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ ”العلم حجاب الاکبر“ بنا رحمت یا رسوختم۔ بایں افتخارے نما نیم، کہ بجد اللہ سبحات جلال را بنا جمال محبوب سو ختم۔ و جز مقصود در دل جانداریم۔ نہ تعلیمی جز علم باو متمسک ایم، و نہ بمعلوے جز تجلی انوار و متشبث۔ مجھے تعجب ہوا ہے کہ باوجودیکہ اس فاضل علامہ کو علم حقیقی سے ایک ذرہ بھی حاصل نہیں۔

لوگوں کو اپنے علم و فضل کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ تعجب ہوا کہ لوگ ایسے جاہل کے گرویدہ کیسے ہو رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں صرف مٹی ہے اور بلبل کا نغمہ چھوڑ کر کوئے کی کانیں کانیں پر دل لگائے بیٹھے ہیں۔ غرض کہ اس قسم کے اور کلمات مجہولہ اس کتاب میں اس قدر ہیں کہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں اس نے علم کی میاں کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اگر سچا ہے تو تجربہ سے اس کو ثابت کر دکھلائے۔ تاکہ حق و باطل ظاہر ہو جائے۔ مگر لوگ بگڑے بڑے ہیں اور ان کے جفا کا اثر ابھی تک میرے تمام جسم پر نمایاں ہے۔ قرآن شریف میں اس کے علوم کے متعلق یوں ذکر کیا گیا ہے کہ: "ان شجرة الزقوم طعام الاثیم . ذق انک انت العزیز الکریم (دخان)" کیونکہ اس فاضل نے خود اپنی کتاب میں اپنا نام اٹیم ظاہر کیا ہے۔ "اثیم فی الکتاب . عزیز بین الانعام . و کریم فی الاسم" دیکھا قرآن شریف نے اس کے متعلق کیسا عمدہ فیصلہ کر دیا ہے۔ "لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین (انعام)" لوگ باوجود اس کے موسیٰ علم سے روگردان ہو کر سامری جہالت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قلوب صافیہ کے سوا کسی اور جگہ علوم الہیہ نہیں ملتے۔ "البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی ینبت لا یخرج الا نکدا (اعراف)" پس ضروری ہے کہ مسائل مشککہ کا حل ان لوگوں سے کرانا چاہئے۔ جن پر افاضات الہیہ ہوئے ہیں۔ نہ ان لوگوں سے جن کا علم اکتسابی ہوتا ہے۔ "فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (انبیاء)" صاحبان جو شخص معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ایسے علوم سے دل کو پاک و صاف کرے۔ کیونکہ وہ دل تجلی اسرار کا محل بروز ہوتا ہے اور اغیار کی محبت سے بکلی صاف کر دے تاکہ راستے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

### نصائح بہائیت

ان دو عیبوں کی وجہ سے لوگ معرفت الہی سے محروم ہو رہے ہیں۔ خدا پر توکل کرے۔ لوگوں سے منہ موڑ لے۔ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے۔ فخر و غرور نہ کرے۔ صبر کرے خاموش رہے اور کثرت کلام سے رک جائے۔ کیونکہ زبان کی آگ روح کو جلا دیتی ہے۔ غیبت نہ کرے۔ کیونکہ اس سے دل کی روشنی مرجاتی ہے۔ قلیل پر قناعت کرے۔ جن کو انقطاع الی اللہ کا مقام حاصل ہے۔ ان کی مجلس کو غنیمت سمجھے۔ سحری کے وقت ذکر میں مشغول ہو جایا کرے۔ ماسوائے اللہ کی محبت چھوڑ دے۔ غفلت چھوڑ دے۔ حصہ داروں کو حصہ دے۔ ناداروں پر احسان و اعطاء کرنے میں دریغ نہ کرے۔ جانوروں کی رعایت کرے۔ انسان اور اہل بیان اور خصوصاً جانان



جان سے دریغ نہ کرے۔ شہادتِ خلق سے نہ گھبرائے۔ آنچہ بر خود نہ پسندی بدیگراں پسند۔ کہے تو پورا کرے۔ باوجود قدرت کے قصور وار کا قصور معاف کرے۔ معافی دے۔ غیر کو بنظر تحقیر نہ دیکھے۔ کیونکہ حسن و قبح کا فیصلہ موت پر ہوتا ہے۔ ماسوائے اللہ کو فانی سمجھے۔ یہ تمام نصائح ان لوگوں کے لئے ہیں جو راہ معرفت اور علم الیقین میں چلنا چاہتے ہیں۔ اس مقام کے بعد طالبِ صادق کے لئے لفظ مجاہد استعمال کیا گیا ہے۔ ”والذین جاہدوا فینا النہدینہم سبلنا (عنکبوت)“ اور اس کے لئے راہ ہدایت کھل جاتا ہے۔ جب اس مجاہدہ کی روشنی قلب میں پھیل جاتی ہے تو شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور روح القدس کی تائید سے حیات تازہ حاصل ہو جاتی ہے اور اپنے اندر نئی روشنی، نئی بینائی، نیادل اور نئی گویائی و شنوائی پاتا ہے اور مخفی امور پر اطلاع پانے لگتا ہے اور مخفیات الانفس کھل جاتے ہیں اور ہر ایک ذرہ میں اس کو ایک دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے۔ جس سے وہ عین الیقین، حق الیقین اور نور الیقین تک پہنچ جاتا ہے اور ہر جگہ اس کو تجلیات الہیہ نظر آنے لگتے ہیں۔ واللہ اگر سنا لکھ اس مقام پر پہنچ جائے تو راجح حق کو دور دراز کے فاصلہ سے دریافت کر سکتا ہے اور حق و باطل اس کے نزدیک ایسے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ گویا ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور آقا حق ممتاز طور پر دکھ لیتا ہے اور تمام علوم مکنونہ پر اطلاع پاتا ہے۔ گویا اسرارِ جوع کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہا ہے۔

### مدینہ روحانی

اور جب مجاہدہ ماسوائے اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے تو مدینہ روحانی میں ایسا انس پکڑتا ہے کہ ایک لحظہ بھی اس سے جدائی پسند نہیں کرتا اور وہ مدینہ روحانی زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال بعد از سر نو تعمیر ہوتا ہے۔ طالبانِ حق کو اس مدینہ میں پہنچنا لازم ہے اور اس مدینہ روحانی سے مراد کتب الہیہ ہیں۔ چنانچہ عہد موسیٰ علیہ السلام میں تورات تھی۔ عہد عیسوی میں انجیل۔ عہد محمدی میں فرقان اور اس عہد حاضر میں بیان اور من۔ نظیرہ اللہ کے عہد میں خود اس کی کتاب ہے جو تمام کتب الہیہ پر شامل ہے۔ اس میں توحید کا سبق ملتا ہے۔ مثلاً فرقان امت محمدیہ کے لئے ایک محفوظ قلعہ تھا کہ شیطانی حملوں سے بچ کر لوگ اس میں داخل ہوتے رہے ہیں اور فواکہ طیبہ، خمر اسرار توحید، ماء غیر آسن معرفت اور تمام مایحتاج الیہ اس سے حاصل کرتے رہے ہیں اور سنہ ساٹھ تک اسی کے اتباع کا حکم تھا۔ اس کے بعد ظہور بدیع کا وقت آیا۔ جس میں طالبانِ ہدایت اصل مقصد کو پہنچ گئے ہیں۔ مگر یہ فخر روایات اور احادیث کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا اعتبار قرآن سے وابستہ ہے اور ان میں اختلاف بہت دور تک چلا گیا ہے۔ اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ: ”انسی

تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي“ اگر احادیث کا اعتبار ہوتا تو آپ اس فقرہ میں احادیث کو درج فرماتے اور جب عترۃ کا وجود بھی نہیں رہا۔ اس لئے صرف کتاب اللہ قرآن ہی قابل تمسک رہا۔ ”آلم۔“ ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين“ حروف مقطعه میں اشارہ ہے کہ اے محمد ہم نے تیری طرف یہ کتاب بھیجی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ متقین کے لئے راہ ہدایت ہے۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ: ”ثقل اعظم (قرآن)“ ہی خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ اس کے مقابلہ پر فلاں و فلاں کا قول معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ان کی تصدیق کا حکم ہوتا تو اس آیت میں ضرور ذکر کیا جاتا اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص کتب سابقہ کا معترف نہیں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ یہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس آیت کے اگر اسرار بیان کئے جائیں تو دنیا ختم ہونے تک بھی ختم نہ ہوں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ: ”ان كنتم في ريب مما نزلنا“ اگر تم کو ان آیات میں شک ہے جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کئے ہیں تو اپنے علمائے عصر کو بلا کر اس کی مثل پیش کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ آیات نازلہ اعظم ترین دلیل قاطعہ ہوتے ہیں اور دوسرے دلائل قطعہ ان کے مقابلہ پر ٹٹس کے مقابلہ میں ستارہ کا حکم رکھتے ہیں اور ان میں دو قسم کی تاثیر ہے کہ تابعداروں کو حب الہی میں ترقی دیتی ہیں اور دشمنوں کو غفلت میں سرد کر دیتی ہیں۔ آیت ”فبای حدیث بعد الله وایاتہ یؤمنون (جاثیہ)“ میں بتایا ہے کہ ظہور حق اور آیات نازلہ چھوڑ کر کس کو ماننا صحیح ہے؟ پھر فرمایا کہ: ”ویل لكل افاك اثم . یسمع ایات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبر (جاثیہ)“ جو شخص آیات اللہ ماننے میں غرور کرتے ہیں۔ ان کو سخت عذاب ہوگا۔ ”فی هذه الایة کفایة لكل من فی الارض لو کانوا فی ایات ربهم یتفرسون“ مگر افسوس ہے کہ آج آیات نازلہ سے بڑھ کر لوگوں کے نزدیک کوئی ٹکی چیز نہیں ہے۔ یہ وہی کہیں گے جو ان کے باپ کہتے چلے آئے ہیں۔ ”فالنار مثواہم . فبئس مثوی الظلمین . اذا علم من ایاتنا شیئاً اتخذها هزواً اولئک لهم عذاب مبین (جاثیہ)“ یہ بھی ایک بخول ہے کہ آیات کے ہوتے ہوئے کوئی اور معجزہ مانگا جائے کہ: ”فاسقط علینا کسفاً من السماء (شعراء)“ ہم پر آسمان کا کلکڑا گرا دو۔ ”یا امطر علینا حجارة من السماء (انعام)“ آسمان سے پتھر برسادو۔ یہودیوں نے آسمانی ماندہ کی تبدیلی میں لہسن پیاز حاصل کیا تھا اور یہ لوگ بھی آیات منزلہ کو نفلوں فاسدہ سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ماندہ معنویہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور وہ کتوں کی طرح مردار پر جمع ہو رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ سورج دیکھ کر اس کے وجود پر دلیل مانگتے ہیں۔ ہاں ہاں اندھے ہیں۔ جن کو

صرف سورج کی گرمی محسوس ہوتی ہے اور قرآن سے بھی ان کو صرف حروف کی شکلیں ہی نظر آتی ہیں۔ ”قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین (جاثیہ)“ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادے واپس لا کر دکھاؤ۔ حالانکہ آیات نازلہ سے مردہ دل زندہ ہو گئے جو خلق سموات سے بھی زیادہ تر مشکل کام ہے اور ہر ایک آیت تمام دنیا پر حجت کامل ہے۔ ”لو کنتم فی آیات اللہ تتفکرون“ یہ عذر بالکل قابلِ شنوائی نہیں کہ آیت الہی کو عوام نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ قرآن شریف تمام عالم کے لئے آیا ہے۔ اگر عوام میں ادراک نہ ہوتا تو اس کی صداقت کیسے ظاہر ہوتی؟ ہاں معرفت الہی مشکل ہے جو عوام نہیں پاسکتے۔ مگر فہم آیات اور معرفت الہی دو امر الگ الگ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے بہانوں سے علمائے عصر حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ سچ پوچھو تو ان سے وہ عوام ہی اچھے ہیں جو فوراً حق قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ادراک حق کے لئے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ اپنے ظنونِ فاسدہ سے خالی ہو کر ادراک حق کے لئے پیش ہوں۔ ”فطوبی للمخلصین من انوار یوم عظیم، والذین کفروا بایات اللہ ولقائه اولئک یشوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم (عنکبوت) ویقولون ائنا لتارکوا الہتنا لشاعر مجنون (صافات)“

### ادبی لیاقت

حضور ﷺ کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے اساطیر الاولین بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اس وقت میرے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ غلط سلط عربی لکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ”قد کبر قولہم وصغر شانہم وحدہم“ لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی صاحبِ شریعت نبی نہیں آئے گا۔ کیونکہ ایسے نبی کی ضرورت ہے جو پہلی شریعت کی تجدید کرے تو یہ نازل ہوا کہ: ”لقد جائکم یوسف من قبل (مومن)“ یوسف علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے تو تم کو ان کے متعلق ہمیشہ شک رہا۔ مگر جب انتقال فرمائے تو تم نے کہہ دیا کہ اب کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ وہیوں کو خدا تعالیٰ ایسا ہی گمراہ کیا کرتا ہے۔ یہ مرض تمام امتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ انجیل کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ اب محمدی بھی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ اس لئے کوئی صاحبِ شریعت نبی نہیں آ سکتا۔ حالانکہ خود یہ بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں کہ: ”ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم (آل عمران)“ راسخ فی العلم اور خدا کے سوا اس کی تشریح کوئی نہیں جانتا۔ مگر جب کوئی

راخ فی العلم تشریح کر دیتا ہے تو ایسی ویسی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مطلب کی بات نہیں ہوتی۔ درحقیقت علمائے عصر نے ان کو بگاڑا ہوا ہے اور یہ سب ان کی شرارت ہے کہ جن کا مذہب پیسہ ہے اور جن کا خدا اپنا نفس امارہ ہے اور حجاب علم میں آ کر گمراہ ہو چکے ہیں۔

مخالفین پر فتویٰ کفر

”افرایت من اتخذ اللہ ہواہ (جاثیہ)“ دیکھا جنہوں نے نفس امارہ کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور بوجہ تعلیم یافتہ ہونے کے ان کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اور سمیع و بصیر پر مہر لگا دی ہے۔ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ان کو ہدایت کرے تو کون کرے۔ اس آیت میں علمائے عصر کا حال مذکور ہوا ہے کہ اپنے علوم پر نازاں ہو کر علوم الہیہ سے غافل ہو رہے ہیں۔ ”ہو بناہ عظیم انتم عنہ معرضون (ص) ما هذا الا رجل یرید ان یریدکم عما کان یعبدا بکم (سبا) ما هذا الا افک مفترے“ کہتے تھے کہ یہ آدمی تم کو اپنے باپ دادوں کی طرز عبادت سے روکنا چاہتا ہے اور جو کچھ پیش کرتا ہے وہ خدا کے ذمہ افتر ابا ندھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بے ایمانی کرنے آیا ہے اور کچھ آپ کو مجنون کہتے تھے۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ آیات آسمان سے بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے اور اس قدر فیوضات الہیہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ اس سے جو شتران کی نظیر نہیں ملتی۔ کیونکہ جس قدر پہلے انبیاء آئے ان کی کتابیں محدود اوراق میں بند تھیں۔ مگر یہاں اس قدر نزول آیات الہیہ ہے کہ ابھی تک کسی کو خبر نہیں کہ ان کی انتہاء کہاں تک ہے؟

بیشمار نزول آیات سے انکار

چنانچہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں بیس مجلد موجود ہیں اور کئی ایک کتابیں ابھی تک دستیاب نہیں ہوئیں اور کچھ ایسی بھی کتابیں ہیں کہ مشرکوں کے قبضہ میں ہیں۔ غرض کہ اس وحی کی کوئی انتہاء ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ ہاں جس قدر دستیاب ہوئی ہیں ان پر عمل کرو اور خدا کے فضل میں جگہ پاؤ۔ ”وانہ بعبادہ لغفور رحیم (مائدہ) یا اهل الکتاب هل تنقمون منا (آل عمران)“ جب لوگوں نے اسلام کو کفر قرار دیا تھا اور صحابہ کو کہتے تھے کہ تم کیوں ایک مفتری اور ساحر کذاب کے قبضہ میں آگئے ہو اور ہر طرح سے سب و شتم اور جرم و زجر سے ان کو ستاتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ کیا تم صرف اس لئے ہمیں ستاتے ہو کہ ہم شریعت جدیدہ کے قائل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اب کیا یہ جائز ہے کہ جو آیات بدیہ مشرق و مغرب تک پھیل چکی ہیں۔ یہ لوگ ان سے معرض ہو کر ایماندار رہ سکتے ہیں؟ یا یہ کہ خود

خدائے تعالیٰ اقرار کرنے والوں کو کافر قرار دے سکتا ہے۔ ”حاشا وکلا اذانه مثبت الحق بایاتہ وحقق الامر بکلماتہ انه لہوالمقتدر المہيمن القدیر . ولو نزلنا علیک کتاباً فی قرطاس فلمسوه بایدیہم لقال الذین کفروا ان ہذا الاسحر مبین (انعام)“ اس قسم کی آیات بہت ہیں۔ مگر ہم نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اب خود خیال کرو کہ منکرین اور مخول کرنے والوں پر نارِ جہنم کا وعدہ نازل ہوا ہے۔ اس وقت اگر کوئی مبعوث ہو کر کروڑہا آیاتِ خطب یا صحائف اور مناجات پیش کرے۔ بغیر اس کے کہ اس نے کسی سے تعلیم حاصل کی ہو تو پھر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا صرف حدیث کی بناء پر کہ جس کی اصلیت خود نہیں سمجھتے یا کسی ایسے شخص کے کہنے پر جو شیطانِ عصر بن کر لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ ایسے شخص سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ جس نے کئی ایک کتابیں بھی مرتب کی ہوں۔ جیسے کہ بعض انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اب ان کو اقرار کرایا جائے تو کس طریق سے کرایا جائے۔ ”بل ولكل وجہة ہو مولیہا فقد ہدیناک السبیلین ثم امش علی ماتختار لنفسک . و هذا قول الحق . وما بعد الحق الا الضلال“

### چار سو علمائے عصر کی شہادت

گذشتہ انبیاء کی تصدیق جب معمولی آدمیوں نے کی تو ذی وجاہت اعتراض کرتے تھے کہ اراذل الناس کے سوا کسی نے پیروی نہیں کی۔ ”فقال الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرنا مثلنا ما نراک الا اتبعک الذین ہم اراذلنا بادی الرای (ہود)“ ہاں اگر اہل علم ایمان لاتے تو قابل توجہ بھی ہوتا۔ مگر اس وقت ظہورِ ظہر کی بعثت کو بہت سے علمائے عصر نے بھی تسلیم کر لیا ہوا ہے تو اب کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ زیادہ اطمینان کے لئے چند فقہائے عصر کا نام پیش کرتا ہوں۔ اول محمد حسین جو محل اشراق شمس ظہور ہوئے ہیں۔ ”لولا ماستوی اللہ علی عرش حمایتہ وما استقر علی کرسی صمد انیتہ“ دوم آقا سید محمد علی جو وعید عصر تھے۔ سوم محمد علی زنجانی۔ چہارم ملا علی بستامی۔ پنجم ملا سعید بار فروشی ششم نعمت اللہ مازندرانی۔ ہفتم ملا یوسف اردبیلی۔ ہشتم ملا مہدی خوئی۔ نہم آقا سید حسین ترشیزی۔ دہم ملا علی برقانی وغیرہ چار سو تک ہیں۔ جن کے نام لوح محفوظ الہی میں درج ہیں۔ ان سب نے ایمان کے جوش میں مال و جان بھی فدا کر دیا تھا اور مشرکوں کے ہاتھ سے قتل بھی ہو چکے تھے تو کیا ان لوگوں کی شہادت منظور ہو سکتی ہے یا ان لوگوں کی جو زخارف دنیا میں مشغول ہو کر منکر ہو رہے تھے۔ ”تاہت العقول فی العقول فی افعالہم وتحیرت النفوس فی اصطبارہم وبما حملت

اجسادہم “ کیا ایسا انکار کسی شریعت میں جائز ہو سکتا ہے؟ اور سنئے جناب حسین علیہ السلام کی شہادت کو صداقت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان نفوس مقدسہ کی شہادت کو علامت صدق نہ قرار دیا جائے۔ حالانکہ جناب امام کی شہادت صرف صبح سے ظہر تک جاری تھی اور ان کی شہادت کا سلسلہ پورے اٹھارہ برس جاری رہا اور وہ مصائب اٹھائے جو حضرت امام کو پیش نہ آئے تھے۔ کیا ان لوگوں نے وجاہت دنیاوی کے لئے اتنے مہضاب برداشت کئے تھے؟ یا کیا زمانہ ان سے بڑھ کر کوئی ایسی جماعت پیش کر سکتا ہے کہ جنہوں نے اس جانفشانی سے کام کیا ہو؟ سوچو تو یہی نشان صداقت کافی ہوگا۔ ”لوکان الناس فی اسرار الامریتفکرون . وسیعلم الذین کفروا ای منقلب ینقلبون ( شعراء ) فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ( جمعہ ) “ اس آیت میں نشان صداقت تمنائے موت قرار دیا گیا ہے۔ جو ان نفوس مقدسہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کوئی پرامتحان کر لینا چاہئے کہ آیا ان لوگوں کی شہادت تو لی بھی معتبر ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے مال کے پیچھے دین بھی ضائع کر دیا ہو ہے اور اسلام میں ایک ذرہ بھی خرچ نہیں کیا۔ ”یا ابن الانسان قد مضت عليك ایام . واشتغلت فیہا بما تھوی بہ نفسک من الظنون والواہام . الی متی تکون راقدا علی بساطک فارفع راسک عن النوم فان الشمس قدار تفعت فی وسط الزوال . لعل تشرق علیک بانوار الجلال والسلام “ ان میں سے کوئی عالم ذی وجاہت نہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں لوگوں کی تکمیل ہوتی۔ شاید ایک دوا ایسے بھی ہوں تو تعجب نہیں۔ کیونکہ وارد ہے کہ: ”قلیل من عبادی الشکور ( سبأ ) “ حالانکہ رب اعلیٰ نے ہر ایک نامور عالم اور فقیہ کے نام تبلیغ مکتوب بھی روانہ کر دیئے تھے۔ اب یہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو اہل جو بیان کو دوسری قیامت میں پیدا ہو سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ظہور بیان میں تو علمائے نامور کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی اور اس ظہور میں کوئی عالم نامور شامل نہیں ہوا۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ عالم شباب میں جناب نے اس استقامت سے اپنے دعوے پر قیام کیا کہ ہرگز کسی سے خوف نہیں کیا۔ تو کیا یہ جنون تھا؟ جیسے انبیاء قبل کے متعلق خیال کیا گیا تھا اور یا حب ریاست نے یہ سب کام کروا ڈالے تھے؟ واللہ نہ یہ جنون تھا اور نہ ہی حب ریاست نے اس پر آمادہ کیا تھا۔ کیونکہ اپنی پہلی تصانیف میں کہ جن کو قیوم اسماء کے نام ملقب کیا ہے۔ ان میں اپنے نقل کی صاف شہادت پیش کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ: ”یا بقیۃ اللہ قد فدیت بکلی لک ورضیت السب فی سبیلک . وما تمنیت الا القتل فی محبتک . وکفی باللہ العلی معصما قدیما“ اور تفسیری تحریرات میں لکھتے ہیں کہ:

”کانی سمعت منا دیا ینادی فی سری افد • احب الاشیاء لیدک فی سبیل اللہ کما فدی الحسین علیہ السلام • فلولا کنت ناظرا بذک السرا الوقع فوالذی نفسی بیدہ لو اجتمعوا ملوک الارض لن یقدروا ان یاخذوا منی حرفا فکیف عبید الذی لیس لهم شان بذک وانهم مطرودون ..... لیعلم کلک مقام صبری ورضائی وفدائی فی سبیل اللہ “اب منکرین کو دیکھئے کہ کس قدر ان میں نئاس اور بندر ہیں۔ جو حق کو نہیں دیکھتے اور مطالعہ قدسیہ کی طرح طرح کی نسبت دیتے ہیں۔

”کذک نذکر لک ما اکتسبت ایدے الذی کفروا واعرضوا عن لقاء اللہ فی یوم القیمہ وعذبهم اللہ فی نار شرکهم واعدلهم فی الاخرة عذابا تحترق به اجسادهم وارواحهم • ذک بانهم قالوا بان اللہ لم یکن قادرا علی شئی • وکانت یدہ عن الفضل مغلولة “ یہی استقامت علامت صداقت ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ”شیبتنی الایتین “مجھے دو آیتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان دو آیتوں نے کہ: ”فاستقم کما امرت (ہود) “صداقت کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ غلبہ اور قدرت خود بخود پیدا ہوتا چلا گیا ہے۔ آپ شیراز میں ۶۰ھ میں ظاہر ہو کر مصروف تبلیغ ہوئے تو چار اطراف میں آپ کی تبلیغ اس سرعت سے پھیل گئی کہ مخالفین ہر طرف سے رد و قرح پر آمادہ ہو گئے۔ ہزاروں صاف باطنوں نے آپ کو قبول کر لیا اور کئی ایک علوم لدنی کے کرشمے ظاہر ہوئے اور سینکڑوں نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ادھر سے رضا بالقضاء کا منظر تھا اور ادھر اذیت و ظلم کا نقارہ بج رہا تھا اور ان کی جان لینے کو موجب ثواب قرار دیا گیا تھا اور کسی تاریخ عالم میں اس کثرت سے نہ کسی پر ظلم ہوا اور نہ کسی نے اس صبر و استقلال سے اپنی جان دینے میں رضا بالقضاء کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور دلیل صداقت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ہر طرف سے لعن و طعن کیا اور رد و سب کے مقابلہ پر ان شہسواران میدان رضائے انقطاع کلی اور تسلیم کامل اختیار کی اور جو کچھ بھی وقوع میں آیا۔ اس کی خبر پہلے ہی کتب میں دی گئی تھی۔ روایت ہے کہ: ”اذا ظہرت رایة الحق لعنہا اهل الشرق والغرب • ساعة خیر من عبادة سبعین سنة“

تفسیر شریعت

آخر غور کرنا چاہئے کہ اس قدر لعن و طعن کیوں پیدا ہوا اور کس لئے ”جمیع من فی الارض“ مخالفت پر تل گئے؟ جواب ظاہر ہے کہ تمام اطراف عالم میں یہ مشہور تھا کہ ان کی شریعت قابل تفسیح نہیں اور یہ رسوم و رواج قیامت تک جاری رہیں گے۔ اگر یہ نفوس قدسیہ تفسیح

شریعت کے لئے کھڑے نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ کوئی بھی مخالفت کرتا۔ مگر منظور خدا یہی تھا کہ تبدیل شریعت ہو ورنہ مظہر حق کا مبعوث کرنا بے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگر تفسیروا آیات کا بھی مطالعہ کرتے تو ضرور اس حکم کی بھی تعمیل کرنے پر آمادگی ظاہر کرتے۔ مگر کیا کریں اس قسم کی روایات کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس لئے ہمیں ان کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول قرآن شریف میں ہے کہ: ”یوم یدع الداع الی شئی نکر (قمر)“ ایک دن داعی الی الحق ایک نئی شریعت کی دعوت دے گا اور چونکہ یہ ندائے الہی ان کے ہوائے نفسانی کے خلاف ہوگی۔ اس لئے اس کو شئی نکر سمجھیں گے۔ اس قسم کی آیات اور بھی ہیں۔ جن سے تنسیخ شریعت کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر یہ لوگ امر بدیع کے منتظر تو ہیں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شریعت قرآنی پر عمل پیرا ہونے کا حکم دے گا۔ جیسے یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح تورات و انجیل پر عامل ہوگا۔

دوم دعائے ندبہ میں ہے کہ: ”این المدخر لتجدید الفرائض والسنن واین المتخیر لا عاده الملة والشریعة“ سوم زیارت قبور میں ہے کہ: ”السلام علی الحق جدید سئل ابو عبد اللہ عن سیرة المہدی کیف سیرتہ قال ایصنع ما صنع رسول اللہ ﷺ ویہدم ملکاً قبلہ کما ہدم رسول اللہ امر الجاہلیة“ چہارم کتاب العوالم میں ہے کہ: ”یظہر من بنی ہاشم صبی ذو کتاب و احکام جدید و اکثر اعدائہ العلماء“ پنجم اسی میں ہے کہ: ”قال صادق بن محمد ولقد یظہر صبی من بنی ہاشم ویامر الناس ببیعة و هو ذو کتاب جدید . یبایع الناس بکتاب جدید علی العرب شدید فان سمعتم منه شیئاً فاسر عوا الیہ“ مگر برعکس اس کے لوگ اس صبی کی طرف تلواریں لے کر دوڑے اور علمائے اسلام نے کینہ و غضب کی برچھیاں چلائیں۔ وہ اگر جوہر حق کو بیان فرماتے ہیں تو فوراً تکفیری فتویٰ شائع ہو جاتا ہے کہ یہ قول ائمہ دین کے خلاف ہے۔ ششم اربعین میں ہے کہ: ”یظہر من بنی ہاشم صبی ذو احکام جدید فیدعو الناس فلم یجیئہ احد . و اکثر اعدائہ العلماء . فاذا حکم بشئی لم یطیعوہ فیقولون هذا خلاف ما عندنا من ائمة الدین“ اور مخالفین کو یہ پتہ نہیں کہ جناب امام کو ”یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید“ کا مرتبہ حاصل ہے۔ ہفتم بحار الانوار عوالم اور بیوع میں امام صادق سے روایت ہے کہ: ”العلم سبعة وعشرون حرفاً و جمیع ما جاء ت به الرسل حرفان ولم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشیرین حرفاً“ اس روایت سے ثابت



ہوتا ہے کہ جناب کا مرتبہ تمام انبیاء اولیاء اور اصفیاء سے بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ از آدم تا خاتم صرف دو حرف ہی ظاہر کر سکے۔ مگر امام الزمان پچیس حرف قائم کر کے پورے ستائیس حرف بتائے گا اور تعلیم الہی کی تکمیل ہوگی۔ کیونکہ اس کی تعلیم ۲۷ حروف میں مضمر ہے۔ تعجب ہے کہ انبیاء سابقین تو ۲۵ حرف نہیں بتا سکے۔ مگر علمائے عصر (ہج رماع) جناب کی مخالفت میں اتر کر تمام علوم کے مدعی بنے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو انبیاء سابقین سے بھی زیادہ عالم تصور کرتے ہیں۔ ”ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون . ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا (فرقان)“ ”ہشتم کافی میں ہے کہ: ”جاء فی لوح فاطمة فی وصف القائم علیہ بہاء عیسیٰ وکمال موسیٰ و صبر ایوب فیذل اولیاءوہ فی زمانہ . و تنہادی رؤسہم کما تنہادی رؤس التترک والدیلم فیقتلون و یحرقون و یکونون خائفین مرعوبین و جلیین . تصبغ الارض بدمائہم . و یفشق الویل و الزتہ فی نساتہم اولئک اولیائی حقاً“ اگر شریعت جدیدہ درمیان میں نہ ہوتی تو ایسے علامات کیوں ظاہر ہوتے۔ نہم روضہ کافی میں بروایت معاویہ بن وہب عن ابی عبداللہ مذکور ہے کہ: ”قال اتعرف الزوراء قلت جعلت فداک یقولون انہا بغداد قال لا . ثم قالت دخلت الری قلت نعم قال دخلت سوق الدواب قلت نعم . قالت رایت جبل الاسود عن یمین الطریق . تلك الزوراء . یقتل فیہا ثمانون رجلا من ولد فلان کلہم یصلح الخلفة قلت من یقتلہم قال یقتلہم اولاد العجم“ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ان اصحاب کورے شہر میں بدترین عذاب کے ساتھ قتل کیا جا چکا ہے۔ مگر ان خراطین الارض کو پھر بھی عقل نہیں آتی اور صرف چند روایات لے کر منکر ہو گئے ہیں۔ مگر سب شرارت علمائے عصر کی ہے کہ جن کے متعلق امام صادق کا قول ہے کہ: ”فقہاء ذلک الزمان شر فقہاء تحت ظل السماء منہم خرجت الفتنة والیہم تعود“ اب میں علمائے عصر کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مظہر علوم کا مقابلہ چھوڑ دیں اور اپنے علوم و فنون کو بالائے طاق رکھ کر مظہر علوم ناطقہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ مگر ایک رجل عور جو رئیس القوم ہے اور جس کے اشارے پر سب چلتے ہیں۔ اس نے مخالفت پر خوب کمر بستہ ہو کر اظہار عداوت کر رکھا ہے۔ جس کی وجہ سے اہل حق جلاوطن ہو گئے ہیں اور کچھ مارے بھی گئے ہیں۔ امید ہے کہ اہل بیان ہماری اس تقریر سے مستفید ہوں گے۔ اگرچہ حسد و بغض کی ہوا دور تک چلی گئی ہے۔ جس کی نظیر ابتدائے افریش عالم سے (اگرچہ اس کی کوئی ابتداء نہیں) آج تک نہیں ملتی اور اس عہد کے مخالفت میں طرح طرح کی

اذیت کے وسائل سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ میں کسی سے مخالفت نہیں کرتا۔ ہر ایک کا مصاحب رہا ہوں۔ کسی پر فخر نہیں کیا اور علماء و فضلاء کے سامنے بھی سر تسلیم خم رکھا ہے۔

## ہجرت

میں جب یہاں آیا تو پہلے سے ہی مجھ کو معلوم ہو چکا تھا کہ نئی شرارتیں کھڑی کی گئی ہیں۔ تو میں نے ہجرت کی ٹھان لی اور پورے دو سال ہجرت میں گزارے۔ حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے چشمہ جاری تھا اور دل سے غم و الم کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مگر اس تہائی میں پڑھ بھی مجھے سرور کامل حاصل تھا اور یہ خیال بھی نہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا اور موجب اختلاف ثابت ہوں گا۔ مگر مصدر حکم سے حکم جاری ہوا کہ واپس جاؤ۔ مجبوراً واپس آیا تو وہ حالات دیکھے کہ جن کے بیان سے قلم قاصر ہے۔ اب واپس آئے ہوئے بھی دو سال ہو رہے ہیں کہ لوگ میری جان کے درپے ہیں اور میں بکمال تسلیم اپنی جان ہاتھ پر رکھ کر حاضر ہوں کہ میری جان خدا کی راہ میں چلی جاوے۔ واللہ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو میں مدت سے اس شہر کو خیر باد کہہ کر چلا جاتا۔ ”اختتم القول بلا حول ولا قوۃ الا باللہ وانا لله وانا الیہ راجعون“ وہم مفضل کی روایت ہے کہ:

”سئل عن الصادق فکیف یا مولای فی ظہورہ فقال فی سنة الستین یظهر امرہ وبعد و نکرہ“ اس میں زمانہ ظہور ظاہر کیا گیا ہے۔ یازدہم ”فی البحار ان فی قائمنا اربع علامات من اربعة نبی العلامة من موسی الخوف والانتظار واما العلامة من عیسی ما قالوا فی حقہ والعلامة من یوسف السجن والتقیة والعلامة من محمد یظهر باثار مثل القرآن“ مجھے امید نہیں کہ مخالف اب بھی ہماری گذارش پر کان دھریں گے۔ ”الامن شاء ربك ان الله سمع من يشاء وما انا بمسمع من فی القبور“

## ابتلاء و امتحان

واضح رہے کہ کلام ائمہ دو طرح پر ہے۔ ایک وجہ ظاہر جس کا مطلب ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ روایات مذکورہ میں بیان ہو چکا ہے۔ دوم وجہ باطنی کہ جس میں اصل مقصد پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ تاکہ ایمان کا امتحان لیا جائے اور کھرے کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ ”عن الصادق واللہ لیمحصن واللہ لا یغربلن لکل علم سبعون وجہا ولیس بین الناس الا واحد واذ اقام القائم یبث باقی الوجوه بین الناس نحن نتکلم بکلمة ونرید منها احدے سبعین وجہا ولنا لکل منها المخرج“ اب جن روایات کو مخالفین

پیش کرتے ہیں ان کا حل مظہر حق کے سوا کسی اور سے نہ پوچھنا چاہئے۔ کیونکہ روایت مذکورہ بالا کی یہی ہدایت ہے۔ لیکن یہ لوگ ارض نسیان میں ساکن ہو رہے ہیں اور اہل نغی و طغیاء کے تابعدار ہیں۔ ”لکن اللہ یفعل بہم کما ہم یعلمون وینسأهم کما نسو القائہ فی ایامہ . وكذلك قضی علی الذین کفروا یقضی علی الذین کانوا بایاتہ یجحدون . واختم القول بقول تعالیٰ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین (زخرف) ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکاً (طہ) وكذلك نزل من قبل لو انتم تعقلون . المنزول من الباء والهاء والسلام علی من سمع نغمة الورقاء فی سدرۃ المنتهی . فسبحان ربنا الاعلیٰ (۱۳۱۸ھ) . ۱۹۰۰ء قیل هذا یوم فیہ تمت الحجة وظهرت الکلمة ولاح البرهان انه یدعوکم بما ینفعکم ویامرکم بما نفر بکم الی اللہ مالک الادیان) ”نوٹ! خطوط وحدانیہ کی عبارت کتاب مستطاب کے پہلے صفحہ پر درج ہے۔

## ۸..... بہائی مذہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات

۱..... بہائی مذہب کو ماننے والے قرآن مجید کو منسوخ سمجھ کر اس کی بجائے کتاب اقدس کو جو جناب بہاء پر نازل سمجھی جاتی ہے۔ وحی آسانی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی غیر بہائیوں کو اپنے مذہب کے رو سے اور قرآن مجید کے رو سے بھی بے ایمان اور کافر یقین کرتے ہیں۔

۲..... جن لوگوں نے ابتداء میں ان سے مذہبی بحث و مباحثہ کیا یا جنہوں نے حکومت ایران سے اس مذہب کی روک تھام کے لئے کوشش کی اور تحریرات تنقیدانہ کے ذریعہ ان کی تردید کی خواہ وہ اہل ثروت تھے یا اہل علم۔ ان کو اس نفرت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے کم نظر آتا ہے۔

۳..... عہد بہائی سے پہلے عہد بابیت میں اس مذہب کے پیرو شمشیر بدست ہو کر اپنی حفاظت خود اختیاری میں ایسے ثابت قدم ہوئے کہ حکومت ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ: ”اقتلوہم حیث وجدتموہم“

۴..... گوان کی اخلاقی تحریر کا فقرہ تو یہ ہے کہ تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ سچے ہیں اور تمام لوگ ایک ہی درخت کے پتے ہیں۔ مگر عملی طور پر مسلمانوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ خطا کار اور قابل احتراز جانتے ہیں اور ان کو مظہر شیطان اور حج رعا کا خطاب دیتے ہیں۔

.....۵ عہد بہائیت میں اس مذہب نے حکومت کے ساتھ خاموش مقابلہ اختیار کیا اور اب تک بھی ان کا یہی دستور العمل ہے کہ گوش شنوایا بہت ہیں۔ مگر چشم بینا نہیں ملتی۔

.....۶ جو اصول پہلے لکھے جا چکے ہیں۔ ان کی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ باہیت اور بہائیت کی ہدایات تمدن یورپ اور بالشوزم پر مبنی ہیں اور ان کی اپنی عبادات کی طرز ادائیگی بھی یہود و نصاریٰ سے ملتی جلتی ہے۔

.....۷ تقدس کا اتنا زور ہے کہ بانیاں مذہب نے اپنی ادنیٰ کامیابی اور نکتہ آفرینی کو بھی علم الہی اور مظہر الہی کا نتیجہ ظاہر کیا ہے اور دعویٰ اس زور سے کیا ہے کہ آج تک اس دنیا میں ان کی نظیر پائی نہیں گئی۔

.....۸ عربی دانی میں اگرچہ اپنے آپ کو سبحان وقت سمجھتے ہیں۔ مگر عربی مبین کے اصول پر ان کی عربیت بالکل طفل نو آموز کی تک بندی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین اہل دانش خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عربی عبارات اس موقعہ پر نقل کی گئی ہیں۔ وہ کس قدر عربی مبین سے دور ہیں۔ ہاں روزمرہ کے محاورات اور گفتگو میں گورے شاہتی اور بابوانگلش کی طرح ان کو بھی ید طولیٰ کا دعویٰ ہے اور اپنی غلط نویسی کو بھی تجدید اللسان کا معجزہ سمجھتے ہیں۔

.....۹ ان کے بانیاں مذہب کو بظاہر کسی سکول یا مکتب میں باقاعدہ تعلیم یافتہ نہ تھے۔ مگر چونکہ عرب و فارس کے باہمی گہرے تعلقات کی وجہ سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ عام طور پر اتنی عربی ضرور حاصل کر سکتے ہیں جو ملا آن سست کہ بند نہ شود کا سہارا پیدا کر سکے۔ تو علم لدنی کے دعویٰ کرنے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ یہ اصول ناقابل تردید ہے کہ دار الخلافہ کے باشندے عام رعایا سے علم و فضل میں اگرچہ باقاعدہ تعلیم نہ بھی پائیں کسی قدر بڑھے ہوتے ہیں۔ بالخصوص طبقہ وزارت اور نظم و نسق کے مالک تو روزمرہ کے چشم دید واقعات سے تجربہ حاصل کرتے ہوئے اور مختلف ممالک کی زبانوں سے آشنائی کی وجہ سے باقی سکنائے دار الخلافہ سے اور بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ اس لئے اگر ان کا ہر ایک فرد بشر علم لدنی کا مدعی بن کر اعجاز نمائی کرنے لگے تو بے جا نہ ہوگا۔

.....۱۰ بہائی تعلیم میں لفاظی بہت ہے۔ مگر اصل مطلب صرف اتنا نکلتا ہے کہ (جیک اوف آل ماسٹروف نن) وہ تمام مذاہب کو صحیح مانتے ہیں اور عمل درآمد کسی پر نہیں تو گویا ہر ایک مذہب سے شائستہ طور پر بیزار کی کا طریق سکھانے میں یہ مذہب عام دہریت سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا ہے۔

۱۱..... قرآن وحدیث کو عموماً اس تعلیم میں ایک چیتاں اور معما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہزار سال کے بعد صرف طہران اور شیراز میں چند مدعیان ربوبیت کی تعلیم میں کھلا ہے اور یہ کتنا بڑا خدا پر افتراء باندھا گیا ہے کہ اس نے ہزار سال تک مسلمانوں کو یہ بصیرت ہی نہیں بخشی کہ وہ قرآن وحدیث کو اس طرح سمجھیں۔ جس طرح کہ شیرازی اور طہرانی بہائی سمجھتے ہیں تو وہ رحمان و رحیم کیسے رہا۔

۱۲..... عہد رسالت سے لے کر آج تک جو شاہراہ اسلام نظر آتا ہے۔ اس میں اس مذہب کی نکتہ آفرینی اور دماغ سوزی کا ایک شہہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لئے اسلامی اصطلاح میں اس قسم کی تاویلات کو تحریف کہا جاتا ہے۔ یا یوں کہو کہ مذہبی الفاظ کو محاورات عرب اسلوب اسلام اور تعارف مذہب سے نکال کر اپنی طرف سے ایک نیا جامہ پہنایا گیا ہے اور معانی جدید کے مقابلہ میں ازسرنو ان کو وضع کر کے ان کی اصلی کا یا پلٹ کر دی ہے۔ مثلاً:

- ۱..... قیامت: کسی نبی کا قائم ہونا یا مظہر الہی کا عہد تبلیغ۔
- ۲..... نفع صور: نبی جدید کا اعلان نبوت۔
- ۳..... خلق جدید: نبوت قبل سے دستبردار ہو کر نبوت جدید کو ماننا۔
- ۴..... صراط مستقیم: شریعت جدیدہ۔
- ۵..... اشراق: ارض نبوت جدید کی روشنی۔
- ۶..... یوم الحساب: نبوت جدید ماننا یا نہ ماننا۔
- ۷..... جنت: نبوت جدید کو تسلیم کرنا اور عبادات سابقہ سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔
- ۸..... نار: نبوت جدیدہ سے انکار کرنا اور عبادات میں پابندی کرنا۔
- ۹..... کسوف و خسوف: شریعت سابقہ کی عبادات میں تاثیر نہ رہنا۔
- ۱۰..... تکویر الشمس: شریعت محمدیہ کا منسوخ ہونا۔
- ۱۱..... ”انکدار نجم“ علمائے اسلام کا بگڑ جانا۔
- ۱۲..... لقاء اللہ: مدعی نبوت جدید کو تسلیم کرنا۔
- ۱۳..... ارض و سماء: قلوب اور ان کی ترقی۔
- ۱۴..... سحاب: ظلمت شریعت سابقہ۔
- ۱۵..... صوم: مظہر الہی کی حکم برداری۔
- ۱۶..... صلوة: مظہر کی جانب توجہ کرنا۔

- ۱۷..... حج: مظہر کا قصد زیارت۔
- ۱۸..... طواف: مظہر کی خدمت میں حاضر باشی۔
- ۱۹..... حشر: تابعداروں کا مظہر کے پاس جمع ہونا۔
- ۲۰..... نشر: شریعت جدیدہ مان کر نئی زندگی حاصل کرنا۔
- ۲۱..... مظہر: وہ انسان جو غیرت کے سات پردے اتار کر ذات باری سے متحد ہو گیا ہو۔
- ۲۲..... نبی: جو فرشتے کے ذریعہ خدا سے تعلیم پائے۔
- ۲۳..... رجعت: کسی کا دوبارہ پیدا ہونا۔
- ۲۴..... بروز: رجعت انسانی۔
- ۲۵..... الرب الاعلیٰ: جناب بہاء اللہ۔
- ۲۶..... باب: باب العلوم یا باب الوصول الی اللہ۔
- ۱۳..... باب وبہاء کی مادری زبان فارسی تھی۔ جہاں اسلام سے پہلے کا وطنی مذہب زردشتی تھا۔ اس لئے فارسی لکھنے میں اور زردشتی اصول کی نشر اشاعت میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ مگر چونکہ عربی زبان سے ان کے آبا و اجداد آشنا ہو چکے تھے اور اسلام کی باقاعدہ تعلیم بھی صرف ذاتی قابلیت سے حاصل کی تھی۔ اس واسطے ان کی عربی پھپھسی اور مذہبی استدلالات از نسیم لا تفر بوا الصلوٰۃ تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس مذہب کو صرف ان لوگوں نے قبول کیا تھا کہ جن کی عربی میں کمزور تھی اور مذہبی استدلال میں جدت پسند تھے۔ ورنہ صاف ظاہر تھا کہ جس قدر بھی قرآن و حدیث سے استدلال پیش کئے ہیں۔ ان کا ماحول ہی مخالف ہے اور ماقبل و مابعد ان کی تردید کر رہا ہے۔
- ۱۲..... اس مذہب میں ایک صاف کمزوری یہ بھی ہے کہ احادیث نبویہ اور روایات ائمہ معصومین کی رو سے امام آخر الزمان جس کو قائم بامر اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ شخص واحد ثابت ہوتا ہے۔ مگر تاریخ باہیت کی قوت استدلالیہ نے صرف آٹھ سال کے اندر گیارہ شخص ایسے پیش کئے ہیں جو امام آخر الزمان بن کر باب ہونے کے بھی مدعی ہوئے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ: ”قائم بامر اللہ“ ان کے نزدیک مفہوم کلی ہے۔ جس کے افراد متعدد ہو سکتے ہیں اور امید دلائی جاتی ہے کہ جس طرح ایک ہزار کے بعد رجعت اور بروز کے ذریعہ امام آخر الزمان مختلف مواقع اور متعدد شخصیتوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر ہزار سال کے بعد اسی طرح یا کسی اور طرح ظاہر ہوں گے۔ اس تحدید مدت کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں بتائی گئی کہ ہم نے فرما دیا ہے۔ چون و چرا کی گنجائش نہیں۔

۱۵..... بہائی تعلیم نے اور بھی کمال کر دکھلایا ہے کہ اپنے لئے ایک ایسا نام تجویز کیا ہے کہ اولیاء و اصفیاء بلکہ انبیاء و رسل کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ مگر اخیر میں آ کر سب پر برتری اور فوقیت کا دعویٰ کر کے درجہ اعتبار سے ایسا گرا دیا ہے کہ اب ان بزرگوں کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا دخول فی النار کے مساوی سمجھ لیا گیا ہے۔

۱۶..... اگر مرزائی تعلیم نے یہ اعجوبہ پیش کیا ہے کہ مسیح اور مہدی دونوں کو ایک ہستی تسلیم کر لیا ہے تو بابی اور بہائی تعلیم نے کچھ کی نہیں رکھی۔ القائم بامر اللہ کی صداقت کے نشانات گیارہ مشہور ابواب اور باقی غیر مشہور بابوں پر تقسیم کر دیئے ہیں اور جو باقی بچے تھے وہ ظہور اعظم نے توڑ موڑ کر اپنے اوپر منطبق کر لئے ہیں اور آئندہ کے لئے مدعیان امامت کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے کہ تحریف و تبدیل کے ذریعہ سے ایک دو نشانات اپنے اوپر منطبق کر کے باقی نشانات کے متعلق کہہ دیں کہ ان کے معانی کچھ اور ہیں۔ اس لئے ہماری طرف رجوع کر کے رفع شکوک کر لینا ضروری ہے۔

۱۷..... جس تعلیم کی دعوت بہائی مذہب دے رہا ہے۔ یورپ کے مصلحین قوم مدت سے اس کی تکمیل کے لئے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن اصلاح معاملات پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ پس اگر یہی اصلاحات ملحوظ خاطر تھیں تو ان کے لئے نہ مظہر الہی بننے کی ضرورت تھی اور نہ باب الرصول الی اللہ کا دعویٰ ضروری تھا۔ بلکہ صرف یہی کافی تھا کہ انسان اسلامی تمدن چھوڑ کر تمدن یورپ کا پیرو بن جائے اور اگر یہی تمدن اصلاح الہی ہے تو مظہر الہی بننے کا سہرہ مصلحین یورپ کے سر ہونا چاہئے تھا کہ انہوں نے قوم کو بردہ فروشی اور وحشیانہ سلوک سے روک دیا۔ غربا اور مفلس افراد قوم کے حقوق قائم کئے اور جہالت کی راہ بند کر کے سائنس اور حکمت کے دریا بہا دیئے اور غیر اقوام کے لئے باہمی ہمدردی اور ترقی کے اسباب پیدا کر دیئے۔ بالخصوص جب کہ ان میں کچھ ایسی ہستیاں بھی گذر چکی ہیں کہ جنہوں نے بت پرستی سے روک کر خدا کی بادشاہت قائم کرنے پر اپنی جان و مال تک خرچ کر ڈالایا جنہوں نے اپنی پیشین گوئیوں اور نبی آوازیں کر قوم کو ایک ایسے صراط مستقیم پر لاکھڑا کر دیا کہ جس سے ان کی سلطنت کی بنیاد پڑ گئی اور دنیا میں تمام اقوام کے قلب میں جگہ لے کر باعث رشک بن گئے۔ ہر ایک عقلمند تعجب کر سکتا ہے کہ ایسی قوم کے سرکردوں نے باوجود اس قدر اصلاحات اور ایجادات کے اور باوجود احصائے حدود عالم کے اور باوجود رفاهیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترقی پر پہنچنے کے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مظہر الہی بن کر بروز کمالات خداوندی کے دعویدار ہیں۔

۱۸..... اپنی نبوت تسلیم کرانے کے لئے قرآن مجید پیش کیا جاتا ہے کہ ہر ایک قوم میں مندر ہو گذرے ہیں اور آریہ یا ہندوؤں کی خوشنودی کے لئے رام چندر، کرشن وغیرہ کو نبی منوایا جاتا ہے۔ مگر یہ کیسی بے انصافی ہے کہ یورپ کا کوئی نبی نام لے کر پیش نہیں کیا جاتا۔ کیا شکسپیر علم لدنی کی رو سے مظہر الہی نہیں بن سکتا؟ کیا جینی جس نے کہ فرانس کے تحت وتاج کو نبی آوازوں سے برسر اقتدار کیا تھا۔ آج کے نبیوں سے کم ہے جو اپنی پیشین گوئیوں کی نشر و اشاعت میں قوم کے ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں۔ یادہ جماعت کوئی ان سے کم حیثیت رکھتی ہے کہ جس نے جو یورپ کے اصلاحی قوانین مرتب کر کے تعزیرات ہند کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا؟ اس لئے جو شخص الہام فروشوں کو نبی ماننے پر آمادگی ظاہر کرتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ جن ممتاز ہستیوں کو ہم نے پیش کیا ہے۔ ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھے تاکہ کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ سکے۔

۱۹..... دنیا میں جس قدر مسلمہ فریقین نبی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک صراط مستقیم پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں اور اسلام کا دعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء کا تسلیم شدہ اور متفقہ دستور العمل ہوں۔ مگر حیرت ہے کہ خود اسلام کے اندر ہی آج اس قدر نبوت فروش پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر ایک کی تعلیم جدا ہے۔ اصول جدا ہیں طرز تعلیم جدا ہے اور طرز معاشرت میں تو ایسے ناگفتہ بہ ہیں کہ بہائی مرزائی کو کا فر مانتا ہے۔ مرزائی بابی اور بہائی دونوں کو کا فر مانتے ہیں۔ صوبہ بہار کے مہدی اپنی تعلیم ہی کو مدار نجات سمجھے ہوئے ہیں۔ فرمان کا مصنف یحییٰ مدعی الوہیت اپنی ہی ہانکتا ہے اور خصوصاً مرزائی تعلیم پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کی طرح اس قدر نبی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر ایک الہام کا مدعی ہے۔ مگر تماشا یہ ہے کہ یہ برساتی نبی آپس میں بھی ایک ایک کو کاٹ کر کھا رہے ہیں اور ہر ایک نے دوسرے کے خلاف پیشین گوئیوں کے کئی ایک اشتہار بھی دے رکھے ہیں تو اندریں حالات جو شخص اسلام چھوڑ کر ان میں سے کسی ایک مذہب کو اختیار کرنا چاہے تو اس کا فرض اولین ہوگا کہ وہ پہلے اس سوال کا جواب سوچ رکھے کہ موجودہ زمانہ کی اشتہاری نبوت جب اپنے اندر تصدیق اور اتحاد کا مادہ نہیں رکھتی اور کسی صورت سے بھی اصلاح و تمدن یورپ پر فوقیت نہیں رکھتی تو پھر کیوں اس تکفیری طوفان میں کودا جائے اور کس لئے اسلامی اتحاد کو چھوڑ کر تفرقہ اندازی اور پارٹی بازی میں تضيغ اوقات کی جائے؟

۲۰..... مانا کہ ہر ایک مذہب میں کسی ایک ہستی کا انتظار باقی ہے جو اصلاح عالم کو تکمیل تک پہنچائے گی۔ مگر یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ تمام ادیان عالم کے لئے ایک مخصوص ہستی



ہوگی۔ جو قادیان یا شیراز میں رونما ہو چکی ہے۔ ہاں یہ ظاہر ہے کہ جو شخص تمام علوم و فنون کا مدعی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور یا اس میں دیا ستداری کے اصول بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ورنہ یہ جائز ہوگا کہ ایک ہی شخص شاہ انگلستان بن کر یہ بھی کہہ دے کہ میں شاہ فرانس اور شاہ افغانستان بھی ہوں۔ مگر سخت افسوس ہے کہ ایک نہیں دو نہیں جس قدر بھی ہندوستان اور ایران میں مدعی بنے۔ سب عجیب فلاسفہ کی شکل میں رونما ہوئے ہیں اور سب نے ہی مہدی، مسیح، کرشن، رشی وغیرہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب غیر جانبدار مسلمان ترجیح دے کر سچا مانے تو کس کو اور جھوٹا مانے تو کس کو؟ سب کے اصول دعویٰ ایک ایک دوسرے کی تغلیط و تکفیر ایک اور اپنی کامیابی کی اشتہار بازی ایک اس لئے اگر ”لا نفرق بین احد منهم“ کا فیصلہ دیا جائے تو سب سے نجات ہو سکتی ہے۔

۲۱..... خدا کے فضل و کرم سے اس وقت تمام مدعیان نبوت بھی اس امر پر متفق ہیں کہ قرآنی تعلیم نجات پانے کے لئے کافی ہے اور جس طریق پر نبی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام جادوہ پیتا تھے وہ خدا تک پہنچاتا ہے۔ گوان لوگوں نے یہ پتہ ضرور دیا ہے کہ اس وقت اسلامی تعلیم اصلی صورت میں دکھائی نہیں دیتی۔ یا اس وقت اپنی لاعلمی کی وجہ سے اسلام کا پیرو بام ترقی پر نہیں پہنچ سکتا۔ مگر جب ہمارے پاس قرآن شریف اپنی اصلی صورت میں موجود ہے اور اس کی اصلی تشریحات اور عمل درآمد کی تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ خود عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کا تمام علمی اور عملی مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اسے چھوڑ کر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ اصلی اسلام نہیں ملتا۔ تشریحی تجدید کی ضرورت درپیش ہے۔ اس لئے ان نبوت فرو شوں کی روک تھام کے لئے علمائے اسلام کا فرض ہے کہ دنیا کے سامنے اصلی اسلام پیش کریں اور عوام الناس کا بھی فرض ہے کہ وہ خود بھی علمائے اسلام کی طرف متوجہ ہو کر اصل اسلام کی تعلیم حاصل کریں۔ تاکہ جو فرو شوں کی گندم نمائی سے اپنی جان بچا سکیں۔

۲۲..... خدا کی قدرت ہے کہ قادیانی اور ایرانی نبوت کے دعویدار یا ان کے ماتحت تابع دار نبی جس قدر بھی ہیں۔ گو کسی قدر اردو فارسی میں طبع آزمائی کی کچھ قوت رکھتے ہیں۔ مگر اسلامی زبان اور قرآنی عربی میں کہ جس پر اسلام کو آج ایک بڑا ناز ہے۔ یہ سب طفل مکتب ہی ثابت ہوئے ہیں۔ شاید قدرت نے ان کو اس میں فوقیت حاصل کرنے سے صرف اس لئے روک دیا ہوا ہے کہ کہیں قرآن شریف کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اس کے اعجازی دعویٰ کو نہ توڑ سکیں۔ ایرانیوں نے اپنی کمزوری چھپانے کے لئے اعجاز قرآنی کا دار و مدار عربی مبین کی لفظی حیثیت قرار نہیں دی

اور قادیانیوں نے اپنی کمزوری کو الہام جدید کے پردہ میں چھپا دیا ہے۔ لیکن حقیقت شناس طبائع اس حکمت عملی کو تاثر گئی ہیں اور کہہ چکی ہیں۔

نہاں کے ماند آل رازے کزو سازند مخفلہا

۲۳..... قرآن مجید کی عربیت پر عہد رسالت کے تمام فصحاء و بلغاء کا اتفاق تھا کہ: ”ما هذا قول البشر“ اور کسی اشد ترین عرب نے بھی اس پر نکتہ چینی کرنے کا موقع نہیں پایا اور جو کچھ آج قرآنی عربیت پر اعتراضات نظر آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہیں کہ جن کو خود عربیت سے دور کا واسطہ کبھی نہیں اور مسٹر گلڈ سٹون وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس خیال سے لکھا ہے کہ انگریزی بندش الفاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن شریف میں ایسی ویسی عبارتیں ہونی چاہئیں۔ جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مشرقین یورپ کی طبع نارسا کے موافق قرآنی بندش نہیں ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک قرآن کا اعجازی دعویٰ غلط ہے۔ مگر اس دعویٰ کی تصدیق تو تب ہوتی کہ عربی مبین میں یہ لوگ بھی کوئی ایسی کتاب ہی لکھ کر پیش کرتے جو کم از کم مقامات حریری کے توازن پر ہی پوری اترتی۔ اس لئے ایسے جہالت آمیز اعتراضات قابل توجہ نہیں ہوتے۔ یہ تو ہوا اعجاز قرآنی، اب اعجاز ایرانی اور قادیانی پر نظر دوڑائیے۔ کہاں تک اس میں صداقت ہے۔ ادھر الہامی عبارتیں شائع ہوئیں ادھر ہم عصر علمائے عربیت نے تغلیط شروع کر دی۔ ایک طرف اعجازی دعویٰ ہے تو دوسری طرف مخالفین نے اعجاز کے بجنے ادھیڑ کر رکھ دیئے۔ لیکن ملا آن سست کہ بند نہ شود انہوں نے اپنا پہلہ یوں چھڑایا کہ لوگ قرآن پر بھی تو لفظی نکتہ چینی کرتے رہے ہیں تو اس سے اس کی صداقت اور اعجاز میں کیا کوئی فرق آ گیا ہے۔ کبھی یوں کہہ دیا کہ خداوند تعالیٰ تو اعداد انسانی کے پابند نہیں رہے اور کسی وقت یوں تعلق دکھائی کہ ہم الفاظ کو اصولی زنجیروں سے رہا کرانے آئے ہیں۔ اہل دانش دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ بہانہ سازی کارگر ہو سکتی ہے اور یہ کس قدر ظلم ہے کہ ان کے تابعداروں نے ان کو ”سلطان القلم“ اور اعجاز رقم بنا رکھا ہے۔ مگر خدا کی شان یہ لقب دینے والے بھی عربیت میں اسی طرح کمزور ہیں کہ جیسے ان کے نبی کمزور تھے۔ اب من ترا حاجی بگوئم تو مرا حاجی بگو، کا معاملہ نہ ہو تو اور کیا ہو؟

۲۴..... ایرانی نبی اپنی مادری زبان میں (فارسی) جو کچھ لکھ گئے ہیں۔ رنگینی عبارات میں ید طولیٰ دکھا گئے ہیں۔ عربی لکھنے لگے تو طفل کتب سے بڑھ کر یا ایک آریہ سے بڑھ کر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ شاید انگریزی یا اردو اور پنجابی لکھتے تو معلوم نہیں کیا کیا گل کھلاتے اور قادیانی نبی چونکہ پنجابی آب و ہوا میں نشوونما پانچکے تھے اور سلطنت مغلیہ کا زمانہ قریب تھا اور

باقاعدہ فارسی کی تعلیم بھی پانچکے تھے۔ اس لئے گویا ایرانی نبی کے مقابلہ پر فارسی نویسی میں فیل ہو چکے تھے۔ مگر تاہم شد بود اچھی اور خاصی جانتے تھے اور پنجابی محاورات کو فارسی عبارات میں گھسیڑ دینے میں پورے طور پر کمزوری ظاہر کر چکے تھے۔ اگر پنجابی لکھتے تو غالباً صحیح لکھتے۔ کیونکہ ان کی مادری زبان یہی تھی۔ مگر ان کو اس سے نفرت تھی اور اس کی بجائے اردو میں نظم و نثر لکھنے میں کچھ دن مشق کی۔ مگر چونکہ کسی استاد نے اصلاح نہیں دی۔ وہی پھپھسی اردو اور پنجابی نما شعر کہتے رہے۔ اب رہی عربی تو اس میں بہتیرے ہاتھ پاؤں مارے اور قرآنی آیات کی طرح ایرانی نبی کے تتبع میں ردیف وار لکھنا شروع کر دیا۔ مگر آخر قافیہ تنگ ہو اور قلم توڑ کر بیٹھ گئے اور ان کی ضمیر ملامت کرتی تھی کہ اس میدان میں قدم نہ رکھے گا۔ مگر ان کو ایک نئی بات سوچھی کہ اپنی عبارات میں صرف ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا جو عربی علم ادب سے نا آشنا تھے اور مرید بھی ایسے ہی اہل علم مشہور ہوئے کہ جو آج تک عربی میں سے نا آشنا تھے اور اب بھی وہی لوگ اپنے نبی کو اعجازی مرتبہ دے رہے ہیں کہ جن کو خود عربی لکھنا نہیں آتا۔ اگر لکھتے بھی ہیں تو غلط سلط لکھ کر کاغذ کا منہ کالا کر دیتے ہیں۔ غرض کہ جب تصدیق کنندگان اور آدیزش کنندگان عربیت سے نا آشنا تھے تو نبی قادیان کو اندھوں میں کا نا سردار بننے کی کیوں نہ سوچتی۔ اس نظریہ کو جانے دیجئے۔ خود براہین احمدیہ کی جلد چہارم اٹھا کر دیکھئے۔ قرآن شریف کی حمایت میں عیسائیوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تم کو قرآنی عربیت پر اعتراض ہے تو تم آؤ ہم ایک فرد عربی پیش کرتے ہیں۔ اس سے ایک گھنٹہ تک گفتگو کرو۔ تب ہم سمجھیں گے کہ معترض عیسائی بھی عربی جانتے ہیں۔ اس موقعہ پر گویہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ قرآن مجید کی عربیت پر اعتراض کرنے والے خود عربی نہیں جانتے۔ اس لئے ان کے اعتراضات بے سمجھی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور یا ان کا دار و مدار اسلام سے عناد اور دشمنی پر ہے۔ لیکن ایک یہ اہم مسئلہ بھی اس ضمن میں حل ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی خود بھی عربی میں قادر الکلام نہ تھے۔ حالانکہ ان کو الہام بھی ہوتا تھا اور قرآنی معارف بیان کرنے کا بھی بڑا دعویٰ تھا۔ ورنہ پدم سلطان بود کو پیش نظر رکھ کر عیسائیوں کے مقابلہ پر کسی عربی آدمی کے خواہاں نہ ہوتے۔

۲۵..... اسلام کی عربی زبان عبادات و معاملات اور ضروری گفتگو یا تعارف میں عربی تھی۔ جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ عبادت کر سکتے تھے اور باہمی تعارف آسانی کے ساتھ پیدا کر کے عقد اخوت پیدا کر لیتے تھے۔ مگر آج کل کے پیغمبروں نے اس زبان کا ایسا ستیاناس کیا ہے کہ قرآن مجید کو بھی عربی زبان میں دیکھنا ممنوع قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو خود بھی اقرار ہے کہ غیر زبان عربی زبان کا مفہوم ادا کرنے میں پورے طور پر متحمل نہیں

ہوسکتی۔ اس لئے قرآن مجید کا خالی ترجمہ خواہ کسی زبان میں دیکھ لیا جائے۔ اس فرض کی ادائیگی سے قاصر ہوگا۔ مگر ان مدعیان نبوت کا غالباً اصل مقصد یہی ہے کہ نہ قرآن رہے نہ قرآنی زبان، نہ ہمارے سوا کوئی عربی دان کہلائے سو جو ہم کہیں لوگ اسی کو قرآن سمجھ لیں۔

۲۶..... چنگیز خان نے مسلمانوں کو برباد کیا۔ تیور نے خیر خواہی کی آڑ لے کر تورہ چنگیز خانہ کو رواج دیا اور اپنی زیر حکومت میں اسلامی شرائع کی بجائے اسی کو دستور العمل قرار دیا۔ جس کا اثر عالمگیر کے زمانہ تک باقی رہا۔ بعد میں ترک شیرازی نے اپنا دستور العمل قائم کر کے اس کو منسوخ کر دیا۔ جس سے سلطنت ترکیہ متاثر ہو کر اسلام کو خیر باد کہہ رہی ہے اور باقی حکومتیں بھی لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ اخیر میں پنجابی ترک نے وہ کام کیا کہ پہلوں کے فلک کو بھی یاد نہ تھا کہ بظاہر تو یہ فتویٰ لگا دیا کہ قرآن کا ایک شوشہ منسوخ سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ مگر خود اس میدان میں نکلے تو تمام عقائد منسوخ کر دیئے۔ دبی زبان سے سود جائز کر ڈالا اور اعلان کر دیا کہ جہاد منسوخ ہے۔ تصویر کشی ایک حد تک مفید اور جائز ہے وغیرہ وغیرہ اور اپنے تکفیری فتویٰ سے یوں بچ کر نکل گئے کہ میں حکم بن کر آیا ہوں اور مجدد ہوں جو چاہوں کروں۔ کوئی مجھے کافر نہیں کہہ سکتا۔ آخربات وہی بنی کہ کسی نے اسلام کو اپنی شریعت سے یا اپنے تورہ سے بدل دیا اور کسی نے اس کو روشن پہلو دکھا کر اسلام جدید پیش کر دیا۔ مگر ارباب بصیرت پر روشن ہے کہ یہ سب حکمت عملیاں صرف اس لئے کھیلی جاتی ہیں کہ قرآن شریف کا نام دنیا سے مٹ جائے۔

بہر قدے کہ خواہی جامہ میپوش

من انداز قدرت راعے شناسم

۲۷..... حلقہ بگوشان اسلام سے درخواست ہے کہ ترکی نبوت سے متاثر ہو کر کہیں اپنا اسلام نہ کھو بیٹھیں۔ کیونکہ اس نبوت کے ماننے والے مسلمانوں کے اندرونی دشمن ہیں اور طرح طرح کے حیلوں سے چاہتے ہیں کہ نہ قرآن دنیا میں رہے اور نہ قرآن ماننے والے، صرف فرق اتنا ہے کہ کوئی سیدھا منکر ہے اور کوئی ذرہ دو تین چکر کھا کر انکار پیش کرتا ہے۔ بہر حال یہ ایک فتنہ ارتداد ہے کہ لفظ اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور مٹھی چھری بن کر اسلام کا گلا کاٹ رہا ہے۔

من از بیگا نکاں ہر گز ننالم

کہ با من ہرچہ کرد آں آشنا کرد

۲۸..... نبوت ترکیہ کے ماننے والے جس جس جگہ حکمران ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کو اس بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے کہ شاید ہی دنیا کے کسی کونے میں اس کی نظیر مل سکے اور جبراً اپنی

شریعت تسلیم کرانے میں سارا زور خرچ کر رہے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا سایہ اگر مسلمانوں پر نہ ہو تو معلوم نہیں یہاں کی ترکی نبوت کیا کیا فتنہ ارتداد پیدا کرے۔ گو یہ حکومت خصوصیت کے ساتھ اسلام کی حامی نہیں۔ مگر اس میں اتنا وصف قابل ستائش ضرور ہے کہ اگر دہنی آنکھ سے ہمارے مخالفوں کو دیکھتی ہے تو مسلمانوں کو بھی بائیں آنکھ ضرور دیکھ کر اغیار کے تجبر و استبداد کی تباہ کن آندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اس حکومت کا تسلط روز افزوں بام اوج تک پہنچ رہا ہے اور باقی حکومتیں اپنے بے جا تشدد اور بے ہنگام استبداد سے تباہ ہو رہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن وہاں راعی و رعیت کے درمیان جدال و قتال کا بازار گرم ہے۔

## ۹.....مقتبس من الكتاب الاقدس الذی نزل علی البہاء

### الصوم والصلوة

”قد كتب عليكم الصلوة تسع ركعات حين الزوال وفي البكور والاصال وعفونا عدة اخرى امر في كتاب الله . واذ اردتم الصلوة ولو اوجوهكم شطرى الاقدس (عكاه) المقام المقدس . الذی جعله الله مطاف الملاء الاعلى . ومقبل اهل مدائن البقاء ومصدر الامر لمن في الارضين والسموات . والمقر الذی قدرناه لكم . انه لهو العزيز العلام . قد فصلنا الصلوة في ورقة اخرى . طوبى لمن امر به من لدن مالك الرقاب . قد نزلت في صلوة الميتم ست تكبيرات من الله منزل الايات . والذی عنده علم القراءة له ان يقرأ ما نزل قبلها وعفا الله عنه . لا يبطل الشعر صلوتكم ولا مامن عن الروح مثل العظام وغيرها . البسوا السمور كما تلبسون الخزو السنجاب ومادونهما . وما نهى في القرآن ولكن اشتبه على العلماء . فرض عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ من كان في نفسه ضعف من الهرم والمرض عفا الله عنه . قد اذن الله السجود على كل طاهرو رفعنا عنكم الحد . من لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم الله الا طهر الا طهر والبلد ان التی طالبت فيها الليالى والايام فليصلوا بالساعات والمشايخ التي فيها تحدث الاوقات . عفونا عنكم صلوة الايات اذا ظهرت . كتب عليكم الصلوة فرادى قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة الميتم عفا الله عن النساء

حين ما يجدن الدم الصوم والصلوة . ولهن ان يتوضان ويسحن خمسا وتسعين مرة من زوال الى زوال "سبحان الله ذى الطلعة والجمال" ولكم ولهن فى الاسفار اذ انزلتم واسترحتم مكان كل صلوة سجدة واحدة وانكر وافيها سبحان الله ذى العظمة والاجلال والموهبة والافضال . والعاجز يقول سبحان الله . بعد اتمام السجود لكم ولكن ان تقعدوا على هيكل التوحيد وتقولوا اثماني عشرة مرة سبحان الله ذى الملك والملكوت . يا قلم الاعلى قل يا ملاً الا نشاء قد كتبنا عليكم الصيام ايا ما معدودات (من اول مارس الى تاسع عشر منه) وجعلنا النور وزعيذا لكم (حادى عشرين فارس) اجعلوا الايام لزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام عيدا (كل شهر تسعة عشر يوما والشهور ايضا تسعة عشر فصارت ايام السنة ثلاثماية واحد اوستين يوما والملحق به لتكميل السنة اربعة ايام وبعذاربع سنين خمسة ايام . فهذه الايام ايام زائدة كل سنة قبل مارس) انما جعلناها مظاهر الهاء . لذاما تحددت بحدود السنة والشهور ينبغى لاهل البهاء ان يطعموا فيها انفسهم وذوى القربى ثم الفقراء والمساكين ويهللنويسبحن ويمجدن ربهم . واذ تمت ايام الاعطاء قبل الامساك فليدخلن فى الصيام ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج كفوا انفسكم عن الاكل والشرب من الطلوع الى الافول . قد كتب لمن دان الله ان يغسل يديه ثم وجهه ويقعد مقبلا الى الله ويذكر خمسا وتسعين مرة الله ابهى كذلك الصلوة . حرم القتل والزنا والغيبة والافتراء"

### المواريث

"قد كتبنا المواريث على عدد الزاء منها . منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد المقت وللزواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء وللبناء من كتاب الراء على عدد التاء والكاف . وللماهات من كتاب الواو على عدد السميع وللاخوان من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم وللمسلمين من كتاب الجحيم عدد القاف والفاء . انا سمعنا ضجيج الذريات فى الاصلاب اذا ما نقصت ما لهم ونقضا عن الاخرى . من

مأت ولم يكن له ورثة ترجع حقوقهم الى بيت العدل يصرفوا امناء الرحمن فى الايتام والارامل وما ينتفعوا به جمهور الناس . وللذى له ذرية مالم يكن مادونها عما حددنى الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى الذرية والثلث الى بيت العدل والذى لم يكن من يرثه وكان له ذوالقربى من ابناء الاخ والاخت وبناتهما فلهم الثلثان والالاعمام والاخوال والعمات والخالات من بعدهم . وبعدهن لا بائهم وابنائهن وابنائهم وبناتهن والثلث يرجع الى مقرالعدل ومن مات ولم يكن له من الذين نزلت اسمائهم من القلم الاعلى ترجع الاموال كلها الى المقر المذكور جعلنا الدارالمسكونة والالبسة المخصوصة للذرية من الذكر ان دون الاناث والوراث . والذى مات فى ايام والده وترك ذرية ضعافا سلموا امالهم الى الامين ليتجرلهم الى ان يبلغوا اشدهم والى محل الشراكة ثم عينوا اللامين حقا مما حصل من التجارة . كل ذلك بعد اداء حق الله والديون والتجهيزو حمل الميت بعزة والاعتزاز . تلك حدود الله لا تعتدوها باهواء انفسكم

### بيت العدل

”قد كتب الله على اهل كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل . ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء . وان ازداد لا بأس ويشاوروا فى مصالح العباد . عمروا بيوتكم باكمل مايمكن فى الامكان وزينوها بما ينبغى لها لا بالصور والامثال . قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء . وجب على كل واحد الاشتغال بامر من الصنائع . وجعلنا اشغالكم نفس العبادة . لا تضيعوا اوقاتكم بالبطالة والكسالة قد حرم عليكم تقبيل الايادى . ليس لاحد ان يستغفر عند احد . توبوا الى الله تلقاء انفسكم . لما جاء الوعد والموعود اختلف الناس وتمسك كل حزب بما لديه من الظنون

### التقدس وتكفير المدعى النبوة

”والاوهام . من الناس من يقعد صف النعال طلبا اصدر الجلال . قل من انت يا ايها الغافل العرار . ومنهم من يدعى الباطن وباطن الباطن . قل يا ايها الكذاب تالله ما عندك انه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام

للكلاب . من يدعى قبل اتمام الف سنة كاملة انه كذاب مفتر . نسال الله بان  
 يؤيده على الرجوع ان تاب . وان اصريبعث عليه من لا يرحمه من ياول من  
 الاية اويفسرها بغير ما نزل في الظاهر انه محروم من الروح . يا اهل  
 الارض اذا غربت شمس جمال قوموا على نصره امرى وارتفاع كلمتى بين  
 العالمين انا معكم من كل الاحوال وبنصركم بالحق انا كنا قادرين . لا  
 تجرعوانى المصائب لا تحلقوا روسكم قد زينها الله بالشعر . ولا ينبغي ان  
 يتجاوز عن الاذن . قد كتب على السارق النفى والحبس . وفى الثالث  
 فاجعلوا على جبينه علامة يعرف بها . من اراد ان يتعمل اوفى الذهب  
 والفضة لا بأس به اياكم ان تنغمس ايديكم فى الصحف والصحان .  
 تمسكوا بالنظافة فى كل الاحوال كتب على كل اب تربية ابنه وبنته بالعلم  
 والخط ودونهما . والذى ترك ما امر به فعلى الامناء ان ياخذوا منه ما يكون  
 لازما لتربيتهما ان كان غنيا والايرجع الى بيت العدل . ان الذى ربي ابنه  
 او ابنا من الابناء كانه ربي احد بنائى عليه بهائى . قد حكم الله لكل زان  
 وزانية دية مسلمة الى بيت العدل وهى تسعة مثاقيل من الذهب ان عادمة  
 اخرى عردوا بضعف الجزاء . انا حللنا لكم اصغاء الاصوات والنغمات . اياكم  
 ان يخرجكم الاصغاء عن شان الادب والوقار . قد ارجعنا ثلث الديات الى مقر  
 العدل . يا رجال العدل كونوا رعاة اغنام الله واحفظوهم عن الذئاب الذين  
 ظهروا بالاثواب . اذا اختلفتم فى امرنا رجعوا الى الله مادامت الشمس مشرقة  
 من افق هذه السماء . واذا غربت ارجعوا الى ما نزل من عند الله . اما الثجاج  
 والضرب مختلف احكامها باختلاف مقاديرها لكل مقدارية معينة لو نشاء  
 نفضلها بالحق وعدا من عندنا . قدرتم عليكم الضيافة فى كل شهر مرة واحدة  
 ولوبالماء . اياكم ان تفرقوا اذا ارسلتم الجوارح الى الصيد اذكروا اسم الله اذا  
 يحل ما اسكن لكم ولوتجدوه ميتا . من احرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل  
 نفسا عامدا فقتلوه . ان تحكموا لهما حبسا ابديا لا باس عليكم كتب الله  
 عليكم النكاح اياكم ان تتجاوزوا من الاثنتين انه قد حدد فى البيان برضاء  
 الطرفين انا لا زدياد المحبة علقناه باذن الابوين



## النكاح والطلاق

”لا يحق الاصحار الا بالامهار . قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الا بربيز والقري هي من الفضة . ومن اراد الزيادة حرم عليه ان يتجاوز من خمسة وتسعين مثقالا . قد كتب لكل عبادار اد الخروج من وطنه ان يجعل ميقاتا لصاحبة في اية مدة اراد ان اتى وفي بالوعد . وان يعتذر بعذر حقيقى فله ان يخبر قرينة ولكون في غاية الجهد للرجوع اليها وان مات فلها تربص تسعة اشهر بعد اكمالها لابس عليها باختلا الزوج صبرت فانه يحب الصابرات والصابرين وان اتاها خير الموت او القتل بالشياع والعدلين لها ان تلبث في البيت اذا مضت اشهر معدودات فلها الاختيار فيما تختار وان حدث بينهما كدورة..... ليس له ان يطلقها وله ان يصبر سنة كاملة . لعل تسطع عليهما رأثحة المحبة والافلا بأس بالطلاق . قد نهى الله عما عملتم بعد طلاقات ثلث . والذي طلق له الاختيار الى الرجوع بعد انقضاء كل شهر مالم تستحصن والذي سافر وسافرت معه ثم حدث بينهما الاختلاف فله ان ياتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الى مقرها الذي خرجت عنه او يسلمها بيد امين ليبلغها الى محلها . والتي طلقت لما ثبت عليها منكر لا نفقة عليها ايام تربصها . قد حرم عليكم بيع العبيد والاماء لا يعترض احد على احد . قد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة طهروا كل مكروه بالماء الذي لم يتغير بالثلاث . اياكم ان تستعملوا ماء تغير بالهواء وبشئى آخر . قدرفع الله عنكم حكم دون الطهاره عن كل اشياء وعن ملل اخرى . وحكم باللطافة الكبرى وتغسيل ماتغير بالغبار وكيف الاوساخ المنجمدة ودونها . والذي يرى في كسائه وسخ انه لا يصعد دعائه الى الله . استعملوا ماء الودو ثم العطر الخالص قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب قد اذناكم ان تقرّ وامن العلوم ما ينفعكم لا ما ينتهى الى المجادلة (اعلم ان البيان نزل على الباب وامر البابية باحرق جميع ما نزل قبله من الكتب وتعطيها او ما زاحمه من العلوم الى ان ينزل الكتاب الاقدس على البهاء وينسخ ما شاء من الاحكام ما جاء في البيان فهذا هو من الاحكام المنسوخة)“

## نداء التبليغ

”يا معشر الملوك قداىى الملك توجهوا الى وجه ربكم قد نزل  
الناموس الاكبر اتت الساعة وانشق القمر . لا تريد ان نتصرف فى ممالك بل  
جئنا لتصرف القلوب . طوبى لملك قام على نصرة امرى فى مملكتى  
وانقطع عن سوائى انه من اهل السفينة الحمراء . ينبغى لكل ان يعزروه  
ويوقروه وينصروه . يا ملك النسمة كان مطلع الاحدية فى سخن عكاء  
اذمرت وما سألت عنه . قد اخذتنا الاخر ان تملأ اخشاننا تدور لا سمنا ولا  
تعرفنا امام وجهك يا ملك برلين اسمع النداء من هذا الهيكل انه لا اله الا انا  
الباقى الفرد القديم . اذكر من كان اعظم شانامنك اين هو انه نبذ لوح الله  
ورائه انه اخذته الذلة . يا ملوك امريكا اسمعوا ما تغن به الورقاء على غضن  
البقاء انه لا اله الا انا قدر ظهر الموعد فى هذا المقام المحمود ان بقاء  
نهير لكم يا معشر الامراء اسمعوا ما ارتفع من الكبرياء انه لا اله الا انا يا  
معشر الروم نسمع فيكم صوت البوم يا ايتهما النقطة الواقعة فى شاطىء  
البحرين نرى فيك الجاهل يحكم على العاقل . سوف تفنى ورب البرية  
وتنوح البنات والارامل والقبائل . يا شواطىء نهر الرين قدر اينك مقطاة  
بالدماء ونسمع حنين البرلين ولوانها اليوم فى غرمبين . يا ارض الطعاء  
افرحى بما ولد فيك مطلع الظهور سوف تنقلب فيك الامور ويحكم عليك  
وجمهور الناس . يا ارض الخاء طوبى ليوم تنصب رايات الاسماء باسمى  
الابهى . يومئذ يفرح المخلصون وينوح المشركون . يا بحر الاعظم رش ما  
امرت به وزين به هياكل الانام والذى تملك ما ية مثقال من الذهب فتسعة  
عشرة مثقالا لله . فذلك تطهير اموالكم . يا معشر العلماء لا تزونا كتاب الله  
بما عندكم من القواعد والعلوم“

## المعاملات

”توجهوا ايا قوم الى البقعة الحمراء فيها تنادى سدره المنتهى انه لا  
اله الا انا . يا معشر العلماء هل يقدر احد منكم ان يستن معى فى ميدان  
المكاشفة والعرفان والحكمة والتبيان . انا ما دخلنا المدارس اسمعوا

ما يدعوكم به هذا الامى الى الله . قد كتب عليكم تقليم الاظفار والدخول فى ماء يحيط هياكلكم فى كل اسبوع وتنظيف ابدانكم ادخلوا ماء بكر او المستعمل لا يجوز اتركوها والذى يصب على بدنه الماء يكفى عن الدخول فيه . حرمت عليكم ازدواج امهاتكم ونسحتيى ان نذكر حكم الغلمان . ليس لاحدان يحرك لسانه امام الناس اذ تمشى فى الطرق والاسواق بل فى مقام بنى لذكر الله اوفى بيته قد فرض لكل نفس كتاب الوصية . انتهت الاعياد الى العيدين الاعظمين الاول ايام فيها تجلى الرحمن واليوم الاخر يوم بعثنا فيه من بشر الناس بعد الاسم (اول مارس واخره) اذا مرضتم فارجعوا الى حذاق من الاطباء قد كتب الله على كل نفس ان يحضر لدى العرش بما عنده مما لا عدل له . طوبى لمن توجه الى مشرق الافكلر وهو كل بيت الله بنى لذكر الله فى الاسحار ذاكرة مستغفرا . اذا دخل يقعد صامتا لا صفاء آيات الله . الذين يتلون آيات الرحمن باحسن الالحان يدركون منها ما لا يعادله ملكوت السماء والارضين . يا قوم انصروا صفياء الزى قاموا بارتفاع كلمتى والذى يتكلم بغير ما نزل فانه ليس منى به اذن الله ان يتعلم الالسن المختلفة ليبلغ شرق الارض وغربها ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل . زينوا رؤسكم بالامانة والوداء وقلوبكم برواء التقوى والسننكم بالصدق وهنالكم بطراز الادب . ان الحرية تخرج الانسان عن شئون الاداب وتجعله من الارذالين . حرم عليكم السؤال فى البيان فاسئلوا ما ينفعكم فى امر الله ان عدة الشهور تسعة اشهر . حكم الله دفن الاموات فى البلور والاحجار الممتنعة او الاخشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخواتيم المنقوشة فى اصابعهم . يكتب للنساء فيها لله ملك السموات والارض وما بينهما وكان الله على كل شئى قديرا وللرجال لله ما فى السموات والارض وما بينهما وكان الله لكل شئى عليما . لو ينقش ما نزل فى الحين انه خير لهم ولهن . قد بدأت من الله ورجعت اليه منقطعا عما سواه وتمسكا باسمه الرحمن الرحيم . ان تكفنوه فى خمسة اثواب من الحرير او القطن من لا يستطيع يكتفى بواحدة منهما حرم عليكم نقل الميت ازيد من مسافة ساعة

من المدينة . اسمعوا فداء مالك الاسماء من شطر سبحنه الاعظم انه لا اله الا  
انا . ارفعن البيتين فى المقامين جبل كرمل والمقامات التى استقر فيها  
عرش الرحمن . ياملء البيان انما القبلة من يظهر الله متى ينقلب تنقلب الى  
ان يستقر من اقر من اياتى خبر له من ان يقرأ كتب الاولين والاخرين .  
عاشروا مع الاديان بالروح والريحان اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان  
صاحبه الا بعد اذنه وان تاخذكم حمية الجاهلية فى البرية . قد كتب عليكم  
تزكية القلوب وما دونها بالزكوة سوف نفصل لكم نصابها . لا يحل السؤال  
ومن يستل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل ان يكسب والذى عجز فلولو  
كلا والا غنيا ان يعينواله ما يكفيه . قد منع من الجدال والنزاع والضرب  
من يحزن احد افله ان ينفق تسعة عشر مثقالا من الذهب لا ترضوا لاحد ما  
لا ترضونه لا نفسكم اتلوا ايات الله فى كل صباح ومساء . لا يغيرنكم كثرة  
القرأة والاعمال . علموا نذياتكم ليتروا الواح الرحمن . كتب عليكم تجديد  
اسباب البيت بعد تسع عشرة سنة والذى لم يستطع عفا الله عنه اعنلوا  
ارجلكم كل يوم فى الصيف وفى الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ  
عليكم تابلوه بالرفق والذى يزرركم لا تزجروه قد منع من الارتقاء الى  
المنابر . من اراد التلاوة فليقعد على الكرسي الموينوع على السرير . قد  
احب الله الجلوس على السرير والكراسى . حرم عليكم الميسر الافيون .  
اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلهم ويضرا بدانكم . اذا دعيتم الى  
الولائم والعزائم اجيبو . حرم عليكم حمل الآت الحرب الا حين الفروره  
واحل لكم لبس الحرير . قدرفع الله عنكم حكم الحدو اللباس واللحى . يا  
ارض الكاف والراء سوف يظهر الله فيك اولى باس شديد يذكروننى  
باستقامة . انكروا الشيخ محمد حسن لما ظهر الحق اعرض عنه . يا معشر  
العلماء لا تكونوا سبب الاختلاف انكروا الكريم اذدعونا الى الله استكبر  
الى ان اخذته زبانية العذاب يا ملا البيان انا دخلنا مكتب الله اذانتم  
راقدون . قد احطنا الكتاب قبل كن قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق  
السموات والارضين . لا تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حملة . من قتل

نفسا خطأ فله دية مائة مثقال من الذهب . اختاروا لغة ليتكلم بها من على الارض وكذلك من الخطوط قد حرم عليكم شرب الافيون والذى شرب ليس منى . يا اهل الارض لا تجعلوا الدين سببا للاختلاف تمسكوا بالكتاب الاقدس الذى انزله الرحمن لا تسبوا احد وان ليسبكم احد ويمسكم ضرفى سبيل الله“

## وقائع الاحوال

”فاصبروا او تمسكوا بما ينتفع به انفسكم واهل العلم يا رب كنت راقد اقد هزنى هزنى نسيم يوم ظهورك وانا ايقطنى والمنى ما كنت غافلا عنه . يا بديع كن فى النعمة منقفا وفى فقدتها شاكر افى الحقوق امينا فى الوجه طلقا وللفقراء كنز الاغنيا عنها صحا للمنادى مجيبا فى الوعدو فيافى الامور منصفافى الجمع صامتا فى القضاء عادلا للانسان خاضعا فى الظلمة سراجا للهموم فرحا للظلمان بحر اللكروب بلحا بلظلوم ناصر او عضد او ظهر افى الاعمال متقيا للغريب وطنا للمريض شفاء للمستجير حصنا للضرير بصر المن ضل صراط ووجه الصدق جمالا ولهيكل الامانة طراز اولبيت الاخلاق عرشا لجسد العالم روحا لجنود العدل رايه ولا فق الخير نور اول الارض الطيبة رذا ذو البحر العلم فلكا لسماء الكرم نجما وبراس الحكمة اكليل للجبين الدهر بياضا ولشجر الخضوع ثمرا . اتقوا ولا تتبعوا كل مشرك مرتاب . تالاه لقد صعدت زفراى ونزلت عبراتى بكت عين شفقتى ناح قلبى بما امرى العباد معرضين عن بحر رحمى وشمس فضلى وسماء كرمى الذى احاط من فى السموات والارضين . يبشرهم لسان المقصود ويدعوهم الى المقام المحمود ولهم يفتون عليه بظلم مبين هذه ارض ارتفع فيها نداء ابن مريم الذى بشر الناس بهذا الظهور الذى ان ظهر نطق الملا الا على قداى العيب المسكنون بسطان مشهود . قل يا ملاء الانجيل قد فتح باب السماء واتى من صعد اليها وانه ينادى فى البر والبحر ويبشر الكل بهذا الظهور للذى به نطق لسان العظمة قداى الوعد وهذا هو الموعد . ان ياتكم فاسق بكتاب السجين دعوه وراءكم سوف تنتشر الواح

النار فى الديار . انا نذكر الالف والجيم قبل الالف والجيم ليشكر به . انا  
 فزت بلوح الله فول وجهك شطر السجن وقل لك الحمد يا الهى قل تالله لقد  
 ظهر ما هو المسطور فى كتاب الله انه هو الذى سمي فى التوراة بيهواه وفى  
 الانجيل بروح الحق وفى القرآن بالنبا العظيم تمسكوا بما وعدتم به من  
 قبل بلسان النبيين والمرسلين اياكم ان تمنعكم الواح النار وكتاب  
 السجين . يا ملاً الاديان دعوا ما عندكم تالله قداى الرحمن بالحجة  
 والبرهان . ليس لاحد ان يتوجه الى شطر السجن الا بعد اذنه . يا قوم  
 قداى يوم القيام قوموا عن مقاعدكم وسبحوا بحمد ربكم . قدارتفعت  
 الصيحة واتت الساعة وظهرت القارعة لكن القوم فى حجاب غليظ . قد  
 انكر علماء الاحزاب اذانى محمد رسول الله ﷺ وعلماء التورة اذا اتى الروح  
 منهم الفتنة ظهرت واليهم رجعت . انا اظهرنا الصحيفة المكنونة المختومة  
 التى كانت مرقومة باصبع القدرة ومستورة خلف حجب الغيب . تالله انى  
 انا الصراط المستقيم وانا الميزان الذى يوزن به كل صغير وكبير . يا اهل  
 البهاء خذوا كتاب الله بقوة القوم فى وهم عجاب يعبدون الاوهام قد  
 زينوا رؤسهم بالعمائم ضلوا اوضلوا الا انهم لا يعلمون . يا ملاً البيان لا  
 تقتلونى بسيوف الاعراض تالله كنت نائماً ايقظتنى يد ارادة ربكم الرحمن  
 وامرنى بالنداء بين الارض والسماء ليس هذا من عندى لو انتم تعلمون .  
 لو يرى احدا قائما على الامرنا طقاما اقامتى وما انطقنى بكلمة . قد اخذ  
 المختار ومن كفى زمام الاختيار واقامنى كيف شاء وانطقنى كيف اراد . يا  
 ملاً البيان دعونى لاهل القرآن انهم احاطونى اتقوالله ولا تكونوا من  
 الظلمين

### تكفير اهل البيان

”قد انكر ملاً البيان حجة الله وبرهانه . ان الذين اتخذوا الاوهام  
 لا نفسهم اريابامن دون الله اولئك اصحاب النار قد احاطت المظلوم ذئاب  
 الارض واشرارها قد انكروه ان الذى ربيناه اراد سفك دمي فلما ظهر  
 الامر صاح فى نفسه متمسكا بمفتريات لا ذكرها عند الله . اميرزا يذكرك

مولى الاسماء فى هذا المقام . ان قلمى ينوح بما ورد على من الذين كفروا  
يذكرون نقطة البيان ويفتون على مرسله ويقرؤن الايات وينكرونها الا  
انهم من اصحاب النار . يا عباد الرحمن اذا جاءكم ناعق دعوه بنفسه  
متوكلين على الله تالله ان البيان مانزل الالذكري وما بشر العباد الا  
بظهورى ان كنتم فى ريب اقرءوا الايات الله وما عندكم ثم انصفوا يا اولى  
الابصار . اتقوا الرحمن ولا تسفكوا دم الذى نصركم بجنود الوحي  
والالهام . قد انكرنى من خلق لخدمتى قد اراد سفك دمي من حفظته تحت  
جناح الفضل فى سنين متواليات . هل منكم من احد يجول فارس المعانى  
فى مضمار الحكمة والبيان يا اهل الارض اسمعوا تالله هذا نداء سمع  
الحبيب فى المعراج والكليم فى الطور والروح حين صعوده الى الله . قداى  
المظلوم لنجاة العالم ولكن الامم قاموا عليه بظلم تغيرت به الافاق . هذا هو  
الذى بشركم محمد رسول الله هذا هو الذى ذكرتموه فى القرون الاعصار قد  
اهتز القوم شوقا للقاءه . اى رب تعلم انى ماردت الاحرية عبادك ونجاتهم  
من سلاسل التقليد والاهام . انا وصيनाهم بالظهور الاعظم وبشرناهم  
بهذا اليوم العظيم فلما ظهر اعرضوا عن الذى اتى بالحق يا ملأ البيان  
انكروا ما انزله الرحمن فى القرآن يوم يقوم الناس لرب العليم . ان الذى  
اتخذ تموه ربا لانفسكم من دون الله كان يضر من مقام الى مقام يشهد به  
الانام . ان تريدوا الايات انها احاطت الافاق تريدوا البيئات انها ظهرت لا  
ينكرها الا كل معتد اثم . ان يعذب الله احدا من بهذا الظهور فباى حجة لا  
يعذب الذين امنوا بنقطة البيان ومن قبله بمحمد وبابن مريم وبموسى  
الكليم الى ان يرجع الامرالى البديع الاول فاتقوا الله ولا تتبعوا الاصنام  
الذين كفروا بالشاهد والمشهود ليس لا حدان يتذال عند نفس . حرم  
عليكم التقبيل والسجود والانطراح والانحناء ان السجود ينبغى لمن لا  
يعرف ولا يرى . والذى يرى ليس لا حدان يسجدوه والارجع ويتوب الى  
الله قد ثبت بالبرهان ان السجدة لم تكن الاحضرة الغيب . من المعرضين  
من قال انه سرق الايات ونسبها الى الله ومنهم من قال انه نهى الناس عن

المعروف ويل لك ايها الغافل الكذاب . قد كنتم رقاء خلف الاستاد وقلمي الاعلى يجول فى مضمار الحكمة والعرفان . قد فتحنا باب النصيح على وجوهكم اذ وجدناكم اشقى العباد . لما نشر الصبح لرائه واتى مكلم الطور قام العلماء على الارض منهم من كفره ومنهم من اعرض ومنهم من اعترض ومنهم من افتى عليه بظلم به ذرفت عيون الابرار“

### المنكر هو الكافر

”كذلك سولت لهم انفسه . نشهد انهم من اصحاب النار . انا فى اول الايام قمنا امام وجوه العالم وعن يمينى رايات الايات وعن يسارى اعلام البيئات ودعونا الكل الى الله قد قام علينا الاحزاب باسياف الاعتساف . منهم من قال انه افترى على الله ومنهم من انكر ما نزل من الله قل هذا نور به استضاء العالم وناربه احترقت افئدة كل جاهل مردود . يا ملا البيان لا تكونوا من انكروا حجة الله لوتنكرونه فباي برهان ثبت ما عندكم فاتوا به ولا تعترضوا على الذى بامرہ نطق نبي وكلم كل رسول . واعلم ان كلام الله اجل من ان يكون مما تدرکه الدعواس لانه ليس بطبيعة ولا بجوهر قد كان مقدسا عن العنم المعروفة . انه ظهر من غير لفظ وصوت . لما ملئت عيون اهل الشرق من صنائع اهل الغرب لذاها موافى الانسان ليعلم ان اكثرها اخذوا من حكماء القبل والقدماء اخذوا العلوم من الانبياء“

### الحكمة القديمة

”ان ابيد قليس كان فى زمن داؤد وفيثا غورس فى عهد سلمان واخذ الحكمة منهما . انا نذكرك بناء يوم تكلم فيه احد من الانبياء فلما انفجرت ينابيع الحكمة من الناس من اخذ هذا القوم ووجد فى زعمه الحلول ومنهم من فاز بالرحيق المختوم . ان الفلاسفة ما انكروا الله القديم ان بقراط اعترف بالله وسقراط اعتزل فى الغار ومنع الناس عن عبادة الاوثان فخذوه وقتلوه فى السجن هو الذى اطلع على الطبيعة الموصوفة با الغلبة بانها تشبه الروح الانسانى قد اخرجها من الجسد الحوانى وعجز



حكماء العصر ان ادراكه افلاطون تلميذ سقراط اقر بالله . وبعده ارسطو طاليس الذى ادرك القوة البخارية . ثم جالينوس ابوالحكمة صاحب الطلسمات وانتشر منه من العلوم مالا انتشر من غيره قال فى مناجاته انت لا اله الا غيرك . انما ما قرانا كتب القوم وكلما اردنا ان تذكر بيانات العلماء والحكماء يظهر ما ظهر فى العالم امام وجه ربك نذكر نبأ مورطس صنع اله تسمع على ستين ميلا . انا نحب الحكماء الذين ظهر منهم ما انتفع به الناس وايدناهم بامر من عندنا انا كنا قادرين . اياكم ان تنكروا عبادى الحكماء الذين جعلهم مطالع اسمه الصانع انا نتبرء عن كل جاهل ظن بان الحكمة هو التكلم بالهوى والاعراض عن الله . تفكر فى بلائى وسجنى وغربى وماورد على وما ينسب الى الناس الا انهم فى حجاب غليظه ينبغى لكل اسم امن بالله ان يعمل بما امر به فى الكتاب الاقدس الذى من لى الحق علام الغيوب قل املأ الارض ضعوا الاقوال وتمسكوا بالاعمال كذلك يا مرمك الغنى المتعال لو انتم تشعرون . هذا يوم الذكر والثناء هذا يوم المكاشفة واللقاء ولكن الناس عنه معرضون

### ورقة بيضاء

” انا كنا مستويا على العرش دخلت ورقة نور اولا بستة ثيابا رفيعة بيضاء اصبحت كالبدر الطالع من افق السماء . تعالى الله موجداهم ترعين مثلها لما حلت اللثام اشرقت السموات والارض هى تبسم وتميل كغصن البان . ثم طافت من غير ارادة تمشى والجلال يخذ مها والجمال يهلل ورائها من بديع حسنها ودلالها واعتدال اركانها ثم وجدنا الشعرات السوداء على طول عنقها البيضاء كان الليل والنهار اعتنقا فى هذا المقر الا بهى . لما تفرسنا فى وجهها وجدنا النقطة المستورة تحت حجاب الواحدية مشرقة من افق جبينها كان بها فصلت الواح محبة الرحمن وحكمت عن تلك النقطة نقطة اخرى فوق ثديها الايمن . وقام هيكل الله يمشى وتمشى ورائه سامعة متحركة من ايات ربها ثم ازدادت سرورا الى ان انصعقت فلما افاقت تقربت وقالت نفسى الفداء لسبحنك يا سر الغيب . كانت منتظر الى شرق

العرش كمن بات فى سكر الى ان وضعت يدها حول عنق ربها وضحته  
 اليها . فلما تقربت تقربنا وجدنا منها ما نزل فى الصحيفة المخزونة الحمراء  
 من قلمى الاعلى . ثم مالت براسها واتكأت بوجها على اصبعيها كان الهلال  
 اقترنت بالبدر التمام عند ذلك صاحب وقالت كل الوجود فداء لبلاتك  
 ياسلطان الارض والسماء الام اودعت نفسك فى معاينة عكاه اقصد ممالكك  
 الاخرى التى ما وقعت عليها عيون اهل السماء . عند ذلك تبسمنا وقد  
 تصادف هذا الذكر يوماً فيه ولد مبشرى الذى نطق بذكرى واخبر الناس  
 بسماء مشيتى وعزرناه بيوم اخرى الذى فيه ظهر العيب للكون الذى به اخذ  
 الاضطراب سكان ملكوت الاسماء وانصعق من فى الارض والسماء الامن  
 قنقذناه بسلطان من عندنا وانا المقتدر على ماشاء لا اله الا انا العليم  
 الحكيم“

## التواب والعقاب

”انا زيهم افق اليقين وهم يعرضون عنه . يذكرهم قلم الوحي وهم  
 لا يتذكرون . يتبعون الجهلاء ويسمونهم بالعلماء الا انه لا يفقهون . ان  
 الذين لا يميزون اليمين عن الشمال يدعون العلم وبه استكبروا على الحق  
 علام الغيوب . قل ومالك الابداع انتم هج رعاغ تبرأ منكم جوار حكم وانتم  
 لا تشعرون . سوف يرى المشركون مثوهم فى النيران والموحدون فى  
 ملكوت الله قد خرقت الاحجاب وظهر الوهاب بسلطان لا تمنعه جنود العالم  
 ولا ضوضاء الام ينطق فى كل حين الملك لله . ان الذى اقبل الى مطلع  
 الايات انه اقبل الى الله يا قوم لا ينفعكم اليوم شئى الا ان تتوبوا وارجعوا  
 الى الله انا نذكر الذين اقبلوا الى الله سوف يجعل الله كنز لهم اذا تشرفت  
 بلوح الله اقرأ بالليالى والايام . انه يقربك الى المقام الرفيع . يا اهل البهاء  
 تالله ربحتم فى تجارتكم . سوف ترون انفسكم لا يسعه البيان ولا تحيطه  
 اوصاف العارفين . اشكروالله انه معكم فى كل الاحوال ويؤيدكم على ما  
 انتم عليه قد ظهرت الكلمة ونادت الساعة وتقول القيمة بشرى لكم يا ملأ  
 الارض بهذا اليوم المبارك انتبهوا من رقد الهوى قداتى مالك الورى . اياكم

ان تحجبكم زماجر اهل النفاق زين لسانك بالذكرانه يذكرك فى المقام الذى سمي بالسجن مرة واخرى بالمقام الكريم . كتاب نزل بالحق لمن توجه الى الافق الا على قل ظهر ام الكتاب ينطق انه لا اله الا انا . قد خلقت الخلق لعرفانى فلما اظهرت نفسى كفروا واعروضوا الا من شاء الله . قد انتظر الكل ايام الوصال فلما اتى الغنى المتعال اعرضوا عنه . كن على شان لا تجبك احجاب العالم . كذلك يعلمك من علم ادم الاسماء كلها يا اهل البهاء اسمعوا النداء من البقعة النوراء من لدى الله تمسكوا بحبل الوفاء . هذه جنة لها انهار تجري فى ظلال هذا السدرة التى ارتفعت بالحق . نهر سمي بالوفاء من شرب منه فاز بالاستقامة الكبرى ويجد نفسه فى مقام لا تمنعه الاسماء عن مالکها ولا السمي عن صراط المستقيم . انه ممن شهدله الرحمن فى كتابه قال وقوله الحق لا يمنعه ذكر النبى عن الذى بقوله يخلق انبييين والمرسلين قد اجتمع العلماء على ضرنا لكن الله اخذهم بالعدل فلما رجعوا الى مقرهم قام بعد هم من سمي بباقر بظلم بكت منه عيون الذين طافوا حول العرش . افا اركسنا ثم تاخذه وفرجعه الى مقرifer منه الجحيم . نعمنا لمن تزين بطراز الاستقامة فى هذا الامر الخطير قد جرى الكوثر والسبيل وظهر السبيل بهذا الاسم المهيمن وكذلك اشرفت شمس الوحى من ربك لتتوجه اليها بقلبك واشكروا كن من الحامدين

### السجن ونزوله تعالى

”يا على اسمع النداء من سجنى الاعظم انه لا اله الا هو تمسك بحبل الله ليحفظك من الذين كفروا بيوم الدين كن مستقيما على حب الله لا يمنحك نفاق كل شيطان رجيم انه يلهم اوليائه كما لهم فى القرون الاولى تجنب عنه وتوكل على الله سراج الله ينادى بينكم ويقول الى الى يا شعبي وعبادى لعمرى اظهرت نفسى لكم اتبعوا امرى لا تعقبوا الذين كفروا بالله رب العلمين . قيل هل نزلت الاواح قل اى وربى . من الناس من توجه الى الغيب الغراب . اتقوا الله ولا تعارضوا على الذين ظهرت به الحجج . شهد القيوم لهذا اللطوم انه لا اله الا هو قد فتح باب السماء وهو هذا الباب الذى

بالاسم الاعظم على من فى الملك والملکوت . قد ظهر المنظر الاکبر ولكن الناس عنه معرضون والذى اعرض انه من اصحاب القبور سبحان الذى الهم عباده الاصفياء وعرفهم هذا اليوم الذى كان مسطوراً . ان اليوم يمشى وينطق ولكن القوم اكثرهم من الغافلين انه بنفسه ينادى العالم ويقول تالله قداتى مالك القدم الاسم الاعظم توجهوا ولا تكونن من الغافلين“

الهيكل

”قد ظهرت الكلمة العليا وبها هدرت الورقاء على السدرة المنتهى انه هو هوتوجهوا اليه ان الذين اعرضوا عن الوجه اولئك فى خسران عظيم . انا اظهرنا الامانة على هيكل الانسان وانه يقول كل الفصل لمن تمسك بى ان الذين اعرضوا عنى ليس لهم نصيب فى الكتاب . اسمع ما قاله المشرك بالله بعد ما اويناه فى ظل الشجرة وحفظناه بسلطاني المهيمن قد افتى بالظلم على الذين ينبغي له ان يخدمهم ثم قال ما لا قاله احد من المشركين مثله مثل الحية الرقطاء تلدغ وتصيب سبحان الذى نطق وانطق كل شئى على انه لا اله الا هو . قد نار افق العالم بشمس اسمى الاعظم لكن اكثرهم لا يشعرون . كتاب انزله المظلوم فى السجن الاعظم لمن امن بالله انا نذكر من يذكرنا ونبشر من اقبل الى الله . طوبى لمقبل اقبل الى الله ولقاصد قصد المقصود اذ كان فى سبحنه الاعظم كذلك ذكرناك وانزلناك ما انجذب منه العالم . هنيأ لمن فاز بايامى وبرئياً لمن شرب كوثر الحيوان من هذا القلم“

طبع فى مطبع الناصرى فى شهر محرم الحرام فى بمبئى ١٣١٤ هـ

### ١٠.....اقتباسات كتاب البريه

مرزا قاديانى لکھتے ہیں کہ: ”میرا شجرہ نسب یہ ہے۔ غلام احمد، غلام مرتضیٰ، عطاء محمد، گل محمد، فیض محمد، محمد قائم، محمد اسلم، محمد دلاور، الہ دین، جعفر بیگ، محمد بیگ، عبدالباقی، محمد سلطان، ہادی بیگ۔ میری قوم مغل برلاس ہے۔ میرے بزرگ (اپنی برادری کو چھوڑ کر) سمرقند سے پنجاب قادیان میں آئے تھے۔ جولاء ہور سے پچاس میل کے فاصلہ پر شمال مشرق پر واقع ہے۔ جہاں اس

وقت ایک جنگل تھا۔ جس کو آباد کر کے اسلام پورا نام رکھا جو کچھ عرصہ بعد اسلام پور قاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر صرف قاضی ماجھی رہ گیا۔ پھر قادی پھر قادیان۔ اس علاقہ کا طول ساٹھ کوس ہے۔ یہ سارا علاقہ ماجھا کہلاتا تھا۔ کیونکہ اس میں مجھ یعنی بھینس بکثرت پائی جاتی ہے۔ میرے بزرگ والیان ملک کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جو کسی وجہ مخاصمت سے ان کو سمرقند چھوڑنا پڑا سکھوں کے عہد میں میرے دادا گل محمد کے پاس پچاسی گاؤں تھے۔ سکھوں کے متواتر حملوں سے کچھ گاؤں ہاتھ سے نکل گئے۔ مگر پھر بھی دریادلی سے آپ نے چند تفرقہ زدہ رفقاء کو کچھ بطور جاگیر دے دیئے۔ جو اب تک ان کے پاس ہی ہیں اور تقریباً پانچ سو آدمی آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے اور ایک جماعت طلباء و علماء آپ کی وظیفہ خوار بھی تھی اور تمام ملازم تہجد تک صوم و صلوات کے پابند تھے۔ لوگ اس وقت اسے مکہ کہتے تھے۔ کیونکہ یہ گاؤں اس وقت اسلام کی جائے پناہ تھا اور مرزا صاحب کرامات مشہور تھے اور آئین حکومت سے بھی باخبر تھے۔

### گل محمد اور ریاست

میں نے کئی بار اپنے باپ سے سنا تھا کہ سلطنت مغلیہ کا ایک وزیر (غیاث الدولہ) قادیان آیا اور آپ کی مدبرانہ حکومت دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر مجھے اس بیدار مغز کا پتہ معلوم ہوتا تو ایام کسل سلطنت مغلیہ میں آپ کو تخت نشین کر دیتا۔ مرض موت کے ایام میں ہنگی نے آگھیرا تو شہر اب پینے کو کہا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ کہا کہ اس کی اور دوائیں بھی ہیں۔ تو آپ کے بعد مرزا عطاء محمد گدی نشین ہوئے۔ اس وقت سکھوں کی دستبرد سے صرف قادیان کا قلعہ قبضہ میں رہ گیا۔ جس کی چاروں طرف مورچوں میں فوج رہتی تھی۔ فیصل کی اونچائی ۲۲ فٹ اور عرض بقدر تین چھڑے تھا۔ فرقہ رام گڑھیا اجازت لے کر اندر آگھسا اور دھوکے سے قابض بن گیا اور تمام مال و اسباب لوٹ کر تمام مساجد کو مسمار کر دیا۔ جن میں سے اب تک ایک مسجد سکھوں کے پاس ہے۔ جس پر انہوں نے دھرم سالہ بنا رکھا ہے اور ایک کتب خانہ جلا دیا۔ جس میں پانچ سو قرآن مجید تھے اور میرے بزرگوں کو کسی دوسری سلطنت میں بھیج دیا۔ جہاں میرے دادا کو زہر دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کے آخری عہد میں میرے والد غلام مرتضیٰ قادیان واپس آئے تو ان کو پانچ گاؤں واپس ملے اور رئیس تسلیم کئے گئے اور گورنر جنرل کے دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی۔ ۱۸۵۷ء میں آپ نے پچاس آدمی گھوڑ سوار حکومت کو پیش کئے اور آئندہ امداد کا بھی وعدہ دیا تو آپ کو حکومت کی طرف سے اعزازی شوقیٹ عطاء کئے گئے۔ جن کا تذکرہ سر لیبل گریفن نے اپنی کتاب تاریخ ریاستوں میں کیا ہے اور کئی دفعہ خود ڈپٹی کمشنران کو گھر پر ملنے آیا کرتا تھا۔

## پیدائش مسیح قادیان

میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ہوئی۔ جب کہ سکھوں کا آخری زمانہ تھا اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ یا سترہ برس کا تھا۔ میرے والد نے میری پیدائش سے پہلے ایک دفعہ ہندوستان کا سفر پیدل کیا تھا۔ مگر اب وہ تنگی دور ہو چکی تھی اور میں نے ان مصائب سے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ گو مسیح کی طرح مجھے سر رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی اور موزوٹی جائیداد ختم ہو چکی تھی۔ مگر خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ایک نیا سلسلہ شروع کرے۔ میں تو ام تھا۔ میرے ساتھ لڑکی پیدا ہو کر مر گئی۔ جس سے ثابت ہوا کہ مجھ میں انوشیت کا مادہ باقی نہیں رہا۔ براہین میں الہام درج ہے کہ: "سُبْحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ۚ زَادَ مَجْدَكَ وَيَنْقُطُ عَابَاؤُكَ وَيَبْدَأُ مِنْكَ" اور یہ بھی بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

## مرزا قادیانی کی تعلیم

میں چھ سات برس کا تھا کہ فضل الہی کو نوکر رکھا گیا۔ جس سے میں نے قرآن شریف اور کچھ فارسی پڑھی۔ دس برس کا تھا تو فضل احمد سے عربی پڑھی۔ سترہ برس کا تھا تو گل علی شاہ سے منطق، حکمت اور نحو وغیرہ پڑھی اور علم طبابت اپنے باپ سے حاصل کیا۔ (کوئی نبی چار پانچ استادوں سے نہیں پڑھا اور نہ ہی کتب بین ہوتا ہے) اور کتب نبوی اس قدر غائب تھی کہ اس وقت گویا میں دنیا میں نہ تھا۔ جس سے والد صاحب مجھے ہمیشہ روکتے تھے اور اسی وجہ سے مجھے مقدمات میں لگا دیا۔ جو انہوں نے دوبارہ واپس دلانے۔ جانے دیہات مذکورہ کے دائرہ کر دیئے تھے اور عرصہ دراز تک مجھے زمینداری میں بھی لگا دیا۔ مگر چونکہ میں اس فطرت کا نہ تھا۔ اس لئے والد صاحب ناراض رہتے تھے اور رو خلق کرنے میں کوشش کرتے تھے۔ مگر میں اس سے متنفر تھا۔

## باپ کی ناراضگی

ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر صاحب آئے تو مجھے آپ نے کہا کہ پیشوائی کے لئے دو تین کون جانا چاہئے۔ مگر میں بیمار تھا اور کراہت بھی تھی۔ اس لئے نہ جا سکا تو یہ امر بھی ناراضگی کا باعث ہوا۔ مگر تاہم میں نے اپنے آپ کو تحصیل ثواب کے لئے محو خدمت کر دیا اور وہ بھی مجھے "بر بالوالدین" جانتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں صرف ترحم کے طور پر متوجہ بن کر ناچاہتا ہوں۔ ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جس کی طرف اس کی توجہ ہے۔ سچ ہے ہم تو اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے زیر سایہ چند سال کراہت طبع کے ساتھ انگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔ مگر چونکہ میری جدائی پسند نہ تھی۔ اس لئے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ مگر مجھے معلوم ہو گیا کہ ملازم عموماً

بددیانت اور غیر متشرع ہوتے ہیں۔ بہتوں کو اخوان الشیاطین پایا۔ جن کو اخلاق فاضلہ سے خالی پایا اور اخلاق رذیلہ سے پر تھے۔ واپس آ کر زمینداری مشاغل میں مصروف رہا۔ مگر اکثر حصہ قرآن وحدیث کے تدبر اور تفاسیر میں گذارتا تھا اور وہ کتابیں زیر مطالعہ آپ کو سنا تا بھی تھا۔ آپ نے مقدمات میں ستر ہزار روپے خرچ بھی کر ڈالے۔ مگر آخر ناکام رہے۔ یہ موقعہ پھری پاک تبدیلی کے لئے بہت زریں تھا۔ کیونکہ آپ کے غموم کا نقشہ مجھے بے کدورت زندگی کا سبق دیتا تھا۔ باوجودیکہ چند دیہات آپ کے قبضہ میں تھے۔ پنشن بھی آتی تھی اور سالانہ انعام بھی مقرر تھا۔ مگر جو کچھ آپ نے دیکھا ہوا تھا۔ اس کے مقابلہ میں بیچ تھا۔ اس لئے غموم ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے۔

عمر بگذشت و نماندست جز ایامے چند  
 بہ کہ در پاد کسے صبح کنیم شامے چند  
 از در تو اے کسے ہر بے کے  
 نیست امید کہ بر دم نا امید  
 بآب دیدہ عشاق و خاکپائے کے  
 مراد لے ست کہ در خون تپد بجائے کے

## ایک خواب

ایک دفعہ حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ استقبال کے لئے دوڑے اور نذرانہ پیش کیا تو ایک کھوٹا روپیہ جیب سے نکلا۔ اس کی تعبیر حسب دنیا سے کیا کرتے تھے۔ اسی غم پر دادا صاحب کا ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔ جس کا ایک مصرعہ بھول گیا ہوں۔

کہ جب تدبیر کرتا ہوں تو پھر تقدیر ہنستی ہے

مرنے سے پہلے چھ ماہ آپ نے ایک جامع مسجد وسط آبادی میں تیار کروائی اور وصیت کی کہ مسجد کے ایک کونہ میں میری قبر ہو۔ مسجد مکمل ہو گئی فرش باقی تھا کہ پیش سے چند روز بیمار رہ کر (جون ۱۸۵۷ء) کو فوت ہو گئے۔ آپ کی عمر ۸۰ یا ۸۵ سال تھی اور اس وقت میری عمر ۳۲ یا ۳۵ سال تھی۔ میں اس وقت لاہور میں تھا۔ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ آپ کی موت قریب ہے۔ میں قادیان آیا تو دوسرے دن آپ فوت ہو گئے۔ حالانکہ آرام بھی ہو گیا تھا۔ مجھے کہا کہ گرمی بہت ہے۔ آرام کرو۔ میں چوبارہ میں چلا گیا۔ نوکر پاؤں دبانے لگا۔ تو غنودگی میں الہام ہوا۔ ”والسما والطارق“ (قسم ہے آسمان کی جو قضاء قدر کا مبداء ہے) اور قسم ہے اس حادثہ

کی جو غروبِ شمس کے بعد نازل ہونے والا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے تعزیت تھی کہ رات کو تیرا باپ مر جائے گا۔ جب مجھے غم ہوا تو فوراً یہ الہام ہوا کہ: ”الیس اللہ بکاف عبده“ اور یہ پہلا الہامی نشان تھا۔ جو گینہ میں کھدا ہوا اب تک موجود ہے۔ میرے چالیس برس کے قریب جب والد صاحب نے وفات پائی تو مکالمہ زور سے ہونے لگا۔ حالانکہ نہ کوئی میں نے محنت کی نہ مجاہدہ۔ نہ گوشہ نشینی نہ چلہ کشی نہ رہبانیت۔ بلکہ بدعتیوں سے بچتا رہا۔ ہاں خواب میں ایک معمر آدمی نے مجھے روزہ رکھنے کو کہا تو میں نے مخفی طور پر اس سنت نبوی کو نبھایا۔ مردانہ نشست میں میرا کھانا آتا تو ان کو قیہوں پر تقسیم کر دیتا۔

### مجاہدہ اور ابتدائی الہامات

دو تین ہفتہ بعد معلوم ہوا کہ کم کھانے میں لطف ہے تو کھانا بالکل ہی کم کر دیا کہ جس پر دو تین ماہ تک کا بچہ بھی صبر نہیں کر سکتا اور مکاشفات کھلے، انبیاء و اولیاء بھی ملے۔ ایک دفعہ عین بیداری میں بیچ تن پاک کی زیارت ہوئی۔ بعض ستون سرخ و سبز دلکش دستان نظر آتے تھے۔ درحقیقت وہ ایک نور میرے دل سے لگتا تھا اور دوسرا نور خدا کی طرف سے نازل ہوتا تھا اور دونوں سے ایک ستون پیدا ہو جاتا تھا۔ فاقہ کشی سے ثابت ہوا کہ انسان تنعم پسندی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ میں ہر ایک کو مشورہ نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ کیونکہ بعض صوفی مجاہد بیوسٹ دماغ کی وجہ سے مجنون ہو جاتے ہیں۔ یاسل، دق اور دوسری امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہو۔ اس کے لئے اس قسم کے مجاہدوں سے پرہیز بہتر ہے۔ مگر جو الہام کے ذریعہ ہو اس کا کرنا ضروری ہے۔ روحانی سختی ابھی باقی تھی۔ جسمانی سختی آٹھ نو ماہ تک لگا تار رہی۔ اب روحانی سختی کشی کی باری آئی۔ تو اپنی قوم کے مولویوں نے بدذہبانی اور تکفیر اور عوام کی دشنامی سے یہ حصہ مل گیا۔ جو حضور ﷺ کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھ کو دونوں حصے مل گئے۔

### الہام اور مسیحیت

جب چودھویں صدی کا آغاز ہوا تو مجھے الہام ہوا کہ تو اس صدی کا مجدد ہے اور یہ الہام ہوا۔ ”الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین۔ قل انی امرت وانا اول المؤمنین“ یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اور صحیح معنی اس کے تجھ پر کھول دیئے۔ تا ان لوگوں کو ڈرائے بد انجام سے جو باعٹ پشت در پشت غفلت اور نہ دیئے جانے سمیہ کے غلطیوں میں پڑ گئے اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے جو ہدایت بھیجنے کے بعد بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ ان کو کہہ دے کہ میں مامور من اللہ ہوں اور اول



المؤمنین ہوں۔ یہ الہام براہین احمدیہ میں اٹھارہ سال قبل شائع ہو چکا ہے۔ میں کیوں اس خدمت کے لئے مامور کیا گیا؟ کیا زمانہ کی حالت متقاضی نہ تھی کہ اسلام پر بیرونی حملوں اور فسق و بدعات کی روک تھام کے لئے صدی کے سر پر ایک مجدد کی ضرورت ہے۔ براہین احمدیہ کے زمانے تک مولوی میرے ثنا گور ہے اور اس پر رپو بھی لکھا۔ حالانکہ اس میں مجھے مسیح موعود اور عیسیٰ بھی لکھا تھا اور جب تک صریح طور پر میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا لوگ مخالف نہ تھے۔ مگر مسیحیت کا دعویٰ ہوا تو عجیب شور اٹھا۔ تکفیری استغناء تیار ہوا۔ جس پر کم فہم اور موٹی عقل والوں نے دستخط کئے اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ امام موعود کی تکفیر ہوگی۔ اب لوگ تین قسم کے ہو گئے۔ موافق مخالف اور غیر جانبدار، میرے موافق اگرچہ تھوڑے ہیں۔ مگر غیر ممالک تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے گروہ میں اکثر خواص ہیں اور ذی عزت عہدہ دار ہیں۔ اکثر تعلیم یافتہ تاجر، تعلقہ دار، جاگیر دار اور غوثوں، قطبوں کی نسل۔ خدا ہماری جماعت کو فوق العادت ترقی دیتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ نیک دل، پارسا طبع، اولوالعزم، سعادت مند لوگوں کو اس جماعت میں داخل کرے۔ مسیحیت کا وہ دعویٰ تھا کہ جس کے تمام منتظر تھے۔ گو قرآن شریف میں یہ وعدہ اجمالی تھا۔ مگر احادیث میں تو اتر کے درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جو شخص اس پیشین گوئی کا انکار کرے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ متواتر انکار گویا اسلام کا انکار ہے۔

### فح اعوج کے تناقضات

- مگر فح اعوج کے علماء نے اس کے معنی سمجھنے میں دھوکہ کھا کر تناقضات پیدا کر لئے ہیں۔
- اول ..... قرآن وحدیث سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ مسیح کی وفات ہو چکی ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ زندہ آسمان پر موجود ہیں۔
- دوم ..... حضور ﷺ کو خاتم النبیین مان کر مسیح کے منتظر ہیں۔
- سوم ..... دجال کے غلبہ کے وقت مسیح کی آمد مانتے ہیں اور ساتھ ہی حسب تصریح بخاری مسیح کا ظہور غلبہ صلیب کے وقت قرار دیا ہے کہ عیسائیت غالب ہوگی اور عیسائی طاقت سب پر غالب ہوگی اور اس کا مسقط سوائے حرمین کے اس جگہ ہوگا۔
- چہارم ..... مسیح اور مہدی دو شخص ہیں۔ حالانکہ مسیح کے سوا دوسرا کوئی مہدی نہیں۔
- ان چار تناقصوں سے تذبذب پیدا ہوا اور نیچریوں نے اس کا انکار ہی کر دیا۔ مناسب تھا کہ نیچری ان معنوں کو رد کر دیتے۔ جو ناقص الفہم اور نادان مولویوں نے کئے تھے۔ اب خدا نے سچے معنی سمجھنے کا موقعہ دیا ہے۔ انصاف پسند تلاش کریں اور کمذہبن میں شامل نہ ہوں۔ ملاکی نبی کی

پیشین گوئی میں ایلیا کا ظہور تمثیلی تھا۔ مگر یہود نے جسمانی سمجھ کر مسیح کا انکار کر دیا اور آسمانی بادشاہی کو زمینی بادشاہی سمجھ بیٹھے۔ مگر یہودی نص صریح پیش کرتے تھے اور عیسائی تاویل سے مسیح کی صداقت پیش کرتے تھے۔ پس جب یہودی جھوٹے ثابت ہوئے تو مولوی کیسے سچے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ صحیحین میں موجود ہے کہ: ”امامکم ، امکم“ مسیح امام وقت ہوگا۔ عمر بھی ایک سو بیس برس لکھی ہے اور ۱۲۰ء میں آپ فوت ہو چکے ہیں۔ جس پر قرآن شاہد ہے۔ ہمارے عقیدہ کی نظیر موجود ہے اور مولویوں کے عقیدہ کی نظیر موجود نہیں۔ جنگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مدعی نبوت ہیں اور معجزات یا ملائکہ کا انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ ہم حضور ﷺ کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور تمام عقائد اہل سنت کے معہ معجزات اور ملائکہ کے قائل ہیں۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ مخالف نزول مسیح جسمانی مانتے ہیں اور ہم صوفیاء کی طرح روحانی نزول کو بروزی طور پر ثابت کرتے ہیں۔

### دلیل صداقت

اور میری صداقت یہ دلیل ہے کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو محمد عیسائیت کو فرو کرنے کے لئے ظاہر ہوگا۔ اس کا نام حضور ﷺ نے بلحاظ اصلاح عیسائیت کے مسیح رکھا ہے۔ مگر عوام نے دھوکہ کھایا ہے کہ مسیح آسمان سے نازل ہو کر مجدد بنے گا اور چودھویں صدی کے سر پر آئے گا۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ جو نبی اپنی طبعی عمر پورا کر دار النعیم میں داخل ہو چکا ہے۔ دوبارہ دارالابتلاء میں کیوں آئے۔ کیا وہ نبوت جس پر مہر لگ چکی ہے اور وہ کتاب جو خاتم الکتب ہے۔ فضیلت ختمیت سے محروم رہ جائے گی؟ درحقیقت استعارۃً یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک وقت عیسائیت کا غلبہ ہوگا۔ جب عیسائی انسان پرستی اور صلیب پرستی میں کمال دجل و تحریف کی رو سے دجال ہو جائیں گے۔ تب ان کی اصلاح کے لئے آسمانی مسیح پیدا ہوگا۔ جو دلائل سے ان کی صلیب توڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پیشین گوئی میں اسرائیلی مسیح مراد نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ: ”لا نبی بعدی“ اور یہ حدیث مشہور ہے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں اور قرآن شریف کہ جس کا ایک ایک لفظ قطعاً ہے۔ اپنی آیت ”وخاتم النبیین“ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ نبوت کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے مسیح آپ کے بعد تشریف لائیں اور یہ کہنا بہت بے حیائی ہے کہ آپ نبوت سے معطل ہو کر آئیں گے۔

### وفات مسیح

الغرض قرآن و حدیث کی رو سے کوئی نبی حقیقی معنی نبوت کے رو سے آپ کے بعد نہیں آ سکتا۔ ”امامکم“ اور ”امکم“ نے بھی تصریح کر دی ہے۔ ”توفیتنی“ نے موت ہی کا فیصلہ

کر دیا ہے۔ یہاں ماضی کو مضارع ماننا بے جا ہے۔ کیونکہ توفی اور فساد نصاریٰ بالترتیب مقدم و مؤخر ہیں تو جب فساد نصاریٰ تسلیم ہے۔ تو وجود توفی بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اجماع کا کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مسیح زندہ ہیں۔ ورنہ وہ سخت نادان سخت خیانت پیشہ اور دروغگو ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے جب محسوس کیا کہ حضور ﷺ کو وفات کے بعد زندہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ”توقد خلت من قبلہ الرسل“ سے ثابت کر دیا کہ نبی سارے فوت ہو گئے ہیں اور کوئی نبی زندہ نہیں ہے اور کوئی منکر نہ ہوا۔ امام مالک، ابن حزم، امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن عساکر اور فرقہ معتزلہ سب وفات مسیح کے قائل ہیں تو اجماع کیسے ہوا۔ درحقیقت یہ اس زمانہ کے خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہو گئے تھے اور یہ وسط کا زمانہ تھا۔ جس کو شیخ اعوج کہا گیا ہے اور اس زمانہ کے لوگوں کو ”لیسوا منی ولست منہم“ کہا ہے۔ اب لوگوں نے حیات مسیح تسلیم کرنے سے چار طرح قرآن شریف کی مخالفت کی ہے۔

اول ..... وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام مر گئے اور یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں۔

دوم ..... وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ حالانکہ زمین پر گوتام سامان مہیا ہیں۔ کوئی شخص انیس سو سال تک زندہ نہیں رہا۔ تو پھر آسمان پر کیسے اتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے۔

سوم ..... وہ کہتا ہے کہ انسان کا آسمان پر چڑھنا خلاف عادتہ اللہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وقوع پذیر ہے۔

چہارم ..... وہ کہتا ہے کہ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آنے والا مسیح حقیقی نبی ہے اور اس کی نبوت حقیقی نبوت ہے۔

اگر مسیح نبوت کے ساتھ آئے تو آپ خاتم الانبیاء کیسے رہ سکتے ہیں؟ رفع جسمانی کی دلیل قرآن وحدیث سے نہیں لاسکتے۔ بلکہ صرف نزول کے ساتھ اپنی طرف سے آسمان کا لفظ بڑھا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ کسی حدیث مرفوع متصل میں من السماء کا لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ نزول مسافر کے لئے آتا ہے۔ نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے اترے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ آپ کس آسمان سے اترے ہیں۔ اگر تمام فرقوں کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا وضعی حدیث بھی ایسی نہ پاؤ گے کہ حضرت عیسیٰؑ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر گئے تھے اور پھر واپس آئیں گے۔ اگر کوئی ایسی حدیث پیش آئے تو ہم بیس ہزار روپیہ تاوان دے سکتے ہیں۔ تو بہ کرنا اور اپنی کتابیں جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔

سادہ لوح علماء لفظ نزول سے اس بلا میں گرفتار ہیں اور منتظر ہیں کہ ایک دن آسمان سے فرشتوں کے درمیان ہو کر اتریں گے۔ جو ان کو آسمان سے اٹھا کر لائیں گے۔ فرشتے تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہیں اور طالب علموں پر سایہ ڈالتے ہیں۔ اگر مسیح کو مانیں تو کس زالی صورت میں مانیں۔ قرآن شریف میں تو ”حملناہم فی البحر والبر“ کی رو سے خدا ہر ایک کو اٹھائے کھڑا ہے۔ کیا وہ کسی کو نظر آتا ہے۔ یہ استعارہ ہے۔ یہ توقف فرقہ چاہتا ہے کہ اس کو حقیقی رنگ میں دیکھے اور مخالف اعتراض کر سکیں۔ اگر احادیث کا مقصد یہی تھا تو نزول کی بجائے رجوع کا لفظ مناسب تھا تو پھر نزول کا لفظ حضور ﷺ کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کم فہم علماء کو ایک اور دھوکہ لگا ہوا ہے کہ: ”ماقتلوہ“ میں قتل اور صلب کی نفی ہے اور رفع کا مقتضایہ ہے کہ آپ آسمان پر بحکم عصری اٹھائے گئے ہیں۔ گویا زمین پر حفاظت کے لئے خدا کے پاس کوئی جگہ نہ تھی۔ حضور ﷺ کو تو سانپ بھری غار کافی ہو گئی۔ مگر یہودیوں سے خدا ایسا ڈرا کہ ان سے عاجز ہو کر سوائے آسمان کے مسیح کے لئے کوئی جگہ تجویز نہ کی۔ قرآن میں تو رفع الی السماء کا ذکر بھی نہیں اور رفع الی اللہ ہر مؤمن کو ہوتا ہے۔ یہ لوگ شان نزول کو بھی نہیں سوچتے کہ یہود و نصاریٰ میں صرف رفع روحانی کا جھگڑا چلا آیا ہے اور اب بھی ہے کہ مؤمن کا رفع الی اللہ ہوتا ہے اور مصلوب کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا۔ اس لئے مسیح صلیب پر لعنتی موت سے مراد ہے۔ نالائق عیسائیوں نے بھی تین دن تک مسیح کو لعنتی ٹھہرایا ہے۔ اب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ رفع الی اللہ ہوا ہے۔ علمائے یہود سے پوچھ لو کہ رفع جسمانی زیر بحث تھا کہ رفع روحانی؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سچا مسیح اس وقت آئے گا جب ایلیا دوبارہ دنیا میں آچکا ہوگا۔ مگر ایلیا تداثر اور خدا نے یہود کو ابتلاء میں ڈال دیا اور ابن مریم نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو یہود نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو تورات باطل ہے۔ اس لئے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو کافر ملحد مرتد اور دجال کہا۔ تمام علماء کا فتویٰ ان کے کفر پر ہو گیا۔ کیونکہ مسیح نے نزول کی تاویل کی کہ نزول سے مراد وہ شخص ہے جو ایلیا کی خواہر اور طبیعت کا ہو۔ یعنی وہ شخص اب یوحنا (یحییٰ بن زکریا) ہے۔ مگر یہود نے آپ کو ملحد یعنی نصوص کو ظاہر سے پھیرنے والا کہا۔ مگر یہ تاویل خدا کو منظور تھی۔ بعض نے کہا کہ اگر مسیح سچا نہیں تو انوار الہی اس پر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ پس اس خیال کے دور کرنے میں یہودیوں کے مولوی ہر وقت اسی تدبیر میں رہے کہ کسی طرح عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ مسیح کا ذب اور ملعون ہے۔ آخر یہ سوچا کہ اگر آپ کو صلیب پر کھینچا جائے تو البتہ ہر ایک پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص لعنتی ہے اور رفع الی اللہ سے محروم ہے۔ کیونکہ تورات میں صاف لکھا تھا کہ جو شخص صلیب پر کھینچا جاوے وہ لعنتی ہے۔ سو انہوں نے اپنی دانست میں ایسا ہی

کیا اور نصاریٰ بھی کہنے لگے کہ آپ مصلوب ہو گئے ہیں۔ مگر اس لعنت کو دور کرنے کے لئے ان کو یہ سوچھی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ جس نے دنیا کی تمام لعنتیں اپنے سر پر اٹھائیں اور لعنتی موت سے مرا۔ کیونکہ وہ جرائم پیشہ اور قاتلوں کو صلیب کے ذریعہ سے ہی ہلاک کیا کرتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں کو بڑا دھوکہ لگا۔ کیونکہ لعنت خدا کے اس عمل کا نام ہے جو اس وقت ظہور میں آتا ہے کہ انسان عمداً بے ایمان ہو کر خدا سے تعلقات توڑ دے اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے اور ایک ذرہ بھی خدا کی محبت اس کے دل میں نہ رہے۔ اسی وجہ سے شیطان کا نام لعین ہے۔ مگر آپ اس سے پاک تھے اور یہودیوں نے شرارت سے اور عیسائیوں نے حماقت سے آپ کو ملعون ٹھہرا دیا۔ کیونکہ لعنت رفع کی نقیض ہے۔ اس لئے مسیح جہنم رسید ہو گئے اور عیسائیوں کے نزدیک بھی تین روز تک آپ جہنم میں رہے۔ مگر اسلام نے کہا کہ آپ نبی وجیہ اور مقرب الی اللہ تھے۔ نہ قتل ہوئے نہ مصلوب ہوئے اور ان کا رفع الی اللہ ہوا۔ اب اس کلام سے چھ سو برس کی لعنت دور ہو گئی۔

### رفع جسمانی

اور یہ ضروری تھا کہ ان احمقوں اور شریروں کی تہمت سے آپ کو بری کر دیا جاتا۔ اب ثابت ہوا کہ رفع جسمانی کے نہ ہونے سے آپ کا کاذب ہونا یا ملعون ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر مقرب الی اللہ ہونے کے لئے رفع جسمانی ضروری تھا تو ان نادان علماء کے نزدیک وہ تمام مقرب الی اللہ نہیں ہو سکتے کہ جن کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ پس رفع جسمانی صدق و کذب کا معیار ہی نہیں تو کیوں اس مقام پر یہ فضول لغو اور بے تعلق جھگڑا کیا جاتا ہے۔ اگر تو ریت میں یوں ہوتا کہ جو شخص مصلوب ہو تو اس کو رفع جسمانی نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خدا آپ کو آسمان پر پہنچا دیتا۔ مگر اب تو یہ خیال سراسر بے تعلق ہے۔ خدائی تعلیم راہ نجات بتاتی ہے اور انبیاء سے وہ الزام اٹھاتی ہے کہ جن سے ان کا ناجی اور منجی ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے۔ مگر رفع جسمانی الی السماء کو نجات اور قرب الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نادان مولوی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر تورات کا یہ مطلب ہو کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی سے محروم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہرج ہے۔ کیونکہ اس وقت باقی انبیاء رفع جسمانی کے نہ ہونے سے ناجی نہیں ٹھہرتے۔ پس رفع جسمانی کو تقرب الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن کو اصل مقصد سے پھیرنا اور شان نزول سے لاپرواہ ہونا اور خود بخود رفع جسمانی مراد لینا کس قدر گمراہی ہے۔ یہ بھی تو آتا ہے کہ بلعم کا رفع خدا نے کرنا چاہا۔ مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ کیا یہاں کہو گے کہ خدا اس کو رفع جسمانی کے ذریعہ آسمان پر لے جانا چاہتا تھا۔ سو ہر ایک یاد رکھے اور

بے ایمانی کی راہ اختیار نہ کرے۔ کیونکہ قرآن شریف میں ہر ایک جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے۔ نادان علماء کہتے ہیں کہ ادریس کو رفع جسمانی ہوا اور ”رفعناہ مکاناً علیاً“ کے لئے ایک قصہ گھڑتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی رفع روحانی مراد ہے۔ کفار کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔ ”لا تفتح لهم ابواب السماء، فیہا تحیون“ میں قطعی فیصلہ ہے کہ کوئی انسان آسمان پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ خواہ عیسیٰ ہو یا ادریس۔ ”فیہا تموتون“ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی قبریں زمین پر ہوں گی اور لازم آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بھی کسی وقت آسمان سے نازل ہوں گے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کی قبر بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئیں گے۔ گویہ عقیدہ ”ویمسک التی قضی علیہا الموت“ کے خلاف ہے کہ دوبارہ کوئی شخص دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسی حدیث یا قول صحابہ سے اس عقیدہ کی تائید نہیں ہوتی۔ ہمارے مخالفین جھوٹے عقیدہ میں پھنس کر گلے پڑا ڈھول بجا رہے ہیں۔ نیچریوں نے جب سنا کہ دجال کا گدھاتین سو گز لمبا ہوگا۔ مردے زندہ کرے گا۔ بارش برسائے گا۔ اہل حق قحط میں پڑیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو صاف منکر ہو گئے۔ کیونکہ ایسا گدھا کبھی نہیں دیکھا گیا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کافر تو دم عیسوی سے مرجائیں مگر دجال نہ مرے اور یہ بھی ناممکن ہے کہ خدا اپنے بندوں کو سخت فتنہ میں رکھے۔ عیسیٰ سے تو ایک چوہا بھی نہ بن سکا۔ پھر بھی اس کے ماننے والے چالیس کروڑ ہیں اور دجال جب خدائی کا مالک ہوگا تو معلوم نہیں کہ اس کے تابعدار کتنے کروڑ ہوں گے اور کیا وجہ ہے کہ ان کو معذور نہ سمجھا جائے۔ نیچریوں کا حق تھا کہ ایسے امور سے ضرور انکار کر دیتے۔ کیونکہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور آیت ”سبحان ربی“ میں اس کی تکذیب موجود ہے۔ یہ گناہ ہمارے علماء کی گردن پر ہے کہ جنہوں نے دجال کو خدائی جامہ پہنا دیا ہوا ہے۔ جس سے متحققین متنفر ہو رہے ہیں۔ اگر صحیح اور صاف معنی کرتے تو وہ اس تو اتر سے متنفر نہ ہوتے۔ کیونکہ یہ تو اتر تمام تو اتروں سے بڑھ کر ہے۔ دجل کا معنی ہے۔ گندم نمائی اور جو فروشی اور دھوکہ دہی کے پیشہ کو کمال تک پہنچانا۔

## دجل و دجال

احادیث میں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کرے گا اور نبوت کا بھی مدعی ہوگا اور یہ دونوں ادعا جمع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نبی خدا کا مقرب ہوتا ہے اور خدا کا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ درحقیقت دجال اس جماعت کا نام ہے جو اپنے آپ کو متدین اور امین ظاہر کرتی ہے اور فی الواقع ایسی نہیں ہوتی تو دجل نبوت عیسائیوں میں موجود ہے۔ جو اصل انجیل کھو بیٹھے ہیں اور طبع

زاد تراجم کو خدا کا کلام بتاتے ہیں اور وہ کلام الہی پیش نہیں کر سکتے۔ جس کی نسبت مسیح نے کہا تھا کہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے مجھے کہا تھا۔ کیونکہ جعل سازی سے انہوں نے منصب نبوت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ جو چاہتے ہیں لکھ کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پس یہ طریق مشابہ نبوت ہے اور جعل الوہیت فلاسفوں میں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کلوں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کو خدائی میں دخل ہے اور ان کے نزدیک قدرت الہی پر ایمان رکھنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس گروہ کے تابع خواص عیسائی ہیں۔ جو ہمیشہ اس دھن میں رہتے ہیں کہ بارش کس طرح برسائی جاتی ہے اور بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ گویا یہ خدائی دعویٰ ہے۔ انسان کو جب نظام عالم میں کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو خاص صفت الہی ہے۔ پھر انسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کو خدائی دعویٰ کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ کسی طوفان بادی یا آبی پر قادر ہوتا ہے تو خدا کی عظمت اس کے دل میں گھٹ جاتی ہے۔ اس کے نزدیک علل و معلول کی نامحیی کی وجہ سے خدا کا اقرار پیدا ہوا ہے اور اس نادانی کی وجہ سے یہ باتیں خدا سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ انسان خود کر سکتا ہے۔ یہی خدائی کا دعویٰ یورپ میں پیدا ہوا اور لوگوں نے یہ عظمت دیکھ کر ان میں خدائی کا ایک حصہ ثابت کر دیا ہے۔ ایک ہندو کا قول ہے کہ لوگ جب کنہ اشیاء سے عاجز آتے ہیں تو خدا کی قدرت بتانے لگتے ہیں۔ انگریزوں نے وہ خدائی دکھلا دی ہے کہ قدرت کے پردے کھول دیئے ہیں۔ یہ اثر تو تعلیم یافتوں میں بہت ہے۔ اگر کہا جائے کہ انگریز صبح آج کرشمہ کو پھل لے سکتے ہیں تو شاید ان میں کوئی منکر نہ ہو۔ بہت نادان کہتے ہیں کہ انگریزوں کے نزدیک کوئی بات ناممکن نہیں۔ قاعدہ ہے کہ چند تجربہ کے بعد مبالغہ اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ اگر محول سے سرسید وغیرہ کو کہا جائے کہ انگریزوں نے ایسا مادہ تیار کیا ہے کہ درخت کے سامنے رکھ دیں تو وہ خود بخود اس کی طرف دوڑ آتا ہے۔ تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ مگر جب حضور ﷺ کے متعلق درختوں کا چلنا بیان کیا جائے تو روایت کو موضوع ثابت کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ غرضیکہ دجال کے دو جڑے یہی دونوں پادری اور فلاسفر ہیں۔ خواص فلاسفوں کے تابع ہیں اور عوام پادریوں کے۔ یقیناً یہی سمجھو کہ یہ دجال ہے۔ دجال کی خدائی سے یہی منشاء تھا جو ظاہر ہو گیا۔ خود جعل کا لفظ بتا رہا ہے کہ دجال میں حقیقی موت نہیں اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ از آدم تا یندم اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس سے خدا کی عظمت سرد ہو گئی۔ ایمان خطرہ میں پڑ گیا۔ بعض پر پورا محیط ہو گیا اور بعض پر کچھ اثر ہوا۔ سو چوبی سچ ہے جو صحیفہ قدرت کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ان کو موقع ہے کہ مجھے مان لیں۔ ان کو وہ مشکلات

پیش نہیں جو دوسروں کو ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے سے ہی مسیح کو زندہ نہیں سمجھتے اور تو اتر سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو ضرور ماننا پڑے گا کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا۔

### اثبات مسیحیت

رہا یہ سوال کہ ہم کس طرح مسیح ہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے ملک میرے وجود اور میرے زمانہ میں تمام علامات مسیح (قصبہ، ملک، جس میں اس کا ظہور ہونا ہے۔ اس کی علت غائی اور حوادث ارضی و سماوی اور علوم و معارف خاصہ) سب موجود ہیں۔

چوں مرا حکم از پے قوم مسیحی دادہ اند  
مصلحت را ابن مریم نام من بنصاہدہ اند  
آسمان بارد نشان الوقت میگوید زمیں  
ایں دو شاہد از پے تصدیق من استادہ اند

حضور علیہ السلام مثیل موسیٰ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی بگڑے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے تو مسیح آئے اور تمام اختلافات مٹا دیئے۔ بھیڑ، بکری کو ایک جگہ پانی پلایا۔ اسی طرح اب پھر احادیث سے اختلاف میں پھنس گئے۔ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے تو ”لما یلحقوا“ کے ماتحت مسیح کا حکم ہو کر آنا قرار پایا۔ سو اس زمانہ میں یہودیوں کی طرح ایک حکم کی ضرورت تھی تو خدا نے مجھے بھیج دیا۔ مسیح، موسیٰ علیہم السلام کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح میں حضور ﷺ کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوا۔ خدا نے میرا نام غلام احمد قادیانی رکھ کر بتلایا کہ تیرہ سو سال پر تیرا ظہور ہوگا۔ ”یکسر الصلیب“ میں اشارہ ہے کہ عیسائی مذہب زور پر ہوگا۔ ”اومی الی المشرق“ سے ظاہر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق میں ہوگا تو ضرور ہے کہ مسیح بھی مشرق میں دجالیت دور کرنے کے لئے پیدا ہو۔ پنجاب مکہ سے مشرق پر ہے اور حدیث دمشق بھی مشرق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مہدی موعود کا ظہور قصبہ کدہ یا کدیہ ہے۔ جو قادیان کا مخفف ہے۔ یہ غلط ہے کہ احادیث میں کدہ یمن کا ایک قصبہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث کا لفظ نہیں بلکہ کسی نے بعد میں شامل کر دیا ہے۔ شاید پہلے ہو۔ مگر اب وہاں یہ قصبہ موجود نہیں اور نہ اس میں کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ مگر قادیان اور مدنی مہدویت دونوں موجود ہیں۔ وجود مسیح کی علت غائی اور ضرورت دجل دور کرنا تھا۔ سو میں نے عیسائی مذہب کے اصول کا خاتمہ کر دیا ہے کہ مسیح کی طرف لعنتی موت منسوب نہیں ہو سکتی۔ عقلمند سمجھ چکے ہیں کہ کسر صلیب ہو گئی۔ عیسائی تحریرات بتا رہی ہیں کہ ضرور صلیبیں مذہب کی بنیاد گر جائے گی اور وہ گرنا نہایت خوفناک ہوگا۔



”یرجی برء من جرحه السنان ولا یرجى برء من غزقه البرهان“ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ رفع جسمانی بالکل جھوٹ ہے۔ مدت تک عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ مسیح فوت ہو گئے ہیں اور ان کا رفع روحانی ہو چکا ہے۔ مگر ثبوت نہ دے سکے۔ اس لئے یہودیوں کے مقابلہ پر یہ بات بنائی کہ یسوع کو آسمان پر جاتے وقت فلاں آدمی نے دیکھا ہے۔ مگر آسمان پر جانے سے اصل مطلب پھر بھی حل نہ ہوا۔ کیونکہ یہودی یوں نہ کہتے تھے کہ صلیبی موت سے آسمان پر جسم نہیں جاتا اور نہ یہ کہ جو ملعون نہیں ہوتے۔ ان کا جسم آسمان پر چلا جاتا ہے۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں چار سو برس بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے کنعان کی طرف لے گئے تھے۔ جس سے ثابت ہوا کہ انسان مر کر مٹی میں چلا جاتا ہے اور تمام انبیاء خاک میں گئے۔ اگر ملعون کی علامت یہ ہو کہ اس کا جسم آسمان پر نہیں اٹھایا جاتا تو معاذ اللہ تمام انبیاء ملعون ہوں گے۔ تورات کی رو سے جو شخص لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ مگر لعنت کو جسم سے تعلق نہیں ہے اور نہ عدم لعنت رفع جسمانی کے لئے ضروری ہے۔ لہذا یہودی آپ کو اس مقام سے بے نصیب ثابت کرتے تھے۔ جہاں ابراہیم، اسرائیل اور یعقوب وغیرہ کی رو میں گئی ہیں۔ تو اب رفع جسمانی اور الوہیت کا نظریہ یہودیوں کے اعتراض سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ معلوم ہوتا کہ اس زمانہ کے گذرنے کے بعد یہ دعویٰ کہ یسوع آسمان پر چلا گیا ہے۔ اس غرض سے تھا کہ لعنت دور کی جائے اور اس وقت عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ فقط روح اٹھائی گئی ہے۔ دوسرے زمانہ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسیح کا جسم آسمان پر چلا گیا ہے اور وہ خدا ہے۔ حالانکہ اصل مطلب یہ تھا کہ رفع روحانی سے لعنت دور کی جائے اور تورات کی رو سے وہ لعنت سے دور ہو سکتا ہے کہ جس کا رفع روحانی ہو نہ رفع جسمانی، عیسائی جانتے ہیں کہ صلیبی موت سے وہ اس الزام کے نیچے آ گئے تھے کہ مسیح ابدی لعنتی ہیں۔

ابدی لعنت سے رہائی

اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ شیطان سیرت ہو کر مسیح کا لعنتی ہونا تین دن تک کیوں محدود ہے؟ کیا تورات میں مصلوب کی لعنت تین دن تک محدود ہے؟ اس کے رو سے صلیبی موت سے روح جہنم میں جاتی ہے اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ تین روز تک مسیح جہنم میں رہے۔ پھر اس ملعون جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لعنت کے دنوں کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ کی روح جہنم میں جائے اور لعنت سے پاک ہونے کے دنوں کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ کی روح پاک ہو کر خدا سے جا ملے۔ تو اب اس تقاضا کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا رفع صرف روحانی تھا۔ رفع جسم کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ وہ صلیب سے ناپاک ہو چکا تھا۔ کیونکہ جب جسم قبر میں رہا اور صرف

روح جہنم میں گئی تو سزا کے بعد خدا کی طرف (جو صرف روح ہے) جسم کیوں گیا۔ حالانکہ جہنم میں جسم کا جانا ضروری تھا۔ کیونکہ جسم بھی معاذ اللہ آپ کے لعنتی دل کے ساتھ شریک تھا اور اس لئے بھی کہ عیسائیوں کا جہنم ایک جسمانی آتش خانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں نے رفع جسمانی کے عقیدہ سے کئی ایک غلطیوں اور تناقضات کا اقرار کر لیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ رفع روحانی ہوا۔ مگر واقعہ صلیب کے بعد مدت دراز کے بعد ثابت ہوا کہ خدا کی طرف رفع الوہیت ثابت نہیں کرتا۔

بات یہ ہے کہ یہودیوں نے ستانا شروع کیا تھا کہ مسیح لعنتی ہو گیا ہے اور یسوع گوزندہ بیچ گیا تھا۔ مگر خالم یہودیوں کے سامنے جانا بہتر نہ سمجھتا تھا۔ اس لئے عیسائیوں نے یہ کہہ کر پیچھا چھوڑا یا کہ فلاں مرد یا عورت کے سامنے آسمان پر چلا گیا ہے۔ مگر یہ بات بالکل جھوٹا منصوبہ یا کسی مرائی عورت کا وہم تھا۔ کیونکہ اگر خدا کا یہی ارادہ ہوتا تو دس بیس یہودیوں کے سامنے آسمان پر رفع جسم اٹھایا جاتا۔ نہ یہ کہ کوئی عورت مجہول الحال یا کوئی عیسائی دیکھتا۔ جس پر لوگ بخول اڑاتے عیسائی خود جھوٹے ہیں۔ کیونکہ روح جب جہنم میں گئی تھی تو وہی پاک ہو کر خدا کی طرف بھی گئی ہوگی۔ ورنہ جسم کو کیا تعلق تھا اور ہم تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ مسیح کسی وقت ملعون بھی ہوئے تھے۔ اب تحقیق جدید سے دو باتیں ثابت ہیں۔ اول یہ کہ رفع جسمانی نہیں ہوا۔ کیونکہ اس کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے۔ ہاں واقعہ صلیب کے بعد ۸ برس رفع روحانی ہوا ہے۔ جو قرآن سے ثابت ہے۔ علماء کی غلطی ہے کہ صلیب کے بعد رفع جسمانی مانتے ہیں۔ حالانکہ ۱۲۰ برس عمر بھی مانتے ہیں اور جب اناجیل اور رومی تواریخ سے ثابت ہے کہ صلیب کے وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی تو ۱۲۰ برس میں رفع جسمانی کیسے ہوا۔ حالانکہ یہ حدیث صحیحہ اور اس کے لئے ۱۲۰ برس کی حد لگا دینا بھی اس امر کی شہادت ہے کہ بعد موت واقع ہو چکی ہے۔ جب مصلوب ہونا رفع روحانی کا مانع تھا تو عیسائیوں کا یہ عذر بیہودہ ہوگا کہ تین دن تک لعنتی ہونے کے بعد رفع جسمانی ہو گیا تھا۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ تورات کا حکم اوروں کے لئے ابدی ہو اور مسیح کے لئے صرف تین دن کے لئے ہو۔ تین دن کی تخصیص کوئی عیسائی نہیں دکھا سکتا اور یہ بھی تعجب خیز ہے کہ فلاں نے رفع جسمانی دیکھا ہے۔ کاش یہودی بھی دیکھ لیتے اور تورات منجانب اللہ نہ رہتی۔ مگر اب تو یہودیوں کا ہاتھ خود عیسائیوں نے اوپر کر دیا ہے۔ کیونکہ جب مصلوب مانا تو لعنتی ابدی بھی مان لیا اور تین دن کی تحدید بھی نہیں دکھا سکتے۔ اگر یہ تحدید مان بھی لیں تو پھر بھی رہائی نہیں۔ کیونکہ لعنت کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بیزاری اور شیطان خصلت ہونا ایک لمحہ کے

لئے بھی ہم مسیح کے لئے تجویز نہیں کر سکتے۔ اگر لعنت نہیں پڑی تو یسوع مصلوب بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یونس کی طرح تین دن قبر میں زندہ رہوں گا۔ کیونکہ یونس خود مچھلی کے پیٹ میں تین دن زندہ رہا تھا۔ ممکن نہیں کہ یہ مثال غلط نکلے۔ جب پاک ہونے کو صرف روح جہنم میں گئی تھی تو ناپاک جسم آسمان پر کیسے چڑھ گیا اور جہنم میں کیوں نہ گیا۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ سزا بھگتتے روح جائے اور خدا کے پاس جانے کو جسم ناپاک بھی ساتھ ہو جائے۔ حالانکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جہنم جسمانی آتش خانہ ہے۔ جس میں گندھک کے بڑے بڑے پتھر ہیں۔ تو وہ جسم کیوں نہیں وہاں گیا۔ جس پر تمام دنیا کی لعنت برسی تھی۔ اگر باپ نے صرف روحانی سزا تجویز کی تھی اور اسے تین دن تک محدود کیا تھا تو یہ رعایت مخلوق سے بھی کی ہوتی۔ کیونکہ یہ بے انصافی جب بیٹے کے لئے جائز ہوئی تو مخلوق کے لئے بھی جائز ہونی چاہئے۔ یہ تمام غلطیاں ہیں جن پر خدا نے مجھے اطلاع دی ہے۔ تاکہ میں گمراہوں کو مطلع کر دوں۔ میں نے صرف معقول طور پر ان کو مطلع نہیں کیا۔ بلکہ ساتھ ساتھ آسمانی نشان بھی دکھائے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا ہے کہ جو فرضی دجال کے منتظر تھے جس کے ماننے سے ازسرنو شرک کی بنیاد پڑتی ہے اور ختم نبوت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔

میں کب اور کیوں مجدد بنا

سو خدا نے مجھے بھیجا تاکہ میں راہ تو حید دکھاؤں اور کمزور ایمان والوں کو قوی الایمان بناؤں۔ کیونکہ ان کو خدا پر بھروسہ نہیں رہا۔ حضرت مسیح نے بھی یہودیوں کو اسی حالت پر پایا تھا۔ سو میں بھیجا گیا ہوں تاکہ سچائی کا زمانہ پھر آوے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ سو یہی افعال میری علت غائی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ آسمان پھر زمین کے قریب ہوگا۔ بعد اس کے کہ دور ہو گیا تھا۔ قرآن وحدیث کے متعلق یقین بخشا دو طور سے ظاہر ہوا ہے۔ اول قرآن شریف کی صداقت ظاہر کرنا۔ چنانچہ میری کتابیں نکات ومعارف قرآنیہ سے پر ہیں اور ان سے ایمان ترقی پاتا ہے۔ دوم آسمانی نشان ہیں اور استجابت دعا جو نشان اتنے ہیں کہ جن کے تسلیم کرنے سے گریز نہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ پادری معجزات نبویہ کے منکر تھے اور آج ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ کیونکہ نشان ظاہر ہو رہے ہیں۔ مدت ہوئی رمضان میں کسوف وخسوف ہو چکا۔ ستارہ ذوالسنین بھی نکل چکا۔ تکفیر بھی ہو چکی اور معارف بھی ظاہر ہو گئے۔ ماموریت کا دعویٰ مکمل تین طریق سے ہو سکتا ہے کہ خلاف قرآن نہ ہو۔ عقلی دلائل اس کے خلاف نہ ہوں اور آسمانی نشانات تائید کریں۔ میری مؤید حدیث اختلاف حلیہ کی روایت ہے جو (بخاری ص ۲۸۵، ۱۰۵۵) پر درج ہے۔ عالم کشف میں حضور ﷺ نے

مسح موعود کو طواف کعبہ کرتے دیکھا کہ وہ گندم گوں تھا۔ بال سیدھے تھے۔ مسح ناصری سرخ رنگ تھے۔ بال گھنگرالے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دو مسح قرار دیئے ہیں اور بعض مناسبات کی وجہ سے دونوں کو ابن مریم بھی کہہ دیا ہے۔ نیز مسح موعود کے ساتھ مسح دجال کا بھی ذکر کیا ہے اور مسح ناصری کے ساتھ دجال کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم دو شخص ہیں اور اہل شام گندم گوں نہیں ہوتے اور اہل ہند (آدم) گندم گوں ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسح موعود کا ظہور ہند میں ہوگا۔ شام میں نہ ہوگا۔ تاریخ عیسائیت بھی شاید ہے کہ آپ سرخ رنگ تھے۔ گندم گوں نہ تھے۔ حدیث ”من یجدد لہا دینہا“ بھی میری مصدق ہے۔ (رواہ ابوداؤد و مستدرک) مجدد کا فرض تھا کہ عیسائیوں کے خطرناک فتنہ کو فرو کرنے کے لئے کسر صلیب کرے اور احادیث کی رو سے وہی مسح ہوگا۔ اگرچہ فسق و فجور عام ہے۔ مگر سب کی اصل یہی ہے کہ انسان بکے خون نے سب کے گناہوں کی باز پرس سے کفایت کر دی ہے۔ اسی وجہ سے یورپ سب سے بڑھ کر گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اور ان کی اس متعدی بیماری سے اور ان کی مجاورت سے تمام قومیں بگڑ گئی ہیں۔ کیونکہ یہی عقیدہ تمام آزادیوں کی جڑ ہے۔ جس سے کئی ایک بے ایمان ہو گئے ہیں اور کئی ایک متلاشی بن کر اندرونی طور پر مرتد ہو چکے ہیں۔ اس لئے خدا نے چاہا کہ جس دجالیت سے انسان کو خدا بنانا جاتا ہے۔ اس کے پردے کھول دے اور چونکہ یہ مصیبت اس صدی میں کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اس لئے اس صدی کے مجدد کا کام کسر صلیب ٹھہرا اور کسر صلیب کرنے والا مسح ہوا۔ تفصیل یہ ہے کہ حج عقیلیہ، آیت سادہ اور دعا سے کسر صلیب ہوگا۔ ان تینوں میں خدا نے وہ اعجازی طاقت رکھی کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس اسی طرح اسے توڑ کر توحید کے دروازے کھولے جائیں گے اور یہ کام تدریجی ہوگا۔ اسلام بھی تدریجی پھیلا ہے۔ یہ سوال کہ تم نے اب تک کس قدر کسر صلیب کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پادریوں کا منہ بند کر دیا۔ پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور قرآنی تعلیم نے جو میری طرف سے ہوئی مخالفین کا سر جھکا دیا۔ جلسہ مذاہب لاہور میں میرا مضمون اعلیٰ رہا۔ عیسائی اصول ایسے توڑے کہ کبھی کسی کو میسر نہ آیا۔ کسی کو شک ہو تو کوئی ایسا اعتراض پیش کرے کہ جس کو ہم نے کالعدم نہیں کیا۔ یا ہم سے پہلے کسی نے کالعدم کیا ہو۔

میں مہدی کیسے ہوا؟

ظہور مہدی کا نشان بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے زمین ظلم و فساد سے پر ہوگی اور وہ عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ فسق و فجور زور پر ہے۔ مخلوق پرست شرک پھیلانے میں

سرگرم ہیں۔ ایمان صرف زبان پر رہ گیا ہے۔ پس یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں ہر ایک قسم کی بدکاری اور شرک جو ظلم عظیم ہے۔ پھیل رہا ہے اور روشن پیشانی اور اونچی ناک میں علاوہ ظاہری علامت کے ایک باطنی حقیقت بھی اس میں مضمحل ہے کہ ناک کی بڑائی کبریائی ظاہر کرتی ہے اور روشن پیشانی نور صداقت ہے۔ اگرچہ دونوں علامتیں بندگان خدا میں ہوتی ہیں۔ مگر مہدی موعود میں قوت سے موجود ہیں۔ نور پیشانی دلوں کو جذب کرنے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ کبریائی سے شریروں کے سامنے تذلیل نہیں کرے گا۔ بلکہ شریروں کے سامنے تذلیل کریں گے۔

۱۸ برس پہلے براہین میں الہام درج ہو چکا ہے۔ ”القیٰت علیک محبة منی نصرت بالرعب“ جو اس علامت کی تشریح ہے۔ مجھ میں یہ دونوں علامتیں موجود ہیں۔ نیک دل مجھے آتے ہیں اور مخالف پر رعب ہے۔ ”لوکان الدین عند الثریا“ کی حدیث بھی میری مؤید ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام ضعیف ہوگا تو ایک فارسی الاصل اسلام کو پھر زمین پر لائے گا اور وہی مہدی موعود ہے اور ”لا مہدی الا عیسیٰ“ نے بتا دیا کہ وہ مسیح موعود بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فارسی النسل ایمان قوی کرے گا۔ عقائد کی صحیح کرے گا۔ حقائق قرآنی سمجھائے گا۔ ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ نہ لڑائی لڑے گا۔ بلکہ حج سادہ اور براہین عقلیہ سے غیر ملتوں کو ہلاک کرے گا اور اس کا حربہ آسمانی ہوگا نہ زمینی۔ سو شکر کرو کہ تم نے یہ زمانہ پایا ہے۔

(براہین ص ۲۳۱، خزائن ج ۱ ص ۲۶۷) میں ہے کہ: ”لوکان الایمان بالثریا لنا لہ“

انار اللہ برہانہ ..... انا فتحنا لک فتحا مبینا فتح الولی فتح . قربنہ نجیا .  
 اشجع الناس . یا احمد فاضت الرحمة علی شفتیک انی رافعک الی . القیت  
 علیک محبة منی . خذوا التوحید یا ابناء فارس . بشر الذین آمنوا ان لهم  
 قدم صدق عند ربهم . اتل علیہم ما اوحی الیک من ربک . لا تصعر لخلق اللہ  
 ولا تسام من الناس . اصحاب الصفة ما اصحاب الصفة . تری اعینہم تفیض  
 من الدمع . یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منا دیانادی للایمان وداعیا الی  
 اللہ وسراجا منیرا . املوا“ ہم تجھے دیں گے نبی کی فتح ہم نے اسے رازدار اور مقرب بنایا  
 ہے۔ وہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو وہ وہاں سے لے آتا۔ خدا اس کی  
 برہان کو روشن کرے گا۔ اے احمد رحمت تیری لیوں پر جاری ہے۔ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور  
 اپنی محبت تجھ پر ڈالوں گا۔ (اور لوگ تجھ سے محبت کریں گے) فارس کے بیٹو توحید پکڑو۔ ان کو  
 خوشخبری دے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں کہ وہ صادق ٹھہر گئے ہیں اور ان کا صدق قدم صادق ثابت

ہوا تو میرے ان کو الہام سنا اور مخلوق سے منہ مت پھیر۔ ملاقات سے ملول مت ہو۔ (وہ وقت آتا ہے کہ لوگ فوج در فوج آئیں گے) ایک وہ گروہ ہوں گے جو اصحاب صفہ ہوں گے جو حاضر رہیں گے۔ ان کی شان بڑی ہے تو دیکھے گا کہ اکثریوں کے آنسو جاری ہیں اور تجھ پر درود بھیجیں گے۔ (یعنی معارف سنیں گے۔ نشان دیکھیں گے اور انشراح صدر کی حالت ان پر غالب ہوگی۔ تو فرط محبت سے تجھ پر درود بھیجیں گے اور دعاء کرتے ہوئے کہیں گے کہ) اے اللہ ہم نے سنا ہے جو ایمان کی منادی کرتا ہے۔ خدا کی طرف بلاتا ہے اور وہ چراغ روشن ہے۔ لکھ لو میرا کام ایمان کی منادی ہے کہ تازہ ہو۔ کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہو گیا ہوگا تو نہ بت رہیں گے اور نہ صلیب۔ سمجھدار دلوں سے ان کی عظمت اٹھ جائے گی۔ وہ جنگ نہیں کرے گا۔ بلکہ دلائل سے اسلام کی طرف لائے گا۔ وہی منکر ہوں گے کہ جن کے دل مسخ ہیں۔ خدا ایک ہوا چلائے گا اور روحانیت نازل کرے گا۔ جو مختلف ممالک میں پھیل جائے گی۔ جن مذاہب پر اس کی توجہ ہوگی۔ ان کو پیس ڈالے گا۔ دلوں کو حق کی طرف پھیرے گا۔ کسی اہل مذہب کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نرمی کرے گا تو سمجھیں گے کہ ہمارے عقائد صحیح نہیں ہیں۔ جب دیکھو کہ سچا خدا سمجھنے کی طرف دل متوجہ ہیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ باتیں پوری ہوں۔ موسم بہار میں سوکھی لکڑی سے پتے اور پھول اور پھل نکلتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ محبت الہی میں وہی زیادہ ترقی کریں گے جو پاس رہیں گے۔ وہ خدا کے پیارے ہیں۔ مسیح عیسائیوں کی طاقت کے زمانہ میں پیدا ہوگا۔ ریل گاڑی ہوگی۔ نہریں نکلیں گی۔ پہاڑ چیرے جائیں گے۔ اونٹ بیکار ہوں گے۔ (دیکھو مسند احمد ابواب مہدی و عیسیٰ اور چہل حدیث مرتبہ محمد احسن قادیانی جو ابھی شائع ہوگی) فصوص الحکم میں ابن عربی نے لکھا ہے کہ وہ خاتم الولاہیت ہے اور تو ام پیدا ہوگا اور چینی ہوگا۔ میرے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور ہمارے بزرگ سمرقند میں جو چین سے تعلق رکھتا ہے رہتے تھے۔

اشتہار برائے توجہ سرکار

(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸) کے اول گورنمنٹ برطانیہ کی شکرگذاری میں یوں لکھا ہے کہ مجھ پر ۱۸۹۷ء میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ میں نے عبدالحمید کو ڈاکٹر کلا راک (مشنری علاقہ گورداسپور) کے قتل کے لئے بھیجا تھا۔ مگر ۲۳ اگست ۱۸۹۷ء کو یہ دعویٰ بعدالت ایم ڈبلیو ڈکلس صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور دائر ہوا۔ یہ الزام امرتسر میں مجسٹریٹ کے سامنے لگایا گیا تھا۔ مگر ڈپٹی کمشنر صاحب ممدوح نے کپتان لیار چند ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ کو دوبارہ تفتیش پر لگایا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ یہ مقدمہ عیسائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تہہ دل سے دعاء کرتے

ہیں کہ خدا ایسے حکام کو خوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے چال چلن پر بھی الزام قائم کئے تھے اور یہ بھی کہا کہ میرا وجود گورنمنٹ کے لئے مضر ہے۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ میرا والد غلام مرتضیٰ سچا وفادار سرکار تھا۔ ۱۸۵۷ء میں پچاس سوار اور گھوڑے امداد سرکار کے لئے دیئے تھے اور چھٹیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنانچہ ولسن صاحب نے ۱۱ جون ۱۸۳۹ء کو بمقام انارکلی لاہور یوں لکھا تھا کہ سرکار انگریزی تمہارے احسانات فراموش نہ کرے گی۔ رابرٹ صاحب بہادر کمشنر لاہور نے ۲۰ ستمبر ۱۸۵۸ء کو لکھا کہ مدد پہنچی اور آج تک تم خیر خواہ سرکار رہے۔ فنانشل کمشنر صاحب نے ۱۹ جون ۱۸۷۶ء کو لکھا کہ ہم کو تمہارے والد غلام مرتضیٰ کی وفات سے افسوس ہے۔ ہم تمہاری عزت بدستور قائم رکھیں گے۔ اسی طرح کی اور بھی چھٹیاں تھیں۔ مگر گم ہو گئی ہیں۔ میرے والد کے بعد میرا بھائی غلام قادر خدمت گذار سرکار رہا۔ تموں کی لڑائی میں سرکار کی طرف سے لڑا بھی تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد میں گوشہ نشین تھا۔ تاہم سرکار کی امداد اور تائید میں سترہ برس سے اپنی قلم سے کام لیتا ہوں جتنی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سرکار کی اطاعت کی ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کی ہزار ہا روپیہ صرف کر کے ممانعت جہاد میں عربی فارسی کتابیں غیر ممالک میں بھیجیں۔ تاکہ کسی وقت ان کا اثر پیدا ہو۔ کیا میری نظیر مخالف پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کتابیں یہ ہیں۔

- (۱) براہین احمدیہ نمبر ۳، مطبوعہ ۱۸۸۲ء الف سے ب تک ایضاً نمبر ۴ الف سے دہل تک۔ (۲) آریہ دھرم دربارہ توسیع دفعہ ۲۹۸، مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۸۹۵ء ص ۶۴، ۵۷ و ۶۴، ۷۰ و ۷۲۔ (۳) خط دربارہ توسیع دفعہ ۲۹۸، مورخہ ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۵ء ص ۸۰، (۴) آئینہ کمالات اسلام فروری ۱۸۹۳ء نمبر ۱، ص ۵۲۰، ۵۱۱۔ (۵) نور الحق نمبر ۱۳۱۱ ص ۲۳، ۵۲، نمبر ۳۹ ص ۵۰۔ (۶) شہادت القرآن ۲۲ ستمبر ۱۸۹۳ء الف، ع۔ (۷) سر الخلافہ ۱۳۱۲ ص ۷۱، ۷۲۔ (۸) اتمام الحجۃ ۱۳۱۱ھ ص ۲۵، ۲۷۔ (۹) حمامۃ البشریٰ ۱۳۱۱ھ ۲۵ مئی ۱۸۹۷ء ص ۱۵۳، ۱۵۴۔ (۱۰) انجام آفتہم جنوری ۱۸۹۷ء ص ۲۸۳، ۲۸۴۔ (۱۱) سراج منیر مئی ۱۸۹۷ء ص ۷۴۔ (۱۲) تکمیل تبلیغ ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء ص ۶، ۴۔ (۱۳) اشتہار قابل توجہ گورنمنٹ ۲۷ فروری ۱۸۹۵ء۔ (۱۴) اشتہار سفیر روم ۲۳ مئی ۱۸۹۷ء ص ۳، ۱۔ (۱۵) اشتہار جولائی ۲۳ جون ۱۸۹۷ء۔ (۱۶) اشتہار شکر یہ جولائی ۷ جون ۱۸۹۷ء۔ (۱۷) اشتہار بزرگ ۲۵ جون ۱۸۹۷ء ص ۱۰۔ (۱۸) اشتہار لائق توجہ گورنمنٹ ۱۰ دسمبر ۱۸۹۳ء ص ۷، ۱۔ (۱۹) اشتہار ۲۳ مئی ۱۸۹۷ء۔

پس میں امن دوست ہوں اور اطاعت سرکار میرا اصول ہے اور شرائط بیعت میں داخل

ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بحکم سرکار پیشین گوئیاں روک دی گئی ہیں۔ نہیں اجازت لے کر اندازی پیشین گوئیوں پر کوئی قانون عائد نہیں ہو سکتا۔ جب تک مجسٹریٹ ضلع اجازت نہ دے۔ کوئی اندازی پیشین گوئی نہ کی جائے گی۔ ہر جگہ جوابی طور پر سخت لفظ میں نے استعمال کے ہیں۔ ورنہ ابتدائی سختی مخالفین سے شروع ہوئی ہے اور کتاب البریہ میں میں نے مخالفین کے تمام لفظ جمع کر کے شامل مثل کر دیئے ہیں اور جوابی سختی بھی اس لئے تھی کہ مخالفین تہذیب سے کام لیں۔ چنانچہ لیکھرام، اندرمن، دیانند اور عماد الدین پادری سے خوف تھا۔ مگر چونکہ جواب میں ذرہ سختی سے کام لیا گیا۔ اس سے عام مسلمانوں کا جوش دب گیا اور یہ طرز قابل تعریف نہیں۔ اس سے بد اخلاقی پھیلتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ کسی پیشوائے قوم اور کتاب کی توہین قانوناً ممنوع قرار دی جائے اور واقعات معلوم کئے بغیر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ درخواست تیار ہے کافی دستخط ہو جائیں تو پیش کر دوں گا۔ بے جا الزام اور جھک آمیز لفظ سے فتنہ کا زہریلا بیج بویا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے سخت لفظ استعمال کئے ہیں۔ مگر وہ بھی جوابی اور کمزور تھے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے روک دیا ہے۔ میں سخت لفظ استعمال نہ کروں گا اور اس حکم پر کاربند رہوں گا اور اس اشتہار کے ذریعہ اپنے مریدوں کو حکم دیتا ہوں کہ دفعہ چہارم شرائط بیعت کے ماتحت سرکار اور بنی نوع کی سچی خیر خواہی کرتے ہوئے اشتعال سے پرہیز کریں۔ خلاف ورزی کرنے والا جماعت سے خارج ہوگا اور مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہمارے نصاب کا خلاصہ تین امر ہیں۔ اول عظمت الہی اور پاک زندگی۔ دوم بنی نوع انسان سے ہمدردی اور بھلائی کرنا یا کم از کم اس کا ارادہ رکھنا۔ سوم سرکار کی سچی خیر خواہی کرنا۔ مخالفین کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ جھک آمیز لفظ شائع نہ کریں۔ ورنہ ہمارا فرض ہوگا کہ عدالت میں چارہ جوئی کریں۔ بحث کرنے والوں کا فرض ہے کہ بیہودہ اعتراض نہ کریں۔ بلکہ ہماری طرح حکیمانہ طرز اختیار کریں کہ اگر مسیح کو خدا کا اپنا بیٹا بنا کر دنیا میں بھیجتا قدیم ہے تو اس سے پہلے کئی بیٹے آئے ہوں گے اور مصلوب ہوئے ہوں گے۔ حادثہ ہے تو اس عادت کو اس نے کیوں بدل دیا اور یہ کیسے صحیح ہے کہ مسیح لوگوں کے گناہوں کے بدلے لعنتی ٹھہرے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم کسی گزشتہ نبی کی توہین نہیں کرتے۔ کیونکہ مفتری کی عزت نہیں ہوتی کہ مقبولوں کی طرح ہزار ہا قومیں اور افراد اس کو مان لیں۔ اس کا دین جم جائے اور عمر پاوے تمام فارسی، چینی، ہندی، عبرانی نبی حق تھے اور جو باتیں خلاف حق پھیل گئی ہیں۔ وہ سب الحاقی ہیں۔ یہی اصول اختیار کرو اور جو مخالفین کی گالیوں پر صبر نہ کر سکے اس کو قانونی چارہ جوئی کرنے کا اختیار ہے۔ مگر سختی کا مقابلہ سختی کے ساتھ کر کے مفسدہ پردازی نہ کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ مخالفین کی بدزبانی کا تدارک



کرے۔ بعض نادانوں کا خیال ہے کہ میں نے افتراء سے الہام کیا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے کہ جب خدا پر ایمان کم ہو جاتا ہے تو اس وقت میرے جیسا انسان پیدا کیا جاتا ہے اور عجائبات دکھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایسی گورنمنٹ عطاء کی۔

(۲۰ ستمبر ۱۸۹۷ء مرزا غلام احمد از قادیان)

## کتاب البریہ کیوں لکھی؟

کتاب البریہ ۱۸۹۸ء اس لئے لکھی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست بازوں کو کس طرح بہتان سے بچاتا ہے اور خدا کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ مسیح کو بھی یہود نے صلیب دلانے کی ٹھہرائی تھی۔ مگر پیلاطوس بیوی کی خواب سے ڈرا اور مسیح کو بغیر ہڈی توڑنے کے تین دن کے اول ہی اتار لیا تو کشمیر میں جا کر فوت ہوئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ جو یوز آسف یعنی مسیح عمگین کی قبر سے مشہور ہے۔ صلیب کے بعد جس قبر میں رکھا تھا تو ایک بڑا وسیع کمرہ تھا۔ تین دن کے بعد وہاں سے نکل کر کباب کھائے اور چالیس روز تک مرہم حواریین کے ساتھ علاج کیا جو ہزار کتاب میں مذکور ہے۔ آپ کو زخم لگے تو الہام کے ذریعہ یہ دوائیں معلوم ہوئیں تو اس مرہم سے معلوم ہوا کہ آپ صلیبی موت سے بچ گئے تھے اور رفع روحانی تھا اور رفع جسمانی غلط ہے۔ کیونکہ اس کا جھگڑانہ تھا ”ما قتلوه“ میں یہی اشارہ ہے۔ کچھ فہم علماء پر کہاں تک غباوت چھائی ہوئی ہے اور بلاد طاری ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ: ”متوفیک“ اور ”رافعک“ میں جسمانی کا موقع ہی کیا ہے؟ تو رات میں ہے کہ مصلوب کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا۔ یعنی مرنے کے بعد رفع روحانی نہیں ہوتا تو خدا نے بچا لیا۔ اس لئے ”رافعک الی السماء“ نہیں کہا۔ کیونکہ خدا کی طرف روح جاتی ہے۔ جسم نہیں جاتے تو فی کے بعد رفع بھی بتا رہا ہے کہ رفع بعد توفی ہے۔ نہ یہ کہ رفع قبل از موت ہے۔ قرآن شریف وہ اٹھتے ہیں کہ جن کی رو میں یہودیوں کی ہیں۔ ہم بغیر دلیل محکم کے نہیں بدل سکتے۔ ”توفیتنی“ میں بعد وفات ہے۔ موسیٰ کو بھی خدا نے دشمنوں سے بچا لیا۔ حضور ﷺ کو بھی بچایا۔ غار ثور تک سراغ پہنچا تو سراغ رسان نے کہا کہ آپ اندر ہیں یا آسمان پر چڑھ گئے ہیں۔ مگر روسائے مکہ نے کہا کہ اس بڑھے کی عقل ماری گئی۔ اس پر تو کبوتر کا آشیانہ ہے اور ایک درخت ہے کہ حضور ﷺ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے اور یہ سانپوں کا غار ہے۔ جب تک درخت نہ کٹے اور آشیانہ نہ ہٹے کوئی اندر نہیں جاسکتا۔ یہ کبوتری حضرت نوح کی کبوتری کے مشابہ تھی۔ پس خدا راست باز کو بچاتا ہے اور مصیبت کو نشان ظاہر کرنے کے لئے بھیجتا ہے۔ مگر نادان احمق نہیں سمجھتا۔ مولوی محمد حسین بنالوی اس مقدمہ میں میرے خلاف اس لئے گواہ

بناتا تھا کہ مجھے ذلت ہو اور جو وارنٹ گرفتاری یکم اگست ۱۸۹۷ء کو جاری ہوا وہ امرتسر سے گورداسپور تک کئی روز نہ پہنچا۔ وارنٹ دین عیسائی اور دیگر مولوی اسٹیشن پر منتظر تھے کہ میں کس طرح گرفتار ہو کر امرتسر آتا ہوں۔

کارروائی مقدمہ قتل

۷ اگست تک تعمیل نہ ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب امرتسر کو معلوم ہوا کہ غیر ضلع میں وارنٹ گرفتاری نہیں جاسکتا۔ گورداسپور تاریخ کی تعمیل روک دی جائے اور وہ حیران تھے کہ وارنٹ کب آیا تھا۔ مثل گورداسپور آئی، ڈپٹی کمشنر گورداسپور کو معلوم ہوا کہ یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے۔ سمن بھیجا تو میں نوبے بٹالہ پہنچ گیا اور مجھے کرسی ملی۔ مخالفین کے لئے یہ ایک عذاب عظیم تھا۔ ڈاکٹر کلارک نے مولوی محمد حسین کو کرسی کے لئے سفارش کی مگر منظور نہ ہوئی۔ اس نے کرسی طلب کی تو جواب دیا گیا کہ پہلے بھی نہیں ملتی تھی۔ اپنے باپ رحیم بخش کی کرسی نشینی پیش کی۔ مگر ثبوت نہ ملا۔ کہا ہمارے پاس چٹھیاں ہیں۔ حاکم نے کہا بک بک مت کر سیدھا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جا۔ تب یہ الہام سچا ہوا کہ: ”انسی مہین من اراد اھانتک“ وہ چشم بصیرت سے دیکھتا تو اس کو یہ قدرت الہی نظر آ جاتی۔ اول وارنٹ کی غیبت۔ دوم اس کی بجائے سمن کا اجراء۔ سوم ذلت کی بجائے میری عزت۔ چہارم محمد حسین کی اپنی ذلت کہ ہزار آدمی کے سامنے اسے جھڑک دی گئی۔ اردلی کے کمرہ میں آیا تو اس نے بھی اٹھا دیا۔ پھر پولیس کے کمرہ میں کرسی پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بھی روک دیا۔ پنجم میں بری ہو گیا۔ حاکم نے کہا کہ یہ وارنٹ دین وغیرہ کی بناوٹ ہے۔ محمد حسین نے دو جھوٹ بولے کہ اسے اور اس کے باپ کو کرسی ملتی تھی۔ خود خشک اور نیم ملا تھا۔ جو نذیر حسین سے چند حدیثیں پڑھ آیا تھا۔ جس کے ہم جنس مسجدوں کے حجروں میں روٹیوں پر گزارہ کرتے ہیں۔ اس کا باپ ایک رئیس کے ہاں ملازم تھا۔ ایک دفعہ بٹالہ کے میاں صاحب رئیس نے روٹی پر اس کو ملازم رکھا تھا یا تنخواہ پر۔ ایک دفعہ ہمارے پاس بھی آیا تھا۔ مگر ملازم نہ ہو سکا اور ہمیشہ ارادت اور خوش اعتقادی سے آتا تھا۔ محمد حسین پر ناراض تھا۔ ایسے لفظ کہتا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کی چٹھیاں میرے پاس موجود ہیں۔ جن میں ناگفتنی حالات درج ہیں۔ اس کا باپ اسے عدالت میں پہنچانا چاہتا تھا۔ مگر میں نے اس کو اس کے قدموں پر گرادیا تھا۔ ورنہ غلام علی امرتسری وغیرہ تو اس کو برا ہیختہ کرتے تھے۔ مگر میں اس کو اس کی پردہ دری سے روکتا تھا تو اس کے باپ دادا کرسی نشین نہ تھے۔ ورنہ گریفن صاحب اپنی کتاب میں ذکر کرتے۔ بہتر تھا کہ گواہی دے کر چلا جاتا۔ مگر ایسا ذلیل ہوا کہ باہر ایک آدمی کی چادر پر بیٹھنے لگا تو اس نے بھی اٹھا دیا کہ عیسائیوں کے جھوٹے

مقدمہ میں گواہی دینے آیا تھا۔ میری چادر پلید ہو جائے گی۔ عام خیال تھا کہ یہ کینہ لینے آیا ہے۔ ایک پیر مرد نے آہ! کھینچ کر کہا کہ مولوی مشکل سے ایمان لے جائیں گے۔ خدا نے مجھے اس سے بچالیا۔ لیکھرام کے مقدمہ میں میری تلاشی ہوئی تو میں بری ہو گیا۔ اس کے متعلق کمشنر صاحب نے کہا کہ وہ مرزا کا دشمن ہے۔ وہ مجھے عیسائیوں کے ہاتھ میں پھنسانے آیا تھا۔ شریف خود کرسی چھوڑتے ہیں تو مالک مکان کرسی دیتا ہے۔ کیوں شیخی ماری؟ بن مانگے موتی ملیں، مانگیں نہ ملے بھیک۔ اس نے بیان دیا کہ لیکھرام کا پتہ بھی اس سے پوچھنا چاہئے۔ کیونکہ الہام کا مدعی ہے۔ مگر لیکھرام نے پیشین گوئی مانگی تھی تو خدا نے مجھے الہام کر دیا تھا اور قاتل کا نام نہیں بتایا تھا۔ محمد حسین کو چاہئے تھا کہ ہندوؤں کے ملہموں سے قاتل کا نام دریافت کر لیتا۔ یا گورنمنٹ کو توجہ دلاتا کہ الہام کے ذریعہ سے مجھ سے قاتل کا نام طلب کرتی۔ مگر میں خدا پر زور نہیں ڈال سکتا کہ وہ ضرور مجھے اس کا نام بتائے۔ خدا نے تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا حال نہیں بتایا تھا اور چالیس برس روتے رہے تھے۔ مجھے لیکھرام سے ذاتی عداوت نہ تھی کہ میں جھوٹی پیشین گوئی کرتا۔ کیونکہ یہ شریروں کا کام ہے۔ یہ کس قدر حماقت ہے کہ ہم نے مرید بھیج کر اسے قتل کروایا تھا۔ کیا وہ قاتل مرید رہ سکتا تھا کہ منصوبہ باندھ کر قتل کرایا جاتا ہے۔ گویا محمد حسین مجبور کرتا تھا کہ خدا قاتل کا نام بتلائے۔ حالانکہ وہ ”لا یسئل عما یفعل“ کا مالک ہے۔ مناسب تھا کہ کہہ دیتا کہ یہی قاتل ہے اور پیشین گوئی کا بہانہ ہے۔ تب گورنمنٹ میرا امتحان کر لیتی۔ اگر میں پیشین گوئیوں میں جھوٹا نکلتا تو بے شک میں ہی قاتل ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ گورنمنٹ عادل ہے۔ ورنہ یہ ملاکب چھوڑتے۔

### پیشین گوئیاں

اس کا یہ قول درست ہے کہ ایک پیشین گوئی تب سچی ہوتی ہے کہ دوسری تمام پیشین گوئیاں بھی سچی ہوں۔ مگر میری تمام پیشین گوئیاں سچ ہیں۔ کیونکہ احمد بیگ اور آتھم کی پیشین گوئی مشروط تھی اور لیکھرام کی غیر مشروط۔ احمد بیگ کے سامنے خوف کا کوئی نمونہ پیش نہ تھا۔ اس لئے نہ ڈرا اور مر گیا۔ مگر اس کے عزیزوں نے نمونہ دیکھ لیا اور فائدہ اٹھایا۔ اگر وہ ڈر جاتے تب بھی پیشین گوئی میں مہلت ہوتی۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی میں ہوا ہے۔ کیونکہ ”لا یخلف العیعاد“ وارد ہے۔ ”لا یخلف الوعد“ وارد نہیں ہوا۔ بعض دفعہ عوام پر اشتباہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسیح کی بادشاہت مشتبہ رہی اور ایلیا کا نزول جسمانی نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نجات دلانے میں شک ہوا۔ حدیبیہ میں تاخیر ہوئی۔ محمد حسین جبلاء کا بھائی ہے۔ جن پر یہ پیشین گوئیاں مشتبہ ہیں۔ وہ ایسا لفظ نہیں کہتا جو پہلے انبیاء کے متعلق نہیں بولا گیا۔ حال میں ایک یہودی نے اپنی

کتاب میں ایک فہرست دی ہے کہ یہ پیشین گوئیاں مسیح کی پوری نہیں ہوئیں اور یہ کہ اس کی تعلیم تورات کے خلاف ہے۔ ایلیا نہیں آیا یہ غلط ہے کہ ایلیا بجی تھا۔ کیونکہ تب خدا یوں نہ کہتا کہ ایلیا خود آئے گا۔ بلکہ یوں کہتا کہ اس کا مثل آئے گا اور صریح کو تحریف کرنا جھوٹے کا نشان ہے۔ پیشین گوئیوں کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ کیونکہ ان میں استعارات غالب ہوتے ہیں۔ عقلمند وہ ہے جو دوسروں کی نصیحت قبول کرے۔ مسلمان نزول مسیح میں ظاہر پر زور دیتے ہیں۔ جس کی نظیر نہ ہو اس پر اڑے رہنا بیوقوفی ہے۔ ”فاسئلوا اهل الذکر“ وارد ہے۔ ۲۹ جولائی ۱۸۹۷ء میں مجھ کو الہام ہوا کہ مقدمہ ہوگا۔ باز پرس ہوگی اور جھوٹے الزام سے بریت ہوگی۔ ۲۲ اگست تک اطمینان کے الہام ہوتے رہے اور ۲۳ اگست کو بری کر دیا گیا۔ اپنی جماعت کو یہ الہام سنائے گئے تھے۔ جن میں یہ لوگ بھی تھے۔ حکیم نور دین، محمد علی، فضل دین، عبدالکریم سیالکوٹی، کمال الدین، رحمت اللہ وغیرہ۔ انہوں نے چار نشان دیکھے۔ ”انسی مہین“ کی صداقت، اظہار قبل از وقت، مدعی کا طرم ہونا اور محمد حسین کی ذلت اور سات مشابہتیں مسیح کے ساتھ۔

### مسیح علیہ السلام سے مشابہت

- اول ..... یہود امرید نے مسیح علیہ السلام کو رشوت لے کر گرفتار کرایا تو عبدالحمید ادعائی مرید نے مجھے گرفتار کرانے کی کوشش کی۔
- دوم ..... مسیح علیہ السلام کی طرح میرا مقدمہ بھی امرتسر سے گوردا سپور منتقل ہوا۔
- سوم ..... ڈگلس نے پلاطوس کی طرح کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔
- چہارم ..... رہائی کے دن ایک چور تین ماہ کے لئے قید ہوا۔
- پنجم ..... یہودیوں کے سردار کاہن کی طرح محمد حسین نے مجھ پر بغاوت کا الزام لگایا۔
- ششم ..... ڈگلس نے سمجھ لیا کہ وہ جھوٹا ہے۔
- ہفتم ..... حضرت کی طرح مجھے بھی مقدمہ کی خبر پہلے دی گئی تھی۔

مقدمہ کی سازش دو وجہ سے ثابت ہوئی۔ اول یہ کہ عبدالحمید نے بیان بدل دیا۔ دوم یہ کہ پادری نور الدین اور گرے نے کہا تھا کہ عبدالحمید پہلے ہمارے ہاں آیا تھا۔ روٹی نہ ملی تو کلارک کے پاس چلا گیا۔ اگر سازش کے لئے آتا تو سیدھا کلارک کے پاس جاتا۔ مگر محمد حسین اس کو پہچاننے میں ناکام رہا۔ اسے کیوں ہدایت نہ ہوئی؟ اس لئے کہ انسان بدی کرتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ نزول مسیح بروزی طور پر محقق تھا۔ اکابر دین مان چکے تھے اور ابن عربی لکھ چکے تھے کہ وہ بروزی رنگ میں ظاہر ہوگا۔ مگر ان کو تعصب نے دور پھینکا ہاں یہ فائدہ ضرور ہوا

کہ ان کے فعل سے ان کی ریا کاری کے پردے کھل گئے کہ کس قدر خود بینی، حسد، بخل اور تکبر کا سرچشمہ ہیں۔ امید قوی ہے کہ ان کو چشم بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ جس سے وہ خطرناک راستوں سے مجتنب ہو جائیں گے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ اطمینان قلب کے تین طریق ہیں۔  
وسائلِ ثلثہ اطمینانِ قلبی

کتاب الہی، عقل اور نشانِ آسمانی۔ جس کا سرچشمہ نبیوں کے بعد مجدد وقت، امام الزمان ہوا کرتا ہے۔ اصل وارث ان نشانوں کے انبیاء ہیں۔ مگر جب مدت کے بعد منقولی بن کر کمزور ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کے قدم پر کسی ایک کو پیدا کرتا ہے۔ تاکہ لوگ ایمان تازہ کر لیں۔ بد نصیب ہیں جو ہدایت نہیں پاتے۔ (بیرونی اور اندرونی مخالف) مولویوں کو وفاتِ مسیح از روئے قرآن و حدیث دکھائی گئی۔ عقلی طور پر بھی شرم دلائی کہ آسمان سے آج تک کوئی نہیں اتر۔ پھر ان کو نشان بھی دکھائے۔ مگر تعصب نہ چھوڑا۔ پادریوں کو بھی ان وسائلِ ثلثہ سے نرم کیا گیا کہ پہلی تعلیم سے ان کے جسمانی اور مخلوقِ خدا کا پتہ نہیں چلتا۔ یہودیوں کو جو چودہ سال سے تعلیم انبیاء سے باخبر تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ ایک شخصِ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو کہا کہ یہ دعویٰ مسلسل تعلیم مذہبی کے خلاف ہے۔ اس سے بڑھ کر دلیل بطلان اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کو اس جدید عقیدہ کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ انبیاء سابقین ایسی پیشین گوئیاں درج کرتے جو توحید کے خلاف ہوتیں۔ اس لئے پادریوں کا یہ استدلال درست نہ ہوا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعلیم میں صراحت اور تفصیل ہوتی ہے اور پیشین گوئی میں استعارات اور مجاز بھی ہوتا ہے۔

تشلیکِ مسیح علیہ السلام

اس لئے جب ان میں مخالفت پیدا ہو تو تعلیم کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے افادہ و استفادہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے مقاصد کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتے۔ برخلاف پیشین گوئیوں کے کہ اکثر گوشہ گمنامی میں پڑی رہتی ہیں۔ اس لئے یہودی سچے ہیں اور ان کے معنی اس لئے بھی مستند ہیں کہ وہ انبیاء سے ایسا ہی سنتے آئے ہیں۔ شام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک فرقہ موجود ہے۔ وہ بھی عیسائیوں کے اس عقیدہ کے برخلاف ہے۔ عقلاً بھی جھوٹے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک جہاں تشلیک کی آواز نہیں پہنچی وہاں توحید سے سوال ہوگا۔ نشانوں کا ذریعہ بھی ان میں مفقود ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک معجزات کا سلسلہ بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اگر چند ماہی گیروں کو خدائی کے نشان دکھائے تھے تو اب ضرورت ہے کہ جدید تعلیم یافتوں کو نشان دکھائے جائیں۔ کیونکہ ان کو اس کی خدائی سمجھ میں نہیں آتی اور نہ کوئی فلسفہ بتاتا ہے کہ اس شخص کو

خدا کیوں نہ سمجھا جائے کہ جس کی دعا ساری رات منظور نہ ہوئی اور جس کی روح ناپاک اور نادان بھی ہے۔ زندہ ہے تو اپنی جماعت کو مدد دے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ خدا شناسی کا طالب ہوتا ہے۔ سو سچا مذہب خدا شناسی کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ عیسائی مذہب تینوں ذرائع سے خالی ہے۔ نہ مسلسل تعلیم نہ عقل۔ کیونکہ عقلی امر ہمیشہ قاعدہ کے ماتحت ہوتا ہے تو کیا یسوع جیسے اور بھی خدا تھے یا ہوں گے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں عقلی نشان بھی موجود نہیں۔ کیونکہ وہ تو خود پتھارا اور بے خبر تھا۔ دوسروں کی کیا سنے؟ اگر تمام مذاہب کے زوائد اور مخلوق پرستی کو دور کیا جائے تو صرف توحید باقی رہ جاتی ہے۔ جو اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ تو عیسائیوں کے خلاف چار گواہ ہیں۔

اول ..... یہودی جو تین ہزار برس سے تثلیث کے خلاف ہیں۔

دوم ..... یحییٰ علیہ السلام کا فرقہ جو اس کو یحییٰ کا شاگرد اور انسان مانتا ہے۔

سوم ..... عیسائیوں کا موحد فرقہ جس کا مناظر اہل تثلیث سے تیسری صدی میں

قیصر روم کے سامنے ہوا تھا اور غالب رہا تھا اور قیصر روم نے بھی تثلیث ترک کر دی تھی۔

چہارم ..... حضور علیہ السلام اور دیگر ہزاروں راست باز گواہی دے رہے ہیں کہ مسیح

علیہ السلام صرف انسان تھے اور خدا نے اب مجھے کھڑا کر دیا ہے کہ تثلیث کو توڑوں۔ ہماری مجلس

خدا نما ہے۔ دہریہ بھی ہماری مجلس میں خدا کا اقرار ہی بن سکتا ہے۔ عیسائی میری صحبت سے دیکھ سکتا

ہے کہ کس طرح نشان دیئے جاتے ہیں۔ عیسائیو! در ماندہ اور ضعیف الخلق کو خدا نہ بناؤ۔ ان کا یہ

دعویٰ بھی غلط ہے کہ تقدس صرف عیسائیوں میں باقی ہے۔ کیونکہ کئی ایک ان میں قابل شرم زندگی

بسر کرتے ہیں۔ انجیل ایسی بگاڑی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ طمانچہ کے

لئے دوسری گال پیش نہیں کرتے۔ بلکہ افتراء سے مجھ پر جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔

آہٹم اور قسم کھانا

دارث دین، پریم داس، عبدالرحیم اور یوسف خاں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں۔ آہٹم

کے مقدمہ میں لکھتے تھے کہ جھوٹی قسمیں کھانا جائز نہیں۔ آہٹم سے بھی تقاضا کیا گیا تھا کہ قسم کھا کر

کہہ دے کہ میں نہیں ڈرا۔ عدالت کے سو قسم جائز نہیں تو مسیح اور پولوس نے بغیر عدالت آئے قسم

کیوں کھائی تھی۔ نیز عدالت میں مجلس ثانی بھی درج ہے۔ ہم نے قسم پر چار ہزار روپیہ دینا بھی

منظور کیا اور الہام پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اگر وہ خوف کھائے گا تو ہلاکت سے رہائی پائے گا۔ اس کے

افعال خود گواہی دے رہے تھے کہ وہ اندر سے ڈر گیا ہے۔ اب قسم کیسے کھا سکتا تھا۔ عیسائی یہ تو

سوچتے کہ اس کا یہ کہنا کہ سانپ چھوڑے گئے، بندوقیں دکھائی گئیں، تلواروں سے حملہ ہوا۔ تب صحیح

تھا کہ عدالت میں قسم کھانا الہام میں یہ بھی تھا کہ اگر سچائی کو چھپائے گا تو جلد ہلاک ہوگا۔ تو ہمارے آخری اشتہار سے چھ ماہ کے اندر مر گیا۔ ان کو یہ شرم بھی آئی کہ لیکچر ام عید کے دوسرے روز مارا گیا۔ جلسہ مذہب لاہور میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری تقریر بالا رہی اور رسول ملٹری گزٹ نے اس پر شہادت دی۔ ایک اور ندامت ان کو یہ ہے کہ ہم نے تردید عیسائیت میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ جن سے ان کی قلمی کھل گئی ہے۔ اس لئے مجھے خود خطرہ تھا کہ تنگ آ کر یہ لوگ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بنایا گیا اور یہ ضروری تھا کہ آریہ اور محمد حسین بھی شامل ہوتا کہ ان کی ذلت بھی ہو جائے۔ پادریوں کو اس لئے زیادہ جوش تھا کہ ان کو میرے اعتراضات نے تنگ کر دیا ہوا تھا۔

### عیسائیت پر اعتراضات

- ۱..... جو شخص ملعون ہو کر خدا کا دشمن ہو وہ کفارہ کیسے بن سکتا ہے۔
- ۲..... یسوع بیٹا ہے تو اور بھی بیٹے ہو سکتے ہیں۔
- ۳..... یہود کی مسلسل تعلیم سے تثلیث کا ثبوت نہیں ملتا۔
- ۴..... کفارہ سے گناہ کا وجود معدوم نہیں ہوا اور اگر اس سے بدکاری جائز ہو گئی ہے تو شریعت فضول ہوگی۔

۵..... اس مذہب کی بنیاد صرف قصوں پر ہے۔ پوسے صانع کا پتہ لگ سکتا ہے۔ مگر اس مذہب سے کچھ ثابت نہیں ہوتا جو اپنے پیٹ میں مردہ بچہ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسیح نے مردے زندہ کئے اور تصدیق کے لئے مردے قبروں سے نکل کر بیت المقدس میں داخل شہر ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہندو کہتے ہیں کہ مہادیوی کی لٹوں سے گنگا بہہ نکلی تھی۔ رام چندر نے انگلیوں پر پہاڑ اٹھایا تھا۔ راجہ کرشن نے ایک تیر سے کئی لاکھ آدمی مار ڈالے تھے۔ یہ مذہب خدا کی ہستی ظاہر نہیں کرتے اور دہریت کا اثر باقی رہتا ہے۔ انسان سم الفار سے ڈرتا ہے۔ بادشاہ سے خوف کرتا ہے۔ مگر خدا سے نہیں ڈرتا۔ حالانکہ تمام سعادت خدا شناسی میں ہے اور مردانہ زندگی میں اسے موت آ جاتی ہے۔ کسی کے کھانے سے ہم سیر نہیں ہوتے اور کسی کی خدا شناسی سے ہم کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وید اور انجیل اتنا تو ثابت کرتے ہیں کہ خدا ہونا چاہئے۔ مگر یہ ثابت نہیں کرتے کہ یقینی طور پر وہ موجود بھی ہے۔ جو شخص جلالی تجلیات کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے اس کی شیطنت مر جاتی ہے۔ انجیل نے سوائے کفارہ کے کوئی خدا شناسی کا طریق نہیں بتایا۔ جس سے یسوع نہ اس وقت لعنت سے سبکدوش ہے اور نہ آئندہ کسی وقت کوئی نسل اس کو سبکدوش کرے گی۔ یہ کیا ظلم ہے کہ ایک

خبیث یسوع پر ایمان لے آوے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مسلسل لعنتوں سے فارغ ہو کر یسوع کب اس سے ملے گا۔ اصل نجات دینے والی چیز سے یہ لوگ بے خبر ہیں کہ آسمانی نور تمام تاریکیاں دور کرتا ہے اور نشانوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اب جو خدا شناسی سے محروم ہے وہ اسے آئندہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے طالب کادل اپنے نشانوں سے منور کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ خدا کو دیکھے گا۔ مکالمات میں بھی یہی باتیں میں نے سنی ہیں۔ ہم نے یہ حقیقت قرآن سے پائی ہے اور اس کی آواز سنی ہے۔ اس لئے بصیرت کی راہ سے اوروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے نور پایا۔ قلمت دور ہوئی۔ اب انسان اپنی خواہشات سے ایسا باہر آ جاتا ہے۔ جیسا سانپ اپنی کینچلی سے۔

۶..... کہتے ہیں کہ انجیل اپنی تعلیم کی رو سے آسمانی نشان ہے۔ مگر مسیح نے یوں کیوں نہیں کہا تھا کہ میرے بعد فارقلیط نقصان کا تدارک کرے گا۔ نیز اس میں صرف عفو کا ذکر ہے جو کسی وقت مجرم کو سرچڑھا دیتا ہے۔ انسان میں کئی ایک قوتیں ہیں۔ سوائے عفو کے انجیل میں دوسری قوتی کے متعلق کوئی تعلیم موجود نہیں۔ جسمانی اعتدال خورد و نوش کے اعتدال پر قائم ہے۔ روحانی قوتی کا اعتدال ان کے معتدل استعمال پر قائم ہے۔ حسد نیک طریق پر ہو تو غبطہ (رشک) بن کر موجب فضیلت ہے۔ ورنہ خساست ہے۔ اس لئے عیسائیوں کو اپنے قوانین بنانے پڑے۔ قرآن کی روشنی میں انجیل مدہم پڑ گئی اس لئے انجیل کو آسمانی نشان بتانا سخت غلطی ہے۔

۷..... کہتے ہیں کہ خدا کے تین حصے اقنوم کہلاتے ہیں۔ ایک اقنوم نے کہا کہ کوئی پاک دامن انسان پیدا ہو تو اس سے یکجان ہو جاؤں۔ چنانچہ یسوع کے سوا کسی کو بے گناہ نہ پایا۔ اس لئے اس سے متحد ہو کر جسمانی صورت میں ہمیشہ کے لئے آ گیا اور یسوع جسمانی خدا بن گیا۔ دوسرے اقنوم روح القدس نے کبوتری کی شکل اختیار کی۔ اقنوم اول، یعنی باپ کا وجود یسوع اور روح القدس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ توحید کافی نہ تھی۔ جب تک کہ خدا انسانی راہ سے تولد نہ ہوتا اور مرنے کے بعد لعنت اس پر نہ برستی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہر ایک پاک دامن سے اگر اقنوم کا تعلق اتحادی ہو سکتا ہے تو ملک صدق سالم سے ایسا تعلق پیدا کیوں نہ ہوا۔ جو پاک دامن تھا اور مسیح سے پہلے ہو گذر تھا۔ یسوع کا انتظار کیوں تھا؟ آتھم کی جماعت کہتی ہے کہ اقنومی کبوتری جب نظر آئی تھی تو اس وقت مسیح تیس برس کے تھے اور اسی وقت اقنوم کا تعلق بھی ہوا تو کیا یسوع پہلے تیس سال پاک دامن نہ تھا؟ شاید اسی اشتباہ کی وجہ سے کسی عیسائی نے یسوع کی ابتدائی زندگی نہیں لکھی اور حالات کو قابل ذکر نہیں سمجھا۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا بھوک پیاس تولد و موت دکھ درد اور عجز و نادانی سے



پاک ہے۔ مگر یسوع ایسا نہ تھا۔ وہ خدا تھا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے قیامت کی خبر نہیں اور مجھے نیک نہ کہو اور کیوں اس کی دعاء قبول نہ ہوئی۔

۸..... ان کا یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بہشت صرف روحانی ہے جسمانی نہیں ہے۔ کیونکہ روح بغیر جسم کے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جسم کا ایک حصہ خراب ہو جاتا ہے تو خیال یا حافظہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لئے جب راحت یا عذاب تسلیم ہے تو ضرور ہے کہ جسم بھی ساتھ ہو۔ ورنہ ادراک ناممکن ہوگا۔ گویہ ممکن ہے کہ موت کے بعد کوئی دوسرا جسم اس کو مل جاتا ہوگا۔ جس کے ذریعہ اس کو پورا انکشاف، راحت، خوشی، عذاب یا مسرت حاصل ہو سکتی ہے۔ یوں تو عذاب میں جسم اور روح دونوں کو شریک سمجھتے ہیں۔ مگر بہشت کے لائق صرف روح سمجھی جاتی ہے۔ کیا یہ بے انصافی نہیں کہ دنیا میں تو روح اور جسم دونوں نیک و بد کمائیں اور بہشت میں جسم محروم رہ جائے۔ قرآن شریف میں ”وجوه یومئذ ناظرة“ وارد ہے۔ جس میں نصارت روحانی اور بصارت جسمانی دونوں کا ذکر ہے۔ مسیح نے بھی اشارہ یہی ذکر کیا ہے۔

۹..... پادری یہ بھی مانتے ہیں کہ بہشت میں جسم ہوگا۔ جو ادراک اور شعور رکھے گا۔ مگر یہ نہیں مانتے کہ اس کو لذت جسمانی بھی حاصل ہوں گی۔ حالانکہ وہ جسم یا راحت میں ہوگا یا غیر راحت میں۔ تو ہر صورت میں لذت جسمانی کا حصول تسلیم کرنا پڑے گا۔

۱۰..... کہتے ہیں کہ عدل و عقوبت نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ نہیں جانتے کہ عدل بنی نوع کے باقی نوع کے لئے رحمت بن جاتا ہے۔ خونی کو قتل نہ کیا جائے تو قوم لڑ لڑ کر فنا ہو جائے گی۔ اس لئے خدا عادل اور رحیم دونوں صفات سے متصف ہے۔ یہ کیا انصاف یا رحم ہے کہ بے گناہ یسوع کو ساری دنیا کی لعنتوں کا متحمل بنایا جاتا ہے۔

۱۱..... کفارہ سے گناہ کی معافی نہیں ہوئی۔ کیونکہ انجیل میں ہے کہ اگر تیری آنکھ گناہ کرتی ہے تو اسے نکال دے اور تجھے کا نار ہنا بہتر ہوگا۔

۱۲..... رحم و عدل میں تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ عدل کا دار و مدار قانون اور عقل پر ہے تو جب انسان کو عقل دی گئی ہے تو اس سے برتاؤ بھی عدل کے ساتھ کیا جائے گا۔

۱۳..... یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جانوروں کی موت آدم علیہ السلام کے گناہ کے باعث ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام اپنے گناہ سے پہلے ضرور گوشت کھاتا ہوگا تو جانور مرتے ہوں گے۔ پانی پینا ہوگا تو اس میں باریک جانور مرتے ہوں گے۔ یا یوں کہو کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا آباد تھی۔ جس میں جانور مرتے بھی تھے تو ان صورتوں میں آدم کا گناہ موت کا سبب کیسے ہوا؟

۱۴..... اناجیل اس لئے غیر معتبر ہیں کہ ان میں لکھا ہے کہ یسوع نے اتنے کام کئے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو وہ کتابیں دنیا میں نہ ماسکتیں۔ کیا خوب ہے کہ تین سال میں تو اس کے کام سمٹ گئے۔ مگر کاغذات میں نہ سمٹ سکے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو دنیا میں سر رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ حالانکہ اس کی اپنی ماں کا مکان موجود تھا اور اس کے پاس روپیہ بھی کافی جمع رہتا تھا اور یہود انرا انچی مقرر تھا۔ جو کچھ کچھ چرا بھی لیتا تھا۔ یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ اس نے خدا کی راہ میں کچھ دیا بھی تھا؟

۱۵..... یہ جھوٹ ہے کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح ناصری کہلائے گا۔ پھر ایک پیشین گوئی کے مطابق ناصرہ بمعنی شاخ ہے اور عبرانی میں اس کا معنی تر و تازہ ہے۔  
۱۶..... یہ حوالہ بھی غلط ہے کہ مسیح نے کہا کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ پڑوسی سے محبت کرو اور دشمن سے نفرت کرو۔

۱۷..... قرآن مجید اس انجیل کا مصداق ہے جو مسیح پر نازل ہوئی تھی۔ نہ وہ انجیل جو حواریوں نے بعد میں تصنیف کر لی ہے اور اصل انجیل پیش نہیں کر سکتے۔  
۱۸..... انجیل کی رو سے برائی اپنے اندر اثر رکھتی ہے تو نیکی بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہوگی۔ اس لئے کفارہ باطل ٹھہرا۔ کیونکہ نہ اس سے تمام اشیاء حلال ہو گئی ہیں اور نہ ان کا وجود معدوم ہوا۔

۱۹..... مسیح علیہ السلام کو خسرہ نکلا تھا۔ بھوک پیاس سے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اپنی والدہ سے گوشت پوست بھی حاصل کیا تھا۔ موسیٰ اور یحییٰ کی تکالیف بھی ہوئی ہوں گی تو بے گناہ کیسے ثابت ہوا۔ کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جسمانی تکلیف گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ملک صدق ہی زیادہ پاک تھا تو یہ ضروری تھا کہ روح القدس کا تعلق اس سے ہوتا مسیح علیہ السلام نہ ہوتا۔

۲۰..... ان کا اصول ہے کہ اصلی نجات گناہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے تو کفارہ کو باعث نجات کیوں سمجھا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا سے تعلق پیدا ہو تو نجات ہوتی ہے۔ اس سے میلان یا قطع تعلق ہو تو عذاب ہوتا ہے۔ جناح میلان عن الحق کا نام ہے اور جرم قطع تعلق کا نام ہے اور یہ دونوں انسانی اپنے فعل ہیں۔ اس میں کسی کا مطلوب ہونا یا نہ ہونا کچھ اثر نہیں کرتا۔ پس عمل کے بغیر نجات کا مفت میں حاصل کرنا غلط ہوگا۔ ورنہ کیا ضرورت تھی کہ مسیح چالیس روز روزہ رکھتے۔ اسی سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کا کفارہ ہیں۔ زوال صحت بیماری کا نام ہے۔ اس طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے۔ تو نیکی جب اپنی جگہ موجود ہو جائے تو اس کا زوال جاتا رہے

گا۔ ”تطلع علی الافئده“ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا تعلق دل سے ہے۔ کیونکہ بدی دل سے ہی اٹھتی ہے۔ ورنہ نیک دل کو آنچ تک نہیں لگتی۔ جزا و سزا کا تعلق انسان کے فعل پر مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کہ تجربہ بتا رہا ہے۔ اس لئے اسلام نے کہا ہے کہ توحید موجب نجات ہے۔ جو قرآن اور نبی آخر الزمان کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے تو یہ عقیدہ کہ بدی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ غلط ہو گیا کیونکہ خدا اس آدمی کی طرح تنگ دل نہیں ہے جو اپنے نوکر کو سزا ضرور دیتا ہو یا اس کے عوض دوسرے کا گلا گھونٹ دیتا ہو اور درگزر کرنا نہ جانتا ہو۔

۲۱..... توحید تین قسم کی ہے۔ عام کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ خاص کہ غیر کو موثر نہ سمجھا جائے۔ خاص الخاص کہ نفسانیت بھی ترک کی جائے۔ تورات میں یہ توحید نہیں ملتی۔ سورہ اخلاص کے مقابلہ میں وہاں کون سی آیت ہے۔ سیاسیات اور اقتصادیات کو کہاں ذکر کیا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی اور قرآن شریف تمام دنیا کے لئے نازل ہوا ہے۔

۲۲..... اناجیل کے معجزے اور بیانات قابل اعتبار نہیں ہیں۔ کیونکہ انجیل نویس مدعی نبوت نہ تھے کہ ان کا کلام بیہودگی سے پاک ہوتا۔ صرف وقائع نگار تھے۔ مگر وقائع نگار کے لئے بھی ضروری ہے کہ صادق القول صحیح الحافظ عمیق الفکر محقق یا عینی شہادت رکھتا ہو۔ مگر ہم ان کے غلط حوالے لکھ چکے ہیں۔ باتیں بھی ناممکن لکھی ہیں کہ مردے نکلے مخلوق نے خدا کے منہ پر تھوکا۔ صلیب دیا، ذلیل کیا اور عاجز ہوا۔ ماں کے پیٹ میں خون پیتا رہا، پیشاب کے راستے سے باہر نکلا۔ پھر کچھ انسان بنا اور کچھ کبوتر اور اپنے دونوں جسموں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔

۲۳..... اناجیل تمام قوائے انسانی کی مرئی نہیں ہیں صرف چند قوائے نفسانی کے متعلق لکھا ہے اور یوں کہنا کہ تبدیل شرائع کو ملحوظ رکھ کر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ غلط ہے کیونکہ قرآن شریف نے جہاں تفصیلی احکام بتائے ہیں۔ وہاں اجمالی طور پر قواعد کلیہ بھی لکھ دیئے ہیں۔ جو ہمیشہ کے لئے کارآمد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ”السن بالسن“ کے ساتھ ”جزاء سیئۃ سیئۃ“ بھی لکھ دیا ہے۔ تاکہ اس مجرم کو بھی سزا دی جائے کہ جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔

۲۴..... یسوع کے ابتدائی حالات نہیں ملتے۔ ہاں لوقا کہتا ہے کہ فرشتہ نے مریم سے کہا تھا کہ بچہ کا نام یسوع رکھنا۔ مگر مریم اور مسیح کا بھائی کیوں منکر تھے اور مسیح ان سے کیوں بیزار تھا۔

۲۵..... یوحنا لکھتا ہے کہ یسوع نے کہا کہ ہیکل چار برس میں تیار ہوئی اور یہودی

کہتے ہیں کہ آٹھ برس میں تیار ہوئی تھی اور قرین قیاس بھی یہی ہے۔

۲۶..... یوحنا نے کہا ہے کہ مسیح کا نیا قول ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ حالانکہ احبار میں یہ قول مذکور تھا۔

۲۷..... کہا جاتا ہے کہ اناجیل کی سند اسلام سے زیادہ معتبر ہے۔ مگر ریلینڈ اپنی کتاب محمد ازم میں لکھتا ہے کہ معجزات نبویہ کے راوی بڑے مشہور اور معتبر فاضل تھے۔ جنہوں نے پشت در پشت کی اسناد سے ان کو بہم پہنچایا ہے اور ان کی سچائی تسلیم شدہ ہے۔ اگر یہ طریق اختیار نہ کیا جاتا تو دوسرا کون سا طریق تھا؟ خصوصاً جب کہ حضور ﷺ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے اس کی سزا آگ ہے تو اور بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ مگر یہ طریق اناجیل کو نصیب نہ ہوا۔

۲۸..... اسلام صرف قصوں پر مبنی نہیں بلکہ آسانی نشانات سے ایمان کو تازہ کر رہا ہے اور ایسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں جن سے تائیدی نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ جیسے جناب شیخ عبدالقادر جیلانی، ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، ابن عربی، ذوالنون مصری، معین الدین اجمیری، بختیار کاکئی، فرید الدین پاک پٹنی، نظام الدین دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ احمد سرہندی۔ اس قسم کے اور بھی ہزاروں آدمی ہو گزرے ہیں۔ اب بھی ایک آدمی موجود ہے۔ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ یسوع کی تائید تو صرف قصوں سے ہوتی ہے۔ مگر حضور ﷺ کی تائید میں اب بھی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔

۲۹..... شملر لکھتا ہے کہ انجیل، یوحنا کے سوا باقی تین جعلی ہیں۔ ڈاڈویل لکھتا ہے کہ دوسری صدی کے وسط تک ان چار انجیلوں کا نام و نشان نہ تھا۔ سیموئل لکھتا ہے کہ موجودہ عہد نامہ نیک نیتی کے بہانہ سے مکاری کے ساتھ دوسری صدی کے آخر میں لکھا گیا ہے۔ ایولسن پادری انگلستان کا باشندہ لکھتا ہے کہ متی کی یونانی انجیل دوسری صدی میں ایسے آدمی نے لکھی تھی جو یہودی نہ تھا۔ کیونکہ جغرافیہ اور رسوم کی غلطیاں اس میں موجود ہیں۔

۳۰..... وہ اقراری ہیں کہ مذہب کے رو سے کوئی عیسائی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا اور نہ تجارت کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں کل کی فکر کرنے کی ممانعت ہے اور نہ فوج میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دشمن سے محبت کرنے کا حکم ہے اور شادی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ بھی منع ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے احکام مختص القوم اور مختص الزمان تھے۔

۳۱..... ”الوہیم، آلہ“ کی جمع ہے۔ مگر اس سے تثلیث ثابت نہیں ہوتی۔

کیونکہ سامر اور دجال واحد بمعنی جماعت ہیں اور الوہیم جمع بمعنی واحد ہے اور خدا کے سوا قاضی اور فرشتہ کو بھی الوہیم کہتے ہیں۔ قاضیوں میں ہے کہ جب منوحا سمون کے باپ نے خداوند کا ایک فرشتہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم نے الوہیم دیکھا ہے۔ خروج میں ہے کہ الوہیم بمعنی قاضی ہے اور ہے کہ اے موسیٰ میں نے تم کو فرعون کے لئے الوہیم بنایا ہے۔ استثناء میں ہے کہ اس نے الوہا کو چھوڑ دیا۔ جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ کئی جگہ الوہا، الوہیم کی جگہ آیا ہے۔ یسعیا میں الوہیم ہے اور الوہا۔ معلوم ہوا کہ اظہار طاق کے لئے جمع کا صیغہ واحد پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ پیدائش میں ہے کہ ہم انسان کو اپنی شکل پر بنائیں گے۔ یہاں قدرت کا اظہار مراد ہے۔ یہاں عبرانی میں نعرہ مذکور ہے جو صنم کا مرادف یا محرف ہے۔ اگر اس سے کثرت مراد ہے تو تین تک کیوں محدود ہوئی؟

۳۲..... قانون قدرت ہے کہ چھوٹے کو بڑے پر قربان کیا جاتا ہے اور انسانی زندگی پر کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں تو مسیح کو ہم پر کیوں قربان کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ الزبتھ کے عہد میں سرستانی نے لڑائی کے موقعہ پر ایثار کر کے دوسرے زخمی کو پانی کا پیالہ دے دیا تھا اور خود پیاسا مر گیا تھا۔ شاید اس لئے مر اہوگا کہ سپاسی کام میں آئے تو یہ انسانی ایثار ہے جو زیر بحث نہیں۔ کیونکہ خدا ایسا ایثار نہیں کرتا کہ مخلوق کو بچانے کے لئے آپ ذبح ہو جائے۔ کیونکہ وہ ایثار کر کے ترقی مدارج کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی ایثار نہیں کہ خدا اپنی صفت کسی کو دے دے اور خود معطل ہو کر بیٹھ جائے اور یہ بھی ایثار نہیں کہ بلا احتیاج خوراک دوسرے کو دیدے اور خود بھوکوں مرے۔ بلکہ یہ بیوقوفی ہے۔ ایثار میں عزت افزائی بھی ہوتی ہے۔ اس لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ کوئی اپنی بیوی دوسرے کو دیدے یا ایک جرنیل بکری کی جان بچانے کے لئے اپنی جان دیدے۔ اس لئے ہندوؤں کا ایثار قابل تعریف نہیں کہ بتوں کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ یا جگن ناتھ کے پہننے کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔

۳۳..... ابن اللہ جب تین روز مر رہا تو دنیا کا منتظم کون تھا؟

۳۳..... محویت کے الفاظ سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی۔

## الہامات محویت

کیونکہ مجھے (مرزا) بھی ایسے الہام ہوئے ہیں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ میرے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور لوگ خشکی سے ہیں۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید۔ تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں۔ خدا عرش پر تیری تعریف کرتا ہے تو اس سے لکھا۔ اس نے تمام دنیا سے تجھ کو

چنا۔ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے۔ میں نے اپنے لئے تجھ کو پسند کیا۔ تو جہان کا نور ہے۔ تیری شان عجیب ہے۔ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تیرے گروہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ تو برکت دیا گیا۔ خدا نے تیری مجد کو زیادہ کیا۔ تو خدا کا وقار ہے۔ پس وہ تجھے ترک نہیں کرے گا۔ تو کلمتہ الازل ہے۔ پس تو مٹایا نہیں جائے گا۔ میں فوجوں سمیت تیرے پاس آؤں گا۔ میرا لوٹا ہوا مال تجھے ملے گا۔ میں تجھے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ پھر انتقال ہوگا۔ تیرے پر میرے کامل انعام ہیں۔ لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے چلو تا خدا تم سے بھی پیار کرے۔ میری سچائی پر خدا گواہی دیتا ہے۔ پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے۔ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر چہ چاہیں گے کہ اس نور کو بھائیں۔ مگر خدا اس نور کو جو اس کا اپنا نور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ ہم ان کے دلوں پر رعب ڈالیں گے۔ ہماری فتح آئے گی۔ زمانہ کا کاروبار ہم پر ختم ہوگا۔ اس دن کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہ تھا؟ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ہے، جس طرف تیرا منہ ہے۔ اس طرف خدا کا منہ۔ تجھ سے بیعت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مجھ سے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے۔ خدا کی نصرت تیرے اوپر اترے گی۔ تیرے لئے لوگ خدا سے الہام پائیں گے اور تیری مدد کریں گے۔ کوئی نہیں جو خدا کی پیشین گوئیوں کو نال سکے۔ اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری ہے۔ تیرا ذکر بلند کیا گیا ہے۔ خدا تیری حجت کو روشن کرے گا۔ تو بہادر ہے۔ اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو تو اس کو پالیتا۔ خدا کی رحمت کے نثرانے تجھے دیئے گئے ہیں۔ تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہوگا اور ابتداء تجھ سے کرے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم یعنی تجھ کو پیدا کیا۔ ”او آہن“ یعنی خدا تیرے اندر اترا۔ خدا تجھے ترک نہیں کرے گا اور نہ چھوڑے گا۔ جب تک پاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مجھ میں اور مخلوق میں واسطہ ہے۔ میں نے اپنی روح تجھ میں پھونکی تو مدد دیا جائے گا۔ گریز کی جگہ کسی کو نہیں رہے گی تو حق کے ساتھ نازل ہوا۔ تیرے ساتھ انبیاء کی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ خدا نے اپنے فرستادہ کو بھیجا تا کہ اپنے دین کو قوت دے اور سب دینوں پر اس کو غالب کرے۔ اس کو خدا نے قادیان کے قریب نازل کیا۔ حق کے ساتھ اترا اور حق کے ساتھ اتارا گیا۔ ابتداء سے ایسا ہی مقرر تھا۔ تم گڑھے کے کنارے پر تھے۔ خدا نے تمہیں نجات دینے کے لئے اسے بھیجا۔ اے میرے احمد تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا۔ میں تجھے لوگوں کا امام

بناؤں گا اور تیری مدد کروں گا۔ کیا یہ لوگ اس سے تعجب کیا کرتے ہیں۔ کہہ خدا عجیب ہے چنتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا۔ خدا کا سایہ تیرے پر ہوگا۔ آسمان بندھا ہوا تھا اور زمین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہ عیسیٰ ہے جس کا وقت ضائع نہ ہوگا۔ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں ہو سکتا۔ ہم تجھے لوگوں کے لئے نشان بنائیں گے۔ یہ امر ابتداء سے مقدر تھا۔ تو میرے ساتھ ہے تیرا بھید میرا بھید ہے۔ تو دنیا و آخرت میں وجیہ و مقرب ہے۔ تیرے پر انعام خاص ہے۔ تمام دنیا پر تجھے بزرگی ہے۔ بخرام کہ وقت تو نیک رسید پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔ میں اپنی چوکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر یا دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ مگر خدا سے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ اس کے لئے وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے قوت اعمال سے نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے کہ مخلوق کو آگاہی نہیں۔ اے لوگو! تمہارے پاس خدا کا نور آیا۔ تم منکرمات بنو۔

### مکاشفات محویت

غرضکہ اسی قسم کے الہامات اور بھی بہت ہیں اور اب وہ مکاشفات ذکر کرنا ہوں کہ جن میں محویت نظر آتی ہے۔ میں نے مکاشفہ میں دیکھا کہ میں اور مسیح ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں۔ اس کو براہین میں شائع کر چکا ہوں۔ اس لئے ثابت کرتا ہے کہ ان کی مجھ میں تمام روحانیت اور کمالات موجود ہیں۔ ایک اور کشف (آئینہ کمالات ص ۵۶۳، جزائن ج ۵ ص ایضاً) میں درج ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میرا اپنا ارادہ خیال اور کوئی عمل نہ رہا اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا یا اس شے کی طرح کہ جس کو کسی نے بغل میں دبا لیا ہو۔ اللہ کی روح مجھ پر محیط ہوگئی۔ مجھ پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پہنا کر لیا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ باقی نہ رہا۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، میری آنکھ، میرے کان اور میری زبان اسی کی بن گئی تھی۔ مجھے ایسا پکڑا کہ میں اس میں بالکل محو ہو گیا۔ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں موجزن تھی۔ میرے دل کے چاروں طرف اس کے خمیے لگائے گئے تھے۔ سلطان جبروت نے میرے دل کو پس ڈالا۔ سونہ تو میں ہی رہا اور نہ ہی میری تمنا رہی۔ میری اپنی عمارت گر گئی اور اس کی عمارت نظر آنے لگی۔ الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب آگئی۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک اس کی طرف بھینچا گیا، ہمہ مغز ہو گیا۔ جس پر کوئی پوست نہ تھا اور تیل بنا کہ جس میں میل نہ تھی۔ مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال

دی گئی۔ اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی یا اس قطرہ کی طرح جو دریا میں مل جاتا ہے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے دبا لیتا ہے۔ اب میں نہیں جانتا تھا کہ میں پہلے کیا تھا۔ الوہیت میرے پٹھوں اور رگوں میں سرایت کر گئی اور اپنے آپ سے کھویا گیا اور اس نے میرے تمام اعضاء اپنے کام میں لگا لئے۔ اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے بالکل معدوم ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اعضاء میرے اعضاء نہیں بلکہ اس کے اعضاء ہیں۔ میں خیال کرتا تھا کہ اپنے وجود سے معدوم اور اپنی معیت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ اب کوئی شریک اور روک کرنے والا نہیں رہا۔ وہ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب، علم، تخیل، شیرینی اور حرکت سکون سب اسی کا ہو گیا اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نئی زمین و آسمان بنانا چاہتے ہیں۔ سو پہلے تو زمین و آسمان کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی تفریق اور ترتیب نہ تھی۔ پھر کائنات نے منشاء حق کے مطابق اس کی ترکیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں اور پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ ”انا زینا السماء الدنيا بمصابيح“ میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف بدل گئی اور میری زبان پر جاری ہوا کہ ”اردت ان استخلف فخلقت ادم . انا خلقنا الانسان في احسن تقويم“ براہین میں اس قسم کے الہامات ۲۵ برس ہوئے شائع کر چکا ہوں۔

### خدائی میں مقابلہ

پادری مسیح کے ان الہامات سے مقابلہ کریں۔ جن سے الوہیت مسیح ثابت کرتے ہیں۔ پھر بتائیں کہ کس کے الہام بڑھ کر ہیں؟ اگر مسیح کے الہامات سے خدائی ثابت ہوتی ہے تو میرے الہامات سے اس سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر حضور ﷺ کی خدائی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ صرف نہیں کہ آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ یا آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے یا آپ کا فعل خدا کا فعل ہے یا آپ کا تمام کلام ”وما ينطق عن الهوى“ کہہ کر خدا کا کلام ٹھہرایا ہے۔ بلکہ قل یا عبادي میں تمام لوگوں کو آپ کے بندے ٹھہرایا ہے۔ تم نہیں سوچ سکتے تو تین منصف حلقاً کہہ دیں کہ یسوع کی خدائی زیادہ ثابت ہوتی ہے تو میں ایک ہزار روپیہ ان کو دے سکتا ہوں۔ بشرطیکہ وہ کہہ دیں کہ اگر ہم اپنے بیان میں سچے نہ ہوں تو ایک سال میں خدا ہم کو برباد کر دے۔ اگر کہا جائے کہ یسوع کا کلام خدا کا کلام تھا اور تمہارا کلام خود تمہارا ہی ہے تو جواب یہ ہے کہ کسی نے یسوع کی اپنی زبان سے اپنی خدائی کے متعلق کچھ نہیں سنا۔ صرف چند



کلمات مروڑتروڑ کر یسوع کی طرف منسوب کر دیئے ہیں اور میرے الہام اور کشف ان سے صدہا درجہ بڑھ کر ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ان کے الہام خوارق سے ثابت ہیں تو میں کہوں گا کہ ان کی عینی شہادت موجود نہیں اور میرے پاس عینی شہادت موجود ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ سوچو کہ ہم دونوں کے الہامات میں سے الوہیت پر کس کے الہام قوی الدلالہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آدم مسیح کی خبر پہلی کتابوں میں تھی۔ میں کہتا ہوں میری آمد کی خبر خود مسیح نے دی تھی کہ دوبارہ آؤں گا اور میری تعدیق زلزلوں سے ہوئی۔ قوموں کے غلبہ سے و باء پڑنے سے اور آسمان پر بھی نشان ظاہر ہوئے۔ مسیح کے وقت ایلیا کے آسمان سے نہ اترنے کا عذر پیش کیا گیا تھا اور اس وقت بھی یوں کہا جاتا ہے کہ مسیح زندہ آسمان سے نہیں اترتا۔ تم نے میرے نشان دیکھ لئے ہیں۔ میرے پاس آؤ ایک برس کے اندر کئی نشان پاؤ گے۔ خدا اس عاجز کے دل پر تجلی کر رہا ہے۔ یسوع بن مریم خدا نہیں ہے۔ یہ کلمات جو اس کے منہ سے نکلے ہیں اہل اللہ کے زبان سے نکلا کرتے ہیں۔ مگر ان سے کوئی خدا نہیں بن سکتا۔ پادریوں کو میرے سبب بہت ندامت ہوئی تو مجھ پر مقدمہ بنا دیا۔ مگر اس میں بھی ان کی پردہ دری ہوئی۔ محمد حسین نے لدھیانہ میں وفات مسیح پر مجھ سے مناظرہ کیا۔ مگر حیات مسیح ثابت نہ کر سکا۔ میں نے اس کے مقابلہ پر عربی کتابیں لکھیں۔ وہ ان کا جواب بھی نہ دے سکا اور سب سے پہلے لدھیانہ میں ہی ایک پیر مرد موحد کریم بخش نے کہا کہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔ اس کا نام غلام احمد ہوگا۔ گاؤں کا نام قادیان ہوگا اور لدھیانہ میں آئے گا۔ مولوی اس کو کافر ٹھہرائیں گے۔ مگر وہ سچ پر ہوگا اور تو اسے دیکھے گا۔ یہ ہمارا پہلا نشان صداقت تھا۔ دوسرا نشان صداقت کسوف و خسوف تھا۔ جو کسی مدعی مہدویت کے لئے ظاہر نہ ہوا تھا۔ تیسرا نشان ستارہ مدار تھا۔ جو عیسیٰ کے وقت نکلا تھا اور خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے وقت نکلے گا۔ چوتھا نشان آتھم کا شرط کے مطابق بچنا پھر مرنا۔ پانچواں احمد بیگ ہوشیار پوری کا مرنا چھٹا نشان لکھرام کا مرنا۔ ساتواں جلسہ مہوتسو (مذاہب عالم لاہور) میں میرے مضمون کا اعلیٰ رہنا۔ آٹھواں مقدمہ کلارک میں یہ خبر پانا کہ بریت ہوگی۔ نواں محمد حسین کی ذلت پہلے یہ الہام ہوا کہ ”قد ابتلی المؤمنون“ پھر الہام ہوا کہ ”انسی مع الافواج اتیک بغتة“ پھر حفاظت کا الہام۔ دسواں راولپنڈی کے بزرگ کی پیشین گوئی اور توبہ اس نے اخبار چودھویں صدی میں ۱۸۹۷ء میں میری توہین کی تھی کہ۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد  
میلش اندر طعنہ پاکاں برد

مجھے رنج ہوا، دعاء مانگی کہ یا اللہ یا اسے توبہ بخش یا اسے ہلاک کر۔ تو الہام سے اس کی توبہ معلوم ہوئی۔ سو اس کو خدا سے الہام پا کر ایک خط لکھا جو اخبار چودھویں صدی کی اشاعت نومبر ۱۸۹۷ء میں شائع ہوا اور میں اصل تحریر شائع کرتا ہوں تاکہ سرسید کے لئے قبولیت دعاء کا تیسرا نمونہ ہو۔ وہ بزرگ پنجاب کے رئیس جاگیر اور ملہم ذی علم ہیں۔ انہوں نے ۲۹ اکتوبر ۱۸۹۷ء کو مجھے ایک معذرت نامہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میں اخبار چودھویں صدی ۱۸۸۷ء والا مجرم ہوں۔ فدوی خاکسار خطا کا رخط کے ذریعہ حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہے۔ جس نے جولائی ۱۸۹۷ء و جولائی ۱۸۹۸ء کے درمیان جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ میں متلاشی تھا اب نوے فیصدی یقین ہو گیا ہے۔ قادیانی آریوں نے کہا کہ آپ پاکباز ہیں۔ جوانی میں عبادت گزار رہے۔ تصنیفات میں زندہ روح ہے اور آپ کا مشن حکومت کی بغاوت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ مثنوی کا شعر اس لئے لکھا تھا کہ میں نے لاہور میں اپنے دوستوں سے برے کلمات سنے تھے کہ آپ خاتم المرسلین ہیں۔ ترک تباہ ہوں گے، سلطان قتل ہوگا اور دنیا کے مسلمان آپ سے التجا کریں گے کہ ایک سلطان مقرر کروں۔ یہ امر باعث رنج تھا۔ کیونکہ وہ مقامات مقدسہ پر قابض ہیں۔ ورنہ ہم ہندوستانیوں کی خبر مطلقاً انہوں نے نہیں لی۔ مناسب تھا کہ ان کے حق میں دعاء بخیر کی جاتی اور آپ نے مسیح کے متعلق سخت لفظ استعمال کئے ہیں۔ ترکیوں کی تباہی کا اشتہار جب آپ نے نکالا تو مثنوی کا شعر میرے منہ سے بیساختہ نکلا۔ مگر جلسہ مذاہب لاہور کی تقریر اور ازالہ اوہام سے معلوم ہو گیا کہ آپ کے متعلق دعویٰ رسالت بہتان ہے اور مسیح کے متعلق آپ کے لفظ الزامی طور پر ہیں۔ جیسا کہ کسی نے حضرت علی کے متعلق کہا ہے کہ۔

آں	جوانے	بردت	مالیدہ
بہر جنگ	دوغا	سگالیدہ	
بر خلافت	دلش	بے	مائل
لیک	بو بکر	شدمیاں	حائل

آخردل تڑپ اٹھا کہ توبہ کرو۔ مومن آل فرعون کا قصہ یاد آیا کہ: "ان يك كاذبا فعليه كذبه" اس کا اثر خارج میں بھی محسوس ہوا۔ میں اب حاضر نہیں ہو سکتا۔ شاید جولائی ۱۸۹۸ء سے پہلے حاضر ہو جاؤں۔ امید کہ خدا معافی کی تحریک کرے گا۔ حضور کا مجرم (دستخط) راولپنڈی ۲۹ اکتوبر ۱۸۹۷ء۔ اس بزرگ اور آتھم کے متعلق پیشین گوئی یکساں مشروط تھی۔ مگر بزرگ میں ایمان تھا۔ معذرت بھیج دی اور آتھم میں ظلمت تھی۔ اس لئے وہ احساس خوف پر حلف

نکھاسکا اور ہلاک ہوا۔ بعد میعاد پیشین گوئی کے اس نے شور مچایا کہ امرتسر، لدھیانہ اور فیروز پور میں مجھ پر بندوق، سانپ اور دروازہ توڑ کر حملے ہوئے۔ اگر سچ تھا تو تلاش کرتا اس کا داماد عدالت میں ملازم تھا۔ وہی ہمت کرتا یا کم از کم میری ضمانت ہی کرواتا۔ مگر وہ تو مارے خوف کے مرا ہی جاتا تھا۔ بہر حال خدا اس بزرگ کو معاف کرے۔ ہم معاف کرتے ہیں۔ ہماری جماعت اس کو دعائے خیر سے یاد کرے۔

### حکومت کی خدمت میں اظہارِ مظلومیت

چونکہ حکومت سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے اور اس کی شفقت ہر ایک قوم کو شامل ہے۔ اس لئے ہمارا حق ہے کہ اپنی تکالیف حکومت کے پیش کریں کہ عیسائی ہماری نرم سے نرم تقریر کو بھی سخت بنا کر بطور شکایت پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے نبی کو سخت گالیاں دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلہ پر بالکل خاموش رہیں۔ ہمارا حق تھا کہ سخت الفاظ کی شکایت کرتے۔ مگر وہ اٹلے ہماری شکایت کرتے ہیں کہ مسیح کو یہ لوگ برا کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ہم مسیح کو سچا نبی اور راست باز جانتے ہیں۔ اسی بناء پر انہوں نے مجھ پر مقدمہ کھڑا کر دیا تھا۔ جو خارج ہو گیا۔ اس لئے اطلاعاً مرقوم ہے کہ پادری اور ان کی تقلید میں آریہ جو سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے مقتداء کے حق میں مفتری یا کاذب کا لفظ نہیں سن سکتا۔ مسلمان بار بار تو بہن سن کر زندگی کو بے شرمی کی زندگی جانتا ہے تو پھر اپنے ہادی کے متعلق کیونکر تو بہن سن سکے گا۔ عماد الدین امرتسر نے گالیاں دیں۔ ٹھا کر داس نے برا کہا، راجندر نے رسالہ مسیح دجال بنایا، سوانخ عمری و اشکشن میں بھی سخت الفاظ ہیں۔ نور افشان بھی بدزبانی کرتا ہے۔ آپ سوچیں ان بدزبانوں کے کیا نتائج ہیں۔ کیا ایسے الفاظ کسی مسلمان کی زبان سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نکل سکتے ہیں۔ ان سے سخت وہ لفظ ہیں جو انہوں نے خود ہمارے نبی کے متعلق لکھے ہیں۔ جس پر کروڑوں فدا ہیں۔ جن کی نظیر دوسری اقوام میں نہیں مل سکتی۔ پھر ہم پر الٹا شکایت کرنا صریح ظلم ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ حکومت اس رویہ کو پسند نہ کرے گی اور نہ عیسائیوں کو ہم مسلمانوں پر بیجا رعایت دے گی۔ گالیوں کی فہرست اس لئے پیش کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ستم رسیدوں کی اعانت کرے۔ (یہاں پر وہ فہرست ہے جس کو درج کرنا مناسب نہیں) غالباً حکومت کو معلوم نہیں کہ پادری اس قدر بدزبان ہیں۔ ورنہ خود ہی ضرور انسداد کرتی۔ ڈاکٹر کلارک نے عدالت میں لکھوایا تھا کہ سخت کلامی سے ہم پر حملہ کیا گیا ہے۔ اگر عدالت کو معلوم ہوتا کہ ان کی طرف سے کئی سخت حملے ہو چکے ہیں تو کبھی یہ لفظ قلمبند نہ کرتی۔

مذہبی کتابوں کی سختی نرمی بالمقابل رکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ صرف تردید سختی کا مواد نہیں ہو سکتی بلکہ توہین اور سختی یہ ہے کہ کسی قوم کے مقتدا کو نہایت درجہ کی بے عزتی کے ساتھ یاد کیا جائے یا ناپاک افعال کی نسبت دی جائے۔ ہم کیسے سختی کر سکتے ہیں۔ ہم تو خود مسیح کی توقیر پر مامور ہیں۔ ہاں ان کو خدا نہیں سمجھتے۔ مگر پادری ہمارے حضرت ﷺ کے متعلق کیا حسن ظن رکھ سکتے ہیں ان کے نرم لفظ یہ ہیں۔ (نقل کفر کفر نہ باشد۔ آ سی) کہ معاذ اللہ وہ مفتری تھے۔ سو کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انصاف یہ تھا کہ وہ بھی یہ لفظ چھوڑ دیتے۔ کیونکہ جن لفظوں سے مسیح کی خدائی ثابت کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر ہمارے نبی ﷺ میں موجود ہیں اور آپ کے نشانات بھی صدہا سے زیادہ ہیں۔ جن میں سے اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ گالیاں اس لئے جمع کی گئی ہیں کہ حکومت کو معلوم ہو جائے کہ ابتداء کس سے ہوئی ہے۔ پادریوں نے اپنی شکایت کو ایک روک بنا لیا تھا کہ کوئی مسلمان ان کا مقابلہ نہ کر سکے کہ ان کے لفظ سخت متصور ہو کر قانون کے نیچے لائے جاتے ہیں اور پادریوں کو گالیاں دینے کا موقع مل جائے۔ مگر دوسرا شخص نرمی کے ساتھ بھی سر نہ اٹھائے۔ امید ہے کہ حکومت مذہبی معاملہ میں کسی کی رعایت نہ کرے گی اور ایسے نوٹس کو دھوکہ کھانے کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ منسوخ سمجھے گی۔

### گندی کتابوں کی فہرست

- اسی کتاب کے ص ۹۱ پر یوں فہرست دی ہے کہ یہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں۔
- .....۱ دافع الجحان، از پادری رائنکن ۱۸۴۲ء
  - .....۲ مسیح درجال، از رام چند ۱۸۷۳ء
  - .....۳ سیرۃ مسیح و محمد، از ٹھا کر داس پادری ۱۸۸۲ء
  - .....۴ اندرونہ بائبل، از آتھم
  - .....۵ تواریخ کا جمال، از ولیم ۱۸۹۱ء
  - .....۶ ریویو براہین احمدیہ، از ٹھا کر داس ۱۸۸۹ء
  - .....۷ سوانح عمری محمد صاحب، از واشنگٹن
  - .....۸ نور افشان از مارچ ۱۸۹۶ء لغایت دسمبر ۱۸۹۶ء
  - .....۹ تفتیش الاسلام، از راجس ۱۸۷۰ء
  - .....۱۰ نبی معصوم، ۱۸۸۴ء از اہل ہنود
  - .....۱۱ پاداش اسلام، ۱۸۶۶ء

- .....۱۲ ستیارتھ پرکاش، ازدیاندہ ۱۸۷۵ء
- .....۱۳ خط احمدیہ، از لیکچر ام پشاوری ۱۸۸۸ء
- .....۱۴ مکذیب براہین احمدیہ، از لیکچر ام ۱۸۹۰ء
- .....۱۵ ثبوت تناخ، از لیکچر ام ۱۸۹۵ء
- .....۱۶ دشنامہ بر مسیح قادیانی، از نذیر حسین دہلوی و محمد حسین بنالوی و عبد الجبار و عبد الصمد و عبد الحق
- .....۱۷ تاسید آسمانی، از محمد جعفر تھانیسری ۱۸۹۲ء
- .....۱۸ نظم حقانی و اسرار قادیانی، از سعدی نو مسلم لدھیانہ ۱۳۱۳ھ
- .....۱۹ بت شکن، از محمد رضا شیرازی
- .....۲۰ خط قادیانی کا علاج، از راجندر سنگھ ۱۸۹۷ء

## ۱۱..... کتاب البریہ پر ایک سرسری نظر

..... اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عالم شباب میں اپنے والد کو خوش رکھنے کی کوشش نہ کرتے تھے اور عہد تعلیم میں قرآن و حدیث کا مطالعہ از خود کیا تھا۔ اس لئے ایسی ٹھوکریں کھائیں کہ مسلمانوں کو اب تک ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور ”یضل بہ کثیراً“ کا منظر دکھائی دے رہا ہے اور جب ہم عہد تعلیم کے بعد جناب کی اشاعت اسلام کا نقشہ کھینچتے ہیں تو اس میں جا بجا ہمیں سخت گیری اور خود ستائی کی بد نما شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب کو شروع سے اغیار پر نکتہ چینی کا ایسا ڈھب آیا ہوا تھا کہ دو سالہ میں پلیٹ کر جو توں کی ایسی مار کرتے تھے کہ مخالفین مجبور ہو جاتے تھے کہ کھلم کھلا دشنامی مقابلہ کریں یا عدالت سے چارہ جوئی کرتے ہوئے ایسی دلدل میں پھنسا لیں کہ جناب کو نکلنا مشکل ہو جائے۔ مگر جناب بھی کوئی معمولی ہستی نہ تھے۔ رئیس اعظم تھے۔ آباؤ اجداد سے حکومت برطانیہ کے چکے وفادار اور مددگار غیبی تھے۔ کیا مجال تھی کہ جناب کو رہائی دلانے کے وجوہات نہ سوچے جاتے اور مخالفین کو ناکام نہ رکھا جاتا۔ غالباً اسی استظہار کے حوصلہ افزائی پر قبل از وقت جناب کو فرشتے بھی نازل ہوتے ہوئے نظر آتے تھے اور الہام کی بارش بھی ہونے لگتی تھی۔

.....۲ قادیان کے متعلق جو لفظی ارتقاء بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق سرکاری کاغذات سے پیش نہیں کی گئی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ تسمیہ میں صرف دماغ سوزی سے کام

لیا گیا ہے۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ جس قدر بھی قادیان کے دور و نزدیک دوسرے گاؤں اسی نام سے آباد ہیں۔ وہاں بھی یہی ارتقاء لفظی پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ ان کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی کہ وقائع مذکور ان میں بھی نمودار ہوئے تھے۔ پھر لطف یہ ہے کہ جس نام کے لئے اتنی جدوجہد کی جاتی ہے۔ وہ کدعہ یا کرعہ موضع ظہور مہدی ہے۔ مگر اس ارتقاء میں کسی سٹیج پر یہ بروز نہیں دکھایا گیا اور نہ کوئی سرکاری شہادت پیش کی گئی ہے کہ قادیان کو کسی وقت کدعہ یا کرعہ بھی لکھا گیا تھا۔ اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی غلام قادر یا قادر بخش کے نام پر یہ اور دوسرے گاؤں آباد ہوئے ہیں۔ کیونکہ پنجاب میں ایسے نام کو مختصر کرتے ہوئے اب بھی کادی بولتے ہیں یا یوں کہیں کہ کادی کسی خاص قوم کی عرف عام ہوگی۔ جو اس کے آرائیں (رائین) ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ بہر حال اگر ہمارا خیال درست نہیں ہے تو جناب کی رائے بھی پایہ یقین تک نہیں پہنچتی۔ بہائی مذہب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تمام مراحل طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیونکہ ان کے مہدی کا ظہور ایک ایسے گاؤں سے ہو چکا ہے جو ایران میں اس وقت موجود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس مذہب کے دوش بدوش چلنے کی خاطر قادیان کو بھی یہ نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہو اور یہ امر بھی مشتبہ ہے کہ لاہور سے قادیان پچاس میل کے فاصلہ پر مغرب شمال کے کونہ پر کس طرح وقوع پذیر ہے۔ حالانکہ مثالہ اور گورداسپور وہاں سے مشرق و جنوب میں واقع ہیں۔ جن کے پاس ہی قادیان بھی واقع ہے۔ شاید اس میں بھی کوئی مخفی راز ہو جو اب تک نہیں کھلا۔

۳..... جناب کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم گو آپ نے دو تین استادوں سے حاصل کی تھی۔ مگر قرآن و حدیث کا مطالعہ اس قدر تھا کہ ان دنوں آپ کو اپنے ماحول کی بھی خبر نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسائل اسلامیہ میں اور عقائد اسلام کے بیان کرنے میں ہمیشہ رائے تبدیل کرتے رہتے تھے اور نیم ملا بن کر بچارے مسلمانوں کے ایمان خطرہ میں ڈالتے رہے۔ گو اہل دانش اس تعلیمی نقص کو ایک تذبذب ایمانی جانتے ہیں۔ مگر جناب اس کو اپنا مایہ ناز سمجھتے رہے باب اور بہاء بھی اس نقص کو اور اپنے اسی ہونے کو نشان صداقت پیش کرتے رہے اور جس قدر اسلام کو ان کے وجود سے نقصان پہنچا ہے۔ وہ اس قدر نہیں کہ جس قدر جناب کے وجود سے پہنچا ہے۔ کیونکہ ان کا سارا شیع علم مطالعہ ہی تھا اور جناب کا علمی سرمایہ کچھ باقاعدہ تعلیم پا کر بھی حاصل ہوا تھا۔ الغرض ایسے خود رائے مولویوں نے نہ صرف اپنی خود رایوں کو الہامی رنگ چڑھایا ہے۔ بلکہ یہاں تک علم لدنی کے دعویدار ہو کر آگے بڑھے ہیں کہ اپنے اغلاط اور فاسد خیالات کو تجدید اسلام اور تجدید لسان کے پیرایہ میں پیش کرتے ہوئے خوردہ گیر کو کمال پائے استحقار سے ٹھکرایا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے نزدیک جہل مرکب ایک لاعلاج بیماری ہے۔ وہ باہی، بہائی اور قادیانی تعلیم کو قبول کرنے سے انکراہ واستنکاف سے کام لیتے ہیں۔

۴..... اسلام جدید کے گروہ اپنے اپنے بانیان مذہب کی علمی طاقت کو قرآنی فصاحت کے مساوی سمجھ کر اپنی لاعلمی اور ناقدر شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ لفظی یا معنوی کمزوریوں کے متعلق وہی جواب دیتے ہیں جو آج تک مسلمان قرآن شریف کی حمایت میں پیش کرتے رہے۔ حالانکہ قرآنی عربیت کو اہل زبان عربی فصحاء لا جواب پا کر اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تھے اور شیرازی یا قادیانی عربیت کو خود معاصرین اہل علم نے بنظر تحسین نہیں دیکھا تو بھلا عرب کے اہل قلم اور فصحاء حجاز سے کب امید ہو سکتی ہے کہ ایسی عربیت کو کم از کم عربیت کا ہی درجہ بخشیں۔ کہا جاتا ہے کہ اعتراض تو قرآن مجید پر ہوئے ہیں مگر یہ کبھی غور نہیں کیا کسی عرب نے بھی آج تک اس پر اقدام کیا ہے؟ بلکہ جو کچھ آج پیش کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کی کراہت طبع کا نتیجہ ہے جو خود عجمی الاصل یا عرب مستعربہ اور عرب مولدین ہیں۔ اس لئے اس موقعہ پر یہ قیاس مع الفاروق ہوگا۔

۵..... بہا و باب اپنے اصل کے رو سے عربی النسل تھے اور اپنی موجودہ ہستی میں عجمی النسل بن کر ابناء فارس کا مصداق بننے کی کوشش میں تھے اور جناب اپنی موجودہ ہستی میں پنجابی النسل تھے اور خاندان کی رو سے سمرقندی النسل ہونے پر مفتخر ہو کر ابناء فارس میں داخل ہونا چاہتے تھے اور ایک الہام کے رو سے آپ عربی النسل بھی بن چکے تھے۔ لہذا مکمل طور پر ابناء فارس نہ بہا و باب تھے اور نہ جناب۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ابناء فارس کا صحیح مصداق صرف وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو اول سے آخر تک حضرت سلمان فارسی کی طرح فارسی النسل ہی کہلاتے رہے ہیں۔ باقی دخیل کار اس کا صحیح مصداق نہیں بن سکتے۔ ہاں جناب نے اس موقعہ پر ابناء فارس میں داخل ہونے کا فخر اپنے الہام ”خذوا التوحید یا ابناء فارس“ کی وساطت سے بھی حاصل کرنا چاہا ہے۔ مگر جب اس الہام کو واقعات کے پیش کیا جاتا ہے تو حدیث النفس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ علاوہ بریں اسلامی تعلیم کی رو سے مہدی یا مسیح کا عجمی النسل ہونا سرے سے ضروری ہی نہیں تو پھر معلوم نہیں کہ خواہ مخواہ اس معاملہ کو کیوں چھیڑ دیا ہے۔

۶..... کتب بینی کے استغراق نے جناب کے علم لدنی کو مشکوک کر دیا تھا۔ اس سے پہلے باب نے علوم اکتسابیہ کے متعلق عدم جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اور حضرت بہاء صرف ان علوم کی تعلیم جائز سمجھتے تھے کہ جن سے شکم پروری حاصل ہو اور نہ دوسرے علوم عالیہ کے متعلق ان کا

بھی یہی خیال تھا کہ وہ جہالت اور اوہام کے مدارج ہیں اور ان دونوں (باب و بہا) کے نزدیک علم صرف ان تعلیمات کا نام تھا کہ جن کے ذریعہ سے انہوں نے قرآن شریف کو قرآنی مفہوم جدید پیدا کرنے سے منسوخ کر دیا تھا اور جناب بھی گو قرآن شریف کی تفسیر کو کفر سمجھتے تھے۔ مگر باطن قرآن سے مفہیم جدیدہ پیدا کرنے میں آپ بھی ان دو بزرگوں سے کسی طرح کم نہ تھے۔ بلکہ دافع البلاء میں تو جناب نے حضرت داؤد و سلیمان کے قصے بیان کرتے ہوئے اعلان ہی کر دیا تھا کہ جب ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلہ پر معافی جدید سمجھائے جاتے ہیں تو ہمارا باطن قرآن میں معافی جدید کا اختراع کرنا مولویوں کے مقابلہ میں جو کسی طرح بھی نبوت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، قابل تعجب نہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں نبی اور غیر نبی کا مقابلہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار مقش کے نزدیک یہ تینوں بزرگ ایک ہی درجہ کے علم لدنی رکھنے کے دعویدار تھے۔

..... کتاب اقدس میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی بجائے تمام فصول و ابواب کے شروع میں ”بسم العلی الابیہی“ وغیرہ لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید کی طرح بڑی سورتوں سے شروع کر کے چھوٹی سورتوں میں ختم کیا ہے۔ آیات کے نشان بھی اسی طرح دیئے ہیں۔ اعجاز اسح اور استفتاء میں ”گو بسم اللہ“ تو نہیں بدلی۔ مگر قرآنی آیات کی طرح فقرات ختم کئے ہیں۔ حال میں علامہ مشرقی عنایت اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں قرآن مجید کا مفہوم جدید تراشنے میں یہی چال چلی ہے۔ غالباً ان مدعیان الہام کی یہ کوشش نظر آتی ہے کہ وہ اپنی وحی یا الہام کو قرآن شریف کے مقابلہ پر دکھائیں۔ مگر کجا قرآنی اعجاز اور کجا ان کی پھپھسی عربی کہ ابتدائی طالب علم عربی خواں بھی جس کو اصول عربیت سے گری ہوئی خیال کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے فرقان اول فرقان دوم لکھا تھا اور جناب ابوالعلاء مصری نے بھی اپنا قرآن تیار کیا تھا۔ مگر باوجودیکہ اہل زبان تھے۔ اس کے مقابلہ پر فیل ہو گئے۔ آج کوئی شخص بھی ان کے اقوال کو مقابلہ پر لانے کی جرأت نہیں کر سکتا تو بھلا پنجابی اور شیرازی ملہموں کی کیا جرأت ہو سکتی ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قرآن اپنے لفظوں میں لکھا تھا۔ مگر اندھے بھی جانتے ہیں کہ حضور ﷺ کے خود اپنے اقوال بھی قرآنی عربیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

..... ۸ ..... بہاء و باب نے مخالفین کو حج رعاغ وغیرہ کہا اور جناب نے اپنے مخالفین کو اس قدر گندے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ ان کے جواب میں مخالفین نے ترکی بتر کی جواب دینے میں جناب کے دانت کھٹے کر دیئے تھے تو مجبوراً حکومت سے پناہ لی کہ ان کو روک دینا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد جب لڑائیوں کا خاتمہ ہوا تو قلمی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔



وہابیت کی جنگ میں بڑے بڑے تکفیری اور دشنامی گولے چھوڑے گئے۔ عیسائیت کی جنگ چھڑی تو اس وقت بھی مولانا رحمت اللہ مرحوم اور مولانا محمد قاسم وغیرہ کے باہمی مناقشات میں الزامی طور پر مناظرہ و چیلنج کا دار و سکہ استعمال ہوتا رہا۔ بعد میں جناب کا زمانہ آیا تو تیر و تنگ کی بجائے دشنامی گن چلنے لگی اور فضائے مذہب کو ایسا مکدر کر دیا کہ جب تک جناب دنیا سے رخصت نہ ہوئے۔ آریوں عیسائیوں اور مسلمانوں نے دشنامی ہتھیار نہ ڈالے۔ کتاب البریہ میں جناب نے گالیوں کی فہرست تقریباً چار سو تک دی ہے۔ جو جناب کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب نے براہین، انجام آتھم، اعجاز اسخ اور اعجاز احمدی وغیرہ رسائل میں کیا کیا کچھ کہا ہوگا۔ ورنہ بے وجہ کوئی کسی کو گالیاں دینے پر جرات نہیں کر سکتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کا عہد مسیحیت ایسے گندے مواد سے پر تھا کہ ممکن نہیں کہ آئندہ اس کا ریکارڈ بیٹ کیا جائے۔ عہد رسالت میں گو مخالفین نے سخت و ست لفظ استعمال کئے تھے۔ جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔ مگر آج پرانی کوئی تحریر یا شعر ایسا نہیں ملتا کہ جس میں اسلام کو یا پیغمبر اسلام کو برے لفظوں سے یاد کیا گیا ہو۔ اس لئے قادیانی لٹریچر کو اسلامی لٹریچر سے کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی اور حکومت خواہ کتنے ہی آرڈیننس جاری کرے۔ مگر جب تک قصائد مرزا اور تحریرات مرزا دلخراش الفاظ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو اب توہین کا انداد مشکل نظر آتا ہے۔ میدان صحافت میں قادیانی اخبارات نے بہت کچھ اصلاح کر لی ہے تو اگر اپنے قادیانی لٹریچر کی اصلاح بھی ہو جائے تو کم از کم جناب کی زندگی پر یہ حرف نہیں آئے گا کہ جناب کا ریکارڈ بہت گندہ تھا۔ گو اب یہ کہنا غلط ہے کہ جناب سے پہلے مناظرین نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا الزامی طور پر کہا اور اپنے تقدس یا الہامات مسیحیت کو پیش کر کے توہین نہیں کی۔ مگر جناب نے یہ غضب کیا کہ اپنے الہام کو کلام مسیح کے مقابلہ پر رکھ کر انعامی اعلان کر دیا کہ جو شخص میرے الہامات کو کلام مسیح سے کم درجہ ثابت کرے۔ وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ بہر حال یہ مقدس توہین آج تک لا جواب رہی ہے۔

..... ۹ جناب نے اپنی تصانیف میں اغیار کو جنون اور خشک دماغی سے مطعون کیا ہے۔ مگر اپنا یہ حال ہے کہ والد کی وفات کے بعد معاً ایک خواب کی بناء پر فاقہ کشی شروع کر دی اور رنگ برنگ ستونوں کا منظر پیش آنے لگا۔ جس کو عالم ثانی سمجھے اور تقدس اور خشک مزاجی میں پھنس گئے۔ طبیعت پر گوشہ نشینی اور غصہ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بات بات پر سخت و ست لکھنا شروع کر دیا اور دنیاے مذہب پر وہ کالی گھنائیں اٹھائیں کہ جن کی ڈالہ باری اب تک لوگوں کے

سرفا کر رہی ہے۔ دوسروں سے کہا کہ ایسا کرنے سے سل ووق وغیرہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ مگر اپنے آپ کی خبر نہ لی کہ مرق، دوران سر، ذیابیطس کے ساتھ صحت جسمانی کا ستیاناس کر رہا ہے اور ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ اپنی بیماریاں بھی نشان صداقت میں داخل کر لیں۔

۱۰..... جناب نے عیسائیوں کے مقابلہ پر مجرم کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کا نام جرم ہے اور جب جناب پر ادعائے مہدویت و مسیحیت کی بناء پر تکفیری فتوے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے لفظ واپس لیتے اور خدمت اسلام یا کسر صلیب کے لئے مہدی یا مسیح بننے کو ضروری نہ سمجھتے اور ابھرے اور مخالفین کو مجرم قرار دیا اور ”لستستبین سبیل المعجمین“ کا الہام شائع کر کے تمام دنیائے اسلام کو مجرم غیر ناجی اور اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ جناب کا پہلا مقدس حملہ تھا کہ جس سے کوئی مسلم جانبر نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حملے اس سے بھی بڑھ کر کھلے لفظوں میں کئے۔ جن کا نتیجہ اخیر میں یہ ہوا کہ اسلام کو صرف اپنے تابعداروں میں ہی منحصر کر دیا اور شیرازہ اسلام کو ایسا منتشر کیا کہ تیمور اور چنگیز خان کی روح سے بھی خراج تحسین لے کر چھوڑا۔

۱۱..... سرکاری اعزاز کو الہی اعزاز یہاں تک قرار دیا کہ عدالت میں کرسی ملنے کو بار بار ذکر کرتے ہوئے مولوی محمد حسین بٹالوی کو کرسی نہ ملنے کی وجہ اس تجویز میں بیان کی ہے کہ گویا آپ کو کرسی کیا ملی تھی۔ عرش بریں مل گیا تھا۔ جس کے شکر یہ میں اپنے تمام اندازی الہام بھی گورنمنٹ کے قبضہ میں کر دیئے تھے کہ جسے چاہے اشاعت کے لئے منظور دے اور جسے چاہے مسترد کر دے۔ مگر یہ پابندی اگر کسی اور مدعی الہام پر عائد ہوتی تو جناب کے نزدیک یہی سخت کمزوری اور ذلت کا باعث ہوتی۔

۱۲..... حضور علیہ السلام کے متعلق ایک موقعہ پر جب ابوسفیان سے سوال ہوا تھا کہ کس قسم کے لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں تو تصدیقی جواب یوں دیا گیا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں۔ پھر آباؤ اجداد کا سوال ہوا تھا تو جواب دیا گیا تھا کہ وہ حکمران نہ تھے۔ تو ہر قل نے یہی علامت صداقت پیش کی تھی۔ مگر یہاں یہ عالم ہے کہ کمشنر صاحب گھر آتے ہیں تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ خدا ہی آ گیا ہے۔ کرسی ملتی ہے تو بار بار اپنی صداقت کو اس پر جلوہ افروز کیا جاتا ہے۔ جدی جائیداد اور موروثی وفاداری اور مورث اعلیٰ کے عملداری کو اس رنگ میں بیان کیا جاتا ہے کہ صاف یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ تمام جدوجہد اپنی کھوئی ہوئی جائیداد کو واپس دلانے کے لئے کی جا رہی ہے یا کم از کم موجودہ مالیت کے بقا کے لئے حلف وفاداری میں بیسیوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور

مخالفت جہاد میں اتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا حکومت سے الجھنا خدا سے الجھنے کے برابر ہے۔ دوسرا پہلو دیکھئے فخر یہ طور پر اپنی جماعت کو ان افراد پر شامل کیا جا رہا ہے کہ جن میں سودائے دنیاوی وجاہت کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔

۱۳..... جناب نے علماء اسلام کی جہالت چار وجوہ سے ثابت کی ہے۔ اول یہ قرآن مجید مسیح کو مردہ ثابت کر رہا ہے اور یہ لوگ اسے زندہ سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل اسلام نے قرآن سے ہی حیات مسیح ثابت کی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو کا وہ حصہ اول باب حیات مسیح بالقرآن دوم یہ کہ خاتم الانبیاء کا عقیدہ رکھ کر نزول مسیح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب نے بھی تو اس جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ آخری مجدد کا نام مسیح موعود ہے اور نبی اللہ بھی ہے اور حکم بھی تو اگر آپ یہ تاویل کریں گے کہ یہ صرف اعزازی خطاب ہے یا یہ نبوت بروزی اور بطریق رجعت ہے تو اہل اسلام بھی یہ تاویل کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت صحیح نہیں اور مسیح کی بعثت حضور ﷺ سے اول ہو چکی ہے اور نزول کے بعد بعثت سابقہ کے ساتھ خاتم الخلفاء ہوں گے۔ سوم یہ کہ نزول مسیح غلبہ دجال اور غلبہ نصاریٰ کے وقت تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دو قسم کے غلبے ایک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ جواب یہ ہے کہ جناب کو اصلی حالات پر اطلاع نہیں کہ آثار نزول مسیح میں سے غلبہ نصاریٰ شامل کیا گیا۔ جس کے بعد مسیح دجال یہودیوں کا بادشاہ ہونا قرار پایا ہے جو نصاریٰ پر بھی اپنا تبلیغی اثر کرے گا۔ جس طرح کہ آج کل مسیح ایرانی یا قادیانی عیسائیت کو مغلوب کرنے میں مستغرق ہیں۔ ورنہ حکومت صرف یہودیوں پر کرے گا اور ان کی سرکردگی میں دنیائے اسلام کو مٹانا چاہے گا تو اس ارض مقدس میں پہلے امام مہدی کے ساتھ چچقش ہوگی۔ بعد میں مسیح علیہ السلام اس لڑائی کا خاتمہ کر دیں گے۔ گو اس وقت غلبہ نصاریٰ ہے۔ مگر غلبہ یہود کے قرآن بھی موجود ہونے میں بہت امکان ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ ارض مقدس میں جمع ہو رہے ہیں۔ چہارم یہ کہ مسیح کو امام مہدی مانتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ نزول مسیح کے اول امام المسلمین جناب مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ کچھ مدت کے بعد دوسرے امام المسلمین مسیح علیہ السلام ہوں گے۔ جن کو حکم اور مہدی وقت کہا جائے گا۔ چونکہ جناب کو اصل واقعات پر عبور کامل نہ تھا۔ اس لئے نو تعلیم یافتہ کی طرح آپ کو تاقض ہی تاقض نظر آتا تھا۔

۱۴..... جناب نے نزول مسیح اور نزول انبیاء کو یکساں قرار دیا ہے کہ جس طرح مسیح نصاریٰ سے پہلے نزول ایلیاء بروزی طور پر تھا۔ اسی رنگ میں خاتم الانبیاء کے بعد نزول مسیح بھی

بروزی رنگ میں ہوگا۔ ورنہ اگر نزول ایلیا جسمانی طور پر مشروط ہوتا تو مسیح ناصری کی تکذیب لازم آتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر یہ نظریہ تسلیم کیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی کا بروز بھی مستقل نبی ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بروز ایلیا تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مسیح ناصری کا بروز یا حضور ﷺ کا بروز بھی ضروری طور پر نبی مستقل کے طور پر ہوگا اور جناب کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ نبی مستقل ہیں یا حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی صرف اعزازی نبی تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ کیونکہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایلیاء تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی خود حضرت مسیح نے اپنے آپ کو ایلیاء قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کا ظہور تھا جو دونوں بزرگوں کے بعد ہوا اور چونکہ ظہور ایلیا کی خبر بڑی سرگرمی سے دی جا رہی تھی۔ اس لئے تمام طبائع اس کی طرف لگی ہوئی تھیں اور جو نبی ظاہر ہوتا تھا اسی کو ایلیا تصور کرنے لگ جاتے تھے اور اگر نزول ایلیا نزول مسیح کے لئے شرط تسلیم کیا جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ کا نزول جسمانی شب معراج کو ہوا اور نزول مسیح جسمانی طور پر آسمان سے بہت جلد ہونے والا ہے۔ کیونکہ نصاریٰ اور جمعیت یہود کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ خود جناب کو تسلیم ہے کہ انجیل نویسوں نے معقولیت کے ساتھ صحیح واقعات قلمبند نہیں کئے۔ اس لئے ان کے بیانات سے ایک نظریہ قائم کرنا نہ صرف غلط ہوگا بلکہ دنیائے اسلام کو بڑے مغالطہ میں ڈالنا ہوگا۔ ہاں یہ نظریہ اگر اسلامی تعلیم پیش کرتی تو پھر کسی قدر نزول مسیح کے بالمقابل ایک ضرور سدراہ واقع ہوتی۔ اس مقام پر جناب نے فخریہ طور پر لکھا ہے کہ نزول مسیح کو بروزی رنگ میں پیش کرنا نیچریوں کو بھی تذبذب سے نجات دیتا ہے۔ مگر یہ غلط ہے کیونکہ وہ تو خدا کی ہستی سے ہی منکر ہوئے بیٹھے ہیں تو ان سے نزول مسیح بروزی کی توقع رکھنا خواب و خیال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

۱۵..... جناب نے ایک طعنہ دیا ہے کہ نزول بروزی کی نظیر تو موجود ہے۔ مگر نزول جسمانی کی نظیر موجود نہیں۔ گویا مرزائی تعلیم نظائر قائم کرنے کے بعد قائم نہیں رہ سکتی تو بھلا مسیح بن باپ کی نظیر کہاں سے ملتی ہے؟ اور یا اس کی نظیر کہاں سے پیش کی جاسکتی ہے کہ ایک شخص نبی کا بروز ہو۔ مگر حقیقی نبی نہ ہو۔ تو نبی اور نزول کے نظائر طلب کرتے وقت ذرہ یہ خیال کر لیا کریں کہ خود آپ کس قدر نظائر پیش کر سکتے ہیں۔ جب ضمیر نے ملامت کی ہوگی تو ایک سو بیس سال کی عمر پیش کر دی اور کہہ دیا کہ عمر مسیح کی حد بندی ہو چکی ہے۔ مگر اس حدیث کی تفصیل پر جناب کو نظر دوڑانا نصیب نہیں ہوا۔ ورنہ تو پہلا جواب یہ تھا کہ واقعہ صلیب کے متعلق اہل اسلام کو اشتباہ پڑا کہ آیا اس وقت

آپ کی عمر ۳۳ سال تھی یا ۲۰ برس تو جن لوگوں نے آپ کی عمر اس وقت ۲۰ تسلیم کی ہے وہ ساتھ ہی چالیس برس کا اضافہ کر کے وفات بعد نزول کے وقت آپ کی عمر ۱۶۰ برس قرار دیتے ہیں اور جو لوگ ۳۳ برس عمر قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک آپ کی عمر بوقت وفات ۷۳ برس بنتی ہے۔ بہر حال دونوں گروہ نزول مسیح کے قائل ہو کر عمر مسیح میں مختلف ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی روایت کو تقویت دیتے ہیں۔ ۳۳ برس کی روایت کو تقویت دینے والے قول نصاریٰ اور حیات المل جنٹ پیش کرتے ہیں اور ۲۰ برس پیش کرنے والے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں اپنی عمر حضور ﷺ نے اس عمر کا نصف بتایا ہے۔ جو مسیح کو واقعہ صلیب کے وقت حاصل تھی۔ پھر دونوں فریق مسیح کے لئے دو عمروں کے قائل ہیں۔ ایک عمر کا کوئی قائل نہیں۔ ہاں مرزائی تعلیم نے دونوں مذاہب کو جمع کر کے قطع و برید کے ذریعہ سے مسیح کی ایک مسلسل عمر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر ایمانداری سے کام نہیں لیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ۱۲۰ برس کی حدیث ۳۳ سال کی حدیث کے مقابلہ پر کمزور ہے۔ کیونکہ اس کے راوی کمزور ہیں اور عبارت کی ترتیب بھی قواعد عربیت کے خلاف ہے۔ ”عشرون و مایة سنة“ اور کسی صحیح حدیث سے اس کی تائید بھی نہیں ہوتی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس کا یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ مسیح زندہ ہیں۔ (عاش) اور اس کی تمام عمر (صلیبی اور نزولی) بیس اور ایک سو برس ہے۔ جس کا کچھ حصہ گزار چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ جب کسی کی وفات بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ: ”مات وله سنة كذا“ اور یوں نہیں کہتے ”عاش وله سنة كذا“ اس لئے محاورہ فہمی کو صحیح دماغ کی ضرورت ہے۔

۱۶..... جناب نے قرآن شریف کو خاتم الکتب کہا ہے اور حضور ﷺ کو خاتم الانبیاء تسلیم کیا ہے اور دونوں فقروں کو ملا کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی نبی جدید مبعوث نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اور نبی کتاب نازل ہوگی۔ کیونکہ حضور ﷺ آخری اور آخر الزمان نبی ہیں اور قرآن آخری پیغام الہی ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ کتب الہی سابقہ سب کی سب کلی طور پر مٹ چکی ہیں اور نہ یہ کوئی نبی سابق بھی اب تک زندہ نہیں۔ کیونکہ خاتم کا لفظ نہ کسی تعلیم سابق کی موجودگی کو معرض فنا میں ڈالتا ہے اور نہ کسی نبی کی ہستی کو منفي کرتا ہے۔ بلکہ ایسے امور کے لئے دوسری بیرونی شہادتوں کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں کہ ایک نبی کی زندگی اس جگہ کیوں تسلیم کی جاتی ہے یا کیوں کتب سابقہ کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے اور بعض نادان مبلغوں کا یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں کہ خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہو کر آئے تو اس کا معنی آخری نہیں ہوتا۔ کیونکہ خاتم

الکتب کا فقرہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ علاوہ بریں جب بروزی نبوت کو خاتم الانبیاء اور آخر الزمان نبی مان کر بھی ایچ بیچ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہی نبوت محمد یہ سدا بہار گلاب کی طرح بار بار پھول دیتی ہے تو نزول مسیح کو مان کر بھی کہا جاسکتا ہے کہ مسیح علیہ اللام بھی اسی گلاب کا ایک پھول بن کر ظاہر ہوں گے۔ نہ یہ کہ ان کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ کیونکہ دونوں فریق مسیح موعود کو مجدد تسلیم کرتے ہیں۔ گو جناب نے اس کو مجدد تسلیم کر کے مسیح موعود قرار دیا ہے اور فریق ثانی مسیح موعود مان کر مجدد تسلیم کرتا ہے۔ مگر دونوں نے بغیر تاویل کے اظہار مطلب کو متمنع ثابت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب نے خاتم کو گو کسی اور جگہ سعید، افضل، نبی ساز یا اعزازی خطاب سمجھا ہو۔ مگر اس موقع پر اظہار عقیدت کے لئے آخری معنی خاتم بمعنی آخر الزمان بھی تسلیم کرنا پڑا ہے۔ جس کا یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور نہ کوئی کتاب الہی نازل ہوگی اور یہ عذر مقبول نہیں کہ جناب کی نبوت اور جناب کی وحی چونکہ تائیدی طور پر ہے۔ اس لئے لفظ خاتم کے منافی نہیں ہے۔ ورنہ بہائی مذہب بھی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ہم قرآنی آیات کے رو سے گو ختم نبوت کا قول کرتے ہیں۔ مگر خود خدا کے روپ بدلنے کو قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ (دیکھو ایقان کا آخری حصہ) بنا بریں ہم یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام مخصوص سے رہائی پانے کے لئے اسلام کا وہی شاہراہ اختیار کیا جائے کہ جس پر آج تک اہل سنت چلے آئے ہیں۔

۱۷..... ہجرت کشمیر کا نظریہ اگر درست تسلیم کیا جائے تو لما توفیتی کا معنی یوں کیا جائے گا کہ جب تو نے مجھے کشمیر بھیجا۔ اسی وقت سے میری نگرانی ختم ہو چکی تھی اور ماننا پڑے گا کہ آپ کی روپوشی کے عہد حیات میں ہی فساد نصاریٰ کا وقوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ جناب کو تسلیم ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد حواریوں نے یوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسیح آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور یہ اصول خود ہی غلط ہو جاتا ہے کہ توفی کا فاعل اللہ ہو۔ مفعول بہ انسان اور باب تفعیل تو ضرور موت کا معنی ہی مراد ہوگا۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد متصل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی ہے۔ جس کی تائید حدیث اصحابی سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں یوں مذکور ہے کہ: ”مآلا تدری ما احدثوا بعدک منذ فارقتہم“ اور یہ کہنا غلط ہے کہ حضور ﷺ توفیتی کا حوالہ دے کر اپنی وفات کو ثابت کریں گے۔ کیونکہ وفات تو حضور ﷺ کی پہلے ہی ثابت ہوگی۔ زیر بحث صرف یہ ہوگا کہ بعد از مفارقت امت کا فساد ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کے واسطے وقوع موت ضروری نہیں بلکہ مفارقت الی کشمیر بھی کافی ہے۔ علاوہ بریں جب تمثیلی طور پر کوئی فقرہ پیش کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب بھی بعینہ وہی حال پیش آ رہا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی عام

مفہوم میں اس کے ساتھ اشتراک ہے۔ ورنہ ”لیست اول قارورة کسرت فی الاسلام“ جب ہی صحیح ہوگا کہ کسی نے بول توڑی ہو تو حضور ﷺ کا اپنے کلام میں توفیقی پیش کرنا یا تو اس لئے ہوگا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بحث ہو چکی ہوگی اور یا اس لئے کہ نزول فی القرآن کا حوالہ مراد ہوگا۔ بہر حال قول حضور ﷺ کو قول مسیح سے تشبیہ ہے یا تو فی کو مفارقت سے مساوی کیا گیا ہے۔ ورنہ موت کو زیر بحث لانا امر زائد ہوگا جو مقتضائے مقام سے تعلق نہیں رکھتا۔

۱۸..... ”قد خلت من قبله الرسل“ سے حضرت ابو بکرؓ نے یہ ثابت نہیں کیا

تھا کہ سارے نبی مرچکے ہیں اور نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وفات مسیح پر تمام صحابہؓ کا اتفاق ہوا۔ کیونکہ زیر بحث حضور ﷺ کی موت تھی۔ جو آپؐ نے ”افسان مسات او قتل“ سے ثابت کر دی تھی اور بعض صحابہؓ کا یہ خیال باطل کیا تھا کہ حضور ﷺ بھی مسیح کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں یا یہ کہ آپؐ جب تک تمام مخالفین کا کام تمام نہ کر لیں گے نہیں مریں گے۔ یا یہ کہ نبوت محمدی اور موت کو ممکن الاجتماع سمجھنے میں ان کو توقف پیدا ہو چکا تھا۔ تو صدیق اکبر نے یہ تمام آیات پیش کر کے ثابت کر دیا کہ جس طرح انبیاء کا خلو ہو چکا ہے آپؐ کا بھی ہو چکا ہے اور عہدہ تبلیغ سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور جس طرح جماعت انبیاء کو موت آئی آپؐ کو بھی موت آ چکی ہے۔ زندہ آسمان پر نہیں گئے تو ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے سے انبیاء اور حضور ﷺ کا خلو بہر صورت یکساں نہیں ثابت ہوگا۔ ورنہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر ایک نبی کی وفات اپنے اپنے حجرے میں ہی ہوئی تھی۔ یا سب بخار کی بیماری سے فوت ہوئے تھے اور یا سب مدینہ شریف میں ہی مرے تھے وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ بریں جن صحابہؓ کا اتفاق پیش کیا جاتا ہے انہی کی زبانی حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی منقول ہے۔ کیا ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ کی مشہور روایات کتب احادیث میں درج نہیں ہیں یا حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی محدثین نے اب تک نہیں مانی؟ تو قدحلت کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ انبیاء کی ایک جماعت کا خلو آپؐ سے پہلے ہو چکا ہے نہ یہ کہ آپؐ سے پہلے جو تمام انبیاء تھے ان سب کا خلو ہو چکا ہے۔ ناواقفیت کی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ اس لئے ہم نحوی ترکیب سے یہ معنی صاف کرنا چاہتے ہیں کہ: ”من قبله“ مفعول فیہ ہے۔ الرسل کی صفت نہیں ہے۔ کیونکہ جب صفت مقدم ہوتی ہے تو صفت نہیں رہتی۔ بلکہ عطف بیان بن جاتی ہے۔ (بکری بشر) یا مضاف ہو کر مرکب اضافی پیدا کرتی ہے۔ (خیر مقدم) یا موصوف کو الگ جملہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ ”نعم الشاعر زید لے ہو زید“ اور من قبلہ کو اس انقلاب میں حالت بدلنے نہیں دیکھا گیا۔ اس لئے سرگمے سے اس کو صفت کہنا ہی غلط ہے اور صفت مان کر مقدم سمجھنا ڈبل غلطی ہوگی۔ جو قائل کی قابلیت پر عدم واقفیت

کی مہر لگاتی ہے اور جو لوگ اس آیت کو قیاس اقتزانی بناتے ہیں ان کو من قبلہ کا لفظ حد اوسط پیدا کرنے میں سنگ راہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو قیاس تمثیلی کے طور پر پیش کرنا درست ہوگا۔ جو مفید یقین کلی نہیں ہوتا۔ اس لئے اسلامی تعلیم کی رو سے بڑے وثوق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور ﷺ کے قبل ایک جماعت انبیاء کا خلو ہوا کسی کا موت سے اور کسی کا رفع الی السماء سے۔ بہر حال وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں عام طور پر جمع کے لفظ آتے ہیں۔ مگر بعض دفعہ ان سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ سارے مراد نہیں ہوتے۔ ”یمددکم باموال وبنین“ اسی طرح یہاں بھی بعض رسول مراد ہیں اور بعض نہیں۔ نیز خلو کا لفظ موت کا معنی نہیں دیتا۔ ”خلو الی شیطانینہم“ حرف جار کے بغیر آئے تو استمرار کا معنی دیتا ہے۔ ”خلت سنة الاولین“ یا گزرنے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ ”خلت الرسل“ من حرف جار صلہ ہو کر آئے تو بے تعلقی کا معنی دیتا ہے۔ ”خلا منه“ زائد ہو تو خلوا اپنے اصلی معنی پر قائم رہتا ہے۔ ”خلت من قبلہ الرسل“ عرف عام میں گو بعض لفظ موت کا معنی دیتے ہیں۔ مثلاً انتقال، صعود، وصال، رحلت وغیرہ مگر اصلی معنی کے رو سے کوئی بھی موت کا معنی نہیں دیتا۔ اس لئے اگر بعض جگہ خلو کا معنی موت مفہوم ہو تو اس سے یہ قاعدہ نہیں گھڑا جاسکتا کہ ہر جگہ موت ہی موت مراد ہوتی ہے۔ ”امۃ قد خلت“ کیونکہ قرآن مجید میں ایک لفظ کو عرف عام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور حقیقی معنی یا استعارہ یا مجاز یا عرف خاص کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مگر شناخت کے لئے چشم بصیرت کی سخت ضرورت ہے جو آج کل تعلیمات جدیدہ میں کم پائی جاتی ہے۔

۱۹..... خیر القرون کے بعد فح اعموج کا زمانہ بتایا جاتا ہے اور چودھویں صدی کو عہد مسیح سمجھ کر پھر خیر القرون کا عہد یقین کیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ حیات مسیح کا مسئلہ وسط زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی غلطی مدعی نبوت کے قلم سے صادر نہیں ہونی چاہئے تھی۔ کیونکہ پہلے تو یہی کہنا غلط اور بلا ثبوت ہے کہ خیر القرون میں حیات مسیح کا قول کسی نے نہیں کیا۔ حالانکہ مذاہب اربعہ خیر القرون یا اس کے متصل ہی مرتب ہوئے ہیں۔ جن میں حیات مسیح کا اصولی طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور قرآن وحدیث سے اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔

دوم..... یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ابن عربی ابن قیم اور ابن تیمیہ امام مالک اور ابن حزم وغیرہ وفات مسیح کے قائل تھے۔ کیونکہ اس کی تردید کا وہ حصہ اول کے باب اتہامات میں بالتشریح موجود ہے۔



سوم..... یہ بھی غلط ہے کہ ابن تیمیہ ابن قیم اور ابن عربی فسخ اعوج کے زماہ میں نہ تھے۔ حالانکہ یہ بزرگ ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔

چہارم..... یہ کہ جب اہل سنت کا اجماع پیش کیا جاتا ہے تو معتزلہ کا قول پیش کرنا صحیح نہ ہوگا۔ پنجم..... دیدہ و دانستہ کسی پر اتہام لگانا اخلاقی اور شرعی گناہ کبیرہ ہے جو مدعی نبوت

کے پاس بھی نہیں بھٹکنا چاہئے اور اگر سرسید کی تحریروں نے یا حاشیہ نشینوں کی خوشامدوں نے جناب کو دھوکہ میں ڈال دیا تھا تو مدعی نبوت کے لئے ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ حقائق اشیاء دریافت کرنے کے لئے اسے نور باطن کافی نہیں ملا تھا اور اگر خود ہی مطالعہ کی کثرت سے الٹا سمجھا تھا تو یہ بھی نقص ہوگا اور غالباً یہی کمی رہ گئی ہے۔ کیونکہ جب عہد شباب میں جناب نے قرآن و حدیث کا

مطالعہ شروع کیا تھا تو مشکل سے صحاح ستہ اور تصوف کی عام کتابیں دیکھ ڈالی ہوں گی۔ ورنہ مہدویت اور مسیحیت یا تبلیغ اسلام کی دھن میں آپ کو کب وسیع مطالعہ کی وسعت ملی ہوگی کہ کم از کم

ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تصانیف ہی مطالعہ کر لیتے۔ یا کم از کم علامہ ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ کی مشہور کتاب ”الجواب الصحیح لمن بدل قول المسیح“ جلد دوم ص ۲۸۲ مطبوعہ مصر ہی دیکھ

لیتے۔ تاکہ انہیں ان کا اپنا مسلک اور اسلام کا صحیح نقشہ نظر آجاتا۔ ”قال الامام وما قتلوه وما صلبوه . اضافة الى اليهود وذمهم عليه ولم يذكر النصارى لان الذين تولوا

صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن احد من النصارى شاهدا معهم بل كان الحواريون غائبين خائفين فلم يشهد احد منهم الصلب وانما شهده

اليهود وهم الذين اخبروا الناس انهم صلبوا المسيح والذين نقلوا ان المسيح صلب من النصارى وغيرهم انما نقلوه عن اولئك اليهود وهم شرط من اعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا يمتنع توالؤهم على الكذب . ليؤمنن به

قبل موته . معناه قبل موت المسيح قيل قبل موت اليهودى وهو ضعيف كما قيل قبل موت محمد وهو اضعف ولا نفعه ايمانه ..... وهذا يعم اليهود

والنصارى . فدل على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل ان يموت المسيح وذلك اذا نزل امنت اليهود والنصارى بانه

رسول الله ليس كاذبا كما يقول اليهود ولا هو الله كما يقول النصارى . والمحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابى يؤمن به قيل

موت الكتابى لانه خلاف الواقع . وارىد بالعموم عموم من كان موجود

احین نزولہ لا من کان میتامنہم لقولہ لا یبقی بلد الا دخلہ الدجال الامکة  
 والمدینة ای المدائن الموجودة حینئذ . فالله ذکر ایمانہم بہ اذا نزل الی  
 الارض فان الله تعالی ذکر رفعہ الیہ بقولہ انی متوفیک وهو ینزل الی  
 الارض قبل یوم القیمة ویموت حینئذ اخبر بایمانہم قبل موته . ما قتلوه  
 بیان ان الله رفعہ حیاء سلماء من القتل و بین انہم یؤمنون بہ قبل موته  
 وكذلك قوله تعالی ومطہزک ولومات لم یکن بینہ و بین غیرہ فرق و لفظ  
 التوفی معناه الاستیفا والقبض وذلك ثلاثة انواع احدھا توفی النوم والثانی  
 توفی الموت الثالث توفی الروح والبدن جمیعاً فانہ بذلك خرج عن حال  
 اهل الارض المحتاجین الی الاکل والشرب واللباس والبول والبراز  
 والمسیح توفاه الله وهو فی السماء الثانية الی ان ینزل الی الارض لیست  
 اهل السماء کاهل الارض“

۲۰..... جناب نے الزام دیا ہے کہ مسلمان قرآن کے خلاف چار طرح عقیدہ  
 رکھتے ہیں کہ مسیح موعود حقیقی نبی ختم الانبیاء ہے اور زندہ ہے اور انسان کا آسمان پر اتنی دیر زندہ رہنا  
 مانتے ہیں۔ حالانکہ زمین پر بھی کوئی شخص اتنی دیر زندہ نہیں رہا۔ جواب یہ ہے کہ مسیح کی نبوت پہلے  
 کی ہے بعد کی نہیں اور آپ کی حیات حافظ ابن تیمیہ نے قرآن سے ثابت کی ہے اور تیسری الارب  
 میں عوج کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد تک لکھی  
 ہے۔ (دیکھو لفظ عوج) اور یہ عذر کہ آسمان کا لفظ حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ  
 حدیث معراج میں آپ کی ملاقات آسمان ہی پر ہوئی تھی اور یہ حدیث مرفوع متصل بھی ہے اور  
 نزول الی الارض کا لفظ کئی احادیث میں موجود ہے جو رفع علی السماء کا مقتضی ہے۔ اس لئے یہ کہنا  
 بالکل غلط ہوگا کہ کسی موضوع حدیث میں بھی رفع جسمانی کا ذکر نہیں ہے اور بیس ہزار روپیہ کا انعام  
 صرف کہنے کو ہے دینے کے لئے نہیں۔ اب اگر اپنے وعدہ کا پاس ہے تو مرزائی اپنی تمام کتابیں  
 جلا دیں اور توبہ کریں۔ کاویہ جلد اول میں اور روایتیں بھی درج ہیں جن میں سماء کا لفظ موجود ہے۔

۲۱..... ”حملناہم فی البحر والبر“ کا مفہوم یہ نہیں کہ خدا ان کو اپنے  
 کاندھوں پر اٹھاتا ہے۔ بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سوار کر دیا ہے۔ مطلب خود نہیں  
 سمجھے استعارہ کی جھٹ سوجھ گئی کہ طالب علموں پر فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح مطلب یہ  
 ہے کہ وہ پر بچھاتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کا نزول صحیح معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب

نے جب خدا سے دستخط کرائے تھے تو قلم کی چھڑکی ہوئی سیاہی کی چھنٹیں کرتے پر نمودار ہو گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ الواح موسیٰ کی طرح غیر محسوس کو محسوس ہو گیا ہے۔ مگر اب فرشتوں کو کیوں محسوس نہیں سمجھا جاتا۔

۲۲..... یہ اپنی نادانی ہے کہ لوگوں کو نادان سمجھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ دھوکا دیتے ہیں کہ مسیح کو قتل اور صلیب سے چونکہ موت نہیں آئی۔ اس لئے وہ آسمان پر چلے گئے۔ کیا ان کو بچانے کے لئے زمین پر کوئی جگہ نہ تھی؟ جواب یہ ہے کہ رفع مسیح کا عقیدہ آپ کے پیش کردہ اصول پر مبنی نہیں ہے۔ بلکہ اہل اسلام کے پاس صاف لفظ موجود ہیں۔ ”انہ حسی، ان عیسیٰ لم یمت انہ راجع الیکم“ اپنی کمزوری دوسروں کے سر تھوپنی اچھی نہیں اور یہ جملہ خدا کی قدرت پر ہوگا کہ حضور ﷺ کو توغار میں پناہ دی اور مسیح کو آسمان پر۔ کیا خدا تعالیٰ نے طریق نجات صرف ایک ہی رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غرق ہونے سے نجات دی تو پانی پھاڑ دیا۔ نوح علیہ السلام کو بچایا تو کشتی تیار کروائی اور لوط علیہ السلام کو بچایا تو ہجرت کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تو آگ سرد کر دی۔ اب بھی کہتے کہ ہماری منشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔

۲۳..... تورات میں مصلوب کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ مصلوب صلیب پر مر بھی گیا ہو اور جناب بھی مانتے ہیں کہ مصلوب زندہ رہ سکتا ہے۔ مولوی چراغ علی نے بھی اپنی کتاب واقعہ صلیب میں کئی واقعات لکھے ہیں کہ مصلوب زندہ رہ سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر عیسائیوں نے تین دن کے لئے بقول جناب مسیح کو ملعون کر دیا تھا تو آپ نے بھی کچھ کی نہیں کی۔ آپ بھی تو تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام مصلوب ہوا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہ معاذ اللہ ملعون ہوا اور ۸۷ برس لعنتی حالت میں رہ کر کشمیر میں جا مرا۔ اس لئے اسلام کی نظر میں یہودی عیسائی اور مرزائی تینوں فرقے مسیح کو مصلوب مان کر ملعون قرار دیتے ہیں۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ یہودی آپ کو صلیب پر زندہ نہیں لاسکے۔ ”ماصلبوه“ اور نہ ہی قتل کر کے صلیب پر کھینچ سکے۔ ”ماقتلوه“ بلکہ ایک دوسرے شخص کو آپ کی بجائے صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ ”شبهہ لهم“ اس کی زیادہ تشریح نمبر ۱۹ میں دیکھو۔ افسوس ہے کہ جس کنویں میں گرنے کا الزام اہل کتاب کو دیا جاتا ہے۔ اس میں خود گر رہے ہیں اور اپنی بے بنیاد تحقیق پر اس قدر غرہ ہو رہے ہیں کہ دوسروں کو نادان، کم فہم، جاہل اور عقل کے دشمن سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنی کمزوری ہے کہ مسیح کو لعن سے بھی نہیں بچا سکے۔

۲۴..... رفع روحانی کی بحث ہجرت کشمیر کے نظریہ میں گذر چکی ہے کہ رفع روحانی

زیر بحث نہ تھی۔ بلکہ صلیب پر کھینچا جانا زیر بحث تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان کو صلیب دے دیا ہے۔ اس لئے وہ لعنت میں آگئے ہیں۔ عیسائیوں اور مرزائیوں نے یہ سمجھا کہ صلیب پر مرنا یا مرے رہنا بھی لعنت کے لئے شرط ہے۔ اس لئے انہوں نے آپ کی زندگی بعد میں از سر نو ثابت کی۔ مگر قرآن شریف نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ آپ صلیب پر کھینچے ہی نہیں گئے تھے تو لعنت کیسی؟ اب انا جیل اربعہ یا تحقیق سرسید کی تائید میں صلیب مان کر پھر زندگی کا قول کرنا اور صلب کا معنی صلیب پر مرنا مراد لینا قرآن میں تحریف ہوگی۔ جس کا ثبوت اسلام اور انجیل برنباس میں نہیں ملتا۔ جو یعنی شہادت پر مشتمل ہے۔ برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی کوئی عینی شہادت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہودیوں سے سن کر یہ واقعہ لکھا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے ثابت کر دیا ہے۔

۲۵..... رفع روحانی ہر ایک راست باز کا ہوتا ہے اور موت بھی ضروری ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ مسیح کو انی رافعک میں رفع روحانی اور موت کا وعدہ دیا گیا تھا۔ کیونکہ وعدہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ فی الحال موجود نہ ہو اور آئندہ حاصل ہو۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ مسیح کو ان دونوں میں شک تھا۔ اس لئے خدا نے آپ کی تسلی کر دی تھی۔ تو اس آیت کا صحیح ترجمہ رفع جسمانی اور تونی جسمانی سے ہی کرنا پڑے گا۔ تاکہ وعدہ اپنے صحیح معنوں میں پورا ہو اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن شریف میں ہر جگہ رفع بمعنی اعزاز اور رفع روحانی ہوتا ہے۔ مانا کہ ایک دو جگہ ہو مگر رفعنا لک ذکرک میں ذکر کی روح کہاں سے لائیں گے۔ رفعنا فوقم الطور میں کوہ طور کی روح کو مرفوع کیسے مانیں گے اور رفع ابویہ علی العرش کیسے مانا جائے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی رو جس تخت پر بٹھائی تھیں۔ اس لئے قادیانی تعلیم کا یہ اصول غلط ہے کہ ایک جگہ اگر کوئی محاورہ آجائے تو سارے قرآن میں وہی برتا جاتا ہے۔ خود تونی کا لفظ جو اپنی اصلیت کی رو سے موت پر دلالت نہیں کرتا کبھی تونی بالموت کے مقام موت کا معنی دیتا ہے اور کبھی تونی بالنوم کے موقع پر صرف تونی نفس کا معنی دیتا ہے اور جب رفع کے ساتھ مل کر آتا ہے تو تونی جسمانی مع رفع جسمانی کا معنی دیتا ہے۔ یقین کا لفظ لہجے سورۃ نکات میں یقین علم کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور حتیٰ یا تیک الیقین میں موت کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح دلۃ الارض سے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں دیک مراد ہے اور یا جوج ماجوج کے واقعات میں ایک خاص معجز نما پرند مراد ہے اور ماسن دلۃ میں تمام جاندار اشیاء مراد ہیں۔ اس لئے جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اس موقع پر جناب کو معذور سمجھیں۔

.....۲۶..... نیچریوں کی خوشامد میں خلاف قرآن واقعات میں تبدیلی پیدا کرنا راست بازوں کا کام نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ خردجال سے مراد ریل گاڑی ہے تو وہ پھر تمسخر اڑائیں گے کہ یہ تو مسیح قادیانی کی پیدائش سے پہلے ہی موجود تھی۔ تو نزول مسیح سے اس کا کیا تعلق ہوا اور خود ہی اس پر سوار ہوتے تھے تو دجال کے لئے کیوں مخصوص رہی۔ دجال اگر مشنری اور مشین ساز انگریز ہیں تو ان کا داخلہ قادیان میں کیوں جائز رکھا گیا۔ کیونکہ اس کو جناب نے مکہ لکھا ہے اور اب مرید مدینہ المسیح کا مصداق لاہور اور قادیان دونوں کو قرار دیتے ہیں تو پھر مستری اور مشنری کیوں وہاں داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ امر مسلم بن الفریقین ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ وہ مسیح ہی کیا ہوا کہ مکہ مدینہ سے دجال کو بھی نہیں روک سکا اور اگر کہا جائے کہ یہ سب فرضی اور اعزازی نام ہیں تو سارا بھروپ ہی کھل جاتا ہے کہ نبوت بروزی سے بھی مراد صرف فرضی نبوت ہوگی۔ مگر ہمیں تعجب ہے کہ اسلام میں دجال ایک خاصی ہستی کا اسم علم معلوم ہوتا ہے اور جناب نے نیچریوں کو خوش کرنے کی خاطر دو جماعتوں کا نام کیوں رکھ دیا اور پھر یہ کیوں کہہ دیا کہ دجال اسم جمع ہے۔ کیا وہ اتنے ہی عربی زبان سے نا آشنا ہیں کہ جناب کی طمع سازی پر مطلع نہیں ہوں گے۔ ورنہ صاف کسی لغت کا حوالہ دیا جاتا کہ دجال اسم جمع ہے۔ یا دو جماعتوں (مشنریوں اور مستریوں) نام ہے۔ ورنہ یوں سمجھا جائے گا کہ دجال کی وجہ تسمیہ میں جو محاورات کتب لغت میں پیش کئے گئے ہیں۔ جناب نے غلطی سے ان کو ہی اس لفظ میں موضوع سمجھ لیا تھا۔ غالباً اگر جناب کے پیرو نظر ثانی کرتے تو ضرور جناب کے خلاف اپنی رائے تبدیل کر لیتے۔ لیکن بد قسمتی سے تابعداروں نے اس غلط تحقیق کو الہامی تحقیق سمجھ کر لغوی استناد کو فضول سمجھا ہوا ہے اور اس قدر غرہ ہو گئے ہیں کہ اپنے تمام مخالفین کو بھی دجال کا لقب دیتے ہوئے ایسے بدنام ہوئے کہ خود بھی اس لفظ کا مصداق سمجھے جانے لگے اور بے جا تحریف کی وجہ سے اپنے شیخ کو بھی اس لفظ سے نہ بچا سکے اور تاویل کی مجبوری پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر دجال کے متعلق تاویل و تحریف نہ کی جائے تو دجال کو دو متضاد دعادی کا مدعی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا بھی ہے اور نبی بھی۔ مگر جناب ہی بتائیں کہ آپ نے یہ دونوں متضاد دعوے کیوں جمع کر لئے تھے کہ میں نبی بھی ہوں اور ایک دفعہ خدا بھی بن گیا تھا؟ تو ممکن ہے کہ وہ دجال بھی نبی بن کر اپنے مکاشفات کے رو سے خدائی دعویٰ کرے گا یا بڑا مستری یا مشنری بن کر عجیب عجیب کرتب دکھائے گا۔ جو اہل یورپ کو بھی دنگ کر دیں گے۔ کیونکہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور ایسے ناممکن امور ممکن ہو رہے ہیں کہ بقول جناب وہ خدائی کام سمجھے جاتے ہیں۔

۲۷..... مسیح ایرانی کے وقت سے مادی ترقیات کا ظہور ہوا ہے۔ اس لئے ریل گاڑی اخبارات مطبع وغیرہ تمام ایجادات کو مخصوص طور پر صرف جناب کی صداقت کا معیار ٹھہرانا صحیح نہ ہوگا اور تقریبی حساب سے یوں کہنا بھی صحیح نہیں کہ حضور ﷺ مثیل موسیٰ تھے اور میں مثیل عیسیٰ ہوں کہ چودھویں صدی میں ظاہر ہوا ہوں۔ کیونکہ پہلے تو اس تقریبی حساب سے مسیح ایرانی بھی مسیحیت کا حقدار ثابت ہوتا ہے۔ دوم حضور ﷺ کو مثیل موسیٰ علیہ السلام قرار دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب کی طرح حضور ﷺ بھی بروزی رنگ میں ظلی نبی تھے۔ جو صرف غلط ہی نہیں بلکہ حضور ﷺ پر ایک سخت حملہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت ثابت کرنے پر جناب نے دوسروں کی شخصیت کو قربان کر دیا تھا۔ سوم یہ بھی غلط ہے کہ مثیل مسیح لیا سلتھو کے ماتحت حضور ﷺ کی ذات مبارک کا رجعت کے طور پر بعثت ثانیہ کا مصداق ہے۔ کیونکہ شیعہ مذہب کے سوا اہل سنت کی کسی جماعت نے رجعت یا تاسخ کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ جناب کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھر غضب یہ کیا ہے کہ الوصیت میں پھر اپنی رجعت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں قدرت ثانیہ ہو کر ظاہر ہونے کو ہوں گا تو جناب کے بعد جب مریدوں نے قدرت ثانیہ بننے میں اپنے اپنے دلائل پیش کئے تو چونکہ خلیفہ محمود گدی نشین ہو چکے تھے اور اپنے باپ سے ”کان اللہ نزل من السماء“ کا خطاب پا کر میدان جیت چکے تھے۔ اس لئے محرم سعید سمہو یالی، ظہیر گوجرانولہ، یار محمد ہوشیار پوری اور فضل احمد چنگا لوی وغیرہ قیل ہو گئے اور احمد نور کاہلی کا بھی بس نہ چلا۔ بہر حال اس بروز اور رجعت نے ایسا فتنہ برپا کیا ہوا ہے کہ جا بجا نبوت کا نرخ دھیلے کی بڑھیا سے بھی زیادہ ستا ہور ہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ فتنہ فتنہ ارتداد سے بھی بڑھ کر اسلام کے لئے ضرر رساں ہے۔

۲۸..... رسالہ (کلام الرحمن ص ۱۱۲) دید ہے نہ قرآن میں بھکشو لکھنوی آریہ نے اپنے رشیوں کی بودوباش کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تبت میں چار رشی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے تھے اور خدا نے اپنا روپ ان میں لیا تھا تو انہوں نے چاروں وید شائع کئے تو پھر غائب ہو گئے۔ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے وہ چار رشی کتنی دفعہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ انقلاب زمانہ کے باعث جب وید کی تعلیم پر پابندی کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت ظاہر ہو کر ویدوں کی تجدید کرتے ہیں اور ان کا مفہوم جدید پیش کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دیا نند جیسے راست باز بھی تجدید وید کے اعزاز سے ممتاز ہوتے ہیں اور از سر نو ویدوں کے معانی قائم کرتے ہیں۔ جناب بھی دیا نند کے ہم عصر تھے اور ہمیشہ اس سے برسر پیکار رہے ہیں۔ غالباً اس کے مقابلہ

میں آپ نے بھی یہ افسانہ تیار کیا ہوگا کہ نبوت محمدیہ بھی ضرورت زمانہ کے مطابق قرآنی مفاہیم کا روشن پہلو دکھانے کے لئے مجددین کی صورت میں بار بار ظاہر ہوا کرتی ہے اور اس کی تائید میں لما بلحقوا اور حدیث مجددین کو پیش کرنے کی سوجھی ہوگی اور آسمانی نشانات کے اظہار کے ساتھ دیانند کو خوب حیران کر دیا ہوگا۔ ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک معمولی تعلیم یافتہ مولوی کہ جس نے قرآن وحدیث کی باقاعدہ تعلیم بھی نہ پائی ہو اور اس کو علوم قرآنیہ میں خود بھی دسترس حاصل نہ ہو اور نہ ہی یہ معلوم کیا ہو کہ علمائے اسلام نے قرآن وحدیث کی خدمت میں کیا کیا قلمی لڑائیاں کی ہیں۔ جن سے ناپاک ہستیاں اب تک نالاں ہیں۔ کیسے جرات کر سکتا ہے کہ مبلغ اسلام بن کر ترقی کرتے ہوئے مہدی، مسیح، کرشن اور خدا بن جائے تو اگر یہ سب کارروائی سب نقلی تھی تو نقل راہم عقل باید کے بموجب اس پر اصرار نہیں کرنا چاہئے تھا اور اگر دیدہ و دانستہ کسی کے مقابلہ پر یہ طریق اختیار نہیں کیا تھا تو سخت افسوس ہے کہ لما لحقوا کو اسی مفہوم پر کیوں نہ رہنے دیا۔ جس پر کہ آج تک قرآنی مفہوم قائم تھا کہ حضور ﷺ اپنے زمانہ میں بھی دنیا کے لئے مبعوث تھے اور آئندہ کے لئے بھی قیامت تک باقی نسلوں کے واسطے مبعوث سمجھے گئے ہیں اور یہ معنی غلط نہ تھا۔ کیونکہ دوسرے انبیاء بھی اپنی اپنی وسعت بعثت کے مطابق آئندہ نسلوں کے لئے بھی مبعوث سمجھے گئے تھے اور ان میں یہ ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ کچھ مدت کے بعد کوئی ان کا بروز پیدا ہو۔ مگر تعجب یہ ہے کہ ایک غلط راستہ پر خود چل کر دوسروں کی کجھیل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا صحیح مفہوم جناب پر ہی مکشوف ہوا ہے اور اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اگر بروز محمدی حق تھا تو خلافت راشدہ کو ہی بروز محمدی تسلیم کیا جاتا اور بعد میں جب فح العوج کا عہد آیا تھا تو ضرورت زمانہ کو ملحوظ رکھ کر اسی وقت ہی بروز محمدی کا ظہور ہوتا۔ کیا خدا تعالیٰ کو ترس نہ آیا کہ امت محمدیہ تو وسط زمانہ میں گمراہ ہو رہی ہو اور بروز محمدی کو روک دیا جائے اور جب اچھی طرح ستیا ناس ہو گیا اور بقول جناب رشد و ہدایت کا زمانہ آیا تو خدا کو بھی بروز محمدی کی سوجھی۔ کیا یہی انصاف ہے جو مرزائی تعلیم پیش کر رہی ہے۔ دوسروں کو کھول کر نا ہی آسان ہے۔ اپنی کمزوری کو کمزوری ہی نہیں سمجھا جاتا۔

۲۹..... کہا جاتا ہے کہ جناب نے کسر صلیب کی اور قلمی جنگ کے ذریعہ عیسائی مذہب کے تمام اصول توڑ ڈالے۔ مگر اہل دانش کے نزدیک یہ نعرہ نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ صرف ان لوگوں کے سامنے یہ آواز کسی جاسکتی ہے کہ جنہوں نے اسلامی واقعات اور اسلامی لٹریچر کو براہ راست نہیں دیکھا اور اگر دیکھا ہے تو انگریزی لٹریچر یا قادیانی تعلیم کے زیر اثر ہو کر دیکھا ہے۔ ورنہ اگر محض بالطنج ہو کر دیکھتے تو علامہ ابن قیم اور حافظ ابن تیمیہ کی تصانیف ہی کسر صلیب میں وہ

منظر دکھائیں کہ براہین احمدیہ کی کوئی ہستی باقی نہ رہتی۔ ان کے بعد القول الفصح نوید جاوید، اظہار حق کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ جناب ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہ تھے۔ بعد میں اگر مولانا محمد قاسم مرحوم کے تصانیف پر نظر ڈالتے تو صاف بول اٹھتے کہ واقعی کس صلیب میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج چشم بصیرت بند کر کے جناب کے غلط سلط اور طعن آمیز مضامین کو سمجھا جاتا ہے اور یقین دلایا جاتا ہے کہ بس کس صلیب ان سے ہی ہوئی ہے۔ اس سے پیشتر نہیں حالانکہ زرا جھوٹ ہے اور صاف پردہ پوشی ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو گھڑے کا مینڈک بنایا جا رہا ہے۔

۳۰..... ابطال کفارہ کی دلیل جناب نے یوں دی ہے کہ مسیح کا جسم ناپاک بھی جہنم میں جانا چاہئے تھا۔ مگر وہ نہیں مانتے تھے اس لئے ان کا عقیدہ معقول نہیں ہے۔ مگر جناب بھی تو موجودہ جسم کے قائل نہیں کہ یہی بعینہ دوسری دنیا میں موجود ہوگا۔ بلکہ آپ کا بھی تو مذہب یوں ہے کہ یہ جسم فنا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا جسم روح کو ملتا ہے۔ جس میں وہ ساکن ہو کر دوزخ یا جنت میں جاتا ہے تو حضرت مسیح کی روح بھی جب اس جسم عنصری کو چھوڑ چکی تھی تو اس کو بھی ایک جسم کا دوسرا جسم مل گیا ہوگا۔ جس کی وجہ سے اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہا۔ اس لئے جناب سے کس صلیب نہ ہوئی۔

۳۱..... اگر دجال اور مسیح کے ماننے سے اگر شرک کی بنیاد پڑتی ہے یا ختم نبوت کا مسئلہ مخدوش ہو جاتا ہے اور ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو جناب کی تعلیم سے بھی تو شرک کی بنیاد پڑ گئی ہے کہ خلیفہ محمود کسان اللہ نزل من السماء“ بن گئے اور آپ اپنے مکاشفہ میں خدا کے اندر ایسے جذب ہو گئے کہ آپ کا نام و نشان تک نہ رہا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھ میں بروز نبوت محمدی ہوا ہے اور جب یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ مخدوش ہوا جاتا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں خود محمد ہوں اور نبوت محمدی، محمد کے پاس ہی رہی۔ مگر اس تاویل کو کون عقل کا دشمن مان سکتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ آپ محمد ہیں مگر محمد ثانی ہوں گے اول نہیں ہو سکتے۔ بہر حال یا تاریخ مان کر ایمان کمزور کرنا پڑے گا اور یا مسئلہ ختم نبوت پر ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ اس لئے اگر جناب کے پہلے اسلام میں نقائص تھے تو آپ کے آنے پر اسی قسم کے اور نقائص پیدا ہو گئے ہیں۔

۳۲..... تصدیق قرآنی و عقلی و آسمانی کو اپنا معیار صداقت قرار دیا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک کسوف و خسوف اگر صحیح طور پر ہوا تھا تو صرف آپ کے لئے نہ تھا۔ بلکہ بہائی مذہب بھی اس میں شریک کار ہے۔ عقلی دلائل بھی دیکھ لئے ہیں جو صرف اپنے ملفوظات پر ہی مبنی ہیں اور قرآنی



دلائل سے بھی جناب کا مبلغ علم معلوم ہو چکا ہے۔ بہر حال قادیانی تعلیم اپنے ہی پیش کردہ تین اصول سے بھی ناقابل التفات ہے۔

۳۳..... حدیث حلیہ سے جناب نے دو مسجح ثابت کر دیئے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا تھا اور دوسرا گندم گوں۔ مگر یعنی شہادت اور نوٹو بتا رہا ہے کہ جناب کا رنگ تو بالکل سفید تھا۔ اس لئے نہ آپ گندی مسجح تھے نہ سرخ مسجح بلکہ سفید مسجح تھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب ”مسجح ہندوستان میں“ کے آخری باب میں لکھ چکے ہیں کہ مسجح کو گورا مینا یعنی سفید رنگ لکھتے تھے تو اس حساب سے چار مسجح بنتے ہیں۔ دو گورے سوم سرخ اور چوتھا گندم گوں اور اگر جناب مسجح ناصری کو سفید اور سرخ مخلوط اللون ثابت کریں گے تو اہل اسلام بھی مسجح کا رنگ سرخ گندی بتادیں گے۔ جو عام طور پر خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال یہ تحقیق بھی مشکوک ہے۔

۳۴..... یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ چودھویں صدی کے مجدد کو حضور ﷺ نے مسجح کہا ہے۔ ہاں جناب نے یہ افسانہ ضرور گھڑ لیا ہے کہ شخص واحد چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہوگا اور ظہور مہدی ساتویں ہزار میں لکھا ہے اور مسجح کے سوا اور کوئی مہدی نہیں۔ اس لئے جب میں مجدد ہوا تو محدث اور مسجح بھی بن گیا تو اخیر میں مہدی اور نبی اللہ بن کر خدا میں جذب ہو گیا اور پھر انسان کا انسان۔ اہل اسلام اسی طرح کی افسانہ طرازی کو تحریف اور دخل کہا کرتے ہیں۔ ورنہ اسلام کی مسلسل تعلیم اس معجون مرکب کی تصدیق نہیں کرتی۔ نہ عقل مانتی ہے کہ ایک ہی شخص لائڈ جارج اور لارڈ کرزن کہلانے لگ جائے اور نہ ہی کوئی آسمانی نشان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ایسے غیر معقول امور کا ارتکاب جائز سمجھیں اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ظہور مہدی سے عدل و انصاف پھیلے گا اور آپ بھی مانتے ہیں کہ فسق و فجور کے وقت اس کا ظہور ہوگا تو جب اس کے وجود سے دنیا کی اصلاح نہ ہوئی۔ فسق و فجور نہ معاشراتی اور بد معاشی کی روز افزوں ترقی میں فرق نہ آیا۔ بلکہ خود اپنے موضع قادیان سے بھی اس کے زہریلے اثر کو دور نہ کر سکا۔ تو بھلا آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ کے مہدی بننے سے دینائے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟

۳۵..... الہامات براہین میں جناب نے اپنے چند نام بتائے ہیں۔ ولی، نجی، اشجع،

احمد مرفوع، حبیب اللہ، ابناء فارس، صادق القدم، تالی وجیہ، منادی، داعی، سراج منیر اور اخیر میں حکم دیا ہے کہ املوا (نوٹ کر لو) اگر یہ الہامی لفظ ہیں تو سامعین بتائے جائیں کہ کس کے تھے اور اگر یہ جناب کے اپنے لفظ ہیں تو جب آپ نے درج کتاب کر لئے ہیں تو دوسروں سے یوں کہنا بے فائدہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ خدا نے جناب سے نوٹ کر لینے کی ہدایت کی ہوگی۔ لیکن اس وقت یہ

امر مشتبہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث النفس ہے یا الہام۔ کیونکہ ایسا حکم کسی گذشتہ الہام میں نہیں پایا گیا۔ جو انبیاء علیہم السلام کو ہوئے ہیں کہ: ”املوا“ یہ کیسا کر یہ لفظ ہے۔ بہر حال اس قسم کے الہامات اور اس قسم کے کشوف محویت اگر صرف عیسائیوں کو لا جواب کرنے کے لئے لکھے ہیں تو دبی زبان سے گویا یہ اقرار ہے کہ ہم نے خود گھڑ لئے ہیں۔ ورنہ ان کی کچھ اصلیب نہیں اور اگر ان میں کچھ واقعیت بھی ہے تو نزول مسیح یا حیات مسیح سے جو شرک لازم آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر موجب شرک ثابت ہو رہے ہیں اور جو کچھ اس قسم کے الفاظ مسلمانوں یا حضور ﷺ کے متعلق پیش کئے ان میں اس قسم کی محویت درج نہیں ہے۔ بلکہ ان میں یہ شان دکھائی گئی ہے کہ جو کارہائے نمایاں اہل اسلام سے یا خود حضور ﷺ سے ثابت ہوئے تھے۔ وہ سب خدائی تائید سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے الہامات کو اسلامی وحی پر قیاس کرنا بالکل بے جا ہوگا اور بالخصوص جب کہ کشوف محویت کا ثبوت عہد رسالت میں نہیں ملتا تو وہ سب خود ستائی پر محمول ہوں گے۔ یا ان صوفیوں کے کشوف میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطیحات میں درج کر کے ناقابل التفات قرار دیا ہوا ہے۔

۳۶..... کتاب البریہ کا مقدمہ کتاب لکھتے ہوئے جناب نے مقدمہ کی کیفیت لکھ دی ہے اور کتاب کے باقی باب یا فصلوں کی کوئی تفصیل نہیں دکھائی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب پر نسیان غالب تھا۔ اس قسم کی غلطی جناب نے ایک اور رسالہ میں بھی کی ہے کہ جس میں ارتقاء انسانی کی دو قسمیں بتائی ہیں اور قسم اول میں ایک فحش منظر دکھا کر دوسری قسم کا نام تک نہیں لیا اور وہ فحش تشبیہ غالباً جناب نے کتاب اقدس سے حاصل کی ہوگی۔ جو ”ورقہ نوراء“ کے عنوان سے لکھی گئی تھی۔ ”براہین احمدیہ“ دیکھئے تو اور بھی تعجب آتا ہے کہ باب اول ہے تو باب دوم نہیں۔ اگر فصل اول کا عنوان دیا ہے تو فصل دوم ندارد اور جب ایسا نسیان تھا اور الہام بھی بھول جاتے تھے تو بتائیے باقی امور میں کس قدر بے اعتمادی ہوگی۔

۳۷..... ڈاکٹر کلارک کے حالات لکھتے ہوئے مولوی محمد حسین بٹالوی کی سخت توہین کی ہے اور کلارک پر بھی بہت حملے کئے ہیں۔ مگر افسوس کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی اندازی پیشین گوئی نہیں کی۔ شاید گورنمنٹ نے اجازت نہ دی ہوگی یا ان لوگوں نے منظوری نہ دی تھی۔ بہر حال یہ رنگ بالکل زالا ہے کہ پیشین گوئیوں کا اجراء بھی مجسٹریٹ اور فریق مخالف کے قبضہ میں ہو۔ اس سے تو شیرازی نبوت ہی طاقتور نکلی کہ جس نے سلطان طہران کو بغیر منظوری کے ہلاک کر دیا تھا اور جو کچھ مقدمہ سے بری ہونے کے متعلق لکھا ہے وہ بھی تصنع اور تعریف نفس پر شامل ہے۔

یا کسی ایسی طاقت کا اظہار ہے جو اندر ہی اندر کا کام کر رہی تھی۔ ورنہ عدالت میں کرسی ملنے یا نہ ملنے پر اظہار ملال یا اظہار خدانمائی کا کوئی معنی نہ تھا۔

۳۸..... اپنی پیشین گوئیوں کی تکمیل کے لئے کئی عذر کئے ہیں کہ خدا مجبور نہ تھا۔ یا وہ مختصر تھیں، مشروط تھیں، تخلف و عید جائز ہوتا ہے یا فریق مخالف خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مگر گزارش یہ ہے کہ جس قدر جناب کی پیشین گوئیوں میں زور دار اور معیار صداقت الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے۔ کسی نبی کی پیشین گوئی میں نہیں۔ خود یونس علیہ السلام کے لفظ بالکل سادہ ہیں اور وہ اپنی صداقت کا معیار نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی فریق مخالف سے یا اس وقت کی حکومت سے منظوری لے کر ان کا اجراء ہوا تھا۔ بلکہ شروع سے ہی خدا کی مرضی پر منحصر کر دیا گیا تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشین گوئی کو اپنا اشتہار بنانا خاص جناب کے لئے ہی مخصوص تھا۔ فتح مکہ کی پیشین گوئی انشاء اللہ پر شامل تھی۔ مگر جناب کی کسی پیشین گوئی میں یہ شان نظر نہیں آتی۔ اس لئے تمام پیشین گوئیاں مشتبہ ہو چکی ہیں۔ اس سے تو بڑھ کر باب اور بہاء کی پیشین گوئیاں تھیں کہ فی الفور پوری ہو گئی تھیں۔

۳۹..... سات وجوہ سے مسیح کے ساتھ مماثلت جس تکلف سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کی حقیقت سب پر عیاں ہے۔ ورنہ ابتدا ہی غلط ہے۔ کیونکہ مسیح پر قتل کا الزام عائد نہ تھا اور نہ ہی جناب کو تین روز کے لئے صلیب پر کھینچ کر کشمیر بھیجا گیا تھا اور نہ ہی دوڑا کو آپ کے ہمراہ سزایاب ہوئے تھے اور عدالت کا باخبر ہونا یا کاغذات کا گم ہو جانا کوئی کرامت نہ تھی۔ بلکہ وہ اندرونی طاقت تھی کہ جس کا اظہار بارہا جناب نے کئی کتابوں میں کر دیا ہوا ہے۔

۴۰..... عیسائیوں کے مقابلہ پر یہودیوں کی طرف سے تین اصول پیش کئے ہیں۔ مسلسل تعلیم کی تصدیق۔ عقل کی تصدیق اور آسمانی شہادت۔ مگر قادیانی تعلیم بھی انہی تین اصول سے ناقابل عمل ثابت ہو رہی ہے۔ ورنہ آپ دکھائیں کہ اسلامی تعلیم میں کہاں پر بعثت ثانیہ کا ذکر ہے۔ کس نے لکھا ہے کہ مہدی اور مسیح موعود ایک ہیں اور دجال ایک جماعت کا نام ہے۔ جس کے دو حصے فلاسفر اور پادری ہیں۔ خدا کو حاضر و ناظر یقین کر کے یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت میں سے کس نے حیات مسیح سے انکار کیا ہے۔ یا کس نے یہ جائز رکھا ہے کہ غیر کے کلام کو قطع و برید کر کے خود اس کی اپنی ذاتی رائے کے خلاف اتہام باندھنا بھی جائز ہے۔ یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی توہین کر کے اپنا تقدس بڑھایا جائے۔ یہ کس اسلام میں ہے کہ مدعی تقدس اپنے مخالفین کو چوہڑوں اور جمیاروں کی طرح فحش گالیاں دے کر مشتہر کرے۔ یا کس نے فتویٰ دیا ہے کہ الہام اور کشوف ایسے بھی گھرے جائیں کہ جن کی نظیر ہمارے آقا جناب رسالت مآب ﷺ

کے الہامات و کشف میں نہ ملتی ہو۔ بلکہ فحش منظر اور شرکیہ یا حلوئیہ تصویر پیش کرتے ہوں۔ اسلام میں کون سا الہام ہے کہ جس میں یہ بیان ہو کہ بجائے اس کے کہ خدا انسان میں جذب ہوتا ہوا دکھایا جائے۔ الٹا انسان کو خدا میں جذب اور فنا ہوتا ہوا پیش کیا گیا ہو۔ کس اسلام نے آپ کو بتایا ہے کہ مسیح کی قبر کشمیر میں ہے؟ اور کس اسلامی اصول سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت محمدیہ سدا گلاب کی طرح ہمیشہ پھول دیتی رہی۔ مگر نبوت کا پھول اس نے صرف چودھویں صدی میں ہی دیا تھا اور آئندہ کے لئے قدرت ثانیہ کے پھول دیا کرے گی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے وہ معانی گھڑ لینے بھی جائز ہیں کہ جن سے اسلامی اصول اور اسلامی مسلمات کی بیخ و بنیاد اکھاڑنے پر حمل کیا جاتا ہو۔ آپ کس دلیل سے کہتے ہیں کہ ظہور مہدی اور نزول مسیح کا مقام قادیان ہے اور کسی اسلامی تصریح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بروز اور رجعت کو یا تاسخ اور حلول کو اسلام میں جائز الوقوع سمجھا گیا ہے۔ منقولی طور پر ان کی سند پیش کرنے پر آپ کی تعلیمات قابل توجہ ہو سکتی ہیں۔ ورنہ عیسائیوں کی طرح آپ کی مسکئی جماعت بھی قعر ضلالت میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب عقلی دلائل کی رو سے تعلیم قادیانیہ یوں مخدوش ہے کہ ایسے الہام منوائے جاتے ہیں کہ جن میں خدا کی سیاسی رنگت بھی نمودار ہوتی ہو۔ مگر الواح موسیٰ کی طرح وہ تحریر ابھی تک محسوس نہ ہو کہ جس پر خدا کے دستخط کرائے گئے تھے؟ ہجرت کشمیر کا نظریہ ایسا بے بنیاد ہے کہ اس کی تائید بچ پوچھو تو کسی تاریخ سے اور کسی مذہب سے نہیں ملتی۔ سوائے اس کے کہ الہام سے ثابت ہو۔ واقع میں کوئی دلیل نہیں وہ زمین و آسمان کہاں ہیں جو مرزا قادیانی نے بنائے تھے اور وہ انسان کہاں رہتا ہے جو اس نئی دنیا میں رہنے کو گھڑا تھا۔ یہ کب قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عورت بن کر بچہ جننے تو پھر وہ بچہ خود ہی ہو۔ حیض کو کس خدا رسیدہ نے اپنے اوصاف میں درج کیا ہے؟ کسی نبی نے کہا ہے کہ میں خدا کی توحید و تفرید کی بجائے ہوں۔ بہر حال اس طرح کے نقائص کئی ایک مقامات میں موجود ہیں۔ جس کا جواب سوائے مشابہات منوانے کے کچھ نہیں دیا جاتا۔ اب آسمانی نشانات بھی سن لیجئے۔ نمایاں طور پر کوئی نشان پیدا نہیں ہوا۔ جناب کے مخالف متعدد تھے۔ جن میں سے جو مر گئے ہیں۔ ان کے متعلق پیشین گوئیوں کے بنڈل بھی کھول دیئے ہوئے ہیں اور جو ابھی تک زندہ ہیں اور خوشحال ہیں ان کے متعلق ایسی سربستی اور خاموشی ہے کہ ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ طاعون منگوائی تھی منکروں کے لئے تو خود قادیان میں بھی آگئی۔ اس میں کوئی مخالف نہیں مرا۔ مرے بھی تو وہ غریب جن کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ مرزا قادیانی کون تھے؟ زلزلے آئے تو پھر کسی تشدد اور مخالف کو تکلیف نہ پہنچی۔ غرق ہوئے تو وہ بچارے جو کانگریزے اور مظفر پور میں رہتے تھے

اور جنہوں نے مخالفت کجا نام بھی جناب کا نہیں سنا تھا۔ کسوف و خسوف بھی رمضان شریف میں عادت الہی کے مطابق ہوا۔ حالانکہ حدیث میں مذکور ہے کہ ایسا واقعہ ابتدائے آفرینش سے وقوع پذیر نہیں ہوا۔ غرضیکہ اس تعلیم کا یہ پہلو بھی عیسائی تعلیم کی طرح کمزور ہے۔

۴۱..... عیسائیت پر جناب نے کئی ایک اعتراضات جڑ دیئے ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کفارہ اگر صحیح تھا تو اب گناہ کیوں کئے جاتے ہیں یا وہ کیوں موجود ہیں اور یہ کہ اس وقت عیسائیت میں خدا نمائی موجود نہیں رہی۔ مگر یہ نہیں سوچا کہ کفارہ صرف اس شخص کے لئے ہے جو مسیحیت قبول کرتا ہے نہ کہ ساری دنیا کے لئے اور اس قسم کا مفہوم بھی کہیں اس کفارہ یا قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو اسلام میں بھی موجود ہے۔ اس لئے کس صلیب کی ذمہ داری سے آپ عہدہ برآ نہیں ہو سکے۔ باقی رہا خدا نمائی کا معاملہ سو وہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ نہ تو خدا نے آپ کو اتنی علمی طاقت بخشی تھی کہ جس سے آپ صحیح مطالب کو پہنچ سکے۔ یا اپنے آپ کو لطم و نثر میں مافوق العادۃ قادر الکلام ثابت کر سکتے۔ نہ ہی تاثیر بالنفس آپ کے پاس تھی کہ آپ کے پاس رہ کر انسان خدا رسیدہ ہو جاتا۔ ورنہ آپ بتائیے کہ آپ کے کتنے مرید دست شفا رکھتے تھے۔ یا کس کس کو جناب نے مسیح یا حواریوں کی طرح صرف توجہ سے اچھا کیا تھا۔ دعا بازی کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ کبھی کسی مصلحت سے دعاء کو کسی دوسری صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہر حال آسمانی نشان نمایاں طور پر تعلیم مرزائیہ میں نہیں پائے جاتے اور زیادہ سے زیادہ کچھ کچھ پیش از وقت معلوم کر لینا یا کچھ کچھ نفسانی یا روحانی تصرف کرنا۔ جس پر آپ کی تعلیم نازاں ہے۔ یہ سب کچھ ہر ایک محنتی آدمی بھی کر سکتا ہے جو آپ کی طرح کچھ عرصہ روزے رکھ کر گوشہ نشین رہا ہو اور اپنے تقدس کے عہد میں ہی لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے خیالات پر نگاہ دوڑاتا ہو ایک ایک بات نوٹ کرتا رہا ہو۔ کیونکہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر ایک شخص چوبیس گھنٹہ میں دو چار باتیں ضرور ایسی بھی کرتا ہے کہ اگر ان کو نوٹ کر لیا جائے تو ضرور اس کے تقدس کا سبب بن سکتی ہیں۔ لیکن نبی کی یہ شان نہیں کہ اگر کسی کو کرسی نہیں ملتی تو لگے نعرہ لگانے کہ لو صاحب اس کی ذلت اس لئے ہوئی کہ وہ ہماری ذلت کا خواہاں تھا۔ اس طرح کی انانیت کا بیمار لیل و نہار کے انقلاب کو اپنا زیر اثر سمجھتے ہوئے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ سو بالفرض اگر جناب واقعی اپنے اندر خدا نمائی کا اثر رکھتے تھے تو اس سے دوسروں کی پیاس کب بجھ سکتی تھی اور وہی اعتراض جو عیسائیوں پر کیا تھا اپنے اوپر لوٹ کر پڑتا ہے۔

۴۲..... عیسائیت پر اعتراض کرتے ہوئے آپ مانتے ہیں کہ مسیح سے اقوام کا اتحاد

عین شباب میں ہوا تھا تو اب یہ اعتراضات غلط ہو گئے کہ خدا بول کے راستہ سے کیوں پیدا ہوا تھا۔ یا اس کو عوارض جسمانی اور حالات انسانی کیوں پیش آئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ اعتراضات اس صورت میں پڑ سکتے تھے کہ شروع سے ہی اقنومی اتحاد ہو چکا ہوتا۔ اس لئے یہاں بھی کسر صلیب کا معاملہ مخدوش رہ جاتا ہے۔ پھر یہ کہنا اور بھی بیجا ہے کہ فلاں سے اتحاد کیوں نہ ہوا۔ کیونکہ جناب خود مانتے ہیں کہ خدا اپنے کام میں کسی کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے الہام بھی ایسے ہی تھے کہ ان میں کئی باتیں مذکور نہ ہوتی تھیں تو آپ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ خدا خود مختار ہے۔ ہمارے زیر اثر نہیں ہے۔ بہر حال عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ عین اتحاد کے وقت مسیح کی زندگی بے لوث تھی۔ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس وقت آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا تھا۔ ہاں غلطیوں سے انسان خالی نہیں ہوتا۔ جس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور جسمانی عوارض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے خسرہ نکلنے کا اعتراض بے جا ہوگا اور چونکہ انسان میں انکساری کا مادہ بھی ہے۔ اس لئے مسیح کی لاعلمی کا اقرار بھی صحیح ہوگا اور چونکہ آپ ہمیشہ مسافر رہتے تھے۔ اس لئے آپ کا دوسرے ممالک میں یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ مجھے سر رکھنے کو بھی جگہ نہیں ملتی اور یہ بھی یاد رہے کہ مسیحی تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ نیکی کرنا بالکل بیکار ہے۔ بلکہ نیکی بدی کو صحیح سمجھ کر کفارہ صرف یہی معنی رکھتا تھا کہ: ”من قال لا اله الا الله دخل الجنة“ ورنہ اس اصول پر بھی یہی اعتراض عائد ہوں گے۔

۴۳..... انا جیل کے متعلق گو یہ کہنا صحیح ہے کہ ان میں عینی شہادت کی بناء پر سوچ سمجھ کر واقعات نہیں لکھے گئے۔ مگر مرزائی تعلیم بھی تو اس کمزوری سے خالی نہیں۔ اس میں بھی مسیح کو ہندوستان میں لاتے ہوئے کوئی عینی شہادت پیش نہیں کی۔ نہ ہجرت کشمیر میں قطع و برید سے احتراز کیا گیا ہے اور وفات مسیح میں تو اس قدر غلط سلط دلائل پیش کئے ہیں کہ جن کی تصدیق سوائے قطع و برید کے کہیں نہیں ملتی اور غلطی سے ایسے لوگوں کو اپنا ہم خیال پیش کیا ہے کہ جن کی نسبت تمام عالم اسلام گواہ ہے کہ وہ جناب کے برخلاف تھے تو اگر انجیل نویسوں نے واقعات قلمبند کرنے میں یا صحف سابقہ کی سند پیش کرنے میں غلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم بھی اس سے مبرا نہیں ہے۔

۴۴..... مسئلہ کفارہ کو جس طریق پر جناب نے غلط ثابت کیا ہے کہ ایثار خدا کی صفت نہیں یا یہ کہ واقعہ صلیب کے وقت دنیا کا منتظم کون تھا وغیرہ، بالکل کمزور طریق ہے۔ کیونکہ انا جیل کی رو سے خدا پر موت نہیں آئی تھی۔ صرف بشریت کی تکلیف سے الوہیت پر اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ایثار کا تعلق بشریت سے ہوگا اور آپ سے کسر صلیب کی شان ظاہر نہ ہوگی۔

۴۵..... راولپنڈی کا بزرگ ہو یا لدھیانہ کا چونکہ اس کو جناب کی اصلی تعلیم سے خبر

نہ تھی اور نہ ہی جناب نے اس وقت اپنی تعلیم کو پورے طور پر شائع کیا تھا۔ اس لئے حسن ظن کی بناء پر اگر آپ کی تعریف کی تو یہ صداقت کا معیار نہیں بن سکتی۔ کیونکہ بقول جناب بات وہی بادوثوق ہوتی ہے جو عینی شہادت اور تعمق نظر، سلامتی عقل، صدق قول اور حافظہ کی سلامتی کے وقت پیدا ہو۔ ورنہ نہیں۔

## ۱۱..... حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم رسول اللہ اور صلیب

مذکور الصدق عنوان کا ایک رسالہ از تصنیف نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی مرحوم مطبوعہ نولکشور پریس لاہور ۱۹۱۰ء میں شائع ہوا تھا۔ جس میں سرسید کی تعلیم نے تمام وہ نقشہ واقعہ صلیب کے متعلق کھینچ کر پیش کیا ہے۔ جس پر آج مرزائی تعلیم وحی آسمانی کا رنگ چڑھاتی ہوئی دکھا رہی ہے۔ ناظرین آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اس تعلیم سے نبی قادیان بے خبر یا محترز تھے۔ مسلمانوں کے ہم نوار ہے تھے اور حیات مسیح و نزول مسیح میں براہین کی جلد چہارم کے زمانہ تک ثابت قدم رہے۔ مگر بعد میں جب سرسید کی تعلیم زیر مطالعہ آئی یا اس نے تاثیر کرنا شروع کیا تو فوراً جناب بھی اس سے متفق ہو گئے۔ نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے الہامات تبدیل کر ڈالے تھے۔ ورنہ الہام الہی یقینی نہیں رہ سکتا اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ الہام کرنے والا بھی علمی ترقی کرتا رہتا ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ براہین میں جناب نے مولویانہ رنگ میں حیات مسیح کا قول کہا تھا تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شرک اکبر ہے تو جناب کی زندگی پچاس سال تک مشرکانہ ثابت ہوتی ہے اور یہ قرین قیاس نہیں کہ پچاس سال تک خدا نے اپنے نبی کو شرک کی لعنت میں پڑا رہنے دیا ہو اور ذرہ رحم نہ آیا ہو کہ اس کو اپنی امت کے سامنے اپنی سابقہ عمر کس طرح بے لوث ثابت کرنے کا امکان باقی رہے گا۔ کیونکہ جب مسیح کی زندگی پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ انا جیل کی رو سے شیطان نے آپ کو مغلوب کر لیا تھا تو یہاں براہین کی رو سے جناب پر بھی یہ اعتراض پڑتا ہے کہ جو شخص پچاس سال تک مشرک رہا ہو۔ وہ کیسے نبی بن سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو یہاں پر دہرایا جاتا ہے۔ مگر وہاں ابتدائی حالت تھی بچپن کا زمانہ تھا۔ دور و نزدیک کے حالات شرک آمیز تھے۔ مگر تاہم نور نبوت کی ہی یہ شان تھی کہ توحید میں کرید کرتے کرتے آخر مقصد پر پہنچ گئے اور بقاء علی الشریک کا زمانہ پیش نہ آنے پایا۔ لیکن یہاں معاملہ ہی دگرگوں ہے۔ اگر یہاں بھی نور نبوت کا امکان ہوتا تو براہین لکھتے لکھتے ہی وفات مسیح کا عقیدہ ظاہر کر دیتے یا بچپن سے ہی نور باطن آپ کو براہین میں شرک نویسی سے بچائے رکھتا۔ اس لئے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ قادیانی نبوت

بقول لاہور پارٹی صرف اعزازی نبوت تھی۔ ورنہ اصلی نبوت کا امکان نہ تھا اور اہل اسلام تو اعزازی نبوت سے بھی منکر ہیں۔ کیونکہ پچاس سالہ مشرک یا غلطی میں ڈوبا ہوا اس اعزاز کے لائق نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ مشہور ہے کہ: ”النبي نبی ولو كان صبیا“  
واقعہ صلیب اور قرآن

بہر حال نواب صاحب ”شبه لهم“ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے آگے قتل کی صورت بن گئی تھی اور قتل کرنے والوں کو دھوکہ ہو گیا یا ان سے اصل بات پوشیدہ ہو گئی یا ان کو آپ کی موت کا تشابہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ یقیناً نہیں مرے تھے۔ البتہ تین گھنٹے تک صلیب پر اذیت سے لٹکتے رہے اور پھر اتارے گئے۔ صلیب پر مصلوب ہونے سے جلدی کوئی نہیں مرتا۔ بلکہ کئی روز تک لٹکے رہنے دھوپ کی تپش اور بھوک کی شدت اور زخموں کی تکلیف سے البتہ مر جاتا ہے۔ یہ معاملہ حضرت سے نہیں ہوا اور جب ایک مقبرہ میں رکھے گئے تو ان کو کہ ابھی زندہ مگر غشی میں تھے۔ بعض تخلصین شب کو مقبرہ سے نکال کر گھر میں کہیں پوشیدہ لے گئے۔ پھر آپ بعض حواریوں کو زندہ نظر آئے۔ مگر یہود کی عداوت اور رومیوں کے اندیشہ سے کہیں دیہات میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر خدا نے ان کو اٹھالیا۔ یعنی اپنی طبعی موت سے مر گئے اور خدا کے پاس چلے گئے اور اس کے داہنے ہاتھ جگہ پائی اور یہ دونوں باتیں مجازاً اور فضیلاً کہی جاتی ہیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو مار ڈالا یا ان کی صورت کا دوسرا آدمی پکڑا گیا۔ قرآن مجید ان کو جھٹلاتا ہے کہ اصل بات ان سے چھپ گئی یا پوشیدہ کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتدال کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ جیسا کہ: ”یہود هذه الامۃ“ کر ہے ہیں اور ایسے شخص کی سزا سنگساری سے قتل کرنے کی تھی۔ (احبار ۱۳ آیت ۲۳، استثناء آیت ۱۳) بلکہ بغاوت کا الزام بھی لگا دیا تھا۔ اس لئے سنگساری کی بجائے صلیب پر چڑھا کر مار ڈالنے کی سزا دی گئی اور عید فصح کے روز عیسیٰ باربان کو چھوڑ دیا گیا اور آپ کو مقام جلجہ میں صلیب سے باندھا۔ جس پر کہ میخوں یا رسیوں سے مجرم کو باندھتے تھے۔ صلیب دو متقاطع لکڑیوں سے بنتی تھی اور درمیان ایک عمودی لکڑی مصلوب کے بیٹھنے کے لئے ہوتی تھی۔ ورنہ دھڑلک کر گر جاتا تھا۔ معلوم نہیں کہ آپ کے پاؤں چھیدے گئے تھے یا باندھے گئے تھے۔ مگر پیاس کی شدت میں اسٹخ کے ذریعہ سر کہ پلایا گیا۔ جس سے آپ کو بہت تسکین ہوئی اور یہ شربت حمیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مصلوب تین چار روز کی بھوک پیاس کی شدت اور زخموں اور دھوپ کی تپش سے مر جاتا تھا اور ایسی کئی ایک مثالیں ہیں کہ مصلوب عذاب میں کئی روز زندہ رہا۔ (تفسیر خازن ج ۳ ص ۱۵۷، ۱۸۶۸ء) شاگرد اس وقت بھاگ گئے تھے۔ کچھ عورتیں اور



روشناس دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یوحنا پاس تھا۔ کیونکہ اس نے اس کی بات سن لی تھی۔ صلیب کا دن عیدِ فصح کا دن تھا۔ یہ واقعہ دوپہر کو ہوا۔ اب سبت شروع ہونے کو تھا۔ جس میں بڑے اہتمام سے کام کرنا تھا اور یہ بھی حکم تھا کہ مصلوب کی لاش اسی دن دفن کر دی جائے۔ (استثناء آیت ۲۲، یوشع ۸ آیت ۲۹) اور یہود سنگسار کر کے مردہ کو صلیب پر چڑھاتے تھے۔ مگر رومیوں نے یہ منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن مصلوب مرے یا نہ مرے۔ مگر اسی دن اس کو صلیب سے اتارنا ضروری تھا۔ اس لئے نہ تو انہوں نے صلیب کے متعلق کچھ اہتمام کیا اور نہ بعد صلیب کے صلیب پر رہنے دیا۔ بلکہ درخواست کی کہ آپ کی ٹانگیں توڑ کر اتار لیں۔ کیونکہ مطلق صلیب پر کوئی مصلوب نہیں مرتا۔ مگر آپ کی ٹانگیں نہیں توڑیں۔ کیونکہ آپ مردہ معلوم ہوتے تھے۔ ”شبہ لہم“ اڑھائی گھنٹہ کے بعد برجھی مارنے سے معلوم ہوا کہ ابھی زندہ ہیں اور اسی وقت اتار لئے گئے اور یوسف ممبر آف کونسل سجدہ ریم لاش لے کر دفن کو لے گیا اور آپ کو لحد میں رکھا گیا اور دروازے پر ایک سل رکھ دی تاکہ پرسوں کو عطریات لاکے قبر میں رکھیں گے۔ عورتوں نے موقعہ دیکھ لیا۔ مگر سب یہودی اور رومی چلے گئے۔ اب دوسرے دن احمقوں کو سوجھی کہ کوئی دشمن لاش نہ نکال لے جائے۔ اس لئے انہوں نے اپنے سپاہی حفاظت کے لئے بٹھائے۔ اتوار کی صبح کو دو عورتیں آئیں تو حضرت کو نہ پایا تو حاکم کے دو تین فرستادوں نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتی ہو اور انہوں نے پطرس یوحنا کو خبر کی کہ وہ جی اٹھے ہیں۔ تو تین دفعہ حواریوں کو زندہ نظر آئے۔ عیسائیوں نے آپ کے جلدی مر جانے اور جی اٹھنے کو معجزہ سمجھ لیا۔ حالانکہ کئی مصلوب علاج سے زندہ ہو چکے تھے۔ سندرکیس کو دارانے صلیب دیا تھا۔ ترپس کھا کر پھر فوراً بچا لیا۔ (تاریخ ہیروڈس ج ۷ ص ۱۹۴) یوسیفس کہتا ہے کہ میں نے طیطوس کے عہد میں بہت سے آدمی صلیب پر دیکھے کہ جن میں سے تین آدمیوں کو اترا کر علاج کیا گیا۔ مگر دوسرے اور ایک بچ گیا۔ (سوانح عمری خود ص ۷۵) یہود تو شاید اس دن صلب گاہ پر بھی حاضر نہ تھے۔ کیونکہ فصح کا دن تھا (خروج ۶ آیت ۲، یوہا ۱ ب ۷ آیت ۳) اور عدالت میں بھی حاضر نہ تھے۔ بلکہ فطیری روٹیوں اور قربانیوں کی فکر میں تھے۔ باسالیہ یان اور سرن تھیان اور کور پوری تیان وغیرہ قدیم عیسائیوں کے نزدیک شمعون مصلوب ہوا تھا۔

مصلوب اور اس کی زندگی

برنباں لکھتا ہے کہ یہود مصلوب ہوا تھا۔ مگر قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے۔ پس جب صلیب پر آپ کی موت نہیں ہوئی اور قبر میں بھی نہ رہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یوسف اور نقید موس ان کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بغیر غسل کے دفن کیا تھا۔ عیسائیوں نے

کہا کہ قرآن واقعی تاریخ کے خلاف ہے۔ مگر قرآن نے کہا ہے کہ نہ تو عیسیٰ کو پتھراؤ کر کے یا تلوار سے مارا ہے اور نہ صلیب پر چڑھا کے مارا ہے۔ یہ کہ وہ صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے۔ کیونکہ یہاں صلیبی موت کی نفی مراد ہے۔ مگر موت کی صورت بنا دی گئی کہ مقتولین کو مردہ نظر آئے۔ کیونکہ میخوں کی اذیت سے غشی ہو گئی تھی۔ مگر چونکہ موسم اچھا تھا۔ ابر بھی تھا، دھوپ بھی نہ تھی اور جلدی اتار بھی لئے گئے۔ اس لئے زیادہ صدمہ نہیں پہنچا۔ حشو یہ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے پر صورت القاء ہوئی۔ مگر اس طرح تو معاملات کا اعتبار ہی اڑ جاتا ہے اور اس وقت شبہ کا فاعل نہ مسیح بن سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ مشہ بہ تھے اور نہ کوئی اور کیونکہ وہ مذکور نہیں۔ پس کسی اور کا ان کی جگہ بصلوب قرین قیاس نہیں۔ کیونکہ شمعون قرینی بعد میں عرصہ تک زندہ رہا اور عیسائیوں سے شریک کار رہا اور یہود ابھی بعد میں مرا۔ ”ماقتلوہ یقیناً“ جس طرح قتل کا حق تھا۔ ایسا قتل نہیں کیا یا یقیناً قتل نہیں کیا۔ کیونکہ تین گھنٹے صلیب پر موت کے لئے کافی نہ تھے۔ بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ یہ بات تشریف و نجم کے لئے ہے۔ نہ یہ کہ درحقیقت بادلوں میں آسمان کو اڑتے ہوئے نظر آئے اور کسی آسمان پر جا بیٹھے۔ جس طرح ”انی ذاہب الہ ربی اور من یخرج من بیتہ مهاجرا الی اللہ“ وارد ہے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ یقیناً مر گئے۔ کیونکہ یوں آیا ہے کہ: ”انی متوفیک“ اس کی تفسیر میں بہت الٹ پلٹ کیا گیا ہے۔ یعنی ”رافعک و متوفیک“ مگر قرآن کی اصل عبارت یوں نہیں۔ شاید مفسرین کے کسی نئے قرآن خود ساختہ میں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ: ”توفیتنی“ جب مجھے تو نے وفات دی تب تو ہی ان پر نگہبان رہا۔ ”اللہ یتوفی الانفس حین موتھا“ پس ان کی وفات کی خبر بہت صاف ہے۔ مگر یہ بات کہ کب مرے کہاں مرے معلوم نہیں۔ جیسا کہ حضرت مریم کا حال پھر معلوم نہ ہوا۔ حالانکہ مسیح نے ان کو یوحنا کے حوالے کر دیا تھا اور دور کے دیہات میں چلے گئے تھے۔ بخاری کی ایک روایت جو کتاب ”بدأ الخلق باب ذکر الملائکہ“ میں لکھی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام حضور ﷺ کو دوسرے آسمان پر ملے تھے۔ مگر یہ روایت بہت ہی مشتبہ ہے۔ ”ہدیہ ضعیف عند النسائی والہمام له وهم والخلیفة یخطی والسعید یدلس کثیرا وهشام قدیدلس“ وروی انس عن مالک بن صعصعة ففیہا عنعنة وارسال۔ ولعل مالک مات قبل رواية عنه (تقریب التہذیب لا بن حجر العسقلانی، مطبوعہ دہلی ۱۲۷۱ھ)“

### نوابی فیصلہ پر جرح

اسلام میں آج تک وہی فیصلہ چلا آتا تھا جو مورخ طبری اور برنباں نے کیا ہے۔ مگر

سر سید کی پارٹی عیسائیوں کے ہجرے میں آگئی۔ انہوں نے اناجیل اور بے کو قرآن سے مطابق کرتے ہوئے یہ نظریہ قائم کیا کہ مصلوبہ کا معنی ہے کہ انہوں نے آپ کو صلیب پر نہیں مارا۔ حالانکہ کسی لغت سے یہ معنی ثابت نہیں ہوتا اور خود بھی مانتے ہیں کہ مصلوب زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ تو ”ماصلوبہ“ کا ترجمہ ”ماقتلوہ علی الصلب“ کس طرح صحیح ہوا؟ اس کے بعد ”شبه لهم“ کا ترجمہ ”اوقع الشبهة لهم“ چھوڑ کر مشبہ اور مشبہ بہ کے پیچھے پڑ گئے اور صاف راستہ چھوڑ کر یہ ترجمہ گھڑ لیا کہ مسیح مشبہ بالمقتول بنائے گئے۔ حالانکہ اس ترجمہ کا ثبوت منقولی طور پر کسی اسلامی تصریح سے نہیں دکھایا گیا۔ اخیر میں ”ماقتلوہ یقیناً“ کا معنی کر دیا ہے کہ وہ پورے طور پر اسے نہ مار سکتے تھے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ پورے طور پر قتل نہ کر سکے۔ کیا مصلوب کو مقتول کہا جاسکتا ہے یا مصلوب کا میت ہو جانا بھی ضروری ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ نواب صاحب کو یہ دھوکہ لگ گیا تھا کہ: ”ماقتلوہ“ کو ”ماصلوبہ“ سمجھنے لگ گئے تھے۔ حالانکہ دوسرا لگ لگ تھیں۔ قتل بالسیف اور صلب الی الموت مگر تحریف کی دھن میں یہاں پر دونوں کو ایک ہی سمجھ بیٹھے۔ ”رافعه الیہ“ کا ترجمہ ”مہاجر الی ربی“ کا سہارا لے کر یوں کیا ہے کہ خدا نے آپ کو کسی گاؤں بھیج دیا تھا اور یہ نہ کیا کہ کسی آسمان پر بھیج دیا تھا۔ کیونکہ انگریز آسمان نہیں مانتے۔ حدیث بخاری کی باری آئی تو راوی کمزور کر دکھلائے اور یہ نہ سوچا کہ یہ حدیث بالفرض اگر ایک طریق سے کمزور ہے تو اس کے لئے اس قدر اور طریق بھی ہیں کہ سب کے ملانے سے تو اتر تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر نوابی دماغ کو یہ تکلیف کب گوارا تھی کہ ایسی محنت میں پڑتے اور جب جاگیر دار قادیان بعد میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اس نظریہ پر اور بھی حاشیے چڑھا دیئے کہ مسیح کشمیر کو گئے تھے اور ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی تھیں۔ ”ماصلوبہ“ اور سند پیش کرنے میں ایسی دور کی سوچھی کہ اندھے کو اندھیرے میں بھی نہیں سوجھتی۔ ذرہ انصاف نہیں کیا کہ اگر توفی بمعنی رفع جسمانی ہم پیش کرتے ہیں تو ہم پر کئی شرائط لگائے جاتے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بعینہ یہ لفظ کسی دوسرے زندہ مسیح کے لئے استعمال ہوتا ہو اور دکھاؤ۔ اب اپنی باری آئی تو صرف ایجاد بندہ ہی سند کافی سمجھی گئی۔ الغرض ہمیں یہ دکھانا منظور ہے کہ وفات مسیح کا نظریہ قائم کرنے میں نواب صاحب کو سبقت حاصل ہے۔ جنہوں نے جناب سر سید سے یہ فیض حاصل کیا تھا اور چونکہ جناب بھی جاگیر دار تھے۔ اس لئے ہم جنس کا نظریہ وحی کے رنگ میں دکھاتے تھے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کس صلیب میں پہلے کس نے کوشش کی؟ چودھویں صدی کا مجدد نواب صاحب یا سر سید ہوئے یا جاگیر دار صاحب قادیان؟ اور ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ پیٹ چاک کرنے کے بعد مسیح کیسے جانبر ہو سکے

تھے۔ جب کہ وہ پہلے ہی نیم مردہ ہو کر سرد ہو چکے تھے اور دو دن تک بند کمرہ میں پڑے رہے تھے۔ نہ پیٹ سیا گیا نہ اس پر پٹی لگائی گئی اور نہ کوئی خورد و نوش کا انتظام کیا گیا؟ اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اگر بقول جناب مسیح علیہ السلام صلیب پر نہیں مرتے تھے تو بعد میں پہلو شکاف زخم سے ضرور مر چکے تھے۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ تیسرے روز مسیح ایک جلسہ میں بھی حاضر ہو گئے تھے تو کیا آپ کوئی خواب سنا رہے ہیں یا کوئی افسانہ لکھ رہے ہیں۔ محقق بن کر ایسی غلطی ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

۱۲..... سیرۃ المہدی مرزا بشیر احمد ولد مرزا غلام احمد قادیانی

سے چند تاریخی نوٹ مع دیگر رسائل قادیانیہ و تاریخی

مرزا قادیانی کے اسلاف و اقارب

آپ کے حقیقی ماموں جمعیت بیگ کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا تھا۔ اس کی لڑکی حرمت بی بی سے آپ کا نکاح ہوا۔ جس کے لطن سے مرزا سلطان احمد و فضل احمد پیدا ہوئے اور اس کا لڑکا علی شیر احمد بیگ کی بہن حرمت بی بی سے بیاہا گیا اور ایک لڑکی عزت بی بی پیدا ہوئی۔ جو فضل احمد کے نکاح میں آئی۔ سلطان احمد کی پہلی بیوی الہیہ ضلع ہوشیار پور کی تھی۔ جس سے عزیز احمد پیدا ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی خورشید بیگم بنت امام الدین سے کر لی تو پہلی بیوی فوت ہو گئی۔ آپ کی دادی کے دماغ میں خلل آ گیا تھا۔ کیونکہ بڑی عمر کی تھیں اور جناب نے اسے دیکھا بھی تھا۔ مرزا غلام قادر کی اہلیہ طائی حرمت بی بی کے نام سے مشہور تھی اور اپنے شوہر سے بڑی تھی۔ پھر جناب سب سے بڑے تھے۔ غلام مرتضیٰ کے ہاں پہلے لڑکا ہو کر مر گیا۔ پھر مراد بی بی پیدا ہوئی۔ پھر غلام قادر پھر دو لڑکے پیدا ہو کر مر گئے۔ پھر پانچ سال بعد ترس ترس کر جناب پیدا ہوئے تو توام تھے اور توام جنت مر گئی۔ منیس مان کر آپ کی پرورش ہوئی۔ راجا تچا سنگھ بنالوی کو پھوڑا ہوا تو غلام مرتضیٰ کے علاج سے تندرست ہوا تو اس نے شتاب کوٹ اور حسن پور (حسن آباد) جو آپ کی پرانی ریاست میں شامل تھے۔ آپ کو انعام دیئے۔ مگر آپ نے انکار کر دیا کہ چٹک سمجھتا ہوں۔ آپ وسیع الاخلاق تھے۔ جوتی ولد دولہ بیمار ہوا تو گواس نے آپ کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ مگر اس کا علاج کیا۔ آپ کا تخلص تحسین تھا۔ آپ کا شعر ہے۔

اے دانے بما کہ ماچہ کر دیم  
کر دیم نا کردنی ہم عمر

درد سر من مشوطیبا  
 ایں درد دل است و درد سر نیست

سلطان احمد نے آپ کا کلام جمع کر کے ایڈیٹر پنجابی اخبار کو دیا تھا۔ جو اس نے ضائع کر دیا۔ غلام قادر کا تخلص مفتون تھا۔ ایک ایرانی آیا تو اس نے کہا کہ غلام مرتضیٰ کا کلام فصیح ہے۔ بنالہ کے ایک ہندو حجام نے آپ سے کہا کہ میری معافی ضبط ہو گئی ہے۔ آپ ایجرٹن صاحب فنانشل کمشنر سے سفارش کریں تو آپ لاہور گئے اور اس وقت شالامار باغ میں جلسہ ہو رہا تھا تو جلسہ ختم ہونے پر آپ نے حجام کا ہاتھ، صاحب کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ لاج رکھو۔ تو اس نے معافی واپس کر دی۔ رابرٹ کسٹ صاحب کمشنر کی ملاقات کو گئے تو دوران گفتگو میں اس نے پوچھا کہ قادیان سے سری گوبند پور کتنا دور ہے تو آپ نے خوداری میں کہا کہ میں ہر کارہ نہیں ہوں اور ناراض ہو کر رخصت ہونا چاہا۔ مگر صاحب نے بٹھالیا۔ بنالہ میں غلام قادر نے ایک برہمن پنواری کو مارا تو ڈپوس صاحب مہتمم بندوبست نے ایک سو پیہ جرمانہ کر دیا۔ آپ امرتسر میں تھے خبر ہوئی تو ایجرٹن صاحب کے پاس جا کر جرمانہ معاف کر لیا۔ غلام قادر جب پولیس میں ملازم تھا تو نسبت صاحب ڈپٹی کمشنر نے کسی بات پر اس کو معطل کر دیا۔ پھر جب صاحب بہادر قادیان آئے تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے لڑکے کو معطل کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر قصور ثابت ہے تو ایسی سزا دینی چاہئے تھی کہ شریف زادے ایسا کام نہ کریں۔ صاحب بہادر نے سمجھا کہ جب باپ ایسا مر بی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ غلام قادر ضلع کے پرنٹنڈنٹ بھی رہے ہیں۔ نہر میں بھی کام کیا تھا۔ ٹھیکہ داری بھی کی تھی۔ اور چھینے کے پاس ایک پل کا ٹھیکہ بھی لیا تھا۔ مہاراجہ شیر سنگھ کا ہنودان کے چھنب میں شکار کھیلنے آیا تو آپ بھی ہمراہ تھے۔ تو راجہ کے ایک ملازم جولا ہے کوز کام ہو گیا۔ آپ نے دو تین پیسہ کا نسخہ لکھ دیا تو اسے آرام ہو گیا۔ پھر مہاراجہ کوز کام ہو گیا تو آپ نے قیمتی نسخہ لکھا تو راجہ نے کہا کہ جولا ہے کو دو پیسے کا نسخہ کیوں لکھ دیا تھا اور مجھے کیوں اتنا قیمتی نسخہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جولا ہا راجہ نہیں ہے۔ راجہ نے خوش ہو کر سونے کے کڑے انعام دیئے۔ مرزا امام الدین نے آپ کے قتل کی ٹھان لی اور سوچیت سنگھ کو اس کام کے لئے مقرر کر دیا۔ مگر جب کبھی دیوان خانہ کی دیوار پھاندتا تو اس وقت اسے دو آدمی پھرے دار نظر آتے۔ اس لئے کامیاب نہ ہو سکا۔ (شاید فرشتے تھے) آپ کا روزمرہ میں یہ تکیہ کام تھا۔ ”ہے بات کہ نہیں“ اور سنائی یوں دیتا تھا ”ہے با کہ نہیں“ ایک بغدادی مولوی آیا تو آپ نے اس کی کمال خدمت کی۔ مگر اس نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے کمزوری کا اعتراف

کیا۔ تکرار کے بعد مولوی نے کہا کہ تمہیں خدا دوزخ میں ڈالے گا۔ تو آپ نے جوش میں آ کر کہا کہ تم کو کیا معلوم مجھے کہاں ڈالے گا۔ میں خدا سے بدظن نہیں ہوں۔ تم مایوس ہو تو ہو مگر میں مایوس اور بد اعتقاد نہیں ہوں۔ میری عمر ۷۵ سال کی ہے۔ خدا نے میری پیٹھ نہیں لگنے دی تو کیا اب مجھے دوزخ میں ڈالے گا۔ آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی تو آپ نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ صرف ایک دفعہ اپنی لڑکی سے ملنے آئے تھے۔ آپ نے علم طب حافظ روح اللہ باغبانپوری سے سیکھا تھا۔ پھر دہلی جا کر میکمیل کی تھی۔ آپ کی کتابیں پٹاروں میں تھیں۔ جن میں سے خاندانی تاریخ بھی درج تھی۔ سلطان احمد باپ دادا دونوں کی کتابیں چوراہے لے جاتا تھا۔ دادا کہتے کہ کلاہوں میں چوہا لگ گیا ہے۔ غلام قادر کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ۲۲ طائفے اور باب نشاط کے جمع تھے۔ مگر مرزا قادیانی کی شادی سادگی سے ہوئی۔ آپ کی اہلیہ بڑی مہمان نواز تھی اور آپ نے آخری عمر میں جہاں بڑی مسجد ہے اور مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ اس جگہ سکھ کارداروں کی حویلی تھی۔ وہ نیلام ہوئی تو ضد میں آ کر دوسروں نے قیمت بڑھادی۔ مگر آخر سات سو روپے پر آپ نے ہی خرید کر لی۔ جو اس وقت کی قیمت سے زیادہ نہ تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی مہمانی (سلطان احمد کی نانی) مسماں چراغ بی بی جناب سے بہت محبت کرتی تھی۔ باقی سب مخالف تھے۔ کہتی تھی کہ لوگ غلام احمد کو کیوں بد دعائیں دیتے ہیں۔ اسے تو میری چراغ بی بی نے منٹیں مان کر ترس ترس کر پالا تھا۔ قادیان میں ہیضہ پھوٹا تب مرزا غلام مرتضیٰ بنالہ میں تھے۔ جب آئے تو چوہڑوں میں کچھ کیس ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور مٹی کے بڑے بڑے برتنوں میں آملہ کشتہ اور گڑیا نمک ڈالوا دیا کہ جو چاہے نمکین پئے اور جو چاہے شیریں تو ہیضہ جاتا رہا۔ ہا کو دنا کو بروالوں کی ماں لاڈو آپ کی دایہ تھی۔ مرزا سلطان احمد و عزیز احمد کو بھی اسی نے ہی جنایا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس سے اپنی پیدائش کی شہادت بھی لی تھی۔ ایک عورت پس گئی تو اسی سے جنی تھی۔ دوسرے نکاح کے وقت سے اس کو گھر نہیں آنے دیا۔ کیونکہ اس پر کچھ شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ عزیز احمد کو اس نے جنایا تھا تو اسے خارش تھی۔ عزیز احمد کو بھی خارش ہو گئی۔ غلام قادر کے گھر آہستہ آہستہ سب کو ہو گئی۔ آپ کے گھر بھی آگنی اور آپ کو بھی ہو گئی۔ آپ کی دوسری بیوی کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ مہر ایک سو روپیہ مقرر ہوا تھا۔ اس کا والد میر نواب ناصر ہیں۔ جو خوجہ میر درد صاحب دہلوی کی اولاد ہیں۔ محکمہ انہار پنجاب میں ملازم تھے۔ ۲۵ سال پنشن لیتے رہے۔ شروع میں کچھ مخالف تھے۔ مگر بعد میں داخل بیعت ہو گئے تھے۔ مرزا غلام مرتضیٰ صوبہ کشمیر میں صوبہ دار تھے۔ گھر نقدی بھیجتے تھے تو کسی کی گدڑی میں سی کر روانہ کرتے تھے۔ وہ آتا تو گھر گدڑی دے دیتا۔ گھر والے اسے خالی کر

کے واپس کر دیتے۔ جناب کی والدہ چراغ بی بی والد صاحب سے پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔ مرزا غلام قادر لا ولد مر گئے تو اپنی تمام جائیداد اپنے متنبے مرزا سلطان احمد کے نام کرا گئے۔ مرزا غلام مرتضیٰ نے اپنی زمین میں دو گواہوں اپنے دونوں بیٹوں غلام قادر اور غلام احمد کے نام پر آباد کرائے تھے۔ ایک مشرقی طرف قادر آباد اور دوسرا شمال کی طرف احمد آباد جو چالیس سال تک غیر کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ مگر اب پھر واپس آ گیا ہے۔ جس پر تینوں بھائی مرزا محمود، بشیر اور شریف احمد یکساں قابض ہیں اور سلطان احمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مرزا غلام مرتضیٰ تحصیل علم کے لئے دہلی گئے تو ان کا مر اسی بھی ساتھ ہی تھا۔ فاقہ آیا تو کسی نے ایک سوکھی چپاتی دی۔ آپ کھا رہے تھے تو اس نے کہا کہ: ”مرزا جی ساڑا اوی دھیان رکھنا“ آپ نے وہی چپاتی اس پر پھینک دی۔ جو اس کے ناک پر لگی اور خون نکل آیا۔ آپ نے ملازمت کشمیر وغیرہ سے ایک لاکھ روپیہ کمایا تھا جو قادیان کی جائیداد کے حقوق مالکانہ قائم رکھنے پر خرچ کر دیا۔ مرزا قادیانی کہتے تھے کہ اتنے روپے سے تو سو گنا زیادہ جائیداد خریدی جاسکتی تھی۔ مگر ان کو یہ خیال تھا کہ قادیان کے پرانے جدی حقوق ہاتھ سے نہ جائیں۔ کیونکہ قادیان کی ملکیت کو ریاست سے بھی اچھی جانتے تھے۔ واقعی آپ کے بزرگ عہد بابر میں ہندوستان آئے تو قادیان اور کئی میل تک ارد گرد کے دیہات بطور ریاست یا جاگیر کے ہمارے قبضے میں آئے۔ رام گڑھیوں کی دست اندازی کے بعد رنجیت سنگھ کے عہد میں جاگیر کا کچھ حصہ پھر واپس ملا۔ مگر حکومت انگریزی کی ابتداء میں کئی حقوق سابقہ ضبط ہو گئے۔ مقدمات کے بعد صرف قادیان اور قریب کے تین دیہات پر حقوق تعلقہ داری تسلیم کئے گئے اور دو دیہات پر حقوق مالکانہ اب تک قائم ہے۔ ہاں درمیان میں مرزا غلام قادر کے ہاتھ سے جائیداد کا ایک بڑا حصہ مرزا عظیم بیگ لاہور کے خاندان کے پاس ۳۵ برس تک چلا گیا تھا۔ مگر اب وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ مرزا غلام قادر اسی صدمہ سے دو سال بیمار رہ کر مر گئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی صاحب مقابلہ نہ کرو۔ مگر وہ نہ کر کے اور چیف کورٹ تک جھگڑتے چلے گئے۔ آخر ڈگری ہو گئی تو کہنے لگے۔ ”لے غلام احمد جو توں کہند اسی اوہو ای ہو یا اے“ مگر فریق مخالف کو قبضہ پھر بھی نہ دیا اور اسی حالت میں مر گئے۔ سلطان احمد کو جب ان کا ترکہ ملا۔ کیونکہ یہ متنبے تھا تو آپ نے فرمایا کہ قبضہ دے دو تو اس نے دے دیا۔ مرزا غلام مرتضیٰ نے ۸۰ برس سے اوپر عمر پا کر جون ۱۸۷۶ء میں وفات پائی۔ آپ کی ایک تحریر کے مطابق ۲۰ اگست ۱۸۷۵ء کو غلام قادر کی وفات تقریباً ۵۵ سال کی عمر میں ۱۸۸۳ء کو واقع ہوئی تھی۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۱۸۳۸ء یا ۱۸۳۹ء ایک مشکوک امر ہے۔ کیونکہ سکھوں کے زمانے میں ریکارڈ نہ تھا۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم

(۱۹۳) آپ پانچ بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی بہن مراد بی بی تھی۔ جس کی شادی محمد بیگ سے ہوئی۔ کسی بزرگ نے خواب میں اس کو ایک تعویذ دیا تھا۔ بیدار ہوئی تو ہاتھ میں بھونج پتر پر سورہ مریم لکھی ہوئی موجود تھی۔ اس سے چھوٹے غلام قادر تھے۔ ان سے چھوٹا ایک اور لڑکا تھا جو بچپن ہی میں مر گیا اور اس سے چھوٹی جنت بی بی تھی جو جناب کے ساتھ تو ام پیدا ہوئی اور جلد مر گئی تھی اور سب سے چھوٹے آپ ہی تھے۔ مرزا گل محمد متوفی ۱۸۰۰ء نے جاگیر کا بڑا حصہ بچائے رکھا تھا۔ مگر مرزا اعطاء محمد سے رام گڑھیوں نے ساری جاگیر چھین لی تھی تو آپ بیگو وال ریاست کپورتھلہ میں چلے گئے اور چند سال بعد زہر سے مارے گئے اور مرزا غلام مرتضیٰ آپ کا جنازہ قادیان میں لائے تو سکھوں نے مزاحمت کی۔ مگر عوام کی ہمت سے کامیابی حاصل ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کے بعد رام گڑھیوں کا زور ٹوٹا اور سب جگہ پر ان کا قبضہ نہ رہا تو مرزا غلام مرتضیٰ نے کچھ حصہ فوراً واپس لیا اور واپس قادیان میں آئے اور آپ نے اپنے بھائی غلام محی الدین کی معیت میں رنجیت سنگھ کی کئی فوجی خدمات بھی سرانجام دیں اور جب سکھ حکومت کا خاتمہ ہوا تو قلعہ پسر اوں میں دونوں بھائی قید کئے گئے اور انگریزوں نے جائیداد ضبط کر کے سالانہ پنشن مقرر کر دی جو مرزا غلام مرتضیٰ کی وفات پر ۱۸۰ روپے تک رہ گئی تھی اور مرزا غلام قادر کی وفات پر بند ہو گئی۔ آپ نے برادری کو جائیداد و گنڈارا کرنے کے لئے بہت کچھ کہا۔ مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر آپ نے کچھ جائیداد واپس کرائی اور منصرم بن گئے اور قبضہ کر لیا۔ باقی رشتہ داروں کو آمد سے حصہ رسدی ملتا تھا۔ یہ ملکیت پانچ حصوں میں تقسیم ہوئی۔ دو حصے مرزا جیلانی کی اولاد کو ملے۔ دو گل محمد کی اولاد کو اور ایک حصہ مرزا غلام مرتضیٰ کو بطور منصرم ملا تھا۔ جو ان کی اولاد پر تقسیم ہوا۔ مگر اس وقت صرف نظام الدین کا ایک لڑکا گل محمد زندہ ہے۔ جو بیعت میں داخل ہو چکا ہے۔ باقی سب کی اولاد نہیں رہی اور الہام پورا ہوا کہ: ”ینقطع من ابائک ویبدأ منک“ ہمیشہ سے آپ کا خاندان طبابت میں مشہور رہا ہے۔ مرزا محمود کو بھی جناب نے تعلیم طب کی ہدایت کی تھی۔ مگر کسی نے بھی اس سے کچھ نہیں کمایا۔ آپ کی والدہ چراغ بی بی ایہ ضلع ہوشیار پور کی تھی۔ مرزا غلام قادر کی ایک لڑکی عصمت تھی اور ایک لڑکا عبد القادر۔ مگر دونوں بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ آپ کو عصمت کے ساتھ محبت تھی۔ اس لئے آپ نے اپنی لڑکی کا نام بھی عصمت ہی رکھا۔ آپ کے پہلے نکاح سے فضل احمد عین شباب میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ پھر سلطان احمد پیدا ہوا دوسرے نکاح سے بالترتیب یہ اولاد پیدا ہوئی۔ عصمت، بشیر احمد، بشیر الدین محمود، شوکت بی بی، بشیر احمد، شریف احمد، مبارکہ بیگم، مبارک احمد، لمتہ النصیر، لمتہ الحفیظ۔ ریونیومی ۱۹۳۳ء میں مسٹر گوہر بی بی نے آپ کا شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے کہ: ”ایسرو



مجی برلاس“ فارس کا باشندہ کثیرالاولاد بقول شخصے ۲۹ بیٹوں کا باپ تھا۔ اس کے بیٹے ”سو غنجن“ یہ یہاں ”قراچار“ پیدا ہوا اور اس نے چنگیزی حملہ کے وقت فارس سے نکل کر توران کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس کی قابلیت دیکھ کر چنگیز خان اسے اپنا ابن عم کہا کرتا تھا۔ بقول شخصے چھٹی صدی ہجری میں مسلمان ہوا اور اپنی قوم برلاس کا قابل قدر رہنما اور چغتائی خاندان کا داماد اور وزیر تھا۔ چنگیز خان چغتائی کے مرنے پر حسب وصیت حکمران ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر ۸۰ سال تھی اور یہ ۶۵۲ھ کا زمانہ تھا۔ اس کا بیٹا اٹکل پیدا ہوا اور اس کا ایلنکیر اور اس کا برکل جس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اول طراغانی امیر تیمور لنگ کا باپ، دوم حاجی برلاس جو آپ کے خاندان کا مورث اعلیٰ ہے۔ یہ سارا خاندان برلاس کہلاتا تھا۔ مگر جب تیمور خضر خواجہ شاہ مغل کا داماد مقرر ہوا تو اس وقت سے گورگاں یعنی داماد کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ اریوچی پارسیوں کا نام ہے جو بلاشبہ فارسی لفظ ہے اور اس لفظ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ خاندان دراصل فارسی ہے۔ تیمور کی پانچویں پشت میں بابر تھا اور حاجی برلاس حاکم کش کی چھٹی پشت میں مرزا ہادی ہوا ہے جو عہد بابر میں سمرقند سے نکل آیا تھا اور قادیان کو آباد کیا اور میرزا مشہور ہوا۔ کیونکہ یہ خاص فارسی نام اس کے آباؤ اجداد سے اس کو حاصل ہو چکا تھا اور لفظ میرزا اصل میں امیر زادہ کا اختصار ہے۔ مغلوں کی سلطنت اس وقت سب سے بڑی سلطنت تسلیم کی جاتی تھی اور برلاسی و تیموری خاندان نے ان کے عہد میں بڑی فوقیت بھی حاصل کر لی تھی۔ مگر اپنا لقب مرزا ہی رکھا اور اپنے آپ کو خان کے لقب سے کبھی بھی معنون نہ کیا۔ کیونکہ یہ لقب خاص مغلوں کے لئے مخصوص ہو چکا تھا۔ مگر عوام الناس میں وہ دونوں تو میں مغل اور خان ضرور مشہور ہو گئیں۔ کیونکہ مغلوں کی ان سے گہری رشتہ داریاں اور شدید تعلقات قائم ہو چکے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ خان کا لقب سلطانی اعزاز اور فخریہ نشان سمجھا جاتا تھا تو جس طرح پنجاب میں ایک شخص غیر سید سادات سے تعلق پیدا کر کے سید کہلاتا ہے۔ اسی طرح مرزائیوں نے مغلوں سے جسی نسبی تعلقات پیدا کر کے اپنے آپ کو مغل اور خان کہلانا پسند کر لیا ہے۔ مگر تاہم اپنی اصلیت بتانے کو مرزا کا لفظ ترک نہیں کیا اور خود مرزا کا خطاب ایسا ہر دلعزیز تھا کہ تیمور یہ خاندان کی تقلید میں مغل بھی مرزا کہلانے لگے۔ اگرچہ وہ ترک یا تاتار النسل کے تھے۔ بعد میں مرزا کا خطاب خان کی طرح اعزازی ڈگری بن کر بھی تقسیم ہونے لگا اور نگزیب نے جب راجوری خاندان کشمیر میں شادی کی تو ان کو مرزا کا خطاب عطاء کر دیا۔ اسی طرح راجہ جے سنگھ اوف جے پور کو تیموری خاندان کی طرف سے مرزا کا خطاب ملا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ سات سو سال بعد مغلوں نے خان کی بجائے مرزا کہلانا ہی بہتر سمجھا۔ مگر اپنے ناموں کے ساتھ بیگ کا اضافہ قائم

رکھا۔ تاکہ اپنی اصلیت ظاہر کرتے رہیں اور انگریزی حکومت نے مرزا کی بجائے خان کو اعزازی لقب قرار دیا۔ الغرض کہ مغلوں کے ساتھ باہمی مناکحت کی وجہ سے یہ دونوں خاندان ان میں بالکل جذب ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان میں امتیاز کرنا محال ہو گیا۔ مگر چونکہ وہ دونوں خاندان اصل میں فارسی تھے۔ اس لئے مرزا قادیانی کا فارسی النسل ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ ذریت ابراہیم میں بھی داخل ہیں۔ ”راجع الی کتابی تحفة الہند فی قادیان یباع بروفیہ“ کیونکہ احادیث میں وارد ہے کہ: ”اہل فارس ہم بنو اسحاق (رواہ الحاکم فی تاریخہ عن ابن عمر کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۵) فارس عصبتنا اہل البیت لان اسماعیل ہم ولد اسحق عم ولد اسماعیل (کنز العمال ج ۶ ص ۲۶۴) ولد سام العرب وفارس الروم والخیر فیہم (رواہ ابن عساکر عن ابی ہریرۃ) من اسلم من فارس لهم من قریش اخوتنا وعصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) سلمان منا اہل البیت (رواہ الطبرانی والحاکم، کنز العمال ج ۶ ص ۱۷۶) عن صالح بن ابی صالح قال سمعت ابا ہریرۃؓ یقول ذكرت الا عجم عند النبی ﷺ فقال انابہم اوبعضہم اوثق منی بکم اوبعضکم (ترمذی باب فضائل العجم ص ۳۲۸)“ ان احادیث سے تو تمام مرزائی چھوڑ تمام آریہ بھی عجم میں شامل ہیں اور فارس کا اہل عجم ہونا تو سب کو معلوم ہے۔ ”انتہی ما فی ریویو ملخصاً“

ہندوستان کا نقشہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا ایک شیر کی غار سے نکلا ہے۔ جس کا نصف حصہ ابھی غار میں ہی پوشیدہ ہے اور اس کے سامنے پھنسا پرائنا کیبل پڑا ہوا ہے۔ جس کے دو چوڑے دور تک چلے گئے ہیں اور ان دو چوڑوں کے درمیان ایک کھلی زمین ہے۔ پس وہ کیبل بحیرہ عرب ہے اور دو چوڑے عرب کے گھیرے ہوئے بحر عمان مع بحر فارس اور بحر قزقم ہیں۔ شیر کے دو جڑوں کے درمیان ملک گجرات ہے۔ اس کی داڑھی میں ہندوستان ہے اور سر کی چوٹی میں پنجاب۔ اس کی لمبی ناک میں سندھ واقعہ ہے۔ آنکھ ملتان ہے جو سامنے فارس کو دیکھ رہی ہے۔ پنجاب کے بالمقابل کابل توران اور سمرقند اور بخارا مع ماوراء النہر واقع ہیں۔ سمرقند اور فارس کے درمیان خراسان واقع ہے۔

کوکب دہلی ۲۵ اپریل ۱۹۲۵ء میں ایم۔ اے لطیف نے لکھا ہے کہ: ”رجال من ابنسہ فارس“ کا مصداق مرزا قادیانی نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ ایرانی نہ تھے بلکہ جب احادیث متعلقہ خراسان آذربجان اور صنفہان وغیرہ کو ساتھ ملا لیا جائے تو بالکل ہی اس کا امکان نہیں

رہتا۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۳۷، خزائن ج ۱ ص ۱۷۷) میں صحیح موعود، دجال موعود اور مہدی موعود تینوں کا مرزین مشرق سے ظاہر ہونا تسلیم کیا گیا ہے۔ ازالہ میں فارس ہی مشرق سے مراد لی ہے۔ تفسیر طبری وغیرہ میں "آخرین منهم" سے مراد اہل فارس ہیں۔ نہ فارسی الاصل، فصوص الحکم میں ابن عربی کا کشف بھی تریاق القلوب میں یوں لکھا ہے کہ: "کشفہالی بمدینة فارس حتی رايت خاتم الولاية منه" (تصحیح الکرامہ ص ۴۰۸) میں بھی لکھا ہے کہ مراد بمشرق فارس است۔ (برابین احمدیہ ص ۱۸۵، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۶) میں ہے کہ میرا دعویٰ یہ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو "من ولد فاطمة ومن عترتی" کا مصداق ہے۔ (اربعین ص ۱۸، خزائن ج ۱ ص ۳۲۵ حاشیہ) میں مرزا قادیانی خود اقراری ہیں کہ کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۴۱، خزائن ج ۱ ص ۱۷۷) میں ہے کہ میرے بزرگ، چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے ہیں۔ پھر اسی کتاب (تحفہ گولڑویہ ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۱۱۶) میں دوسری جگہ یوں لکھا ہے کہ میرے پاس اپنے فارسی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سوائے الہام کے جو مخالفین کے لئے سند نہیں ہو سکتا۔ (عسل مضمون ص ۴۳۸) میں ہے کہ: "ولد نوح ثلاثة سام وحام يافث وولد سام العرب والفارس والروم والخير فيهم وولد يافث ياجوج وماجوج ولترك ولاخير فيهم وولد حام القبط والبر برد السودان (ابن عساکر عن ابی هريرة)" ناظرین خود انصاف کریں کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ اہل پنجاب میں اہل فارس نہیں ہیں اور فارسی الاصل نہیں، ترکی النسل ہیں۔ جس کو گوہر نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ بنی ہاشم سے ہونا ان میں نہیں پایا جاتا۔ سام کی اولاد نہیں تاکہ خیر حاصل کرتے۔ بلکہ یافث کی اولاد ہیں۔ جن میں خیر نہیں۔ مرزا قادیانی کو اقرار ہے کہ کوئی تاریخ ان کے الہام کی تائید نہیں کرتی۔ اس لئے گوہر صاحب کی تحقیق بغیر تنقید کے تسلیم کر لینا مفید نہ ہوگا اور مدعی سست اور گواہ چست کا منظر دکھانا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پہلے نمبر پر پنجابی الاصل ہیں۔ پھر ترکی الاصل اور تیسرے نمبر پر تحقیق گوہری کے مطابق فارسی الاصل بننے ہیں۔ مگر اہل فارس نہیں بننے جو حدیث میں مذکور ہے۔ اس لئے حدیث سے ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا۔ جناب بہاء فارسی الاصل نہیں اہل فارس ضرور ہیں۔ بلکہ عربی الاصل ہاشمی ہیں۔ اس لئے اس حدیث کے مصداق بننے کے کچھ حق دار ہیں۔ لیکن اہل تحقیق کے نزدیک مہدی موعود عربی الاصل اور اہل عرب ہیں۔ فارس سے ان کو کوئی تعلق نسبی نہیں۔ اس لئے دونوں کی مہدویت ہماری نظر میں مخدوش ہے۔ ورنہ دور کے تعلق سے تمام لوگ ہندی الاصل ہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام ابوالبشر کا تعلق ازکا سے تھا۔

اسی طرح ذیل کا مضمون بھی حل کر لینا چاہئے۔

نام باپ	اولاد
گل محمد	غلام نبی، عطاء محمد، قاسم بیگ
عطاء محمد	غلام مصطفیٰ، غلام محی الدین، غلام مرتضیٰ، غلام حیدر، غلام محمد۔
غلام مرتضیٰ	غلام احمد، غلام قادر
غلام احمد	سلطان احمد، فضل احمد، بشیر اول، محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، مبارک احمد۔
محمود احمد	ناصر احمد، مبارک احمد، منور احمد وغیرہ۔
بشیر احمد	مظفر احمد، حمید احمد، منیر احمد، مبشر احمد وغیرہ۔
شریف احمد	منصور احمد، ظفر احمد، داؤد احمد وغیرہ۔

آپ کا خاندانی سلسلہ ساسانی ہے۔ جو ایران و توران کے سلاطین وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ فریدون کے بیٹے ایرج نے ایران آباد کیا اور تور نے توران اور یہ دونوں صوبے مملکت فارس کے تھے۔ جب کیکاؤس کے بعد اس کا بیٹا کینجر تخت نشین ہوا تو اس نے جمن ولد افراسیاب کو قید سے نکال کر توران کی حکومت دے دی اور یوں کہا کہ۔

مرا با تو مہرست و پیوند خون  
باید کہ آئی ز بندم بروں

جس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں میں ان دنوں رشتہ داری تھی اور سرقد جہاں سے آپ کے آباؤ اجداد ہندوستان آئے توران میں واقع ہے۔ اس لئے آپ کا خاندان فارسی ہے نہ مغل اور نہ معلوم کس غلطی کی بناء پر مغلیہ خاندان کے نام پر مشہور ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب یزدجرد بن بہرام بن شاہ پور ساسانی فارس سے ترکستان کو بھاگ گیا اور وہاں پر رشتہ داری پیدا کر لی تو دو چار پشتوں بعد ترک مشہور ہو گیا اور مرزایا بیگ اعزازی خطاب ہیں جو سلاطین فارس اور ترک بادشاہ اظہار خوشنودی پر دیا کرتے تھے۔

مرزا قادیانی کا عہد طفولیت و تعلیم

مرزا غلام قادر اور دوسرے لوگ آپ کو میسٹرز (مسجد میں گوشہ نشین ہونے والا) کہتے تھے۔ بچپن میں آپ خوب تیرتے تھے۔ ایک دفعہ ڈوب بھی چلے تھے۔ مگر ایک بوڑھے نے پچالیا جو پھر نہیں دیکھا گیا تھا۔ سوار بھی خوب تھے، سرکش گھوڑے پر سوار ہونے تو اس نے آپ کو ہلاک

کرنا چاہا اور آپ کو درخت سے لکرایا اور خود مر گیا اور آپ گر کر بچ نکلے۔ آپ کو بچوں نے کہا کہ گھر سے بیٹھ لاؤ تو آپ نے بغیر اجازت کے نمک کا بورا کھاؤ سمجھ کر جیسیں بھر لیں اور بچوں میں جا کر خوب منہ بھر کر کھانے لگے تو دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے گڑ پیش کیا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر کچھ اور پیش کیا اس سے بھی انکار کر دیا۔ بہت اصرار کیا تو والدہ نے ناراضگی میں کہا کہ جاؤ پھر راکھ سے کھاؤ تو آپ روٹی پر راکھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ آپ ایک دن کسی کنوئیں پر لاسا بنا رہے تھے تو ایک چیز کی ضرورت پڑی۔ ایک چرواہے سے کہا کہ تم گھر سے وہ چیز لا دو میں تمہاری بکریاں چراؤں گا تو وہ سارا دن واپس نہ آیا تو گویا سنت انبیاء پوری ہو گئی اور لاسا گوند اور درختوں کے دودھ وغیرہ سے پرندوں کے شکار کے لئے بناتے ہیں۔ آپ والدہ کے ہمراہ ہوشیار پور جاتے تھے تو چوہوں (بارانی نالیوں) میں پھرا کرتے تھے۔ ایک نے آپ کے استاد سے کہا کہ خواب میں ایک مکان دھوئیں سے گھرا ہوا میں نے دیکھا ہے اور عیسائیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اندر معلوم ہوتا تھا کہ حضور ﷺ تھے۔ استاد صاحب تعبیر نہ دے سکے تو آپ نے کہا کہ وہ عیسائی ہو جائے گا۔ کیونکہ انبیاء شمشے ہیں۔ ان سے اپنا منہ نظر آتا ہے تو ایسا ہی ہوا۔ آپ کے استاد فضل الہی قادیان کے باشندہ حنفی تھے۔ دوسرے استاد فضل احمد فیروز پور والا ضلع گوجرانوالہ کے باشندہ اہل حدیث تھے۔ مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی انہی کے بیٹے تھے۔ جو خلافت ثانیہ کے رو میں بہ گئے۔ تیسرے استاذ سید گل شاہ بٹالہ کے باشندہ اور شیعہ تھے۔ آپ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے تو توام تھے۔ آپ اپنے ننیال (ائمہ ضلع ہوشیار پور) میں کئی دفعہ گئے تو وہاں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔ چاقو نہ ہوتا تو سر کندے سے ہی ذبح کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ننیال کی چند بوڑھی عورتیں قادیان آئیں تو کہنے لگیں کہ سندھی (مرزا قادیانی) ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ تب دستور تھا کہ چھوٹے بچے کو پیار سے سندھی کہہ کر پکارتے تھے۔ کیونکہ جس بچے کے گلے میں سیندھی (ہستی) ڈال کر نذر پوری کرتے تھے۔ اس کا نام عموماً سندھی رکھ لیا کرتے تھے۔ (اسلاف کے بیان میں مذکور ہو چکا ہے کہ سلطان احمد کی نانی کہتی تھی کہ آپ کی والدہ نے منٹیں مان کر آپ کی پرورش کی تھی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آپ کا پیارا نام پہلے سندھی ہی تھا) ہمیں اس سے بحث نہیں کہ آپ کا نام کیا تھا۔ اس میں کیا تبدیلی ہوئی۔ مگر یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ آپ کو عہد طفولیت دیہاتی بچوں کی طرح نہایت لاپرواہی میں گذرا ہے اور جسمانی عوارض کا شکار آپ پہلے سے ہی ہو چکے تھے۔ خلوت نشینی، دل کی کمزوری، ضد کرنا اور چپ چاپ رہنا اور سائیں لوگ یا مسیتو کہلانا

یہ سب ایسے بچے کے عوارض ہوتے ہیں کہ جس کی فطرتی صحت میں کچھ خلل آ گیا ہو۔ معراج دین عمر نے براہین احمدیہ کے اوّل آپ کی سوانح حیات لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آپ کے والد صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ غلام احمد کہاں ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ جاؤ مسجد میں ہوگا۔ یا مسجد کی ٹوٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ ملے تو کسی نے صف میں لپیٹ دیا ہوگا۔ کیونکہ اس پر کچھ ہوش نہیں۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ بڑا ہو کر یہ اپنا پیٹ کس طرح پالے گا؟ ”او کما قال“، مگر آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ شخص ایسا کام کرے گا کہ دنیا میں ان لوگوں کی تعداد میں آئے گا جو انگلیوں پر شمار کئے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ۔

بنا واں آل چناں روزی رساوند

کہ دانا اندواں حیراں بہماند

بہر حال کچھ بھی ہو آپ کا عہد طفولیت کسی نبی کے عہد طفولیت کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ نہ اس میں ابراہیمی طفولیت کا ولولہ، توحید موجود ہے۔ نہ موسوی وجاہت اور جلال کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ نہ عیسوی اعجاز نمائی کا کرشمہ موجود ہے اور نہ احمدی طفولیت کی عصمت قدر افزائی اور آثار نجات یا تاثر رسالت نمایاں ہیں۔ ہاں اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو رام چندر، کرشن مہاراج، بابا نانک کے عہد طفولیت سے آپ کے حالات ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ نے کرشن وغیرہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ طبی اصول سے اگر آپ کے عہد طفولیت کا موازنہ کیا جائے تو کسی انسان کامل کے بچپن کے ساتھ ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو بچہ پیدا کئی ہی دائم المریض ہو اس میں شان رسالت کا نمودار ہونا بالکل ناممکن ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ بچپن ہی میں دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو مقدس خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا تقدس قائم رکھنے کی دھن میں شب و روز ایسے وسائل سوچتے رہتے ہیں کہ جن سے ان کی دماغی بیماریاں استغراق فی ملکوت اللہ اور فی اللہ کا رنگ دکھائی رہتی ہیں۔ ورنہ حقیقت میں نہ ایسے لوگ خدا رسیدہ ہوتے ہیں اور نہ اولیاء نہ پیغمبر۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کو مجذوب یا کاہن کا خطاب دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ شان رسالت کے لئے عقلاً یہ پہلی شرط ہے کہ مدعی نبوت کو دماغی عارضہ نہ ہو اور جسمانی بیماریوں سے بھی اس کے جسمانی حالات مشتبہ نہ ہوں۔ تاکہ تبلیغ رسالت کا کام اچھی طرح سرانجام دے سکے اور نقص عقل صنف نازک کی طرح نقص دین کا باعث ہو کر مدعی کو اپنے پایہ اعتبار سے نہ گرا دے۔ آپ کے حالات جب یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایام شباب میں بھی آپ بہت رویا کرتے تھے اور تنہائی پسند اور مستز کوہلاتے تھے اور دماغی

دورے اس کثرت سے پڑتے تھے کہ آپ روزہ رکھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ مسجد کی امامت کرانے کے بھی قابل نہ رہے اور اعکاف بھی نہ کر سکتے تھے تو ایسا معذور آدمی امامت صغریٰ کی اہلیت نہ رکھتے ہوئے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ امامت کبریٰ کا بھی حق دار ہے یا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانی بادشاہت کا مدعی بن کر اپنے منکرین کو دین الہی کے باغی اور منکر اسلام قرار دے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انبیاء کی جسمانی طاقت اور دماغی قومی مشک و عنبر کے مرکبات کے محتاج نہیں ہوتے۔ بلکہ روکھی سوکھی کھا کر فطرتی طور پر انوار شباب کو ساٹھ سال بلکہ سو سال تک نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ مریل اور دائم المریض نہیں ہوتے کہ مذہبی فرائض ادا کرنے سے بھی معذور ہوں۔

ولا ینفع الجرباء قرب صحیحة  
الیها ولكن الصحیحة تجرب

### مزانج و عادات

سوتے وقت تہ بند باندھتے اور کرتا تار دیتے۔ رفع حاجت کے بعد اپنا ہاتھ مٹی سے مل کر پانی سے دھوتے۔ طہل کے سپید رومال میں کچھ پیسے باندھ رکھتے تھے۔ بچے مانگتے تو دے دیتے۔ کام ہوتا تو کہتے پھر آنا ابھی تنگ نہ کرو۔ اس سفید رومال کا دوسرا کنارہ واسکٹ سے سلوا لیتے تھے۔ یا کاج میں باندھ لیتے تھے۔ چابیاں آزار بند سے باندھتے تھے۔ جو کبھی لٹک بھی آتا تھا۔ وہ آزار بند عموماً ریشمی ہوتا تھا۔ کیونکہ کثرت پیشاب سے آپ کو بار بار کھولنے میں آسانی ہوتی تھی۔ ورنہ سوتی کی گرہ مشکل سے کھلتی ہے۔ صبح کو ایک دو میل سیر کو جاتے۔ خادم ساتھ ہوتے اور ان سے گفتگو ہوتی تو اخبار والے نوٹ کر لیتے۔ جاتے وقت مولوی نور الدین صاحب اور نواب محمد علی کو ساتھ لے جاتے۔ کئی دفعہ کئی منٹ انتظار بھی کرتے۔ مولوی صاحب پیچھے رہ جاتے تو ظہر کر ساتھ ملا لیتے تھے۔ کیونکہ آپ تیز رو تھے۔ سیر کے لئے بسر اوان (مشرق قادیان) یا بوز (شمال) کو نکل جاتے یا اپنے باغ میں جاتے تو شہتوت وغیرہ کھلاتے اور کھاتے۔ کسی کی ٹھوک سے عصاب گر جاتا تو پروانہ کرتے۔ بسر اوان سے ایک دفعہ واپس آئے تو راستہ میں مرزا نظام الدین نے جھک کر سلام کیا۔ کیونکہ لوگ بکثرت ہمراہ تھے۔ آخری جلسہ میں بوز کو نکلے تو زیادہ بھیڑ سے گھبرا کر تھوڑی دور جا کر واپس آ گئے۔ بھیڑ ہوتی تو خادم ارد گرد اپنے بازوؤں سے چکر بنا لیتے تھے۔ آپ میانہ قد، گندم گوں، چہرہ بھاری، بال سیدھے اور ملائیم اور ہاتھ پاؤں بھرے بھرے تھے۔ آخری عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھا اور بارعب تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں اسٹیشن پر گاڑی کو دیر تھی تو آپ

اہلیہ کے ہمراہ پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے۔ مولوی عبدالکریم نے مولوی نور الدین صاحب سے کہا کہ اہلیہ کو کسی جگہ بٹھا دیں تو اچھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی جا کر کہو۔ تو جا کر عرض کی تو جناب نے فرمایا کہ: ”جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔“ جناب کو جب دورے پڑنے شروع ہوئے تو سارا رمضان روزے نہیں رکھے۔ دوسرا رمضان آیا تو آٹھ روزے رکھے تو دورہ شروع ہو گیا۔ تو باقی چھوڑ دیئے۔ تیسرا رمضان آیا تو دس رکھے تو دورہ شروع ہو گیا۔ چوتھے رمضان میں تیرہ رکھے تو مغرب کے قریب دورہ ہوا تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ شروع شروع میں جب برد اطراف اور دوران سر کے دورے پڑے تو بہت کمزور ہو گئے تھے اور رمضان تک بھی طاقت نہ پائی تھی کہ روزے شروع کر دیئے تو پھر جب دورہ پڑتا تھا تو روزے ترک کر دیتے تھے اور فدیہ ادا کر دیتے تھے۔ اوائل عمر میں غرارے پہنتے تھے۔ پھر معمولی پاجامہ پہنتے تھے۔ پگڑی سپید ململ کی ہوتی تھی۔ پگڑی کے نیچے گرم قسم کی رومی ٹوپی پہنتے تھے اور گھر صرف وہی ٹوپی ہوتی تھی۔ گرمیوں میں ململ کا کرتہ پہنتے تھے۔ جس پر گرم کوٹ یا گرم صدری ہوتی۔ پاجامہ بھی آپ کا گرم ہوتا تھا۔ جراب پہنے رہتے تھے۔ سردیوں میں دو دو تین تین جرابوں کے جوڑے تہہ جہہ پہنتے تھے۔ جو تہہ دہی پہنتے تھے۔ جب سے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ سردی گرمی میں گرم کپڑے پہننے شروع کر دیئے۔ گو کبھی تکلیف ہوتی۔ مگر ان کا استعمال نہیں چھوڑا۔ شیخ رحمت اللہ گجراتی (پھر لاہوری) جب سے داخل بیعت ہوئے کپڑوں کے جوڑے وہی لاتے تھے۔ کسی نے گرگابی پیش کی تو اٹنے سیدھے کا آپ کو پتہ نہ تھا۔ اہلیہ نے نشان بھی کر دیا مگر تاہم الناسیدھا پہن لیتے تھے۔ آخر اسے چھوڑ کر کہا کہ انگریزوں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔

بود و باش

انگریزی قمیص کی کالر کے متعلق بھی یہی لفظ فرماتے تھے۔ کیونکہ بٹن کھولنے اور لگانے سے آپ گھبراتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ کیا کان سے لٹکتے رہتے ہیں۔ عام طور پر جیسا کپڑا مل جاتا پہن لیتے تھے۔ جکڑنے والے لباس سے نفرت تھی۔ گھر میں پگڑیاں اور ململ کے کرتے تیار ہوتے تھے۔ باقی کپڑے ہدیہ آتے تھے۔ کمر پر پٹکے استعمال کرتے تھے۔ باہر جاتے تو کوٹ ضرور پہنتے۔ عصا بھی لیتے۔ آخری سال اہلیہ نے پورے ایک تھان کے کرتے تیار کرائے تو آپ نے کہا کیا ضرورت تھی؟ جمعہ کے روز کپڑے بدل کر خوشبو لگاتے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھاتے تو ”انما اشکو ابثی“ ضرور پڑھتے۔ آپ کی قرأت لہر دار ہوتی اور اعتکاف کبھی نہیں کیا۔ آپ بیت الفکر میں لیٹے ہوئے تھے کہ ملاو امل یا لالہ شرم پت نے دستک دی۔ عبداللہ خادم کندہ کھولنے چلا تو



آپ پہلے دوڑ کر کھول آئے۔ کہا کہ حدیث کے مطابق مہمان کی عزت واجب ہے۔ (بیت الفکر قادیانی عبادت گاہ مبارک کا ایک حجرہ ہے جو جناب کے گھر سے ملحق ہے) عبداللہ سنوری نے کہا کہ شیخ حامد علی نے بتا دیا کہ میں حقہ پیتا ہوں۔ پیر دبانے لگا تو حامد علی سے کہا کہ حقہ تازہ کر کے لے آؤ۔ پھر مجھے کہا کہ پیتے کیوں نہیں؟ میں نے شرم کے مارے ایک گھونٹ پیا پھر نفرت ہو گئی۔ پھر میرے سوڑھے پھول گئے تو آپ نے فرمایا کہ بطور علاج پی سکتے ہو۔ کچھ دن پیا پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے مجھے ایک ٹوٹا ہوا حقہ کیل سے لڑکا ہوا دکھایا کہ ہم نے تو اسے پھانسی دیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم کو تو اس سے طبعی نفرت ہے۔ شاید یہ حقہ کسی عورت کا ہوگا۔ چوہدری غلام محمد بی۔ اے ۱۹۰۵ء کو قادیان آیا تو آپ نے سبز رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے گراں گذرا۔ مگر مقدمہ ابن خلدون پڑھا تو معلوم ہوا کہ سبز پگڑی میں وحی بہت ہوتی ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب اعجاز احمدی کی تصنیف کے بعد مباحثہ کے لئے آئے تو دستی خط و کتابت شروع ہوئی تو آپ جب اپنی عبادت گاہ سے گھر جا رہے تھے تو مولوی صاحب کے آدمی نے کہا کہ فلاں کام کون کرے گا تو آپ نے کہا، تو اس سے پیشتر یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کو کسی نے گھڑی تحفہ دی۔ جس کو رومال میں باندھ کر رکھتے تھے اور وقت دیکھتے تو ایک دو گنتے گنتے اصل وقت پر پہنچ جاتے۔ آپ بڑی عبادت گاہ میں جاتے تو ڈول سے ہی منہ لگا کر پانی پیتے یا ٹنڈ اور آنجورہ سے پیتے۔ تازہ پکوڑے مسجد میں ٹہل ٹہل کر کھاتے تھے۔ سالم مرغ کا کباب بھی پسند تھا۔ ہوشیار پور گئے تو مرغ کا کباب ساتھ لے گئے تھے۔ مولیٰ کی چٹنی، گوشت معہ موگرہ، بھنی ہوئی بوٹیاں، خوب سینکی ہوئی چپاتی اور پتلا شوربا جس میں گوشت خوب گداز ہو چکا ہو۔ سکنجبین، چاول شیریں گڑ کے، میٹھی روٹی، چائے میں دیسی شکر مرغوب خاطر تھی۔ کہا کہ صرف گوشت ہی کھانے سے چالیس دن تک دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس میں سبزیاں بدل بدل کر کھانا چاہئے۔ کچھ جیسا شوربا پسند نہ تھا۔ کہا کہ ایک آنہ کے گوشت میں (جو سیر بھرل جاتا تھا) دس آدمی کے لئے شوربا بنانا چاہئے۔ بھیڑ کا گوشت آپ کو پسند نہ تھا۔ کسی نے تسبیح پیش کی تو عبداللہ سنوری کو دے دی کہ تم اس پر درود شریف پڑھا کرو۔ کیونکہ آپ تسبیح کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قادیان کے پہلے جلسہ میں تقریر سے پہلے کہا کہ عبداللہ سنوری ہمارے اس وقت کے دوست ہیں جب کہ ہم گوشہ گننامی میں تھے۔ یہ اس لئے کہا کہ تم اس سے واقف ہو جاؤ۔ آپ کا یہ اکثر مقولہ تھا کہ خدا داری چہ غم داری، چوبارے میں رہتے تھے اور وہیں کھانا آتا تھا اور کبھی اعتراض نہیں کیا گیا۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے۔ حالت نازک ہو گئی۔ حکیموں نے لا علاج کر دیا اور نبض بھی ساقط ہو گئی تو آپ نے کہا کہ

میرے پیٹ پر نیچے اور پرکچڑ رکھو تو آرام آ گیا۔ کیونکہ زحیر کا مرض تھا۔ عموماً غرارہ پہنتے تھے مگر سفر میں تنگ پا جامہ بھی پہنتے تھے۔ شرم پت اور ملاوٹل ہی قادیانی دوست ہے اور کوئی نہ تھا۔ آپ یہ اخبار پڑھا کرتے تھے۔ جب علی کا اخبار سفیر امرتسر، اگنی ہوتری کا رسالہ ہندو بندہ اور منشور محمدی اخیر عمر میں اخبار عام لاہور اور اس میں اپنا مضمون بھی بھیجتے تھے۔ میٹھی روٹی آپ کو مرغوب تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ میٹھی روٹی کھانے لگے تو کچھ تلخی معلوم ہوئی۔ مگر کچھ محسوس نہ کیا۔ پھر تلخی معلوم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خادمہ نے کھانڈ کی بجائے کنین ڈال دی تھی۔ جہلم کے مقدمہ میں ایک دن گورداسپور پہلے ہی چلے گئے۔ دعاء کے لئے ایک کوٹھڑی مقرر کر رکھی تھی۔ اس میں جاتے ہوئے اپنی چھڑی مولوی محمد علی صاحب کو دیتے گئے۔ باہر نکلے تو آپ کو دی گئی۔ کہا کہ کیا یہ میری ہی چھڑی ہے؟ محویت میں غرق تھے۔ پہچان نہ سکے۔ حالانکہ وہی چھڑی مدتوں سے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایم ذوالفقار کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ سے مسجد کی سیڑھیوں میں ملے۔ جب کہ آپ ایک افغان کو افغانستان میں تبلیغ کے لئے بھیج رہے تھے اور وہ ڈرتا تھا۔ اس لئے آپ ناخوش تھے۔ آپ نے مجھے نہ پہچانا واپس چلے گئے۔ ظہر کے وقت کسی نے کہا کہ تحصیلدار صاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بڑے تپاک سے پوچھا کہ آپ کب سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس وقت سے کہ افغان کو آپ بھیج رہے تھے تو آپ نے میری طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اس لئے میں روتا رہا کہ یا اللہ آج کیا بات ہے کہ حضور نے بشارت کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ آپ مسرت اور تبسم سے ملتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ وہ غیر مہذب ادھر ادھر کے قصے چھیڑ دیتے تو سنتے رہتے تھے۔ مجلس بے قاعدہ ہوتی تھی۔ عموماً بعد از نماز ہوتی تھی۔ کوئی سوال پوچھایا مخالف کا ذکر آجاتا یا اپنی جماعت کی تکالیف کا ذکر آجاتا تو آپ تقریر کرتے ہوئے چھوٹی آواز سے شروع کرتے۔ پھر آواز بڑی ہو جاتی تو دور والے بھی سن لیتے تھے اور آپ کی آواز میں خاص سوز ہوتا تھا۔ فضل الدین وکیل لاہوری غیر احمدی نے عیسائیوں کے مقدمہ میں مولوی محمد حسین پر جرح کرنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ اس کا حسب نسب پوچھ کر شہادت کمزور کروں تو آپ نے اجازت نہ دی اور کہا کہ: ”لا یحب اللہ الجہر بالسوء“ اور جب مولوی محمد حسین کو عدالت میں کرسی نہ ملی تو اس کی خوب اہانت ہوئی اور یہ الہام پورا ہوا کہ: ”انی مہین من اراد اهانتك“ ڈگلس صاحب کو آپ نے کہا کہ مجھ پر قتل کا الزام لگایا ہے تو اس نے کہا مبارک ہو میں نے آپ کو بری کر دیا ہے۔ ڈگلس پہلے فوجی کپتان تھا۔ پھر ڈپٹی کمشنر ہوا پھر جزائر انڈمان میں چیف کمشنر ہو گیا تھا اور فوجی کرنل کے عہدہ میں پنشنر ہو کر

ولایت چلا گیا۔ مولوی مبارک علی مبلغ قادیان ۲۸ جولائی ۱۹۲۲ء کو جب صاحب ممدوح سے ملے تو دوران گفتگو میں اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ عبد الحمید مستغیث مشنریوں کے پاس رہ کر ہر روز جھوٹ گھڑ کر اپنی مثل مکمل کرتا رہتا ہے۔ اس لئے جب حوالہ پولیس ہوا تو فوراً میرے قدموں پر گر کر اقبالی ہو گیا کہ یہ صاف افتراء ہے۔ پھر کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ غلام احمد کا قائم کیا ہوا سلسلہ اتنی ترقی کر گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ جماعت کی کمزوری مطالعہ کرتے تو عام تقریر کر کے اصلاح کر دیتے اور بات بات پر ٹوکنے کی بجائے دعاء پر زور دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ دل درست ہو جائے جو جڑھ ہے تو اعمال جو شاخ ہیں خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تم کو داڑھی کی فکر ہے اور مجھے ایمان کی فکر ہے۔ کہا کہ جو شخص سچے دل سے مجھے خدا کا بھیجا ہوا سمجھتا ہے وہ جب دیکھے گا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو اس کا ایمان خود داڑھی رکھوا لے گا۔ صبر اور ہمدردی پر بہت زور دیتے تھے۔ تکبر، سنگدلی، درشتی اور تنعم و تعیش سے نفرت تھی۔ کہتے تھے کہ سور سے طبعی نفرت مسلمان کو اس لئے ہوئی ہے کہ باقی محرمات کو بھی یوں ہی سمجھے۔ کہا کرتے تھے کہ: ”الاستقامة فوق الكرامة“ آپ کہتے تھے کہ مجھے بعض دفعہ تکلیف سے غصہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ غصہ بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مولوی محمد علی ڈھاب میں نہانے لگے تو گھرے پانی میں چلے گئے تو لوگوں نے نکالنا شروع کیا۔ مگر جو جاتا اسے بھی دبا لیتے۔ خوب غوطے کھائے تو قاضی میر حسین نے غوطہ لگا کر نیچے سے ان کو باہر پھینک دیا تو باہر آ گئے تو آپ نے کہا کہ گھرے کے پانی سے نہالیا کریں۔ میں تو بچپن میں اتنا تیرتا تھا کہ ڈھاب بھر جاتی تو ساری قادیان کے ارد گرد ایک دفعہ ہی چکر لگاتا تھا۔ واضح رہے کہ ڈھاب چاروں طرف محیط ہے۔ بارش کے موقع پر قادیان جزیرہ بن جاتا ہے۔ نکاح ثانی کو پندرہ سال گذر گئے۔ مگر آپ نے ایک دفعہ بھی گھر میں ناچاقی پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ عورتیں کہتی تھیں کہ مر جا بیوی دی گل بڑی من دا اے۔ آپ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے بیوی پر آواز کسی جس سے معلوم ہوا کہ میرے دل میں رنجش ہے تو مجھے استغفار اور صدقہ خیرات اور نوافل ادا کرنے پڑے۔ محمدی بیگم کے نکاح میں دوسری اہلیہ خود دعاء کرتی تھیں کہ یا اللہ یہ کام سرانجام ہو۔ ایک دفعہ اسے دعاء مانگتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ تمہیں سوت کیونکر پسند ہے تو اس نے کہا کہ کچھ ہی ہو مگر آپ کی بات پوری ہو جائے۔ آپ مصروفیت میں محو رہتے تھے۔ معاون تھک جاتے تھے۔ مگر آپ تصنیف و تالیف، تربیت جماعت اور دیگر مشاغل میں ہر وقت مستغرق رہتے تھے۔ مولوی عبدالکریم کا قول ہے کہ میں نے دیکھا کہ مشکل سے مشکل مضمون بھی آپ لکھتے ہوئے ماحول کے شور و شغب سے متاثر نہ ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ میں تو سنتا ہی نہیں

تو پھر تشویش کیا ہو؟ تبلیغ لکھنے کے دنوں میں ایک دو ورقہ آپ نے لکھا جس کا ترجمہ فارسی میں کرنے کو مولوئی عبدالکریم کو دینا تھا۔ آپ کو دینا یاد نہ رہا۔ سیر کو گئے تو راستہ میں آپ نے وہ دو ورقہ حکیم صاحب کو دے دیا کہ ان کو پہنچادیں۔ مگر ان سے گر گیا۔ بہت تلاش کیا مگر نہ ملا۔ مولوی صاحب نے مضمون منگوا بھیجا اور آپ اس وقت سیر سے فارغ ہو کر گھر چلے گئے تھے۔ حکیم صاحب کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ مگر آپ مسکرا کر کہنے لگے کہ مجھے خدا سے امید ہے کہ اس سے بہتر عنایت کرے گا۔ سید سرور شاہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب مسیحیت کا دعویٰ کیا تو میں لاہور تعلیم پاتا تھا اور دیوبند جانے کو تھا۔ حکیم صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کے تعلقات بہت تھے۔ اس لئے میں حکیم صاحب کے پاس جایا کرتا تھا۔ حکیم صاحب اس وقت مسجد چونیاں لاہور میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی بھی آگئے تھے۔ جب کہ وہ وضو کر رہے تھے کہا کہ مولوی صاحب آپ جیسے بھی مرزا کے ساتھ ہو گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ: ”علی وجہ البصیرة“ مانا ہے اور منجانب اللہ پایا ہے۔ اسی پر تنازع ہو گیا۔ دوسرے دن بحث ہوئی۔ مگر ابھی بحث ختم نہ ہوئی تھی کہ حکیم صاحب کو تارا گیا کہ جموں فوراً چلے آؤ تو حکیم صاحب لدھیانہ آگئے کہ آپ سے مل کر جائیں۔ کچھ عرصہ بعد میں خود لدھیانہ گیا اور ابراہیم غیر احمدی کے پاس ٹھہرا تو اس نے کہا کہ مرزا قادیانی آج کل بیہوش ہیں۔ مخالفت بہت ہے میں تو نہیں جانے کا تم خود مل سکتے ہو۔ میں گیا تو آپ کمرہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ مصافحہ کیا تو آپ سر نیچے کر کے بیٹھے رہے۔ انگریزی حکومت کا ذکر دیر تک ہوتا رہا۔ مگر آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ اس وقت آپ کا رنگ زرد تھا۔ بہت کمزور تھے۔ کچھ دیر بعد مصافحہ کر کے میں اٹھ آیا اور ابراہیم سے کہا کہ لوگ ویسے ہی مخالف ہو رہے ہیں۔ وہ تو چند دن کے مہمان ہیں۔ بچتے نظر نہیں آتے۔ اصل میں ابتدائے دعاوی کے وقت سے دورے بھی شروع ہو گئے تھے۔ مگر بعد میں الہام ہوا کہ: ”ندد الیک انوار الشباب“ تو آپ کی طبیعت سنبھل گئی اور اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ اب اپنے خادموں سے بے تکلف بھی رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب خواجہ کمال الدین کے حافظ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ وہ ایک دفعہ پاخانے گئے تو لونا وہیں بھول آئے اور نوکروں نے یہ سمجھا کہ لونا گم ہو گیا ہے۔ مفتی محمد صادق کے متعلق آپ کہا کرتے تھے کہ ہمارے مفتی صاحب، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مفتی صاحب سے بھی آپ کو بہت پیار تھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کا ربنکل سے بیمار ہوئے تو جناب کے کمرہ کے نیچے کٹھڑی میں رہتے تھے۔ ڈاکٹروں نے چیر چیر کر آپ کا بدن چھلنی کر دیا تھا۔ آپ کراہتے تو جناب کو تکلیف ہوتی۔ اس لئے جناب نے

کمرہ بدل لیا تھا اور تادم مرگ مولوی صاحب کو دیکھنے بھی نہیں گئے۔ کیونکہ جناب کو آپ کا دکھ دیکھنا ناقابل برداشت تھا کہ کہیں دیکھ کر اپنا دورہ نہ شروع ہو جائے۔ مولوی صاحب زیارت کے بہت مشتاق تھے۔ غشی میں کہتے کہ سواری لا کر مجھے قادیان پہنچاؤ۔ ہوش سنبھالتے تو کہتے کہ کم از کم ایک دفعہ کھڑے کھڑے مجھے اپنا دیدار دے جائیں۔ مولوی صاحب کی اہلیہ نے جناب سے ملاقات کو لکھا کہ آپ تیار ہو گئے۔ اس نے جلدی سے مولوی صاحب کو خبر کر دی کہ جناب آتے ہیں تو مولوی صاحب نے روک دیا کہ جناب تکلیف گوارا نہ فرمائیں میں تو اپنا دکھڑا روتا ہوں۔ ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جناب میری تکلیف دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گے۔ ایک دفعہ آپ ریسرچ ورک (تفتیش حوالہ جات) کر رہے تھے تو کام کرنے والے پر چیاں بھیج کر آپ سے بات پوچھتے تھے۔ معراج الدین عمر لاہوری نے پرچی بھیجی تو السلام علیکم لکھنا بھول گئے تو آپ نے جواب میں یہ بھی لکھا کہ السلام علیکم آپ کو لکھنا چاہئے تھا۔ آپ کو السلام علیکم لکھنے کی اتنی عادت کہ ایک ہندو کو خط لکھا تو السلام علیکم لکھ دیا۔ کاٹ کر پھر لکھ دیا اور تیسری دفعہ پھر لکھ دیا۔ تو آخر آپ نے کاغذ ہی بدل لیا۔ آپ منگل کو برا جانتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی لڑکی مبارکہ بیگم کی ولادت منگل کو ہو رہی ہے تو بہت دعاء کی تو پھر خدا نے ولادت بدھ کے دن بدل دی۔ آپ کو دوران سر اور ہسٹریا کا دورہ بشیر اول متوفی ۱۸۸۸ء کی وفات پر ہوا۔ رات کو اٹھو آیا۔ طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دفعہ نماز کو نکلے تو کہا کہ طبیعت خراب ہے۔ حامد علی نے گھر دستک دی کہ پانی گرم کر دو۔ اہلیہ نے حال پوچھ بھیجا تو حال خراب معلوم ہوا۔ تو خود پردہ کر کے مسجد میں آئیں تو جناب نے فرمایا کہ اب افاقہ ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا کہ کالی کالی چیز سامنے اٹھتی ہوئی نظر آئی جو آسمان تک چلی گئی۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی ہو گئی۔ اس کے بعد باقاعدہ دورے پڑتے رہے۔ جن میں ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے اور خاص کر گردن کے پٹھے تو کھچے بھی جاتے تھے۔ سر میں چکر ہوتا اور بدن سہا نہیں سکتے تھے۔ شروع میں یہ دورے سخت پڑتے تھے۔ بعد میں خفیف معلوم ہونے لگے۔ کیونکہ آپ عادی اور کمزور ہو چکے تھے۔ دوروں کے وقت سے آپ نے نماز پڑھانی چھوڑ دی تھی۔ الہام کے وقت رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ ایک دفعہ اپنے مکان میں ہی تھے کہ صبح کے وقت آپ کو غنودگی ہو گئی۔ لیٹ گئے تو ہونٹوں سے کچھ آواز شنوائی دینے لگے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کہا کہ یہ الہام کی حالت تھی۔ عموماً آپ بیدار ہو کر لکھ لیتے تھے۔ پہلے پہل کتاب پر ہی نوٹ کر لیتے تھے۔ بعد میں بڑی کاپی بنائی پھر نوٹ بک تیار کی جو اب تک مرزا محمود کے پاس موجود ہے۔ اخیر عمر میں ٹیڑھی نب سے لکھتے تھے۔ بغیر لکیر کے سفید کاغذ

لے کر دونوں طرف حاشیہ کے لئے شکن ڈالتے تھے۔ کالی اور بلو بلیک دونوں طرح کی سیاہی استعمال کرتے تھے۔ مٹی کا اہلہ بنا کر اس میں دوات نصب کر لیتے تھے۔ عموماً ٹہلنے ہوئے لکھتے تھے اور دوات ایک جگہ پر پڑی رہتی۔ پاس جاتے تو نب تر کر لیتے اور لکھتے ہوئے باریک آواز سے پڑھتے بھی جاتے تھے۔ مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا۔ خط شکستہ تھا جس کو مشق ہوتی وہی پڑھ سکتا تھا۔ تحریر بہت باریک تھی اور لفظ کاٹ کاٹ کر لکھتے تھے۔ اوائل میں آپ کو دورہ سخت پڑا تو آپ کے دونوں بیٹے مرزا سلطان احمد اور فضل احمد پاس آگئے اور ان کے سامنے بھی دورہ پڑا۔ سلطان احمد خاموش رہا اور فضل احمد بیتاب ہو گیا اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کاپنے لگے۔ آپ ایک دفعہ مرزا امام الدین کے ہمراہ پنشن وصول کرنے گئے تو وہ آپ کو پھسلا کر کہیں لے گیا۔ جب ساارو پیہ ختم ہو گیا تو وہ کہیں اور جگہ چلا گیا اور آپ شرم کے مارے گھر واپس نہ آئے اور اس نے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا تو پکڑا گیا۔ مگر مقدمہ میں آپ کی وجہ سے رہا ہو گیا۔ ایک دفعہ والد نے نوکری کے لئے بلا بھیجا تو اس وقت آپ کتاب مطالعہ کر رہے تھے۔ جواب دیا کہ میں نوکر ہو چکا ہوں۔ باپ نے کہا کہ اچھا۔ آپ کو یہ چیزیں مرغوب تھیں۔ پرندوں کا گوشت، مچھلی، پکڑے، مکی کی روٹی۔ مگر ایام طاعون میں بیٹرکا گوشت چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ اس میں طاعونی مادہ ہوتا ہے۔ ناشتہ اور خوراک بے قاعدہ تھی۔ مگر صبح کو دودھ ہر روز پی لیتے تھے۔ گوہضم نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ سکنج بین عرصہ تک پیتے رہے۔ ایک دفعہ چائے کثرت سے پی تھی اور ایک دفعہ صرف دہی سے روٹی کھاتے رہے۔ کھاتے وقت روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے چلے جاتے تھے۔ اس لئے ریزے بہت ہوتے تھے۔ لنگر خانہ کا انتظام گھر پر ہی کرواتے تھے۔ مہمان مقیم ہوں یا مسافر دونوں کے لئے خاطر خواہ کھانا تیار کراتے تھے۔ ہر چند مشورہ دیا گیا کہ مہمان خانہ کا انتظام کسی کے سپرد کیا جائے۔ مگر آپ نے منظور نہ کیا۔

آپ کے بعد حکیم نور الدین صاحب نے یہ انتظام صدر انجمن احمدیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ (انتہی) خونی تھے اور اتھو گورڈ اسپور کے مقدمہ میں وقوع پذیر ہوئی۔ جس پر آپ کو ڈاکٹری شمولیکٹ پیش کرنا پڑا۔ پھر اسی موقعہ پر لکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں نیم بند رہتی تھیں۔ (دیکھو بحث کرامات) آپ کا دایاں ہاتھ بالکل کمزور تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ آپ دریچے سے گر پڑے تھے۔ (دیکھو بحث کرامات) الوصیۃ میں لکھا ہے کہ آپ کے بال تیس سال میں ہی سفید ہونے شروع ہو گئے تھے۔

عہد شباب

ایک دفعہ آپ کو سل ہوئی تھی اور ناامیدی ہو چکی تھی۔ تو مرزا غلام محی الدین نے طفل

تلی دی کہ ڈرنا نہیں چاہئے۔ باپ نے چھ ماہ تک علاج کیا اور چھ ماہ تک بکرے کے پائے کا ٹوہ پلایا۔ ۱۸۷۷ء میں آپ کی دوسری اہلیہ بھی اٹھ نو سال کی تھی کہ میر ناصر قادیاں آئے اور مرزا غلام قادر کے مکان میں رہے تھے۔ جناب کو نہیں دیکھا کیونکہ اس وقت آپ چالیس سال کی عمر میں گوشہ نشین تھے۔ گوشہ نشینی کا کمرہ وہی تھا۔ جو آج مرزا سلطان احمد کے قبضہ میں ہے۔ دوسری شادی کا الہام آپ کو دلی میں شادی کرانے کا ہوا تھا۔ مولوی محمد حسین بنالوی کے پاس تمام فوائتگار اہل حدیث کی فہرست رہتی تھی اور میر صاحب بھی اہل حدیث تھے۔ اس لئے آپ کی بھی ان سے ملاقات تھی۔ مولوی صاحب کے مشورہ سے جناب نے میر صاحب کو دہلی لکھا۔ گو عمر کا فرق تھا۔ مگر آپ رضامند ہو گئے۔ جناب نکاح کے لئے حامد علی و ملا و اہل کو بھی ساتھ لے گئے۔ ۲۷ محرم ۱۳۰۲ھ مطابق ۱۸۸۴ء میں مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے نکاح پڑھایا۔ جناب نے پانچ روپے اور ایک مصلے نذر کیا۔ اس وقت جناب پچاس سالہ تھے۔ نکاح کی تقریب پہلے اتوار کو تھی۔ مگر جناب نے پیر کے دن تبدیل کرائی تھی۔ مولوی میر حسن صاحب سیالکوٹی سرسید کے داماد تھے۔ مگر وہ لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی ۱۸۶۳ء میں سیالکوٹ ملازمت کے لئے آئے۔ آپ عزت نشین تھے۔ لالہ بھیم سین بنالہ سے ہی آپ کا دوست بن چکا تھا۔ کیونکہ وہ بھی فارسی دان علم دوست تھا۔ اوائل گربا میں محمد صالح نامی ایک عرب وارد شہر ہوئے۔ تو پرکسن صاحب ڈپٹی کمشنر نے جاسوسی کے شبہ میں اس کے بیانات قلم بند کئے۔ جن میں مرزا قادیانی ترجمان مقرر ہوئے تھے۔ مولوی الہی بخش محرر مدارس یعنی ڈسٹرکٹ انسپکٹر نے منشیوں کے لئے ایک انگریزی مدرسہ قائم کیا۔ ڈاکٹر امیر شاہ پنشنر استاد تھے۔ مرزا قادیانی نے بھی انگریزی کی ایک دو کتابیں پڑھیں۔ آپ کو مباحثہ کا شوق تھا۔ دیسی پادری الایضہ نے کہا کہ عیسائی مذہب کے سوء نجات نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ نجات سے کیا مراد ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ بلکہ صاحب سے آپ کا مباحثہ بہت دفعہ ہوا۔ (یہ ایم۔ اے تھے اور موضع گوہد پور میں رہتے تھے) کہا کہ بے باپ پیدا کرنے میں یہ بھید تھا کہ آدم کی شرکت سے بری رہے۔ کیونکہ وہ گنہگار تھا۔ آپ نے کہا کہ مریم علیہا السلام بھی تو آخر آدم کی ہی نسل سے تھی تو بریت کیسی بالخصوص جب کہ عورت ہی گنہگار باعث بنی تھی؟ پادری صاحب خاموش ہو گئے۔ مگر ولایت جانے لگے تو آخری ملاقات کو آپ کے کمرہ میں فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ مراد بیگ متخلص بہ سکتہ و موحد نے آپ سے کہا کہ سرسید نے انجیل کی تفسیر لکھی ہے۔ آپ کو شغف ہے تو منگالیں تو آپ نے عربی میں خط لکھا۔ شیخ الحداد سابق محافظ دفتر اور مولوی محبوب عالم نقشبندی سے آپ کا انس تھا۔ حکیم منصب علی و وثیقہ نویس کی بیٹھک برسر بازار تھی اور

حکیم حسام الدین کی دواسازی محاذ پر تھی۔ اس لئے آپ کا تعارف حسام الدین سے ہو گیا تو اس نے آپ سے قانونچہ اور کچھ موجز پڑھی۔ آپ ملازمت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لئے مختاری کی طرف رخ کیا۔ مگر امتحان میں ناکام رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک استاد کی ضرورت تھی۔ آپ سے درخواست کے لئے کہا گیا کہ مدرسی اچھی نہیں۔ کیونکہ لوگ علم کو ناجائز امر کا آلہ بنا لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ نبی کو احتلام کیوں نہیں ہوتا۔ کہا کہ وہ نیک خیال ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جھگڑا ہوا کہ پاجامہ کی موہری کیسے ہونی چاہئے۔ کہا کہ تنگ تاکہ ستر عورت بھی ہو تو سب نے پسند کیا۔ آپ نے تنگ آ کر ۱۸۶۸ء میں استعفاء داخل کر دیا اور ۱۸۷۷ء میں لالہ بھیم سین کے مکان پر آئے اور حکیم حسام الدین نے دعوت دی۔ ان دنوں سرسید نے قرآن شریف کی تفسیر شروع کی تھی۔ میں اور لالہ داد لالہ صاحب کے مکان پر گئے تو میں نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفسیر میرے پاس آگئی ہے۔ کہا کہ کل لیتے آئیں۔ مگر دوسرے دن تفسیر سن کر خوش نہ ہوئے۔ ۱۸۶۳ء میں آپ کی عمر ۲۸ سال سے متجاوز نہ تھی۔ صاحبزادہ بشیر احمد لکھتے ہیں کہ میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا تو قلم دان پر (Red Copying Blue) لکھا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ (Copying) کا لفظ نہیں پڑھ سکے۔ گویا آپ کو صرف حرف شناسی تھی۔ سرسید نئی روشنی سے مرعوب ہو کر خوارق وغیرہ کے منکر ہو گئے تھے تو آپ نے آئینہ کمالات اسلام میں ان کو درد مندانہ طریق سے منسب کیا تھا۔ اوائل میں حکیم نور الدین بھی سرسید سے متاثر تھے۔ مگر آپ کی صحبت سے یہ اثر جاتا رہا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی بھی ایسے ہی تھے۔ چنانچہ ان کا شعر ہے کہ۔

مدتے در آتش نیچر فرو افتادہ بود

ایں کرامت میں کہ از آتش بروں آید مینم

ایک دفعہ آپ چوبارہ کی کھڑکی سے گر پڑے تو دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور آخر عمر تک وہ ہاتھ کمزور رہا۔ اس سے لقمہ تو اٹھا سکتے تھے مگر پیالہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ نماز میں بھی دایاں ہاتھ بائیں کے سہارے سنبھالنا پڑتا تھا۔ سارا دن الگ بیٹھ کر پڑھا کرتے۔ کتابوں کا ڈھیر ارد گرد ہوتا۔ شام کو پہاڑی دروازہ سے شمال کو سیر کرتے۔ ہر وقت دین کے کام میں لگے رہتے۔ گاؤں والے آپ کو امین کہتے تھے۔ آپ ہی کا فیصلہ مانتے تھے۔ مغل نہیں فقیر بن کر زندگی بسر کرتے تھے۔ ناراض بھی صرف دینی امور میں ہوتے تھے۔ سلطان احمد کو نماز کا حکم دیتے۔ مگر وہ نزدیک بھی نہ جاتا تھا۔ حضور ﷺ کی شان میں گستاخی سنتے تو فوراً چلے جاتے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا۔ جب دسمبر ۱۹۰۷ء کو آریوں نے وچھووالی لاہور میں جلسہ کیا تو آپ نے حکیم صاحب کی معیت میں چند



احمدی دے کر ایک مضمون پیش کیا تھا۔ مگر آریوں نے خلاف وعدہ حضور ﷺ کے حق میں بدزبانی کی جب آپ کو معلوم ہوا تو سب کو ڈانٹا۔ حکیم صاحب سر نیچے کئے بیٹھے تھے۔ کہا کہ تم کیوں نہ اٹھ کر چلے آئے۔ ایک دفعہ آپ اسپر بھی مقرر ہوئے تھے۔ مگر آپ نے انکار کر دیا۔ جو خادمہ آپ کو کھانا دینے جاتی تھی واپس آ کر کہتی تھی۔ ان کو کیا ہوش ہے یا وہ ہیں یا کتابیں۔ محمد عظیم خادم پیر جماعت علی شاہ علی پوری کا بیان ہے کہ ایام جوانی میں عیسائیوں کا وعظ جگہ جگہ ہوتا تھا۔ آپ امر ترس آتے تو عیسائیوں کے خلاف بڑا جوش رکھتے تھے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ میر حسن صاحب سیالکوٹی سے روایت ہے کہ ایک اہل کار کچہری سے گھر کو واپس ہوئے تو تیز دوڑنے کا ذکر آ گیا۔ بلائگھ نے سب سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو مرزا قادیانی مقابلہ میں آئے اور شیخ الحداد منصف مقرر ہوئے۔ ننگے پاؤں کچہری سے پل تک جانا تھا۔ جو شہر کے قریب تھی ایک آدمی پہلے بھیجا گیا کہ پل پر انتظار کرے کہ پہلے کون وہاں پہنچتا ہے۔ دوڑ ہوئی تو مرزا قادیانی پہلے پہنچ گئے۔ ۱۸۸۲ء لغایت ۱۸۸۶ء ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ والدہ بیمار ہوئیں تو والد کے حکم سے مستعفی ہو کر واپس آ گئے۔ ابھی امر ترس پہنچے ہی تھے اور یکہ کر ایہ کر لیا تھا کہ ایک آدمی قادیان سے آپ کے لینے کو آ حاضر ہوا اور کہا کہ جلدی چلو حالت نازک ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ مرچکی ہیں۔ (انتہی سیرۃ المہدی) اس بیان سے معلوم ہوا کہ: ”عہد شباب میں بھی عوارض جسمانی نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور آپ کے اول المؤمنین حکیم صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب بلکہ خود بھی سرسید کے اثرات میں مدتوں متاثر رہے تھے۔“

### ادبیات

آپ نے کہا کہ میری جتنی عربی تحریریں ہیں وہ ایک رنگ میں الہام ہی ہیں۔ کیونکہ خدا کی تائید سے لکھی گئی ہیں۔ کئی ایسے فقرات بھی لکھ جاتا ہوں کہ جن کے معنی نہیں آتے۔ پھر لغت دیکھتا ہوں۔ عربی کی کاپیاں اور پروف حکیم نور الدین اور مولوی محمد احسن کے پاس اصلاح کے لئے بھیج دیتے تھے۔ حکیم صاحب تو یوں ہی واپس کر دیتے اور مولوی صاحب کسی جگہ اصلاح کرتے تو آپ کہتے کہ میرا لفظ زیادہ فصیح اور بر محل ہے۔ کسی جگہ ان کا لفظ بھی رہنے دیتا ہوں کہ دل شکنی نہ ہو۔ آپ نے ”ایسا ارض مد“ کا قصیدہ لکھا تو حکیم صاحب سے پوچھا کہ کیا ایسا حرف ندا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں کہا کہ مجھے خیال نہیں تھا۔ آپ کبھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جو بڑی جستو سے ملتا تھا۔ آپ نے کہا کہ جن آیات کے معانی ظاہر نہیں اور ان پر اعتراض پڑتے ہیں۔ درحقیقت وہ معارف کا خزانہ ہیں جن پر بدنما نقل لگے ہیں اور زیر زمین انہیں جنگلوں میں

مدفون ہیں۔ اردو، فارسی آپ شعر کہتے تھے اور آپ کا تخلص فرخ تھا۔ آپ کی کاپی سے کچھ شعر دستیاب ہوئے ہیں جن کا نمونہ درج ذیل ہے۔

عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا  
کچھ مزا پایا مرے دل! ابھی کچھ پاؤ گے  
ہائے کیوں ہجر کے الم میں پڑے  
اس کے جانے سے دل سے صبر گیا  
سبب کوئی خداوند بنا دے  
کرم فرما کے آء او میرے جانی  
کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر  
نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ پاکی  
میرے بت اب سے پردہ میں رہو تم  
نہیں منظور تھی گر تم کو الفت  
میری دلسوزیوں سے بے خبر ہو  
دل اپنا اس کو دوں یا ہوش یا جاں  
کوئی راضی ہو یا ناراض ہووے

کچھ شعر ادھر سے ہیں اور کچھ نظر ثانی کے لئے پڑے ہیں۔ آپ کے کاغذات سے یہ چٹھی ملی ہے جو تاریخ سے خالی ہے اور مکتوب الیہ کو نہیں ملی۔ حضرت والد مکدوم من سلامت مراسم غلامانہ و قواعد فدویانہ بجا آوردہ معرض خدمت والا میکند چون کہ دریں ایام رای العین بے ینم و چشم سرمشاہدہ میکنم کہ در ہمہ ممالک و بلدہ ہر سال چنان و بائے مے افتد کہ دوستاں و خویشاں از خویشاں جدا میکنم۔ بیچ سالے مے ینم کہ این نازہ عظیم و چین حادثہ الیم دراں سال شور قیامت پانہ یقلند۔ نظر بر آں دل از دنیا سر و شدہ و ردا ز خوف جان زرد و اکثر این دو مصرعہ مصلح الدین سعدی شیرازی بیادے ایند و اشک حسرت ریختہ میشود۔

مکن تکلیہ بر عمر ناپائدار  
مباش ایمن از بازیے روزگار  
و نیز این دو مصرعہ از دیوان فرخ قادیانی نمک پاشی جراحت دل میشود  
بدنیائے دوں دل میندائے جواں  
کہ وقت اجل سرسید ناگہاں

لہذا میخواستہم کہ بقیہ عمر درگوشہ تنہائی نشینم و دامن از صحبت مردم بچشم و بیاد او بخانہ مشغول شوم مگر گذشتہ راعذرے و مافات راتدار کے شود۔

عمر گذشت و نماندست جز ایامے چند  
بہ کہ دریا د کے صبح کنم شامے چند

کہ دنیا را اساسے محکم نیست و زندگی را اعتبارے نے ”وائس من خاف علی  
نفسه من آفة غیر“ والسلام!

مرزا قادیانی نے براہین حصہ پنجم میں مولوی محمد حسین کی تقریظ کا ذکر یوں کیا ہے کہ:  
”ایار اشقی قد کنت تمدح منطقی . وتثنی علی بالفة وتوقر . ولله درک  
حین قرظت مخلصا کتابی و صرت لکل ضال محقر . وانت الذی قد قال فی  
تقریظه . کمثل المؤلف فینا غضنفر . عرفت مقامی ثم انکرت مدبرا . فما  
الجهل بعد العلم ان کنت تشعر . کمثلک مع علم بحالی و فطنة عجبت له یبغی  
الهدی ثم یاطر قطع و داراقد غرسناہ فی العبا . صادق لا ازور (انتهی مافی  
سیرت المہدی)“ اس موقعہ پر اول یہ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے عہد میں قبل از ادعاء بھی  
طاعون کا زور تھا اور اس سے خود بھی گھبرایا کرتے تھے۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہو گیا کہ طاعون دعویٰ  
نبوت کا آسمانی نشان تھا۔ دوم یہ کہ ۱۹۰۷ء تک بھی مرزا قادیانی اپنی نظم میں وہی غلطیاں کرتے  
رہے جو ۱۹۰۲ء یا اس سے پہلے کرتے تھے۔ کیونکہ براہین حصہ پنجم ۱۹۰۰ء میں شائع ہوئی ہے۔ جس  
میں اپنے قصیدہ عربیہ متعلقہ تقریظ مولوی محمد حسین صاحب بنالوی پر فخریہ انداز ظاہر کیا ہے۔ کیا ہے  
کہ ۷۵ فیصدی شعر انداز شاعری سے خارج ہیں۔ امید تھی کہ ۱۹۰۷ء تک کچھ اصلاح ہو جائے  
گی۔ مگر ”ولن یصلح العطار ما افسد الدھر“

کرامات

محمد یوسف مردانی کے ساتھ ایک مردانی مریض علاج کرانے کا حکیم صاحب کے پاس  
آیا۔ احمدیوں کے محلہ سے بھی متفرق تھا۔ جب افاقہ ہوا تو محمد یوسف اسے مسجد مبارک میں لے  
آئے۔ جب کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ مگر اسی وقت جناب کھڑکی کھول کر آگئے۔ نظر پڑی تو فوراً داخل  
بیعت ہو گیا۔ فخر الدین ملتانی کا باپ سخت بد زبان تھا۔ قادیان آیا تو پھر بھی بند نہ ہوا۔ جناب کے  
پاس لایا گیا تو ادب سے خاموش ہو گیا اور آپ نے اثنائے تقریر میں بہت ابھارا مگر اس کے منہ پر  
مہر لگ گئی۔ گجرات کا ایک ہندو کسی برأت میں قادیان آیا تو مسجد میں جناب بیٹھے تلقین کر رہے

تھے۔ اس نے اپنی توجہ ڈالی کہ جناب کے منہ سے بیساختہ کوئی لفظ بلوائے کہ تضحیک ہو۔ مگر پہلی دفعہ کانپا، دوسری دفعہ خوفزدہ آواز نکالی۔ تیسری دفعہ چیخ کر مسجد سے بھاگ نکلا۔ پوچھا گیا تو کہا کہ میں اپنی توجہ جناب پر ڈال رہا تھا کہ مجھے شیر نظر آیا تو میں ڈر گیا۔ دوسری دفعہ حوصلہ کیا تو وہ میرے قریب آ گیا تو میں کانپ گیا۔ تیسری دفعہ توجہ کرنے پر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس لئے میں بھاگ نکلا۔ پھر وہ جناب کا معتقد ہو گیا تھا۔ محمد روز ااز پور تھلہ۔ کہتا تھا کہ ہم بیمار بھی ہوتے تو جناب کا منہ دیکھ کر شفا پالیتے تھے۔ پور تھلہ میں احمد یوں کا غیر احمد یوں سے مسجد کا تنازع تھا اور حج غیر احمدی تھا۔ تو اس نے مخالفت زور سے کی۔ انہوں نے دعاء کے لئے قادیان لکھا تو آپ نے زور سے لکھا کہ اگر میں سچا ہوں تو مسجد تم کو مل جائے گی۔ فیصلہ سنانے کے دن صبح حج نے نوکر سے کہا کہ بوٹ پہنائے وہ مصروف کار ہوا تو کھٹ کی سی آواز آئی۔ دیکھا تو حرکت قلب کے بند ہونے سے حج کرسی پر نہی مڑا پڑا تھا۔ دوسرے دن ہندو حج آیا تو احمد یوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس جماعت نے وہی فقرہ مسجد میں لکھوا کر نصب کر دیا تھا۔ اس جماعت کے متعلق جناب نے کہا تھا کہ جس طرح جماعت پور تھلہ نے دنیا میں میرا ساتھ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی۔ مولوی رحیم بخش صاحب کا دادا (خلیفہ) بد زبان تھا۔ آپ کے والد نے قادیان میں دعاء کی درخواست کی۔ جناب نے لکھ بھیجا کہ اب وہ بد زبانی نہیں کرے گا۔ جواب سب کو سنایا گیا۔ توجہ کے دن لوگ منتظر تھے کہ بدستور گالیاں سنائے گا۔ مگر خاموش ہو کر کہتا تھا کہ گالیوں سے کیا فائدہ۔ مولوی صاحب نے بھی آج یہی وعظ کیا تھا۔ پھر باوجود بھڑکانے کے کبھی نہیں بولا۔ ایک دفعہ مسجد مبارک میں تلقین کر رہے تھے۔ عبداللہ سنوری کی طرف خاص توجہ تھی تو سید فضل شاہ کو رشک ہوا۔ آپ سمجھ گئے اور فرمایا کہ۔

قدیمان خود را بیفزائے قدر

بشیر اول کی ولادت تھی تو نصف رات کو جناب عبداللہ کے پاس آئے کہ بیٹین یہاں پڑھو اور میں اندر جا کر پڑھتا ہوں۔ کیونکہ وہ بیمار کی تکلیف کم کرتی ہے۔ نزاع کی حالت میں بھی اسی لئے پڑھتے ہیں اور ختم ہونے سے پہلے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ مسکراتے ہوئے مسجد میں آئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں نے مسجد کے اوپر چڑھ کر کہا کہ مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ شادی کے بعد ایک مہینہ ٹھہر کر اہلیہ واپس دہلی گئیں تو جناب نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوان لڑکے دیکھے ہیں۔ ۱۸۸۹ء میں جب لدھیانہ میں بیعت کا اشتہار دیا تو بیعت سے پہلے میر علی کے پاس ہوشیار پور بتقریب شادی مدعو ہوئے تو میر عباس علی،

حامد علی اور عبداللہ سنوری ساتھ تھے۔ گودوروں کے لئے الگ انتظام تھا۔ مگر جناب نے ہم کو اپنے دائیں بائیں بٹھالیا۔ ان دنوں محمود شاہ ہزاروی کا بہت جرم چا تھا۔ اس کے وعظ میں عبداللہ کو اعلان کرانے کے لئے بھیجا۔ پھر آپ بھی گئے۔ مگر اس نے وہ اعلان اخیر میں سنایا۔ جب لوگ جانے لگے تو آپ کو رنج ہوا اور کچھ عرصہ بعد محمود شاہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ عبداللہ نے کہا کہ مئی یا جون ۱۸۸۴ء کو آپ نماز فجر ادا کر کے مسجد مبارک کے غسل خانہ میں جوتا زہ ہی پلستر کیا ہوا تھا ایک چارپائی پر لیٹ گئے۔ سر شمال کو تھا۔ کہنی کا تکیہ بنا کر دوسری کو چہرے پر رکھ لیا اور سو گئے۔ تاریخ ۲۷ رمضان یوم جمعہ اور رات شب قدر تھی۔ کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا کہ شب جمعہ کو ستائیسویں رمضان ہو تو شب قدر ہوتی ہے۔ آپ کا پنے اور میری طرف دیکھا تو آبدیدہ تھے۔ پھر سو گئے۔ پاؤں دباتا ہوا پنڈلی پر آیا تو ٹخنے کے نیچے سخت جگہ تھی۔ اس پر سرخ نشان پایا کہ گویا خون بستہ ہے۔ انگلی لگائی تو ٹخنے پر بھی پھیل گیا اور انگلی پر بھی لگ گیا۔ سو گھا تو خوشبو نہ تھی۔ پھر پسلیوں کے پاس پہنچا تو وہاں بھی گیا سرخ نشان تھا۔ اٹھ کر دیکھا مگر کوئی سبب معلوم نہ ہوا۔ پھر دبانے لگا تو آپ اٹھ کر مسجد میں جا بیٹھے۔ میں مونڈھے دباتا تھا پوچھا کہ یہ سرخی کہاں سے آئی تھی کہا کہ آم کا رس ہوگا۔ میں نے کہا نہیں یہ تو سرخی ہے۔ فرمایا: ”کٹھے اے“ میں نے کرتہ کا نشان دکھایا تو خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ خدا کی ہستی وراء الوراء ہے۔ دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ اس کے صفات جلالی یا جمالی ظاہر ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر نے لکھا ہے کہ میں نے خدا کو اپنے والد کی شکل میں دیکھا۔ پھر دیکھا تو اس نے ہلدی کا کٹڑا دیا۔ بیدار ہوئے تو ہلدی موجود تھی۔ ایک بزرگ نے کشف میں دیکھا کہ کسی نے نیچے سے مصلے نکال لیا ہے۔ دن چڑھے دیکھا تو وہی مصلے صحن مسجد میں پڑا تھا۔ جب تم پاؤں دبار ہے تھے مجھے ایک وسیع اور مصفا مکان نظر آیا۔ پلنگ پر ایک آدمی تھا جسے میں نے خدا سمجھا اور حاکم اور اپنے آپ کو سرشتہ دار۔ میں نے کچھ احکام قضا و قدر کے متعلق لکھے تھے۔ دستخط کرانے گیا تو پلنگ پر بٹھالیا۔ گویا باپ کچھڑے ہوئے بیٹے سے ملا ہے۔ پھر احکام پیش کئے تو حاکم نے سرخی کی دوات سے قلم ڈبو کر مجھ پر چھڑکی اور دستخط کر دیئے۔ یہ وہی سرخی ہے۔ دیکھو تمہاری ٹوپی پر بھی کوئی نشان ہوگا۔ دیکھا تو اس پر بھی ایک قطرہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ تبرک جائز ہے۔ فرمایا ہاں تو پھر اپنا کرتہ مجھے دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں کیونکہ مرنے کے بعد لوگ زیارت بنا لیں گے اور پوچھیں گے میں نے کہا کہ حضور ﷺ کے تبرکات بھی تو آخر تھے۔ فرمایا کہ صحابہؓ نے اپنے ساتھ قبر میں دفن کر لئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر غسل کر کے آپ نے کپڑے بدلے تو میں نے وہ کرتہ سنبھال لیا۔ اس سے پہلے دو تین مہمان

آئے تو میں ان سے کہہ بیٹھا کہ قطرے گرے ہیں۔ انہوں نے تصدیق کرائی تو انہوں نے بھی وہی کرتہ مانگا کہ ہم سب تقسیم کر لیں گے۔ اس لئے میں نے کہا کہ جناب یہ کرتہ میرا ہو چکا ہے تو مسکرا کر کہا کہ عبد اللہ مالک ہے۔ اس سے لوگرمیں نے انکار کر دیا۔ آج تک وہی داغ موجود ہے۔ کوئی تغیر نہیں ہوا۔ (نیو کا بنا ہوا ہے) صرف سات روز پہتا تھا۔ میں کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ خلیفہ ثانی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بہت دکھایا کرو تا کہ اس کی رویت کے گواہ بہت پیدا ہوں گے۔ مگر اب بھی خواہش مند کو ہی دکھاتا ہوں۔ از خود نہیں دکھاتا اور سفر میں پاس رکھتا ہوں کہ معلوم نہیں کہاں مر جاؤں۔ اب اس سرخی کا رنگ ہلکا ہے۔ عبد اللہ سنورہی کا بیان ہے کہ ۱۸۸۲ء میں جب قادیان آیا تو اس وقت میری عمر سولہ سترہ سال کے درمیان تھی۔ ایک شادی ہو چکی تھی۔ دوسری کا خیال دامنگیر تھا۔ جس کے متعلق مجھے خوابیں بھی آئیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے بھی دوسری شادی کا الہام ہوا ہے۔ دیکھئے پہلے کس کی ہو؟ مجھے اپنے ماموں اسماعیل کی لڑکی کا خیال ہوا تو میں قادیان آیا اور ماموں صاحب مجھ سے پہلے حاضری دے چکے تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے کہا ہوتا تو اسے کہہ دیتے۔ مگر آپ نے میرے ماموں محمد یوسف کو کہ جس کے ذریعہ سے مجھے بیعت حاصل ہوئی تھی خط لکھا۔ جس میں والد خسر اور دادا کی طرف حکم لکھ بھیجا کہ چونکہ یہ دینی تحریک ہے۔ مزاحمت نہ کریں اور اس پر ”الیس اللہ بکاف عبده“ کی مہر لگائی اور دعاء کی۔ ابھی جواب نہیں آیا تھا کہ الہام ہوا۔ ناکامی پھر الہام ہوا: ”اے بسا آرزو کہ خاک شدہ“ پھر الہام ہوا کہ: ”فصبر جمیل“ جواب آیا کہ سب راضی ہیں۔ مگر اسماعیل نہیں مانتا۔ فرمایا کہ اسے ہم خود کہیں گے۔ میں نے کہا کہ ادھر ناکامی ہے۔ ادھر آپ کوشش کرتے ہیں تو فرمایا کہ: ”کسل یوم ہو فی شان“ ممکن ہے کہ کوئی دوسری سہیل کامیابی کی نکل آئے۔ اسماعیل سرہند کے قریب پنواری تھا۔ آپ انبالہ گئے اور تحصیل سرہند میں حشمت علی کے پاس ٹھہرے۔ جس سے پہلے وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم سرہند آئیں گے تو مجدد صاحب کا روضہ بھی دیکھیں گے۔ بعد از فراغت نماز اسماعیل پاؤں دبار ہا تھا۔ سب کو اٹھا دیا اسے کہہ دیا تو اس نے عذر کیا کہ دو بیبیاں لڑتی ہیں اور اس کی تنخواہ صرف ساڑھے چار روپے ماہوار ہے۔ خسراؤل بھی ناراض ہوگا۔ آپ نے ذمہ لیا مگر اس نے کہا کہ میری بیوی نہیں مانتی۔ آپ نے کشف میں دیکھا کہ اسماعیل نے میرے ہاتھ پر دست پھر دیا ہے اور اس کی سبابہ کٹ گئی ہے تو سمجھ گئے کہ وہ نہیں مانے گا۔ آپ کو اس سے نفرت ہو گئی۔ مگر مجھے تشویش ہوئی تو آپ نے مجھے قادیان بلا لیا کہ خیالات تبدیل ہوں۔ مگر اسماعیل پر بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ جب کہ اس نے لڑکی کی شادی دوسری جگہ کر دی تھی۔ معافی کا خواستگار ہوا۔

مگر اسے ملاقات نصیب نہ ہوئی۔ (دیکھو نشان ۵۵ حقیقت الوحی) دوسری جگہ تجویز ہوئی تو آپ نے کہا کہ لڑکی دیکھو۔ دیکھی تو مجھے اس سے نفرت ہوگئی کہ تے آتی تھی۔ پھر لدھیانہ میں ایک معلمہ سے تجویز ہوئی تو آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر ماسٹر قادر بخش کی ہمشیرہ کا ذکر کیا۔ تو فرمایا کر لو۔ آپ نے بھی اسے لکھا تو اس نے کہا کہ میرا باپ ناراض ہے مگر راضی کر لوں گا یا مرجائے تو نکاح کر دوں گا۔ اس وقت آپ باغ کو جا رہے تھے بڑے خوش ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمشیرہ کا نکاح خفیہ کر دیا۔ آپ سر ہند جاتے ہوئے سنور بھی گئے تھے۔ حکیم نور الدین صاحب کا بیان ہے کہ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا تو چھوٹی مسجد کے پاس چوک میں اترا۔ امام الدین اور نظام الدین کو دیکھ کر دل بیٹھ گیا اور ناگہ ٹھہر لیا کہ شاید واپس جانا ہوگا۔ مگر انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کو ملو گے؟ تو میری جان میں جان آئی کہ کوئی اور بھی مرزا صاحب ہیں۔ چھوٹی مسجد میں چھوڑ گئے آپ نے کہا کہ ظہر کو آؤں گا۔ اس وقت آپ براہین میں مصروف تھے تو آپ نے کہا کہ میں دعاء کرتا تھا کہ موسیٰ کی طرح مجھے ہارون دے۔ میری طرف دیکھتے ہی کہا کہ ہذا دعائی میں جب جموں سے فارغ ہوا تو بھیرہ میں مکان تعمیر کرانا شروع کر دیا تھا۔ سامان لینے لاہور آیا تو قادیان کا خیال پیدا ہو گیا۔ یہاں آیا تو آپ نے کہا اب تو فراغت ہے۔ کچھ دن ٹھہرو گے۔ کچھ دن کے بعد فرمایا کہ گھر والوں کو بھی یہیں بلا لو۔ عمارت بند کرادی اور اہل و عیال منگوا لیا۔ پھر کہا کہ بھیرہ کا خیال ترک کرو تو میرے دل میں یہ کبھی خیال نہ آیا کہ بھیرہ بھی میرا وطن تھا۔ جہلم کے مقدمہ میں گورداسپور گئے تو تین مہمان آلہ آباد سے آئے۔ جن میں سے قادر بخش نے تبادلہ خیالات کے بعد بیعت کر لی۔ ایک دفعہ الہی بخش صاحب آپ کے ساتھ ساتھ مکان کے صحن میں ٹہل رہے تھے تو کہا کہ میری بیعت سے بہت لوگ اور بھی داخل بیعت ہوں گے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ مجھے کیا پروا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ وہ خود لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر میرے پاؤں پر گرائے گا اور گرا رہا ہے۔ دوسرے دن جب واپس جانے لگے تو پوچھا گیا کہ آپ کی تسلی ہوگئی۔ کہا ہاں۔ ذوالفقار علی خان نے کہا کہ پھر بیعت؟ آپ نے کہا کہ تمہارا حق نہیں جانے دو۔ تیسرے چوتھے روز آپ قادیان آئے تو اپنے رومال سے کارڈ نکال کر دکھایا کہ تحصیلدار صاحب آپ تو جلدی کرتے تھے۔ دیکھئے! دیکھا تو الہی بخش صاحب لکھنؤ جاتے ہوئے پنسل سے ریل میں سے لکھتے ہیں کہ جب حق کھل گیا تو دیر کیسی۔ راستہ میں مر جاؤں تو کیا جواب دوں گا۔ اس لئے میری بیعت قبول کی جائے۔ آپ نے کہا کہ تنہائی میں آدمی صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ مولوی کرم الدین صاحب نے مقدمہ میں ۱۱ فروری ۱۹۰۴ء کو گورداسپور جانا تھا۔ سرور شاہ صاحب کو معہ حامد

علی و عبدالرحیم نائی کے درواز پہلے بھیجا کہ حوالہ جات تلاش کر کے پیشی کی تیاری کرو۔ وہاں آ کر انہوں نے ڈاکٹر محمد اسماعیل کو دروازہ کھولنے کے لئے آواز دی تو ڈاکٹر صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو کہا کہ محمد حسین پیش کار آیا تھا کہ آریوں کا جلسہ ہوا ہے۔ جلسہ کے بعد پرائیویٹ میٹنگ ہوئی میں پاس ہی تھا۔ ایک نے چند لال مجسٹریٹ سے کہا کہ مرزا آریوں کا دشمن اور لیکھرام کا قاتل ہے۔ شکار ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ساری قوم کی نظر آپ کی طرف لگی ہوئی ہے۔ آپ چھوڑیں گے تو دشمن ہوں گے۔ چند لال مجسٹریٹ نے کہا کہ مرزا اور اس کے گواہوں کو جہنم رسید کروں گا۔ مگر کیا کروں کہ مقدمہ ایسی ہوشیاری سے چلایا گیا ہے کہ ہاتھ نہیں پڑ سکتا۔ مگر میں عدالتی کارروائی پہلی پیشی میں ہی عمل میں لاؤں گا۔ یعنی بغیر ضمانت کے حوالات میں کروں گا۔ گو میں مخالف ہوں۔ مگر کسی شریف کو ہندوؤں کے ہاتھ سے ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یا تو چیف کورٹ میں مقدمہ تبدیل کرادیا مرزا قادیانی کا ڈاکٹری سٹوفکیٹ پیش کر دو۔ پس تجویز ہوا کہ ابھی کوئی قادیان جائے۔ یکے تلاش کیا اور چار گونہ زیادہ کرایہ بھی دیا۔ مگر مخالفت اتنی تھی کہ کوئی نہ مانا۔ آخر شیخ حامد علی عبدالرحیم نائی اور ایک اور آدمی پیدل قادیان آئے اور صبح آپ کو خبر دی۔ آپ نے کہا کہ خیر ہم بٹالہ چلتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی لاہور سے آتے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے تو انہوں نے کہا کہ تبدیلی مقدمہ میں کامیابی نہیں ہوتی۔ جب گورداسپور پہنچے تو الگ کمرہ میں لیٹ گئے تو مولوی صاحب نے واقعہ سنا دیا۔ تو یک لخت آپ چار پائی پر بیٹھ گئے۔ چہرہ سرخ آنکھیں چمک اٹھیں۔ جو ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم بند رہتی تھیں۔ کہا میں اس کا شکار ہوں؟ نہیں۔ شیر ہوں اور شیر بھی خدا کا۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ہاں کشتی کر کے تو دیکھے۔ آواز اتنی بلند تھی کہ باہر کے لوگ بھی چونک اٹھے۔ شیر کا لفظ کئی بار دہرایا کہا کہ میں کیا کروں میں نے تو کہا ہے کہ لوہا پہننے کو تیار ہوں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ذلت سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ پھر محبت الہی پر نصف گھنٹہ تقریر کی۔ پھر ابکائی آئی تو خون قے ہوئی۔ منہ صاف کیا اور پوچھا کہ کیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ خون ہے۔ ڈاکٹر انگریز بلایا گیا۔ کہا کہ بڑھاپے میں خونی قے خطرناک ہے۔ آرام کیوں نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ مجسٹریٹ تنگ کرتا ہے۔ حالانکہ یہ مقدمہ یونہی طے ہو سکتا تھا۔ ایک ماہ کے لئے سٹوفکیٹ لکھ دیا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم سب قادیان آ گئے۔ دوسرے روز مجسٹریٹ نے سٹوفکیٹ پر اعتراض کیا۔ مگر ڈاکٹر نے کہا کہ میرا سٹوفکیٹ ہمیشہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ پھر وہ تبدیل ہو گیا اور ای۔ اے۔ سی تھا۔ منصف ہو گیا۔ مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمہ میں اہلیہ صاحبہ کو خواب آیا



کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو امرتسر میں سولی پر لٹکایا جائے گا تاکہ قادیان والوں کی آسانی ہو۔ آپ نے تعبیر کی کہ عزت ہوگی۔ چنانچہ امرتسر میں اپیل کے ذریعہ سے آپ کی بریت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ مجسٹریٹ کی نیت خراب معلوم ہوتی ہے اور اس کی بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ اگر مجسٹریٹ کوئی خراب کام کرے گا تو اس پر وبال آئے گا۔ تو اس کا ایک لڑکا مر گیا۔ بیوی نے کہا کہ تم کیوں گھر جاڑنے لگے ہو۔ فیصلہ کے دن عام مرید بہت روپیہ لے گئے تھے اور نواب محمد علی تو ہزاروں روپیہ لائے تھے کہ اگر جرمانہ ہوا تو ہم ادا کر دیں گے۔ درختوں کے نیچے عدالت کے پاس آپ کا ڈیرہ ہوتا تھا۔ کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر انگریز گذرتا تو کہتا کہ اگر میں ہوتا تو ایک دن میں ہی فیصلہ کر دیتا۔ ماسٹر محمد الدین بی۔ اے نے کہا کہ آپ کی حاضری میں ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طبیعت صاف ہو رہی ہے اور روحانیت ترقی کر رہی ہے۔ الگ ہوتے تو وہ بات نہ ہوتی۔ مولوی شیر علی نے کہا کہ اس وقت خواہ طبیعت کیسی ہوتی خوش ہو جاتی تھی۔ عبداللہ سنوری پہلے پہل قادیان آئے تو آپ نے ان کے والد کا حال پوچھا۔ کہا کہ وہ تو شرابی اور خراب آدمی ہے۔ آپ نے ڈانٹا کہ آخری دم کسی کو معلوم نہیں اچھا ہے یا برا تو ان کا والد اخیر میں عشق کی حالت میں مرا۔ امام بی بی اور احمد بیگ بہن بھائی تھے۔ امام بی بی کی شادی مرزا غلام حسین سے ہو چکی تھی۔ جو مفقود الضمیر ہو گیا تھا اور اس کی جائیداد امام بی بی کے نام ہو گئی تھی۔ اب احمد بیگ نے اپنی ہمشیرہ سے درخواست کی کہ اپنی تمام جائیداد اس کے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام کرادے۔ وہ تو مان گئی مگر قانوناً جناب کی رضامندی کے سوا ہبہ نامہ نامکمل تھا۔ اس لئے احمد بیگ باقی ہوا کہ آپ اس پر دستخط کر دیں۔ مگر آپ نے استخارہ پرنال دیا اور استخارہ میں الہام ہوا کہ اس کی لڑکی محمدی بیگم کے نکاح کی سلسلہ جنبانی کرو۔ وہ منظور کریں تو خیر ورنہ انجام برا ہوگا۔ اڑھائی تین سال تک بربادی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ مکاشفات نے حوادث کو تین سال کے اندر بھی دکھایا ہے۔ یہ لکھ کر احمد بیگ کو بھیج دیا۔ مگر لڑکی کے ماموں مرزا نظام الدین نے استہزاء کے طور پر یہ تحریر شائع کر دی تو آپ کو بھی موقع مل گیا۔ ایک نے کہا کہ جلتی آگ میں گھس کر سلامت نکلتا ہوں۔ مرزا قادیانی نبی ہیں تو وہ بھی داخل ہو کر دکھلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اگر آگ میں داخل ہو تو کبھی نہ نکلے۔ ایک دفعہ مہمان آگئے۔ کھانا تیار ہوا کھلانے لگے تو اتنے اور آگئے۔ آپ گھر گئے تو زردہ کو ڈھانپ کر ہاتھ رکھا وہ اتنا بڑھا کہ سب سیر ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ کے لئے مرغ کا پلاؤ پکایا گیا تو نواب صاحب کے گھر کے آدمی بھی آپ کے ہاں آگئے۔ ان کے مکان میں دھونی ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ ان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ چاول کم تھے تو آپ نے دم کیا وہ اتنے بڑھے کہ نواب صاحب

کے آدمی بھی کھا گئے اور دوسرے آدمی بھی تیرک سمجھ کر لے گئے۔ محمد حسین بٹالوی نے جناب کے دعویٰ مسیحیت سے پہلے اپنے وعظ میں بیان کیا کہ ایک دفعہ انبالہ میں ہم دس بارہ آدمی ملاقات کو آئے۔ کھانا آیا تو صرف دو آدمیوں کے لئے کافی تھا۔ مگر سب کو کافی ہو گیا۔ دعویٰ مسیحیت پر یہ انکاری ہو گیا تھا اور اب مرچکا ہے۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل نے کہا کہ جلسہ کے موقعہ پر چائے اور زردہ تیار ہو رہا تھا۔ آپ کا کھانا کھکھ اور دال اندر سے آیا۔ ہم نے خیال کیا کہ بہت لذیذ ہوگا۔ آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ کھانا ایک آدمی کا تھا۔ مگر ہم سب سیر ہو گئے۔ دھر مپال آ رہے مرتد نے ترک اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر اعتراض کیا تو حکیم صاحب نے جواب لکھا کہ وہ مخالفت کی آگ تھی۔ جناب نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہم خود موجود ہیں۔ ہمیں آگ میں ڈال کر دیکھ لیں۔ گلزار ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے یہ شعر بھی کہا ہے کہ۔

ترے کمروں سے اے جاہل مرا نقصاں نہیں ہرگز

کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے

آپ کا الہام بھی ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام ہے۔ بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ منارۃ السج بننے لگا تو لوگوں نے شکایت کی کہ اس سے بے پردگی ہوگی۔ موقعہ پر ایک ڈپٹی آیا۔ آپ مسجد مبارک کے حجرہ میں تھے۔ بڈھال رکن اعظم آ رہے پاس تھا تو آپ نے کہا کہ اسی سے پوچھو کہ میں نے کبھی فائدہ پہنچانے میں دریغ کیا ہے اور اس نے کبھی ایذا رسانی میں کسر چھوڑی ہے تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ بول نہ سکا۔ چہرہ کارنگ سپید ہو گیا تھا۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ مجھے میرے تمام حالات خاتمہ عمر تک بتلا دیئے تھے تو اسی کے مطابق حالات پیش آتے تھے۔ ریاست پٹیالہ میں نوگاؤں کا میں پنواری تھا۔ سالانہ تنخواہ پچپن روپے تھی۔ میں نے دوسرے پنواری سے مل کر مال پور میں تبادلہ کر لیا۔ مگر وہاں کوئی مسجد نہ تھی۔ تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ دعاء کریں۔ مجھے نوگاؤں واپس مل جائے۔ کہا کہ وقت آنے دو تو میرا تبادلہ غوث گڑھ میں ہو گیا۔ جس میں میرا ایصال لگا کہ نوگاؤں کا خیال جاتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد غوث گڑھ کا حلقہ خالی ہو گیا اور تحصیل دار نے مجھے نوگاؤں بھی میرے حلقہ سے ملحق کر دیا اور میری تنخواہ سالانہ ایک سو دس روپیہ ہو گئی۔ حالانکہ دونوں حلقوں میں پندرہ میل کا فاصلہ تھا اور درمیان میں اور حلقے بھی تھے اور غوث گڑھ تمام احمدی ہو گیا۔ ایک نے پوچھا کہ کیا آپ واقعی مسیح موعود اور مہدی ہیں؟ تو آپ نے اس انداز سے کہا: ”ہاں“ کہ وہ شخص فوراً بیعت میں داخل ہو گیا اور میرے (عبداللہ سنوری) کے دل پر بھی گہرا اثر ہوا۔ فخر الدین ملتانی سے کہا کہ ۱۹۱۰ء میں نوروز ضلع کانگرہ

میں رہے تو وہاں کے کورٹ انسپکٹر اوف پولیس نے جو غیر احمدی تھا ایک دعوت قائم کی۔ جس میں مجھے بھی بلایا تو اس نے اثناء گفتگو میں کہا کہ جب پندرہ ماہی پیشین گوئی کا آخری دن تھا۔ پھرے کا انتظام میرے سپرد تھا۔ چاروں طرف پولیس کھڑی تھی۔ مگر آتھم کوٹھی کے اندر بھی بیتاب تھا۔ بندوق کی آواز آئی تو اور بھی حالت ابتر ہو گئی۔ تو عیسائیوں نے اسے شراب پلا کر بیہوش کر دیا تو دوسرے دن اس کا جلوس نکال کر نعروں لگاتے تھے کہ مرزا کی پیشین گوئی جھوٹی نکلی۔ انہی دنوں لوئیس صاحب لدھیانہ میں ڈسٹرکٹ جج تھا اور آتھم اس کا داماد تھا۔ دوران میعاد میں آتھم اس کی کوٹھی پر ٹھہرا تو ایک غیر احمدی پنکھا قلی نے بتایا کہ رات بھر وہ روتار رہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ تمہاروں والے نظر آتے ہیں اور وہ صرف مجھے ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی اسے کتے نظر آتے تھے اور کبھی اسانپ۔ اس لئے مخالفوں کا کہنا درست نہیں کہ احمدیوں سے ڈرتا تھا۔ ورنہ اس طرح کی بے چینی نہ ہوتی۔ اس کی حالت تو اسی وقت خراب ہو چکی تھی۔ جب کہ جلسہ مباحثہ میں ساٹھ ستر عیسائیوں کے سامنے کہتا تھا کہ میں نے دجال کا لفظ حضور ﷺ کے متعلق نہیں لکھا۔ حالانکہ اندرونہ بائبل میں یہ لفظ موجود تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا عظیم بھی ہے اور قدر بھی۔ پہلی صفت کے ماتحت جو پیشین گوئی ہوتی ہے تو عین تاریخ پر ہوتی ہے۔ جیسے حضور ﷺ کی پیشین گوئی۔ جناب فاطمہ الزہراؑ کے متعلق تھی کہ وہ چھ ماہ کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائیں گی اور دوسری صفت کے زیر اثر جو پیشین گوئی ظاہر ہوتی ہے وہ تحلف عن الوعد کے طرز پر تاریخ کی پابند نہیں ہوتی۔ کیونکہ مجرم کبھی کبھی نیکی یا خوف الہی کے عوض تاخیر عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اور آخر جب وہ باز نہیں آتا اور مغرور ہو جاتا ہے تو اس کا وقوع ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی امت کے خوف سے ٹل ہی گئی تھی۔ امرتسر میں جب آتھم سے مباحثہ ہوا تو عیسائیوں نے مادر زاد اندھا، لونجھا وغیرہ پیش کر کے چنگا کرنے کو کہا تھا۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام ایسوں کو تندرست کر دیا کرتے تھے تو آپ نے جواب میں لکھوایا کہ میں تو اس معجزہ کا اس طرح قائل ہی نہیں۔ البتہ تم کہتے ہو کہ جس میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو۔ وہ ایسوں کو چنگا کر سکتا ہے۔ تم تجربہ کرو ہم دیکھیں گے کہ کہاں تک صحیح ہے۔ تب وہ خاموش ہو گئے۔ جب محمدی بیگم ابھی زیر تجویز تھی تو اس کا ماموں جو جالندھر اور ہوشیار پور میں آمدورفت رکھتا تھا۔ آپ سے انعام کا خواہاں ہوا۔ جب کہ ایک دفعہ آپ ایک ماہ کے لئے جالندھر مقیم تھے اور آپ نے اس سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ بشرطیکہ وہ نکاح کرادے۔ مگر وہ بدنیت تھا۔ دوسری جگہ ناٹھ دلوانے میں کوشش کر رہا تھا۔ اس لئے آپ نے حکیمانہ طور پر احتیاط برت رکھی تھی اور ایسے موقع پر جدوجہد اس لئے کی جاتی ہے کہ عالم اسباب میں کسی چیز کا انصرام

بغیر کسب کے نہیں ہوتا اور خدا بھی خفا ہو جاتا ہے کہ جب بندہ کو ضرورت نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اس لئے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کے ارادوں کو پورا کرنے میں اپنی کوشش پیش کی جائے۔ نیز چونکہ غلبہ دین مقصود ہوتا ہے تو نبی کا ثواب سمجھ کر اس میں حصہ لیتا ہے۔ اس پیشین گوئی کی اصلی غرض و غایت اظہار قدرت تھا اور تمام الہامات کا یکجائی خلاصہ مضمون یہ نکلتا ہے کہ اس کا بیرونی مضمون یوں تھا کہ اگر یہ لوگ تہرانہ حالت نہ چھوڑیں گے جس کی علامت یہ تھی کہ وہ نکاح قبول نہ کریں تو اس صورت میں وہ تباہ ہوں گے اور بالخصوص جب تک سلطان محمد تہرانہ چھوڑے تین سال کے اندر تباہ ہوگا اور وہ واپس آئے گی اور اندرونی مضمون یہ تھا کہ اگر وہ تہرانہ چھوڑ دیں گے تو عذاب سے بچ رہیں گے اور بالخصوص جب سلطان محمد تہرانہ چھوڑ دے گا تو نہ خود ہلاک ہو گا اور نہ ہی وہ واپس آئے گی۔ اس الہام کو اٹل صرف بیرونی صورت کے لحاظ سے کہا گیا تھا۔ اس تبدیلی کے بعد جب اندرونی صورت رونما ہوئی تو وہ تقدیر بھی ٹل گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کو ایک نشان دکھانا مطلوب تھا جو ہمیشہ مخول سے نشان کی طالب تھی۔ تو جس قدر پیشین گوئی نے موقعہ پایا اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ چنانچہ لڑکی کے میمال سرکشی سے باز نہ آئے تو سب تباہ ہو گئے اور ان کی نسل کا صرف ایک بچہ بھی صرف اس لئے بچا ہوا ہے کہ احمدی ہو گیا ہے اور احمد بیگ بھی اسی سلسلہ میں تپ محرقہ سے ہسپتال میں تباہ ہو گیا۔ سلطان محمد نے کبھی بھی جناب کے حق میں گستاخی نہیں کی۔ آریوں اور عیسائیوں نے بہتیرا لالچ دے کر ابھارا بھی مگر اس نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس لئے اس کی جان بچ گئی اور نکاح بھی قائم رہا۔ رہا یہ امر کہ اس نے بیعت کیوں نہ کی یا بیوی کیوں نہ چھوڑی یا وہ نکاح قائم رکھنے کے جرم میں مارا کیوں نہ گیا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کا صرف انکار موجب ہلاکت نہیں ہوتا بلکہ تہرانہ اور سرکشی موجب ہلاکت ہوا کرتا ہے جو اس سے سرزد نہیں ہوئی اور انکار نبوت کی سزا آخرت میں ملے گی جو اس دنیا سے متعلق نہیں اور دنیا میں طاعون وغیرہ ہلاکتوں کا انکار کے باعث آنا صرف اسی لئے ہوتا ہے کہ قوم بیدار ہو کر نبی وقت کی متلاشی بن جائے۔ اس لئے قومی عذاب کو شخصی عذاب پر قیاس کرنا صحیح نہ ہوگا۔ غرضیکہ آسمانی نشان پورا ہو گیا تھا۔ ورنہ آپ کی غرض و جاہت دنیاوی نہ تھی۔ کیونکہ سلطان محمد کا خاندان ادنیٰ خاندان تھا۔ نہ ہی وہ خوب صورت تھی اور نہ ہی نفسانی جذبات کا تقاضا تھا۔ کیونکہ آپ کی عمر پچاس برس کے اوپر ہو چکی تھی۔ حافظ جمال احمد نے کہا کہ مرزا سلطان محمد سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا خسر پیشین گوئی سے مر گیا اور خدا غفور رحیم ہے دوسروں کی سنتا ہے اور ایمان سے کہتا ہوں کہ پیشین گوئی میرے لئے شبہ کا باعث نہیں ہوئی تو پھر بیعت کیوں نہیں کی؟ کہا کہ

جب میں اقبالہ چھاونی میں تھا تو میں نے ایک احمدی کے استفسار پر ایک تحریر لکھ بھیجی تھی۔ (جو تضحید الاذہان میں موجود ہے) اور بھی وجوہات ہیں جن کا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ قادیان آ کر آپ سے وہ سب کچھ عرض کروں۔ پھر چاہیں تو شائع بھی کر دیں۔ عیسائیوں اور آریوں نے لاکھ روپیہ دے کر اس کے لئے ابھارا مگر میں نے انکار کر دیا اور جب فرانس میں سلطان محمد گوگولی لگی تھی تو محمدی بیگم کو تشویش ہوئی۔ رات کو روڈیا میں مرزا قادیانی نے دودھ کا پیالہ دے کر فرمایا کہ یہ پی لو فکر نہ کرو۔ تیرے سر کی چادر سلامت ہے تو اسے کمال اطمینان ہو گیا۔ سیالکوٹ آپ کمرہ میں بیٹھے تو بجلی آئی اور گھوم کر چلی گئی۔ جس سے گندھک کی بو آتی تھی اور کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ پھر تیجا سنگھ کے مندر میں گری اور وہاں پیچ در پیچ طواف کے لئے دیوار تھی۔ جس میں ایک ہندو تھا۔ مگر وہ بجلی تمام چکر کاٹ کر اسی ہندو کو جلا گئی۔ وہیں چھت گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ پھر ایک دفعہ لحاف میں بچھو مر اہوا پایا۔ دوسری دفعہ لحاف کے اندر چلتا ہوا دیکھا۔ ایک دفعہ آپ کے دامن کو آگ لگی تو دوسرے نے بجھائی۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۸، خزائن ج ۱ ص ۲۷۵) میں قیطی کا مشہور خواب دیکھا۔ مولوی محمد حسین صاحب بنالوی آپ کے ہم مکتب تھے۔ جب مولوی بن کر آئے تو ان کے خیالات لوگوں کو ناگوار گذرے۔ ایک نے بحث کے لئے آپ کو بلایا۔ مگر مولوی صاحب کی تقریر میں کوئی مخالفت نہ پائی گئی اور بحث ترک کی گئی تو الہام ہوا کہ خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر کشف میں وہ بادشاہ بھی دکھائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ عطاء محمد پنواری و نجوان ضلع گورداسپور کا بیان ہے کہ میں شرابی کبابی تھا۔ قاضی نعمت اللہ خطیب بنالوی مجھے تبلیغ کرتے۔ مگر مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر میں نے ایک دن ان سے کہہ دیا کہ میری تین بیویاں ہیں۔ بارہ سال سے اولاد نہیں ہوئی۔ اگر ان کی دعاء سے خوبصورت لڑکا بڑی بیوی سے پیدا ہو تو سچا مان لوں گا۔ خطیب نے خط لکھ کر دعاء منگوائی۔ آپ نے جواب دیا کہ لڑکا ہوگا۔ بشرطیکہ زکریا والی توبہ کرو۔ یعنی شراب چھوڑ کر نمازی بن جاؤ۔ چار پانچ ماہ کا عرصہ ہوا تو میری بڑی بیوی رونے لگی کہ اب تو حیض بھی بند ہو گیا ہے۔ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیج دو۔ جا کر علاج کراؤں تو میں نے یہی دایہ بلالی تو اس نے کہا کہ خدا بھول گیا ہے۔ اس کو تو حمل ہو گیا ہے۔ پھر آثار شروع ہو گئے۔ پھر لڑکا خوبصورت نصف رات کو پیدا ہوا۔ جس کا نام عبدالحق رکھا گیا۔ دھرم کوٹ جا کر سب رشتہ داروں کو اطلاع دی تو نجوال اور دھرم کوٹ کے باشندوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ میں قادیان آیا تو مسجد کا راستہ دیوار سے بند تھا۔ آپ باغ میں تھے میں نے خواب سنایا کہ

میرے ہاتھ میں خربوزہ ہے۔ کھانے میں شیریں ہے ایک قاش عبدالحق کو دی تو وہ خشک ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ ایک اور لڑکا پیدا ہو کر مر جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ جس رات امتہ النصیر پیدا ہوئی تو خود مولوی محمد احسن صاحب کے دروازہ پر حاضر ہو کر کہنے لگے کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ مگر الہام ہوا ہے کہ: ”غاسق اللہ“ (جلدی فوت ہو جانے والی) تو ویسا ہی ہوا۔ محمد بخش تھا نہ دار کہ جس کی رپورٹ سے حفظ امن کا مقدمہ ۱۸۹۹ء میں دائر ہوا تھا۔ طاعون سے مرا۔ مگر اس کا لڑکا نیاز محمد مرید ہو گیا۔ آخری تقریر میں جب آپ نے کہا کہ عبد اللہ آتھم نے حضور ﷺ کے حق میں اندرونہ بائبل میں معاذ اللہ دجال لکھا ہے تو خوف زدہ ہو کر زبان باہر نکال کر کانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میں نے کب کہا ہے اور کہاں؟ ایک دفعہ اپنے باغ میں پھر رہے تھے۔ اہلیہ نے سنگترہ مانگا اور اس وقت موسم نہ تھا تو آپ نے ایک پودہ پر ہاتھ مار کر سنگترہ حاضر کر دیا۔ آپ ٹانگہ میں سوار ہوئے تو رفیق سفر ہندو نے آپ کو دھوپ میں جگہ دی۔ مگر ابر نے سایہ کر دیا اور قادیان تک یہی حالت رہی تو پھر وہ ہندو پشیمان ہو گیا۔ ایک مقدمہ پر آپ ڈھلوزی گئے۔ راستہ میں بارش آ گئی۔ ایک پہاڑی آدمی کے گھر گئے۔ اس نے دوسروں کو تو جگہ نہ دی۔ مگر آپ کو اندر لے گیا۔ کیونکہ اس کی لڑکی جوان تھی اور غیروں کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ سیالکوٹ میں ایک نئے مکان پر آپ لوگوں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ کڑکڑکی آواز ہوئی۔ کسی نے کہا کہ چوہا ہوگا۔ مگر آپ نے کہا کہ خطرہ ہے۔ لوگوں نے نہ مانا۔ آخر آپ ابھی لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر نیچے اترے ہی تھے کہ مکان گر گیا۔ گویا آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ایک دفعہ عدالت کی پیشی میں دیر تھی تو آپ نے نماز شروع کر دی۔ ابھی ختم نہ کی تھی کہ بہرے نے خبر دی کہ آپ کی فتح ہو گئی ہے۔ جہلم کے مقدمہ میں آپ گورڈا سپور گئے۔ پیشی بھگت کر کچھری کے پاس ہی آرام کرتے ہوئے لیٹ گئے اور اس وقت مولوی شیر علی اور مفتی محمد صادق ہی پاس تھے۔ آپ نے کہا کہ الہام ہوا ہے۔ لکھ لو۔ قلم دوات پاس نہ تھی۔ مفتی صاحب نے باورچی خانہ سے کونکہ لا کر لکھ لیا اور بھی الہام ہوئے جن میں سے ایک الہام یہ بھی تھا کہ:

”يسئلونك عن شانك قل الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون“ دوسرے دن وکیل مستغیث نے تحفہ گوڑو یہ میں سے آپ کی تعلیٰ کے چند الفاظ پڑھے اور پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کی شان ہے۔ قادیان کو جب واپس آئے تو راستہ میں شیر علی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ عربی الہام پورا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا۔ ہاں! جب مرزا اکمال الدین نے دیوار بنا کر مسجد کا راستہ بند کر دیا تو مرزا بشیر کو خواب آیا کہ وہ گرائی گئی ہے۔ آپ نے نوٹ کر لیا پھر قانونی چارہ جوئی کی اور کامیاب ہوئے۔ ۱۹۰۵ء میں بزاززلہ آیا تو مفتی محمد صادق کے چھوٹے لڑکے

نے خواب میں دیکھا کہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں۔ آپ اس وقت باغ میں ٹہل رہے تھے تو آپ نے یہ خواب معلوم کرنے پر کئی بکرے صدقہ کر دیئے اور لوگوں نے بکرے ذبح کرائے۔ سب کی تعداد سو سے زیادہ ہو گئی۔ مرزا بشیر کا بیان ہے کہ زلزلہ آیا تو میں نواب صاحب سے ملحق مکان میں بعد دوسرے بچوں کے لیٹ رہا تھا۔ ہم ڈر کر صحن کو دوڑے تو آپ اور میری والدہ دونوں صحن کی طرف گھبرا کر آ رہے تھے۔ پھر باغ میں چلے گئے۔ جہاں کچے مکان بنا رکھے تھے اور خیمے بھی لگوا دیئے سکول بھی کچھ عرصہ وہیں لگتا تھا۔ قادیان میں امیر حسین قصر صلوة اس وقت جائز سمجھتے تھے کہ لڑائی شروع ہو۔ حکیم نور الدین صاحب سے بھی بحث کرتے تھے۔ گورداسپور میں آپ جہلم کے مقدمہ کے لئے گئے تو قاضی صاحب کو ظہر کی نماز میں امام بنایا اور کان میں کہا: ”اب تو قصر کرو گے نا؟“ تب سے قاضی صاحب نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ ان کا لڑکا مر گیا تو لڑکے کی ماں اور نانی بہت روئیں۔ آپ جب جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بھی کہہ دینا۔ پھر دو لڑکے اور بھی فوت ہوئے۔ مگر وہ نہ روئیں۔ ایک دفعہ گورداسپور جاتے ہوئے بٹالہ میں ٹھہرے۔ کسی نے انکو پیش کئے تو آپ نے تاول فرماتے ہوئے کہا کہ گو اس میں ترشی ہوتی ہے۔ مگر زکام کو مضر نہیں ہوتی۔ کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا جی انکو کو چاہتا تھا۔ خدا نے بھیج ہی دیئے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے پونڈے کی خواہش ہوئی۔ مگر وہاں نہ ملتا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک آدمی ملا جس سے مجھے پونڈے مل گئے۔ جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ کرائی گئی تو آپ نے اپنے دونوں لڑکوں کو خط لکھا کہ میرے ساتھ رہو یا مخالفین سے مل جاؤ اور میں تم کو عاق کروں گا۔ سلطان احمد نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھوں گا۔ فضل احمد سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس نے دے دی۔ مگر دوسری بیوی کی فتنہ پردازی سے پھر مخالفوں سے جا ملا۔ شرمیلا بہت تھا مر گیا تو جناب کو بہت غم ہوا۔ ساری رات نہیں سوئے۔ دو تین روز مغموم بھی رہے۔ محمدی بیگم جناب کی چچا زاد بہن عمر النساء کی لڑکی تھی۔ امام الدین و نظام الدین کی بھانجی مرزا غلام قادر کی بیوہ اس کی خالہ تھی۔ احمد بیگ ہوشیار پوری اس کا والد امام الدین کا بہنوئی تھا۔ آپ کی حقیقی ہمشیرہ محمد بیگ برادر کلاں احمد بیگ سے بیانی ہوئی تھی۔ یہ تمام رشتہ دار بے دین تھے۔ آپ کو خیال پیدا ہوا کہ یا تو ان کی اصلاح ہو جائے یا کوئی اور فیصلہ ہو تو الہام ہوا کہ محمدی بیگم کے نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔ شادی ہوگی تو برکت پائیں گے ورنہ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے۔ لڑکی کا والد تین سال میں مر جائے گا اور جس سے شادی ہوگی وہ بھی اڑھائی سال میں مر جائے گا۔ سوا احمد بیگ مر گیا۔ شوہر خوفزدہ ہو گیا اور

عجز و نیاز کا خط لکھا۔ جو تھیذ الاذہان میں شائع ہو چکا ہے۔ اس لئے بچ گیا۔ باقی رشتہ دار تباہ ہو گئے۔ اس خاندان کا ایک بچہ رہ گیا۔ مگر وہ بھی احمدی ہو گیا۔ غلام قادر کی بیوہ بھی احمدی ہو گئی۔ باقیوں نے مخالفت چھوڑ دی ہے۔ آپ کا یہ الہام پورا ہوا کہ ہم کچھ حسنی طریق پر داخل ہوں گے اور کچھ حسینی طریق پر۔ سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق آپ نے لکھا تھا کہ یہ اتر رہے گا۔ کیونکہ اس کا لڑکا نامرد ہے۔ مولوی محمد علی نے کہا کہ ایسی تحریر قانون کے خلاف ہے۔ بہت تکرار کے بعد آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا: ”جب نبی ہتھیار لگا کر باہر آ جاتا ہے تو بھرتہ یا نہیں اتارتا۔“ ”انتہی مافی سیرۃ المہدی“ ان کرامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو اتنا قیہ واقعات میں کرامت دکھانے کا بہت بڑا موقع ملا تھا اور کرامات دکھانے میں یہ دلیلیہ اختیار کیا ہے جو ہر ایک خواندہ آدمی کو حاصل ہو سکتا تھا۔ جب کہ وہ اپنے پاس پاکٹ بک رکھ کر چیدہ چیدہ باتیں نوٹ کرتا رہے۔ سال کے بعد اس کی کئی ایک تخمینہ باتیں پوری ہو جائیں گی اور اگر اپنے آپ کو مقدس ظاہر کرے تو کرامات کا ڈھیر بھی لگ جائے گا۔

ان کرامات میں سب سے بڑی کرامت محمدی بیگم کا نکاح ہے جو صرف اس لئے تجویز ہوا تھا کہ مرزا قادیانی مسیح بن کر نبی شادی کر کے صاحب اولاد ہوں۔ جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ مگر چونکہ کامیابی نہ ہوئی اور تمام پیشین گوئیاں حدیث النفس ثابت ہوئیں۔ اس لئے پہلے تو اس حدیث کو ردی کی نوکری میں پھینک دیا گیا۔ پھر نا کامیابی کے وجوہات گھڑنے شروع کر دیئے کہ یہ آیات تشابہات سے ہے یا اس سے مراد اولاد در اولاد کا نکاح ہے یا یہ مشروط پیش گوئی تھی یا تخلف عن المیعاد کا جواز ممکن ہے اور یا محمد صاحب وکیل نے تو کمال ہی کر دیا کہ محمدی بیگم میں ہوں۔ میں نے بیعت کی تو آپ کے نکاح میں آ گیا۔ اخیر میں مؤلف سیرت المہدی نے اس کا ظاہر و باطن بنا کر بنائے پیش گوئی وجود تہر دو کو قرار دیا ہے اور تمہیمات ربانیہ کے مؤلف نے اس پیش گوئی کو ابھی واجب الوصول قرار نہیں دیا۔ بلکہ عالم آخرت پر چھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں پر آپ کو کامیابی نکاح کی صورت میں ہوگی اور یا اس کے عوض میں کچھ ورنہ مت مل جاوے گی۔ بہر حال یہ پیش گوئی کسی کے نزدیک بھی بظاہر پوری نہیں ہوئی اور جس آن بان سے اس کو شائع کیا گیا تھا اور اپنی صداقت کا معیار اسی کو ٹھہرایا گیا تھا۔ سب کچھ غلط نکلا۔ ہاں اگر نکاح ہو جاتا اور اولاد بھی پیدا ہو جاتی تو آپ کی مسیحیت پر چار چاند لگ جاتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ گوہزار تا ویلیس کی جائیں اس سے نشان مسیحیت کا ثبوت ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو اہل اسلام کے نزدیک ایک بھاری صداقت کا نشان تھا۔



۱۸۸۴ء میں چلہ کشی کا ارادہ کیا کہ باہر جائیں اور ہندوستان کی سیر بھی کریں۔ سو جان پور ضلع گورداسپور میں جانے کا ارادہ کیا اور عبداللہ سنوری کو ہمراہ لے جانا منظور کر لیا تو الہام ہوا کہ ہوشیار پور جاؤ۔ جنوری ۱۸۸۶ء میں روانہ ہوئے تو عبداللہ کو خط بھیج کر منگو الیا۔ شیخ مہر علی رئیس ہوشیار پور کو خط لکھا کہ دو ماہ کے لئے ہمارے لئے شہر کے کنارے بالا خانہ والا مکان کرائے پر لے دو تو جناب بہلی میں بیٹھ کر بیاس کے کنارے روانہ ہوئے۔ شیخ حامد علی اور فتح خان بھی ساتھ تھے۔ فتح خان رسول پور متصل ٹانڈہ ضلع ہوشیار پور کا باشندہ تھا۔ پہلے بہت معتقد تھا۔ بعد میں مولوی محمد حسین صاحب کے کہنے سے مرتد ہو گیا تھا۔ دریا پر پہنچے تو کشتی تک راستہ میں کچھ پانی تھا۔ ملاح نے آپ کو اٹھا کر کشتی میں بٹھایا تو آپ نے اس کو ایک روپیہ انعام دیا۔ کشتی روانہ ہوئی تو عبداللہ سے فرمایا کہ کامل کی صحبت دریا کی مانند ہے۔ پار ہونے کی بھی امید ہے اور ڈوبنے کا بھی ڈر ہے۔ فتح خان مرتد ہوا تو مجھے یہ بات یاد آگئی۔ راستہ میں فتح خان کے گاؤں میں قیام کر کے دوسرے دن ہوشیار پور پہنچے اور طویلہ کے بالا خانہ میں قیام کیا اور ہم تینوں کے الگ الگ کام مقرر کر دیئے۔ عبداللہ کے سپرد کھانا پکانا تھا۔ فتح خان کے سپرد بازار سے سودا لانا تھا اور مہمان نوازی وغیرہ حامد علی کے سپرد تھی۔ پھر دستی اشتہار دے کر اعلان کر دیا کہ مجھے کوئی ملنے نہ آئے۔ چالیس دن بعد بیس روز ٹھہروں گا۔ ملنے والے دعوت کرنے والے اور سوال و جواب کرنے والے اس وقت آسکتے ہیں۔ کندہ لگا رہے۔ گھر میں بھی کوئی نہ بلائے۔ کھانا اوپر بھیجا جائے۔ میں کسی کو بلاؤں تو ضروری بات کر کے واپس آجائے۔ دوسرے وقت برتن لے جائیں۔ نماز اوپر پڑھوں گا تم نیچے پڑھ لیا کرو۔ ویران مسجد تلاش کرو۔ جہاں جمعہ مل کر پڑھ لیا کریں۔ شہر سے باہر ایک مسجد ویران پڑی تھی۔ وہاں جمعہ پڑھتے تھے۔

ایک دفعہ عبداللہ کھانا دینے آیا تو آپ نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے فضل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دیر تک خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ لکھوں تو کئی ورق ہو جائیں۔ پسر موعود کے متعلق بھی الہام اسی جگہ ہوا تھا۔ (اشہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۰) چالیس دن کے بعد بیس روز ٹھہرے تو دعوت کرنے والے تبادلہ خیالات کرنے والے اور دور و نزدیک کے مہمان آگئے۔ انہی دنوں میں مرلی دھر آریہ سے مباحثہ ہوا۔ جو سرمہ چشم آریہ میں درج ہے۔ دو ماہ کے بعد قادیان کو روانہ ہوئے۔ ہوشیار پور سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر ایک بزرگ کی قبر تھی۔ وہاں بہلی سے اتر کر قبر کی طرف گئے۔ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دعاء کی تو عبداللہ سے کہا کہ جب میں نے

ہاتھ اٹھائے تو یہ بزرگ میرے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ہاتھ نہ ہوتے تو اس سے باتیں کر لیتا۔ اس کی آنکھیں موٹی ہیں اور رنگ سانولا ہے۔ مجادروں کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سو سال سے یہ قبر ہے۔ باپ دادا سے سنا ہے کہ یہ ایک بزرگ بزرگ چشم سانولا رنگ تھے۔ پھر قادیان پہنچ گئے۔ عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے تو اس نے لاعلمی ظاہر کی۔ مگر کہا کہ ایک دن کھانا دینے گیا تو آپ نے کہا کہ الہام ہوا ہے کہ: ”بورك من فيها ومن حولها“ من فیہا سے میں مراد ہوں اور من حولہا سے تم لوگ مراد ہو۔ حامد علی اور عبداللہ سارا دن آپ کے پاس رہتے تھے اور فتح علی سارا دن باہر رہتا تھا۔ غالباً اس الہام کے وقت بھی وہ باہر ہی تھا۔ مگر وہ اتنا معتقد تھا کہ اثنائے گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ میں جناب کو نبی سمجھتا ہوں۔ مگر میں پرانے معروف عقیدہ کے بنا پر گھبراتا تھا۔

ایک دفعہ میں کھانا چھوڑنے گیا تو جناب نے فرمایا کہ خدا مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ تھوڑا سا بھی بیان کروں تو جتنے معتقد نظر آتے ہیں۔ سب پھر جائیں۔ کسی نے حکیم صاحب کو بذریعہ خط پوچھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے جناب کے پاس کہلا بھیجا کہ فوق السرہ کی ہر ایک حدیث محدث نظر آتی ہے تو کہا کہ باوجودیکہ اردگرد کے تمام حنفی تھے۔ زیر ناف ہاتھ باندھنے سے مجھے نفرت رہی ہے۔ تلاش کرو حدیث مل جائے گی۔ کیونکہ جس کا ہمیں میلان ہو اس کا حکم مل جایا کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے آدھ گھنٹہ بھی نہ گذرا کہ حدیث علی الشرط الثمین پالی اور پیش کر کے کہا کہ یہ حضور کی برکت ہے۔ ایک مہمان آیا تو عصر کے قریب آپ نے اس کا روزہ افطار کرانا چاہا۔ مگر اس نے انکار کیا تو آپ نے کہا کہ خدا فرمانبرداری سے راضی ہوتا ہے سینہ زوری سے نہیں۔ اس کا حکم ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھے تو روزہ کھلوادیا۔ حکیم نور الدین صاحب معکف تھے۔ عدالت میں جانا پڑا تو اعتکاف توڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ جب جانا ہی تھا تو اعتکاف کیوں بیٹھے تھے۔ سراج الحق کو روزہ تھا۔ بھول کر کسی نے پانی منگوایا تو اس کو یاد آ گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ خدا کی مہمانی تھی جو سوال کرنے سے روک دی گئی۔ ماہ ذی الحجہ ۱۳۰۳ھ بوقت ۱۰ بجے عبداللہ سنوری سے کہا کہ رعب اور خوف سے بچنے کے لئے تین دفعہ سورہ یٰسین پڑھ کر اپنی پیشانی پر یا عزیز خشک انگلی کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ حکیم صاحب نے ایک دفعہ زراعتی کنواں ساڑھے تین ہزار میں رہن لیا۔ مگر تحریر نہ لی اور مالک کے قبضہ میں ہی رہنے دیا۔ آمد کا مطالبہ کیا تو وہ منکر ہو گیا۔ جناب کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ مولوی صاحب کو مال کی فکر ہے اور مجھے آپ کے ایمان کی کہ کیوں مالک کو ایسا موقعہ دیا۔ لکھو کیوں نہ لیا؟ اور کیوں

قبضہ نہ لیا؟ عبد اللہ سنوری آئین بالجہر اور رفع یدین کے دلدادہ تھے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ سنت پر بہت عمل ہو گیا ہے۔ اس دن سے یہ دونوں چھوڑ دیئے اور آپ نے کبھی نہ یہ دونوں کام کئے اور نہ جہر سے بسم اللہ پڑھی اور یہی اکثری عمل حصول اللہ کا تھا۔ اوائل میں جناب خود ہی مؤذن اور خود ہی امام تھے۔ حکیم نور الدین مقرر ہوئے تو مولوی عبدالکریم کو مقرر کروایا تھا اور ۱۹۴۵ء تک تادم مرگ وہی امام رہے۔ جناب مولوی صاحب دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تھے اور باقی مقتدی پیچھے ہوتے تھے۔ ان کی غیر حاضری میں اور ان کی وفات کے بعد حکیم صاحب امام ہوتے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں امام جمعہ بھی مولوی عبدالکریم ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ کی طبیعت ناساز رہتی تو مولوی صاحب مسجد مبارک میں جمعہ پڑھاتے تھے اور اقصیٰ میں حکیم صاحب امام جمعہ ہوتے تھے۔ مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی محمد احسن صاحب، وہ نہ ہوں تو سرور شاہ صاحب امام بنتے تھے۔ وفات مسجح تک یہی طریق تھا۔ عید کے امام مولوی صاحب یا حکیم صاحب ہوتے تھے۔ جنازہ جناب خود پڑھاتے تھے۔ عید الاضحیٰ ۱۹۰۰ء پر خطبہ الہامیہ مسجد مبارک میں پڑھا تو مسجد اقصیٰ کو گئے اور خطبہ شروع کیا۔ لکھنے پر مولوی عبدالکریم اور حکیم صاحب مقرر ہوئے۔ ایک دفعہ کہا کہ جلدی لکھو یہ وقت پھر نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ کرسی پر تھے۔ بائیں طرف خطبہ نوٹس تھے آواز متغیر تھی۔

بعد از خطبہ آپ نے کہا کہ یہ خطبہ میری طرح سے نہ تھا بلکہ القاء من اللہ تھا۔ بعض دفعہ لکھا ہوا پیش آ جاتا تھا۔ جب لفظ بند ہو گئے خطبہ بھی بند ہو گیا۔ صاحبزادہ نے کہا کہ ہم اس وقت سات برس کے قریب تھے۔ مگر اتنا یاد ہے کہ آپ کی آنکھیں اس وقت قریباً بند تھیں۔ خطبہ کا باب دوم بعد میں لکھا گیا ہے اور ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا۔ عبد اللہ سنوری نے کہا کہ مسجد مبارک میں، میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہا تھا۔ بیت الفکر (جو آپ کی مسجد مبارک کے متصل مکان رہائشی کا حصہ ہے) سے آپ نے آواز دی تو میں نماز توڑ کر متوجہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا اور یہ ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے۔ ابھی حکیم نور الدین صاحب جموں میں ملازم تھے تو انہوں نے خط لکھا کہ اگر یہاں تشریف لے آئیں تو مہاراج آپ کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں تو عبد اللہ سنوری سے جواب لکھایا کہ: ”بئس الفقیر علیٰ باب الامیر“ عبد اللہ سنوری سے کہا کہ قیامت کو ایک شخص خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ پوچھے گا کہ تم نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے۔ کہے گا کہ نہیں تو پھر کسی بزرگ سے بھی ملا؟ کہے گا کہ نہیں۔ ہاں ایک دفعہ کوچہ میں ایک بزرگ جا رہا تھا تو وہ دیکھا تھا۔ خدا فرمائے گا کہ جا تمہیں اسی کی خاطر بخش دیا۔ یہ بھی کہا کہ جو شخص کامل کے پیچھے نماز پڑھتا

ہے تو سجدہ کرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر صحت نیت شرط ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان دو بیویاں کر کے درویش ہو جاتا ہے۔ کہا کہ مردے کا چہلم غیر مقلدوں کے نزدیک ناجائز ہے۔ مگر چونکہ مردہ کی روح چالیس دن بعد رخصت ہوتی ہے۔ اس لئے غرباء میں کھانا تقسیم کر کے اسے رخصت کرنا چاہئے۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ آپ اس رسم کے پابند نہ تھے۔ مگر حکمت بتادی۔ بچپن میں میاں محمود صاحب خلیفہ ثانی ایک دفعہ دروازہ بند کر گئے چڑیاں پکڑ رہے تھے تو آپ نے جمعہ کو جاتے ہوئے دیکھا کہ ایماندار گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ مرزا سلطان احمد نے کہا کہ آپ قرآن مجید، دلائل الخیرات اور مشنوی روم بہت پڑھتے تھے اور کچھ نوٹ بھی کرتے تھے۔ یہ بھی کہا کہ آپ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو ملنے جاتے تھے اور کبھی میاں شرف الدین صاحب المعروف فقیر سماں والا سے بھی ملنے جاتے تھے اور موضع سم طالب پور کے نزدیک ضلع گورداسپور میں ہے۔ وہاں ایک چشمہ بھی ہے شاید اسی واسطے سماں والا کہتے ہوں گے۔

مرزا غلام مرتضیٰ کے پاس جب دونوں بھائی جاتے تو آپ مرزا غلام قادر کو کرسی پر بٹھادیے اور جناب خود ہی نیچے بیٹھ جاتے۔ گو خود متنفر تھے۔ مگر والد صاحب کی خاطر افسروں سے ملاقات کر لیتے تھے۔ (از سلطان احمد) ایک دفعہ آپ مغرب کی طرف سیر کو گئے تو قبرستان کے شمال میں کھڑے ہو کر دعاء کی۔ کیونکہ وہاں رشتہ داروں کی قبریں تھیں، امتہ النصیر کو وہیں دفنایا تھا تو خود اٹھا کر لے گئے تھے۔ ایک دفعہ حکیم صاحب کے درس میں جنگ بدر کا ذکر آیا تو حکیم صاحب نے فرشتوں کے متعلق کچھ تاویل کی تو آپ نے کہا کہ نبی کے ساتھ دوسروں کو بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ ۱۳ اپریل ۱۹۰۵ء میں زلزلہ آیا تو آپ نے باغ میں آٹھ نو بجے لمبی نماز پڑھی، سیر کو گئے تو کسی نے کہا: "لم اخنه بالغیب" کس کا قول ہے۔ حکیم صاحب زلیخا کا قول بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا پر معنی قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے۔ زلیخا کا نہیں ہو سکتا۔ ۱۸۸۳ء میں سلطان احمد نے تحصیلداری کا امتحان دیا تو دعاء کے لئے رقعہ لکھا تو آپ نے پھینک دیا اور کہا کہ دنیا داری کے لئے ہی دعاء کراتے ہیں۔ مگر بعد میں کہا کہ الہام ہوا ہے کہ وہ پاس ہوگا۔ چنانچہ پاس ہو گیا۔ آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے طبابت کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا۔ خیرانی کام سمجھ کر کرتے تھے۔ اس لئے معراج الدین عمر کا یہ قول غلط ہے کہ آپ کے والد صاحب کا ذریعہ معاش طبابت تھی۔ جب منصور ی پیسے (موٹے پیسے) چلتے تھے تو کسی نے آپ سے استفاء کیا کہ مجھے کتنی کا ترکہ ملا ہے کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اسلام کی تبلیغ میں ایسا مال

خرچ ہو سکتا ہے۔ جب دیوانہ کتا حملہ آور ہو اور منصوری پیسوں کے سوا کچھ نہ ہو جو نجاست میں پڑے ہوں تو کیا تم ان کے ساتھ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو لے کر کتوں کو نہیں مارو گے؟ صاحبزادہ کہتے ہیں کہ سود کا فتویٰ جواز کچھ شرائط کے ماتحت صرف وقتی ہے۔ ایک دفعہ آپ مسجد متصلہ اسٹیشن لاہور میں وضو کر رہے تھے تو لیکچرار نے آ کر باہر سے سلام کیا جواب نداد پھر کیا جواب نداد اور کہا کہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے۔ سوالی نے کچھ مانگا تو آپ نے کثرت شور سے آواز نہ سنی۔ گھر چلے گئے واپس آئے تو وہ چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی آ گیا تو آپ نے اسے کچھ نقدی دے دی کہ گویا آپ کے سر سے بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے دعاء کی تھی کہ وہ فقیر واپس آئے۔ شروع میں آپ نماز کے وقت پہلی صف میں دوسرے مقتدیوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر بعض باتیں ایسی ہوئیں کہ آپ نے اندر حجرہ میں امام کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیا اور جب حجرہ گرا کر تمام مسجد ایک کی گئی تو پھر بھی آپ بدستور امام کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے۔ با وضو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرتے تھے۔

اشراق و تہجد بھی حتی الوبح پڑھتے تھے۔ رات کو نیند کم آتی تھی اور رات کو یا کثرت پیشاب تھی یا تہجد اور یا مضمون نویسی۔ فجر کی سنت خفیف صورت میں گھر پڑھتے تھے۔ جناب نے شباب میں بھی روزے رکھے اور اخیر عمر میں بھی اور شوال کے چھ روزے ضرور رکھتے تھے۔ دعاء کرنی ہوتی تو روزہ رکھ لیتے۔ مگر اخیر عمر میں کمزوری کے باعث تین سال رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے۔ ایک دفعہ آپ نے حجامت کرائی تو قاضی امیر حسین نے تبرک کے طور پر بال اپنے پاس رکھ لئے۔ کچھ بال مرزا بشیر احمد کے پاس بھی اب تک موجود ہیں۔ نماز مغرب میں آپ نے چھوٹی چھوٹی سورتوں سے امامت کرائی تو سوز اور درد دل سے سامعین حجاج ٹھے اور قاضی صاحب سے فرمایا کہ عشاء آپ پڑھائیں مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ مرزا بشیر احمد نے ایک دفعہ یوں کہا تھا کہ نظام الدین، تو آپ نے کہا آخروہ تمہارا چچا ہے۔ بڑوں کا اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ آپ صدقہ میں جائیداد کا دسواں حصہ محتاجوں کو خواہ غیر احمدی کیوں نہ ہوں خفیہ طور پر دیا کرتے تھے۔ قرضہ لیتے تو واپسی میں زیادہ دیتے۔ حکیم نور الدین صاحب نے ایک دفعہ قرضہ لیا جب واپس کرنے لگے تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا میرا روپیہ اور ہے؟ حکیم فضل الدین نے بھی آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا تو حکیم صاحب نے ان کو کہلا بھیجا کہ اگر تم اپنا قرضہ واپس دلا بھیجو تو کسی اور طریق سے واپس کرو۔ ورنہ مرزا قادیانی ناراض ہوں گے۔ آپ نے حج کا پختہ ارادہ کیا تھا۔ مگر

آپ عہدہ برآ نہ ہو سکے۔ وفات کے بعد آپ کی اہلیہ نے آپ کی طرف سے حج کروادیا تھا۔ ”انتھی فی ما سیرت المہدی“ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا زہد اور تشریح کچھ رواج پر مبنی تھا۔ کچھ مذہب اہل حدیث پر اور کچھ تصوف پر اور یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دائم المریض ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو کئی جگہ زہد اختیار کرنا پڑا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ آپ کا اہل انسان نہ تھے۔ کیونکہ جس قدر ایسے انسان ہو گزرے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ذیابیطس، کثرت پیشاب، بارچشم، ضرب بازو، نرف دم، غشیان دقے، ضعف و بدہضمی، کزاز و تشخ اعضاء اور مرق وغیرہ میں ہمیشہ کے لئے مبتلا رہا ہو۔ اس لئے ایسا دائم المریض انسان ناقص الاسلام اور ضعیف العمل سمجھا جاتا ہے۔

چنانچہ آپ نے نہ کبھی اعتکاف کیا نہ حج کرنے پر قدرت پائی۔ نہ رمضان کے روزے مکمل طور پر نصیب ہوئے اور نہ ہی نماز باجماعت کی فضیلت پر قیام دکھایا اور نہ ہی نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر ادا کرنے کی فضیلت حاصل کی۔ بلکہ زہد و اتقاء کے خلاف روزہ داروں کے روزے بھی تڑوادیئے اور سنن و نوافل اور جمع بین صلواتین یا بین الصلوات سے اسلام کی رہی سہی وقعت بھی اڑادی۔ اپنی اولاد کو عاق کر کے لاوارث بناتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسلام میں عاق ہونے سے کوئی بیٹا لاوارث نہیں بن سکتا۔ اب اگر اس کو اسلامی حکم مانا جاوے تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی تھے۔ جو احکام جدیدہ کے اجراء پر قادر تھے تو پھر یہ اصول صحیح نہ رہا کہ حضور ﷺ کے بعد تشریح نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر جنوری ۱۹۲۱ء ص ۷۴ میں لکھا ہے کہ جو خط دعاء کے لئے آتا فوراً دعاء کرتے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ نماز کے قیام میں ایڑیوں کا فاصلہ انگلیوں کی نسبت کم ہوتا تھا۔ نماز میں ہاتھ سینہ پر باندھتے تھے۔ آمین بالجہر آپ سے کبھی نہیں سنی گئی۔ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے تھے۔ علالت کی وجہ سے معذور ہوتے تو کہلا بھیجتے کہ نماز پڑھ لو۔ آپ جتنی دفعہ آتے السلام علیکم کہتے۔ نماز جنازہ کی امامت خود کراتے تھے اور باقی نمازوں میں بھی آپ ہی عموماً امام ہوتے تھے۔ سنتیں و نوافل گھر پڑھتے تھے۔ مگر مغرب کی سنتیں مسجد میں ہی پڑھ لیتے تھے اور رمضان شریف میں یہ سنتیں بھی گھر جا پڑھتے۔ آپ کی مجلس بین المغرب والعشاء ہوتی یا بین الظہر والعصر۔

سوانح مختلفہ

ایک دفعہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آپ نے مرزا بشیر احمد کو قلابازیان لگاتے ہوئے اپنے گھر چار پائیوں پر دیکھا۔ جب کہ ابھی وہ دوسری جماعت میں تھا تو کہا کہ اسے

بی۔ اے پاس کرانا۔ بچوں کو کبھی بھلے برے کی کہانی سناتے کہ بھلے کا انجام بھلا ہوا اور برے کا برا اور کبھی بیگن کی کہ ایک نے نوکر سے کہا کہ بیگن برا ہے۔ پھر کسی اور دن کہا کہ بیگن اچھی چیز ہے، تو نوکر نے کہا کہ ہاں اچھی چیز ہے۔ آقا نے پوچھا کہ تم نے پہلے برا کیوں کہا تھا۔ کہا کہ میں جناب کا ملازم ہوں۔ بیگن کا ملازم نہیں۔ آپ کے تینوں صاحبزادوں نے ہوائی بندوق منگوانے کے لئے قرعہ اندازی کی کہ کس قسم کی منگوائی جائے تو آپ نے جس نام کا قرعہ نکالا وہی منگائی گئی۔ جس سے بہت شکار کیا گیا۔ میاں شریف کو بچے بہت چھیڑتے تھے کہ اباتم سے پیار نہیں کرتے تو وہ روتا تھا تو ناک سے رطوبت بہت نکلتی تھی۔ آپ کو اپنے پاس بلاتے تو وہ مارے شرم کے پیچھے ہٹتا۔ موضع بسر اوں واقعہ جانب شرق قادیان میں مرزا غلام مرتضیٰ و مرزا غلام محی الدین کو وہاں پر قلعہ خام میں بند کر کے سکھوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ جب کہ رنجیت سنگھ کے بعد بدامنی پھیل گئی تھی تو مرزا غلام حیدر برادر خورد و غلام محی الدین کو خبر لگی تو اس نے لاہور سے مکہ منگوا کر بچا لیا تھا۔

آپ کے عہد میں کبھی نماز استسقاء ادا کرنے کا موقعہ نہیں آیا۔ کیونکہ اگر ایک دن گرمی ہوتی تو آپ فرماتے آج بہت گرمی ہے۔ دوسرے تیسرے دن بارش ہو جاتی۔ فصل بھی خوب ہوتی تھی۔ آپ کے بعد مہینوں آگ برستی ہے اور بارش نہیں پڑتی۔ صاحبزادہ مبارک احمد بیمار تھا۔ تو حکیم نور الدین صاحب پوچھنے آئے اور جناب چار پائی پر تھے۔ حکیم صاحب نیچے بیٹھنے کو تھے تو آپ نے حکیم صاحب کو پانکتی پر بٹھالیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے کاموں میں انخفا ہوتا ہے۔ پرموعود کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ مگر یہ صفت سب میں موجود ہے۔ کیونکہ خلیفہ محمود اس لئے ایسا ہوا کہ فضل احمد، سلطان احمد اور بشیر اول کو ساتھ ملایا گیا۔ بشیر احمد اس لئے کہ صرف زندہ لڑکے شمار کر لئے۔ شریف احمد کو اس لئے کہ صرف نکاح دوم کے زندہ اور متوفی لڑکے شمار کر لئے اور مبارک کو اس طرح کہ نکاح دوم کے صرف زندہ لڑکے اور بشیر اول متوفی کو شمار کر لیا۔ حاجی عبدالجید لدھیانوی کے مکان میں نیم کا درخت تھا۔ آپ نے حاجی صاحب سے کہا کہ دیکھو برسات سے پتے کیسے خوشنما ہیں۔ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ازالہ اوہام کے مرتب کرنے کے دنوں میں بروایت سنوری یہ الہام ہوا کہ سلطنت برطانیہ ہفت سال، بعد ازاں باشد خلاف و اختلال اور بروایت حامد علی، سلطنت برطانیہ۔ تاہشت سال بعد ازاں ایام ضعف و اختلال۔ اس کا وقوع یا یوم الہام سے ہے یا وفات و کٹوریہ سے یا انیسویں صدی کا آغاز یا جناب کی وفات سے۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لدھیانہ میں پہلی بیعت ۲۰ رجب ۱۳۰۶ھ مطابق ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء کو کوئی تو حامد علی کو دروازہ پر بٹھایا تو آپ نے

پہلے حکیم نور الدین صاحب سے بیعت لی۔ پھر عباس علی سے پھر محمد حسین مراد آبادی سے۔ پھر عبداللہ سنوری سے پھر باقی لوگوں سے۔ پہلے الگ الگ بیعت لیتے تھے۔ پھر اکٹھے کر کے لینے لگے۔ بیعت یوں لیتے تھے کہ سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ تادم مرگ گناہوں سے بچوں گا اور دین کو نفس کی لذات پر مقدم رکھوں گا۔ ۱۲ جنوری کی دس شرطوں پر حتی الوسع پابند رہوں گا۔ اب بھی گذشتہ گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ”استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ“ تین بار کلمہ شہادت ”رب انی ظلمت نفسی واعترف بذنبی فاغفر لی ذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت“ بیعت میں ہاتھ کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھتے یا ہاتھ میں ہاتھ دیتے۔ بیعت اولیٰ میں مولوی عبدالکریم صاحب وہاں ہو کر شریک نہیں ہوئے۔ بیعت لینے کے بعد آپ علی گڑھ گئے اور سید تفضیل حسین تحصیلدار کے مکان پر ٹھہرے۔ تو سید صاحب کے کسی دوست تحصیلدار نے انگریزی طریق پر عام دعوت میں آپ کو بلایا۔ میر عباس علی نے نفرت کی۔ آپ نے کہا کوئی ہرج نہیں مگر وہ انکاری ہی رہا۔ بعد میں جب وہ مرتد ہو گیا تو عبداللہ نے کہا کہ وہ تو اسی دن سے کٹ گیا تھا۔ آپ کے لیکچر کا وہاں اشتہار ہوا تو سید صاحب سے آپ نے کہا کہ الہام ہوا ہے کہ لیکچر نہ دو۔ بہت اصرار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں حکم الہی کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ سات دن قیام کر کے واپس لدھیانہ آ گئے۔ ان دنوں ہی اسماعیل علی گڑھی نے آپ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی اور بعد میں مر گیا تھا۔

حکیم نور الدین کا بیان ہے کہ فتح الاسلام اور توضیح المرام شائع ہوئیں تو ابھی میرے پاس نہ پہنچی تھیں کہ ایک مخالف نے دیکھ کر کہا کیا نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کرے تو پھر؟ میں نے کہا کہ اگر وہ صادق ہے تو بہر حال لوگ اس کا قول قبول کریں گے۔ یہ سن کر کہا کہ تم قابو نہ ہی آئے ہیں تو چاہتا تھا کہ تم کو مرزا سے الگ کر دوں۔ یہ قصہ سنا کر حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے۔ مرا تو ایمان ہے کہ اگر وہ صاحب شریعت ہونے کا بھی دعویٰ کر دیں اور قرآنی شریعت کو منسوخ کر دیں تو بھی مجھے انکار نہ ہو۔ کیونکہ ان کو منجانب اللہ حق مان لیا۔ تو جو بھی آپ فرمائیں گے حق ہوگا اور سمجھ لیں گے کہ خاتم النبیین کے کوئی اور معنی ہیں۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ پسر موعود کے پیش گوئی کے بعد ہم سے کہا کرتے تھے کہ دعاء کرو۔ لڑکا پیدا ہو تب امیدواری بھی تھی بارش ہوئی تو مسجد مبارک کے اوپر جا کر میں نے دعاء کی۔ پھر قادیان سے مشرق کو نکل کر جنگل میں دعاء کی تو سارا دن بارش میں دعاء کرتے گذرا۔ شام کو الہام ہوا کہ ان کو کہہ دو کہ انہوں نے بہت رنج اٹھایا ہے۔ ثواب بہت ہوگا۔



میں نے کہا کہ یہ میرے متعلق ہی ہے۔ کیونکہ میں نے بارش میں اور جنگل میں دعاء کی تھی تاکہ قبول ہو۔ آپ نے تصدیق کی اور ایک آنہ کے بتائے تقسیم کئے۔ مگر عصمت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ دعاء قبول نہیں ہوئی۔ مگر ثواب مل گیا۔ ابھی بیعت لینی شروع نہ ہوئی تھی کہ میں نے کہا میری بیعت لے لیں۔ کہا کہ پیر کا کام بھنگی کا کام ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے مرید کے گناہ دھونے پڑتے ہیں اور مجھے کراہت ہے تم شاگرد بن جاؤ۔ میں نے ایک آنہ کے بتائے لا کر رکھ دیئے جو تقسیم کر دیئے اور مجھے بھی دیئے۔ ایک ہفتہ کے بعد ایک آیت کا ترجمہ سادہ پڑھاتے تھے اور کبھی کبھی تشریح بھی کر دیتے۔ کہتے کہ تم میں معارف کی برداشت نہیں۔ شاید اس لئے کہ میں مجنون نہ بن جاؤں۔ آپ نے نصف پارہ پڑھایا ہوگا کہ میں نے جانا کہ میرے دل پر معافی کی پوٹلی گرا دی جاتی ہے۔ کہتے تھے کہ میں معافی قرآن کے لئے ہی مبعوث ہوا ہوں اور ہماری صحبت سے یہی فائدہ ہے۔ حاجی عبدالجید لدھیانوی اور حکیم نور الدین صاحب کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ: "لست بما مور یہ" تو جب حکم ہوا بیعت لینی شروع کر دی۔

ایک دن بڑی مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا اور آپ ٹہل رہے تھے۔ آپ کی نظر سے میری نظر مل گئی تو میرا دل پکھل گیا اور دیر تک دعاء کرتا رہا۔ پھر آپ نے بند کرادی تو میں نے سمجھا کہ کامل کی نظر میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔ میں اور حامد علی آپ کے ہمراہ شمال کو سیر کے لئے نکلے۔ راستے میں بیر کے پاس ایک لال بیر تھا۔ میں نے اٹھالیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی ملکیت ہوگا نہ کھاؤ۔ تب سے میں نے ایسے بیر نہیں کھائے۔ گو عہد شباب میں ہی آپ نے تبلیغ و تعلیم شروع کر دی تھی اور زبانی مباحثہ بھی ہوتا تھا۔ جس کے متعلق ۱۸۶۵ء، ۱۸۸۲ء کو ایک تبلیغی خواب بھی دیکھا تھا۔ سیالکوٹ کی ملازمت میں بھی آپ نے یہ کام شروع رکھا۔ ۷۸، ۷۷، ۱۸۷۷ء میں آپ نے مضامین بھی شائع کئے۔ براہین کا کام گو پہلے شروع تھا۔ مگر اشاعت ۱۸۸۹ء سے شروع ہوئی اور حصہ چہارم ۱۸۸۴ء میں شائع ہوا تو آپ مجدد تسلیم ہوئے اور ایک جماعت تیار ہو گئی اور مخالفین اسلام کھڑے ہو گئے۔ گویا یہ پہلا زلزلہ تھا۔ براہین کے بعد بیس ہزار اشتہارات کے ذریعہ سے اپنی ماموریت کا اعلان کیا۔ ۱۸۸۶ء میں ہوشیار پور کا جلسہ رونما ہوا۔ جس میں عظیم الشان بیٹے کی بشارت ملی اور ۱۸۸۶ء میں اس کا اعلان کر دیا۔ اب موافق و مخالف منتظر رہے۔ گھر امیدواری تھی تو مئی ۱۸۸۶ء کو لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ دوسرا زلزلہ تھا جو ابتلاء ثابت ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ الہام میں اس کی تعیین نہیں ہوئی تھی۔ لوگ سنبھل گئے مخالفین نے استہزاء کی اور آمد کا جوش نہ رہا۔ یکم دسمبر ۱۸۸۸ء سے پہلے دس ماہ سلسلہ بیعت کا اعلان ہوا اور ۱۸۸۹ء میں بیعت اولیٰ لدھیانہ میں لی گئی۔

اس وقت تک لوگ آپ کو بینظیر خادم اسلام سمجھتے تھے۔ ۱۸۹۱ء کے شروع میں فتح اسلام تصنیف ہوئی۔ جس میں آپ نے وفات مسیح اور اپنی مسیحیت کا اعلان کر دیا اور کفر کے فتوے لگ گئے اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو اس سے پہلے موافق تھا۔ سب پر تکفیر میں سبقت کی اور فتوے تکفیر شائع کیا۔ یہ تیسرا زلزلہ تھا۔ اس کے بعد پندرہ ماہی پیش گوئی متعلقہ آیتوں کے متعلق شورا اٹھا۔ مگر جماعت برداشت کر گئی اور یہ چوتھا زلزلہ تھا۔ پانچواں زلزلہ جو زلزلة الساعة تھا۔ آپ کی وفات تھی۔ مگر آپ کی مقناطیسی طاقت نے جماعت کو الگ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول کی وفات پر شورا اٹھا۔ مگر یہ صدق دعویٰ سے متعلق نہ تھا۔ صاحبزادہ بشیر احمد کا قول ہے کہ پانچ زلزلوں کی پیش گوئی ان زلزلوں پر بھی منطبق ہو سکتی ہے۔ چھوٹے زلزلے کئی دفعہ آئے اور آئیں گے۔ مگر ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی طنے گئے تو آپ اپنے مکان میں خربوزے کھا رہے تھے۔ آپ نے ایک موٹا خربوزہ مولوی صاحب کو دے کر کہا کہ موٹا آدمی منافق ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسا نکلتا ہے۔ چیرا تو پھیکا تھا لالہ ملا وائل نے کہا کہ آپ نے مجھے صندوقچی کھول کر براہین کا مسودہ دکھایا کہ میرا یہی سب مال اور یہی جائیداد ہے۔

۱۸۷۹ء میں جب آپ نے براہین کا اعلان کیا تو اس وقت تک اس کا حجم دو اڑھائی ہزار صفحہ تک پہنچ چکا تھا۔ جن میں آپ نے اسلام کی صداقت پر تین سو دلائل لکھے تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ اشاعت پر اور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ چار جلدیں شائع ہوئیں تو مقدمہ اور حواشی بڑھا دیئے۔ مگر اصل کتاب کے صرف چند ورق درج ہوئے ہیں اور صرف ایک دلیل لکھی گئی ہے اور وہ بھی ادھوری۔ پھر اشاعت رک گئی اور باقی مسودہ جل کر تباہ ہو گیا۔ جلد چہارم کے اخیر پر لکھ دیا کہ ابتداء میں کچھ اور خیال تھا۔ دوران اشاعت میں آپ مامور بن گئے اور پہلے ارادے ترک کر دیئے۔ صاحبزادہ کا قول ہے کہ آپ کی ۸۰ کتابیں اور آپ کا وجود ہی تین سو دلائل صداقت اسلام کی ضمانت ہے جو کہ ہر کہہ و مہ پر ظاہر ہے۔ چوہدری حاکم الدین کا بیان ہے کہ جب مرزا امام الدین و نظام الدین نے مسجد کاراستہ بند کیا تو آدمی بھیج کر منت سماجت کی۔ مگر انہوں نے نہ مانا۔ اس وقت قادیان کے قریب کسی موقع پر ڈپٹی کمشنر صاحب تحقیق کے لئے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ مگر اس نے بھی غصہ میں آ کر کہہ دیا کہ میں تم کو جانتا ہوں۔ میں تمہاری خبر لینے والا ہوں تم کو پتہ لگ جائے گا۔ کیونکہ سوائے چند مہاجرین اور مہمانوں کے سارا قادیان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے احمدیوں کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہجرت انبیاء کا کام ہے کہیں باہر چلے جائیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھیرہ چلیں۔ میرا

مکان حاضر ہے۔ مولوی عبدالکریم نے سیالکوٹ جانا پیش کیا۔ شیخ رحمت اللہ نے لاہور اپنے پاس لے جانے کو کہا اور میں نے کہا کہ میرا گاؤں صحیح و سالم موجود ہے۔ گویا وہاں ہماری ہی حکومت ہے۔ پاس ہی دوسرا گاؤں ہے جس سے تمام اشیاء مہیا ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اچھا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ۱۸۸۷ء میں بھی ہجرت کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا۔ جس کا ذکر شخصہ قی میں ہے۔ ہوشیار پور میں چلہ کشی کا حساب و کتاب عبداللہ سنوری نے اپنی پاکٹ بک میں درج کیا تھا۔ جس کا نمونہ درج ذیل ہے۔ ۳۱ مارچ ۱۸۸۶ء مرہائے آم، آچار، دودھ، مصری، چٹنی، گوشت، لفافہ، پالک، دال ماش، نمک، دھنیا، پیاز، تھوم، ادراک، مرمت تھیلا، ریوڑی۔ چونکہ ضلع امرتسر کا ایک معمر سو سو سال کا بوڑھا پست قد حضرت سید احمد صاحب بریلوی کا مرید اور شریک سفر حج بھی تھا اور اس کے جسم پر زخموں کے نشان بھی تھے، قادیان آیا۔ جبکہ حافظ روشن علی صاحب یہاں ابھی ابھی آئے تھے۔ اس نے بیعت کی حکیم صاحب نے صلوة خوف کے عملی طریق اس سے سیکھے تھے۔ چار دن رہ کر روانہ ہونے لگا تو آپ نے دو ماہ کے لئے اور ٹھہرا لیا۔ ایک دفعہ پھر آیا تھا۔ مگر جلدی واپس جا کر مر گیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے دو اماموں سے بیعت کی اور صدیوں کے سرپائے احمدیوں کو اہل قادیان خصوصاً ایذا رسانی کرتے تھے۔ کسی کے کھیت میں کسی نے پاخانہ پھر دیا تو اسی کے ہاتھوں اٹھواتے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تو لپٹ گئے۔ مگر آپ نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی۔

سید احمد نور کا بلی مہاجر نے ایک دفعہ اجازت مانگی تو آپ نے کہا کہ لڑنا ہے تو واپس کامل چلے جاؤ۔ ۱۹۰۶ء میں ایک دفعہ ایک احمدی نے مکان کے لئے ڈھاب سے مٹی اٹھوائی۔ سکھ لائیاں لے کر آ پڑے۔ احمدیوں نے بھی مقاومت کی، جانین زخمی ہوئے۔ پولیس نے سکھوں کا چالان کر دیا۔ مگر جب آپ قادیان آئے تو سکھوں نے غلطی کا اعتراف کیا تو آپ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایذا رسانی کم ہوتی گئی۔ آج یہ حالت ہے کہ قانونی ایذا رسانی تو کرتے ہیں مگر دستی ایذا رسانی پر قادر نہیں رہے۔ کیونکہ خود قادیان میں احمدیوں کی تعداد بہت کم چکی ہے۔ دعویٰ مسیحیت سے پہلے الہام ہوا کہ: ”وسع مکانک“ عبداللہ سنوری سے کہا کہ مرمت تین چھپر بنا لیتے ہیں۔ امرتسر حکیم محمد شریف کہ جس کے پاس آ کر ٹھہرا کرتے تھے کے پاس جا کر مصالحہ اور کاریگر لے آؤ تو اس طرح چھپر تیار ہو گئے۔ وہ بہت مدت رہے آخر خراب ہو گئے۔ منشی احمد جان صاحب سجادہ نشین لدھیانہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ کہا کہ علم توجہ سے مخاطب کو گرا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ بس

اتنے سے ہی حقیقت کھل گئی اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ فسخ اعوج کے زمانہ میں صوفیاء نے یہی کمال سمجھا رکھا تھا۔ یہ تو ہر ایک دھریہ بھی کر سکتا ہے۔ فشی صاحب دعوائے مسیحیت سے پہلے ہی مر چکے تھے اور آپ کی لڑکی کا نکاح حکیم نور الدین سے ہوا تھا۔ آپ کے دونوں لڑکے پہیں ہجرت کر کے گئے تھے۔ حکیم صاحب کی زینہ اولاد اسی شادی سے ہوئی۔ فشی صاحب نے ایک دفعہ یوں شعر کہا۔

ہم مریضوں پہ ہے تمہیں کی نظر

تم میجا بنو خدا کے لئے

لالہ بھیم سین یا لکھوئی کو آپ سے عقیدت تھی۔ آپ اس سے قرضہ بھی لیا کرتے تھے۔

جہلم کے مقدمہ میں اس نے اپنا لڑکا کنور سین وکیل پیروی کے لئے مفت پیش کیا۔ مگر آپ نے نہ مانا۔ اس نے آپ کے ساتھ مل کر مختاری کا امتحان دیا تو الہام ہوا کہ بھیم سین کے سوا سب فیل ہیں۔ اس لئے آپ بھی فیل ہو گئے۔ قادیان میں بھی جناب گوشہ نشین رہتے تھے۔ آریہ شرم پت اور ملا وائل تاہم آپ کے کچے دوست تھے۔ ملا وائل دوسری شادی پر دہلی بھی گیا تھا۔ مگر بعد میں اس کا آنا کم ہو گیا تھا تو الہام یہود اسکر یوٹی پورا ہوا۔ آپ نے اتمام حجت کے لئے ان دونوں کو اپنا شاہد مقرر کیا تھا کہ واقعات جھوٹ ہوں تو یہ دونوں اشتہار دے دیں۔ ”الیس اللہ بکاف عبده“ والی انگوٹھی بھی لالہ ملا وائل تیار کرانے امر تر آیا تھا اور پانچ روپے میں تیار ہوئی تھی۔ حکیم صاحب کے کچھ شاگردوں پر بدکاری کا الزام عائد ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ قادیان سے چلے جائیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ حضور صرف شبہ ہی ہے تو آپ نے کہا کہ ہم بھی تو شرعی حد نہیں لگا رہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کے متعلق لکھا ہے کہ۔

مبارک وہ جواب ایمان لایا

صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا

عبدالحکیم مرتد نے کہا کہ صرف حکیم صاحب عملی رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے مجھ پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں۔ موسیٰ کے پیروان سے ان کو ہزار ہا درجہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ہزار ہا آدمی دل سے فدا ہیں۔ کہوں تو مال سے دستبردار ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں تو شان نظر آتی ہے اور ان میں نہیں کیا وجہ ہے جواب یہ ہے کہ:

.....۱ ہمعصر اپنے ہمعصر کی قدر نہیں کرتے۔

.....۲ اسلامی تاریخ سے بھی خوب واقف نہیں اور ان سے خوب واقف ہیں۔

- .....۳ صحابہ کے حالات متدوّن ہیں اور ان کے حالات قلمبند نہیں ہوئے۔
- .....۴ صحابہ کو ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کا ایمان چمکا اور ان کو پیش نہیں آئے۔
- .....۵ صحابہ کے مقابل طاقت اس قدر زوردار نہ تھی جو ان کے مقابل تھی۔
- .....۶ مرنے کے بعد یہ بھی ویسے ہی سمجھے جائیں گے۔
- .....۷ انفرادی اصلاح اور جماعت کی اجتماعی اصلاح میں فرق ہوتا ہے۔
- .....۸ برائی بہت جلد اور زیادہ نظر آتی ہے۔
- .....۹ جتنا نفاق آج کل کی زندگی میں ہے شاید ہی کسی زمانہ میں ہو۔ یہ غلط ہے کہ آج کل منافق نہیں اور ہم عملاً دیکھ رہے ہیں کہ احمدی کہلانے والوں میں بھی منافق پائے جاتے ہیں۔ کوئی کسی وجہ سے اور کوئی کسی وجہ سے۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے۔
- .....۱۰ احمدی اور غیر احمدی کا امتیاز مشکل ہوتا ہے۔ پھر صحبت یافتہ کا امتیاز بھی نہیں۔
- .....۱۱ آپ نے اور خلیفہ اول نے بعض دفعہ احمدیوں کی کمزوریاں ظاہر کر دی ہیں۔ مگر جناب لکھتے ہیں کہ میں ان کو ترقیات کی ترغیب دیتا ہوں اور ان کی نیکیاں ان کو نہیں سنا تا، مگر دل میں خوش ہوں۔
- .....۱۲ صحابہ کی تعریف قرآن میں ظاہر ہے اور ان کی تعریف الہامات میں مخفی ہے۔
- .....۱۳ صحابہ کی ترقی فنی ہوئی اور ان کی تدریجی ہو رہی ہے۔
- مبارک احمد بیمار ہوا تو آپ کو قلق تھا۔ فوت ہو گیا تو آپ خط لکھنے بیٹھ گئے کہ الہام پورا ہوا کہ خدا رسیدہ ہو گا یا بچپن میں مرے گا۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھی تو کہا کہ بہت کمزوری ہے۔ کہا کہ آپ کستوری لائیں۔ آپ لانے میں مشغول ہو گئے اور دیر ہو گئی اور وہ چل دیا۔ قبر میں دیر تھی۔ اس لئے باغ میں بیٹھ گئے تو آپ نے خاموشی کے بعد کہا کہ شریعت خدا نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اس میں آسانی تلاش کر سکے۔ مگر قضا و قدر کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب اس کی چوٹ آگتی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو ایک آن میں اتنی ترقی کرتا ہے کہ چالیس سال کی صوم و صلوة سے نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ایک بزرگ کا بچہ مر گیا تو کہا سگ بچہ مردفن بنید۔ مگر مقتدائے قوم ایسی بات نہیں کرتے۔ جب آتھم کی موت میں ایک دن رہ گیا تو آپ نے عبد اللہ اور حامد علی سے کہا کہ چنے لے کر آن پر فلاں سورۃ پڑھو وہ سورۃ چھوٹی سی تھی۔ ہم نے ساری رات میں وہ وظیفہ ختم کیا۔ ہم چنے لے گئے تو آپ نے قادیان سے شمال کی طرف جا کر فرمایا کہ یہ چنے غیر آباد کنوئیں میں ڈال دوں گا اور جب ڈال

چکوں تو بہت جلدی ہم کو منہ موڑ کر واپس آنا چاہئے۔ چنانچہ آپ نے غیر آباد کنوئیں میں پنے ڈال دیئے اور منہ موڑ کر واپس جلدی سے چلے آئے اور پیچھے نہیں دیکھا۔ آپ کے سوانح حیات میں یہ کتابیں اس وقت تک تیار ہو چکی ہیں۔

اول ..... سیرۃ المسیح (اردو) از مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی تاریخ تصنیف ۱۹۰۰ء۔ اس میں چشم دید واقعات اور خانگی امور پر خصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ آپ جناب کے اپنے مکان میں ہی رہتے تھے۔

دوم ..... احمد علیہ السلام (انگریزی) از مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ آپ ۱۸۹۷ء میں داخل بیعت ہوئے تھے۔ تاریخ تصنیف ۱۹۰۶ء چشم دید سرسری واقعات پر مشتمل ہے۔ سوم ..... مسیح کے مختصر حالات (اردو) از معراج الدین عمر لاہوری مہاجر نہ تھے۔ تاریخ تصنیف ۱۹۰۶ء اس میں کوئی خاص بات نہیں۔

چہارم ..... حیات النبی (اردو) از شیخ یعقوب علی صاحب تراب عرفانی مہاجر تاریخ تصنیف ۱۹۱۵ء۔ اخبار الحکم سے واقعات قلم بند کر کے اب تک دو جلدوں میں شائع کر چکے ہیں۔ پنجم ..... تذکرۃ المہدی (اردو) از پیر سراج الحق نعمانی بہت دلچسپ ہے۔ بیعت ۱۸۸۲ء مسلسل نہیں۔ برجستہ مضامین چشم دید واقعات کے متعلق ہیں۔ تاریخ تصنیف ۱۹۱۵ء دو حصوں میں شائع ہو چکی ہے۔

ششم ..... سیرۃ مسیح موعود (اردو) از مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی عام واقعات ہیں۔ تاریخ تصنیف ۱۹۱۶ء۔

ہفتم ..... حالات مسیح (انگریزی) از ڈاکٹر گرس فولڈ پروفیسر مشن کالج لاہور۔ کچھ مختصر کچھ غلط اور کچھ تعصب آمیز۔

ہشتم ..... حالات مسیح (انگریزی) از مسٹر والٹر سکر یٹری بیگ مین ایسوسی ایشن لاہور مختصر احمدیہ لٹریچر سے ماخوذ اور متعصبانہ رنگ۔

آپ کی ۸۰ کتابیں الحکم البدن تشیذ الاذیان و دیگر رسائل بھی تاریخ پر شامل ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آپ کی خصوصیت سے تو تاریخ کی تعین نہ تھی۔ کیونکہ تجربہ ثابت ہوا ہے کہ ایسے دماغ اپنے دوسرے تو اے ذہنی میں کمزور ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھیں تاکہ اختلاط سے عمر خراب نہ ہو۔ شیخ رحمت اللہ لاہوری ایک نوجوان عیسائی کو قادیان لائے کہ داخل بیعت کریں۔ عبدالرحمان مصری بھی حاضر ہو گئے تو ان کی بیعت تو لی گئی مگر عیسائی سے کہا

کہ پھر آؤ۔ دوسری دفعہ بھی یہی کہا۔ تیسری دفعہ اس نے بروز منگل تعین چاہی تو جمعرات بتائی تو ناراض ہو کر چلا گیا اور عیسائی ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ عیسائی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ اسی واسطے ٹھہرایا تھا۔ مرزا سلطان احمد آپ سے نحو میر گلستان بوستان وغیرہ پڑھتے تھے۔ دادا صاحب نے روک دیا کہ میں نے سب کو ملا نہیں بنانا۔ لاؤ میں پڑھاؤں گا۔ ملا جان محمد کشمیری پرانا امام تھا۔ خلیفہ جانی نے اس سے کچھ پڑھا تھا۔ پہلے وہی امام مسجد تھا۔ آپ کے سفر و حضر میں حاضر رہتا تھا۔ اس کا بھائی غفار جاہل اور بے نماز تھا۔ آمد و رفت زیادہ ہو گئی تو اس نے یکہ بنا لیا۔ اس کی اولاد یہی کام کرتی ہے۔ آپ اسے اعرابی کہتے تھے۔ کیونکہ اس نے نماز شروع کر کے چھوڑ دی تھی۔ جان محمد کا بیٹا دین محمد عرف بگا کو اکثر احمدی جانتے ہیں۔ چونکہ مرزا سلطان احمد و فضل احمد جوانی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے اپنے دادا کے پاس ہی رہا کرتے تھے اور آپ سے میل ملاپ نہ تھا۔ آپ کی ایک بہن تھی۔ مرزا غلام مرتضے کا خیال تھا کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ اسے خواب بہت آتے تھے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی سفید ریش بزرگ نے اسے تعویذ دیا ہے۔ دیکھا تو بھونچ پتر پر سورۃ مریم لکھی ہوئی موجود تھی۔ ایک دفعہ خواب میں دریا دیکھا اور پانی پانی کہہ کر چلا اٹھی۔ دیکھا کہ پاؤں بھیکے ہوئے تھے اور ریت بھی لگی ہوئی تھی۔ اس لئے خلل دماغ کا شبہ جاتا رہا۔ مسٹر میکائل ڈپٹی کمشنر نے مرزا غلام مرتضے سے پوچھا کہ ہماری حکومت اچھی ہے یا سکھوں کی۔ کہا کہ قادیان میں جو اب دوں گا۔ وہ دورے پر آیا تو کہا کہ یہ میرے مکان سکھوں کے عہد کے ہیں۔ آپ کے عہد میں میری اولاد شاید مرمت بھی نہ کر سکے گی۔ آپ کی دوسری شادی ہوئی تو سلطان احمد کی پہلی اہلیہ آپ کی اہلیہ سے بڑی معلوم ہوتی تھی اور فضل احمد کی شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ آپ کے دوسرے خسر کی بدلی ہنودان میں ہوئی تو آپ کی خوشدامن بیمار ہو گئی۔ جو ڈولی میں بٹھا کر قادیان پہنچی تو آپ کے والد صاحب نے نسخہ لکھ کر رخصت کر دیا۔ ایک دفعہ جب گھر میں آئی تو آپ الگ کمرہ میں قرآن شریف تلاوت کر رہے تھے۔ پیٹھ دیکھ کر کہا کہ کون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ یہ غلام احمد کا چھوٹا لڑکا ہے جو بالکل ولی ہے۔ آپ کی دوسری اہلیہ ابھی بہت چھوٹی تھی جو گھر میں اس وقت اکیلی تھی۔ شام کے وقت چلائی مگر والد آگے تو تسلی ہوئی۔ یوں تو ساری عمر جہاد ہی میں گذری۔ مگر باقاعدہ مناظرے صرف پانچ ہوئے ہیں۔

- اول ..... ہوشیار پور میں مرلی دھر کے ساتھ ۱۸۸۶ء میں جس کا ذکر سرمہ چشم آریہ میں ہے۔  
دوم ..... مولوی محمد حسین بٹالوی سے لدھیانہ میں جولائی ۱۸۹۱ء میں جو رسالہ الحق لدھیانہ میں مذکور ہے۔

سوم ..... محمد بشیر بھوپالوی سے دہلی میں ۱۸۹۱ء کو جس کا ذکر رسالہ الحق دہلی میں ہے۔

چہارم ..... مولوی عبدالحکیم کلانوری سے بمقام لاہور جنوری و فروری ۱۸۹۲ء میں جس کی روئیداد شائع نہیں ہوئی۔ مگر اشتہار مورخہ ۳ فروری ۱۸۹۲ء میں کچھ ذکر ہے۔

پنجم ..... بمقام امرتسر عبداللہ آتھم عیسائی سے مئی و جون ۱۸۹۳ء میں جس کی کیفیت جنگ مقدس میں مذکور ہے اور دو حملے ہوئے ہیر، اول بمقام بٹالہ محمد حسین پر ۶۹، ۱۸۶۸ء میں جو براہین حصہ چہارم ص ۵۲۰ پر ہے۔ دوم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی پر بمقام جامع مسجد دہلی ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو جو اشتہارات میں درج ہے۔ مخالفین کے مقدمات کی تفصیل یہ ہے۔

اول ..... غالباً ۱۸۷۷ء میں بابور لیا، ام عیسائی امرتسر کی مخبر سے ڈاکخانہ کی طرف سے ہوا تھا۔ جس کی تشریح مولوی محمد حسین بٹالوی کو خط لکھتے ہوئے آئینہ کمالات اسلام میں شائع ہو چکی ہے۔

دوم ..... محمد بخش تھانہ دار بٹالہ کی رپورٹ مورخہ یکم دسمبر ۱۸۹۸ء اور مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست برائے اسلحہ حفظ خود اختیاری مورخہ ۵ دسمبر ۱۸۹۸ء بعنوان مقدمہ حفظ امن زیر دفعہ ۱۰۷، ضابطہ فوجداری بعد الت ڈپٹی کمشنر گورداسپور دائر ہو کر ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء کو فیصل ہوا اور ضمانت سے برأت ہوئی۔ جس کی تفصیل الحکم مارچ ۱۸۹۹ء اور اشتہار ۲۶ فروری ۱۸۹۹ء میں درج ہے۔

سوم ..... جہلم کا مقدمہ جو مولوی کرم الدین ساکن بھین ضلع جہلم کی طرف سے پہلے جہلم میں دائر ہوا۔ پھر گورداسپور میں چلایا گیا تھا۔ بالآخر بعد الت اے ہری شن جج امرتسر ۷ جنوری ۱۹۰۵ء کو فیصل ہوا اور آپ بری ہو گئے۔ ماتحت عدالت کا فیصلہ بعد الت آتمارام ججسٹریٹ درجہ اول گورداسپور ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۴ء کو ہوا تھا۔ اس کی تفصیل الحکم میں ہے۔

چہارم ..... مقدمہ دیوانی جو آپ کی طرف سے مرزا امام الدین پر قائم ہوا کہ اس نے ۷ جنوری ۱۹۰۰ء کو مسجد مبارک کے سامنے دیوار اٹھا کر راستہ بند کر دیا تھا۔ ۱۲ اگست ۱۹۰۱ء کو بعد الت شیخ خدا بخش صاحب ڈسٹرکٹ جج گورداسپور آپ کے حق میں فیصلہ ہوا اور ۲۰ اگست ۱۹۰۱ء کو دیوار گرانی گئی۔ دیکھو تفصیل کے لئے الحکم اور حقیقت الوہی۔

ششم ..... مقدمہ انکم ٹیکس جو ۷ دسمبر ۱۸۹۷ء کو بعد الت ٹی ڈکسن ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور فیصلہ ہوا اور ٹیکس نہ لگا۔ اس کی تفصیل ضرورت الامام میں شائع ہوئی ہے۔



ہفتم ..... فوجداری مقدمہ جو مارٹن کلارک پادری نے قتل کے الزام پر دائر کیا تھا۔ ابتدائی کارروائی یکم اگست ۱۸۹۷ء کو امرتسر میں بعدالت مارٹینو ڈپٹی کمشنر امرتسر ہوئی اور آخری کارروائی میں ۲۳ اگست ۱۸۹۷ء کو ایم ڈگلس ڈپٹی کمشنر گورداسپور نے بری کر دیا۔ دیکھو کتاب البریہ، ۱۸ اپریل ۱۸۹۷ء کو جناب اندر دالان میں کام کر رہے تھے کہ سپاہی آئے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ڈیوڑھی پر بھی ایک سپاہی آ گیا۔ مرزا محمود کو کہہ کر بھیجا کہ جناب آتے ہیں۔ جب مسجد کو نکلے انگریز پکتان مسجد میں کھڑا تھا کہ لیکھرام کے قتل میں آپ کی خانہ تلاشی لوں گا تو پکتان معہ دوسرے سپاہیوں نے ساری خانہ تلاشی خوب لی۔ سردخانہ میں جانے لگا تو سردروازے سے ٹکرایا اور سخت بے چین ہوا۔ آپ نے تیمارداری کی۔

اثنائے تفتیش میں ایک خط لکھا کہ جس میں کسی نے لیکھرام کے قتل پر مبارک باد لکھی تھی۔ مخالفین نے کہا کہ دیکھئے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے تو آپ نے بستہ کھول کر اور بھی اس قسم کے خط نکال کر پیش کر دیئے اور پکتان نے کہا کوئی بات نہیں۔ دیکھو اشتہار ۱۱ اپریل ۱۸۹۷ء، لیکھرام ۶ مارچ ۱۸۹۷ء کو قتل ہوا تھا۔ میر ناصر نواب صاحب سے مولوی محمد علی کی کشکش ہوئی تو میر صاحب نے آپ کے پاس شکایت کر دی۔ بعد میں مولوی صاحب نے کہا کہ اگر ایسی شکایتیں شروع ہو گئیں تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ ہم قادیان سے چلے جائیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ آئے تھے۔ مگر مجھے معلوم نہیں وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ میں اپنے خیال میں محو تھا کہ گو میری جماعت نے قوتِ استدلالی میں کافی ترقی کر لی ہے اور مخالف بھی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ مگر اصلی غرض جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ ابھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یعنی جماعت میں مکارم اخلاق، تقویٰ و اصلاح، اسوہ حسنہ پر عمل درآمد، اسلام کو اپنا شعار بنالینا موجود نہیں ہوا اور یہ فکر شب و روز خلوت و جلوت میں دامن گیر ہے۔ عبداللطیف کی شہادت کی خبر آئی تو خوش ہوئے اور کہا کہ ایمان کا نمونہ قائم ہو گیا ہے اور افسوس بھی کیا کہ ایک قبیح الگ ہو گیا ہے۔ وہ جب کاہل جانے لگے تھے تو خود ہی کہتے تھے کہ اب میں زندہ نہ رہوں گا۔ یہ موقعہ آخری رخصت کا جانتے تھے۔ آپ رخصت کرنے دور تک چلے گئے تو وہ قدم پر گر کر رونے لگے۔ مگر آپ نے الامر فوق الادب کہہ کر کھڑا کر دیا تو حضرت سے حسرت کے ساتھ رخصت ہوئے۔

عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ میں ایک امیر کے لئے (جو غالباً پٹیلہ کا تھا) دعاء کرانے کو قادیان آیا۔ کیونکہ وہ ناولد تھا اور جائیداد بہت تھی۔ مگر جناب نے اثنائے تقریر میں فرمایا کہ دعاء کے لئے تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ دعاء کرانے والے کو ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام کرے

جس سے دعاء کرنے والے کا دل پگھلے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ تبلیغ اسلام کے لئے ایک لاکھ روپیہ دے یادینے کا وعدہ کرے۔ پھر ہم اس کے لئے دعاء کریں گے۔ پھر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لڑکا عنایت کرے گا۔ عبد اللہ سنوری نے اس کو جا کر بعینہ یہی لفظ کہہ دیئے اور خاموش ہو گیا اور لا ولد ہی مر گیا اور جائیداد تقسیم ہو گئی۔ مولوی فخر الدین ملتانی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی عمر کے متعلق مختلف خیال تھے تو میں مولوی محمد حسین صاحب کے پاس آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ احمدی ظاہر ہو جاؤں۔ مگر آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ قادیان، تو اثنائے گفتگو میں میں نے کہا کہ آپ تو وفات مسیح کے قائل ہوں گے؟ تو جواب سختی سے دے کر کہا کہ میں مسیح زندہ مانتا ہوں۔ دوران گفتگو میں کہا کہ میں مرزا صاحب کا بچپن میں ہم مکتب بھی تھا اور میری ملاقات بھی رہی ہے اور جوانی سے جانتا ہوں۔ آپ کا مقولہ ہے کہ جو لوگ سادگی میں عمر بسر کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور یہ بھی آپ کا مقولہ تھا کہ مرضی موٹی بہر حال اولیٰ۔

میاں ظفر احمد کپور تھلوی کو دوسری شادی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہاں دولڑکیاں ہیں۔ ان میں کوئی ایک پسند کر لیں۔ آپ آگئے اور ان کو کمرہ کے باہر چک (چق) کے ورے کھڑا کر دیا کہ وہ پسند کریں۔ اس نے دیکھ لیں تو آپ نے ان کو رخصت کر دیا۔ پوچھا کہ کون سی پسند ہے۔ کہا کہ لمبے چہرے والی مگر آپ نے کہا کہ گول چہرے والی اچھی ہے۔ کیونکہ اس کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ مگر ان میں سے کسی کا رشتہ نہ ہو سکا۔ عبد اللہ سنوری کو جب دوسری شادی کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا کہ بہت جلد اس قلعہ میں آ جانا چاہئے اور زید بکر کی پروانہ کرو۔ آپ خوبصورت چیز کو پسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ: ”ان اللہ جمیل و یحب الجمال“ آپ نے غالباً بیعت سے پہلے اشتہار دیا تھا کہ اگر کسی مخالف یا غیر مسلم کو شک ہو تو ہمارے پاس کچھ عرصہ ٹھہرے تاکہ اس کو نشان مل جاوے۔ ورنہ وہ انعام کا مستحق ہوگا تو پھر آپ نے عبد اللہ سنوری سے کہا کہ بہت بلا یا ہے کوئی نہیں آتا۔ وائٹ بریخت پادری بٹالہ میں ہے۔ تم اس کے پاس متلاشی حق بن کر کہو کہ مرزا نے بڑا شور مچا رکھا ہے۔ آپ اس سے مقابلہ کریں اگر وہ ہار گیا تو میں بلا عذر عیسائی ہو جاؤں گا اور بہت سے لوگ اور بھی عیسائی ہو جائیں گے۔ شام کا وقت تھا۔ سردی اور بارش بھی تھی۔ حامد علی نے مجھے روکا بھی مگر اسی وقت بٹالہ کو چلا آیا۔ تقریباً گیارہ بجے کوشی پر پہنچا تو خاناماں نے مجھے ٹھہرا لیا کہ صبح ملاقات کرادوں گا۔ صبح ہوئی تو پادری اور میم دونوں سے ملاقات کر کے میں نے وہ سب لفظ کہہ دیئے جو آپ نے فرمائے تھے۔ مگر وہ انکاری

ہو گیا کہ ہم ایسے معاملہ میں نہیں آنا چاہتے تو میں مایوس ہو کر واپس قادیان آ گیا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی سے لدھیانہ میں جب مناظرہ ہوا تو تحریری مناظرہ تھا۔ حاجی نظام الدین مولوی صاحب کے پاس ہی کھانا کھاتے تھے۔ وہ ایک دفعہ آپ کے پاس آئے کہ خلاف قرآن تم نے کیوں وفات مسیح کا قول کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی قرآن سے حیات مسیح ثابت کرے تو ابھی عقیدہ بدل لوں گا۔ کہا کہ ابھی مولوی صاحب سے پچاس آیتیں لکھواتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ پچاس کی ضرورت نہیں ایک ہی لکھا لاؤ۔ پس وہ گئے اور سر جھکائے واپس آ گئے۔ کیوں؟ کہا کہ جب میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مرزا قادیانی عقیدہ بدلنے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ جلدی آیتیں لکھ دیجئے تو آپ ناراض ہو گئے کہ ارے تو ہم تو اسے احادیث کی طرف لاتے ہیں اور تم پھر قرآن کی طرف لے جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیا قرآن میں حیات مسیح کا ذکر نہیں۔ کہا کہ نہیں میں نے کہا کہ جب قرآن سے وفات ثابت ہوتی ہے تو ہم مخالف حدیثوں کو کیا کریں تو انہوں نے گالیاں دیں تو حاجی صاحب نے آپ سے بیعت کر لی۔ کہتے ہیں کہ جب حاجی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی روٹی بند کر دو۔ تو مذاق کے طور پر حاجی نے دست بستہ ہو کر کہا کہ نہیں نہیں میں قرآن چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ میری روٹی بند نہ کریں۔ تو مولوی صاحب شرمندہ ہو گئے۔

مولوی محمد حسین نے مخالفت سے پہلے براہین ہر چہار حصہ پر ایک مبسوط تقریظ لکھی تھی۔ جس کا اقتباس درج ذیل ہے کہ: ”اس زمانہ میں بلحاظ حالات حاضرہ کے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی نظیر آج تک پیدا نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ اس کا مؤلف بھی اسلام کی مابی، جانی، فلمی، لسانی، حالی اور قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے کہ جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں نہیں ملتی۔ کوئی مبالغہ سمجھے تو ایسی کوئی کتاب بتاؤ کہ جس میں آریہ و برہمن سماج سے مقابلہ پایا جاتا ہو اور اسلام کی نصرت کا بیڑا اٹھالیا ہو اور تمدنی کی ہو کہ جس کو الہام میں شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر مشاہدہ کر لے۔ مؤلف ہمارے ہموطن ہیں۔ بلکہ اوائل عمر میں (جب شرح ملا اور قطبی) پڑھتے تھے۔ ہمارے ہم مکتب بھی تھے اور اب تک خط و کتابت بھی جاری ہے۔ اس نے مسلمانوں کی عزت رکھ لی ہے یا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کتاب کی محبت ڈال اور اس گنہگار بندے کو بھی اس کتاب کے خاص برکات سے فیضیاب کر۔“

وللارض من کاس الکرام نصیب  
(دیکھو اشاعت السنہ جلد ششم) فتح اسلام میں وفات مسیح اور مثیل مسیح کا تذکرہ سرسری طور

پر کیا تھا نہ اس میں تحدی تھی اور نہ دلائل تھے۔ مگر اس کے بعد تو صبح مرام میں کچھ ان دونوں مسئلوں پر روشنی ڈالی گئی۔ تاہم ایسی نہیں کہ انقلاب نما ہو لیکن اس کے بعد جب ازالۃ الادہام شائع ہوا تو ان دونوں نے انقلابی رنگ اختیار کر لیا تھا اور جس قدر درمیانی اشتہارات نکلتے رہے ان میں بھی ایسی صراحت نہ تھی۔ جمل قدر کہ ازالہ میں ہے۔ بہر حال جب یہ اعلان ہوا تو شور مچ گیا اور آپ لدھیانہ، دہلی اور لاہور میں پرزور مباحثات کرنے پڑے اور جب ثابت ہوا کہ آپ مخالفین کے رعب میں آنے والے نہیں ہیں تو محمد حسین نے استفتاء تیار کیا اور میاں نذیر حسین دہلوی سے جواب لکھوا کر دو سو مولویوں کے دستخط کرائے اور ۱۸۹۲ء میں شائع کیا تو وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ صبح موعود پر تکفیری فتویٰ لگے گا۔

جناب مولوی میر حسن نے مرزا قادیانی کے مزید حالات بھی اپنے ایک خط میں لکھے ہیں۔ جو صا جزا وہ کو کچھ عرصہ ہوا آپ نے بھیجا تھا کہ مرزا قادیانی سیالکوٹ محلہ شمیریان میں کرایہ کا مکان لے کر مقیم ہوئے تھے۔ مالک مکان کا نام عمرا جولا تھا۔ جو میرا قریبی ہمسایہ ہی تھا۔ آپ فراغت کے وقت تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ حاجت مند حسب دستور آتے تو فضل الدین برادر کلاں عمرا جولا کو بلا کر کہتے کہ ان کو سمجھا دو یہاں نہ آیا کریں۔ جتنا کام میرے متعلق ہوتا ہے کچھری میں ہی کر آتا ہوں تو فضل الدین چونکہ اپنے محلہ میں مقرر تھا۔ اس لئے ان کو نکال دیتا تھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی بھی اسی محلہ میں رہتے تھے۔ پھر جامع مسجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی حکیم وثیقہ نویس کے ہمراہ رہنے لگے۔ بیٹھک کے قریب فضل الدین دکاندار رات کو دکان کھولے رکھتے تھے اور لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے تو کبھی وہاں پر نصر اللہ عیسائی ہیڈ ماسٹر مشن سکول اور مرزا قادیانی کا مباحثہ بھی ہو جاتا تھا۔ مولوی محبوب عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست مجیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔

بیعت کا تذکرہ ہوتا تو مرزا قادیانی کہتے کہ انسان کو خود کو شش کرنا چاہئے۔ کیونکہ ”والذین جاہدوا“ وارد ہے تو صوفی صاحب کشیدہ خاطر ہو جاتے تھے کہ بیعت کے بغیر راہ نہیں ملتی۔ پھر آپ نے ایک سکہ سے دوڑ کرنے میں سبقت حاصل کی تھی۔ (دیکھو سوانح شباب) حکیم نور الدین صاحب کا ایک بھتیجا مسی عبدالرحمان بد معاش بھنگڑ قادیان کچھ مانگے آیا تو آپ کو کچھ شبہ پیدا ہو گیا۔ اس لئے حکیم صاحب سے کہلا بھیجا کہ نکال دو۔ حکیم صاحب نے روپے پیش کئے تو اس نے زیادہ مانگے اور حکیم صاحب کے پاس اتنے ہی روپے تھے۔ اسی کشکش میں کچھ دیر ہو گئی تو آپ نے پھر کہلا بھیجا کہ آپ اسے رخصت کر دیں یا خود بھی چلے جائیں۔ تو قرضہ لے کر

آپ نے اسے رخصت کر دیا۔ ایک غیر احمدی مالدار، راولپنڈی کا رہنے والا حکیم صاحب کو اپنے گھر معالجہ کے لئے لینے آیا اور حکیم صاحب کو لے جانے کے لئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ گواگر میں حکیم صاحب سے کہوں کہ پانی یا آگ میں کود پڑو اور ان کو کوئی عذر نہ ہوگا۔ مگر ہمیں بھی تو حکیم صاحب کے آرام کا خیال ہونا چاہئے۔ ان کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیسے جاسکتے ہیں۔ حکیم صاحب نے سنا تو بہت خوش ہوئے کہ ہمارے متعلق آپ کا ایسا خیال ہے۔ ایک دفعہ لیکچر دے رہے تھے تو ایک سکھ مسجد میں آ کر گالیاں دینے لگا۔ لوگ کڑھتے تھے۔ مگر آپ نے کہا جب خاموش ہو جاوے۔ دو آدمی پکڑ کر باہر لے جاؤ۔ مزاحمت کرے تو حاکم علی سپاہی کے سپرد کر دو۔ جو حکومت کی طرف سے یہاں مقرر ہے۔

مرزا نظام الدین مرزا سلطان احمد کا وکیل تھا۔ باغ کی تقسیم کے لئے قرعہ تجویز ہوا تھا۔ آپ گھر سے نکلتے تو وہ گلی میں کھڑا تھا۔ آپ نے دولفانے پیش کئے۔ اس نے ایک اٹھالیا۔ جس میں شمالی حصہ تھا۔ اس تقسیم کے بعد آپ کی ضرورت درپیش آئی تو اہلیہ ثانی کا زیور لے کر باغ کا اپنا حصہ اس کے پاس رہن رکھ دیا۔ جس کی میعاد تین سال رکھی۔ عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی ظلی نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یوں کہا کہ ایک بادشاہ نے ایک مستری سے دیوار بنوائی۔ جس پر اس نے اعلیٰ قسم کی گلکاری کرنے میں سارا زور خرچ کر ڈالا۔ اس کے مقابل پر دوسرے مستری سے کہا کہ تم بھی ایسی دیوار بناؤ اور اس پر کمال جانفشانی سے اپنے نقش و نگار کا انتہائی نمونہ پیش کرو اور دونوں کے درمیان پردہ لٹکوادیا تاکہ ایک دوسرے کے کام پر اطلاع نہ پاسکیں اور جب دونوں دیواریں مکمل ہو چکیں تو بادشاہ اور لوگ دیکھنے آئے اور درمیان سے پردہ اٹھا دیا کہ اچھی طرح موازنہ ہو سکے۔ مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو نقش ایک دیوار پر ہیں۔ بعینہ وہی نقش دوسری دیوار پر بھی ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے مستری نے تیل بوئے دکھانے میں کمال کیا تھا تو دوسرے نے دوسری دیوار کو اس قدر مصفا اور شفاف کر دیا تھا کہ پہلی دیوار کے تمام نقوش اس پر ظاہر ہونے لگے تھے۔ آپ کا مکان احباب کا گھر تھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی حصہ زیریں میں رہتے تھے۔ محمد علی صاحب بھی آپ کے مکان کے مختلف حصوں میں رہتے تھے۔ نواب محمد علی صاحب جب آئے تو وہ بھی ایک حصہ میں رہتے تھے۔ پھر اپنا مکان بنالیا تو وہاں چلے گئے۔ مفتی محمد صادق کو بھی پہلے پہل وہیں جگہ ملی تھی۔ مولوی محمد احسن صاحب بھی کئی بار آپ کے مکان پر ہی ٹھہرے تھے اور ڈاکٹر سید عبدالستار صاحب بھی جب المل و عیال سمیت آتے تو وہ بھی وہیں ٹھہرتے۔ ایک دفعہ آل محمد نے آ کر دستک دی اور کہا بڑی فتح کی خبر لایا ہوں۔ جناب

کے پاس مفتی محمد صادق تھے۔ آپ نے ان کو دریافت کے لئے بھیج دیا۔ مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ ایک مقام پر مولوی محمد احسن صاحب ایک مولوی سے جھگڑے تو اس کو خوب رگیدا۔ آپ نے جناب سے یہی لفظ کہہ دیئے تو آپ نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا مرزا محمود کو اپنا جانشین مقرر کریں تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی اور یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت میں تین قسم کے آدمی ہیں۔

اول ..... وہ کہ جن کو دنیوی شان و شوکت کا خیال ہے۔

دوم ..... وہ جو کسی بڑے آدمی مثلاً حکیم نور الدین صاحب وغیرہ کے زیر اثر ہیں۔

سوم ..... وہ جو خاص مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میری خوشی کو مقدم سمجھتے ہیں۔

بیعت اولیٰ لدھیانہ میں چالیس آدمیوں نے کی، کہ آپ مجدد ہیں۔ سب سے پہلے حکیم نور الدین صاحب نے بیعت کی۔ پھر حامد علی نے پھر عبداللہ سنوری نے۔ پھر باقی لوگوں نے۔ قادیان واپس آئے تو اہلیہ اور دوسری عورتوں نے بھی بیعت کر لی اور جب دعویٰ مسیحیت کیا تو آپ نے کہا کہ اب بہت شورا ٹھے گا۔ تو جب آپ نے لدھیانہ جا کر یہ اعلان کیا تو بہت شورا اٹھا اور کچھ مرید مرتد بھی ہو گئے۔ آپ کے سسرال لدھیانہ میں مقیم تھے تو جناب نے وہاں مسیحیت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت ڈاکٹر اسماعیل، مرزا محمود کے حقیقی ماموں تیسری جماعت میں پڑھتے تھے تو ان سے ہم جماعت لڑکوں نے کہا کہ مسیح تو زندہ ہیں۔ مگر آپ کے گھر جو مرزا قادیانی آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح مر گئے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب متعجب ہو کر گھر آئے تو آپ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فتح اسلام کی ایک جلد الماری سے نکال کر ان کو دے دی تاکہ خود نشانی کر لیں۔ مرزا امام الدین نے اپنے مکان میں کھڑے ہو کر کسی سے کہا کہ لوگ (مرزا قادیانی) دکانیں کھول کر نفع اٹھا رہے ہیں۔ ہم بھی کوئی دکان بنائیں تو خا کرو یوں کا پیر بن بیٹھا۔ قاضی امیر حسین نے کہا کہ ایک دفعہ خواجہ کمال الدین سے میرا جھگڑا ہو گیا تو خواجہ صاحب نے مجھ سے کہا۔ دیکھئے مرزا قادیانی میری کتنی عزت کرتے ہیں تو اس کے جواب میں، میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے چائے تیار کروادی۔ مگر خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں منافق تو نہیں سمجھا گیا کہ اتنی عزت ہو رہی ہے۔ (مطلب یہ تھا کہ مرزا قادیانی منافقوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اس لئے خواجہ کمال الدین کو مغرور نہ ہونا چاہئے کہ مرزا قادیانی نے آپ کی عزت کی تھی) فضل احمد کی والدہ صاحبہ سے آپ کو بے دینی کی وجہ سے نفرت تھی۔ اسے ”بھجے دی ماں“ کے لقب سے پکارتے تھے۔ دوسری شادی ہوئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ یا طلاق لے لو یا حقوق بخش کر خرچ لیتی رہو۔ تو اس نے خرچ لینا منظور کر لیا۔

محمدی بیگم کے جھگڑے میں وہ مخالفین سے مل گئی۔ تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔ (دیکھو اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین مجریہ ۲ مئی ۱۸۹۳ء) اس کے بعد ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی تو آپ نے دوسری اہلیہ سے کہا کہ دو گولیاں دے آؤ۔ مگر میرا نام نہ لینا۔ مارچ ۱۸۸۲ء کو آپ اصلاح حق کے لئے مامور ہوئے۔ (براہین ج ۳ ص ۲۳۸، خزائن ج ۱ ص ۲۶۴) مگر احتیاطاً توقف کر کے دسمبر ۱۸۸۸ء کو بیعت کا اعلان کیا اور شروع ۱۸۸۹ء کو بیعت یعنی شروع کر دی کہ میں مجدد ہوں اور مسیح ناصری کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں۔ ۱۸۹۱ء میں اعلان کیا کہ مسیح مر گیا ہے اور مسیح موعود میں ہوں۔ بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے متعلق نبی اور رسول کا لفظ صراحتاً استعمال کرنا شروع کر دیا اور مثیل کرشن ہونے کا دعویٰ ۱۹۰۴ء میں کیا۔ ”انتہی مافی سیرۃ المہدی حصہ اول“ آپ نے جو دعاوی کئے ہیں۔ ان کی فہرست مختصر طور پر ترتیب منہ عیسوی و نمبر دعویٰ یوں ہے۔

۱..... ”یہ عاجز مولف براہین احمدیہ خدا کی طرف سے مامور ہوا ہے تاکہ مسیح کی طرز پر کمال تواضع سے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے۔“

(مندرجہ براہین ص ۳۹۱، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳، ۱۸۸۲ء)

۲..... ”آپ نے کہا کہ وہ کون آیا۔ جس نے اس چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا۔ جیسا کہ اس عاجز نے کیا ہے۔“ (ازالہ ص ۱۵۴، خزائن ج ۳ ص ۱۷۹، ستمبر ۱۸۹۱ء)

۳..... ”اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔ گو اس کے لئے نبوت تامہ نہیں۔ مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔“

(توضیح المرام ص ۱۸، خزائن ج ۳ ص ۶۰، ازالہ ص ۷۴، ۲۲ جنوری ۱۸۹۱ء)

۴..... ”۱۸۹۱ء میں کہا کہ واضح ہو کہ جو پیشین گوئی ابوداؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام ماوراء النہر یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا۔ جو آل رسول کو تقویت دے گا اور جس کی امداد ہر مومن پر واجب ہوگی۔ الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیشین گوئی اور مسیح کے آنے کی پیشین گوئی (جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا) دراصل دونوں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصداق بھی عاجز ہے۔“ (ازالہ ص ۷۹، خزائن ج ۳ ص ۱۴۱، ستمبر ۱۸۹۱ء)

۵..... ”یک مشت تیرہ دعوے کر دیئے کہ میں آدم ہوں اور شیث، نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ اور آنحضرت ﷺ کا مظہر اتم ہوں۔ یعنی ظلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔“ (حقیقت الوحی ص ۷۳، حاشیہ، خزائن ج ۲ ص ۷۶)

.....۶ ”پہلے میرا نام خدا نے مریم رکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔“

(ازالہ ص ۲۱۸، ۱۷۳، براہین احمدیہ ص ۴۹۶، کشتی نوح ص ۴۷، حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۵)  
 ”تعریف اس خدا کی کہ جس نے تجھے (مجھے) مسیح ابن مریم بنایا۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۷۲، اربعین نمبر ص ۳۲، خزائن ج ۱ ص ۴۲۲)  
 .....۷ ”خدا میں جذب ہو کر یہ منظر دکھایا کہ یقیناً وہ خدا ہی ہیں۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳، خزائن ج ۵ ص ۵ ایضاً کتاب البریہ ص ۸۵، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳)  
 .....۸ ”پہلے اشتہار معیار الاخبار ۱۷ مارچ ۱۸۹۳ء میں اپنا مہدی ہونا شائع کیا۔ پھر (ریویو نومبر ۱۹۰۳ء ص ۴۰۷) وغیرہ میں بھی اس کو بار بار دہرایا۔“

.....۹ ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دفع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)  
 ”اس کے بعد (ایک غلطی کا ازالہ ص ۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶) یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کی وحی جو

مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے رسول، مرسل اور نبی ایک دفعہ نہیں صد ہا دفعہ موجود ہیں۔“  
 .....۱۰ ”خدا کی ۲۳ برس کی متواتر وحی کو کیسے رد کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اس

پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۰) میں بھی اس کو دہرایا ہے۔ انسان جب تک آپ کو مسیح موعود نہیں مانتا۔ قابل مواخذہ ہے اور اس کی نجات نہیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۷۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۳)

.....۱۱ ”اور لکھا ہے کہ اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے مدارجات ٹھہرایا۔“

(اربعین نمبر ص ۶، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۴۳۵ حاشیہ)  
 اس کو یوں پختہ کیا ہے کہ: ”کفر و عدم کا ہے۔ اول آنحضرت ﷺ کو رسول نہ ماننا۔ دوم

مسیح موعود کو نہ ماننا کہ جس کی تصدیق کے لئے خدا اور رسول نے حکم دیا ہے۔ بلکہ پہلے نبیوں نے بھی تصدیق کی۔ تاکید کی ہے اور درحقیقت ان لوگوں کو کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)



۱۲..... ”۱۸۹۱ء میں شروع کر کے ۱۸۹۷ء میں کہا کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام سے افضل اور زیادہ مقدس ہیں۔ چنانچہ ازالہ ۳ ستمبر ۱۸۹۱ء اور انجام آٹھم ۱۸۹۷ء میں یوں لکھا ہے کہ آپ کی تین دادیاں اور نانیاں زنا کار عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے مسیح کا وجود ہوا۔“

(ضمیمہ انجام ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

”اسی نادان اسرائیلی نبی نے ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی نام کیوں رکھا۔“

(ضمیمہ انجام ص ۴، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۸)

”یہ بھی یاد رہے کہ مسیح کو جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔“

(ضمیمہ آٹھم ص ۵، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ بخدا اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا اور جو نشان مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۲۸، ۱۵۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲)

ناظرین! یہ تحریر اس شبہ کو بالکل کا فور کر دیتی ہے کہ مرزا قادیانی، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین صرف الزامی طور پر کرتے تھے اور جس جگہ مرزا قادیانی نے یہ بہانہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گو مسیح علیہ السلام مقدس ہستی تھے۔ مگر مجھ سے کم تھے۔

۱۳..... کتاب البریہ ۱۸۹۸ء میں یوں لکھا ہے کہ: ”آواہن خدا تیرے

(مرزا قادیانی کے) اندر اتر آیا۔“ (کتاب البریہ ص ۸۴، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۲)

اور اس سے پہلے آئینہ کمالات کا الہام ۱۸۹۳ء میں گذر چکا ہے کہ خدا کے اندر خود آپ مرزا قادیانی اتر کر جذب ہو گئے تھے۔ اس لئے یہ الہام بالکل درست ہو گیا کہ: ”انا منک وانث منی“ اور یہ ایسا الہام ہے کہ افضل المرسلین ﷺ کی بھی نصیب نہیں ہوا۔

(حقیقت الوحی ص ۷۴، خزائن ج ۲۲ ص ۷۷)

۱۴..... خدا نے الہام کیا ہے کہ: ”میں لوگوں کے لئے تجھے امام بناؤں گا اور تو ان

کا رہبر ہوگا۔“ (کتاب البریہ ص ۸۴، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۲، حقیقت الوحی ص ۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۸۲)

۱۵..... ”خدا فرماتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو

یعنی تجھے پیدا کیا۔“ (کتاب البریہ ص ۷۶، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۲)

- .....۱۶ ”دانیال نبی نے میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی زبان میں لفظی معنی  
میکائیل کے ہیں۔ خدا کی مانند۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۲۵، خزائن ج ۱ ص ۴۱۳)
- .....۱۷ ”انت منی بمنزلہ اولادی“ خدا نے کہا کہ تو میری اولاد کی بجائے  
ہے۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۴۵۲)
- .....۱۸ ”یکے پائے من پوشید و من گفتم کہ حجر اسود منم۔“  
(اربعین نمبر ۳ ص ۱۵۰، خزائن ج ۱ ص ۴۲۵ حاشیہ)
- .....۱۹ ”الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا گیا ہے۔“  
(اربعین نمبر ۳ ص ۱۵، خزائن ج ۱ ص ۴۲۵ حاشیہ)
- .....۲۰ ”خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ (فحشی الہی بخش وغیرہ) خون حیض تجھ میں  
دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ناپاکی اور خباثت کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو  
مجھ پر ہیں دکھلاوے اور خون حیض سے تجھے کیونکر مشابہت ہو اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ پاک  
تغییرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا  
ہوا۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۴۵۲ حاشیہ)
- .....۲۱ ”واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ“ اسی طرف اشارہ کرتی ہے  
کہ امت محمدیہ میں جب بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور اس  
زمانہ میں وہ فرقہ نجات پائے گا جو اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۳۲، خزائن ج ۱ ص ۴۲۱)
- .....۲۲ ”خدا نے مجھے کہا ہے کہ: یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة“  
(اربعین نمبر ۳ ص ۲۳، خزائن ج ۱ ص ۴۱۱)
- .....۲۳ ”خدا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ: ”والذی ارسل رسوله بالهدی“ کا  
مصدق تو ہی ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۱۷، خزائن ج ۱ ص ۱۱۳)
- ”اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کرنے سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ (نہ ہر ایک مفتری)  
تو (اڈا) یہ دعویٰ ہی بے دلیل ہے۔ کیونکہ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔  
(ثانیاً) یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنے وحی کے ذریعے چند امر و نہی بیان کئے۔  
وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخاطب ملزم ہیں۔ کیونکہ میری  
وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم“ وغیرہ۔ دوسرے  
الہامات براہین میں درج ہیں اور ۲۳ سال کا عرصہ بھی گذر چکا ہے اور اب تک میری وحی میں امر

بھی ہے نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید بھی۔“ (اربعین نمبر ۳۲ ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۳۳۵)

”اور میرے اس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی سے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔“

(تحفہ گولڑیہ ص ۱۰، خزائن ج ۷ ص ۵۱ حاشیہ)

۲۳..... ”اے رو دھر گوپال تیری مہا گیتا میں بھی ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ) آریہ

جس کرشن کے منتظر ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں۔“ (حقیقت الوحی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۱)

۲۵..... ”مجھے خدا نے کہا ہے کہ: انت سلمان و منی یا ذ البرکات“

(ریویو اپریل ۱۹۰۶ء)

۲۶..... ”(براہین حصہ پنجم ص ۹۰، تترہ حقیقت الوحی ص ۸۵) کی اشاعت میں یوں کہا ہے

کہ میں یحییٰ بھی ہوں۔“ او کما قال!

۲۷..... ”خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے

زمانہ میں وہ نشانات دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۳۷، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۵)

”سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے

نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ اور یقینی طور پر ملنا محال ہے اور

خدا نے اپنی حجت پوری کر دی ہے۔“ (تترہ حقیقت الوحی ص ۱۳۶، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۴)

لہ خسف القمر المنیر وان لہ

غسا القمر ان المشرق ان اتنکر

(اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

۲۸..... ”محمد ﷺ کے واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں جذب ہو کر اور اس کا نام محمد

واحمد سے سہمی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۷، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۱)

۲۹..... ”بارہا بتلا چکا ہوں کہ بموجب ”لما یلحقوا بھم“ بروزی طور پر وہی

خاتم الانبیاء ہوں۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۲)

۳۰..... ”خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا

وہ تو ہی ہے۔ آریوں کا (آسمانی) بادشاہ۔“ (تترہ حقیقت الوحی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۲)

۳۱..... ”اپنا حاملہ ہونا بیان کیا۔“

(کشتی نوح ص ۵۰، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰، براہین ج ۵ ص ۸۳، خزائن ج ۲۱ ص ۱۱۰)

۳۲..... ”اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں۔ اس سے

بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطاء کی گئی۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۵)

۳۳..... ”تمہ حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ: ”بخدا اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے

میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے ہیں۔ جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

(تمہ حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

۳۴..... ”ہم خدا کے فضل سے نبی اور رسول ہیں۔“ (اخبار عام لاہور)

(قادیانی جنتری ص ۱۹۲، ۱۹۹) میں مرزا قادیانی کی طرف سے یوسف نے نظم شائع کی

جس کا اقتباس درج ذیل ہے۔

کان دھر کرتم سنو ہم عیسیٰ معبود ہیں  
مظہر زرتشت موسیٰ کرشن اور داؤد ہیں  
ہم مثال یوسف و یعقوب صالح و ہود ہیں  
ہم ہیں تصویر محمد حامد و محمود ہیں  
جو نہ مانیں گے ہمیں وہ کافر و مردود ہیں  
وہ ہیں ہم، حکم خدا سے وقت پر موجود ہیں  
اسود و احمر ہمارے سب کے سب مقصود ہیں  
وہ ہمارے قبیح ہیں وہ ہمیں مودود ہیں  
ہو کے آدم سب ملائک کے بنے مجود ہیں  
جو یہاں سے پھر گئے وہ اس کے ہاں مطرود ہیں  
اب ہمارے اتباع میں تابند محدود ہیں  
جن امور سر و خفی کی وہ اب مشہود ہیں  
بعد ان کے جانشین فضل عمر محمود ہیں  
بعض ان اصحاب نے جو ساکن اخدود ہیں  
صفحہ ہستی سے ان کے نقش اب مفقود ہیں

اے امیر المکرر ہیں ہم احمد موعود ہیں  
ہم بروز آدم و نوح و خلیل اللہ ہیں  
ہو شیلی لوط و اسحاق اور اسماعیل ہیں  
ہم ہیں عکس ایلیا حزقیل اور ہیں دانیال  
ہم نبی اللہ ہیں اور مظہر جملہ رسل  
سب نبی دیتے رہے ہیں جن کے آنے کی خبر  
ہم سنانے آئے ہیں پیغام ہر ایک قوم کو  
جو ہمیں مانیں مسیح اور اپنے جھگڑوں میں حکم  
ہم جو آئے پھر ہوا تجدید حکم اسجدوا  
جو ہمارے در پہ آئے ہو گئے مقبول حق  
انبیاء ہوویں ہمارے بعد یا ہوں اولیاء  
ہم نے اپنی زندگی میں وحی حق سے دی خبر  
جانشین اول تو اپنے ہو چکے ہیں نور دیں  
مومنوں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور  
جو مخالف تھے بڑے سب مٹ گئے ان کے نشان

سعدی و ڈوئی پکٹ جمونی آتھم ہیں کہاں خاک میں سب مل گئے اور ناک خاک آلود ہیں  
 فتنہ گرا عداۂ جواب ہیں ان کو بھی تم دیکھنا چند سالوں میں جہاں سے ہوتے یہ نابود ہیں  
 یہ درد جو نظم میں مظلوم یوسف نے کئے یہ ہماری وحی اور تحریر میں موجود ہیں

## عہد و وفات

آپ کو وفات کے قریب وفات کے متعلق کثرت سے الہامات منذرہ اور خواب آئے۔ لاہور گئے تو اور بھی کثرت ہوئی۔ اہلیہ نے کہا کہ واپس قادیان چلیں۔ کہا کہ خدا لے جائے گا۔ تب ہی چلیں گے۔ مگر اس وقت بھی آپ رسالہ پیغام نسلح کی تالیف میں مصروف رہے اور تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ چنانچہ ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء بعد از عصر خواجہ کمال الدین کے مکان پر ایک پر جوش تقریر کی۔ کیونکہ ابراہیم سیالکوٹی کی طرف سے مباحثہ کا چیلنج آیا تھا اور شرائط مناظرہ کے لئے مولوی محمد احسن صاحب کو مقرر کیا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اثنائے تقریر میں کہا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنا کام ختم کر چکے ہیں۔ آپ کی وفات پر پانیرالہ آباد نے یوں لکھا کہ اگر کوئی اسرائیلی آسمان سے اتر کر تبلیغ کرے تو غلام احمد قادیانی سے ہی مشابہت رکھے گا۔ ہم کوئی عالمانہ رائے قائم نہیں کر سکتے۔ مگر اسے اپنی صداقت کا پورا یقین تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ بشپ ویلڈن کو چیلنج دیا کہ نشان نمائی میں متبادلہ کرے اور یہ چیلنج ایسا ہی تھا جو الیاس نبی نے بعل کے پر و ہتوں کو دیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے رنگ میں دنیا کے اندر ایک حرکت پیدا کر دی ہے وہ اپنی طبیعت میں مرزا قادیانی سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر انسٹ ریٹن جو فرانس کا مشہور منصف ہے۔ آپ کے زمانہ میں ہوتا تو ضرور آپ سے ملتا۔

بہر حال قادیان کا نبی ایسے لوگوں میں سے تھا جو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ ٹائمز آف لندن نے لکھا کہ آپ ذی وقار جذبہ رکھنے والے خوب ذہین تھے۔ آپ کے قابعین بڑے لوگ بھی ہیں۔ آپ دھوکہ خوردہ تھے۔ دھوکہ دینے والے ہرگز نہ تھے۔ علی گڑھ اسٹینڈیٹ نے لکھا کہ آپ اسلام کے پہلوان تھے۔ دی یونینٹ کلکتہ نے لکھا ہے کہ آپ بہت دلچسپ تھے۔ ایمان کے زور سے بیس ہزار قریب پیدا کر لئے تھے۔ صادق الاخبار ریواڑی نے لکھا کہ آپ نے خدمت اسلام میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں رکھا۔ انصاف متقاضی ہے کہ ایسے اولوالعزم فاضل اجل حامی اسلام کی ناگہانی اور بے وقت موت پر افسوس کیا جاوے۔ تہذیب نسواں لاہور نے لکھا کہ آپ برگزیدہ بزرگ تھے۔ ہم انہیں مذہباً مسیح تو نہیں مانتے۔ لیکن ان کی رہنمائی مردہ روحوں کے لئے واقعی مسیحائی تھی۔ آریہ پتر کا لاہور نے لکھا کہ جو کچھ آپ نے اسلام کی ترقی کے لئے کیا۔ مسلمان ہی

اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مگر ان کی تصانیف میں پایا جاتا ہے کہ آپ کے خیالات بڑے وسیع تھے اور زیادہ قابل برداشت تھے۔ آریہ سماج سے آپ کے تعلقات دوستانہ نہ تھے۔ اس لئے جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں تو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ اندر نے لکھا کہ مرزا قادیانی ایک صفت (استقلال) میں محمد صاحب (علیہ السلام) سے مشابہ تھے اور آخر دم تک اس پر قائم رہے۔ برہم چارک نے لکھا کہ آپ بلحاظ لیاقت و شرافت کے بڑے پایہ کے انسان تھے۔ امرتا بازار پتر کا کلکتہ سے لکھا ہے کہ آپ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور سینکڑوں آدمی روز مہمان کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے۔ سینٹس مین کلکتہ سے لکھا ہے کہ آپ مشہور اسامی بزرگ تھے۔ اخبار وکیل امرتسر نے لکھا کہ اس شخص کا قلم پر سحر تھا۔ زبان جادو، دماغی عجائبات کا مجسمہ، نظر فتنہ اور آواز حشر تھی۔ وہ شخص جو تیس برس تک مذہبی دنیا کے لئے زلزلہ اور طوفان رہا اور شور قیامت ہو کر خفتگان ہستی کو بیدار کیا۔ خالی ہاتھ دنیا سے اٹھ گیا۔

ایسے شخص دنیا میں ہمیشہ نہیں آتے کہ جن سے مذہبی دنیا میں انقلاب پیدا ہو۔ آپ کی مفارقت سے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان سے ایک بڑا شخص جدا ہو گیا ہے۔ جس سے مخالفین اسلام سے مدافعت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ عیسائیوں اور آریوں کے مقابلہ پر آپ کا لٹریچر قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ نے قلمی مجاہدوں کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر فرض مدافعت ادا کر دیا تھا۔ کثرت مشق و مباحثہ نے آپ میں ایک شان پیدا کر دی تھی۔ تبلیغ و تلقین یہاں تک تھی کہ مخاطب برجستہ جواب سن کر فکر میں پڑ جاتا تھا۔ ہندوستان مذاہب کا گھر ہے۔ آپ کا دعویٰ تھا کہ میں علم اور ثالث ہو کر آیا ہوں۔ تو بے شک باقی مذاہب پر اسلام کی فوقیت دینے میں آپ خاص قابلیت رکھتے تھے۔ امید نہیں کہ مذہبی دنیا میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہو۔ ڈاکٹر وائٹ صاحب ایم اے سیکرٹری اوف وائی ایم سی اپنی کتاب احمدیہ موومنٹ میں لکھتے ہیں کہ آپ فیاض اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور مخالفین کے سامنے جو جرأت آپ نے دکھائی تھی وہ قابل تحسین ہے۔ صرف مقناطیسی قوت جاذبہ رکھنے والا ہی ایسے لوگوں کی وفاداری حاصل کر سکتا ہے کہ جن میں سے دو نے افغانستان میں جان دے دی۔ مگر آپ کا دامن نہ چھوڑا۔ کئی احمدیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی مقناطیسی طبیعت کو ہی پیش کیا۔ آپ کی وفات لاہور میں ہوئی۔ احمدیہ بلڈنگس متصل اسلامیہ کالج میں کچھ دن آپ نے قیام کیا تھا۔

حکیم نور الدین صاحب نیچے صحن میں روزانہ تبلیغ کرتے تھے اور اوپر کے مکان میں آپ مع اہل و عیال رہتے تھے۔ پاس ہی دوسرے میدان میں مخالفین نے جلسہ گاہ قائم کر دی تھی۔

مقابلہ میں وعظ ہوتے تھے اور ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ تقریباً دو ہفتے یہی کارروائی رہی۔ آخر ایک روز فوری موت کی خبر اڑ گئی کہ آپ رخصت ہو گئے ہیں۔ وجوہات مختلف بیان کئے جاتے تھے۔ کوئی درگزرہ کا دورہ بتاتا تھا۔ کوئی بند ہیضہ کی شکایت پیش کرتا اور کوئی دل کی حرکت کا بند ہونا بتاتا تھا۔ اندر گھر کے ناگہانی واقعہ پیش آیا۔ اس لئے صحیح طور پر کوئی رائے قائم نہ ہو سکی۔ آخر الامرجب مرزا بشیر احمد نے سیرۃ المہدی لکھی تو اس نے صحیح واقعات پیش کر دیئے کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مرض الموت میں بیمار ہو گئے۔ حالت نازک ہو گئی۔ تو آپ کی اہلیہ بہت گھبرا کر کہنے لگیں یا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا وہی جو میں کہا کرتا تھا۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو آپ تندرست تھے۔ نماز عشاء کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھایا۔

مرزا بشیر احمد کہتے ہیں کہ صبح کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسہال سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے۔ معالج اور تیماردار اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو میرا دل بیٹھ گیا کہ یہ مرض الموت ہے۔ کمزور تو ہو ہی چکے تھے۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو نمدار دسب سمجھے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ پھر نبض چلنی شروع ہوئی۔ چار پائی صحن میں تھی اندر لائی گئی روشنی ہو گئی تو اپنے وقت پوچھ کر تیمم کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ تو غشی ہو گئی۔ پھر پوچھا تو نماز شروع کر دی۔ مگر کرب بہت تھا۔ آٹھ بجے کے قریب ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے تو جواب نمدار د۔ لکھنا چاہا تو قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا۔ پھر نو بجے غرغره شروع ہو گیا اور لمبے سانس آنے لگے۔ مستورات پلنگ کے پاس نیچے بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر محمد حسین نے قلب کے پاس انجیکشن دیا تو جگہ ابھر آئی۔ آخر ایک لمبا سانس آیا تو رخصت ہو گئے۔ مرزا بشیر احمد اس مقام پر اپنی والدہ کا بیان یوں درج کرتے ہیں کہ پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا۔ کچھ دیر بعد دودفعہ پاخانہ میں رفع حاجت کو گئے۔ زیادہ ضعف ہوا۔ تو مجھے اٹھا کر میری چار پائی پر لیٹ گئے۔ پھر حاجت ہوئی تو چار پائی کے پاس ہی رفع کرنی۔ میں پیرد باتی تھی کہ ایک اور دست آیا۔ (ان پانچوں دستوں کے بعد) تے آئی تو بالکل ہی ناطقت ہو کر چار پائی پر گر پڑے۔ گرتے ہوئے چوٹ بھی آئی تھی اور حالت دگرگوں ہو گئی تو حکیم نور الدین صاحب اور مرزا محمود (خلیفہ وقت) کو بلا لیا۔

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہیضہ کے عارضہ سے وفات واقع ہوئی۔ وفات سے پہلے ایک انگریز نے مولوی محمد علی صاحب سے رسالہ الوصیہ مرتب کرنے کے دنوں میں پوچھا تھا کہ جناب نے اپنے بعد جانشین کسے قرار دیا ہے تو آپ نے اہلیہ سے پوچھا کہ کیا مرزا محمود کو جانشین مقرر کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی۔ آپ نے وفات پائی تو حکیم نور الدین

صاحب سن کر اندر آئے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ واپس ہو کر دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو مولوی محمد احسن صاحب امر وہی نے کہا کہ: ”انت صدیقی“ تو حکیم صاحب نے کہا کہ قادیان چل کر فیصلہ ہوگا۔ آپ کی تین انگوٹھیاں تھیں۔ ایک پر ”الیس اللہ بکاف عبدہ“ لکھا تھا۔ جو دعویٰ نبوت سے پہلے کی تھی۔ دوم، دعویٰ کے بعد کی جس پر یہ لکھا تھا کہ: ”غرسنتک بیدی برحمتی و قدرتی“ سوم، وفات کی انگوٹھی جو آپ وفات کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ یہ کسی نے بنوادی تھی اور اس پر یہ لکھا تھا کہ: ”مولا بس“ قرعہ اندازی سے پہلی محمود صاحب کو ملی۔ دوسری بشیر صاحب کو اور تیسری شریف احمد کو۔ حکیم محمد حسین صاحب قریشی موجد مفرح غزبری اپنے رسالہ موسوم بہ ”خطوط امام بنام غلام“ کے ص ۹ پر لکھتے ہیں کہ وحی الہی کے مطابق ۲۷ اپریل ۱۹۰۸ء کو حضور قادیان سے بعزم لاہور روانہ ہوئے۔ دو روز بٹالہ ٹھہر کر ۲۷ رجب الاول ۱۳۲۶ھ کو لاہور پہنچے۔ ۲۷ روز ہی لاہور میں تشریف فرما رہے اور پھر ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو ہی مقبرہ بہشتی میں دفن ہوئے۔ غسل میرے ہاتھ سے ہوا اور دوسرے احباب پانی ڈالتے تھے۔ لاہور میں حضور کو تاریخ وفات کے رنگ میں یہ مصرعہ الہام ہوا۔

مکن تکلیہ بر عمر ناپائدار

(احمدیہ جنتری لاہور ۱۹۲۱ء ص ۳۶) میں ہے کہ ۱۹۰۵ء میں جناب نے تبلیغ سلسلہ قادیانیہ کا کام اصحاب ذیل کے سپرد کیا۔ مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ، خواجہ کمال الدین، سید محمد احسن امر وہی، صاحبزادہ بشیر الدین محمود احمد، خان صاحب محمد علی رئیس مالیر کوٹلہ، سید عبد الرحمان مدراسی، غلام رسول پشاور، میر حامد شاہ سیالکوٹی، شیخ رحمت اللہ لاہوری، مرزا یعقوب بیگ شاہ پور، خلیفہ رشید الدین آگرہ، ڈاکٹر سید محمد حسین لاہور اور ڈاکٹر محمد اسماعیل لاہور۔ چنانچہ ۲۹ جنوری ۱۹۰۶ء کو سیکرٹری نے اپنے تبلیغی اصول شائع کرنے کا کام شروع کر دیا اور جناب نے اس انجمن کو یہ چارٹر عنایت کیا کہ انجمن کے امور وہی صحیح سمجھے جائیں۔ جو کثرت رائے سے پاس ہوں۔ مگر خاص دینی اغراض جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اطلاع مجھے دینی چاہئے۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو۔ میری زندگی کے بعد صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا۔ الرام مرزا غلام احمد ۲۷ اکتوبر ۱۹۰۷ء، ضمیمہ الوصیت کی دفعہ نمبر ۶ میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔ اس لئے اسے دنیا داری کے رنگوں سے پاک رہنا چاہئے۔

۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر جملہ اراکین نے متفقہ طور پر حکیم نور الدین صاحب کو خلیفہ مسیح قرار دیا اور آپ کی وفات ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء تک متفقہ کام قادیان



میں ہوتا رہا۔ مگر آپ کی وفات پر ہی وہ انجمن دو حصے ہو گئی اور ایک فریق تو وہیں قادیان میں رہا اور دوسرے فریق نے لاہور کو صدر مقام احمدیہ بلڈنکس قرار دیا۔ جہاں مسیح کی وفات ہوئی تھی اور اپنا امیر جماعت مولوی محمد علی صاحب کو مقرر کر لیا اور ۲ مئی ۱۹۱۴ء کو احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے نام سے کام شروع ہوا اور ڈیڑھ سال (یعنی اخیر دسمبر ۱۹۱۵ء تک) کے عرصہ میں اخبار پیغام صلح جو مشترکہ سوسائٹی کی ملکیت تھا۔ اسے خرید کر قومی اخبار بنایا گیا۔ کل آمدنی اس عرصہ میں معہ شمولیت دوکنگ مشن ساڑھے باون ہزار سے اوپر ہوئی اور خرچ پونے اکاون ہزار کے قریب ہوا اور امیر صاحب نے حدیث کا درس دیا اور مولوی فضل الہی عربی پڑھاتے رہے۔ انگریزی ترجمہ قرآن مؤلفہ امیر صاحب چھپنا شروع ہوا اور جہاد اکبر اور حدوث مادہ وغیرہ رسائل مفت تقسیم کئے۔ دوکنگ مشن میں مولوی صدر الدین اور شیخ نور احمد اور خواجہ کمال الدین کام کرتے رہے۔ دوسرے سال (اکتوبر ۱۹۱۵ء لغایت ستمبر ۱۹۱۶ء) تقریباً ساڑھے چونسٹھ ہزار آمد ہوئی اور خرچ انگلستان میں پونے چونتیس ہزار ہوا۔ باقی ہندوستان میں پہنچا۔

اس سال تعلیمی طور پر کام شروع ہوا اور امیر صاحب نے النبوۃ فی الاسلام کتاب لکھی اور احمدیہ لائبریری ایڈیشن پر سلسلہ تصانیف احمدیہ کی پہلی جلد براہین احمدیہ ہر چہار جلد شائع ہوئی۔ مولوی محمد احسن امر وہی بھی لاہوری فریق میں (قادیانی فریق سے نکل کر) شامل ہو گئے اور خرچ ۳۲ ہزار کے قریب ہوا۔ تیسرے سال (اکتوبر ۱۹۱۶ء لغایت ۱۹۱۷ء) میں انگریزی ترجمہ قرآن شریف باہتمام مولوی صدر الدین چھپ کر ہندوستان پہنچا۔ مسلم ہائی سکول مع کیمبرج کلاس کے جاری ہوا۔ مئی ۱۹۱۷ء میں کوٹ موگل اور موہن پور ضلع سیالکوٹ میں قوم پکھی دارہ کی اصلاح گورنمنٹ کی طرف سے اس انجمن کے سپرد ہوئی اور حسن کارکردگی میں انعام حاصل کیا۔ آمد ۳۷ ہزار کے قریب ہوئی اور خرچ ساڑھے ۳۴ ہزار کے قریب ہوا۔ یہ رسائل بھی جاری ہوئے۔ احمدیہ مؤومنٹ چار جلد، نکات القرآن وغیرہ مؤلفہ امیر صاحب سال چہارم (اکتوبر ۱۹۱۷ء لغایت ستمبر ۱۹۱۸ء) ۵۵ ہزار کے قریب آمدنی ہوئی اور ۵۲ ہزار خرچ ہوا۔ مبلغین بھیجے اور امیر صاحب نے درس قرآن لاہور اور شملہ میں دیا اور نکات القرآن اور حقیقت مسیح شائع ہوئے۔ سال پنجم (اکتوبر ۱۹۱۸ء لغایت ستمبر ۱۹۱۹ء) ۷۳ ہزار تک آمدنی ہوئی اور ۶۷ ہزار تک خرچ ہوا۔ اسی سال اردو ترجمہ قرآنی، صحیح البخاری مترجم اور سیرت النبی ﷺ امیر صاحب نے مرتب کی۔ چنانچہ سیرت اکتوبر ۱۹۲۰ء میں شائع ہو گئی۔

## ۷..... خاص خاص حالات مسیح قادیان

یوں تو سیرت المہدی اور کتاب البریہ کے اقتباسات مطالعہ کرنے کے بعد جناب کے مزید حالات دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر تاہم جن خیالات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے ان پر بھی خامہ فرسائی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

### بیماریاں اور دوائیں

اسلاف کے بیان میں گذر چکا ہے کہ دماغی کمزوری آپ کے ورثہ میں تھی اور بچپن سے ہی آپ دائم المریض اور گوشہ نشین چلے آئے ہیں۔ شباب بھی آپ کا بیماریوں میں ہی گذرا اور شیخوخت میں تو اس قدر عوارض جمع ہو گئے تھے کہ آپ کو کتاب الوصیۃ لکھنی پڑی اور مرض الموت میں بھی آپ کو ہیضہ کا عارضہ ہوا تھا اور یہ کہنا کہ کیا کیا دوائیں استعمال کرتے تھے یا کن کن عوارض میں آپ گرفتار رہتے۔ ان کا کچھ بیان تو باب المزاج میں گذر چکا ہے اور کچھ رسالہ مسے ”بہ خطوط امام بنام غلام“ مؤلفہ حکیم محمد حسین صاحب قریشی لاہوری موجد مفرح عنبری مطبوعہ ۹ جولائی ۱۹۰۹ء سے اقتباساً درج ذیل ہے۔ جس میں حکیم صاحب نے آپ کے وہ خطوط فخریہ طور پر درج کئے ہیں۔ جو وقتاً فوقتاً آپ نے ان کے نام روانہ کئے تھے۔ ہم ان کو نمبر وار درج کرتے ہیں۔

۳..... نجی اخویم صاحب حکیم محمد حسین صاحب قریشی سلمہ اللہ تعالیٰ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چونکہ باعث بیماری کے میرے گھر مشک خالص کی ضرورت ہے اور مجھے بھی سخت ضرورت ہے اور پہلی مشک ختم ہو چکی ہے۔ پچاس روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال ہیں۔ دو تولہ مشک خالص دو شیشیوں میں ارسال کریں۔ بروز پنجشنبہ سیالکوٹ جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ آپ اشیشن پر مجھے دے دیں۔ (غلام احمد ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۰ء)

۵..... آپ پیشک مشک خالص بقیمت خرید کر کے وی پی کر دیں۔

۷..... اس دفعہ دو دواؤں کی ضرورت ہے۔ ایک کیلورانہ جو دو دفعہ پہلے بھی منگا چکا ہوں۔ شاید چار روپے قیمت پر آتی ہے۔ دوسری وائی بیوٹر جو رحم کے لئے ہے۔ اس کے لئے دو روپے کافی ہوں گے۔ بذریعہ وی پی ارسال کریں۔

۱۰..... میرا چھوٹا لڑکا مبارک ضعف ہضم میں گرفتار ہے۔ آپ پیرش فیملیکل فورڈ یعنی شربت فولادی ایک بوتل بہت جلد بھیجیں۔ قیمت دی جائے گی۔ اس کو شدت تپ میں ام الصبیان کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین سے مشورہ کر کے کوئی اور دوا بھی بھیج دیں۔ جگر کا بھی خیال رہے۔

۱۲..... میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ اس کو اشیاء خود خرید دیں۔ ایک بوتل ٹانک دائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔

۱۳..... چند روز سے سخت بیمار ہوں۔ بعض وقت جب دورہ دوران سر شدت سے ہوتا ہے تو خاتمہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ سردرد بھی ہے۔ اس لئے روغن بادام سر اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر ملنا مفید ہوتا ہے۔ بدست محمد یار پانچ روپے ارسال ہیں۔ ایک بوتل روغن بادام تازہ خرید کر کے بھیج دیں۔

۱۴..... آج مولوی یار محمد لاہور گئے۔ افسوس ضروری کام یاد نہ رہا۔ ایک تولہ مشک عمدہ خالص خوشبودار جس میں چھپھڑانہ ہو۔ درجہ اول شرطی یا اپنی ذمہ داری پر بھیج دیں اور دو ڈیبا سردرد کی نکیوں کی بھی جو بڑی ہوں بھیج دیں۔

۱۵..... آپ براہ مہربانی ایک تولہ مشک خالص جس میں ریشہ، جھلی اور صوف نہ ہو اور تازہ و خوشبودار ہو بہت جلد وی پی کریں۔ کیونکہ پہلی مشک ختم ہو چکی ہے اور باعث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔ (۲۸ اپریل ۱۹۰۴ء)

۱۸..... ایک ضروری کام بوقت ملاقات یاد نہ رہا وہ یہ ہے کہ پہلی مشک جو آپ نے لاہور سے بھیجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ جاتے ہی ایک تولہ مشک خالص جس میں چھپھڑانہ ہو اور عمدہ خوشبودار ہو وی پی کر دیں۔ قیمت جتنی ہو مضائقہ نہیں اور ساتھ ہی اس کے انگریزی دکان سے نچر لوئڈر جو ایک سرخ رنگ کا عرق ہے۔ (غالباً وہ انگوری شراب ہوتا ہے) پرسوں تک ضرور بھیج دیں۔ کیونکہ مجھے اپنی بیماری کے دورہ میں ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔

۱۹..... اشیاء مفصلہ ذیل ہمراہ لیتے آئیں۔ دوائی بیوٹراز دکان پلومر قیمتی ڈیڑھ روپیہ مشک خالص جس میں چھپھڑانہ ہو قیمتی اٹھائیس روپے پان بیگمی عمدہ قیمتی ایک روپیہ اور ایک انگریزی وضع کا پاخانہ جس کی قیمت معلوم نہیں۔ اس کی قیمت یہاں سے مل جائے گی۔ مجھے دوران سر کی بہت شدت سے مرض ہو گئی ہے۔ پیروں پر بیٹھ کر پاخانہ کرنے سے کثرت پیشاب کی بہت شکایت ہے۔ تمام رات بار بار پیشاب آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے میں نے سوڈا سیلی سلاس استعمال کیا تھا۔ فائدہ ہوا ۴ آنے کی خرید کر بھیج دیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذرے ریت کی طرح براق ہوتے ہیں۔ یہ دوائی دو تولہ بھیج دیں۔ قیمت کی کمی بیشی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ساتھ ہی اس کے آٹھ جوڑہ جراب عمدہ ولایتی فی جوڑہ قیمتی ۸ آنے جلد تروی پی کر دیں۔ کیونکہ ایک طرف دوران سر کی شکایت ہے اور دوسری طرف پاؤں کی سردی کی بھی تکلیف ہے۔ اگر کوئی

پشمینی پوسٹین کا بلی جونی اور گرم اور کشادہ ہول جائے تو اس کی قیمت سے بھی اطلاع دیں۔ جوڑہ جراب کسی رنگ کا ہو مضائقہ نہیں۔ اس قدر پاؤں کو سردی ہے کہ اٹھنا مشکل ہے۔

۲۱..... میری رائے میں مشک (مرسلہ) بہت عمدہ تھی۔ اگر چند ہفتوں میں گنجائش ہوئی تو اور منگولوں گا۔ بوقت ضرورت جس طرح بن پڑے منگوانی پڑتی ہے۔ وہ مشک تھوڑی سی موجود ہے باقی سب خرچ ہو چکی ہے۔

۲۲..... ۷ ستمبر ۱۹۰۷ء کو مبارک احمد فوت ہو گیا ہے اب برف نہ بھیجیں۔

۲۳..... میری بیماری کے لئے روغن بادام تازہ بھیج دیں۔ ان خطوط پر عموماً تاریخ رواں گئی نہیں دی گئی اور حکیم صاحب نے ص ۸ پر ایک نوٹ دیا ہے کہ: ”میں اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ حضور (مرزا قادیانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنبری کا بھی استعمال فرماتے تھے۔ چونکہ دورہ مرض کے وقت اکثر مشک و دیگر مقوی دل ادویات کی ضرورت رہتی تھی۔ جو اکثر میری معرفت جایا کرتی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ میری مفرح عنبری آپ استعمال کریں تو بہت سا خرچ بچ جائے گا۔ لہذا میں نے ایک دفعہ دوسری ادویہ کے ساتھ ایک ڈبیہ مفرح عنبری بھی بھیج دی اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ کو موافق آجائے تو ہمیشہ پیش کر دیا کروں گا۔ میری خواہش پوری ہوئی اور آپ نے ایک ہفتہ بعد میر مہدی حسین کو بھیج کر قیمت ایک اور ڈبیہ منگائی تو میں نے قیمت واپس کرتے ہوئے ایک اور ڈبیہ بھیج دی۔ اس کے بعد آپ نے لاہور کو آخری سفر کیا۔“

اور ص ۷ پر لکھا ہے کہ: ”گرم پوسٹین چالیس روپیہ میں خرید کر کے بھیج دی گئی تھی۔ جس کی نصف قیمت بیس روپے مستری محمد موسیٰ سوداگر بانیسکل نے دی تھی۔“

اور ص ۳ پر لکھتے ہیں کہ: ”آپ مجھ سے ہی مشک منگوا کر تے تھے۔ ایک دفعہ خادم امرتسر سے لے گیا تھا تو آپ نے واپس کر دی تھی۔“

اخبار الحکم ۲۸ مئی ۱۹۰۶ء میں ہے کہ مرزا قادیانی کو اسہال کی بیماری بہت دیر سے تھی۔ دماغی کام کرتے (تو بڑھ جاتی) کھانا ہضم نہ ہوتا۔ دل سخت کمزور تھا۔ نبض ساقط ہو جایا کرتی تھی۔ مشک و عنبر کے استعمال سے واپس آ جاتی تھی۔ لاہور کے آخری قیام میں بھی یہ عارضہ دو تین دفعہ پیش آیا۔ لیکن ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کی شام کو جب سارا دن پیغام صلح کا مضمون لکھنے کے بعد سیر کو تشریف لے گئے تو واپسی پر پھر یہ دورہ شروع ہو گیا اور وہی دوائی مقوی معدہ جو استعمال ہوتی تھی مجھے حکم بھیج کر تیار کرائی۔ مگر فائدہ نہ ہوا اور قریباً گیارہ بجے ایک اور دست آنے پر طبیعت از حد

کمزور ہوگئی۔ مجھے اور حکیم نور الدین کو بلایا۔ مقوی ادویات دی گئیں۔ اس خیال سے کہ دماغی کام کی وجہ سے یہ مرض ہے۔ نیند آنے سے آرام آجائے گا۔ اس لئے ہم واپس چلے گئے۔ دو تین بجے کے درمیان ایک اور بڑا دست آیا۔ نبض بالکل بند ہوگئی تو حکیم نور الدین اور خواجہ کمال الدین نے مجھے اور میرے برادر ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کو گھر سے بلوایا۔ مرزا قادیانی نے یعقوب بیگ سے پاس بلا کر کہا کہ مجھے اسہال کا دورہ سخت ہو گیا ہے۔ دوائی تجویز کریں۔ علاج شروع ہوا مگر حالت نازک تھی۔ نبض واپس نہ آئی۔ اس لئے ہم پاس ہی رہے۔ یہاں تک کہ سوادس بجے آپ رخصت ہو گئے۔ (البشری ج ۲ ص ۱۰۵) میں ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ یہ الہام پورا نہ ہوا تو لاہور یوں نے لاہور کو ہی مدینہ المسیح تصور کر لیا اور قادیانیوں نے قادیان کو ہی دارالامان یعنی مکہ بنا ڈالا۔ تاکہ یہ مفہوم پیدا ہو جائے کہ یا لاہور میں مریں گے یا قادیان میں۔ مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس جرأت سے مکہ و مدینہ، نبی و رسول، بیت المقدس، دمشق منارہ بیضاء اور باب لد وغیرہ تیار کر لئے ہیں۔ لیکن نقل نقل ہی ہے اور اصل اصل۔ دانش مند نقلی مال کے خواہاں نہیں ہوتے اور اصلی مال کو بڑے داموں پر خریدتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مسیح موعود حضور ﷺ کے روضہ نبویہ میں دفن ہوں گے۔ اس کی تاویل یوں کی کہ بروزی طور پر بہشتی مقبرہ ہی گنبد خضراء کا مقام ہے۔ اس لئے آپ روضہ نبویہ میں ہی دفن ہوئے ہیں اور یہ بھی وارد ہے کہ مسلمان مسیح پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یوں گھڑ لیا کہ صرف آپ پر نماز جنازہ حاضر یا غائب پڑھنے والے ہی اس وقت مسلمان ہوں گے۔ باقی اہل اسلام سب کافر ہوں گے۔ یہ بھی وارد ہے کہ مسیح روحا کے درمیان تلبیہ کریں گے تو اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ایک وسیع میدان یعنی قادیان میں مسیح موعود تبلیغ اسلام کی آواز کو بلند کریں گے۔ یہ بھی وارد ہے کہ مسیح نکاح کر کے اولاد پیدا کرے گا تو آپ نے نکاح حانی سے اولاد پیدا کر لی تھی۔ مگر محمدی بیگم اس پیشین گوئی کا مصداق نہ بن سکی۔ ورنہ یہ کہنے کی بھی گنجائش نہ رہتی کہ نکاح حانی دعویٰ مسیحیت سے پہلے تھا۔

تمدن ریکسانہ

پہلے عنوان میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنی دماغی بیماریوں کے لئے مشک، وائٹن اور مفرح عنبری وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جو خاص امراء و شرفاء کا حصہ ہے۔ اب ہم حکیم محمد حسین صاحب قریشی کی کتاب موسوم بہ خطوط امام بنام غلام سے چند تحریریں درج کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا باقی تمدن بھی امیرانہ تھا۔

- .....۱ ..... اخویم حکیم محمد حسین صاحب السلام علیکم! مولوی یار محمد آپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ کچھ اشیاء خریدنی ہیں۔ آپ اپنے ہمراہ اشیاء خرید دیں روپیہ مرسلہ کم نکلے تو اپنی طرف سے دے دیں میں بھیج دوں گا۔ (خط نمبر ۲ ص ۲)
- .....۲ ..... آپ کے جو میرے ذمہ تھے بھیجے گئے ہیں اور ۳۲ دانہ طلائی زیور پونجیاں تاگہ ڈالنے کے لئے بھیجتا ہوں۔ تیار کروا کر بدست حال بھیج دیں۔ (خط نمبر ۲ ص ۳)
- .....۳ ..... کل کے خط میں سہواً میں اس بستر کی رسید بھیجنا بھول گیا۔ جو آپ نے اخلاص کی راہ سے بھیجا تھا۔ سردی میں میرے لئے بہت کارآمد ہے۔ جزاکم اللہ خیر!! (خط ۶ ص ۳)
- .....۴ ..... رات کا وقت ہے۔ قیمت نہیں بھیج سکتا۔ آپ مفصلہ ذیل کپڑے ساتھ لے آویں۔ (حکیم صاحب نوٹ لکھتے ہیں کہ) یہ کپڑے مبارکہ نیگم کی تقریب نکاح پر منگوائے تھے۔ (خط ۲۳ ص ۷)
- .....۵ ..... حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بنالہ کے راستہ سے قادیان جانے کو آپ سے پنس مانگی تھی۔ کیونکہ میری بیوی حاملہ میرے ساتھ تھی تو آپ نے جواب لکھا کہ سڑک بنالہ سے لے کر قادیان تک بالکل خراب ہے۔ پنس کی سواری خطرناک ہے۔ حمل کی حالت میں گویا ہلاکت کے ہاتھ میں ڈالنا ہے۔ (خط نمبر ۱۲ ص ۵)
- .....۶ ..... ہمارا مکان جو باغ کے ایک طرف واقع ہے۔ خطرناک ہے۔ اس لئے آج خیمہ خریدنے کے لئے بدست شیخ عبدالرحیم صاحب بھیجتا ہوں۔ آپ معہ تجربہ کار احباب کے خیمہ مع قاتوں اور دوسرے سامان کے بہت جلد روانہ فرمائیں اور کسی پہنچنے والے کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی نواب صاحب نے یہ خیمہ خریدنا ہے۔ کیونکہ نوابوں سے بہت قیمت لیتے ہیں۔ خیمہ نیا ہو پاخانہ وغیرہ کا بھی انتظام ہو۔ (خط نمبر ۹ ص ۴)
- بموجب تاکید والدہ محمود آپ میری لڑکی مبارکہ کے لئے ایک قمیص ریشمی یا جالی کی جو چھ روپے سے زیادہ نہ ہو عید سے پہلے تیار کر کے بھیج دیں۔ (۱۴ فروری ۱۹۰۳ء خط نمبر ۱۱ ص ۵)
- .....۷ ..... ہمارا پہلا گھنٹہ بگڑ گیا ہے۔ اس لئے ۹ روپیہ بھیجتا ہوں۔ بخوبی امتحان کر کے ارسال فرماویں۔ بشرطیکہ نیم گھنٹہ کی آواز دینے والی کل ہرگز نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات دھوکا لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی خریدنی ہیں۔ (خط نمبر ۱۳ ص ۵)
- .....۸ ..... تمام چیزیں اور کپڑے بڑی احتیاط سے خرید دیں۔ حماموں کی قیمت معہ کرایہ مولوی محمد علی صاحب کو دے دیئے ہیں۔ (خط نمبر ۱۵ ص ۸)

احمدیہ جنٹری ۱۹۲۵ء میں ہے کہ:

..... آپ نے اپنی امت کو یوں دعاء کرنے کے لئے ارشاد کیا کہ طریق استخارہ یوں ہے کہ رات کو توبہ نصوح کر کے دو رکعت نماز نفل کی رکعت اول میں سورہ یٰسین پڑھو۔ دوسری میں اکیس دفعہ سورہ اخلاص نفل کے بعد تین سو مرتبہ درود شریف پڑھو اور تین سو مرتبہ استغفار۔ پھر دعاء کرو کہ اے قادر کریم تو پوشیدہ حالات جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور مقبول مردود مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پس ہم عاجزی سے تیری طرف التجا کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک جو سچ موعود اور مہدی و مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا حال ہے کیا صادق ہے یا کاذب مردود ہے یا مقبول؟ اپنے فضل سے یہ حال رو یا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرماتا کہ اگر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے گمراہ نہ ہوں۔ مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے تو اس کے انکار اور اس کی اہانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ ہمیں ہر ایک فتنہ سے بچا۔ کیونکہ ہر ایک وقت تجھ ہی کو ہے۔ یہ استخارہ کم از کم دو ہفتے کریں۔ بشرطیکہ دل میں بغض نہ ہو۔ ورنہ خواب میں شیطان آئے گا۔ (بدرج ۹)

۲..... صوفی احمد جان لدھیانوی ۱۳۲۲ھ کو حج کرنے گئے تو آپ نے ان کو یہ دعاء لکھ دی کہ میری طرف سے بیت اللہ شریف میں پڑھیں۔ چنانچہ صوفی صاحب نے حج اکبر کے دن بیت اللہ شریف میں یہ دعاء پڑھی اور ساتھ کی جماعت آمین کہتی رہی۔ وہ دعاء یہ ہے۔ ”اے ارحم الراحمین ایک تیرا بندہ عاجز اور ناکارہ پر خطا اور نالائق غلام احمد اور جو تیری زمین ملک ہند میں ہے۔ اس کی یہ عرض ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میرے گناہ بخش کہ تو غفور رحیم ہے اور مجھ سے وہ کام کرا جس سے تو بہت ہی راضی ہو جائے۔ مجھ میں اور میرے نفس میں مشرق و مغرب کی دوری ڈال۔ میری زندگی میری موت اور میری ہر ایک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنی ہی راہ میں کرا اور اپنی ہی محبت میں مجھے زندہ رکھ اور اپنی ہی محبت میں مجھے مار اور اپنے ہی کامل تمہین میں مجھے اٹھا۔ جس کام کے لئے تو نے مجھے مامور کیا ہے اور جس خدمت کے لئے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے۔ اس کو اپنے ہی فضل سے انجام تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے حجت اسلام مخالفین اور بے خبروں پر پوری کرا اور اس عاجز کو اور اس کے محبوبوں کو اپنے ظل حمایت میں رکھ کر دین و دنیا میں ان کا متکفل ہو اور سب کو دار الرضاء میں پہنچا اور اپنے رسول اور اس کی آل پر درود اور رحمت نازل فرما۔“

۳..... یہ دعا ہر روز رات دن سجدہ نماز میں کئی مرتبہ پڑھنی چاہئے۔ ”یا من

ہو احب کل محبوب اغفر لی وتب علی وادخلنی فی عبادک المخلصین“

(خط بنام نئی رستم علی ۱۵ فروری ۱۸۸۸ء)

۴..... بہتر ہے کہ یہ دعا نماز میں پڑھی جائے۔ کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسے جو

پڑھے گا آفت سے نجات پائے گا۔ ”رب کل شئی خادمک رب فاخفظنی

وانصرنی وارحمنی“ ہیضہ کے لئے رات اٹھ کر اس اسم اعظم کا تکرار نماز کے رکوع ووجود

وغیرہ اور دوسرے وقتوں میں کرو۔ (الحکم ج ۷)

۵..... ہر نماز کے آخری رکعت میں یہ دعا بکثرت پڑھنا کید ہے۔ ”ربنا اتنا

فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“ (دسمبر ۱۹۹۸ء)

۶..... وبائی بیماری کے لئے یہ اسم پڑھو ”یا حفیظ یا عزیز یا رفیق“

(الحکم ج ۷)

۷..... قادر اور کامل خدا جو ہمیشہ نبیوں سے ظاہر ہوتا رہا اور ظاہر ہوتا رہے گا۔ یہ

فیصلہ جلد ظاہر کر کہ پکٹ اور ڈوئی کا بھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ کیونکہ تیرے عاجز بندے اپنے

جیسے انسانوں کی پرستش میں گرفتار ہو کر تجھ سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ ان کو اس زہر سے رہائی

بخش اور اپنے وعدوں کو پورا کر۔ جو اس زمانہ کے لئے تیرے تمام نبیوں نے کئے ہیں..... اور حقیقی

نجات کے سرچشمہ سے ان کو سیراب کر..... کیونکہ نجات تیری محبت میں ہے کسی کے خون میں نہیں

ہے..... مخلوق پرستی پر بہت ساعرصہ گذر چکا ہے۔ اب ان پر تو رحم کر..... صلیب اور خون کے

خیالات سے ان کو نجات بخش۔ میری دعائیں سن اور آسمان سے نور نازل کرتا کہ وہ تجھے دیکھ

لیں..... نوح کے دنوں کی طرح ان کو ہلاک مت کر کہ آخر وہ تیرے بندے ہیں..... جب کہ تو

نے مجھے اس کام کے لئے بھیجا ہے۔ سو میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نامرادی سے مروں

اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ اپنی وحی کے ذریعہ تو نے مجھے وعدے دیئے ہیں۔ ان وعدوں کو تو

پورا کرے گا۔ ضرور کرے گا کیونکہ تو ہمارا صادق خدا ہے۔ میرا بہشت دنیا میں یہی ہے کہ تیرے

بندے مخلوق پرستی سے نجات پائیں۔ وہ مجھے عطاء کر اور ان پر ظاہر کر دے کہ وہ خدا سے بے خبر

(حکم ج ۸ ص ۴)

ہیں۔

۸..... گناہوں سے مخلصی کی دعا یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ تیری دستگیری کے سوا

(بدراج ۲ ص ۳۰)

کچھ نہیں ہو سکتا تو مجھے گناہوں سے پاک کر۔



.....۹ اے خدا اگرچہ تیری عادت ہے کہ بچوں اور امیوں کو کچھ عطاء کرتا ہے اور حکیموں اور فلاسفوں کی آنکھ پر پردہ ڈالتا ہے۔ مگر میں عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے ایک جماعت میری طرف کھینچ لائے تاکہ تیری نعمت کا قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کو متوجہ ہوں۔

.....۱۰ ۲۰ اگست ۱۸۸۵ء میں حکیم نور الدین کو بچہ کی علالت کے لئے یوں لکھا کہ رات کو دو گانہ پڑھ کر یہ دعاء کرو کہ اے میرے محسن خدا میں تیرا پر معصیت بندہ ہوں تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا تو نے ہمیشہ پردہ پوشی کی..... تو اب بھی مجھ پر پردہ پوشی کر۔

.....۱۱ فروری ۱۸۹۵ء کو نواب محمد علی کو خط لکھا کہ خدا میں تیرے احسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرے گناہ بخش دے تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اپنی محبت میرے دل میں ڈال تاکہ مجھے زندگی حاصل ہو جائے۔ میری پردہ پوشی کر اور مجھ سے ایسے عمل کرا کہ تو راضی ہو جائے۔ دنیا اور آخرت کی آفت سے بچاؤ۔

خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دعائیں احادیث کا ترجمہ ہیں اور کچھ خود ساختہ ہیں جو عیسائی طرز تعلیم سے ملتی جلتی ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آپ کی دعائیں منظور نہ ہونیں۔ ورنہ آج کوئی عیسائی نظر نہ آتا۔ حالانکہ آپ کے زمانہ میں اگر ہندوستان کے عیسائی سات لاکھ تھے تو آج اٹھائیس لاکھ تک بڑھ گئے ہیں تو پھر یہ شوخی کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قبولیت دعاء کو معیار صداقت کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزائی ضرور ہی مسلمانوں سے الگ ہو کر نماز پڑھیں۔ کیونکہ جو دعائیں مرزائی پڑھتے ہیں مسلمان نہیں پڑھتے۔ غالباً درود شریف بھی مرزائیوں کا الگ ہے۔ جس میں ”وصلی اللہ علی عبدہ المسیح الموعود“ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ خدا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو پھر ان کی امت درود کیوں نہ بھیجے۔

### مشہور واقعات متعلقہ جماعت مرزائیہ

..... مانع..... جنوری

(۱) مدرسہ تعلیم الاسلام کا اجراء قادیان میں ۱۸۹۸ء	(۱۲) میاں محمود پیدا ہوئے ۱۸۸۹ء
(۳) سعد اللہ لدھیانوی مرگیا۔ ۱۹۰۷ء	(۲۰) ریو یو اوف ریجنل زریادارت مولوی محمد علی جاری ہوا۔ ۱۹۰۲ء
(۵) مسجد کے سامنے دیوار بنائی گئی۔ ۱۹۰۰ء	(۲۷) امتہ انصیر پیدا ہوئی۔ ۱۹۰۳ء
(۱۱) رستم علی مرگیا ۱۹۰۹ء	

۲.....سلام.....فروری

(۱) تعلیم الاسلام کی ہائی کلاسیں کھلیں۔ ۱۹۰۰ء	(۲۰) الحکم شروع ہوا۔ ۱۸۹۸ء
(۱) سیکہواں ضلع گورداسپور میں تعلیم الاسلام کی شاخ کھولی گئی۔ ۱۹۰۷ء	(۲۵) عبدالمجید دہلوی فالج سے فوراً مر گیا۔ ۱۹۰۷ء
(۱۷) نواب محمد علی مبارک بیگم کا نکاح بمعاضہ مہر ۵۶ ہزار۔ ۱۹۰۸ء	

۳.....عجل.....مارچ

(۱) مسیح نے لدھیانہ میں بیعت لی۔ ۱۸۸۹ء	(۱۳) خلیفہ نور الدین کی وفات۔ ۱۹۱۳ء
(۱) تشہید الاذہان شروع ہوا۔ ۱۹۰۶ء	(۱۳) رخصتانہ مبارکہ بیگم۔ ۱۹۰۹ء
(۶) لیکھرام قتل ہوا۔ ۱۸۹۷ء	(۲۰) لاہوری پارٹی الگ ہو گئی۔ ۱۹۱۳ء
(۱۳) منارۃ المسیح اور بیت الدعاء کی بنیاد۔ ۱۹۰۳ء	(۲۲) جلسہ شوریٰ بین الجماعتیں ہوا۔ ۱۹۱۳ء
(۱۳) انجمن اشاعت اسلام کی بنیاد ۱۹۰۴ء اور بیت الدعاء کی تیاری رحمت اللہ لاہور کے خرچ سے۔ ۱۹۰۳ء	

۴.....مبارک.....اپریل

(۴) زلزلہ پنجاب میں آیا۔ ۱۹۰۵ء	(۱۳) خطبہ عربیہ الہامیہ عید النضحیٰ پر۔ ۱۹۰۰ء
(۴) چراغ الدین جمونی طاعون سے مر گیا۔ ۱۹۰۶ء	(۲۰) بشیر احمد کی ولادت ہوئی۔ ۱۸۹۳ء
(۸) منشی الہی بخش مصنف عصائے موسیٰ طاعون سے مر گیا۔ ۱۹۰۷ء	(۲۷) لاہور میں درس قرآن شروع ہوا۔ ۱۹۱۳ء

۵.....الرحیل.....مئی

(۱) فیض اللہ چک ضلع گورداسپور میں تعلیم الاسلام کی براج کھولی گئی۔ ۱۹۰۷ء	(۲۳) شریف احمد کی ولادت ہوئی۔ ۱۸۹۵ء
(۵) عبدالرحمن ولد منظور الہی پیدا ہوا۔ ۱۹۱۱ء	(۲۶) نصیر الدین ولد میاں محمود احمد تولد ہوا۔ ۱۹۰۶ء
(۱۳) صدر الدین پہلی دفعہ یورپ گئے۔ ۱۹۱۳ء	(۲۶) مرزا قادیانی کا انتقال ہوا۔ (بمقام احمدیہ بلڈنگس برمکان سید محمد حسین لاہور) ۱۹۰۸ء
(۲۳) آقہم سے امرتسر میں مباہلہ ہوا۔ ۱۹۰۳ء	(۲۸) تعلیم الاسلام کالج کا افتتاح ہوا۔ ۱۹۰۳ء
(۲۷) بوقت ۵ بجے ہشتی مقبرہ میں جنازہ دفن ہوا۔ ۱۹۰۸ء	

۲..... فوق..... جون

(۱) صدر الدین یورپ بار اول پہنچے۔ ۱۹۱۳ء	(۲۵) امتہ المحفیظ کی ولادت۔ ۱۹۰۳ء
(۲) آتھم سے مباحثہ ختم ہوا۔ ۱۸۹۳ء	(۲۷) محمد احمد ولد مولوی محمد علی ایم اے کی ولادت۔ ۱۹۲۰ء
(۱۳) مبارک احمد کی ولادت۔ ۳ صفر ۱۳۷۷ھ، ۱۸۹۹ء	(۲۸) شیخ نور احمد ایجنٹ خواجہ کمال الدین یورپ گئے۔ ۱۹۱۳ء
(۳۰) عبدالحی ولد نور الدین کی آئین ہوئی۔ ۱۹۰۵ء	

۷..... برکات..... جولائی

(۱) مولوی محمد علی نے قادیان کو ہجرت کی۔ ۱۸۹۸ء	(۲۲) مولوی محمد حسین سے لدھیانہ میں مباحثہ شروع ہوا۔ ۱۸۹۱ء
(۱) رسالہ تعلیم الاسلام صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے شائع ہوا۔ ۱۹۰۶ء	(۲۷) آتھم فیروز پور میں مر گیا۔ ۱۸۹۶ء
(۲) شیخ نور احمد ولد چوہدری فتح محمد بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے۔ ۱۹۱۳ء	(۲۹) خواجہ کمال الدین کا لیکچر مذہبی کانفرنس پیرس میں خصوصیات اسلام پر ہوا۔ ۱۹۱۳ء
(۱۰) پیغام صلح لاہور کا اجراء ہوا۔ ۱۹۱۳ء	(۳۰) مولوی محمد حسین سے مباحثہ ختم ہوا۔ ۱۸۹۱ء

۸..... تخت..... اگست

(۱) عبد الحمید جہلمی کی معرفت ڈاکٹر کلارک نے اقدام قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ ۱۸۹۷ء	(۲۰) دیوار مانع مسجد گرائی گئی۔ ۱۹۰۱ء
(۷) بشیر اول پیدا ہوا۔ ۱۶ ذیقعدہ ۱۳۰۳ھ، ۱۸۸۷ء	(۲۱) عبدالکریم کو سلطان ہوا۔ ۱۹۰۵ء
(۱۳) خواجہ کوڈو کنگ مسجد پر قبضہ ملا۔ ۱۳۳۱ھ	(۲۳) عبد الحمید والا مقدمہ خارج ہوا۔ ۱۸۹۷ء
(۱۴) حکیم حسام الدین سیالکوٹی مر گیا۔ ۱۹۱۳ء	(۳۰) مبارک احمد کا نکاح ڈاکٹر سید ستار شاہ کی لڑکی مریم بیگم سے ہوا۔ ۱۹۰۷ء

(۱) اخبار القادریان کا نمونہ بابو محمد فضل نے شائع کیا۔ ۱۹۰۲ء	(۱۵) تعلیم الاسلام کو سرکار نے منظور کر لیا۔ ۱۹۰۰ء
(۳) لاہور آپ کا لیکچر ہوا۔ ۱۹۰۳ء	(۱۶) تعلیم الاسلام میں شاخ دینیات کھولی گئی۔ ۱۹۰۰ء
(۴) خواجہ بمبئی سے یورپ کو گئے۔ ۱۹۱۲ء	(۱۶) صاحبزادہ مبارک احمد مرگیا۔ ۱۹۰۷ء
(۵) بشیر کا نکاح سرور سلطان بنت مولوی غلام حسن سب رجسٹر ایشاور سے ہوا۔ مہر ایک ہزار ۱۹۰۲ء	(۲۴) خواجہ صاحب یورپ پہنچ گئے۔ ۱۹۱۲ء

۱۰.....بشارت.....اکتوبر

(۳) محمود نے آپ کی بیعت کی۔ ۱۸۹۸ء	(۱۴) محمود کا نکاح ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کی لڑکی محمودہ بیگم سے ہوا۔ ۱۹۰۲ء
(۸) اخبار الحکم امرتسر سے شائع ہوا۔ ۱۸۹۷ء	(۲۲) آپ بمعہ عیال دہلی گئے۔ ۱۸۹۱ء
(۹) خواجہ نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی۔ ۱۹۱۳ء	(۲۳) آپ کا مباحثہ مولوی محمد بشیر سے دہلی میں شروع ہوا۔ ۱۸۹۱ء
(۱۰) خواجہ مکہ شریف کو گئے۔ ۱۹۱۳ء	(۲۹) جماعت احمدیہ کا مباحثہ مولوی ثناء اللہ سے بمقام مدظلع گورداسپور شروع ہوا۔ ۱۹۰۲ء
(۱۱) مولوی عبدالکریم کی وفات ہوئی۔ ۱۹۰۵ء	(۳۱) البدر قادیان سے جاری ہوا۔ ۱۹۰۲ء
(۳۰) خواجہ نے حج کر لیا۔ ۱۹۱۳ء	(۳۰) مد کا مباحثہ ختم ہوا۔ ۱۹۰۲ء

۱۱.....قبول.....نومبر

(۱) سیالکوٹ میں راجہ کشمیر کی سرائے میں آپ کا لیکچر ہوا۔ ۱۹۰۳ء	(۱۲) جلسۃ الوداع ۱۴ تک رہا۔ ۱۸۹۹ء
(۴) فرقہ احمدیہ مردم شماری میں لکھوانے کا حکم ہوا۔ ۱۹۰۰ء	(۱۵) عید فنڈ کی بنیاد پڑی۔ (بہ تحریک جماعت سیالکوٹی)۔ ۱۹۰۰ء
(۶) آپ کا لدھیانہ میں لیکچر ہوا۔ ۱۹۰۵ء	(۱۵) شریف احمد کا نکاح نواب محمد علی کی لڑکی زینب سے بمہر ایک ہزار ہوا۔ ۱۹۰۰ء

(۷) فضل الہی ولد منظور الہی بمقام لاہور پیدا ہوا۔ ۱۹۰۹ء	(۱۶) ہیڈ لے مسلمان ہوا۔ ۱۹۱۳ء
(۱۰) دہلی کا مناظرہ ختم ہوا۔	(۲۰) غلام فاطمہ زوجہ مولوی محمد علی پیدا ہوئی۔ ۱۹۰۶ء
(۲۱) منظور الہی کا نکاح رسول بیگم سے ہوا۔	(۲۱) بہشتی مقبرہ میں دفن ہوئی۔ ۱۹۰۸ء
بمہر دوسدر و پیہ۔ ۱۹۰۸ء	
(۲۵) رقیہ بنت مولوی محمد علی پیدا ہوئی۔ ۱۹۰۶ء	(۳۰) بشیر احمد شریف احمد مبارکہ بیگم کی آئین ہوئی۔ ۱۹۰۵ء

۱۲..... فلک..... دسمبر

(۸) رسل بابا امرتسری طاعون سے مرا۔ ۱۹۰۲ء	(۲۰) رسالہ الوصیہ شائع ہوا۔ ۱۹۰۵ء
(۱۶) لارڈ سٹینڈلے عبدالرحمن نے وفات پائی۔ ۱۹۰۲ء	(۲۵) ڈاکٹر محمد حسین نے بیعت کی۔ ۱۹۰۲ء
(۱۸) سجادہ نشین چکوڑی والا دفعۃً لا ولد مر گیا۔	(۲۶) افتتاح مقبرہ بہشتی ہوا۔ جس میں مولوی عبدالکریم کی لاش منتقل ہوئی۔ ۱۹۰۵ء
کیونکہ آتھم کے ساتھ اس کو بھی خطاب تھا۔ ۱۹۰۷ء	
(۲۷) جلسہ مذاہب اسلام لاہور میں آپ کی تقریر اٹلی رہی۔ جو مولوی عبدالکریم نے پڑھی تھی۔ ۱۸۹۶ء	(۲۷) لغایت ۲۹ سالانہ جلسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جس میں پہلے ۶ آدمی شامل ہوئے۔

سنہ مرزا سنیہ

چونکہ پنجاب میں آپ کی پہلی بیعت ۱۸۸۸ء سے کچھ تغیر و نما ہوا تھا۔ اس لئے اس کی یادگار میں اسی سال ۱۸۸۸ء سے انہوں نے بھی اپنے نئے مہینے تجویز کئے ہیں اور ہر ایک ماہ کے ضمن میں ایک ایک الہام کا مفہوم مضمّر رکھا ہے۔ گویا وہ ایک ایک الہام کی یادگار ہیں اور ۱۹۳۳ء میں آپ کا ۳۵ سنہ ہوگا۔

۱..... فلک۔ "اصنع الفلك باعيننا ووجہنا" (۱۸۵۸ء)

۲..... مانع۔ "منعه مانع من السماء" اعجاز اس کی مانند بنانے سے آسمانی روکاٹ نے روک دیا ہے۔ (۱۳ جنوری ۱۹۰۱ء)

۳..... سلام۔ (۱۰ فروری ۱۹۰۶ء)

- .....۴۔ عجل۔ ”عجل جسد لہ خوار“ لیکھ رام بچھڑے کی طرح آواز کرے گا۔  
(۶ مارچ ۱۸۹۷ء)
- .....۵۔ مبارک۔ ”مبارک“ (قبولیت خطبہ الہامیہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۰ء)
- .....۶۔ الرحیل۔ ”الرحیل ثم الرحیل“ (وفات مسیح ۹ مئی ۱۹۰۸ء)
- .....۷۔ فوق۔ ”جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا“ (جون)
- .....۸۔ برکات۔ اسمائے مہدی و مسیح کاراز۔ (۳ جولائی ۱۸۹۸ء)
- .....۹۔ تخت۔ آسمان سے کئی تخت اترے۔ مگر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔  
(۲۷ اگست ۱۸۹۹ء)
- .....۱۰۔ خیر۔ ”خیر“ (۱۵ ستمبر ۱۹۰۶ء)
- ۱۱۔ بشارت۔ بشارت با ترائے احمد من تو مراد مٹی و بانسی، نشاندہ درخت بزرگی ترا بدست خود۔ (۱۵ نومبر ۱۸۹۶ء)
- .....۱۲۔ قبول۔ تیری دعاء قبول کی گئی۔ (۱۵ نومبر ۱۹۰۶ء)
- ہر سال ماہ عجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ مگر چوتھے سال ۳۱ یوم کا ہوگا۔ بشرطیکہ اس سال کے اعداد چار پر تقسیم ہو سکیں۔ ہر صدی اور ہزار سال کے اخیر پر بھی ماہ عجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ مگر چوتھی صدی پر ۳۱ یوم کا ہوگا۔ بشرطیکہ وہ صدی یا ہزار سال چار پر تقسیم ہو سکے۔  
تاریخ ہائے تصانیف مسیح معہ تاریخ اشاعت
- .....۱۔ براہین احمدیہ جلد اول، دوم، سوم، ۱۸۸۲ء، چہارم، ۱۸۸۳ء، پنجم۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۸ء
- .....۲۔ سرمہ چشم آریہ۔ ۱۸۸۶ء
- .....۳۔ شحذ حق۔ ۱۸۸۷ء
- .....۴۔ عیسائی کے جواب۔ ۱۸۹۰ء
- .....۵۔ توضیح مرام۔ ۲۲ جنوری ۱۸۹۱ء
- .....۶۔ فتح اسلام۔ ۲۲ جنوری ۱۸۹۱ء
- .....۷۔ ازالہ اوہام جلد اول، دوم۔ ۳ ستمبر ۱۸۹۱ء
- .....۸۔ الحق بحث لدھیانہ جولائی ۱۸۹۱ء۔ بحث دہلی نومبر ۱۸۹۱ء
- .....۹۔ آسمانی فیصلہ ۲۷ دسمبر ۱۸۹۱ء
- .....۱۰۔ نشان آسمانی۔ ۲۲ مئی ۱۸۹۲ء

آئینہ کمالات اسلام۔ ۲۶ فروری ۱۸۹۳ء	.....۱۱
برکات الدعاء۔ ۲ اپریل ۱۸۹۳ء	.....۱۲
جنگ مقدس۔ ۲۲ مئی ۱۸۹۳ء	.....۱۳
حجۃ الاسلام۔ جون ۱۸۹۳ء	.....۱۴
تحفہ بغداد۔ جولائی ۱۸۹۳ء	.....۱۵
کرامات الصادقین۔ ۲۳ اگست ۱۸۹۳ء	.....۱۶
شہادت القرآن۔ ۲۲ دسمبر ۱۸۹۳ء	.....۱۷
نورالحق جلد اول فروری ۱۸۹۳ء، جلد دوم ۱۸ مئی ۱۸۹۳ء	.....۱۸
اتمام الحجۃ۔ جون ۱۸۹۳ء	.....۱۹
سر الخلافۃ عربی۔ ۱۳ جولائی ۱۸۹۳ء	.....۲۰
انوار الاسلام۔ ۶ ستمبر ۱۸۹۳ء	.....۲۱
ضیاء الحق۔ مئی ۱۸۹۵ء	.....۲۲
نور القرآن جلد اول ۱۵ جون ۱۸۹۵ء، جلد دوم ۲۰ دسمبر ۱۸۹۵ء	.....۲۳
آریہ دھرم۔ ۲۲ ستمبر ۱۸۹۵ء	.....۲۴
ست بچن۔ یکم دسمبر ۱۸۹۵ء	.....۲۵
لیکچر جلسہ مہوتسو۔ ۲۷ دسمبر ۱۸۹۶ء	.....۲۶
انجام آتھم معہ ضمیمہ۔ ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ء	.....۲۷
سراج منیر۔ ۲۳ مارچ ۱۸۹۷ء	.....۲۸
روندا جلسہ احباب تقریب جشن دہلی۔ مئی ۱۸۹۷ء	.....۲۹
استفتاء۔ ۱۶ مئی ۱۸۹۷ء	.....۳۰
تحفہ قیصریہ۔ ۲۵ مئی ۱۸۹۷ء	.....۳۱
حجۃ اللہ۔ ۲۶ مئی ۱۸۹۷ء	.....۳۲
سراج الدین عیسائی کے جواب۔ ۱۶ جون ۱۸۹۷ء	.....۳۳
محمود کی آئین۔ ۱۸۹۷ء	.....۳۴
کتاب البریہ۔ ۲۳ جنوری ۱۸۹۸ء	.....۳۵
ایام اصلاح فارسی۔ یکم اگست ۱۸۹۸ء	.....۳۶

ضرورت الامام۔ ستمبر ۱۸۹۸ء	.....۳۷
جلسہ طاعون۔ ۱۸۹۸ء	.....۳۸
نجم الہدیٰ۔ ۲۰ نومبر ۱۸۹۸ء	.....۳۹
راز حقیقت۔ ۳۰ نومبر ۱۸۹۸ء	.....۴۰
کشف الغطاء۔ ۲۷ دسمبر ۱۸۹۸ء	.....۴۱
ایام صلح اردو۔ جنوری ۱۸۹۹ء	.....۴۲
حقیقت المہدیٰ۔ ۲۱ فروری ۱۸۹۹ء	.....۴۳
ستارہ قیسریہ۔ ۲۳ اگست ۱۸۹۹ء	.....۴۴
جلسہ دعاء۔ ۲ فروری ۱۹۰۰ء	.....۴۵
گورنمنٹ انگریزی و جہاد۔ ۲۲ مئی ۱۹۰۰ء	.....۴۶
اربعین نمبر اول۔ ۳۳ جولائی نمبر دوم۔ ۲۹ ستمبر، سوم و چہارم ۱۵ دسمبر ۱۹۰۰ء	.....۴۷
اعجاز اسحٰح۔ ۲۲ فروری ۱۹۰۱ء	.....۴۸
بشیر احمد، شریف احمد، مبارک کی آئین۔ ۲۷ نومبر ۱۹۰۱ء	.....۴۹
دافع البلاء۔ ۲۳ اپریل ۱۹۰۲ء	.....۵۰
الہدیٰ۔ ۱۲ جون ۱۹۰۲ء	.....۵۱
نزول اسحٰح۔ ۲۰ اگست ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۹ء	.....۵۲
تحفہ گوٹزیہ۔ یکم ستمبر ۱۹۰۲ء	.....۵۳
کشتی نوح۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء	.....۵۴
تحفہ غزنویہ۔ ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء	.....۵۵
تحفہ الندوہ۔ ۶ اکتوبر ۱۹۰۲ء	.....۵۶
خطبہ الہامیہ۔ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء	.....۵۷
تریاق القلوب۔ ۲۸ اکتوبر ۱۹۰۲ء	.....۵۸
اعجاز احمدی۔ ۱۵ نومبر ۱۹۰۲ء	.....۵۹
ریویو مباحثہ چکر الوی و محمد حسین۔ ۲۷ نومبر ۱۹۰۲ء	.....۶۰
مواہب الرحمان۔ ۱۳ جنوری ۱۹۰۳ء	.....۶۱
نسیم دعوت۔ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء	.....۶۲



..... ۶۳	سنان دہرم۔ ۸ مارچ ۱۹۰۳ء
..... ۶۴	جماعتہ البشریٰ عربی۔ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء
..... ۶۵	تذکرۃ الشہادتین اردو۔ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء
..... ۶۶	سیرۃ الابدال۔ دسمبر ۱۹۰۳ء
..... ۶۷	تذکرۃ الشہادتین فارسی۔ جولائی ۱۹۰۳ء
..... ۶۸	اسلام و دیگر مذاہب۔ ۳ ستمبر ۱۹۰۳ء
..... ۶۹	لیکچر سیا لکھوت۔ ۲ نومبر ۱۹۰۳ء
..... ۷۰	تقریروں کا مجموعہ ۲۸ دسمبر ۱۹۰۳ء
..... ۷۱	الوصیۃ۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۰۵ء
..... ۷۲	ضمیمہ الوصیۃ۔ ۶ جنوری ۱۹۰۶ء
..... ۷۳	چشمہ مسیحی۔ یکم مارچ ۱۹۰۶ء
..... ۷۴	تجلیات الہیہ نامکمل۔ ۱۵ مارچ ۱۹۰۶ء
..... ۷۵	قادیان کے آریہ اور ہم۔ ۲۰ فروری ۱۹۰۷ء
..... ۷۶	حقیقت الوحی۔ ۱۵ مئی ۱۹۰۷ء
..... ۷۷	دوازده نشان۔ ۲۰ مئی ۱۹۰۷ء
..... ۷۸	چشمہ معرفت۔ ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء
..... ۷۹	پیغام صلح۔ ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء
..... ۸۰	لجہ النور۔ ۱۹۰۱ء

### اشتہارات مسیح

..... ۱	پانچ سوانح نامی پانچ سو روپیہ بمقابلہ آریہ روح بے انت۔ ۲ مارچ ۱۸۸۷ء
..... ۲	شرائط انعام اشتہار نمبر اول۔ اپریل ۱۸۸۷ء
..... ۳	منظوری مباحثہ دیانند۔ ۱۰ جون ۱۸۷۸ء
..... ۴	ابطال تنازعہ بمقابلہ کھڑک سنگھ آریہ۔ جولائی ۱۸۷۸ء
..... ۵	استعانت براہین۔ اپریل ۱۸۷۹ء
..... ۶	قیمت و تاریخ براہین۔ ۳ دسمبر ۱۸۷۹ء
..... ۷	انتظام سرمایہ براہین۔ ۱۸۸۰ء

مطالبہ نشانات آسمانی۔ ۱۸۸۳ء	.....۸
دعوت تجدید اسلام۔ ۱۸۸۳ء	.....۹
مشاہدہ انعامی نشان آسمانی بمقابلہ اندرمن۔ ۳۰ مئی ۱۸۸۵ء، بارووم جون	.....۱۰
تبلیغ اصلاح النساء۔ ۱۸۸۵ء	.....۱۱
دعوت مشاہدہ نشان برائے ہنود۔ اگست ۱۸۸۵ء	.....۱۲
سراج منیر اور چند پیشین گوئیاں۔ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء	.....۱۳
تولد فرزند پر پیشین گوئی کی مزید تشریح۔ ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء	.....۱۴
سوالات اندرمن متعلقہ نمبر ۱۵ کا جواب۔ ۸ اپریل ۱۸۸۶ء	.....۱۵
خریداری رسالہ سراج منیر۔ ۱۸۸۷ء	.....۱۶
تولد فرزند بہ پیشین گوئی۔ ۸ اپریل ۱۸۸۶ء، ۷ اگست ۱۸۸۷ء	.....۱۷
وقوع پیشین گوئی امام دین ونظام الدین۔ ۲۰ مارچ ۱۸۸۸ء	.....۱۸
فتح سحیح۔ ۱۸ مئی ۱۸۸۸ء	.....۱۹
پادری وائٹ بریخت وجلسہ مذہبی۔ ۲۱، ۲۲ مئی ۱۸۸۸ء	.....۲۰
اتمام حجت بروایت بریخت ودروغ میاں فتح۔ ۹ جون ۱۸۸۸ء	.....۲۱
نکاح ثانی ونور افشاں۔ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء	.....۲۲
تتمہ نمبر ۲۲۔ ۱۵ جون ۱۸۸۸ء	.....۲۳
وفات بشیر۔ یکم دسمبر ۱۸۸۸ء	.....۲۴
تکمیل تبلیغ وشراائط بیعت۔ ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء	.....۲۵
متعلقہ مستعدین دعوت۔ ۳ مارچ ۱۸۸۹ء	.....۲۶
دعوت عامہ بروقات مسیح۔ ۲۶ مارچ ۱۸۹۱ء	.....۲۷
جواب مباہلہ عبدالحق۔ ۱۲ اپریل ۱۸۹۱ء	.....۲۸
قطع تعلق ازاقارب مخالف دین۔ مئی ۱۸۹۱ء	.....۲۹
وفات مسیح بمقابلہ پادریان۔ ۲۰ مئی ۱۸۹۱ء	.....۳۰
دعوت حق بمقابلہ لدھیانویاں۔ ۲۳ مئی ۱۸۹۱ء	.....۳۱
مباحثہ کا انجام بمقابلہ محمد حسین۔ یکم اگست ۱۸۹۱ء	.....۳۲
نقل اقرارنامہ غلام احمد قادیانی۔ ۲۳ اگست ۱۸۹۱ء	.....۳۳

.....۳۴	مسافر کا اشتہار۔ ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء
.....۳۵	مقابلہ نذیر حسین صاحب دہلوی۔ ۶ اکتوبر ۱۸۹۱ء
.....۳۶	بحث وفات مسیح بمقابلہ نذیر حسین صاحب۔ ۷ اکتوبر ۱۸۹۱ء
.....۳۷	واقعات مباحثہ نذیر حسین صاحب۔ ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء
.....۳۸	دعوت خریداری از الہ اوہام۔ اکتوبر ۱۸۹۱ء
.....۳۹	دعوت مناظرہ وفات مسیح محمد اسحاق صاحب کو۔ ۳۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء
.....۴۰	لائق غور مصنفین۔ جنوری ۱۸۹۲ء
.....۴۱	عام اطلاع جلسہ تقریر برکوشی میراں بخش لاہور۔ ۲۸ جنوری ۱۸۹۲ء
.....۴۲	مباحثہ نبوت و اعلان محمد شیت۔ ۳ فروری ۱۸۹۲ء
.....۴۳	امداد عرب مسافر۔ ۱۷ مارچ ۱۸۹۲ء
.....۴۴	آسانی فیصلہ اور خط و کتابت۔ ۹ مئی ۱۸۹۲ء
.....۴۵	آئینہ کمالات اسلام۔ ۱۰ اگست ۱۸۹۲ء
.....۴۶	امداد محمد احسن صاحب۔ ۱۲ ستمبر ۱۸۹۲ء
.....۴۷	انعقاد جلسہ۔ ۲۷ دسمبر۔ ۱۶ دسمبر ۱۸۹۲ء
.....۴۸	متعلقہ محمد حسین صاحب۔ ۱۹ اپریل ۱۸۹۳ء
.....۴۹	مباہلہ عبدالحق و محمد یوسف غزنوی۔ ۲۵ اپریل ۱۸۹۳ء
.....۵۰	واپسی قیمت براہین احمدیہ۔ یکم مئی ۱۸۹۳ء
.....۵۱	جنگ مقدس۔ ۵ جون ۱۸۹۳ء
.....۵۲	اعلان مباہلہ عبدالحق۔ ۱۸ مئی ۱۸۹۳ء
.....۵۳	وقوع مباہلہ باعبدالحق بمقام امرتسر۔ ۲۷ مئی ۱۸۹۳ء
.....۵۴	معیار الاشرار والاخیار برائے عماد الدین انعام پانچ ہزار۔ ۱۷ مارچ ۱۸۹۳ء
.....۵۵	رد نصاریٰ۔ ۲۷ مئی ۱۸۹۳ء
.....۵۶	فتح اسلام۔ ۹ ستمبر ۱۸۹۳ء
.....۵۷	اشتہار دو ہزار انعامی برائے آتھم۔ ۲۰ ستمبر ۱۸۹۳ء و تین ہزار انعامی۔ ۱۵ اکتوبر ۱۸۹۳ء
.....۵۸	لائق توجہ گورنمنٹ۔ ۱۰ دسمبر ۱۸۹۳ء
.....۵۹	قابل توجہ گورنمنٹ۔ ۲۷ فروری ۱۸۹۵ء

.....۶۰	استفسار نیوگ۔ ۳۱ فروری ۱۸۹۵ء
.....۶۱	مبارک باد، ست پنجن۔ ۹ ستمبر ۱۸۹۵ء
.....۶۲	درخواست اصلاح مباحثات مذہبی بھنور گورنر جنرل۔ ۲۲ ستمبر ۱۸۹۵ء
.....۶۳	”انما الاعمال بالنیات“ ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۵ء
.....۶۴	ست پنجن و آریہ دھرم۔ ۱۷ نومبر ۱۸۹۵ء
.....۶۵	کتاب ست پنجن کا تھوڑا سا مضمون۔ ۲۵ نومبر ۱۸۹۵ء
.....۶۶	جلسہ تحقیق مذاہب۔ ۲۹ دسمبر ۱۸۹۵ء
.....۶۷	آرتھم و فتح مسیح۔ ۳۰ دسمبر ۱۸۹۵ء
.....۶۸	ضیاء الحق در بارہ قسم عبد اللہ آتھم۔ ۱۸۹۵ء
.....۶۹	جمہور کی تعطیل۔ یکم جنوری ۱۸۹۶ء
.....۷۰	درخواست بھنور و انسراے ہند در چوڑہ تعطیل جمہور۔ یکم جنوری ۱۸۹۶ء
.....۷۱	تفسیر انجیل متی۔ ۲۶ جنوری ۱۸۹۶ء
.....۷۲	دو عیسائیوں میں محاکمہ ۱۸۹۶ء
.....۷۳	مولوی غلام دستگیر کا جواب۔ ۱۵ جنوری ۱۸۹۶ء
.....۷۴	مقابلہ معجزات مسیح انعامی ہزار روپیہ۔ ۲۸ جنوری ۱۸۹۷ء
.....۷۵	تردید شیخ نجفی۔ یکم فروری ۱۸۹۷ء
.....۷۶	چندہ برائے توسیع مکان۔ ۱۷ فروری ۱۸۹۷ء
.....۷۷	لعنت و کسر صلیب۔ ۶ مارچ ۱۸۹۷ء
.....۸۸	لیکھ رام پر موت کی پیشین گوئی کا پورا ہونا۔ ۹ مارچ ۱۸۹۷ء
.....۸۹	شیخ نجفی کو نشان آسانی۔ ۱۰ مارچ ۱۸۹۷ء
.....۹۰	سر سید خان صاحب۔ ۱۲ مارچ ۱۸۹۷ء
.....۹۱	آریہ کے خیالات در بارہ موت لیکھ رام۔ ۱۵ مارچ ۱۸۹۷ء
.....۹۲	عریفہ بھنور گورنمنٹ و الزام قتل لیکھ رام۔ ۲۲ مارچ ۱۸۹۷ء
.....۹۳	جواب اشتہار گنگا بشن۔ ۱۵ اپریل ۱۸۹۷ء
.....۹۴	قتل لیکھ رام پر خانہ تلاشی۔ ۱۱ اپریل ۱۸۹۷ء
.....۹۵	گنگا بشن کی درخواست موت۔ ۱۶ اپریل ۱۸۹۷ء

.....۹۶	قابل توجہ سردار راجندر سنگھ۔ ۱۸ اپریل ۱۸۹۷ء
.....۹۷	اشتہار گنگا بٹن درقل لیکھ رام۔ ۲۷ اپریل ۱۸۹۷ء
.....۹۸	اشتہار واجب الاظہار۔ یکم مئی ۱۸۹۷ء
.....۹۹	قطع فیصلہ۔ ۱۹ مئی ۱۸۹۷ء
.....۱۰۰	حسین کامی سفیر روم۔ ۲۳ مئی ۱۸۹۷ء
.....۱۰۱	شکریہ جشن جولائی ۶۰ سالہ۔ ۷ جون ۱۸۹۷ء
.....۱۰۲	جلسہ جناب متعلقہ جشن۔ ۲۳ جون ۱۸۹۷ء
.....۱۰۳	کیا جو خدا کی طرف سے ہوا ضائع ہو سکتا ہے؟ ۲۵ جون ۱۸۹۷ء
.....۱۰۴	درخواست بخدمت صوفیائے پنجاب۔ ۱۵ جولائی ۱۸۹۷ء
.....۱۰۵	”تعاونوا علی البر والتقویٰ“ ۲۹ جولائی ۱۸۹۷ء
.....۱۰۶	امداد سکول۔ ۱۵ ستمبر ۱۸۹۷ء
.....۱۰۷	اشتہار واجب الاظہار۔ ۲۰ ستمبر ۱۸۹۷ء
.....۱۰۸	ایک بزرگ کی توبہ۔ ۲۰ نومبر ۱۸۹۷ء
.....۱۰۹	ضروری الاظہار۔ ۵ فروری ۱۸۹۸ء
.....۱۱۰	طاعون۔ ۶ فروری ۱۸۹۸ء
.....۱۱۱	بمضور نواب لفتنٹ گورنر۔ ۲۳ فروری ۱۸۹۸ء
.....۱۱۲	کیا محمد حسین کو کرسی ملی؟ ۷ مارچ ۱۸۹۸ء
.....۱۱۳	جلسہ طاعون۔ ۲۲ اپریل ۱۸۹۸ء
.....۱۱۴	میوریل بمضور لفتنٹ گورنر صاحب۔ ۳ مئی ۱۸۹۸ء
.....۱۱۵	اشتہار تنبیہ جماعت۔ ۲۹ مئی ۱۸۹۸ء
.....۱۱۶	قابل توجہ اپنی جماعت۔ ۷ جون ۱۸۹۸ء
.....۱۱۷	دوائی طاعون۔ ۲۳ جولائی ۱۸۹۸ء
.....۱۱۸	متعلقہ کتب۔ ۲۰ ستمبر ۱۸۹۸ء
.....۱۱۹	جو ہماری بات سنے اس پر رحم ہو۔ ۲۷ اکتوبر ۱۸۹۸ء
.....۱۲۰	خدا پر فیصلہ۔ ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء
.....۱۲۱	وصیتہ الحق۔ ۳۰ نومبر ۱۸۹۸ء

- .....۱۲۲ متعلقہ پیشین گوئی۔ ۲۲ نومبر ۱۸۹۸ء، ۲۷ دسمبر ۱۸۹۸ء
- .....۱۲۳ استفتاء عقیدہ مہدی فاطمی۔ دسمبر ۱۸۹۸ء
- .....۱۲۴ متعلقہ محمد حسین دایک پیشین گوئی۔ ۳ جنوری ۱۸۹۹ء
- .....۱۲۵ ایک پیشین گوئی کا وقوع۔ ۶ جنوری ۱۸۹۹ء
- .....۱۲۶ پنجاب و ہندوستان کے مولویوں کی ایمانداری کا نمونہ۔ ۷ جنوری ۱۸۹۹ء
- .....۱۲۷ نقل ڈیفنس۔ ۲۰ جنوری ۱۸۹۹ء
- .....۱۲۸ استفتاء بر منصفانہ گواہی۔ ۲۱ جنوری ۱۸۹۹ء
- .....۱۲۹ اپنی جماعت کے ہر ایک رشید کے نام۔ ۹ اگست ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۰ بھنور گورنمنٹ ایک عاجزانہ درخواست۔ ۲۷ ستمبر ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۱ اشتہار لہلا نصار۔ ۳ اکتوبر ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۲ جلسہ الوداع۔ ۱۰ اکتوبر ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۳ اپنی جماعت کو اطلاع۔ ۵ نومبر ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۴ آسانی گواہی کے لئے دعاء کی درخواست۔ ۵ نومبر ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۵ متعلقہ حسین کامی۔ ۱۸ نومبر ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۶ پیشین گوئی کا وقوع۔ ۱۷ دسمبر ۱۸۹۹ء
- .....۱۳۷ چندہ ٹرانسوال۔ فروری ۱۹۰۰ء
- .....۱۳۸ بشپ صاحب لاہور سے فیصلہ کی درخواست۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۰ء
- .....۱۳۹ زندہ رسول پر کچھ بیان۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۰ معیار الاخبار۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۱ چندہ منارۃ المسیح۔ ۲۸ مئی ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۲ جہاد کی ممانعت۔ ۷ جون ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۳ متعلقہ منارۃ المسیح قابل توجہ جماعت خود۔ یکم جولائی ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۴ پیر گوڑوی سے فیصلہ۔ ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۵ اطلاع مباحثہ گوڑوی۔ ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۶ پیر گوڑوی اور عربی تفسیر نویسی۔ ۲۸ اگست ۱۹۰۰ء
- .....۱۴۷ متعلقہ نام احمدی۔ ۳ نومبر ۱۹۰۰ء

.....۱۳۸	پیر گولڑوی۔ ۱۵ دسمبر ۱۹۰۰ء
.....۱۳۹	تجویز رسالہ ریویو۔ ۱۵ جنوری ۱۹۰۱ء
.....۱۵۰	ظہور معجزہ۔ ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء
.....۱۵۱	الصالح خیر۔ ۵ مارچ ۱۹۰۱ء
.....۱۵۲	طاعون۔ ۱۷ مارچ ۱۹۰۱ء
.....۱۵۳	امتحان کتب۔ ۹ ستمبر ۱۹۰۱ء
.....۱۵۴	ایک غلطی کا ازالہ۔ ۵ نومبر ۱۹۰۱ء
.....۱۵۵	متعلقہ آیات الرحمان۔ ۱۰ نومبر ۱۹۰۱ء
.....۱۵۶	النار۔ ۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء
.....۱۵۷	الطاعون عربی، فارسی، اردو۔ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء
.....۱۵۸	انتظام لنگر خانہ۔ ۵ مارچ ۱۹۰۲ء
.....۱۵۹	التوائے جلسہ سالانہ۔ ۱۸ دسمبر ۱۹۰۲ء
.....۱۶۰	اصلاح متعلقہ ثناء اللہ۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء
.....۱۶۱	پیش از وقت پیشین گوئی۔ یکم جنوری ۱۹۰۳ء
.....۱۶۲	امداد ریویو۔ ۳۱ اگست ۱۹۰۳ء
.....۱۶۳	ایک واقعہ کا اظہار۔ ۱۳ جون ۱۹۰۳ء
.....۱۶۴	الوصیۃ۔ ۲۷ فروری ۱۹۰۵ء
.....۱۶۵	متعلقہ اخبار بدر۔ ۳۰ مارچ ۱۹۰۵ء
.....۱۶۶	متعلقہ زلزلہ۔ ۵ اپریل ۱۹۰۵ء
.....۱۶۷	الانذار۔ ۸ اپریل ۱۹۰۵ء
.....۱۶۸	النداء من وحی السماء۔ ۲۱ اپریل ۱۹۰۵ء
.....۱۶۹	خبر سوم زلزلہ۔ ۲۹ اپریل ۱۹۰۵ء
.....۱۷۰	قابل توجہ گورنمنٹ۔ ۱۱ مئی ۱۹۰۵ء
.....۱۷۱	تبلیغ الحق متعلقہ امام حسینؑ۔ ۸ اکتوبر ۱۹۰۵ء
.....۱۷۲	تازہ اشتہار۔ ۱۹۰۵ء
.....۱۷۳	پیشین گوئی متعلقہ زلزلہ۔ ۲ مارچ ۱۹۰۶ء

- .....۱۷۴ متعلقہ چراغ دین جمونی۔ ۲۹/۱۲/۱۹۰۶ء
- .....۱۷۵ اعلان ارتداد عبدالکلیم۔ ۳/۱۲/۱۹۰۶ء
- .....۱۷۶ منظوری مہابلہ احمد مسیح دہلوی۔ ۲۱/۱۲/۱۹۰۶ء
- .....۱۷۷ خدایے کا حامی ہو۔ ۱۶/۱۱/۱۹۰۶ء
- .....۱۷۸ ثناء اللہ سے آخری فیصلہ۔ ۱۵/۱۲/۱۹۰۷ء
- .....۱۷۹ جماعت کو ایک ضروری نصیحت۔ ۷/۱۲/۱۹۰۷ء
- .....۱۸۰ تبصرہ۔ ۵/۱۱/۱۹۰۷ء
- (منقول از جنتری احمدیہ لاہوری ۱۹۲۱ء)

### ووکنگ مسجد

۱۸۹۱ء میں جناب نے ایک خواب دیکھا کہ لنڈن میں میز پر کھڑے ہو کر انگریزی میں صداقت اسلام پر لیکچر دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے درختوں پر بہت سے پرندے تیر کی جماعت کے پکڑے۔ اس کی تعبیر یوں کی کہ میرے بعد میری تحریرات وہاں شائع ہوں گی۔ اس خواب کے بعد ۲۱ سال اور وفات کے بعد ۳ سال یعنی اگست ۱۹۱۲ء کو خواجہ کمال الدین نے ولایت جانے کا ارادہ کر لیا۔ شروع ستمبر ۱۹۱۲ء میں آپ رخصت ہوئے۔ ۷/ ستمبر ۱۹۱۲ء کو بارہ بجے بمبئی سے سوار ہو کر ۲۳/ ستمبر ۱۹۱۲ء کو بمقام پورٹ سوٹھ انگلستان پہنچ گئے۔ پینتالیس روپے ماہوار پر ایک مکان کرایہ پر لیا اور عید الفصحی کی نماز پچاس ساٹھ آدمیوں کی جمعیت میں ٹیکسٹن ہال میں پڑھی گئی اور اشتہار تقسیم کئے۔ فروری ۱۹۱۳ء سے رسالہ مسلم انڈیا اور اسلامک ریویو شائع کیا۔ جنوری ۱۹۱۳ء میں کیمبرج میں پادری فریر سے مباحثہ ہوا۔ فروری ۱۹۱۳ء میں پہلی خاتون مسز ابراہام ایک کزنیل کی لڑکی جمعہ میں شامل ہوئی۔ مارچ ۱۹۱۳ء میں غلبت الروم کی پیش گوئی شائع کی اور ووکنگ کے مسجد میں پہلے ہفتہ نماز عشاء ادا کی۔ دوسرے ہفتہ جمعہ پڑھایا۔ جس میں عبدالمہا اور حکیم محمود بانی بھی شریک ہوئے۔ مسجد ووکنگ کا بانی ڈاکٹر لائمن تھا۔ جس نے پنجاب یونیورسٹی اور اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی۔ وہ ہندوستان سے واپسی پر بہت سارے پیہ ساتھ لے گیا۔ لنڈن سے تیس میل کے فاصلہ پر شہر ووکنگ میں کچھ مشرقی طریق پر ایک رہائشی مکان تعمیر کیا۔ جس میں مشرقی یادگاریں بھی رکھیں اور سوگز کے فاصلہ پر ۶۰،۵ گز مربع مسجد بھی بنائی۔ جس کے مقف حصہ میں چالیس کے قریب آدمی آسکتے ہیں۔ شروع مئی ۱۹۱۳ء میں ساگر چند جو کالت کا طالب علم تھا مسلمان ہوا۔ اسلامی نام محمد رکھا گیا۔ اگلے اتوار دہریہ جماعت کو کیمبرج میں لیکچر دیا۔ ۲۶/ مئی کو پکیڈ لی میں عورت پر لیکچر دیا۔ ۳۰، ۳۱/ مئی کو فاکسن میں دو لیکچر دیئے۔ جون میں ریسرچ کلب



میں لیکچر دیا۔ کام زیادہ ہو گیا تو حکیم نور الدین صاحب کے حکم سے ۲۸ جون ۱۹۱۳ء کو چوہدری فتح محمد ایم اے اور شیخ نور محمد ایجنٹ خواجہ صاحب لندن گئے اور جون ۱۹۱۳ء میں خواجہ صاحب ایک خاتون کو تبلیغ کے لئے بلجیم گئے۔ ۲۹ جولائی کو مذہبی کانفرنس پیرس میں لیکچر دیا۔ ۱۳ اگست ۱۹۱۳ء کو مسجد دوکنگ کے خواجہ صاحب انچارج ہوئے۔ اب وہیں رہنے لگے۔ ۳۰ ستمبر کو عید الفطر کی کینس ہال میں سو آدمی کے ساتھ پڑھی۔ نواب صاحب بہاولپور نے پیش امام سمجھ کر دس پونڈ پیش کئے۔ ۱۶ نومبر ۱۹۱۳ء کو لارڈ ہیڈلے مسلمان ہوا اور اسلامی نام رحمت اللہ فاروق حاصل کیا۔ پھر دو چار اور مردوزن مسلمان ہوئے۔ ۲۸ نومبر ۱۹۱۳ء کو وائی کوٹ ڈی پور سکنتہ بلجیم۔ کپتان سنٹلے مارگریٹ مس فلی رسنم اور مسز کلفورڈ مسلمان ہوئے۔ سید امیر علی مرحوم نے لندن مسجد فنڈ سے ایک سو پونڈ سالانہ دینے کا انتظام کیا۔ دسمبر ۱۹۱۳ء میں روسی شہزادہ جسر و مسلمان ہوا۔ ۱۹۱۳ء میں خواجہ صاحب واپس ہندوستان آ گئے اور مولوی صدر الدین وہاں کام کرتے رہے۔ کچھ عرصہ تک دوکنگ مشن کا کام تیزی سے شروع رہا پھر سرد ہو گیا۔ صدر الدین صاحب واپس آئے تو ۱۹۱۶ء میں خواجہ صاحب پھر ولایت گئے اور علیل ہو گئے اور اپنے بیٹے بشیر احمد بی۔ اے کی وفات سے ان کو صدمہ ہوا۔ ۱۹۱۹ء میں واپس ہندوستان آ گئے اور ان کی جگہ مولوی صدر الدین، مولوی عبداللہ جان ابن غلام حسن پشاور اور دوست محمد ڈیٹر پیغام صلح ولایت گئے۔ خواجہ صاحب کے ایام علالت میں شیخ شیر حسن قدوائی، ملک عبدالقیوم وغیرہ نے کام شروع رکھا۔ شیخ نور احمد صاحب جالندھری اگرچہ انگریزی نہ جانتے تھے اور خواجہ کے ایجنٹ تھے۔ مگر چار پانچ سال اخلاص سے وہاں کام کیا اور ہال دوکنگ کا خطاب پایا اور ۱۹۱۹ء میں لاہور آ کر وفات پائی۔ ۱۹۲۰ء میں صدر الدین واپس آئے تو مصطفیٰ خان صاحب بی۔ اے دوکنگ کے امام مقرر کئے گئے۔ (منقول از جنتری احمدیہ لاہور ۱۹۲۱ء)

## تعبیر خواب

نیک و بد کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے اور خواب تین قسم ہیں۔ رحمانی (خدا کا پیغام) نفسانی (جیسے ملی کوچھپھڑے کا خواب) اور شیطانی (خوفناک منظر) رحمانی خواب کو روحانی امور سے ہی شناخت کیا جاسکتا ہے اور جو خواب مندر ہے بمشتر نہیں ہو سکتی اور جو بمشتر ہے مندر نہیں ہو سکتی۔ مندر کے لئے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے۔ معبر اڈل کی تعبیر کچھ تاثیر نہیں رکھتی۔ تقاول درست ہے۔ مجھے گورداسپور مقدمہ میں جانا پڑا اور ایک شخص کو سزا ملی تھی۔ راستہ میں ایک لڑکے کی بکری کے گلے میں رسی ڈال کر کہا کہ آہا وہ پھنس گئی تو میں نے خیال کیا کہ اسے ضرور سزا ہو جائے گی۔ پکٹ کا مقابلہ تھا راستہ میں ایک نے کہا کہ السلام علیکم تو میں نے سمجھا کہ ہماری فتح ہوگی۔

خواب میں اسم سے مسے یا موصوف سے صفت یا ملزوم سے لازم مراد ہوتی ہے یا بالعکس فطرۃ کوئی برا نہیں ہے۔ اس لئے برے کو بھی نیک خواب آسکتا ہے۔ خواب مبشر ہو تو پھر نہ سونا چاہئے۔ خواب تہ زمین کے پانی کی طرح ہیں جو محنت سے دستیاب ہوتا ہے۔ فتور جو اس کے وقت خواب آتا ہے۔ اسی وجہ سے خواب کی حالت محسوس نہیں ہوتی۔ خواب کے علاوہ ایک حالت غیبت ہے جو نیم خوابی کی حالت میں فتانی اللہ انسان پر طاری ہوتی ہے اور اس کا باعث صرف روحانی طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام کا دل بہت صاف تھا۔ اس لئے قرآن مجید میں خدا کی تصویر روشن ہے اور باقی کتابوں میں اس کی دھندلی تصویر نظر آتی ہے۔ صبح کو خواب بیان کرنا سنت ہے۔ خواب اور الہام کا مادہ ہر شخص میں رکھ دیا ہے۔

میرا یہ مذہب ہے کہ بدکار کو کبھی سچا خواب اور الہام صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ مگر مؤمن کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں اور اس میں بشارت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کافر کی نسبت وہ صاف ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی خواب کا آنا ضرور ہے۔ مگر قضائے مبرم کی طرح اٹل نہیں ہوتا۔ بلکہ قضائے معلق کی طرح ہوتا ہے۔ مبشر ہو تو بشارت کی صورت میں ظاہر ہونے کے لئے دعا کرو۔ منذر ہو تو توبہ واستغفار کرو۔ تعبیرات یوں ہیں۔ ہاتھی کو تیل ملنا (اچھا ہے) گالیاں کھانا (غلبہ کا نشان ہے) بجلی کی چمک (آبادی ہے) ہاتھی پر سواری (طاعون پر سواری ہے) بیسنی روٹی (کچھ تکلیف ہے) زلزلہ (طاعون ہے) خواب میں نام پر خوب غور کرو اس سے تعبیر کھل سکتی ہے۔ دشمن سے فرار (اس پر فتح ہے) نماز پڑھنا یا شیرینی کھانا (نماز میں لطف آئے گا) سورہ تبت پڑھنا (غلبہ ہے) انگوٹھی (ایک حلقہ میں داخلہ ہے) موت کی خبر پانا (بیعت میں داخلہ ہے) دریا دیکھنا (علوم و معارف ہیں) ابا تیل (مستفید لوگ ہیں) ختنہ کرنا (قطع شہوات ہے) قیامت کی خبر پانا (نیک کی فتح اور بد کی بدبختی ہے) سلطان محمد کا آنا (کسی تائید کا ظاہر ہونا ہے۔ کیونکہ سلطان کا نام یہی ظاہر کرتا ہے) لہیں کترے ہوئے دیکھنا (تواضع ہے) مریض قونج کی موت (صحت ہے) مامور کا آنا (رحمت کا ظہور ہے) دایاں کان دین ہے اور بائیں دینا۔ اس لئے ان سے کچھ سننا (نیک بات ہے) کتا (لاچلی آدمی ہے) بندر (ایک مسخ شدہ آدمی ہے) دانت ٹوٹ کر (ہاتھ میں آئے تو اچھا ہے ورنہ برا) چاندی دینا (اظہار محبت اسلامی ہے) سورہ تبارک وعم یتسألون دکھانا (اعتراضات مخالفین اور مشیت الہی ہے) کپڑے کو آگ لگنا اور پانی ڈال کر اسے صاف دیکھنا (صحت کی علامت ہے) شہر میں عید پڑھنا (مبارک ہے) منذر کو بری صورت میں دیکھا (اپنی پردہ دری ہے) جوان عورت (دنیاوی اقبال ہے) مردے کا کلمہ پڑھنا (دین کی سرسبزی ہے)

بڑھ (عیسائیت ہے) مردہ کا زندہ ہونا (کوئی بات پھر زندہ ہو) کلیجہ (مال ہے) نورانی کپڑے (کامیابی ہے) مضمون عطاء کردہ مسیح کا نقل کرنا (کامیابی ہے) حضرت عمر کی ملاقات (شجاعت ہے) گالیاں دینا (مغلوب ہونا ہے) کتے کا خفیف کاٹنا اور انڈے دینا (کچھ ایذا رسانی ہے اور انڈے اس کی اولاد ہیں وہ توڑے جائیں تو وہ بھی تلف ہوں گے) قبر سے مردہ کا نکلنا (گرفتاری رہائی ہے) سبحان اللہ پڑھنا (تصدیق وعدہ الہی ہے) پیسے (جھگڑا ہیں) کسی کا کچھ کہنا (کبھی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے) دوائی دینا (شفا بخشی ہے) چنے مولیٰ بیگن یا پیاز وغیرہ (مکروہ ہے) منقہ (اچھا ہے) گنا (فتنہ پردازی ہے)

عقائد اور ملفوظات

آپ چودھویں صدی کے مجدد اور مسیح موعود اور مہدی معبود ہیں۔ وہ نبی اور رسول نہیں کیونکہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی پرانا ہو یا نیا نہیں آسکتا اور مجدد اور محدث آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ پس اگر لفظ نبی یا مرسل کا اطلاق ان پر ہوگا تو مجازی طور پر ہوگا۔ آپ کو دوسرے مجددوں پر اس لئے فضیلت ہے کہ آپ کی آمد کے لئے صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں اور جس فتنہ کے اصلاح کے لئے آپ مبعوث ہوئے ہیں کسی دوسری کو ایسی اصلاح سپرد نہیں ہوئی۔ پھر آپ کی دعوت عامہ ہے اور پہلے مجددین کی دعوت مختص الوقت اور مختص المقام تھی۔ پس حقیقی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء کے خلفاء حقیقی نبی ہوتے رہے ہیں۔ مگر اس امت میں کوئی خلیفہ حقیقی نبی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کامل کتاب قرآن سے پہلے نازل نہیں ہوئی اور چونکہ حضور ﷺ رحمۃ للعالمین اور کافۃ للناس کی طرف مبعوث تھے۔ اس لئے کسی مخصوص التعليم اور مختص القوم کی بھی بعد میں ضرورت نہ رہی۔ مگر سلسلہ تجدید جاری رہا تا کہ بھولوں کو اسلام یاد دلایا جائے اور چونکہ آپ کی نسبت خاص طور پر پیشین گوئیاں وارد ہیں اور اسلامی کامیابی آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس لئے دوسرے مجددین کی نسبت آپ کا برحق ماننا زیادہ ضروری ہوا۔ گو کوئی شخص آپ کو نہ ماننے سے خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ مگر کسی مسلمان کو یا مسیح موعود کو مفتری یا کاذب جاننے والا ضرور کافر ہوتا ہے۔ (تو پھر انکار بھی موجب کفر ہوا) آپ نے کہا کہ ہماری جماعت میں چندہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جو ماہ ب ماہ چندہ دیتے ہیں۔ جو چندہ نہیں دیتا اس کے وجود سے اس سلسلہ کو کیا فائدہ ہے۔ جب بچوں کے لئے بازار سے کچھ نہ کچھ ضرور خرید کر لاتا ہے تو کیا یہ عظیم الشان سلسلہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کے لئے چند پیسے بھی قربان کر سکے۔ آج دنیا میں کون سا سلسلہ ہے جو بغیر پیسہ کے چل سکتا ہے۔ وہ کس قدر بخیل ہے جو اس مقصد کے لئے چند پیسے بھی

خرچ نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبرؓ نے اپنا کل گھر بار نثار کر دیا۔ فاروق اعظمؓ اور ذی النورینؓ نے اپنی طاقت کے مطابق مال قربان کر دیا۔ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم سمجھیں گے مگر امداد کے وقت اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وجود ہرگز نفع رسان نہیں۔ اس وقت ہماری جماعت تین لاکھ ہے۔ پیسہ پیسہ بھی دیں تو کئی لاکھ پیسے ہو سکتے ہیں۔ چار روٹیاں کھانے والا اگر آدھی روٹی بھی بچا دے تو بھی اس کام سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ مگر اب تک اکثر لوگوں کو کہا بھی نہیں گیا۔ جو رو رو کر بیعت کر جاتے ہیں۔ اگر ان کو چندہ کے لئے کہا جائے تو ضرور چندہ دے دیں گے۔ تم ضرور ان کو باخبر کرو یہ موقعہ ہاتھ آنے کا نہیں۔ یہ کیسا برکت کا زمانہ ہے کہ جان نہیں مانگی جاتی۔ اس لئے ہر ایک شخص تھوڑا تھوڑا جو لنگر اور مدرسہ اور دوسری ضروری مدوں میں دے سکتا ہے دے۔ باقاعدہ دینے والا اگر چہ تھوڑا ہی دے، بے قاعدہ دینے والوں سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے احادیث صحیحہ میں دی ہے جو بخاری و مسلم و دیگر صحاح میں درج ہیں۔

”وکفی بالله شهيدا“

۸ اگست ۱۸۹۹ء مرزا غلام احمد۔ جو بیعت کرے اس کو قال اللہ اور قال الرسول کا پابند ہونا ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں کہ وہ حنفی ہو یا شافعی۔ کوئی نئی شریعت اب نہیں آ سکتی اور نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ مگر ولایت امامت اور خلافت کی ہمیشہ قیامت تک راہیں کھلی ہیں اور جس قدر مہدی دنیا میں آئے یا آئیں گے ان کا شمار خدا کو معلوم ہے۔ وحی رسالت ختم ہو گئی مگر ولایت امامت اور خلافت کبھی ختم نہ ہوگی۔ کسی کو گذشتہ لوگوں میں سے بجز حضور ﷺ کے جمیع کمالات کے رو سے بے مثل نہیں کہہ سکتے اور ممکن نہیں کہ آئندہ بھی کوئی آپ سے مجموعی طور پر بہتر ہو۔ ہاں جزوی لحاظ سے بعض لوگ پیشل ٹھہر سکتے ہیں۔ مثلاً صحابہ کرام کا حضور ﷺ کی صحبت اٹھانا آپ کے ہمراہ جہاد کرنا اور مال و جان حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاسکتیں۔ مگر اس کے سوا ہر ایک کمال کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا کے پیارے اور اعلیٰ درجہ کے مقبول بندے اور امام الوقت اور خلیفۃ اللہ فی ارض اللہ اب بھی ایسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے ہوئے تھے اور اب بھی اکرام و انعام کی وہ راہیں کھلی ہیں جو پہلے کھلی تھیں۔ کمالات نبوت و رسالت بھی ظلی طور پر حاصل ہو سکتے ہیں۔ جس قدر استعداد ہوگی پرتو نور کا اس پر پڑے گا۔ زندہ اسلام اسی کا نام ہے۔ مگر جو لوگ امامت اور خلافت اور صدیقیت کو پہلے لوگوں پر ختم کر چکے ہیں ان کے ہاتھ میں اب مردہ اسلام ہے جو مذہب آئندہ کمالات کے دروازے بند کرنا

ہے۔ وہ انسانی ترقی کا دشمن ہے۔ قرآن شریف میں بھاری دعاء یہی ہے کہ: ”اهدنا الصراط المستقیم“ یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ کسی رشتہ سے گورسول سے ہو کوئی فضیلت پیدا نہیں کرتا۔ نظر رشتہ پر فخر کرنا نامردوں کا کام ہے۔ صحابہؓ یا زوی القربیٰ میں سے جو قابل تعریف ہے وہ صرف رشتہ کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ قرآن ہر ایک تصرف سے ہلکی محفوظ ہے اور کوئی ایسا قرآن نہیں ہے کہ جس کو کوئی شخص غار میں لے کر چھپا بیٹھا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ چار یار رضی اللہ عنہم امین شرع تھے۔ شرک سے ہلکی پاک رہنا ضروری ہے اور بیعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کے غضب سے پرہیز کرے۔

(خط سچ نام نواب محمد علی صاحب)

## نسخہ جات

دہی دوسرے سے مچھلی کی ہڈی گلے سے لٹرتی جاتی ہے۔ طاعون میں منکنیہیا کا مسہل دے کر کیوڑہ اور زربسی کھلاؤ اور جو تک بھی مفید ہے۔ سکنجبین مقوی معدہ یوں بناؤ عرق لیو ایک سیر الاچھی خورد۴ تولہ کیوڑہ بقدر ضرورت۔ اطریقل مقوی دماغ اور دماغ قبض یوں بناؤ، پوست ہلیلہ کابی وزرد سیاہ بنفشہ و سقونیا مکدہ مشقال گل سرخ و طباشیر و نیلوفر، پوست ہلیلہ و آملہ مکدہ ۲ مشقال تربد و کشیر مکدہ ۱۰ مشقال، صندل سفید و کتیر امکدہ مشقال، روغن بادام ۱۵ مشقال۔ یہ سب دوائیں بادام روغن میں چرب کریں۔ پھر عناب ۵۰ دانہ، سپستان ۵۰ دانہ، گل بنفشہ ۵ مشقال کے جو شانہ میں ڈیڑھ وزن شیرہ مر بائے ہلیلہ اور ایک وزن شہد ملا کر گوندھ کر آگ پر رکھیں۔ توام ہو جائے تو مشک ۳ ماشہ ورق نقرہ ۲۵ عدد ورق طلا ۱۰ عدد ملا کر اتار لیں۔ خوراک اول ڈیڑھ ماشہ پھر حسب برداشت، اٹھرا کے لئے مشک خالص ۶ ماشہ، زربسی ۳ ماشہ، فولاد قلمی ۳ ماشہ۔ باہم پیس کر روزانہ بوقت شام ۲ تہ استعمال کرائیں اور غم سے بچائیں۔ طاعون کا انگریزی علاج یوں ہے کہ جدوار سرکہ میں پیس لیں بڑے کے لے سات سرخ اور چھوٹے کے لئے پانچ سرخ گولی بنا کر کھائیں۔ پھر لمبیر ۱۵ قطرہ و انیم اپیکاک ۹ قطرہ سپرٹ کلور افارم ۱۵ قطرہ عرق کیوڑہ ۵ تولہ عرق سرس ۵ تولہ، پانی ۴ تولہ پی لیں۔ یہ مقدار ابتدائی مرض میں ہے۔ ورنہ کیمفر کو بعد میں ۶۰ بوند و اینیم اپیکاک ۴۰ بوند اور سپرٹ کلور افارم ۶۰ بوند عرق کیوڑہ ۲۰ تولہ عرق سرس ۲۵ تولہ تک بڑھا سکتے ہو۔ طاعون سے بچنے کے لئے روزانہ غسل، تبدیلی پوشاک، مکان اور بدر کی صفائی اپرستوری پر رہائش عود وغیرہ خوشبودار چیزیں جلانا کچے کوئلے اور چونے جمع رکھنا اور گھر کو گرم رکھنا۔ از بس ضروری ہے مکان میں ہجوم تاریکی اور جس نہ ہو اور دروغ عقری پر و کردروازوں پر لٹکانا بھی مفید ہے اور مرہم عیسیٰ

بہت مفید ہے۔ بال پیدا نہ ہوں تو ہڑتال نیچے بیٹھ جائے تو تیل صاف کر کے استعمال کریں۔ حمل گرتا ہو تو یہ نسخہ دیں۔ مروارید اماشہ، درگلاب حل کردہ، عاقرقرح اماشہ، زنجبیل ۴ درم، مصطکی زربناد، درونج، کرفس شیطرح قاقلہ، جوڑ بوالسیاسہ قرفہ مکد ۲ درم، فلفل ۳ درم، دار فلفل ۳ م، دار چینی ۵ م، جدوار ۷ م، طباشیر ۵ م، مشک ۲ م، عود ۴ م، نبات سفید دو چند، خوراک حسب برداشت، بچہ کو پیٹ میں قائم رکھنے کے لئے یہ آبرن استعمال کرو۔ گل سرخ ۷ م، گلنار ۵ م، برگ خشک ۴ م، شب یمانی ۳ م، پوست انار ۳ م سب کو جو کو ب۔ کر کے دس سیر پختہ پانی میں جوش دیں۔ ۵ سیر رہ جائے تو وہ پانی کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں حاملہ کڈلائیں۔

### مبلغین قادیانیت

یوں تو ہر ایک قادیانی مبلغ بنتا ہے۔ مگر سر کردہ مبلغ یہ ہیں۔ سید سردر شاہ مفسر قرآن، سید امیر حسین مدرس اعلیٰ مدرسہ احمدیہ، محدث فقیہ اور پنجابی واعظ، میر محمد اسحاق مولوی فاضل، ایک ایک بات کو بار بار دہرانے والے حافظ روشن علی نائینا، مقرر و مباحث شیخ عبدالرحمان مصری مولوی فاضل ہیڈ ماسٹر مدرسہ احمدیہ نو مسلم تعلیم یافتہ مصر، مولوی اسماعیل حافظ حوالہ جات تحریرات مسیح فارسی دان خصوصی، مولوی فضل الدین وکیل ماہر تالیف، مولوی شیر نلی بی۔ ا۔ سابق ایڈیٹر ریویو اوف ریلیجیئس نائیب خلیفہ ثانی، بوقت ضرورت سادہ گو۔ میر قاسم علی ایڈیٹر فاروق، مناظر مہیب برائے ثناء اللہ و آریہ سماج، برجستہ اور پر زور اورخ گو۔ شیخ محمد یوسف (سکھ) ایڈیٹر نور نو مسلم مترجم قرآن بزبان گورکی و دیگر کتب۔ صوفی غلام رسول راجیکی، ماہر تصوف حافظ غلام رسول وزیر آبادی والد شہید مارشیش، عبید اللہ نائینا واعظ پنجابی، مفتی محمد صادق مبلغ انگلستان تالیفات سال ماہر علوم عیسوی۔ عبدالرحیم نیر مبلغ نا بحیر یا و افریقہ، چوہدری فتح محمد ایم۔ اے مبلغ انگلستان و ملگانہ، مولوی اللہ دتہ جالندھری مولوی فاضل مؤلف فقہیات ربانیہ، بجواب عشرہ مبشرہ، مولوی فاضل سادہ گوجالال الدین ٹمس سہوانی پیر و کار مقدمہ بہاولپور۔

### دس شرائط بیعت مسیح

مسیح احمدی جنتری ص ۱۱، ۱۸۲۶ء میں ہے کہ مرزا قادیانی کی بیعت کے شرائط یہ دس

۱۔ امور تھے۔

۱۔ ..... شرک سے تادم مرگ اجتناب۔

۲۔ ..... جذبات نفسانیہ اور فسق و فجور چھوڑنا۔

۳۔ ..... پنج وقتہ نماز حتیٰ المقدور تہجد و روض شریف و استغفار پر مداومت۔

.....۴ غیر کو ناجائز تکلیف نہ دینا خواہ فعلی ہو یا قولی۔

.....۵ عسر و یسر میں رضا بالقضاء۔

.....۶ قرآن وحدیث کو اپنے اوپر حاکم بنانا۔

.....۷ ترک کبر و نخوت۔

.....۸ ہمدردی حسبینہ اللہ اور خلق اللہ کو فائدہ پہنچانا۔

.....۹ اسلامی ہمدردی کو اپنے مال وجان سے زیادہ عزیز سمجھنا۔

.....۱۰ اس عاجز سے عقد اخوت باقرار اطاعت در معروف اور اس عقد میں لاثانی ہو کر دکھلانا۔

پھر (ص ۱۰) پر آپ کے نصائح لکھے ہیں کہ ظاہری بیعت کچھ نہیں۔ میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے اسے مت کھاؤ۔ دعاء کرو جو خدا کو قادر نہیں سمجھتا۔ جھوٹ اور فریب کو نہیں چھوڑتا۔ آخرت کو نہیں دیکھتا، قمار بازی بد نظری خیانت رشوت اور ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا۔ نماز کا پابند نہیں۔ برے رفیق کو نہیں چھوڑتا جو اس پر برا اثر ڈالتا ہے۔ والدین کی عزت نہیں کرتا۔ اہلیہ اور اقارب سے نرمی نہیں برتا۔ شرائط بیعت کو توڑتا ہے۔ مجھے فی الواقع مسخ موعود اور مہدی معبود نہیں سمجھتا۔ امر معروف میں میری اطاعت نہیں کرتا۔ مخالفوں کی جماعت میں بیٹھ کر ہال میں ہاں ملاتا ہے۔ خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا۔ فاسق زانی شرابی خونی چور قمار باز خائن مرتشی، غاصب ظالم دروغ گو، جلسا ساز اور ان کا ہم نشین اور اپنے بہن بھائیوں پر تہمت لگانے والا، میری جماعت سے نہیں ہے اور تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح سے بچ نہیں سکتے۔ پھر (ص ۳۶) پر آپ کا ایک مکالمہ لکھا ہے جو کسی صلح کل سے ہوا تھا۔

.....۱ خدا نے کافر و مسلمان کو یکساں حصہ بخشا ہے۔ ہاں سب کو ایک جیسے قوی دیئے ہیں۔

مگر ان کا صحیح استعمال اسلام کے سوا کسی دوسرے طریق پر ممکن نہیں۔

.....۲ ریل کا سوار گواہ میں ہے مگر پیدل بھی چلنے والے ہیں۔ مگر خدا سے ملنے کی صرف

ایک ہی راہ ہے جو اسلام ہے۔ کیونکہ اسی سے تزکیہ نفس اور یقین حاصل ہوتا ہے۔

.....۳ خدا بے انت ہے تو شرع کی پابندی سے بے انت کیسے حاصل ہوگا؟ شرع خدا سے

ملنے کی راہ کو کہتے ہیں تو پھر اسے کیوں چھوڑا جا سکتا ہے۔

.....۴ ذات پانت نہ پوچھے کو، ہر کو نبھے سو ہر کا ہو۔ ہاں خواہ کسی قوم کا ہو خدا کی راہ میں

اسلام کے بغیر نہیں چل سکتا۔

.....۵ پیروان ویدنے کسی شخص کی پیروی نجات کے لئے محصور نہیں رکھی تو مؤلف وید کی بھی پیروی نہ رہی تو ایسا آزاد اگر نجات پائے گا تو وید کی تعلیم بیکار ہوئی۔ اگر نجات نہیں پائے گا تو یہ مقولہ درست نہ رہا۔

.....۶ ہر مذہب میں صاحب کمال گذرے ہیں۔ مگر اب کوئی نہیں لیکھ رام ہی کو پیش کرو۔

### انجام مکذبین

غلام دستگیر قصوری، چراغ الدین جمونی، اسماعیل علی گڑھی، امریکن ڈوی، فقیر مرزا دوالمیالی، نور احمد بھڑی چٹھا، زین العابدین مولوی فاضل، حافظ سلطان سیالکوٹی، سکندر بیگ سیالکوٹی، رشید احمد گنگوہی، شاہدین لدھیانوی، مولوی عبدالعزیز، مولوی محمد عبداللہ لدھیانوی، محمد حسن بھینی، نذیر حسین دہلوی، رسل بابا امرتسری، عبدالرحمان لکھو کے، نور احمد و نور محمد ملتانی، عبدالعجید دہلوی، سعد اللہ لدھیانوی، فضل داد جنگوی، سومراج و بھگت رام آریہ و اچھر چند قادیانی، ابوالحسن منجگرائیں، فیض اللہ جنڈیالہ، عبداللہ آتھم، بابو الہی بخش ہلاک ہوئے مگر مولوی ثناء اللہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب و پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، فضل احمد لدھیانوی، عبدالحکیم سیالکوٹی، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیا لوی، عبدالحق غزنوی، محمد حسین بیالوی، جعفر زٹی لاہور، ظفر علی خان لاہور ایڈیٹر زمیندار، سید حبیب ایڈیٹر سیاست، مولوی محمد علی صاحب مونگیری، مرتضیٰ حسین صاحب در بھنگوی وغیرہ مکذب کے عذاب سے بچے رہے۔ اس لئے نظام دنیا کے عسرویسر کو اپنی طرف منسوب کرنا کمال خوش فہمی ہوگی۔ پھر یہ تاویلیں کرنا کہ ان کا باطن خوفزدہ تھا یا انہوں نے دعاء کی منظوری نہیں دی تھی اور بھی تعجب خیز ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی بددعاء سے آپ ہلاک ہوتا ہے تو مدعی صداقت میں کیا خوبی ہوئی۔ اس سے تو مسیح ایرانی ہی سخت جان نکلا کہ بغیر منظوری کے دشمن کے ہلاک ہونے کا ثبوت پیش کرتا تھا۔

### ۱۸..... اقتباسات کتاب ”الوصیۃ“ مصنفہ غلام احمد مسیح قادیان

مرزا قادیانی جب دنیا کو خیر باد کہنے لگے تو تین سال پہلے اپنا ایک وصیت نامہ شائع کر دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”چونکہ خدا نے وحی کے ساتھ میری عمر کو جڑھ سے ہلا دیا ہے۔ اس لئے وصیت کرتا ہوں کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ تیرے متعلق ہم ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جو (مخزیات) موجب رسوائی ہوں اور ایسے تمام اعتراضات دفع کریں گے جن سے تیری رسوائی ہوتی ہو۔ ہم قادر ہیں کہ مخالفین کے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں سے تمہیں کچھ



دکھائیں یا تجھے ماردیں تو اس حالت میں فوت ہوگا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا اور ہم تیرے لئے کھلے کھلے نشان ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے اپنے رب کی نعمت کا جو تجھ پر ہوئی ہے۔ لوگوں کے پاس بیان کر جو تقویٰ اختیار کریں خدا ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔“

مخزیات کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ رسوا کرنے والے اعتراضات ہم دفع کریں گے۔ دوم یہ کہ ایسی شرارت کرنے والوں کو جو شرارت اور بدذکر کرنے سے باز نہیں آتے ہم ان کو دنیا سے اٹھالیں گے اور صفحہ ہستی سے مٹادیں گے اور ان کی نابودگی سے اعتراضات خود بخود معدوم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر الہام ہوا کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی۔ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ حوادث سے مراد موت اور زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا۔ زندگی تلخ ہوگی۔ توبہ کرنے والوں پر خدا کا رحم ہوگا۔ راستوں کو کچھ غم نہیں اور نہ خوف۔ پھر کہا کہ تو میری طرف سے نذیر ہے۔ میں نے تجھے بھیجتا کہ مجرم نیکوں سے الگ کے جائیں۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا اور وہ بڑے زور آور حصلوں سے اس کی تصدیق ظاہر کرے گا۔ (لوگ دیکھتے تو معلوم ہو جاتا کہ میں صدی کے سر پر ظاہر ہوا۔ ربیع صدی چہار دہم بھی گذر گئی اور کسوف بھی رمضان میں ہوا۔ طاعون اور زلزلے بھی آئے اور آئیں گے۔ مگر دنیا کے پیاروں نے مجھے قبول نہ کیا) میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

(آئندہ زلزلہ کے متعلق کہا کہ)

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

(اس لئے زلزلہ شدید آئے گا مگر راست باز محفوظ رہیں گے) پس راست باز بنو تا کہ محفوظ ہو۔ کئی آفتیں آئیں گی۔ (مگر کچھ زندگی میں اور کچھ میری موت کے بعد) خدا میرے سلسلہ کو ترقی دے گا۔ کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد ہمیشہ سے "لا غلبنا اننا ورسلی" کا قاعدہ جاری ہے۔ (کہ خدا اور خدا کے رسول غالب رہیں گے) غلبہ رسل سے مراد یہ ہے کہ ان کی صداقت کے نشانات ظاہر ہوں۔ وہ صداقت کے تخم ریزی ان کے ہاتھ سے کراتا ہے۔ مگر تکمیل نہیں کراتا بلکہ ان کو وفات دے کر خائفین کو طعن و تشنیع کا موقعہ دیتا ہے۔ اس کے بعد دست قدرت سے جو کمی رہ گئی ہو پوری کر دیتا ہے۔ اس لئے جماعت کے لوگ تردد میں پڑ جاتے ہیں اور کئی مرتبہ بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ جیسا کہ عہد رسالت کے بعد عہد صدیقی میں ہوا تھا۔ پھر "لیمکنن لہم دینہم" پورا ہوا (کہ ہم ان کے دین کو غالب

کریں گے) حضرت موسیٰ بھی مصر اور کنعان کی راہ میں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے تھے اور بنی اسرائیل چالیس روز تک روتے رہے۔ واقعہ صلیب کے وقت بھی حواری تتر بتر ہو گئے تھے اور ایک مرتد بھی ہو گیا تھا۔

### قدرت ثانیہ

پس دو قدرتوں کا آنا ضروری ہوا اور دوسری قدرت جب تک میں ہوں ظاہر نہ ہوگی۔ اس لئے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ براہین میں ہے کہ اس جماعت کو قیامت تک غالب رکھوں گا جو تیرے پیرو ہیں۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں اور خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں۔ میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت کے انتظار میں دعاء کرتے رہو۔ تا وہ آسمان سے نازل ہو۔ چاہئے کہ میری جماعت کے بزرگ نفس میرے نام پر میرے بعد بیعت لیں۔ خدا چاہتا ہے کہ نیک فطرتوں کو یورپ اور ایشیاء سے توحید پر جمع کرے۔ جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اور جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب مل کر میرے بعد کام کرو۔ (چالیس آدمی جس پر اتفاق کریں وہ بیعت لے سکے گا۔ خدا نے کہا کہ تیری ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ سو تم منتظر رہو۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہو جیسا کہ ایک کامل انسان بھی پیش از وقت مظہر اور علقہ ہوتا ہے) طہارت قلبی اور ہمدردی سے روح القدس کا حصہ حاصل کرو۔ کیونکہ اس کے سوا تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا میں تنگ راہ اختیار کرو۔ اگر تم اس کے قریب آ جاؤ تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور تم راست بازوں کے وارث بن جاؤ گے۔ جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں۔

### حصول نبوت

خدا نے کہا ہے کہ تقویٰ ایک درخت ہے جو دل میں لگانا چاہئے وہ جڑ ہے اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ بالاک ہے جو دین کے ساتھ دنیا کی ملوثی رکھتا ہے۔ ورنہ وہ کیڑوں کی طرح ہلاک ہو جائے گا۔ اگر تم میں خدا نہیں تو تمہیں ہلاک کر کے خوش ہوگا۔ اگر تم نفس سے مر جاؤ گے تو خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور تمہاری حرکت و سکون خدا کے لئے ہو جائے گی۔ توحید کا اقرار عملی طور پر کرو کہ خدا بھی عملی طور پر انسان ظاہر کرے۔ کینہ داری چھوڑ کر بنی نوع کی ہمدردی اختیار کرو۔ قرب الہی میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا موقع ہے یہ خیال نہ کرو کہ تم

ضائع ہو جاؤ گے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا پھولے گا اور اس کی شاخیں پھیلیں گی۔ مبارک وہ ہے جو مصائب سے نہ ڈرے۔ کیونکہ ان کا آنا ضروری ہے اور صابر اخیر میں فتح یاب ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ایسا ایمان لائے جس میں دنیا کی ملوثی نہیں نفاق اور بزدلی سے بھی آلودہ نہیں اور اطاعت سے محرومی نہیں ایسے لوگ پسندیدہ ہیں۔ تم خدا کے ہو جاؤ۔ شریک نہ لاؤ۔ وہ زندہ ہے اب بھی بولتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بولتا تھا وہ تمثیل کے طور پر اپنے تئیں اہل کشف پر ظاہر کرتا ہے۔ غیر متشکل اور غیر مجسم عرش پر ہے۔ زمین پر بھی ہے۔ منبع جمیع صفات کاملہ ہے۔ منزہ عن العیوب ہے۔ اپنے تئیں نشانات سے ظاہر کرتا ہے اور راست بازوں پر ہمیشہ وجود ظاہر کرتا ہے۔ نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے منکر ہے اور اندھا ہے وہ جو اس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بغیر ان امور کے جو اس کی شان کے خلاف ہیں۔ اس کی طرف پہنچنے کا صرف ایک ہی دروازہ قرآن مجید ہے۔ باقی نبوتوں اور کتابوں کی الگ پیروی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ نبوت محمد یہ ان سب پر حاوی ہے۔ اس لئے اس پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور یہ نبوت فیض رسانی میں قاصر نہیں۔ اس کی پیروی خدا سے مکالمہ تک پہنچا دیتی ہے۔ مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی (یعنی مستقل نبی) نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ نبوت تامہ محمدیہ کی اس میں ہنک ہے۔ ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اس پر صادق آسکتے ہیں اور اس میں اس کی کوئی ہنک نہیں۔ بلکہ اس کے فیضان سے اس کی چمک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ (نبوت تشریحی کا دروازہ حضور ﷺ کے بعد بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں جو اسے منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے) جب انسان کا مکالمہ خدا سے مکمل ہو جاتا ہے تو نبوت کے خطاب سے موسوم ہو جاتا ہے۔ جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔ یہ ممکن نہ تھا کہ خیر الامم اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہ جاتی اور فیضان نبوت بند ہو جاتا۔ اس لئے نقائص کے رفع کرنے کے لئے خدا نے یہ شرف ایسے افراد کو بخشا جو نافی الرسول ہو گئے اور کوئی حجاب نہ رہا اور امتی بننے کا مفہوم اور پیروی کا معنی اتم اور اکمل درجہ پر ان میں پایا گیا۔ ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا۔ بلکہ ان کے محویت کے آئینہ میں حضور کا وجود منعکس ہو گیا اور دوسری طرف مخاطبہ الہیہ اور مکالمہ اتم اور اکمل طور پر نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا۔ پس اس طرح بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی کا خطاب پا لیا۔ لیکن اس فقرہ کا معنی ہے کہ: ”المسیح نبی الہیہ امامکم منکم“ یعنی وہ نبی بھی ہے اور امتی بھی۔ بیخ ناصری مرچکے ہیں۔

آیت توفیٰ میں مذکور ہے کہ خدا قیامت کو آپ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ شریکِ تعلیم (ستلیٹ پرستی) دی تھی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ میں جب تک ان میں رہا ان کا نگہبان تھا۔ اب وفات کے بعد مجھے کیا علم تھا کہ وہ کس ضلالت میں مبتلا ہوئے۔ اب اگر کوئی چاہے تو یہ معنی کرے کہ جب تو نے مجھے جسمِ عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھالیا۔ مگر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ورنہ یہ ممکن نہیں کہ خدا کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے۔ کیا جو شخص دوبارہ دنیا میں آئے اور چالیس برس عیسائیوں سے لڑائی کرے تو نبی کہلا کر ایسا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں اتریں گے تو کیا ان کی قبر آسمان پر بنے گی؟ جو ”فیہا تموتون“ کے خلاف ہے۔ اب کتاب اللہ کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نہ آیا ہوتا تو یہ غلطی قابلِ معافی تھی۔ مگر جب قرآن کے معانی کھل گئے تو غلطی کو نہ چھوڑنا ایمان داری کا شیوہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں میرے نشان ظاہر ہو چکے ہیں تو اب بھی حق کو قبول نہ کرنا سخت دلی ہے۔ نشان ابھی ختم نہیں ہوئے۔

### صداقت کے نشان اور زلزلے

۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو جو زلزلہ میری پیشین گوئی کے مطابق آیا تھا۔ اس کے بعد اور زلزلوں کی خبر مجھے دی گئی ہے کہ بہار کے موسم میں ایک اور زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ بہار کا آغاز ہوگا یا درمیان یا اخیر۔ چونکہ اخیر جنوری سے پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جنوری سے اخیر مئی تک خزاں کے دن ہوں گے۔ (اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ بہار سے مراد کون سی بہار ہے۔ بہر حال بہار کا ہونا ضروری ہے خواہ کوئی ہو) یہ بھی الہام ہوا:

..... ۱ ”الزلة الساعة“

..... ۲ ”لك نرى آيات ويهدم ما يعمرون“ (یعنی وہ قیامت کا نمونہ ہوگا اور تیرے لئے ہم نشانات دکھلائیں گے اور عمارتیں بناتے ہیں ان کو گراتے جائیں گے)

..... ۳ بھونچال آیا اور شدت سے آیا زمین تہ و بالا کر دی۔ (یعنی زمین کے بعض حصوں کو تہ و بالا کر دے گا۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا)

..... ۴ ”انسی مع الافواج اتیک بغتة“ (یعنی پوشیدہ طور پر فوجوں کے ساتھ آؤں گا۔ کیونکہ گناہ حد سے بڑھ گیا ہے اور لوگ دنیا سے پیار کر رہے ہیں اور خدا کی راہ بنظر

تحقیر دیکھتے ہیں) ۱

.....۵ زندگیوں کا خاتمہ۔

.....۶ ”انہ نازل من السماء ما یرضیک رحمة منا وکان امرأ مقضیاً“ (یعنی

ایک امر آسمان سے اترے گا۔ جس سے تو خوش ہو جائے گا اور ضرور ہے کہ آسمان

اس کے نازل کرنے سے رکا رہے۔ جب تک یہ پیشین گوئی شائع نہ ہو جائے)

کون ہے جو ہماری باتوں پر ایمان لائے۔ بجز اس کے جو خوش قسمت ہو۔ ہماری نیت

ان (چھ) الہاموں سے موت نہیں بلکہ بچاؤ ہے جو توبہ کریں گے بچ جائیں گے۔ مگر جو مخلول کرتا

ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس کی ہلاکت قریب ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ خدا نے میری وفات

کی خبر دے دی ہے کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے

کے بعد تیرا حادثہ آئے گا۔ پس ضرور ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا میں کچھ حوادث پڑیں تاکہ

دنیا انقلاب کے لئے تیار ہو جائے۔

بہشتی مقبرہ

پھر میری وفات ہو مجھے میری قبر کی جگہ دکھائی گئی ہے۔ جو چاندی سے زیادہ چمکتی تھی

اور اس کی مٹی تمام چاندی کی تھی اور کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ ایک اور جگہ دکھائی گئی اور اس کا نام

بہشتی مقبرہ رکھا گیا کہ اس میں بہشتیوں کی قبریں ہیں۔ تب سے مجھے فکر تھی کہ ایک قطعہ زمین

قبرستان کے لئے خریدا جائے۔ مگر چونکہ موقعہ کی زمین زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لئے یہ امر ملتوی

رہا۔ جب مولوی عبدالکریم کی وفات کے بعد میری وفات کی خبر آئی تو بہت جلد انتظام کرنا پڑا اور

اپنی ملکیت کی زمین جو ہزار روپیہ سے کم نہیں اور میرے باغ کے قریب ہے اس کے واسطے تجویز

کر لی۔ میری دعاء ہے کہ خدا اسی کو بہشتی مقبرہ بنائے اور میری جماعت میں سے ان لوگوں کی

خواہ گاہ ہو کہ جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم سمجھا ہے اور ان میں پاک تبدیلی آگئی ہے اور صحابہ کی

طرح صدق اور وفاداری کا نمونہ ہیں۔ اے میرے خدا میری جماعت میں سے ان لوگوں کی

قبریں بنا جو تیرے لئے ہو چکے ہیں۔ ان کو صرف یہ جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان

رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور بدظنی اور غرض نفسانی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ (بدظنی آگ کی طرح

ایمان کو کھا جاتی ہے جو خدا کے مرسلوں پر بدظنی کرتا ہے خدا اس کا دشمن بن جاتا ہے۔

چنانچہ مجھے فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور جو اسے برا جانتا ہے میں

بھی اسے برا جانتا ہوں۔ میں تجھے وہ دوں گا جو تیرے لئے آسمان پر رتبہ بڑھائے اور ان لوگوں میں جو دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تو اسی مقبرہ میں مفسدوں کو جگہ دے گا۔ نہیں میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جلدی نہ کرو خدا کا حکم آچکا ہے۔ ڈرو مت۔ رسول نہیں ڈرتے۔ یہ بشارت ہے جو انبیاء نے حاصل کی تھی۔ اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے تو میری توحید و تفرید کی جگہ ہے اور تو میرے ہاں اس مرتبہ میں ہے کہ لوگ اسے نہیں جانتے) یہ مقبرہ ان کے لئے ہے جو تیرے لئے اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ تیری محبت میں کھوئے گئے ہیں اور تیرے فرستادوں سے وفاداری ادب کامل اور انشراحى ایمان سے محبت اور جانفشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف بہشتی مقبرہ ہی نہیں ہے بلکہ اہل کے متعلق یہ بھی الہام ہوا ہے کہ: ”انزل فیہا کل رحمة“ (یعنی کوئی ایسی رحمت نہیں کہ جس میں سے اس کو حصہ نہیں ملا) اس لئے میرا دل بذریعہ وحی خفی اس طرف متوجہ ہوا ہے کہ چار شرطیں لگا دوں۔

اول ..... یہ کہ امیدوار حسب حیثیت چندہ داخل کریں۔ جس کا مقصد اشاعت اعلیٰ کلمہ توحید ہوگا۔ ایک ہزار روپیہ کی زمین دے چکا ہوں اور ایک ہزار روپیہ کی اور زمین بھی اس میں شامل کرنا ہے اور ایک ہزار روپیہ پل بنوائی اور درخت لگوائی کے لئے بھی درکار ہے۔ تو یہ حکیم نور الدین کے پاس جمع رہے گا اور میرے مرنے کے بعد ایک جماعت کے قبضہ میں دیا جائے۔ جو اشاعت توحید پر خرچ کرتی رہے۔

دوم ..... یہ کہ امیدوار اپنی حیات میں اپنی کل جائیداد کا دسواں حصہ بطور وصیت لکھ دے جو تبلیغ احکام قرآن اشاعت اسلام پر، پرورش ایام و مساکین اور نو مسلموں کی امداد اور باقی مصالح اسلام پر خرچ ہوگا۔ جن کی تفصیل قبل از وقت مشکل ہے اور یہ جائز ہوگا کہ انجمن اس کو ترقی دینے کے لئے تجارت میں خرچ کرے اور مجھے خطرہ ہے کہ کثرت اموال کی وجہ سے کہیں تم دنیا سے پیار نہ کرنے لگ جاؤ۔

سوم ..... یہ کہ امیدوار متقی، محرّات سے مجتنب، شرک و بدعت سے کنارہ کش اور سچا سادہ مسلمان ہو۔

چہارم ..... یہ کہ جو مفلس اسلام پر جان قربان کر چکا ہو۔ بشرطیکہ اس کا ثبوت مل جاوے۔ داخل کیا جائے گا اور ہدایات مفصلہ ذیل بھی واجب التعمیل ہیں۔

..... گو وصیت پر عملدرآمد بعد موت میں ہوگا مگر ابھی سے انجمن کی طرف سے اخبارات میں اس کا شائع کرنا ضروری ہوگا۔

.....۲ بیرونی امیدوار کی لاش صندوق میں بند کر کے روانہ کی جائے۔ کیونکہ قبر سے لاش نکالنا مناسب نہیں۔ (یہ بدعت نہ سمجھو کیونکہ یہ وحی الہی کا حکم ہے اور یہ مقبرہ کسی کو بہشتی نہیں بناتا۔ بلکہ بہشتی اس میں آتے ہیں) اللہ کا ارادہ ہے کہ ایسے تمام آدمی اس میں یکجا جمع ہوں۔ اس کی اشاعت کرو۔ آئندہ نسلوں کے لئے اسے محفوظ رکھو اور مخالفین کے لئے بھی تبلیغ کرو اور بدگوئی کی بدگوئی پر صبر کرو۔

### تنقیدات

اس میں شک نہیں کہ مسیح قادیان نے اپنے آپ کو انبیاء کی صف میں لاکھڑا کر دیا ہے۔ مگر جو دلائل دیئے ہیں وہ اہل اسلام کے نزدیک مخدوش ہیں۔ کیونکہ:

اول..... ”امامکم منکم“ اور ”المسیح نبی اللہ“ کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ ورنہ اہل اسلام کے نزدیک تو یہ معنی تھا کہ امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ میں سے ہوں گے اور مسیح علیہ السلام نبی اللہ نازل ہو کر چالیس سال حکومت کریں گے۔ اس لئے یہ تحریف قابل التفات نہیں۔

دوم..... یہ بھی غلط ہے کہ فیضانِ نبوت محمدی سے کئی لوگ انعکاسی نبوت پر پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ خیر القرون میں بھی کوئی ایسا تابعِ کامل نہیں پایا گیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ ہاں شطیحاتِ صوفیاء میں ایسے بیانات ضرور پائے جاتے ہیں کہ جن میں وہ مظہر رسالت کے مدعی نظر آتے ہیں۔ مگر تاہم ان کو یہ حوصلہ نہیں پڑا کہ اپنی نبوت کسی سے منوائیں اور اپنے منکر کو کافر غیر ناجی اور ناپاک قرار دیں۔ کیونکہ شطیحاتِ صوفیاء کو اسلام میں دخل نہیں ہوتا اور اس طرح کے بیانات امت محمدیہ کے لئے فتنہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی کئی لوگ پیر پرستی میں ڈوب کر مشرک بن گئے اور کئی ایک جاہل اپنے پیر کو خدا تک اڑالے گئے۔ جن کا خمیازہ آج تک اہل اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وحدت و جودی بروز رسالتِ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا یہ مطلب جو مرزا قادیانی نے یا دوسرے ناعاقبت اندیش صوفیاء نے پیش کیا ہے۔ محققین اسلام نے اس کو تاسخ رجعت اور شرک فی الرسالۃ یا شرک فی الالوہیۃ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی باتیں اسلام کے

علاوہ ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے تصوف میں بھی مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں اور وہ بھی اوتار اور مظہر الہی بن کر اپنی پوجا کراتے ہیں۔ بہاء اللہ اور باب نے بھی اسی قسم کی بے ثبوت باتیں پیش کر کے اپنے آپ کو مظہر الہی مظہر نبوت اور مظہر امامت پیش کیا تھا اور مرزا قادیانی بھی دہی چال چلے ہیں تو اب اگر مرزا قادیانی ان لایعنی باتوں سے نبی بن سکتے ہیں تو بہاء اللہ وغیرہ بھی نبی بلکہ امام الزمان اور مظہر الہی بننے کے حقدار ہیں۔

سوم..... یہ بھی غلط ہے کہ امت محمدیہ میں اگر کوئی نبوت کے درجہ تک نہ پہنچے تو اس کو خیر الام کا خطاب نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ اسی دلیل سے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر مخلوق الہی میں سے کوئی درجہ الوہیت تک نہ پہنچ جائے تو اس کو احسن تقویم کا خطاب نہیں مل سکتا اور نہ ہی یوں کہا جاسکتا ہے کہ: ”ان اللہ خلق آدم علی صورته“ اصل بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کو خیر الام کا خطاب قرآن مجید کی رو سے اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کا ہر ایک فرد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا ہے اور اس لئے بھی کہ یہود و نصاریٰ کے باہمی مناقشات کو رفع کر کے اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ انبیائے سابقین پیش کردہ قرآن شریف کو بنظر تحسین دیکھ کر تصدیق کرے اور اس لئے بھی اسے خیر الام کہا گیا ہے کہ خیر المرسلین کی امت ہے اور لمتہ وسط کا طغرا بھی اس کے سر پر ہی چمک رہا ہے اور اس لئے بھی کہ اس میں ایسے اہل علم کا ہونا قرار پایا ہے جو تبلیغی امور میں وہی کام کرتے ہیں جو پہلے نبی کرتے تھے۔

چہارم..... یہ بھی غلط ہے کہ ایک امتی اپنے رسول سے متحد فی الوجود بن جاتا ہے اور خدا سے کامل مکالمہ کا شرف حاصل کرتا ہے اور جس میں یہ دونوں صفات موجود ہو جائیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ ان کا ثبوت قرآن وحدیث سے نہیں ملتا اور نہ ہی واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ انہی خیالی اصول پر تو بہاء اللہ اور باب کی مخالفت کی گئی تھی۔ مرزا قادیانی نے بھی آخر وہی چقمہ دے کر اپنی نبوت منوانے کی ٹھان لی۔ اب اہل علم کے لئے یہ مشکل ہے کہ وہ کس دلیل سے ایک کو چھوٹا کہیں اور دوسرے کو سچا۔

۵..... یہ کہنا بھی اصول اسلام میں نہیں ملتا کہ قدرت ثانیہ کا ظہور ہوگا۔ حقیقت میں یہ وہی بات ہے جو بہاء اللہ نے کہی تھی کہ نبوت ایک حقیقت ہے۔ بار بار اسی ایک کا ظہور ہوتا ہے اور نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہی ظہور شیعہ کے نزدیک رجعت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور



مرزائی تعلیم میں قدرت ثانیہ کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے اور ہندو اسی کو اوتار کہتے ہیں اور اہل تاسخ اسی طرز پر تاسخ کا ثبوت دیتے ہیں۔ مگر اسلام ان سب کے مخالف ہے۔ کیونکہ عہد رسالت سے کوئی ایسی تصریح موجود نہیں ہے کہ جس میں حضور ﷺ نے خود بھی کہا ہو کہ میں بطور رجعت یا بروز اور قدرت ثانیہ بن کر آؤں گا۔ کیا حضور ﷺ سے بڑھ کر کوئی دعویٰ دار ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایچ بیچ لگا کر قرآن وحدیث سے بروز یا رجعت اور تاسخ کا ثبوت دے دیا ہے۔ لیکن ایسی تشریحات کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں اسلام جواب دہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے محرف پیدا ہوتے ہیں تو اصل اسلامی تعلیم پر قائم رہنے والے ہر طرف سے ان کی تردید پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

۶..... بہشتی مقبرہ کی زمین واقعی چاندی کی ہے۔ کیونکہ بہت قیمت پر بکتی ہے اور امیدوار کو دو بالشت چوڑی اور اڑھائی گز لمبی زمین معہ کتبہ ملتی ہے۔ جس کی قیمت کم از کم جاسیدا کا عشر (دسواں حصہ) ہوتا ہے اور جن کی لاش وہاں نہیں پہنچتی ان کا کتبہ لکھ کر نصف قبری زمین پر لگا دیتے ہیں اور سب قبریں ایک قطار میں آپ کے رشتہ دار اور خلفاء کا داخلہ ہوتا ہے۔ چاروں طرف دیوار اٹھائی گئی ہے۔ مسج کی قبر پر بھی ایک کتبہ لکھا ہوا ہے۔ گنبد کسی پر نہیں، چار دیواری میں مغرب کی طرف صرف ایک دروازہ ہے۔ جس میں مرزائی داخل ہو کر قبر مسج پر ”اللہم صل علی عبدک المسیح“ پڑھتے رہتے ہیں۔ مقبرہ کے چاروں طرف چار مربع کنال میں زیبائشی پودے لگے ہوئے ہیں۔ مغربی مربع قبروں سے آباد ہو چکا ہے۔ مشرقی مربع نصف تک آباد ہو رہا ہے۔ جنوبی اور شمالی دو مربع ابھی خالی پڑے ہیں۔

دوسری خلافت تک ابھی سارا مقبرہ پر نہیں ہوا۔ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قبر فروشی سے آمدنی کی توقع ہو سکتی ہے۔ مقبرہ کے مغرب میں آموں کا باغ ہے جس میں مرزا قادیانی معہ خاندان کے چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ جس کے جنوب میں پرانی وضع کے ایک دو کمرے بھی کھڑے ہیں۔ جن میں آپ استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ مقامات مقدسہ میں شامل ہیں۔ معلوم نہیں اس باغ کے آم کس تقدس سے فروخت ہوتے ہوں گے؟ کیونکہ تہ زمین میں بہشت دفن شدہ بتایا جاتا ہے۔ بہر حال یہ قبر فروشی ایک ایسی تجارت ہے کہ جس سے وہ جو ہڑکا کنارہ جو کسی وقت بالکل ویران پڑا ہوا تھا۔ سونے سے تل کر بک رہا ہے۔ مگر اس کی نظیر کسی نبی کے

مقبرہ میں نہیں ملتی۔ کیونکہ ان کے ہاں جنت صرف اعمال صالحہ سے ملتا تھا۔ مگر اب جنت فروشی کا وقت آ گیا ہے۔ مالدار کے سوا کون لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقبرہ کے مشرقی طرف دو سو قدم کے فاصلہ پر شمال سمت میں غریب مرزائیوں کا قبرستان بری حالت اور سادہ منظر میں چراغ و گل تیار کیا ہوا ہے۔ جس میں ابھی آبادی بہت کم ہے اور اس کے جنوب میں لاہوری پارٹی کا قبرستان ہے جو بالکل ہی کم آباد ہے۔ کیونکہ ان کی جنت فروشی نہیں چل سکی۔

۷..... دورانِ دلش مرزائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قبر مرزا کی تعظیم قبر پرستی اور شریکہ استمداد اور عورتوں کی نذر نیاز تک پہنچ چکی ہے۔ چند برس کے بعد باقاعدہ طور پر اس بت کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ گدی نشین دوسری تیسری پشت میں صرف شکم پرور ہی رہ جاتے ہیں۔ سالانہ میلہ ۲۷، ۲۸، ۲۹ دسمبر کو بلاناغہ بڑی شد و مد سے لگتا ہے۔ جس میں گدی نشین کو چڑھاوے بہت ملتے ہیں اور نذر و نیاز کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں۔

۸..... مسیح قادیانی کی وفات اگرچہ ممسی میں تھی۔ مگر وہ گویا اپنا عرس حکومت کو خوش کرنے کے لئے دسمبر میں ہی کیا کرتے تھے اور اس وقت گویا وہ زندہ پیر کا عرس تھا اور اب مردہ مسیح کا عرس بن گیا ہے۔ مگر دوسرے مزاروں کی طرح اس مزار کے ارد گرد ایصالِ ثواب کے لئے نہ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا گیا ہے نہ وضو اور طہارت بدنی کے لئے مسجد حوض اور سبیل کا انتظام ہے۔ بلکہ دور سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا قبرستان ہے۔ وہی ترتیب وہی درخت وہی قبریں کھودی ہوئیں موجود اور وہی قبروں کی قطاریں اور وہی پتھر کے کتبے اور ہونا بھی یونہی چاہئے تھا۔ کیونکہ آخر وہ عیسیٰ ابن مریم تھے اور اپنے مریدوں کو بنی اسرائیل یعنی یہودی کہہ چکے تھے۔ مقبرہ میں اگر عیسائیت کا بروز نہ ہوتا تو وہ عیسیٰ کیسے رہ سکتے تھے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ دہلی عیسائی ہیں اور وہ ولایتی۔

۹..... شرائط بیعت میں داخل ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ مگر ناظرین کو معلوم رہنا چاہئے کہ دین سے مراد شریعت مسیحی ہے۔ جس کے سامنے شریعت محمدیہ عملی طور پر مؤخر کی جاتی ہے۔ ۱۹۳۳ء میں ان کا عرس رمضان شریف کے پہلے ہفتہ میں منایا گیا تھا۔ ایام عرس میں سب مرزائی تارک صوم تھے۔ کیونکہ بیرونی مہمان مسافر تھے۔ جن کے متعلق شریعت مسیحائی کا حکم تھا کہ کوئی روزہ نہ رکھے اور باشندگان قادیان چونکہ مصروف مشاغل عرس تھے۔ اس لئے ان کی افطاری

بھی ضروری تھی۔ سنن و نوافل سب بالائے طاق فرائض تھے تو وہ بھی نصف یا پانچوں وقت کے ایک دفعہ ہی ادا کئے جاتے تھے۔

۱۰..... مرزائیوں کے نزدیک یہ تین دن کا عرس ایام حج بیت اللہ شمار ہوتے ہیں۔ قادیان ارض حرم بن جاتی ہے۔ تیسری شب کو پنڈال میں خلیفہ خطبہ دیتا ہے اور جب اپنی اپنی حاجات کی درخواستیں پیش کرتے ہیں اور دیر تک اہل کنیسہ کی طرح بیٹھ کر میز کرسی لگائے ہوئے دیر تک دست بد عار ہتے ہیں۔ گویا پنڈال میدان عرفات کا بروز ہوتا ہے۔ جس میں مرزائی داخل ہو کر حاجی ہونے کی بجائے قدوسی کا خطاب حاصل کر لیتے ہیں اور محمد علی باب کی سنت زندہ کر کے اپنے آپ کو بابیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔


۱۱..... اس جلسہ پر خورد و نوش کا انتظام انجمن احمدیہ کے سپرد ہوتا ہے اور لنگر خانہ میں تقریباً تین سو آدمی کی خوراک ان دنوں تیار ہوتی ہے جس کے لئے فراہمی چندہ کی کفالت کافی ہو جاتی ہے۔ خلیفہ صاحب اپنی زیارت گاہ میں بیٹھ کر نذرانے وصول کرتے ہیں اور پہلی تقریر میں مزید چندہ کی اپیل سناتے ہیں اور آخری تقریر کے بعد دعاء سے جلسہ برخاست ہوتا ہے۔ ایام حج کی طرح ان دنوں مخالفین کو بھی کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں اور ہر ایک کو موقعہ دیا جاتا ہے کہ قادیانیت کے اثرات سے بہرہ ور ہو کر داخل بیعت ہو سکے۔

۱۲..... مطبع اپنا ہے اخبار ”الفضل“ زیر نگرانی خلیفہ جاری ہے۔ ”فاروق“ میر قاسم علی کے ماتحت ہے۔ ”النور“ محمد یوسف کے ماتحت شائع ہوتا ہے۔ ”المصباح“ عورتوں کے لئے مخصوص ہے۔ لاہوری پارٹی نے صرف ”پیغام صلح“ جاری کر رکھا ہے۔

۱۳..... مسیح کے عہد میں ”البدر“ اور ”حکم“ جاری تھے۔ مگر اب ان کا اجراء ملتوی کیا گیا ہے اور اس کی بجائے ”تشہید الاذہان“ سکول کی طرف سے ایام تعلیم میں خلیفہ نے جاری کیا تھا جو اب تک جاری ہے۔ ”ریویو آف ریلیجز“ مسلسل چل رہا ہے جس میں تمام مذاہب پر تنقید کی جاتی ہے۔ لاہوریوں نے اس کے مقابلہ پر ”لائٹ“ ماہواری جاری کیا ہوا ہے۔

۱۴..... اگلے صفحہ پر قادیان کا نقشہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین اپنے آپ کو منارۃ المسیح میں کھڑے سمجھ کر چاروں طرف نظر دوڑائیں۔

نقشه یرودم پنجاب قادیان



اس نقشہ کے متعلق تفصیلات ذیل ملاحظہ ہوں۔

۱..... دفتر الفضل سے یہ اخبار بھی شائع ہوتے ہیں۔

☆..... سن رائز۔ ☆..... مصباح النسوان۔

☆..... تشیخ الاذہان۔ ☆..... بدر۔

☆..... حکم، سر دست بند ہیں۔

۲..... دفتر امور عامہ میں یہ عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں۔

☆..... نظارت امور خارجیہ۔ ☆..... نظارت امور داخلیہ۔

☆..... نظارت امور اعلیٰ۔ ☆..... نظارت امور عامہ۔

☆..... محکمہ قضا و قدر۔ ☆..... نظارت دعوت و تبلیغ۔

☆..... بیت المال۔ ☆..... احمدیہ ٹریڈنگ کمپنی۔

☆..... نظارت تربیت یتیمی و مساکین۔

۳..... دارالبرکات میں مرزا قادیانی کو الہام ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک بالا خانہ ہے جو

بالکل پرانی وضع کا اب تک موجود ہے۔ اس کے متعلق الہام ہے کہ جو شخص یہاں آ کر دعاء کرے گا

منظور ہو جائے گی۔ خاص خاص مریدوں کو وہاں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ بقول شخصے وہاں کچھ

نذر و نیاز بھی پیش کرنی پڑتی ہے۔ کمرے کے درمیان ایک چھوٹا سا ستون اینٹوں کا بنا ہوا نظر آتا

ہے۔ اس کے اوپر لکڑی کا ایک ٹب پڑا ہوا ہے اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ جو خاک شفا کے

قادیان سمجھی جاتی ہے۔ واپسی کے وقت اس میں سے تھوڑی سی مقدار تیر کا عنایت ہوتی ہے۔ جس

کو مرید خاک شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس ٹب میں پانی بھر دیتے ہیں اور اس پانی

کو لوگ آب زم زم کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کبھی خشک مٹی الگ رکھتے ہیں اور پانی الگ۔

لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس مٹی اور پانی کا مطلب کیا ہے؟

۴..... منارۃ المسیح کی مسجد اقصیٰ ہے۔ حرم سرا کے ملحق مکانات کی مسجد مبارک

ہے۔..... الاسلام ہائی سکول کی مسجد نور ہے اور قادیان کو دمشق کا خطاب دیا جاتا ہے۔ خود

مرزا قادیانی مسیح ہیں۔ آپ کی امت بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی ہیں۔

۵..... منارۃ المسیح مرزا قادیانی کی زندگی میں شروع ہوا تھا۔ سنگ بنیاد رکھنے میں

بہت سارو پیہ صرف ہوا۔ زمین سے دو تین گز کی بلندی تک پہنچا کر آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کے

بعد پہلی خلافت میں مکمل کر دیا گیا۔ دوسری خلافت نے اس پر کلاک لگایا اور سنگ مرمر کے پلستر

سے اس کو المنارة البیضاء شرقیہ دمشق یعنی قادیان کا سفید منارہ بنا دیا اور یہ مینار اندرونی سیڑھیوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ عموماً اذان اسی کے اوپر چڑھ کر دی جاتی ہے اور یہ اپنی قد و قامت میں ترنارن کے مینار سے کم نہیں۔ یہ اس لئے نصب کیا گیا ہے کہ قادیان دور سے معلوم ہو اور مرزا قادیانی کے مقامات مقدسہ کا دور سے ہی پہچل جائے۔ بقول شخصے اپنی ترقی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ گویا دوسری خلافت میں مرزائیت پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ مسج خود مینار بنائے گا۔ کیونکہ اس پیشین گوئی سے یہ مطلب ہے کہ مسج ایک نورانی جگہ میں پیدا ہوگا۔ (خوب بہت خوب)

۱۵..... بہشتی مقبرہ اور گاؤں کے درمیان ایک جوڑتین قد آدم گہرا چالیس قدم عرض میں واقع ہے۔ جس میں تمام ہستی کی گندگی گرتی ہے اور تعفن اس قدر ہے کہ گویا وہ نہر عسلین یا نہر عساق ہے جو قادیان کو مشرق جنوب اور مغرب سے محیط ہے۔ شمال سے بھی محیط تھی۔ مگر اب وہاں بھرتی ڈال دی گئی ہے۔ گویا یہ دوزخ ہے جس پر پختہ پل باندھا گیا ہے اور پل کی سڑک کو وسیع کر کے رہائشی مکان بھی اہل اعراف کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ نو وارد پل صراط سے گذرتا ہے تو ناک بند کر کے گذرتا ہے۔ مگر وہاں کے اصحاب النار اس تعفن سے عادی ہو چکے ہیں۔ اسے عبور کر کے آموں کے باغ دیکھو گے اور بائیں طرف مڑ کر بہشتی مقبرہ پاؤ گے۔

۱۶..... پچھلے بیان سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم اسٹیشن سے چل کر اسلامیہ سکول کو ہوتے ہوئے بہشتی مقبرہ تک نصف دائرہ کا چکر کاٹ چکے ہیں تو اس نصف دائرہ کے مرکز میں خالی میدان پڑا ہوا ہے۔ جس میں مہاجرین زمین کے ٹکڑے خرید خرید کر انگریزی طرز پر مکان بنا رہے ہیں۔ بہشتی اور اسٹیشن کے درمیان اسی حصہ کے اندر دو چار سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ جن میں مہاجر رہتے ہیں۔ یا مہاجرین کی صنف نازک کی بود و باش ہے جو مدرستہ النبات میں داخل ہیں۔ صبح سیر کو نکلتو صنف نازک اپنے بنگلوں سے نکل کر مشرق کی طرف کھیتوں میں دور تک سیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور واپسی کے وقت مزار مسج کی زیارت اور پرستش سے فارغ ہو کر برقعہ پوش لشکر کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جس میں حرم سرا کا برقعہ سیاہ فام ہوتا ہے اور باقی سپید رنگ ہوتے ہیں اور اندرون پردہ نیو فیشن کے نشان ملتے ہیں۔ سیر کے بعد خلیفہ صاحب ایک بڑے ہال میں صنف نازک کو بر ملا قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور باقی تعلیم استانیوں کے سپرد ہے۔ جس کا انتظام میر قاسم علی کرتے ہیں۔

۱۷..... سالانہ جلسہ کے موقعہ پر خلیفہ صاحب کی وساطت سے مریدوں کے نکاح

وطلاق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ایام میں محکمہ قضاء الگ کھلا رہتا ہے۔ جس میں خلیفہ کی زیر نگرانی قاضی جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نئی آبادی کی خرید و فروخت کا محکمہ بھی اسی قضاء خانہ کی ایک شاخ ہے جو مرید قطعہ اراضی خرید کرتا ہے۔ اس سے قیمت وصول کر کے یہ شرط لکھا لیتے ہیں کہ کسی غیر احمدی کے پاس یہ جائیداد فروخت نہ ہوگی۔ بہر حال کسی دن یہ حارۃ المہاجرین قادیان کو ایک شہر کی حیثیت میں لے آئے گا۔

## ۱۹..... مسیح قادیانی کی وفات

یہ مسئلہ آج تک طے نہیں ہوا کہ مسیح قادیانی کی موت کیوں ہوئی؟ مخالفین کے نزدیک ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیشین گوئی یا پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری قبلہ کی بددعاء کارگر ہوئی تھی اور یا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری سے مباہلہ رنگ لایا تھا۔ مگر آپ کے مرید کہتے ہیں کہ آپ کو خود اس طرح کے الہام ہو چکے تھے کہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو وفات ہو جائے گی۔ چنانچہ ریویو نمبر ۶، ۷ جلد سوم میں خلیفہ محمود نے بعنوان ”مسیح محمد کے دشمنوں کے سوالوں کے جوابات“ لکھا ہے کہ:

اول..... آپ کو خواب میں جب مولوی عبدالکریم سیالکوٹی دکھائی دیئے تو آپ نے کہا کہ دعاء کرو تبلیغ کے لئے کافی عمر مل جاوے۔ مگر مولوی صاحب نے سینہ تک ہاتھ اٹھا کر صرف یہ کہا تھا کہ: ”اکیس سال“ تو آپ تبلیغی عمر اکیس سال پا کر مر گئے۔ کیونکہ ۱۸۸۸ء مطابق جمادی الاول ۱۳۰۶ھ میں آپ نے بیعت کا اعلان کیا تھا اور ۱۹۰۸ء میں مر گئے اور سینہ تک ہاتھ اٹھانے کا بھی یہی مطلب تھا کہ تبلیغ ناقص رہے گی۔

دوم..... یہ بھی ردیاً ہے کہ کوری ٹنڈ میں مجھے پانی دیا گیا۔ باقی صرف دو تین گھونٹ رہ گیا۔ مگر تھا بہت صاف۔ پھر الہام ہوا کہ اب زندگی؟ تو اسی کے مطابق اڑھائی سال بعد آپ کا انتقال ہوا۔

سوم..... ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء الہام ہوا کہ: ”علم الدرمان“ (علاج کا علم) ۲۲۳۔ مطلب یہ تھا کہ ۱۵ اکتوبر سے ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء تک ۲۲۳ دن ہوں گے۔ جیسا کہ اس تشریح سے معلوم ہوتا ہے۔ (ایام ۱۶ اکتوبر، ۳۰ نومبر، ۳۱ دسمبر، ۳۱ جنوری ۱۹۰۸ء، ۲۹ فروری، ۳۱ مارچ، ۳۰ اپریل، ۲۵ مئی) میزان کل ۲۲۳۔ یہ حساب ایک سال بعد شروع ہوا تھا تاکہ فروری ۲۹ دن کا حاصل ہو جائے۔

چہارم..... ۱۸ ستمبر ۱۸۹۳ء کو الہام ہوا: ”داغ ہجرت“ یعنی تیری وفات گھر سے باہر

کسی اور جگہ ہوگی۔ ۲۰ فروری ۱۹۰۷ء کو الہام ہوا کہ افسوس ناک خبر آئی اور انتقال ذہن لاہور کی طرف ہوا۔

چشم ..... ۲۰ مارچ ۱۹۰۷ء کو الہام ہوا کہ: ”انما یرید اللہ“ ہے تو بھاری مگر اے خدا اس امتحان کو قبول کر۔ اے میرے اہل بیت خداتم کو محفوظ رکھے تو وہ ہے جس کی روح میری طرف اڑ آئی ہے۔ کیا تم کو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ مر جاؤ گے۔ ان کی لاش کفن میں لپیٹ کر لائے ہیں۔

ششم ..... ۲ دسمبر ۱۹۰۰ء کو الہام ہوا۔ خرام کہ وقت تو نزدیک رسید، ۲۷ کو ایک واقعہ، اللہ خیر واقعی، خوشیاں منائیں گے۔ وقت رسید، تو اس الہام کے مطابق ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو آپ قادیان میں دفن ہوئے۔

ہفتم ..... ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء کو الہام ہوا کہ مباحش ابمن از بازئیے روزگار۔ لاہور جا کر الہام ہوا کہ مکن تکلیہ بر عمر ناپا کنار اس الہام میں ۱۳۲۶ھ بتایا گیا۔ جس میں آپ فوت ہوئے۔

ہشتم ..... ۷ مارچ ۱۹۰۸ء کو الہام ہوا کہ ماتم کدہ، پھر دیکھا کہ جنازہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات قادیان سے باہر ہوگی۔

نہم ..... یہ بھی الہام ہوا۔ موت قریب۔ ”ان اللہ یحمل کل حمل“ خداتیرا بوجھ اٹھائے گا۔

### ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیشین گوئی

ڈاکٹر عبدالحکیم بیس سال مرید رہ کر مرتد ہو گیا تھا۔ (کیونکہ اس نے خط لکھا تھا کہ کیا کوئی اطاعت رسول کے سوا بھی نجات پاسکتا ہے؟ تو آپ نے جواباً لکھا کہ نہیں اور اسی عقیدہ پر بگڑ کر مخالف ہو گیا تھا) آپ کی وصیت شائع ہونے کے بعد اس نے اپنے رسالہ ”الحکیم نمبر ۳“ میں پیش گوئی کی تھی کہ مرزا تین سال تک مر جائے گا اور میں سچا ہوں اور وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی وصیت بھی شائع کر دی اور جب مرزا قادیانی نے یہ الہام شائع کیا کہ تیری موت قریب ہے تو اس نے شائع کر دیا کہ: ”مرزا چودہ ماہ کے اندر مر جائے گا۔“ اس وقت تین سال والی پیشین گوئی سے آٹھ ماہ گذر چکے تھے۔ مگر آپ (مرزا) کو الہام ہوا کہ عمر بڑھادی گئی ہے اور کہا کہ یہ الہام تین سال والی پیشین گوئی کے متعلق ہے۔ پھر جب آپ کو الہام ہوا ہے اور کہا کہ موت بہت ہی قریب ہے تو اس نے شائع کر دیا کہ مرزا قادیانی ۳۱ اگست ۱۹۰۸ء مطابق ۲۱ ساون فوت ہو جائے گا۔ مگر مرزا قادیانی



اس کی تکذیب کرتے ہوئے ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو فوت ہو گئے۔ لعنت ہے اس کی اصلاح پر اور توف ہے اس کی رسالت پر کیونکہ وہ اپنے رسالہ اعلان حق میں خود مقرر تھا کہ میں صوم و صلوة کا پابند نہیں ہوں اور مجھے شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں اور رحمتہ اللعالمین بھی ہوں۔ اسی میں سہ سالہ پیشین گوئی بھی درج کی تھی اور ۴ اگست کی پیشین گوئی بھی درج کی تھی۔ جو اخبار اہل حدیث، پیسہ اخبار، بریلی گزٹ اور اخبار وطن میں شائع ہو چکی تھی۔ مگر بعد میں اس نے پھر یوں لکھ دیا تھا کہ میں نے ۴ اگست تک کی پیشین گوئی کی تھی۔ جو پوری ہو گئی۔ لعنة الله على الكاذبين!

### عبدالحکیم کی ہلاکت

آپ نے تبصرہ میں الہام شائع کیا تھا کہ اپنے دشمن سے کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ کرے گا۔ میں تیری عمر بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جو الائی ۱۹۰۷ء سے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایسا ہی جو اور دشمن پیشین گوئی کرتے ہیں۔ ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھا دوں گا۔ جو دشمن تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آنکھوں کے رو برو اصحاب فیل کی طرح نابود ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ یہ پیشین گوئی ڈاکٹر کی اس پیشین گوئی کے مقابلہ پر تھی کہ مرزا چودہ ماہ تک مر جائے گا۔ مگر جب اس نے ۴ اگست ۱۹۰۸ء کی پیشین گوئی شائع کر دی تو یہ پیشین گوئی استعمال نہ کی گئی اور منسوخ ہو کر کٹ گئی۔ اس لئے ڈاکٹر مرزا قادیانی سے پہلے نہ مرا۔ جیسے کہ کوئی اسلام کو برا کہتا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ مگر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ ہلاکت منسوخ ہو جاتی ہے۔ علی ہذا القیاس!

یہ الہام بھی تاخیر میں ڈال دیا گیا کہ: ”رب فرق بین صادق و کاذب . انت تری مصلح و صادق . الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل . الم يجعل کیدهم فی تضلیل“ تیرے دشمنوں کا خزاں و افساد تیرے ہی ہاتھ سے مقدر تھا۔ کیونکہ اس میں یہ لفظ نہیں کہ ڈاکٹر تیرے حین حیات میں مرے گا۔ گو مرزا قادیانی نے اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاکت آپ کی زندگی میں مقدر ہے۔ مگر اس سے آپ پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ سنت انبیاء یونہی چل آئی ہے کہ وہ اجتہادی غلطی کرتے آئے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق غلط مفہوم سمجھا تھا اور حضور ﷺ کا مکہ پر قبضہ بعد میں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ بیت المقدس پہنچوں گا اور عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی بھی ڈاکٹر کی چودہ ماہ والی پیشین گوئی کے ساتھ کٹ گئی تھی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد عہد

خلافت بھی آپ کی ہی زندگی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ (کیونکہ اس میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا ہے اور آپ نے روپ بدل کر خلیفہ کہلایا ہے) اس لئے اجتہادی ترجمہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ لوگو! ہمیں ستانا چھوڑ دو اور چار لاکھ آدمیوں کی آواز ساری سے خوف کرو۔ جو آج اپنے روحانی باپ سے جدا ہو چکے ہیں۔ نومبر ۱۹۰۷ء میں آپ کو موسیٰ کھانسی ہو گئی تھی جو بعد میں جاتی رہی۔ مگر ڈاکٹر عبدالحکیم نے اعلان حق میں شائع کر دیا تھا کہ مرزا پچھوڑے کی بیماری سے مرگے اور وفات کے بعد شائع کر دیا کہ مرزا ہیضہ سے مرے تو کیسے کا مرض ہیضہ سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ پھر اعلان حق میں شائع کیا کہ میں نے الہام شائع کیا تھا کہ مرزا ۳۱ اگست تک فوت ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی دستخطی چٹھی عکسی طور پر پیسہ اخبار میں شائع ہو چکی تھی۔ جس میں یہ لفظ موجود تھے کہ مرزا ۳۱ اگست کو مر جائے گا۔ افسوس ایسے جھوٹے رسول پر جب وہ خود ایسے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی امت کیا کرے گی؟

ہلاکت مولوی ثناء اللہ

اول..... مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق یوں گزارش ہے کہ جب کتاب ”قادیان کے آریہ اور ہم“ شائع ہوئی تو مولوی صاحب نے لکھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی جھوٹے ہیں اور ان کے الہام سراسر کذب ہیں تو ان کو لکھا گیا کہ حقیقت الوحی تیار کر کے آپ کو بھیج دی جائے گی۔ اس پر یہ لفظ لکھ دیں اور یہ بھی لکھ دیں کہ: ”اے میرے خدا اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میری دعاء ہے کہ تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو۔“ اس عبارت کے شائع ہونے کے بعد مرزا قادیانی بھی شائع کر دیں گے کہ: ”یہ تمام الہامات خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری دعاء ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین“ مگر مولوی صاحب نے لکھا کہ عذاب کی تعیین کرو تو مبالغہ کروں گا۔

دوم..... مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے اشتہار دیا کہ: ”مولوی ثناء اللہ مجھے مفتری جانتا ہے یا اللہ تو جھوٹے سچے میں فرق کر۔ تاکہ دنیا گمراہی سے بچ جائے۔ تو ایسا کر کہ اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی میں ہی مولوی ثناء اللہ کو کسی مہلک مرض میں مبتلا کر یا میرے سامنے ہی اسے موت دے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کی زندگی میں ہی مجھے دنیا سے اٹھالے۔ یہ الہام نہیں دعاء ہے۔ مولوی صاحب جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔“ مگر مولوی صاحب نے اہل حدیث ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء میں لکھ دیا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں اور کوئی دانا اسے مان بھی نہیں سکتا۔ اب مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد خود ہی جاہل و نادان بن گئے اور کہنے لگ گئے کہ مرزا قادیانی اسی فیصلہ کے مطابق مر گئے ہیں۔

سوم..... نبی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ نہ افسانہ کے لئے۔ مرزا قادیانی بھی اس لئے نہیں آئے تھے کہ آتھم مرے۔ طاعون پڑے اور زلزلے وغیرہ آئیں۔ مولوی صاحب نے جب دعاء سے انکار کر دیا تو اب اگر مر جاتے تو اس کے تابعدار کہہ دیتے کہ وہ انکاری تھے۔ اس لئے دعاء کے اثر سے نہیں مرے تو اصلاح کی بجائے افساد ہو جاتا۔ اس لئے وہ معاملہ التواء میں ڈال دیا گیا۔ ورنہ ان کو خوف تھا کہ کہیں سزا نہ مل جائے۔ چنانچہ مرقع قادیانی مئی ۱۹۰۸ء میں لکھتے ہیں کہ مجھ پر مباہلہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیونکہ ایک سال میعاد مباہلہ گزر چکی ہے اور چند دن وفات مرزا سے پہلے مرقع جون ۱۹۰۸ء ص ۸ میں لکھا تھا کہ مرزائی جماعت کے جو شیخے ممبر اب کس وقت کا انتظار ہے۔ تمہارے پیر مغال کی میعاد کا زمانہ تو گزر گیا۔ درحقیقت وہ دھوکا دیتے تھے۔ کیونکہ وہ مباہلہ اس لئے منسوخ ہو چکا تھا کہ انہوں نے منظوری نہ دی تھی۔

چہارم..... اہل حدیث ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء میں لکھ چکے تھے کہ مفتری کی رسی دراز ہوتی ہے۔ تو خدا نے اسی اصول پر فیصلہ کر دیا کہ مرزا قادیانی مفتری نہ تھے اور مولوی صاحب مفتری تھے۔ اس لئے جھوٹا زندہ رہا اور سچا مر گیا۔ اس کے برخلاف اسماعیل علی گڑھی، غلام دہگیر قصوری، چراغ الدین جمونی اور فقیر مرزا کا عقیدہ تھا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے اصول کے مطابق سزا یافتہ ہو گئے اور مولوی ثناء اللہ چونکہ معتقد تھے کہ جھوٹے کی رسی ومانہ ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اپنے اصول کے مطابق جھوٹے بن کر سزا بھگت رہے ہیں۔ گویا یہ نسخہ الگ ہے اور وہ نسخہ الگ ہے۔ ان کا زندہ رہنا ہی کذب کی علامت ہے اور خدا نے ”سنفسہ علی الخراطوم“ کے پیرایہ میں یہ داغ ان کی ناک پر لگا دیا ہے۔ عبدالحق سرہندی نے اسی مرقع میں لکھا تھا کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مرے۔ کیونکہ مسلمہ بعد میں مرا تھا۔ بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جھوٹے کی رسی دراز ہوتی ہے۔ اس لئے خدا نے یہی اصول برت کر مولوی صاحب کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ اعتراض کہ ثنائی پارٹی پر اس کا کیا اثر ہوا۔ بالکل واہیات ہے کیونکہ اس کا اثر تب ظاہر ہوگا جب کہ یہ جھگڑا شروع ہو کر ہر ایک کے پاس پہنچ جائے گا تو لوگ خود بخود غور کر کے فیصلہ دے دیں گے کہ مولوی صاحب نے اپنا ہی نسخہ استعمال کیا ہے۔ اس لئے وہ جھوٹے ہیں۔ شاید یہ نتیجہ بھی دیر طلب ہو۔ ”لعلک باخع“ کے زیر ہدایت عجلت نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ مرزا قادیانی احمد تھے اور ثناء اللہ مسلمہ۔ اس لئے ان کا بعد ہی میں مرنا ضروری ہوا۔ پنجم..... اہل حدیث ۱۹ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۴ میں مولوی صاحب لکھ چکے ہیں کہ مباہلہ اور چیز ہے اور قسم اور چیز ہے اور قسم کو مباہلہ کہنا آپ جیسے (مرزائیوں کا) ہی کام ہے۔ مگر پھر

بار بار لکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مباہلہ میں ہار کھائی ہے۔

ششم..... مولوی صاحب کو تسلیم ہے کہ مباہلہ کی میعاد مرزا قادیانی کی وفات سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ تو اب وفات مرزا کو مباہلہ میں داخل کرنا بالکل غلط ہوگا۔  
تنقید و تشریح

۱..... مولوی عبدالکریم کی دعاء کا عجیب ڈھنگ تھا کہ نماز میں رفع الیدین کی طرح دعاء مانگتے تھے اور اگر انہوں نے دعاء کے لئے ہاتھ ملا کر اکیس سال کا لفظ کہا تھا تو اس پر تعجب کیوں کیا گیا تھا کہ صرف سینہ تک ہی ہاتھ اٹھائے تھے۔ کیا دعاء کے لئے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو تکمیل تبلیغ کا اشارہ کیوں نہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد یہ تاویل اس لئے بھی مخدوش ہے کہ مسیح سے یہ تاویل منقول نہیں معلوم نہیں کہ مسیح نے اس سے کیا سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ الہام کا بھی پتہ نہیں دیا گیا کہ اس تاریخ سے اڑھائی سال شروع ہوں گے۔

۲..... ٹنڈ کا الہام بھی بغیر تاریخ کے ہے۔ اس لئے وہ مشتبہ رہا اور مسیح کی کوئی عبارت نہیں بتائی کہ گھونٹ کتنے پئے تھے؟ اور ان سے کیا مراد تھی؟

۳..... علم الدرمان کا لفظ ہی غلط ہے۔ شاید قریب المرگ کی طرح فارسی لفظ (درمان) پر الف لام داخل کر لیا ہوگا یا آپ نے اسے عربی ہی سمجھ لیا ہو۔ بہر حال یہ الہام کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ صرف حدیث النفس ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سال چھوڑ کر حساب شروع کرنا کوئی ہوشمندی نہیں ہے۔ بالخصوص جب کہ ملہم نے اس کی تصریح نہیں کی تو یہ الہام اور بھی کمزور ہو جاتا ہے۔

۴..... ۱۸۹۳ء میں داغ ہجرت کا مفہوم مراد وفات لینا بعید از قیاس ہے۔ کیونکہ اس ہجرت کے متعلق کوئی تحریر نہیں ملتی کہ مرزا قادیانی لاہور جانے سے کھٹکار کھتے تھے۔ یہ نکتہ بعد الوقوع گھڑ لیا گیا ہے۔ جس کا خود ملہم کو بھی علم نہ تھا۔ ۱۹۰۷ء میں آپ کی افسوس ناک خبر آئی۔ مگر معلوم نہیں کہ کس کے متعلق یہ الہام تھا۔ ممکن ہے کہ خواجہ کمال الدین کے مرنے کی طرف اشارہ ہو۔ پس خواہ مخواہ وفات مرزا پر اس کو چپکانا اصول دیانت کے خلاف ہوگا۔

۵..... کفن لپیٹ کر لائے ہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ خاص لاہور میں مرنے کی خبر ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت ملہم کو قادیان کا ہی خیال ہو۔ ہاں اتنا تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ دائم المریض تھے اور عمر بھی کھا چکے تھے اور مخالفین نے مرنے کے متعلق پیشین گوئیاں بھی شائع کر دی تھیں۔ اس لئے رات دن یہی وہم رہتا ہوگا کہ اب مرے اب مرے تو پھر ایسے الہام کا منجاب اللہ ہونا مخدوش ہو جاتا ہے۔

۶..... ۲۷ کو ایک واقع ہوا سے ہزاروں مثالیں تجویز کی جاسکتی ہیں۔ ذن مرزا کو کیا خصوصیت ہے۔

۷..... مکن تکیہ بر عمر ناپائدار میں حساب الجمل سے ۱۳۲۶ھ استنباط کرنا غلط ہے۔ ذرہ سوچ کر یہ دلیل پیش کی جاوے تو شاید سوہویں صدی ہجری میں کسی قدرت ثانیہ کے موت کی طرف اشارہ ہوگا۔

۸..... ماتم کدہ کا لفظ گول مول ہے۔ بلی کو چھپھڑے کی خوابیں عمر کا تقاضا تھا۔ آہقم کی طرح ہر وقت موت کا خوفناک منظر ہی دکھائی دیتا ہوگا۔ ورنہ ایسے مہمل فقرے خدا کی طرف منسوب کرنا کسی عقلمند کا کام نہیں؟

۹..... موت قریب کے فقرہ سے ہر ایک بوڑھے کے لئے الہام تیار ہو سکتا ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ خدا نے بوجھ اٹھایا تھا۔ معلوم نہیں ملہم کا خدا بھی شاید ستر بہترا ہو گیا تھا کہ جو الہام کرتا ہے سب گونگے کے اشارے ہوتے تھے۔

۱۰..... ڈاکٹر عبدالحکیم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اطاعت رسول کو ضروری نہ سمجھتا تھا۔ اس لئے رجسٹر سے نام کاٹ کر مرتد تصور کیا گیا۔ مگر اس کی تہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یوں کہا ہوگا کہ جو شخص خود رسالت تک پہنچ جائے اسے دوسرے رسول کی اطاعت ضروری نہیں۔ اس پر مرزا قادیانی بگڑ گئے ہوں گے کہ لوجی ایک شریک پیدا ہو گیا۔ ورنہ کسی مسلمان سے یہ امید نہیں ہو سکتی کہ اطاعت رسول کو مدار نجات نہ جانتا ہو۔ خصوصاً جب کہ ڈاکٹر کے اس لیکچر کا مطالعہ کیا جائے جو اس نے مسلمان ہو کر محمدن ہال لاہور میں دیا تھا تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کستوری بہم پہنچانے سے تنگ آ گیا تھا۔ (دیکھو کاویہ جلد اول) ہمارے سامنے دونوں مدعی رسالت اپنا اپنا بیان ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں۔ اب کے کہیں کہ جناب آپ کے سر پر بھوتنا سوار ہے؟

۱۱..... چشمہ معرفت طبع اول ص ۳۲۱ میں مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کو پیش نظر رکھ کر یوں لکھتے ہیں کہ: ”کئی دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام ڈاکٹر عبدالحکیم خان ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں چار اگست تک ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ یہ الہام کا مدعی ہے اور مجھے دجال کا فر اور کذاب جانتا ہے۔ بیس برس تک مرید رہا تو اس نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا کہ بغیر اطاعت حضور ﷺ کے بھی نجات ہو سکتی

ہے۔ چونکہ یہ عقیدہ جمہور کے خلاف تھا۔ میں نے منع کیا۔ مگر باز نہ آیا تو جماعت سے نکال دیا۔ تب اس نے پیشین گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۳ اگست تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے کہا کہ وہ خود عذاب میں ہوگا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ خدا سچے کی مدد کرے گا۔“ (چشمہ معرفت ص ۳۲۱، خزائن ۲۳ ص ۳۳۶، ۳۳۷)

اس عبارت میں ۳ اگست تک کے لفظ کو آپ نے دو دفعہ دہرایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے گوئی وقت ”۳ اگست کو“ کا لفظ لکھ دیا ہوگا۔ مگر فریقین مقدمہ کا مستفہ لفظ یہی ہے کہ اگست تک مرزا مر جائے گا۔ اب اس سے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ:

اول..... ”۳ اگست کو“ کا فقرہ فریق مقدمہ (مرزا) نہیں کرتا۔ اس لئے آج کل کے مرزائیوں کا ”۳ اگست تک“ کو غلط قرار دینا غلط ہوگا۔

دوم..... اس عبارت میں کوئی ذکر نہیں کہ ڈاکٹر کی ہلاکت تین سال یا چودہ ماہ کی پیش گوئی سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ اس میں صاف یہ مقابلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر نے ۳ اگست تک ہلاکت مرزا پر پیشین گوئی پیش کی۔ اس لئے ہم بھی اس کے مقابلہ پر یہ پیشین گوئی پیش کرتے ہیں کہ: ”ہماری زندگی میں ہی وہ ہمارے سامنے مرے گا اور ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں گے“ اب مرزا محمود کی تاویل غلط ہوگی کہ مرزا قادیانی کی بددعاء کا اثر اس لئے پیدا نہ ہوا تھا کہ اس کا تعلق تین سال اور چودہ ماہ کی پیش گوئی سے تھا۔ پس جب وہ غلط نکلے تو مرزا قادیانی کی بددعاء بھی اکارت گئی۔

سوم..... مرزا محمود کا یہ کہنا بھی غلط ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے اجتہادی طور پر یہ سمجھ رکھا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاکت آپ کی حیات میں ہوگی۔ ورنہ پیشین گوئی میں یہ لفظ درج نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کے آخری لفظ یہ ہیں کہ: ”خدا مرزا کو ڈاکٹر کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس کی پیشین گوئی کو سچا نہ ہونے دے گا۔“ اس سے بڑھ کر اور کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ شاید مرزا محمود نے اس پر غور نہیں کیا۔

چہارم..... ہلاکت ڈاکٹر کے متعلق کھلے لفظ ہیں۔ کسی قسم کے شرائط یا فریق مخالف کی منظوری کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس لئے اس پر مزید حاشیہ آرائی کرنا خود اپنے پیغمبر کے کلام کو تحریف کرنے کا ارتکاب لازم آئے گا۔

پنجم..... اس پیش گوئی نے فیصلہ کر دیا کہ مرزا قادیانی اپنے اقرار کے مطابق

جھوٹے تھے اور ڈاکٹر سچا تھا۔ کیونکہ اس کے خود قبالی ہو چکے تھے۔

ہشتم..... ڈاکٹر کی شرارت یعنی پیشین گوئی نے آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا اور ۴ اگست کے اندر ہی ۲۶ مئی کو مر گئے۔ مگر ڈاکٹر پر مدعی مسیحیت کی دعاء کا اتنا اثر بھی نہ ہوا کہ اسے زکام ہی لگ جاتا۔ ہفتم..... جب یہ صاف ہو گیا کہ مسیح نے یہ بھی پیشین گوئی میں کہا ہے کہ میں ڈاکٹر کے شر سے محفوظ رہوں گا تو ”رب فرق“ کی دعاء کا وقوع بھی مسیح کی زندگی سے ہی وابستہ ہوگا اور اخزاء افساد کا وجود بھی حیات مسیح سے پیوستہ ہوگا۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ مسیح نے اس کو اپنی زندگی سے وابستہ کرتے ہوئے اجتہادی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔

ہشتم..... اجتہادی غلطی کی تمام مثالیں غلط ہیں۔ کیونکہ اگر کسی پیغمبر سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً خدا اس کی تصحیح اسی سے کر دیتا ہے۔ مگر یہاں مسیح مر جاتا ہے تو کئی سال بعد اس کی تصحیح خلیفہ دوم کو سوجھتی ہے۔ مسیح بھی غلطی کا شکار بنا اور خلیفہ اول بھی اسی دلدل میں پھنسا رہا۔ ایسی ناپاک امت کو خدا تباہ کرے جو اپنے پیغمبر کو غلط گو کہہ کر اسے وحی کا صحیح مطلب بتاتی ہے۔

نہم..... ڈاکٹر نے اگر کھانسی دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ مرزا پھیمپوڑے کی بیماری سے مرے گا تو ہیضہ کی بیماری کا اعلان کرنا اسے جھوٹا ثابت نہیں کرے گا۔ کیونکہ ڈاکٹری تشخیص کبھی غلط بھی نکلتی ہے اور ہیضہ کی طرف سل کے تبدیل ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔

دہم..... یہ تمثیل کہ اسلام کو برا کہنے والا مسلمان ہو کر عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس جگہ غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر دوبارہ مرزائی نہ ہوا تھا۔

یازدہم..... مرزا قادیانی اپنے الہام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آپ ہی کا دست پروردہ شاگرد تھا۔ اسے پیشین گوئی میں ”کو“ کی بجائے ”تک“ کی ترمیم کر ڈالی تو کیا ہو گیا اور بالفرض اگر ۴ اگست کو ہی صحیح مان لیا جائے تو پھر بھی نقصان نہیں۔ کیونکہ آتھم کی طرح اصل مقصد ہلاکت تھی جو واقع ہو چکی۔ باقی چند ایام کا پس و پیش ہونا تو جیسا استاذ کے نزدیک وعیدی پیشین گوئی میں خلل انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح شاگرد بھی کہہ سکتا ہے کہ ۴ اگست کو ہی مسیح مرتے۔ بشرطیکہ مقابلہ پر پیشین گوئی کر کے تمرد اختیار نہ کرتے۔ مگر انہوں نے بیخونی کا اظہار کیا۔ اس لئے ہیضہ نے قبل از وقت ہی دبا لیا۔ کیونکہ وعیدی پیشین گوئیاں ہمیشہ حالت ماحول سے مشروط ہوا کرتی ہیں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق یوں کہا جاتا ہے کہ:

اول..... جب تک دعا بازی کا سلسلہ جاری رہا یہ تصریح نہ کی گئی تھی کہ بددعا زیر بحث مباہلہ تھی یا یکطرفہ بددعا تھی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم کی ہلاکت اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی ہلاکت

کے متعلق یکساں طور پر کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ خدا کے سپرد ہے۔ مگر صرف فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر سے منظوری کی درخواست نہیں کی گئی اور مولوی صاحب سے کچھ مشتبہ الفاظ میں درخواست ضرور کی گئی تھی کہ جو چاہیں لکھ دیں۔ جس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ منظور کریں یا نہ کریں یہ مقدمہ خدا کی جناب میں پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ تجدیدانہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی دعا منظور بھی ہو چکی تھی۔ کیونکہ آپ مظلومانہ رنگ میں بددعا دیتے ہیں۔ جس میں ظالم کی منظوری لینا عبث معلوم ہوتا ہے اور ماری صاحب نے گواہ جہادی غلطی سے اس دعا کو مبالغہ سمجھ رکھا تھا۔ مگر مرزا قادیانی کی طرف سے یکطرفہ دعا تھی۔ کیونکہ آپ ۱۹۰۶ء سے تمام قسم کے مبالغے ختم کر چکے تھے۔ اس لئے یہ یکطرفہ ایک سال کے بعد پوری ہوئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

دوم..... مولوی صاحب کا اہل حدیث ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء میں نا منظوری کا اعلان کرنا جہادی غلطی تھی کہ وہ اسے مبالغہ سمجھ چکے تھے۔ ورنہ یہ صاف ظاہر تھا کہ مبالغہ بازی کا کھیل ۱۹۰۶ء سے بند ہو چکا تھا اور اس مضمون کی مظلومانہ نوعیت بتا رہی تھی کہ ظالم خود منظوری نہ بھی دے تب بھی یہ دعا ملنے کی نہیں۔ اس لئے بہانہ کرنا کہ مولوی صاحب نے چونکہ منظوری نہیں دی تھی اس لئے یہ تکمیل ہی بند کیا گیا تھا بالکل غلط ہوگا۔

سوم..... جب یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ دو طرفہ بددعا اور مبالغہ تھا اور وقت مرزا سے پہلے ایک ماہ اس کی میعاد ختم بھی ہو چکی تو یہ مانتا پڑے گا کہ یہ مبالغہ یکطرفہ دعا کی حیثیت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی عدم منظوری کے بعد دس دن بدر ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء میں شائع کر چکے تھے کہ یہ دعا ہے جو اجیب دعوة الداع کے زیر اثر ضرور قبول ہو چکی تھی۔ کیونکہ صوفیاء کے نزدیک بڑی کرامت استجاب دعا ہوتی ہے یا یوں کہنا پڑے گا کہ میعاد مبالغہ ایک ماہ بعد شروع ہوئی تھی۔ جیسا کہ ”علم الدرمان“ کے الہام میں ایک سال بعد میعاد شروع کی گئی تھی تاکہ: ”اجیب دعوة الداع“ کا الہام بھی درست رہے اور وقت مسخ کا وقوع بھی۔ اس کے ماتحت عین انتقام میعاد پر ثابت ہو۔

چہارم..... مولوی صاحب کی سلامتی کی وجہ جب یوں پیش کی جاتی ہے کہ خدا ہر ایک کو اس کے عقیدہ کے مطابق گرفتار کرتا ہے اور چونکہ مولوی صاحب کا عقیدہ تھا کہ نشتی کی رسی دراز ہوتی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی ان کی زندگی میں ہی رخصت ہو گئے تو فوراً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی بددعا یکطرفہ تھی اور ”اجیب دعوة الداع“ کا الہام بھی جھوٹا تھا۔ ورنہ ضروری تھا کہ مولوی صاحب مرزا قادیانی کی زندگی میں تباہ ہو جاتے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا بھی تو یہ عقیدہ



تھا کہ سچے کے مقابلہ میں جھوٹا تباہ ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ مدعی نبوت کا عقیدہ بار آور نہ ہوا اور مولوی صاحب کا عقیدہ استعمال کیا گیا تو کیا مدعی نبوت کا عقیدہ یوں ہی اکارت ہو جایا کرتا ہے؟ پنجم..... یہ کیسی حجت بازی ہے کہ سچے جھوٹوں کی زندگی میں مرجاتے ہیں اور ”فتمنوا الموت ان کنتم صادقین“ میں بھی صداقت کا نشانہ تمنائے موت ہے اور چونکہ مولوی صاحب مسیلمہ تھے اور مرزا قادیانی احمد اوتار تھے۔ اس لئے مسیلمہ امرتسری کے سامنے احمد قادیانی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس پہلو بدلنے میں صاف اقرار ہے کہ دعاء بازی کا کھیل صرف جنگ زرگری تھا۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب مسیلمہ کی طرح مدعی نبوت نہیں اور نہ مدعی مسیحیت کی طرح انہوں نے کوئی الہام یا وحی کا دعویٰ کر کے افتراء کا اعزاز حاصل کیا ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنی ذاتی صداقت کی کبھی ڈیگ ماری ہے تو اندریں حالات ان کو مفتری، مسیلمہ اور صادق فی الہام قرار دینا وہی بات ہوئی کہ دو اور دو چار روٹیاں۔ تمام غیر احمدی مولوی صاحب کی طرح آپ کو سچا نہ سمجھتے تھے تو کیا سارے ہی مفتری مسیلمہ اور کاذب فی الہام بن گئے؟ اس کے علاوہ مرزا محمود نے ایک اور تقدس آمیز فقرہ لکھ دیا ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مولوی صاحب نے اپنا نسخہ برتا ہے تو جھٹ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ مولوی صاحب جھوٹے تھے۔ مگر جب لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ مولوی صاحب مدعی الہام نہیں اس لئے الہام بازی کی بارجیت بالکل بے جا طور پر پیش کی جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ مرزا محمود کو ہر ایک مدعی الہام ہی نظر آتا ہے۔ ”المزقیس علی نفسه“

ششم..... مولوی صاحب نے اس بات پر قسم کھائی تھی کہ میں مرزا کو جھوٹا جانتا ہوں اور مباہلہ اس یکطرفہ دعاء کو کہا ہے کہ مرزائی مباہلہ کے طور پر (مباہلہ بازی کے بعد) پیش کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ان کا لفظ ہے۔ مولوی صاحب کا نہیں اگر تھا بھی تو اجتہادی غلطی سے استعمال کیا تھا۔ جیسا کہ مسلمان مہاتما گاندھی کا لفظ جو ہندوؤں کا مشہور لفظ ہے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ وہ ان کے لئے امام الزمان بن کر آیا تھا۔

ہفتم..... مولوی صاحب نے بقول مرزائی یہ یکطرفہ دعاء کو مباہلہ کہہ کر پوچھا تھا کہ اگر وہ مباہلہ سچا ہوتا تو میں کیوں نہ مرتا اور یہ مطلب نہ تھا کہ مرزا قادیانی کیوں نہ مرے تھے اور اصل بات یہ ہے کہ جب وفات مرزا سے پہلے وہ مباہلہ مولوی صاحب کے حق میں مضرت ثابت نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ یکطرفہ دعاء تھی جو خود داعی کے حق میں مضرت واقع ہوئی اور اگر مباہلہ ہی تھا تو کسی کے حق میں مضرت ہونے کے باعث ”مادعاء الکفرین الافی ضلل“ کا شکار ہو گیا تھا اور اگر

منسوخ ہو چکا تھا تو مرزا محمود کا فرض تھا کہ ملہم کا کوئی ایسا قول پیش کرتے کہ چونکہ مولوی صاحب نے منظوری نہیں دی۔ اس لئے یہ مباہلہ منسوخ سمجھا جائے۔ جیسا کہ واقعہ نجران میں خود حضور ﷺ کا قول التواء مباہلہ پر مذکور ہے۔

ہشتم..... خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی ڈاکٹر عبدالحکیم کے الہام سے اپنے حق میں اپنی بددعاء سے یا اپنے اوہام والہامات سے جو مخالفین کے پیشین گوئیوں کے زیر اثر تیار ہوئے تھے۔ ناگہانی موت سے ہیضہ میں گرفتار ہو کر ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ منگل کا دن تھا کڑا کے کی دھوپ تھی۔ تبلیغی کمپ معروف کار تھا۔ احمدیہ بلڈنگس کے سفید میدان میں بسر کردگی مولوی حکیم نور الدین صاحب روزانہ نشر و تبلیغ مرزائیت میں ولولہ انگیز تقریریں ہوتی تھیں۔ خیال تھا کہ تبلیغی دورہ سیالکوٹ تک کیا جائے گا۔ دوسری طرف کچھ فاصلہ پر دوسروں کے مغربی تقاطع پر جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ علی پوری کا خیمہ تردید لگا ہوا تھا۔ ہلاکت مرزا و کرامت پیر صاحب علی پوری

علمائے اسلام..... مضامین سے مرزائیت کا بخیرہ ادھیڑتے چلے جاتے تھے۔ پیر صاحب سرگرم مدافعت تھے اور تقدس باطنی سے ہلاکت مرزا کی خواستگاری بجناب باری جلسہ گاہ کا مطلع و مقطع بنا ہوا تھا۔ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو شاہی مسجد لاہور میں پیر صاحب نے ہلاکت مرزا کی بددعاء بڑی شد و مد سے کرائی۔ جس میں ہزاروں مسلمان شریک تھے اور ایک زبان ہو کر التجا کرتے تھے کہ یا اللہ اس ابتلائے قادیانی سے اسلام کو رہائی بخش اور مسلمانوں کو راہ راست پر قائم رکھ۔ آمین کی صدا میں بلند ہوتی تھیں۔ اس دعاء کے بعد جلسہ گاہ میں متواتر دعائیں ہوتی رہیں۔ آخر ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو بروز پیر، پیر صاحب قبلہ نے بڑے زور سے خبر دی کہ چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر مرزا قادیانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جیسا کہ (تاریخ تفسیر ص ۱۰۲، اطاعت مرید و مرشد صادق ص ۵۰، مطبوعہ گلزار ہند پریس لاہور، بفرمائش ایم حسام الدین ایڈیٹر رسالہ خدام الصوفیہ) میں مذکور ہے کہ مرزا بمعہ شاف کے لاہور آیا۔ شاہ صاحب نے بھی تردیدی جلسہ بالمقابل قائم کیا۔ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو شاہی مسجد میں اثنائے وعظ میں آپ نے فرمایا کہ میری عادت پیشین گوئی کرنے کی نہیں۔ مگر مجبوراً کہتا ہوں کہ اگر مرزا کو سیالکوٹ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جا کر دکھلائے میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں کبھی نہیں جا سکتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اسکو توفیق ہی نہیں دے گا کہ سیالکوٹ جا سکے۔ اس سے پہلے ۱۹۰۳ء میں عبدالکریم کی موت سے وہ اپنی رسوائی دیکھ چکا ہے۔ اب سب لوگ گواہ ہو کہ مرزا بہت جلد زلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لاہور سے

کال کر جاؤں گا۔ کیونکہ یہ محمد یوں کے ایمانوں کا ڈاکو ہے۔ آپ نے ہر روز یہ لفظ دہرائے۔ آخر ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کی شب کو نہایت جوش سے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم کئی روز سے مرزا کے مقابلہ میں آئے ہوئے ہیں۔ پانچ ہزار روپے کا انعام بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ جس طرح چاہے وہ ہم سے مناظرہ کرے یا مباہلہ کرے اور اپنی کرامتیں اور معجزے دکھائے۔ لیکن اب وہ مقابلہ میں نہیں آتا۔ لیکن آج میں مجبوراً کہتا ہوں کہ آپ صاحبان سب دیکھ لیں گے کہ کل ۲۴ گھنٹے میں کیا ہوتا ہے۔ آپ اتنے ہی لفظ کہہ کر بیٹھ گئے مگر رات کو مرزا ہیضہ سے بیمار ہو گیا اور دوپہر تک مر گیا۔ مفتی عبداللہ صاحب ٹوکنی مرحوم پروفیسر اور نیشنل کالج لاہور نے فرمایا کہ ہم پہلے تو اس پیشین گوئی کو معمولی سمجھتے تھے۔ آخر وہ تو سب سے بڑھ کر نکلی۔ ایک مخالف نے کہا کہ یہ پیشین گوئی حدیث النفس ہے۔ مگر اس کو یاد رہے کہ وہ بھی تو ہیں آل رسول کر کے خیر نہ منائے۔ مرزا کی تاریخ وفات ہے۔ ”لقد دخل فی قعر جہنم“

ناظرین! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کی صداقت نے ۲۴ گھنٹے کے اندر ہی تمام پیشین گوئیوں اور الہاموں سے بڑھ کر نمبر لئے ہیں۔ نہ ڈاکٹر کی پیشین گوئی نے تعیین وقت پر جرأت کی نہ مرزا قادیانی کے اپنے الہامات نے کوئی ہفتہ یا عشرہ مخصوص کیا۔ بلکہ جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا ارادہ تھا کہ لاہور میں تبلیغی جلسوں کے بعد سیالکوٹ جائیں گے۔ مگر آل رسول کی زبان سیف و سنان کی طرح کاٹتی ہوئی آپ کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پیشین گوئی یوں ہوتی ہے۔ جس میں نہ تاویل کی ضرورت ہے نہ شرائط لگائے گئے ہیں اور نہ فریق مخالف کی منظوری یا عدم منظوری کو دخل ہے اور استجابت دعاء کا بھی اصل مصداق یہی ہے کہ جس میں فریق مخالف کی کسی تلون مزاجی کو داخل نہیں سمجھا گیا اور نہ یہ عذر کرنے کا موقع پیش آیا تھا کہ چونکہ فریق مخالف اندر سے ڈر گیا تھا۔ اس لئے یہ دعاء معرض التواء میں ڈال دی گئی اور مزید لطف یہ ہے کہ مرزائیوں نے ہر ایک امر پر بحث کی ہے۔ مگر یہ پیشین گوئی ابھی تک ویسی ہی پڑی ہوئی ہے۔ جیسی کہ پیدا ہوئی تھی۔ کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس پر اثر خانی یا خامہ فرسائی کر کے اپنے ہذیان کا ثبوت دے۔ اس لئے ہم کہیں گے کہ موت مرزا کا فوری سبب یہی پیشین گوئی اور دعاء ہے اور بس۔

ہلاکت عبدالکریم

اس پیشین گوئی کے ضمن میں مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کی ہلاکت کا ذکر آ گیا ہے۔ اس میں بھی انہی پیر صاحب نے مرزائیت کا مقابلہ کیا تھا۔ چنانچہ بحوالہ مذکور یوں لکھا ہے کہ مرزا جمعہ

سٹاف کے نومبر ۱۹۰۴ء میں سیالکوٹ پہنچا اور شاہ صاحب قبلہ بھی وہاں پہنچ گئے اور تری دیدی مجلس قائم کر دی۔ اسے چیلنج دیئے مگر وہ باہر نہ نکلا۔ ایک دن لنگڑے عبدالکریم مرزائی نے اپنی چار دیواری کے اندر معراج نبوی پر لیکچر دیتے ہوئے یوں کہا کہ لوگ کہتے ہیں براق آیا براق آیا۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ جب ایڑیاں اور گھٹنے رگڑتے ہوئے وہ ہی نبی مکہ سے بھاگ کر پہاڑوں اور غاروں میں چھپتا پھرتا تھا تو اس وقت براق کیوں نہ آیا؟ یہ گستاخانہ کلام جب شاہ صاحب کو جلسہ گاہ میں سنائی گئی تو آپ نے دوران وعظ میں جوش کھا کر کہا کہ وہ بیدین شخص جس نے حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بہت جلد اور ذلت کی موت سے مارا جائے گا۔ دوسرے دن ایک غیر جانبدار شخص نے خواب دیکھا کہ عبدالکریم کہتا ہے کہ مجھے حضرت امام زین العابدینؑ نے سچہ مارا ہے۔ اس وقت یوں دکھائی دیا کہ شانہ سے لے کر کمر تک پلکے باندھے ہوئے اور دیوار سے سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یوں کی گئی کہ پیر صاحب نے اثنائے تقریر میں غصہ میں آ کر میز پر زور سے اپنا ہاتھ مارا تھا۔ جو امام زین العابدینؑ کا سچہ بن کر رات کو ظاہر ہوا تھا۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ نہ گذرا تھا کہ سرطان (گدوں دانہ) سے ہلاک ہو گیا۔ سالنامہ جامعہ احمدیہ ۱۹۳۰ء میں مذکور ہے کہ یہ مولوی عبدالکریم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مڈل سکول تک تھی اور اس میں بھی کمی حساب کی وجہ سے فیل ہو گئے۔ پھر عربی فارسی کی پرائیوٹ تیار کر کے وہیں مشن سکول میں مدرس فارسی لگ گئے۔ ایک روز پادری سے الجھ کر مستعفی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے نچری خیال رکھتے تھے۔ مگر مولوی نور الدین صاحب کی وساطت سے مرزائی ہو گئے اور خطیب و امام مسجد قادیان بنے رہے اور سب سے پہلے بہشتی مقبرہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین حیران ہوں گے کہ پیر و مرشد اور مریدان بے صفا حساب میں کمزور تھے۔ مرزا محمود بھی مڈل فیل ہیں۔ ہمہ خانہ آفتاب است۔ مولانا غریب مرحوم کا شعر ہے۔

فیل ہونا شیوہ احرار ہے

پاس تو ہوتے ہیں آخر خرد ماغ

مولوی صاحب کے دوست حافظ روشن علی موضع نمل تحصیل پھالیہ ضلع گجرات پنجاب کے تھے۔ حضرت نوشہ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ قرآن بچپن میں اپنے والد سے یاد کیا اور کچھ غلام رسول وزیر آبادی سے اور انہی سے کچھ کتابیں بھی پڑھیں۔ پھر قادیان چلے آئے اور حکیم نور الدین سے تلمذ اختیار کیا۔

## ۲۰..... اقتباسات لیکچر سیا لکوٹ ۲ / نومبر ۱۹۰۴ء

منقول از ریو یو جلد سوم نمبر ۲

دنیا کے مذہب اس لئے غلط ہو گئے کہ ان کی پرورش مجددین سے نہیں ہوئی۔ مگر اسلام کی پرورش ہر صدی کے سر پر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ہدایت اور ضلالت کی آخری جنگ آگئی اور چودھویں صدی کے آخر پر مجدد آ گیا۔ حضور ﷺ کے بعد دوسرے مذاہب کی تجدید نہیں ہوئی۔ نفس کے پیرو انسانوں نے ان میں بے جا دخل دے کر صورت بدل ڈالی۔ چنانچہ عیسائیوں نے اپنا خدا الگ بنا لیا اور تورات کے احکام بدل ڈالے کہ اگر مسیح اس وقت آئیں تو شناخت نہ کر سکیں۔ ہندو مذہب میں بھی بت پرستی نہ تھی اور خدا کو اپنے صفات کے اظہار میں مادہ کا محتاج نہیں جانتے تھے۔ مگر یہ بھی عیسائیت کی طرح اسلام سے پہلے بگڑ چکا تھا تو اصلاح عام کے لئے حضور ﷺ کی آمد عظیم بن کر آئے اور وحیوں کو ایسا بنا دیا کہ بکریوں کی طرح ذبح ہونے لگے۔ مگر اسلام نہ چھوڑا۔ پس روحانیت قائم کرنے کے لئے آدم ثانی بلکہ حقیقی آدم تھے اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانہ کے لحاظ سے ہوا۔ بلکہ اس لئے بھی کہ تمام کمالات آپ پر ختم ہو گئے اور آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم ٹھہرے اور آپ کا جلالی نام محمد ہوا اور جمالی احمد۔ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔ پہلا ہزار ہدایت کے لئے تھا۔ دوسرا گمراہی کے لئے تو بت پرستی آگئی۔ تیسرے میں توحید آئی تو چوتھا پھر عیسائیت میں گمراہی لے کر آیا۔ پانچویں میں حضور ﷺ پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد تین سال سے چھٹا ہزار شروع ہوا جو گمراہی کا تھا اور جسے شیخ اعوج کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر چودھویں صدی پر ہدایت کا ہزار سنالی شروع ہوا۔ جس میں امام آخر الزمان موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو ظل کے طور پر (مظہر قدرت ثانیہ ہو) کیونکہ اب دنیا کا خاتمہ ہے۔

یہودی بھی مانتے ہیں کہ یہ ساتواں ہزار سال ہے۔ سورہ عصر کے اعداد بھی ساتواں ہزار ظاہر کرتے ہیں۔ سب انبیاء کا اتفاق ہے کہ مسیح چھٹے ہزار کے آخر پر ضرور پیدا ہوگا۔ خلق عالم کے چھٹے روز (جمعہ کی آخری ساعت میں) خدا نے آدم کو پیدا کیا اور دن خدا کے نزدیک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس لئے آخری امام بھی جمعہ کے دن چھٹے ہزار کے آخر پر پیدا ہوا تا کہ اوّل و آخر یکساں ہو جائے۔ آدم جوڑا پیدا ہوا تھا۔ تو مسیح بھی جوڑا پیدا ہوا تھا۔ پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی تو جمعہ کے روز مسیح پیدا ہوا۔ عیسائی کہتے تھے کہ اسی وقت مسیح نازل ہوگا۔ مگر جب نہ اترتا تو کلیسا کو ہی مسیح مان بیٹھے۔ اس دلیل کا رد کرنا تمام نبوتوں کا رد کرنا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ قیامت کا کسی کو علم نہیں۔

کیونکہ اگرچہ خاص وقت کا علم نہیں مگر آثار اور اعداد و سورہ عصر سے اس کا علم یقینی ہو گیا ہے اور ریل گاڑی، اخبارات وغیرہ سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے۔ دو تین صدیاں اور بڑھ جائیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کیونکہ کسر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پس شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت ہر پہلو سے مخفی ہے۔ کیونکہ اخبار الانبیاء اور آیہ ”قد اقتربت الساعة“ اس پر شاہد ہے۔ حمل کی مدت بھی ۹ ماہ ہے۔ مگر خاص وقت کسی کو معلوم نہیں۔ قرآن شاہد ہے کہ جب نہریں جاری ہوں گی تو انقلاب ہوگا۔ تو میں ایک دوسرے کو دباؤں میں لے کر آسمان سے نرنا پھو کدہ کر دی جائے گی۔ یہ سب کچھ یا جوج ماجوج کے ذیل میں لکھا ہے جو آگ سے کارخانہ چلائے، والی قوم کی طرف اشارہ ہے تو اس وقت آسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور صلح و آشتی کے دن ظاہر ہوں گے۔ مخفی خزانے زمین سے نکلیں گے۔ اونٹ بیکار ہوں گے۔ یہ سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ سات ہزار کی نص قرآنی ہے۔ سات کا عدد بھی وتر ہے اور خدا بھی وتر ہے۔

حجج الکرامہ میں بھی ساتویں صدی کے سر سے آگے ظہور مسیح کا زمانہ نہیں بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضور ﷺ نے ابو جہل کو ہلاک کیا۔ ملت موسوی میں آخری نبی مسیح تھے جو جہاد کے مخالف تھے۔ آخری زمانہ میں بھی مسیح آیا اور جہاد اٹھا دیا۔ جب کہ اسلام کی اندرونی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ”لننظر کیف تعملون (یونس)“ میں ہے کہ تم کو خلافت دی جائے گی۔ مگر آخری وقت میں بد اعمالی کی وجہ سے یہود کی طرح چھن جائے گی۔ ”لیستخلفنہم (نور)“ میں ہے کہ مسیح نے جہاد ترک کر دیا تھا تو اس مسیح نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہودی ”مغضوب علیہم“ تھے۔ تو سورہ فاتحہ دی گئی کہ امت یہودی نہ بنے مگر بن گئے اور مسیح کے بھی مخالف ہو گئے۔ جس کو عیسیٰ کہہ کر پکارا گیا۔ جیسا کہ ابو جہل کو فرعون اور نوح کو آدم ثانی اور یوحنا کو ایلیا کہا گیا اور یہ سنت اللہ ہے کہ ایک نام دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ یہودی اپنی حکومت کے بعد روم کے ماتحت ہو چکے تھے تو مسیح آیا۔ مسلمان بھی انگریزوں کے ماتحت ہو گئے تو یہ مسیح آیا۔ مسیح پورے طور پر اسرائیلی نہ تھے۔ صرف ماں کی طرف سے تھے۔ یہ مسیح بھی صرف ماں کی طرف سے سید ہے۔ کیونکہ اس کی بھی دادی سید تھی۔ چونکہ اسرائیلی گنہگار تھے۔ اس لئے خدا نے چاہا کہ تسمیہ کے طور پر یہ نشان دکھائے تو ان میں سے صرف ایک بچہ صرف ماں سے بغیر شریعت باپ کے پیدا کیا۔ (اس مسیح کو توام پیدا کرنے میں) یہ اشارہ تھا کہ اس میں انوہیت کا مادہ بالکل نہ رہے۔ پس سلسلہ مثیل موسیٰ سے شروع ہوا اور مثیل مسیح پر ختم ہوا۔ تاکہ اول و آخر مشابہ رہیں۔ (وفات مسیح کا ذکر ختم کر کے لکھا ہے کہ) جن لوگوں نے اس مقام پر غلطی کھائی ہے ان کو معاف ہے۔ کیونکہ ان کو

کلام الہی کے حقیقی معنی نہیں سمجھائے گئے تھے۔ پھر ہم نے تم کو صحیح معنی سمجھا دیئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو رسی تقلید کا ایک عذر بھی تھا۔ لیکن اب کوئی عذر باقی نہیں۔ زمین و آسمان میرے گواہ اولیائے کرام نے میرا نام بتا دیا۔ کچھ شاہد تیس برس پہلے گذر چکے ہیں۔ بعض نے عالم رویا میں حضور ﷺ سے میری تصدیق بھی کرائی ہے۔ ہزار ہا نشان ظاہر ہو چکے۔ تمہارے ہاتھ پاؤں میرے لئے گواہ ہیں۔ کیونکہ سب کمزور ہو کر دستگیر کے محتاج ہو چکے ہیں۔ مجھے دجال کہا گیا۔ بد نصیب وہ ہیں جن کی طرف دجال بھیجا گیا۔ مجھے لعنتی بے ایمان کیا گیا۔ مسیح کو بھی یہودی یہی کہتے تھے۔ مگر قیامت کو کہیں گے کہ کیا ہو گیا کہ ہم ان شریروں کو دوزخ میں نہیں پاتے۔ اگر یہ دنیا سے پیار نہ کرتے تو مجھے شناخت کر لیتے۔ مگر اب وہ شناخت نہیں کر سکتے۔ (رفع جسمانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ) یہ خیالات نہایت قابل شرم ہیں گویا خدا ڈر گیا تھا کہ ہمیں یہود نہ پکڑ لیں۔ اس میں حضور ﷺ کی کی بھی بے عزتی ہے۔ کیونکہ آسمان پر چڑھنے کے مطالبہ میں آپ نے یوں کہہ دیا تھا کہ: ”هل كنت الا بشر آرسولا“ اور خدا کا وعدہ ہے کہ تم زمین پر ہی مرو گے۔ یہ خیال غلط ہے کہ مسیح کی بیعت ضروری نہیں۔ یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیونکر کر سکتے ہیں۔ جب کہ وہ اپنے رسول کا حکم نہیں مانتے کہ امام جب ظاہر ہو تو اس کی طرف دوڑو۔ برف چیر کر بھی اس کی طرف پہنچو۔ کیا لا پرواہی مسلمان ہے۔ بلکہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں۔ دجال کہا جاتا ہے۔ درحقیقت بغیر تازہ یقین کے جو انبیاء کے ذریعہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ان کی نمازیں صرف رسم و عادت ہیں اور روزے فاقہ کشی۔

یہ حقیقت ہے کہ معرفت الہی کے سوا گناہ سے حقیقی نجات نہیں ہوتی اور نہ ہی خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے اور معرفت دعاء سے حاصل ہوتی ہے اور دعاء سے روح قیام کرتی ہے اور احکام الہی مانتی ہے۔ رکوع کرتی تو یک رخ ہو کر خدا کی طرف جھکتی ہے اور سجدہ کرتی ہے تو فنا کا مقام حاصل کرتی ہے۔ جسمانی نماز چونکہ اس کی محرک ہے۔ اس لئے وہ بھی ضروری ہوئی۔ سنت الہی ہے کہ جس پر چاہے روح القدس ڈالتا ہے تو محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ معرفت الہی سے یہ تعلق شناخت ہو سکتا ہے۔ گویا پتھر کی آگ کے لئے وہ چمقماق ہے۔ پھر ہمدردی بنی نوع انسان کا عشق بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس سے دوسروں کو سورج کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہی انسان، نبی، رسول اور محدث ہے اور وہ مخاطبہ الہیہ، استجابت دعاء اور خوارق پاتا ہے۔ گو بعض لوگ اس سے کچھ حصہ پاتے ہیں۔ مگر کجا جگنو کجا آفتاب۔ ان میں تاثیر ہے کہ جو ان سے رشتہ جوڑے پھل پاتا ہے توڑنے والا خشک ٹہنی بن جاتا ہے۔ اس کے ایمان پر غبار آ جاتا ہے۔ کیا بے تعلق رہنے والا یہ نہیں

سوچتا کہ جب اس کو جسمانی باپ کی ضرورت ہے تو کیا روحانی باپ کی اسے ضرورت نہیں؟ ”اهدنا الصراط المستقیم“ میں یہی بتایا ہے کہ جو انعام انبیاء کے پاس ہیں تم بھی حاصل کرو۔ میں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آیا۔ بلکہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے مسیح ہوں اور ہندوؤں کے لئے کرشن اور تارہوں اور بیس سال کے زائد عرصہ سے اعلان کر رہا ہوں اور اب سب کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ کرشن ہندوؤں میں کامل انسان تھا۔ جس کی نظیر ان کے کسی رشی اور اتار میں نہیں پائی جاتی۔ وہ فتح مند با اقبال تھا۔ جس نے آریہ ورت کی زمین کو باپ سے پاک کیا۔ وہ اپنے زمانے کا حقیقی نبی تھا۔ خدا نے بھی کہا ہے کہ وہ اتار اور نبی تھا۔ اس کا وعدہ تھا کہ آخر زمانہ میں کرشن کا اتار یعنی بروز ظاہر کرے جو مجھ سے پورا ہوا اور الہام ہوا کہ: ”ہے ردر گو پال تیری مہا گیتا میں بھی لکھی گئی ہے۔“ سو میں کرشن کا محبت ہوں۔ کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں اور یہ تین صفات (باپ دور کرنا، دلجوئی، تربیت) مسیح اور کرشن میں ہیں۔ اس لئے وہ روحانیت میں ایک ہی ہیں۔ فرق صرف قومی اصلاح میں ہے۔ سو میں بحیثیت کرشن ہونے کے آریوں سے کہتا ہوں کہ ذرات اور روحوں (کرتی اور پرمانو) کو قدیم نہ جانو۔ ورنہ ان کا اتصال بھی خدا کا محتاج مان لو۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ روحمیں محدود ہیں۔ اگر کرتی خانہ سے ان کو میعادی نجات کو پہنچا دیا جائے تو کسی دن جنوں کے لئے ایک روح بھی باقی نہ رہے گی اور خدا معطل ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس لئے جو نجات پاتے ہیں۔ ان کا ایک باپ باقی رکھ کر پھر جنوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر ذرات اتادی ہیں تو وہ اپنے خدا آپ ہی ہیں۔

تسخیح صحیح ہے کہ کیڑوں کی تعداد زیادہ؟ چاہئے تو یہ تھا کہ انسان زیادہ ہوتے۔ کیونکہ کیڑوں میں گیان نہیں جب دوبارہ انسان بنتا ہے تو ممکن ہے کہ اپنی ماں بہن سے شادی کرتا ہوگا۔ نیوگ قابل شرم اور ناقابل برداشت ہے۔ خدا ایسا محتاج نہیں کہ ہماری طرح متصرف نہ ہو۔ ظالم نہیں کہ کئی ارب جن بد لئے کے بعد بھی مکتی نہیں دیتا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ایسی تعلیم دیدوں میں نہ ہوگی۔ عیسائی انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ صرف خون کھانے سے نجات کیسے ہوگی۔ نجات یوں ہے کہ توبہ کر کے نئی زندگی حاصل کرے۔ پھر دعاء کیا کرے اور نیک صحبت میں رہے۔ کیونکہ ایک چراغ دوسرے سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ گناہ کرنا تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تم دو شربت پو۔ شربت کا فوری کہ غیر کی محبت جاتی رہے اور شربت زنجیل کہ جس سے خدا کی محبت جوش مارے۔ آریہ انسان پرستی چھوڑ رہے ہیں اور عیسائی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ مسیح نے خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ جن لفظوں سے اس کی خدائی ثابت کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر تو میری وحی میں



الفاظ موجود ہیں تو کیا میں بھی خدائی کا حقدار ہوں۔ ہاں شفاعت پر آپ کے کلمات شامل ضرور ہیں۔ میری شفاعت سے بھی کئی بیمار اچھے ہوئے اور کئی مصائب دور ہوئے۔ اقا نیم ٹلشہ کی ترکیب غیر معقول ہے اور کفارہ کے بعد گناہ کا وجود کیوں ہے۔ نبی کے نشان دو قسم کے ہیں۔ بشارت و انداز، خسوف القمرین نے رمضان میرے لئے نشانِ رحمت ہے۔ جو بروایت خاندان رسالت ثابت ہے۔ مگر لوگوں نے بیعت کی بجائے گالیاں دیں اور طاعون نشان عذاب ہے جو معذبوا عذاباً شدیداً سے ثابت ہے کہ قیامت سے کچھ دن پہلے مری پڑے گی۔ نبی کی شناخت تین طرح ہے۔

اول..... عقل سے کہ آیا ضرورت ہے یا نہیں۔

دوم..... پیشین گوئیوں سے کہ آیا اس کے آنے کی کسی نے خبر دی ہے یا نہیں؟

سوم..... نصرت الہی سے۔

دانیال نبی کی پیشین گوئی مشہور ہے۔ صحیحین میں بھی ہے کہ اسی امت میں مسیح ہوگا۔

۲۳ برس سے پہلے کا الہام ہے کہ: ”یا تیک من کل فج عمیق“ مال ہر طرف سے آئے گا۔

لوگ بھی آئیں گے۔ تنگ نہ ہونا۔ براہین سے پہلے سات آٹھ سال کا عرصہ ہوا میں اسی شہر میں

گناہ تھا۔ آج میرا استقبال ہوا اور لوگ جوق در جوق بیعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حکیم حسام

الدین میرے دوست ہیں۔ یہیں اوائل عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ اس لئے قادیان کی طرح

مجھے اس سے بھی انس ہے۔ براہین بیکسی میں لکھی اب اس عظیم الشان نشان کا کوئی مقابلہ نہیں

کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ آتھم میعاد پر نہیں مرا اور احمد بیک کا داماد زندہ ہے۔ مگر جب کئی نشان پورے

ہو چکے اور دو تین نشان ان کی سمجھ میں نہیں آتے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اصل بات کیا ہے۔

یوں تو تمام انبیاء پر اعتراض ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسیح نے کہا تھا کہ بارہ حواری بہشت

میں تخت نشین ہوں گے۔ مگر ایک مرتد ہو گیا۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس زمانہ کے لوگ نہیں مریں گے۔

جب تک کہ میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ ۱۸ صدیاں گزریں واپس نہ آئے۔ بادشاہ بننے کے

لئے بھی کہا تھا مگر نہ بنے۔ مجھے خوف ہے کہ ان پر اعتراض کر کے اسلام سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔

بعض دفعہ وحی مجمل اور خبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور صلح حدیبیہ کی طرح اس میں اجتہاد کو دخل ہوتا

ہے جو کبھی غلط بھی نکلتا ہے و عیدی پیشین گوئیوں کا ایفا ضروری نہیں۔ یونس علیہ السلام کی پیشین

گوئی ٹل گئی تھی اور صدقہ خیرات بھی ٹال دیتا ہے۔ ہمارے دعویٰ کی جزو فوات مسیح ہے خدا اس کو

اپنے ہاتھ سے پانی دیتا ہے۔ خدا کا قول مصدق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شب معراج کو اسے مردہ

انبیاء میں دیکھا۔ حضرت ابو بکر نے ”قد خلت“ کہہ کر ثابت کر دیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہ تھا تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا۔ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم کو آزادی دے رکھی ہے۔ کئی لاکھ کی جاگیر دیتی تو اس کے مقابلہ میں بیچ تھی۔ اب میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس محسن گورنمنٹ کے تہ دل سے شکر گزار رہیں۔ ”من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ“

تنقیح عقائد قادیانیہ

..... اس لیکچر نے فیصلہ کر دیا ہے کہ:

- ☆..... مرزا قادیانی مستقل نبی اور کرشن اوتار تھے اور عکسی بروزی کا کھیل ختم کر چکے تھے۔
- ☆..... معرفت اور حقیقت میں پڑ کر وہی کفر آموغ عقائد پیش کئے ہیں جو ایقان میں ہیں۔
- ☆..... اندرونی بیرونی نقول تصدیق اور حال و ماضی کے اقوال مصدقہ بھی پیش کئے ہیں جو ایقان میں پیش ہو چکے ہیں کوئی نئی بات پیش نہیں کی۔
- ☆..... تنبیخ قرآن کا دعویٰ بھی قادیانیت اور بہائیت میں مشترک ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ بہائیت نے لفظ بھی بدل ڈالے تھے۔ مگر قادیانیت کو یہ قدرت حاصل نہ تھی تو انہوں نے نئے مفہام تیار کر کے پہلے مفہام کو غلط قرار دے دیا۔
- ☆..... اور اپنی بیعت بہاء اللہ کی طرح باعث ایمان اور موجب نجات ٹھہرائی ہے۔

۲..... عیسائیوں اور ہندوؤں پر افسوس کیا ہے کہ مذہب تبدیل کر ڈالا۔ مگر آپ نے بھی کیا جو دوسروں نے کیا اور تجدید اسلام کے پردے میں سب کچھ بدل ڈالا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مجددین اسلام جو چالیس کے قریب گذر چکے ہیں۔ (دیکھو کاویہ حصہ اول آخری باب) کیا وہ بھی اسی قسم کی تجدید کرتے رہے ہیں کہ قرآن کا مفہوم بدل کر پہلے لوگوں کو فوج اموج کہہ کر گمراہ ثابت کیا تھا؟ واقعات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں بدلاتھا اور ان کی تجدید صرف مذہب جدیدہ کی تردید پر مبنی تھی۔

۳..... تجدید کا معنی بہائیت کی طرح تبدیل شریعت کیا ہے اور اسی وجہ سے حضور ﷺ کو بھی مجدد اعظم بتایا ہے اور اسی بناء پر لاہوری پارٹی آپ کو صرف مجدد مان کر وہی مطلب حاصل کر لیتی ہے جو قادیانی نبی مان کر حل کرتے ہیں۔

۴..... کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت نہیں کہ حضور ﷺ مثیل موسیٰ علیہ السلام تھے اور مسیح موعود مثیل مسیح ہوگا۔ ورنہ یہ لازم آتا ہے کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اصل نبی ہوں اور حضور ﷺ بروزی نبی مانے گئے ہوں۔

.....۵ ..... اپنی ندامت چھپانے کے لئے کہہ دیا کہ حضور ﷺ کا مل مظہر الہی تھے۔ حالانکہ حضور ﷺ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔

.....۶ ..... کسی نبی کو مظہر الہی تصور کرنا شرک فی الاولہیہ ہوتا ہے۔ جس کے مرتکب بہائی اور مرزائی دونوں یکساں طور پر نظر آتے ہیں اور انسان پرستی کی دعوت دینے میں ایک دوسرے سے کم نہیں۔ کیونکہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مرزائی دنیا کے تمام انقلابات کو مرزائی ذات سے وابستہ یقین کرتے ہیں۔ کوئی زلزلہ آئے تو تکذیب مسیح پیش کی جاتی ہے۔ کوئی دکھ پاتا ہے یا مر جاتا ہے تو جھٹ پٹیشن گوٹیوں کا پلندہ کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ مگر مرزائیوں کی کامیابی ذرہ بھر بھی ہو تو اس کا باعث اطاعت مرزا تصور کی جاتی ہے۔ مصیبت آئے تو دوسروں کو نحوست تصور کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنوں کا سکھ اور غیروں کا دکھ تو مرزا قادیانی کی ذات سے پیوستہ سمجھا جاتا ہے اور تقدیر الہی سے خارج کہا جاتا ہے۔ مگر اپنا دکھ اور اغیار کا سکھ خدا کی طرف منسوب ہے۔ گویا ان کے نزدیک خدائی دوحصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جس کے نصف میں ان کا خدا متصرف ہے اور باقی نصف میں دنیا کا خدا تصرف کر رہا ہے۔ مگر اس شرکیہ عقیدہ کے باوجود پھر اپنے آپ کو مبلغ توحید جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے جو کچھ اس زمانہ کے متعلق زلازل، شگاف زمین اور نئے نئے انقلابات بیان کئے ہیں۔ ان کو اپنی ذات سے وابستہ نہیں کیا۔ مگر افسوس ہے کہ ایک غلام سب کچھ اپنے لئے ہی رجسٹری کر چکا ہے۔ اس لئے ہم خلوص قلب سے کہتے ہیں کہ مرزائیوں کی شرکیہ تعلیم سے بچو۔ تم توحیات مسیح کو شرک بتاتے تھے۔ اب کیا ہو گیا کہ اپنے مرشد کو خدا ہی بنا لیا۔

.....۷ ..... یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ایک ہزار سال ہدایت کا ہوتا ہے اور دوسرا گمراہی کا؟ کیا اپنی صداقت پیش کرنے کے لئے تو یہ بات نہیں گھڑ لی؟ ذرہ ماحول کی بھی تو خبر لینی تھی۔ کیا دنیا صرف مرزائیوں میں منحصر ہو چکی ہے۔ کیا یہی زندہ مردہ چار لاکھ آدمی ہدایت کا ثبوت ہیں۔ مگر باقی چالیس کروڑ مسلمان اگر گمراہ ہیں تو ہدایت کا ظہور کیا ہوا؟ شاید یہ مطلب ہو گا کہ اس میں ہدایت جدید کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لئے ہدایت کا ہزار سال شروع ہوا۔ مگر آنکھ اٹھا کر دیکھئے دنیا میں کس ہدایت کی پیروی کی جا رہی ہے اور کس گمراہی اور حیا سوز تمدن کی طرف قدم اٹھایا نہیں جاتا۔ گھڑے کے مینڈک بن کر قادیانی جماعت کو ہی انسان نہ سمجھو اور قول مرزا پر فتویٰ نہ لگاؤ کہ۔

بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی  
کوئی ہے روباہ کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار

نہیں نہیں دنیا میں اور بھی انسان رہتے ہیں قادیان سے باہر نکل کر دیکھو تمہیں کم از کم جو چالیس کروڑ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں نظر آئیں گے۔ جن میں نسبتاً تمہارے جیسی انسان پرستی بہت کم ہے اور جن میں انسان پرستی کے خلاف آواز اٹھانے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

۸..... یہ خوب مسئلہ گھڑ لیا ہے کہ حضور ﷺ کو آخر الزمان نبی تھے۔ مگر مسلمانوں میں نبوت جاری رہی اور غیر اقوام محروم ہو گئیں۔ مسیح پیدا ہوا تو امامت کا خاتمہ بھی یوں ہوا کہ اب مرزائی ہی امام بنا کریں گے۔ دوسرے مسلمان حقدار نہیں رہے۔ اگر امامت کے لئے اپنا ہی خاندان مخصوص کر لیا جاتا تو آج احمد نوری کا بلی ٹکنا قادیان میں اور فضل احمد جگہ بنگیا ل میں اور صدیق دیندار صوبہ بہار میں مظہر قدرت ثانیہ اور امامت کے دعویدار نہ بنتے۔ پس اگر یہی تجویز ہے تو کسی سالانہ جلسہ میں اس کا تصفیہ کرنا ضروری ہوگا۔ مگر یہ باور ہے کہ اس خود ساختہ اصول کو اہل اسلام کا مسلمہ اصول قرار دینے کی تکلیف گوارا نہ کریں۔ کیونکہ ہم اسے تحریف اسلامی اور دجل و فریب میں داخل سمجھتے ہیں۔

۹..... اس ہزاری ترتیب سے ماننا پڑتا ہے کہ جو نبی گمراہی کے ہزار میں مبعوث ہوئے تھے وہ سچے نہ تھے اور حضرت یحییٰ و حضرت مسیح علیہم السلام کی شخصیت نہایت ہی مخدوش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ گمراہی کے ہزار میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی آخری تبلیغ بھی گمراہی کے ہزار میں تھی اور باقی پیغمبر بھی سارے کے سارے ہدایت کے ہزاروں میں نہیں ہوئے تو پھر یہ قاعدہ کیسے صحیح ہوا؟ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ امت محمدیہ ایک ہزار سال تک گمراہی کے دور میں رہی ہو اور اس کے دس مجدد بھی اس لپیٹ میں آگئے ہوں اور خصوصاً مجدد الف ثانی کا وجود تو بالکل ہی گمراہ کن ثابت ہوا۔ حضرت پیران پیر بھی جو چوتھی صدی میں گذرے ہیں وہ بھی اسی سیلاب میں بہ گئے ہوں۔ براہ کرم اس تکفیری فتویٰ کو قادیان کے بہشتی مقبرہ میں دفن کر دیجئے اور ہزار سال کے کروڑوں اہل اسلام کو کافر قرار نہ دیں اور انبیاء کرام پر ہاتھ صاف نہ کریں۔ ہاں اگر فح اعوجج کا معنی نہیں آتا تو کسی اہل علم سے دریافت کرو۔ کس لئے اپنا بیڑہ غرق کر رہے ہیں؟

۱۰..... دنیا جانتی ہے کہ چودھویں صدی کے آغاز میں اس قدر مدعیان نبوت اور دعویداران امامت برساتی کیرٹوں کی طرح نمودار ہوئے ہیں کہ جن کی نظیر ازمنہ متوسطہ میں نہیں ملتی۔ (یعنی تمہارے فح اعوجج کے زمانہ میں نہیں ملتی) اس وقت تو جو سراٹھا تھا اس کی حجامت ہو جاتی تھی۔ مگر جب دنیا نے مذہب کو خیر باد کہہ دیا اور آئین حکومت کو قواعد مذہب کے خلاف

اپنے خانہ ساز اصول پر چلانا شروع کر دیا۔ یعنی ملکہ و کٹوریہ کے عہد سے تھوڑا ہی پہلے آزادی نے قدم جمانا شروع کر دیا تھا۔ تو ایران، مصر، ہندوستان اور افریقہ والوں کو بھی امام یا رسول بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیونکہ اب حجامت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کی تکذیب و توہین میں برس پیکار ہو گئے اور مذہب کی فضا ایسی مکدر کر ڈالی کہ متلاشی حق کے سامنے ایک نہیں دو نہیں گیارہ باب، ایک مظہر الہی، بہاء اللہ، مسیح قادیانی، مرزا محمود خیر الرسل اور اس پارٹی کے دس مدعی اور یحییٰ بہاری، مہدی سوڈان اور مہدی جو پوری اکٹھے سو دو سو ہر ایک مدعی اپنی اپنی ہانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی اب فیصلہ کرے تو کس کے حق میں کرے۔ آخر مجبور ہو کر اپنے آقا حضور ﷺ کو نہیں چھوڑتا اور آپ کی پیشین گوئی سامنے دیکھتا ہے کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ دعویٰ دار بہت ہوں گے اور قرآن کی تعلیم کی بجائے اپنا اپنا نیا نصاب تعلیم پیش کریں گے۔ یعنی اسلام قدیم سے دستبردار ہو جائیں گے۔ مگر ایمان داری کا ثبوت بہت مشکل ملے گا۔ چنانچہ آج مذہب جدیدہ کے بانی جب معرض امتحان میں لائے جاتے ہیں تو ان کی تمام شخصیت مخدوش نظر آنے لگتی ہے اور سوائے شکم پروری کے اور دعویٰ فروشی کے کچھ نظر نہیں آتا۔

..... ۱۱ مادی ارتقاء کی روز افزوں تحریک بتا رہی ہے کہ جب اہل یورپ نے مذہب چھوڑ کر خود ساختہ اصول اور تمدن جدید کے منوانے میں جدوجہد شروع کی تو ان کو یہ ضرورت پیش نہ آئی کہ پیغمبر رسول بن کرنی معاشرت کی بنیاد ڈالیں۔ کیونکہ عیسائی قوم پہلے سے ایسے مذہب کی پیرو تھی جو بقول پولس حواری تمام احکام شرعیہ سے آزاد ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی ان میں شرم و حیا تھا ہمسایہ اقوام کے زیر اثر تھا۔ لیکن ایشیاء میں چونکہ مذہب کو تمام اصول پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے یا تو اندرونی طور پر اہل یورپ اشاروں سے اور یا قومی بہبود کو اپنے خیال میں مد نظر رکھ کر اور یا کسی اور غرض سے ناسخان شرع محمدی نے امامت، رسالت اور تجدید کا لباس پہن کر مسلمانوں کو آہستہ آہستہ اصول اسلامی سے دل برداشتہ کر کے مادی ترقی کی خدمت کے انجام دہی میں اپنی سرخروئی حاصل کی اور اپنا نام ان لوگوں کی فہرست میں (اہل یورپ کے ہاں) داخل کرایا۔ جنہوں نے ایک نئی روح پھونک کر مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم کے قریب کر دیا جس پر کہ اہل یورپ قائم ہیں اور کم از کم اس قدر کامیاب ضرور ہوئے ہیں کہ اسلام قدیم پر قیام کرنا بقول حضور ﷺ ایسا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ ہاتھ میں انگیاری تھا مانا ممکن ہے۔

..... ۱۲ یہ عجیب معنیانہ پردازی ہے کہ مسیح قادیانی کے ظہور کے لئے علامات (ریل وغیرہ) قرآن میں مذکور ہیں۔ شاید قرآن کے نئے مفہوم میں جو بہائیت کے زیر تعلیم گھڑا

گیا ہے مذکور ہوں گے۔ مگر اسلام قدیم کے ماننے والوں کے نزدیک ایسے خیالات گوزشتر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے اور یہ نظریہ بھی عجیب ہے کہ یہودیوں کی حکومت اٹھ گئی تھی تو مسیح آئے تھے۔ ایسا ہی مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئی تو قادیانی مسیح آیا۔ آنکھ کھول کر دیکھئے مسلمان ابھی تک ایشیاء کے نصف حصہ سے زیادہ پر حکمران ہیں تو پھر یہود سے تمہیں کیسے درست رہی؟ اگر صرف ہندوستان کے مسلمان ہی مراد ہوں تو اس تنگ چشمی اور بوالہوسی کے بعد ریاست بہاولپور اور حیدرآباد دکن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ جن کی یہودیوں میں مثال نہیں ملتی۔ بہر حال یہ نظریہ اس شخص کے لئے ہے جو آنکھ بند کر کے ہمیشہ کے لئے خادم قدرت ثانیہ قادیانیہ بن چکا ہو۔

۱۳..... ترک جہاد کا مسئلہ عذر ۱۸۵۷ء سے طے ہو چکا ہے اور سرسید و دیگر علمائے اسلام نے حالات کا مطالعہ کر کے پہلے سے ہندوستان میں بے جا قرار دیا ہوا ہے اور ایران میں بابی اور بہائی مذہب نے بھی قادیانیت سے پہلے منسوخ کر دیا ہے۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ مسیح قادیانی نے اس پر قلم تلخ پھیر دیا تھا۔ مولوی محمد حسین بنالوی مرزا قادیانی کے ہم درس نے بھی اس مسئلہ پر چار مربعے حاصل کر لئے تھے۔ مگر یہ ماننا بڑا تا ہے کہ مدعیان مسیحیت نے بڑھ کر یہ کام ضرور کر دیا ہے کہ یہ مسئلہ اسلام سے نکال ہی دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے مخالفین سے وہی اسلامی جنگ کا اجراء ضروری سمجھے ہوئے ہیں اور اغیار کو تہ تیغ کرنے سے بھی پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے۔ مگر کیا کریں حکومت درمیان میں حائل ہو جاتی ہے۔

۱۴..... مسئلہ جہاد کے متعلق یوں سمجھنا چاہئے کہ جب شریعت محمدی پر آج کوئی سلطنت پورے طور پر عمل پیرا نہیں۔ اس لئے جس طرح باقی احکام اسلامیہ کے اجراء کے لئے انقلاب زمانہ نے جگہ نہیں چھوڑی اسی طرح جہاد کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم منسوخ ہی ہو چکا ہے ورنہ یہ لازم آئے گا کہ جو احکام عہد رسالت میں جاری تھے۔ سب ہی منسوخ ہو چکے ہیں۔

۱۵..... مسیح قادیانی ”مغضوب علیہم“ کہہ کر تمام اہل اسلام کو یہودی کہہ دیا ہے اور اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ اب یہ بہانہ پیش نہیں کیا جاسکتا کہ مرزا قادیانی نے کسی کو کافر نہیں کہا اور لوگ ان کو کافر کہہ کر خود کافر ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے ناظرین پر ہ چکے ہیں کہ ایک ہزار سال کے تمام مردہ مسلمانوں کو قرآن سے گمراہ قرار دیا ہے تو گویا سارا جہان قادیانیوں کے نزدیک کافر ہوا اور وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں۔ اسے کون مان سکتا ہے اس سے بہتر تو یہ

ہوگا کہ ان کو اسلام جدید کے پیروان کر اسلام قدیم کی رو سے کافر اور بے ایمان سمجھا جائے۔  
(عوض معاوضہ گلہ ندارد)

۱۶..... حیات مسیح کے ماننے والوں کو فوج اعوج میں داخل کر کے پھر ان کو معافی دے کر جناب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلے لوگ اس لئے معذور تھے کہ ان پر قرآن کے اصلی معافی نہیں کھلے تھے۔ لیکن ہم نے کاویہ جلد اول میں ثابت کر دیا ہے کہ حیات مسیح کا قول نہ صرف تمام مجددین اسلام اور تمام اہل سنت نے تسلیم کیا ہے۔ بلکہ عہد رسالت اور عہد خلافت سے بھی اسی پر اتفاق چلا آیا ہے۔ لیکن مسیح قادیانی پر اس کا انکشاف نہیں ہوا۔ اس لئے مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر کے ایسے افتراق و انشقاق کا باعث ہوئے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے اور بیٹا باپ کا نہیں رہا۔ ترک سوالات غیر مسلم سے کرنا تھا۔ الٹا مسلمان آپس میں کر رہے ہیں۔ قادیانی تحریک سے پہلے مسلمان گو خنئی و حبابی کے جھگڑوں سے چور ہو چکے تھے۔ مگر آخر میں کسی حد تک باہمی مصالحت ہو چکی تھی۔ مگر قادیانی تحریک نے ایسی پھوٹ ڈال دی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پھوٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ حکومت کے بھاگ جاگے۔ ہندوستان کا میوہ پھوٹ پیدا ہو گیا اور ایسا تقسیم ہوا کہ غیر ممالک میں بھی نکلے سیر ہو گیا ہے تو گویا یہ مسیح حکومت کے لئے ہی آیا تھا۔ ورنہ مسلمانوں کی اصلاح اسے منظور نہ تھی۔ کیونکہ تعلیمی اصلاح سرسید کر چکا تھا اور راعی و رعیت کے باہمی معاملات کو بھی ایسے طور پر سدھارا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے۔ صنعت و حرفت اور تجارت کی طرف زعمائے قوم توجہ دلا رہے تھے اور مذہبی تعلیم کے لئے مولانا مولوی محمد قاسم دیوبندی نے توجہ دلائی تھی۔ اب صرف پھوٹ رہ گئی تھی جو مسیح قادیانی نے کھلانی شروع کر دی۔ ورنہ کوئی بتائے کہ اس کی شخصیت سے مسلمانوں کو کون سا معراج ترقی حاصل ہوا۔

۱۷..... مثیل مسیح بنتے ہوئے ضمناً تو بہن مسیح کا بھی ارتکاب کر لیا ہے کہ مسیح کی والدہ گنہگار قوم کا فرد تھی اور اپنی ایک دادی سید تھی۔ جس کی وجہ سے آپ کی والدہ اس دور کے تعلق سے بیگناہ قوم کی فرد بن چکی تھی۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ مسیح میں صرف انوشیت کا مادہ تھا اور مجھ سے تمام انوشیت کا مادہ نکال دیا گیا تھا۔ کیونکہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی پیدا ہو کر مر گئی تھی۔  
(گویا مسیح ناصری مرد ہی نہ تھے)

۱۸..... آپ پیردنگیر بن کر یہ افسوس کرتے ہیں کہ مجھے دجال کہا۔ کیا پھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ مسیح کو بھی یہودیوں نے برا کہا تھا۔ آج کل تبلیغی رسائل میں تکفیر مرزا کو صداقت مرزا

کا نشان بتایا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فتویٰ دینے والے علمائے اسلام سب یہودی ہیں اور بدترین مخلوقات ہیں۔ کیونکہ ان سے فح اعموج کے علمائے اسلام بھی نالاں تھے۔ کون سا پارسا تھا کہ جس پر انہوں نے فتوائے تکفیر جاری نہ کیا ہو اور کون سا امام تھا جس پر ان کا تکفیری قلم نہ چلا ہو۔ مزید برآں آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان کی تکفیر مضر نہیں بلکہ صداقت کا نشان ہے۔ انبیائے سابقین کے وقت بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تھی۔ دیکھئے بہائی بابی اور مرزائی تینوں ایک ہی راگ گاتے ہیں۔ ایقان میں بہاء اللہ نے علمائے اسلام کا نام بیخ رعا رکھا ہے اور قادیانی تعلیم میں ان کا نام سب سے بڑھ کر شرارتی، یہودی، دجال اور فح اعموج رکھا گیا۔ گوان کے پیغمبر نے فح اعموج کا زمانہ چودھویں صدی سے پہلے گزار دیا تھا۔ مگر یہ لوگ اس کو بھی اجتہادی غلطی بتا کر اب بھی فح اعموج کا ہی زمانہ بتا رہے ہیں تو جو جوابات مرزائی مذہب بہائی مذہب کے مقابلہ پر پیش کر سکتے ہیں ہماری طرف سے بھی مرزائیوں کے مقابلہ پر وہی وارد سکے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر حقیقی فیصلہ یوں ہے کہ فتوائے تکفیر دوسم کا ہوتا ہے۔

ایک اصلاحی جو مسلمان اور اہل علم ایک شریعت کو مان کر آپس میں لگایا کرتے ہیں اور اس کی اصلی غرض اس غلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جو فریق مخالف سے سرزد ہوتی ہے تو پھر جب اصل واقعات کھل جاتے ہیں اور فریقین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں وجہ مخالفت صرف نا فہمی معاملات تھی تو فتویٰ منعدم ہو جاتا ہے اور فریقین آپس میں ویسے ہی موالات اور اتحاد سے معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے پہلے تھے بلکہ بعض دفعہ ایسے تکفیری فتویٰ کی موجودگی میں بھی باہمی رشتہ ناتہ کے تعلقات پوری موالات کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، حنفی، وہابی وغیرہ کا جھگڑا اسی قسم میں داخل ہے اور مرزائی تعلیم میں اس کی نظیر پیش کرنے میں پیغماری اور محمودی تکفیر و تکفین اور تجہیل و توہین بہترین نمونہ ہیں۔ فتویٰ کی دوسری قسم تکفیر بیزاری ہے اور یہ فتویٰ عہد رسالت سے لے کر آج تک ان مدعیان امامت و رسالت پر جاری کیا گیا ہے کہ جنہوں نے نئی رسالت نئی وحی نیا اسلام یا انوکھی ترمیم تجدید اسلام پیش کر کے اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی کہلایا ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دینے پائیں۔ بلکہ یہ ظاہر کر دیں کہ جس اسلام کو ہم سمجھتے ہیں وہ اسلام قدیم سے الگ ہے۔ تاکہ نئے پرانے اسلام میں امتیاز قائم ہو جائے اور اس قسم کا فتویٰ مرزائیت میں بہائیت کے خلاف خود موجود ہے۔ ایسے فتوے کا اثر اولین یہ ہوتا ہے کہ فریقین میں ترک موالات اور باہمی متارکت شروع ہو کر تنافر اور مخالفت تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ناظرین بتائیں کہ اگر مسلمانوں نے قادیانی



مسح پر تکفیری فتویٰ از قسم دوم جاری کیا تو کون سا گناہ کیا۔ یا وہ کس طرح یہودی اور کافر بن گئے اور اگر بلا تحقیق ہی بنانا ہے تو بہائیوں کے مقابلہ پر مرزائی خود یہودی، شر الناس اور بیج رعاع وغیرہ ثابت ہوں گے۔ اگر قسم دوم کے فتویٰ سے مرزا قادیانی کی صداقت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بہاء اللہ اور باب کی صداقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس لئے مرزائیوں کا یہ کہنا غلط ہو گیا کہ تکفیر مرزا صداقت مرزا کی دلیل ہے۔

۱۹..... یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آج کل کے علماء اسلام فح ا عوج اور بدترین مخلوقات ہیں۔ کیونکہ بقول مسیح قادیانی فح ا عوج کا زمانہ چودھویں صدی کے آغاز پر ختم ہو چکا ہے اور اب ہدایت کا ہزار شروع ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ غیر احمدیوں میں فح ا عوج اب بھی جاری ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ فح ا عوج میں پہلے بھی دو قسم کے علمائے اسلام چلے آئے ہیں۔

اڈل..... علمائے ربانی جو وارث انبیاء ہوتے ہیں اور اعلائے کلمتہ الحق میں بیدربغ ہو کر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور جن کے متعلق وارد ہے کہ وہ حزب اللہ بن کر اہل باطل کے مقابلہ پر مظفر و منصور رہیں گے اور یہ جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے آج تک تمام مذاہب جدیدہ کی تردید اور مدعیان نبوت کی (خواہ بروزی ہوں یا ظلی) تکفیر کی ہے اور جن کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جماعت اصلی مسیح کے ساتھ شامل ہو کر دجال مدعی الوہیت و رسالت بروزی کو جان سے مار ڈالے گی۔

دوم..... علمائے سوء، شریر الناس اور بدترین مخلوقات جو مذاہب جدیدہ اور تعلیمات جدیدہ کی طرف دعوت دے کر اسلام کا مفہوم ہی بگاڑ ڈالتے ہیں اور لفظی مباحث کے آسرے پر بروز الوہیت و رسالت یا بروز کرشن و رام چند رو جے سنگھ بہادر اور مظہر جلیلا وغیرہ بن کر اپنی شخصیت کو بھول بھلیاں کا نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہی فح ا عوج کا مصداق ہیں۔ پس احادیث نبویہ دو قسم کے علمائے اسلام بتا رہی ہیں۔ اس لئے یہ حد بندی کرنا کہ فح ا عوج کے وقت علمائے ربانی کا وجود نہیں ہوتا کمال خوش فہمی ہوگی۔

۲۰..... روحانی نماز سکھانے کے بعد آپ نے دعاء اور محبت الہی کے ذریعہ نبی بننے کا طریق سکھلایا ہے۔ مگر اپنی شخصیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبوت کو خدا کے سپرد کر دیا ہے کہ جسے چاہے فنا فی اللہ محبت الہی اور کثرت مکالمہ و مخاطبہ سے نبی بنا دیتا ہے اور وہی محدث اور مجدد بھی کہلاتا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۲ء میں آپ کو مستقل طور پر نبی بنا دیا گیا تھا اور اصل میں تزکیہ نفس کو اس کا بہترین سبب قرار دیا ہے اور ضمناً کہہ دیا ہے کہ نبوت کسب واجتہاد سے

بھی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ عرف و بہی امر نہیں ہے۔ گویا فلاسفہ کا مذہب آپ کے نزدیک حق ہے اور قرآن کا حکم قابل تاویل ہے کہ بغیر استعداد تامہ کے نبوت کا فیضان نہیں ہوتا۔ اگر اس طریق سے نبوت بروزی مراد ہو تو پھر بھی قرآن کا خلاف ہوگا۔ کیونکہ اس میں کسی طرح کی نبوت بروزی کا ذکر تک نہیں۔

۲۱..... پاپ دور کرنا جب کرشن اور مسیح میں مساوی طور پر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی بھی پاپ دور کرنے کے مدعی ہیں اور کفارہ کا مسئلہ جس کو کتاب البریہ میں غلط اور ناممکن قرار دے آئے ہیں۔ اپنے لئے بڑے زور سے ثابت کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ نہ صرف شرک ہے۔ بلکہ خدا کو خدائی سے ہی جواب دینے کے برابر ہے اور بعینہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح سزا جزاء کا مالک ہے۔ خدا نے یہ کام مسیح کے ہی سپرد کر دیا ہوا ہے۔ ناظرین! غور کریں کہ آیا حیات مسیح کا عقیدہ شرک ہے یا یہ عقیدہ رکھنا کہ مسیح قادیانی ثواب و عقاب پر قابض ہے۔

۲۲..... بہاء اللہ نے موعود کل بن کر اپنے مریدوں کو آزاد کر دیا ہوا ہے کہ خواہ وہ کسی مذہب میں شمار ہوں بغیر بیعت کے بھی بہائی ہو سکتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی یہ مسلک نہیں جاری کر سکتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک شرائط ضروری ہیں۔ اس لئے ان کو نسبتاً کامیابی نہیں ہوئی اور نہ آریوں نے آپ کو قبول کیا ہے نہ سکھوں نے اور نہ عیسائیوں نے بلکہ سب نے آپ کو اس تحقیر سے دیکھا ہے کہ کسی دشمن کو بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ ہاں مسلم قوم پر آپ کا افسوس چل رہا ہے۔ کیونکہ ان میں مذہبی تعلیم سے ناواقف بہت ہیں اور صوفیائے کرام کے زیر اثر ہو کر ضعیف الاعتقاد ہو رہے ہیں اور وحدت وجود کی دھن میں یا شطیحات صوفیا کے پیٹ میں آ کر ایسے لاجواب ہو جاتے ہیں کہ مرزائیوں کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ لیکن جنہوں نے ایمان کی قدر کی ہے وہ اس سودے میں جب تک کہ اسے امتحان کی کسوٹی پر بار بار نہ پرکھ لیں۔ اپنا نقد ایمان نہیں کھو بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایک اس وقت اندر ہی اندر پختا رہے ہیں۔ مگر اب ان کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔

۲۳..... سورج کی کشش بہت زبردست ہے۔ جبر اپنی طرف کرے ارض کو کھینچ رہی ہے۔ مگر مرزا نبی بن کر اس کشش کے مدعی ہوئے تو ہیں۔ لیکن بہاء اللہ کے مقابلہ پر اپنی طرف لوگوں کو کھینچ نہیں سکے اور جن لوگوں نے آپ سے قطع تعلق کیا ہے۔ ان کے لئے برباد ہونا لازمی امر نہیں ہوا۔ کیونکہ اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر مہر علی شاہ صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب روز افزوں ترقی کر رہے ہیں۔ کسی قسم کا کھٹکا نہیں اور سختی نرمی جیسی کہ مرزائیوں پر آتی ہے۔ ویسی دوسروں پر بھی آتی ہے۔ ورنہ امتیازی طور پر ہمارے سامنے کوئی نظر پیش نہیں کی جاسکتی

اور اگر یہ نظریہ پیش کیا جائے کہ مقربین بارگاہ الہی تکالیف میں بہت مبتلا ہوتے ہیں تو سارا معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن آنا فانا تباہ و برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فوراً ہلاک ہو گئے۔ صود و لوط و صالح اور شعیب علیہم السلام کے دشمن نیست و نابود ہو گئے اور حضور ﷺ کے دشمن لڑائیوں میں جو عذاب الہی تھیں مارے گئے اور یہ وعدہ سچا نکلا کہ ہم اپنے رسولوں کی امداد کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ شخص جو خود خدا اور ابن اللہ بلکہ ابو اللہ بنتا ہے۔ (استغفر اللہ) اپنے دشمنوں کو ہلاک نہیں کر سکا۔ بلکہ اپنے دشمنوں کے سامنے ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق بغیر اس کے کہ ان میں تاویل کی جائے مرچکا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اس کے دشمن اب تک زندہ ہیں اور پھولتے پھلتے ہیں اور جو مرے بھی تھے وہ امتیازی طور پر نہیں مرتے تھے۔ ورنہ ان کے متعلق حاشیہ آرائیوں کی ضرورت نہ پڑتی کہ بددعاء کبھی اندرونی خوف سے ٹل جاتی ہے یا صدقہ خیرات اسے دفع کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ درست ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جس پیشین گوئی یا بددعاء کو اپنی صداقت کا معیار قرار دیا جائے تو کیا اس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر یہی بات تھی تو کیوں اچھل اچھل کر اسے پیش کیا تھا۔ دیکھئے انبیاء علیہم السلام نے بددعائیں دیں اور پیشین گوئیوں سے اپنی اپنی قوم کو متنبہ کیا۔ مگر کبھی بھی وقوع عذاب کو اپنی سچائی کا معیار قرار نہیں دیا اور نہ ہی اپنے اوپر مغالطات اور گالیاں لی ہیں۔ مگر وہ پھر بھی پوری اتریں اور یہاں اگر کوئی بہانہ نہیں چلتا تو کہہ دیتے ہیں کہ فریق مخالف اندر سے تائب تھا یا خوفزدہ ہو گیا تھا یا یوں کہا جاتا ہے کہ اس کا وقوع عہد خلافت میں ہوگا۔ کیونکہ قدرت ثانیہ کا بروز بھی آپ کا ہی عہد ہے۔ مگر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔

شیر برنی دیگر و شیر نیستاں دیگر است

۲۴..... روح کا بار بار دنیا میں آکر جنم بدلنا جس طرح باطل ہے۔ اسی طرح مسیح قادیانی کا بار بار بروز بھی باطل ہے۔ اگر یہ درست تھا تو جس طرح مسیح قادیانی پر انبیاء کا بروز ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح بعد میں دوسرے کے اندر بھی جاری رہنا چاہئے تھا۔ یہ کیا غضب ہے کہ آپ نے باقی انبیاء کا بروز بند کر دیا ہے اور اپنا بروز جاری رکھا ہے تو گویا یہ مطلب ہوا کہ اب حضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ براہ راست مفید نہیں جب تک کہ مسیح قادیانی کے اسوۂ حسنہ کو درمیان میں واسطہ نہ سمجھا جائے۔ باقی رہے دوسرے انبیاء تو ان کو دوسرے سے بے تعلق ہی کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقدس کی بیماری نے زور پکڑ کر نحوث کا مادہ بھی پیدا کر دیا تھا اور ہچھو ما دیگرے نیست کا مرض ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے آقائے نامدار کی بھی کچھ پرواہ نہیں کی اور کہہ دیا کہ گوان کے ذریعہ سے ہی ہم نے ترقی حاصل کی

ہے۔ مگر خدا کے ساتھ ہمیں ایسا تعلق ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے تو ایک دفعہ آپ خدا بن گئے تھے اور بہاء اللہ سے بڑھ کر صفات الہیہ، تکوین، تفرید اور توحید بالمدادہ و بغیر مادہ اور کن فیکون پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری دفعہ ابن اللہ بن کر خدا سے یہ لفظ سنے تھے کہ اے میرے بیٹے میری بات سن۔ تیسری دفعہ جب عروج ہوا تو اپنی قدرت ثانیہ مرزا محمود کو خیر الرسل اور خدائے نازل من السماء کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تو گویا ”کل یوم هو فی شان“ آپ کے لئے ہی شایان ہے۔ مگر ایک مسلم جو خدائے قدوس کو ان حیا سوز آلائشوں سے پاک سمجھتا ہے اور ایسے مدعی کو غلط گویا یا مؤلف الدماغ یقین کرتا ہے۔ نہ اسے ایسے بروز کی ضرورت ہے اور نہ ایسے مومی خدا کی ضرورت ہے کہ جھٹ بیٹا بن گیا پھر خیال آیا تو باپ یا دادا بن گیا۔ خدا ایسی گمراہ کن شرکیہ تعلیم سے مسلمانوں کو بچائے۔ مرزا بیوں کو شکایت ہے کہ عداوت میں انسان پرستی کی تعلیم موجود ہے۔ مگر اپنا گھر سارے کا سارہی آتش کش کر کے سب سے ہم ہو چکا ہے اور خبر تک نہیں۔

۲۵..... جناب کا الہام ہے کہ: ”کسف الشمس والقمر فی رمضان

فبای آلاء ربکما تکذبان“ تعجب ہے کہ پہلے تو کسوف و خسوف کا مطلب غلط سمجھے پھر تاویل ایسی کی کہ جس پر طفل مکتب بھی ہنسی اڑاتا ہے۔ پھر اتنی شوخی دکھائی کہ سورہ رحمان کی ایک آیت کا نمونہ پیش کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کا ملہم فصیح اللسان نہ تھا۔ ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ آپ بھی مسیلمہ کے فرقان اول و ثانی کا بروز پیش کر دیتے۔ پھر یہ غضب ڈھایا ہے کہ: ”معدبوا“ سے یہ مطلب لیا ہے کہ ہماری صداقت کے لئے مخالفین کو طاعون سے عذاب دیا جائے گا اور جاہلوں کو ایسا تو بنایا ہے کہ وہ اس تحریف قرآنی کو معارف قرآنی سمجھنے لگ گئے۔ کیا اسی گھمنڈ پر کہہ دیا تھا کہ چودھویں صدی سے پہلے ہزار سال تک قرآن مخفی رہا اور اس کے معارف کھلے ہیں تو صرف چودھویں صدی میں مگر وہ بھی صرف ہم پر۔ جناب اگر ایسے ہی معارف ہیں تو تمام ملاحدہ و زنادقہ آپ سے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی آپ سے نمبر زیادہ لے جاتے ہیں جو قرآن کی آیت ”تنزل علی کل افک اثیم“ سے آپ پر فتویٰ شیطانی لگا دیتے ہیں۔ قربان جائیں ایسے معارف پر کہ جنہوں نے اسلام ہی بدل ڈالا اور قرآن پاک کو ایسا بازی طفلان بنا ڈالا ہے کہ آج وہ لوگ بھی معارف بیان کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کو ایک حرف بھی پڑھنا نہیں آتا اور معارف بیانی ایسی بدنام ہو گئی ہے کہ جب ہم معارف کا نام سنتے ہیں تو فوراً یہ نقشہ ذہن میں جم جاتا ہے کہ معارف بتانے والا ضرور ماؤف الدماغ ہو گا یا مولانا جناب (جاہل و نادان و ابلہ بیوقوف) ہوں گے۔ ورنہ کسی مسلم کو یہ جرأت نہیں پڑتی کہ اسلام کو نئی طرز پر پیش

کرے۔ کیونکہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مذہب تیار کیا ہے اور اس کا عنوان ہم نے بھی اسلام ہی رکھا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ بہت مانوس ہو چکا ہے۔

۲۶..... نبی کی شناخت کے تین طریق (عقل و نصرت الہی و تصدیق سلف) اگر تسلیم کئے جائیں تو جناب کی ذات میں نہیں پائے جاتے۔ کیونکہ عقلی دلیل یہی دی جاتی ہے کہ جب دنیا میں ظلمت آتی ہے تو روشنی کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہزار سال سے قرآن مخفی تھا۔ کیونکہ فتح اعوج گمراہی کا ہزار تھا۔ اس لئے ظلمت تھی۔ چودھویں صدی کا آغاز ہدایت کے لئے آیا اور روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دلیل بہائیت میں بھی موجود ہے اور ہر ایک مدعی نبوت اپنی تصدیق کے لئے ادھر ادھر کی باتوں سے استدلال پیش کر سکتا ہے اور یہ دلیل بھی اصولی طور پر غلط ہے۔ کیونکہ یہ ساتواں ہزار ہے جو ہدایت کا شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹا ہزار فتح اعوج کے لئے اور گمراہی کا سال تھا۔ پانچویں ہزار میں بھی صرف تین سو سال (قرونِ ثلاثہ) ہدایت کے لئے تھے۔ باقی سات سو سال گمراہی کا دور تھا۔ پھر چوتھے ہزار میں صرف ۳۳ سال ہدایت کے لئے تھے جو مسیح کا زمانہ تھا اور اسی کے قریب قریب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک گمراہی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ ناظرین غور کریں کہ خیر الانام کے حصہ میں ہدایت کا زمانہ صرف چار سو سال ہے اور ہزار سال امت گمراہی میں رہی ہے۔ خدا بڑا ہی بے رحم ہے کہ رحمتہ اللعالمین بھیج کر بھی خیر الام کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ پھر باقی پڑتال کی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے نیک سلوک نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایک ہزار سال تک خبر گیر ہی نہیں ہوتا اور جب ہدایت کے ہزار میں خبر لیتا ہے تو اس میں بھی مٹھی بھر انسان ہدایت پاتے ہیں۔ باقی گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں تو گمراہ ثابت ہوا کہ مرزائیوں کے نزدیک سبقتِ رحمتی غنصی غلط ہوگا اور یہ ماننا پڑے گا کہ خدا اپنی مخلوق کو گمراہ کرنے میں بہت خوش ہوتا ہے اور ”قلیل من عبادی الشکور“ کی مثال مرزا قادیانی سے ہی پوچھ کر قائم کرتا ہے۔ نصرت الہی کا مفہوم بہاء اللہ نے اپنی درخواست میں بیان کیا ہے۔ غالباً وہی مفہوم جناب نے بھی مراد لیا ہے کہ تسخیرِ قلوب مراد ہے۔ ورنہ ظاہری حکومت مراد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ پیر صاحب تو ہمیشہ قید میں ہی رہتے تھے اور مرید صاحبان کو مقدمہ بازی اور دعاء بازی، مہابلہ بازی اور لیاقت بازی یا نبوت بازی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی اور حکومت کا پاس ہر وقت پیش نظر تھا تو اب محکوم کو حاکمانہ نصرت ہو تو کیسے ہو۔ اس لئے یہ بہانہ بنایا کہ ہم دلوں پر حاکم ہیں اور دلوں کی تسخیر ہماری فتحِ مندی اور نصرت الہی ہے۔ مگر اس میں بھی پیر کے نمبر زیادہ ہیں۔

۲۷..... مورخ طبری نے روایت کی رو سے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے۔ جن میں سے چھ ہزار سال گزر چکے ہیں۔ ساتویں ہزار میں حضور ﷺ کی امت جا رہی ہے۔ یوں بھی وارد ہے کہ: ”الدنيا سبعة الاف سنة انفاى آخرها الفأ“ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ دنیا سات ہزار سال ہے اور میں آخری ہزار سال (ساتویں ہزار سال) میں ہوں۔ ”رواه الطبرانى والبيهقى فى دلائل النبوة“ اس تحقیق کی رو سے مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ غلط ہو گیا کہ میں ساتویں ہزار سال میں بھیجا گیا ہوں اور ثابت ہو گیا کہ غلام نے صریحاً اپنے آقا پر ڈاکہ مارا ہے۔

۲۸..... امام سیوطی نے اپنے رسالہ ”بسط الكف فى مجاوزة هذه الامة الالف“ میں لکھا ہے کہ ساتویں ہزار سال پر کچھ صدیاں اس امت کے لئے بڑھائی گئی ہیں۔ اب مرزا قادیانی کا یہ کہنا غلط ہو گیا کہ چودھویں صدی پر دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نئے سرے سے دنیا کا ذر جدید شروع ہوا۔ جس کا (دنیا ختم ہونے کے بعد اس کے دور جدید کا) میں آدم ہوں اور خدا نے کہا کہ: ”اسكن انت وزوجك الجنة“ (تو اور تیری بیوی جنت میں رہو) یہ خیال دراصل بہائی تعلیم سے اڑایا ہوا ہے۔ ورنہ یہ بلند پروازی جناب کو کہاں سے حاصل تھی؟

۲۹..... صحیحین کی حدیث میں خود آپ نے ٹھوکر کھائی ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نزول مسیح کے وقت پہلے امام الزمان موجود ہوں گے۔ جو مسلمانوں کو مسیح کے سپرد کر دیں گے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ مسیح امت محمدیہ کا ایک فرد ہوگا۔ جیسا کہ کاویہ جلد اول میں مذکور ہے۔ بہر حال یہ پیشین گوئی بھی دانیال کی پیشین گوئی کی طرح آپ پر چسپاں نہ ہوئی۔ مال کا آنا اور سیالکوٹ میں کامیابی دیکھنا اور براہین کا بیکیسی میں لکھنا صداقت کا نشان نہیں ہے۔ کیونکہ نہ تو سرسید کے برابر آپ کو کامیابی ہوئی۔ نہ ہی اس کے برابر بیکیسی میں ایسا اعجاز دکھایا کہ اسلامی یونیورسٹی قائم کی ہو۔ آپ سے بڑھ کر تو دیا نند اور مہاتما گاندھی کو زیادہ کامیابی حاصل ہو چکی ہے تو پھر یہ کیا معیار ہوا۔ شاید ”یدخلون فى دین اللہ افواجاً“ کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کا خیال کر لیا ہوگا۔ مگر شرع دامنگیر ہو گئی ہوگی۔

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک

۳۰..... کتاب الاعداد ۱۶ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ملک کنعان کے پاس کوہ فاران کے قریب لے آئے اور بنی عناق سے لڑنے کو حکم دیا تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تو آپ نے داتن اور امیرام کو بلا بھیجا تو دونوں نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف تورح

نے اڑھائی سو آدمی لے کر بغاوت پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر کیوں ناحق حکومت کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خدا کے حضور کھڑا کر کے بددعاء کی تو وہ آگ میں بھسم ہو گئے۔ پھر داتن اور ابیرام کے گھر آ کر کہنے لگے کہ اگر تم پر وہی حادثہ آئیں جو لوگوں پر آتے ہیں تو یوں سمجھو کہ تم پر عذاب نہیں آیا اور میری صداقت بھی ظاہر نہ ہوگی۔ ورنہ تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ سو وہ دونوں اپنے گھروں کے دروازوں میں کھڑے ہو گئے تو فوراً پاؤں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی اور تمام بال بچے اور مال و متاع زمین میں چلا گیا اور اوپر سے زمین پھر مل گئی۔ اس واقعہ نے بتا دیا کہ جو پیشین گوئی اظہار صداقت کے لئے ہوتی ہے اس میں انوکھا پن ہوتا ہے اور عام حوادث کے ماتحت نہیں ہوتی۔ اب اگر اس معیار کے ساتھ مرزائیت کی پیشین گوئیوں کو پرکھا جائے تو کوئی بھی صحیح نہیں نکلتی۔ مگر مرزا صاحب کہتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری پیشین گوئیاں سچی ہیں ایک دو اگر سچی نہیں نظر آتیں تو ہم سے پوچھیں تاکہ ہم بتادیں کہ اس میں کبھی اجمال ہوتا ہے۔ کبھی مشروط ہوتی ہے۔ کبھی صدقہ خیرات سے وہ ٹل بھی جاتی ہے۔ کبھی فریق مخالف قوم یونس علیہ السلام کی طرح تائب ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی عقبیٰ کا ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقوع بعد الموت ہوتا ہے اور ملہم سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں ہوگا۔ بہر حال ایسے بہانوں سے کچھ فائدہ نہیں۔ ہم تو سیدھا جانتے ہیں کہ نبی کی بددعاء نہیں ملتی اور نہ ہی وہ حاشیہ آرائیوں کی محتاج ہوتی ہے۔ دعائے یونس علیہ السلام کو بھی خواہ مخواہ بدنام کر رکھا ہے۔ کیونکہ زیر بحث وہ دعائیں ہیں جو معیار صداقت ٹھہرائی جائیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے نہایت سادگی سے ان کو عذاب الہی کی خبر دی تھی اور خود وہاں سے چل دیئے تھے۔ تب قوم نے اپنے نبی کی ناراضگی کو موجب ہلاکت سمجھا اور ایمان لا کر ان کی تلاش میں نکلے تو جناب باری میں ٹاٹ پہن کر کمال عاجزی کے ساتھ آہ و زاری کرنے لگے تو خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ مگر ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جن کی نسبت توبہ یا خوف الہی کو منسوب کیا جاتا ہے کیا انہوں نے کبھی بھول کر بھی مرزا قادیانی کو نبی مانا تھا؟ یا ان کی ہلاکت اگر ہوئی تھی تو کیا عام حالات کے ماتحت نہ ہوئی تھی؟ خدا کا شکر ہے کہ مرزا قادیانی کی اپنی وفات بھی فوری اور غیر معمولی حادثہ سے ہوئی تھی۔ ورنہ اگر کسی کی موت ایک دست یا چلی بھرتے سے بھی ہوتی تو یہ لوگ شور مچا دیتے کہ دیکھئے وہ عذابی موت سے مرا ہے۔ مگر اب کیا کریں کوئی پیش نہیں جاتی۔ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں۔ کوئی پیشین گوئی بھی عام حالات کے خلاف ثابت نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ معیار صداقت نہیں بن سکتیں۔

۳۱..... اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے پھر کہہ دیا ہے کہ وفات مسیح کا مسئلہ ہمارا بنیادی پتھر ہے۔ جس کی تائید شب معراج سے ہوتی ہے کہ حضور ﷺ نے مسیح علیہ السلام کو مردہ انبیاء میں دیکھا تھا اور خطبہ صدیقیہ میں آپ کی وفات صراحتاً مذکور ہے۔ گو اس دلیل کی تردید کا وہ جلد اول میں ہو چکی ہے۔ مگر یہاں پھر بھی اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب مرزائیت میں معراج جسمانی صرف ایک قسم کا زبردست کشف ہی تھا جس کے مدعی خود مرزا قادیانی بھی تھے۔ تو یہ کہاں سے ضروری معلوم ہو گیا کہ کشف میں صرف مردے ہی نظر آئیں یا صرف زندے؟ یہ کیسی بے بنیاد بات کہہ دی۔ اس پر تو بچے بھی ہنسی اڑائیں گے۔ پھر نبی بن کر ایسی لائینی دلیل دی۔ لاجول ولا حول ولا قوۃ الا باللہ!

دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی

کوکب دہلی یکم اگست ۱۹۲۸ء میں لکھا ہے کہ:

اول..... دانیال نے ایک فرشتہ کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ ایک مدت دو مدت اور ڈیڑھ مدت پھر کہا کہ ۱۲۹۰ دن میں دائمی قربانی موقوف ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ مبارک وہ ہے جو ۱۲۳۵ تک انتظار کرتا ہے۔ (اور کتاب الاعداد ۱۴ میں مذکور ہے کہ یوشن اور کالب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک کنعان کا حال دریافت کو بھیجا تھا تو وہ چالیس روز کے بعد واپس آئے تھے۔ مگر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم فاران ہی میں رہیں گے۔ ملک کنعان کو کبھی نہ جائیں گے۔ کیونکہ وہاں کے باشندے ہم کو مار ڈالیں گے۔ اب خدا کا حکم آیا کہ ان چالیس دن کے بدلے چالیس سال تک تم کو ملک کنعان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہیں مرو گے اور تباہ ہو جاؤ گے۔ چالیس سال کے بعد تمہاری نسلیں وہاں داخل ہوں گی)

دوم..... اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں یوم سے مراد سال ہوتا ہے اور مدت سے مراد ایک سال شمسی ۳۶۰ یوم ہوتے ہیں اور جب اس کے ساتھ ایک اور سال ۳۶۰ یوم اور نصف سال ۱۸۰ یوم جمع ہوں تو کل یوم ۱۲۶۰ ہوں گے۔ جن سے مراد پھر سال ہوں گے اور ۱۲۶۰ ہجری کی طرف اشارہ ہوگا۔ جس میں حضرت باب ظاہر ہوئے تھے۔

سوم..... سال قمری ۳۵۴ یوم کا ہوتا ہے اور سال شمسی بحساب اہل نجوم ۳۶۵ یوم کا تو ۱۲۶۰ ظہور باب کو سال قمری ۳۵۴ میں ضرب دے کر ۳۳۶۰۶۰ حاصل کرو اور اسے سال شمسی ۳۶۵ پر تقسیم کرو۔ تاکہ ۱۲۲۲ کا عدد حاصل ہو اور ۱۶۲۲ اس میں جمع کرو۔ (کیونکہ اسی ۶۲۲ء میں سنہ ہجری کا آغاز ہوا ہے) تو ۱۸۴۳ء ۱۲۶۰ھ حاصل ہوگا۔ تو گویا ۱۲۶۰ھ میں ۱۸۴۳ء کی طرف بھی



اشارہ موجود ہے۔ اسی واسطے اس پیشین گوئی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ راز مخفی ہے۔ دانشمند ہی اسے معلوم کریں گے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذریعہ سے ہو چکا ہے۔ پھر چھ سال بعد ۱۸۵۰ء کو شیراز میں باب کو بعد احباب کے گوئی سے اڑایا گیا۔

چہارم..... یوحنا ۱۰۹ء میں مسیح علیہ السلام کا قول مذکور ہے کہ میں باب الوصول الی اللہ ہوں۔ اس لئے باب نے بھی (بروزی رنگ میں) اپنا نام باب رکھ لیا تھا۔ ملا کی ب ۱۰۳ء میں ہے کہ مسیح اپنے ظہور سے پہلے اپنا ایک مبشر بھیجے گا۔ (تو باب بہاء کے مبشر بھی بن گئے) مکاشفات میں یہ بھی مذکور ہے کہ خدا اور مسیح آخری ایام میں ظاہر ہوں گے اور مسیح خدا کی حکومت قائم کرے گا اور خدا بیکل انسانی میں ظاہر ہو کر روپ لے گا۔ تو وہ انسان مظہر الہی اخوت عامہ اور امن کلی پھیلائے گا۔ (تو وہ مسیح جناب بہاء ہیں۔ جنہوں نے اتحاد ملی اور وحدت بین الاقوام والادیان کا حکم دیا ہے)

پنجم..... امریکا میں ”ملوانٹ“ فرقہ نے (جو تشریح مکاشفات بائبل میں مشہور ہے) لکھا ہے کہ مسیح کا ظہور ۱۸۴۳ء میں ہوگا۔ مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ مسیح جسمانی طور پر امریکا میں ظاہر ہوگا۔ حالانکہ اس کا ظہور ایران میں مقدر تھا۔ اس لئے وہ ناکام رہے۔

ششم..... مفاوضات عبدالبہاء مطبوعہ ۱۹۰۸ء بریل لیڈن ہالینڈ کے حصہ اول میں یوں لکھا ہے کہ:

..... ۱ دانیال کی پیشین گوئی میں اڑھائی سال کا ذکر ہے۔ جن کے مہینے ۴۲ ہوتے ہیں اور ایام ۱۲۶۰ جو میلاد بہائیہ کی تاریخ ہے اور ۱۲۹۰ (یعنی ۱۲۸۰ھ) میں آپ نے باغ رضوان بغداد میں ۱۲ روز اقامت کے بعد اعلان نبوت کیا (اور کتاب ایقان لکھی) اور ۱۲۹۰ میں سے دس عدد اس لئے کم کئے ہیں کہ حضور ﷺ نے چالیس سال بعد دعویٰ نبوت کیا تھا اور اعلان نبوت تین سال بعد (۴۳ سال کی عمر میں) ہوا تھا۔ پھر ہجرت ۵۳ سال میں ہوئی اور وفات ۶۳ میں تو چونکہ اعلان نبوت ہجرت سے پہلے پورے دس سال ہوا تھا۔ اس لئے ۱۲۸۰ء میں دس سال ملا کر ۱۲۹۰ بتایا گیا تاکہ اعلان نبوت بہائیہ کی تاریخ اعلان نبوت محمدیہ سے شروع کی جائے اور مقابلہ درست ہو۔

۲..... دانیال علیہ السلام کی یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ دو ہزار تین سو روز (یعنی سال) تک بیت المقدس تعمیر ہو جائے گا۔ یعنی ولادت باب تاریخ تجدید عمارت بیت المقدس ۲۳۰۰ سال کو ہوگی۔ کیونکہ ولادت مسیح اور آغاز تجدید کے درمیان ۲۵۶ سال کا عرصہ تھا اور میلاد مسیح و میلاد باب کے درمیان ۱۸۴۳ سال کا عرصہ ہوا ہے۔ دونوں کو ملائیں تو وہی ۲۳۰۰ سال کا عرصہ نکلتا ہے۔

۳..... کتاب عزرا فصل اول میں ہے کہ میلاد مسیح سے پہلے ۵۳۶ سال کو شاہ کورش نے تجدید بیت المقدس کا حکم دیا تھا۔ فصل ہفتم میں مذکور ہے کہ شاہ ارتخشستا جب سات سال حکومت کر چکا تو قبل از میلاد ۷۷۷ میں اس نے بیت المقدس کو از سر نو تعمیر کرایا اور نحمیا فصل دوم میں ہے کہ قبل از میلاد مسیح ۴۴۴ میں ارتخشستا نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی تجدید کرائی جائے تو خلاصہ یہ ہوا کہ چار دفعہ بیت المقدس مسمار ہوا اور چار دفعہ از سر نو تعمیر ہوا اور ہمارے زیر نظر شاہ ارتخشستا کی تعمیر کی تاریخ ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر ولادت باب کا سنہ میلاد اخذ کیا ہے۔

۴..... ۴۵۷ سال کو دانیال علیہ السلام نے ۷۰ ہفتہ کے عنوان سے بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ۷۰ ہفتہ کے دن ۴۹۰ ہوتے ہیں۔ جو ۴۹۰ سال کے برابر ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ ۴۵۷ میں مسیح کی ولادت ہوئی اور ۳۳ سال میں واقعہ صلیب پیش آیا تو واقعہ صلیب اور تجدید بیت المقدس میں  $457 = 33 + 490$  سال ہوئے۔

۵..... دانیال فصل نہم میں بھی یہی مدت مذکور ہے۔ کیونکہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ سات ہفتہ یعنی ۴۹ سال تک بیت المقدس زیر تعمیر رہا۔ پھر ۶۲ ہفتہ تک ولادت مسیح ہوئی اور ایک ہفتہ بعد صعود مسیح ہوا تو کل مدت ۷۰ ہفتہ ہوئی۔

۶..... تورات میں وعدہ ہے کہ رب الجود اور مسیح آئیں گے۔ انجیل میں ایلیا اور مسیح کا رجوع مذکور ہے اور اسلام میں مہدی و مسیح کا انتظار ہے۔ یعنی تینوں میں دو دو موعود کا ذکر ہے۔ (جو باب و بہاء سے پورا ہوا) کہ وہ زمین کو غلہ بریں بنا کر وحدت بین الادیان والا قوام پیدا کریں گے۔ قادیانی مذہب نے بھی دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کو اپنے مسیح قادیانی پر چسپاں کیا ہے کہ ۱۲۶۰ میں آپ موجود تھے۔ لیکن ادعائے نبوت اور ولادت یا وفات کا صحیح وقت نہیں بتا سکتے۔ آپ کی وفات ۱۳۲۶ میں ہوئی ہے۔ اگر اس میں بہائی مذہب کی طرح دس سال اور ملا کر ۱۳۳۶ سمجھا جائے تو پھر بھی آپ کا وجود دنیا میں پایا نہیں جاتا۔ ہاں اگر یہ اشارہ ہوتا کہ مسیح ۱۳۳۶، ۱۳۲۶ میں مر جائے گا تو اس پیشین گوئی کا یہ مطلب نکلتا کہ وفات مسیح قادیانی کے بعد خیر و برکت کا سارا استدلال اس کا زمانہ فتح اعوج کے زمانہ میں داخل ہوگا۔ مگر ہم قادیانیت شروع ہوگی اور اس کتاب سے پیش کریں گے۔ جو ناظر دعوت و تبلیغ قادیان زین الدین ولی اللہ شاہ نے ۵ دسمبر ۱۹۳۱ء کو مرتب کر کے سالانہ جلسہ قادیان دسمبر ۱۹۳۱ء میں سنا کر خراج تحسین حاصل کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا۔ ”انبیاء کی آسمانی بادشاہت اور اس کی تکمیل مسیح موعود کے ہاتھ سے۔“

## ۲۱..... بائبل کی پیشین گوئیاں

دسمبر ۱۹۳۱ء کے سالانہ جلسہ قادیان میں ناظر شعبہ تبلیغ مرزائیت ایم ولی اللہ نے ایک مطبوعہ مضمون زیر عنوان ”آسمانی بادشاہت اور اس کی تکمیل مسیح موعود کے ہاتھ سے“ پڑھ کر خراج تحسین حاصل کیا تھا۔ جس میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جو کام پہلے نبی نہیں کر سکے یا جس کو وہ ادھورا چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کام مسیح قادیانی پایہ تکمیل تک پہنچا کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم ناظرین کے سامنے وہ مضمون پیش کرتے ہیں اور بعد میں اس پر تنقید کریں گے خلاصہ مضمون یہ ہے۔

دانیال علیہ السلام نے کہا کہ مقدس لوگ جھوٹے سینگ کے قبضہ میں دیئے جائیں گے۔ یہاں تک ۱۲۶۰ھ کا زمانہ گزر جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ جب سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور مکروہ چیز قائم کی جائے گی تو اس کا اخیر ۱۳۳۵ھ ہوگا۔ مبارک وہ جو انتظار کرتا ہے اور ۱۳۳۵ھ تک آتا ہے۔ ڈومبل بی لکھتا ہے کہ ۱۸۹۸ء میں مسیح آئے گا۔ تمام نبی ایسی بادشاہت کے قائم ہونے کی خبر دیتے آئے ہیں کہ جس میں قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ اندھے بینا ہوں گے۔ خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام بنی نوع انمان راہ نجات دیکھیں گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ جس سے آدم نکالے گئے اور اس کا نام سعادت اور خوشحالی کا جنت ہے۔ تمام نبی اس کو مکمل کرنے میں کوشش کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر ان سے مکمل نہ ہو سکا۔ چنانچہ یسعیا علیہ السلام کا قول ہے کہ کوہ سلح کے باشندے ایک نیا گیت گائیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آسمانی بادشاہت نزدیک ہے اور یہ وہی ہے جو یسعیا علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ دانیال علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے کہ انہی ایام میں خدا ایک سلطنت قائم کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی اور دوسروں کے قبضہ میں نہ پڑے گی اور ابد تک قائم رکھے گی۔ (ب ۲۲، ۲۳)

باب ہفتم میں دانیال کا قول درج ہے کہ چار حیوان ہیں۔ یعنی سلطنتیں ہیں۔ چوتھی سلطنت روم جس کے دس بادشاہ آپ کو دس سر نظر آتے تھے اور یہ سلطنت ۶ عیسوی میں تقسیم ہوگئی۔ پھر دیکھا کہ دس سینگوں کے درمیان ایک چھوٹا سینگ ہے۔ جس میں آنکھ اور منہ نہیں۔ خوفناک تھا اور مقدسوں سے لڑتا تھا۔ اس نے خدا کے مخالف باتیں کیں اور شریعت بدلنا چاہتا تھا۔ یہ سینگ دجال ہوگا جو مقدسوں سے سلطنت چھین لے گا۔ یہاں تک کہ ۱۲۶۰ھ گزر جائے گا اور مقدس اس سے سلطنت واپس لے کر اسے تباہ کریں گے۔ اب وہ سلطنت عالمگیر ہوگی اور سب اس کے ماتحت ہوں گے۔ (ب ۱۴، ۱۵) میں ذکر کیا علیہ السلام کا قول ہے کہ خدا آ کر ساری دنیا کا

بادشاہ بنے گا اور ساری زمین عریا کے میدان کی طرح ہموار ہو جائے گی۔ ملاکی کا قول ہے کہ عہد کا رسول (یعنی خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھنے والا رسول) ناگہان آئے گا۔ متی ب ۱۰، ۹ میں مسیح کا قول ہے کہ آسمانی بادشاہت نزدیک ہے۔ عہد کے رسول کا انتظار تھا۔ یحییٰ علیہ السلام سے یہود نے پوچھا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ قرآن شریف میں ہے کہ: ”ربنا واتنا ما وعدتنا علیٰ رسـلک“ یعنی وہ بادشاہت جو نبی قائم کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں عنایت کر۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت دوسری دفعہ مسیح ۱۲۶۰ یا ۱۲۳۵ یا ۱۲۶۸ میں کریں گے۔ ڈمبل بی لکھتا ہے کہ ہم اس زمانہ کے قریب ہیں کہ جس کے متعلق مسیح علیہ السلام نے لوقا ب ۵۲، ۲۱ میں فرمایا ہے کہ جب تک غیر اقوام کی میعاد پوری نہ ہو۔ یروشلیم ان سے پامال رہے گا۔ سورج چاند میں نشان ظاہر ہوں گے۔ دنیا تکلیف میں ہوگی۔ سمندر کی موجیں اور بلائیں ڈرائیں گی اور آسمان کی قوتیں بلائی جائیں گی۔ اس وقت ابن آدم بڑے جلال کے ساتھ آسمان سے اترے گا۔

نئے زمانہ کا آغاز اور غیر ممالک کا خاتمہ ۱۸۹۸ء اور آمد ثانی کی حد ۱۸۹۸ء/۴ ہے۔ جس کے بعد تیس سال میں آپ نشان ظاہر کریں گے اور یہود یروشلیم میں آباد ہوں گے۔ ٹرکی کا خاتمہ ہوگا۔ اس عرصہ میں عالمگیر بادشاہت کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اس کی انتہاء ۱۸۲۸ء تک ہے۔ جیسا کہ دانیال کا قول گذر چکا ہے کہ جس وقت سے قربانی ہوگی۔ ۱۲۹۰ء دن ہوں گے۔ مبارک وہ جو ۱۲۳۵ء تک آتا ہے اور اس وقت سے ساتواں ہزار شروع ہوگا۔ جسے مبارک کہا گیا ہے۔ ڈمبل بی لکھتا ہے کہ مسیح پہلی دفعہ درمیانی آسمان میں آئے گا اور فرشتہ بھیج کر اپنے مقدسوں کو آسمان پر بلائے گا۔ دوسری دفعہ جب اترے گا تو تمام قدوسیوں کے ساتھ اترے گا اور بیچہ ضلالت کے شناخت نہ کیا جائے گا۔ مگر راست باز اسے ضرور شناخت کر لیں گے۔ پہلی آمد کی آخری حد ۱۸۹۸ء ہے۔ دوسری آمد کے وقت اس حیوان (دجال) کو آگ میں ڈالا جائے گا اور سعادت کا ہزاروں سال شروع ہوگا اور ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا کیا جائے گا۔ یہ سینک دہائی حکومت ہے اور اس کے ظاہر ہونے کی میعاد بھی وہی ۱۲۶۰ ہے اور یہ زمانہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس تباہ کرنے والا (روم) تباہ ہوگا اور سوختی قربانی بند ہو جائے گی۔ لیکن لکھتا ہے کہ بیت المقدس ۱/۳ء کو فتح ہوا۔ اگر اس میں ۱۲۶۰ شامل کئے جائیں گے تو ۳/۴ء ۱۸۹۷ء مدت ہوتی ہے۔ جس کو ڈمبل ۱/۳ء ۱۸۹۸ء لکھتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ دجال رومن کیتھولک ہیں جن کا خاتمہ ۱۸۷۸ء میں ہوا۔ ڈمبل اسلامی حکومت کو دجال کہتا ہے۔ جس کا خاتمہ ۱۸۹۸ء/۴ پر ہوا۔ مگر چونکہ اسلامی حکومت کا قیام ظہور دجال، اسلامی حکومت کی دجال کے ہاتھ

سے جاہلی مسیح موعود کی آمد اور دجال حکومت کے خاتمہ کا آغاز یہ پانچوں امور ایک ہی مدت میں مقدر ہیں۔ اس لئے ذمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ حکومت اسلام ہی دجال ہے۔ جس کے خاتمہ کے لئے دانیال نے ۱۲۶۰ یا ۱۲۹۰ سال کی میعاد بتائی ہے اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام میں یہ علامتیں نہیں پائی جاتیں کہ دجال روم سے پیدا ہو کر شمال سے نکلے گا اور حیوانی بادشاہت کرے گا اور وہ سیاسی حیوان ہوگا۔ پالیسی سے اپنی تجارت کو فروغ دے گا۔ دھوکے سے عجیب طرح اوروں کو تباہ کرے گا۔ الغرض ایسے شرا ۱۸۹۸ء میں نزول مسیح قرار پایا تھا۔ حج الکرامہ ۱۳۹ میں بھی چودھویں صدی کا آغاز ہی ظہور مسیح کا زمانہ مقرر ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک ۱۸۹۸ء کی مارچ آخری حد تک تھی۔ مگر تیس سال اور بھی گذر گئے اور آخری میعاد ۱۸۹۸ء اور ۲۱ مارچ بھی گذر گئی۔ لیکن آنے والا نہ آیا باوجود یہ کہ سب نشان پورے ہو چکے تھے۔ چھوٹے سینک کے قبضہ میں مقدس بھی دیئے گئے اور دجال کے قبضہ میں ۱۸۹۸ء سے پہلے ہی دیئے جا چکے تھے۔ ترکی حکومت بھی اٹھادی گئی۔ یہودی بھی آباد ہو گئے۔ ۱۹۲۸ء کو تیس سال بھی گذر گئے۔ جس کے بعد ساتواں ہزار سال شروع بھی ہو گیا۔ گو قادیان میں مسیح نے اپنی مسیحیت کا دعویٰ ۱۸۹۱ء میں کر دیا تھا۔ مگر لوگوں نے شناخت نہ کیا تھا۔

عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد روحانی تھی۔ جس کا بروز یورپ کی ترقی میں ہوا اور خدائی بادشاہت کا بروز یورپ کی مالداری میں ہوا۔ مگر یہ غلط ہے کیونکہ یورپ کی حکومتیں شہوانی ہیں اور دجل و فریب سے پر ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ خدائی حکومت کی حقدار نہیں۔ کیونکہ مسیح کا قول ہے کہ دنیا دار کو آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ ”سخر لکم ما فی الارض جمیعا“ کے تحت میں حیوانی حکومت نے ترقی کرتے کرتے انسانوں کو بھی غلام بنا لیا ہے۔ مگر تسخیر قلوب نہیں کر سکی۔ اس کام کے لئے روحانی حکومت انبیاء قائم ہو گئی اور جس نبی نے اس بادشاہت کو تکمیل تک پہنچایا وہی اس بادشاہت کا حقدار ہوا۔ یعنی وہ نبی، جس کو امی پکارا جاتا ہے اور امی کا معنی ہے جامع جمع صفات کاملہ۔ کیونکہ یہ مشہور ہے کہ: ”الام لکل شئی هو المجمع“ جامع اشیاء کو ام کہا جاتا ہے۔ اس نبی نے غلام و آقا کو ایک صفت میں کھڑا کر دیا اور غلامی کی قیدیں توڑ ڈالیں۔ قرآن شریف میں سرکش حکام کو جن کہا گیا ہے اور مظلوم رعایا کو انس بتایا ہے۔ شریر اولیوں کو ”جنان الجبال“ کہتے ہیں۔ ”نولی بعض الظالمین بعضھا“ میں محکوم کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے حق عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کو ظالم اس لئے کہا گیا کہ انہوں نے قلوب پر تسلط کرنا چاہا تھا۔ مگر ان پر کامیاب نہ ہو سکے۔ کیونکہ وہ تخت گاہ الہی ہیں۔ ”الجن

والانس فی النار . دخلت امة لعنت اختها . سادتنا وكبراءنا“ میں بھی حاکم و محکوم ہی مراد ہیں۔ حضور ﷺ کا زمانہ شیطانی حکومت کا خاتمہ تھا۔ ”بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا“ میں بھی مذکور ہے کہ ہم مسلمان اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو یا اللہ تو نے مقرر کر رکھی تھی اور اس سے پیشتر شیطان کو ایک خاص مدت تک مہلت دی گئی تھی۔ آپ نے نماز ادا کرنے سے مساوات اور عبودیت کو قائم کیا جو آسمانی بادشاہت کی صحیح تصویر ہے اور آپ نے جس آسمانی بادشاہت کی بنیاد ڈالی وہ دنیا کی تمام حکومتوں سے نرالی ہے۔ پس اس عہد کے رسول نے اس بادشاہت کی بنیاد ڈالی جس پر نماز کو نشان ٹھہرایا۔ نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ جس کے بعد دعاء میں کہا جاتا ہے کہ: ”وابعثه مقاماً محموداً“ یہ وہ مقام محمود ہے کہ جس تک پہنچانے کے لئے وسیلہ کی ضرورت ہے اور یہ وسیلہ وہ سلطان ”نصیر من لدن الرب القدیر“ ہے۔ جو مسیح موعود کے نام سے ظاہر ہوا اور نبی اللہ پکارا تھا۔

”تبت يدا ابي لهب“ میں پیشین گوئی ہے کہ عہد احمدیت میں اللہ کا دشمن آتشی سامانوں سے حکومت کرے گا۔ مگر ناکام رہے گا۔ یہ ابولہب وہی دجال اکبر ہے جو مسیحی کلیساؤں سے نکلا اور سینگ بن کر نمودار ہوا اور ۱۸۹۸ء سے پہلے مقدسوں کو منتشر کر دیا اور یہ وہ مسیح ہے جو مقدس کا دوسرا گروہ ہے اور جس نے دجال سے حکومت چھینی لی ہے یوحنا باب ۱۲ میں ہے کہ ایک حیوان سمندر سے نکلے گا منہ بہر کا سا ہوگا۔ جس کو اڑدھا یعنی شیطان نے اپنا تخت دے دیا ہے۔ اس کے سر پر دس سینگ تھے۔ جن پر کفر کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ کفر بکنے کے لئے ایک منہ دیا گیا اور ۴۲ ماہ کام کرنے کا اس کو اختیار ملاتا کہ مقدسوں پر آجائے۔ ڈومبل اپنی کتاب کے ۱۹۴ میں لکھتا ہے کہ یہ حیوان پولیٹیکل حکومت ہے اور اسی کو چھوٹا سینگ اور دجال بھی کہتے ہیں۔ چالیس ماہ اڑھائی سال کے مساوی ہیں اور دن سے مراد پیشین گوئیوں میں سال مراد ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان حضور ﷺ پر آگ کا شعلہ لے کر حملہ آور ہوا تھا۔ تو آپ ﷺ نے پکڑ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ اللہ کا دشمن مغلوب رہے گا۔ محکمہ ہائے احتساب قائم ہیں۔ جن میں جھوٹ، باطل، فساد اور شرارت کا رواج موجود ہے۔ شریف نے اپنی حیات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قید خانے بھرے پڑے ہیں۔ چور اور ڈاکو بکثرت ہیں۔ کو تو الیاں بھی ہیں مگر پھر زنا اور بدکاری ترقی کر رہی ہے۔ تربیت کے لئے درسگاہیں ہیں مگر صحیح تربیت نہیں تو کیا اس کا نام دجل نہیں۔ ڈومبل لکھ چکا ہے کہ دجال کوئی اوپر جانور نہیں بلکہ وہ انسان ہے۔ وہ عظیم الشان بدعت اور دہریت ہے جو زمین پر پھیلے گی اور وہ گناہ کا آدمی ہوگا۔ جو شریعت کی پابندی کو لعنت قرار دے گا اور الٹی راہ دکھائے گا۔ وہ

سیاسی حیوان ہوگا۔ جس کی بنیاد مکاری اور فریب کاری پر ہوگی۔ آج وہ آتشی اسلحہ کے ساتھ مسلح ہو کر توپ و تفنگ لئے کھڑا ہے اور صرف احمدی ہیں جو اس کے مقابل اس غرض سے کھڑے ہیں کہ اس کی حکومت کو مینا میٹ کر کے آسمانی بادشاہت قائم کریں۔ وہ خدا کا دشمن ابولہب ابلیس میدان میں آیا ہے اور آسمانی بادشاہت کو ملیا میٹ کرنے کی فکر میں ہے اور لوگ اس کی غلامی میں جکڑے جا رہے ہیں۔

تقدید

پیشتر اس کے کہ ہم اس مضمون پر خامہ فرسائی کریں باب و بہاء اور مرزا کی حیات و ممات کا نقشہ پیش کرتے ہیں تاکہ آئندہ بحث کرنے میں آسانی ہو۔

جناب باب	جناب بہاء	جناب مرزا
۱۸۵۰ء وفات ۱۲۶۸ھ	۱۸۹۲ء وفات ۱۳۱۰ھ	۱۹۰۸ء وفات ۱۳۲۶ھ
۱۸۱۹ء پیدائش ۱۲۳۷ھ	۱۸۱۷ء پیدائش ۱۲۳۵ھ	۱۸۳۹ء پیدائش ۱۲۵۷ھ
۳۱ عمر	۷۵ عمر	۶۹ عمر
۱۸۲۳ء دعویٰ ۱۲۶۰ھ	۱۸۵۳ء دعویٰ مخفی ۱۲۷۱ھ	۱۸۷۲ء دعویٰ ۱۲۹۰ھ
	۱۸۶۳ء اعلان دعویٰ ۱۲۸۱ھ	بقولے شخصے

اس نقشہ سے معلوم ہوا کہ دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کا تعلق اگر سنہ ہجرہ سے وابستہ خیال کیا جائے تو ۱۲۶۰ سال کی مدت باب اور مرزا قادیانی دونوں کے لئے ہوگی۔ کیونکہ ۱۲۶۰ھ میں آپ نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب کہ باب ۲۵ سالہ جوان تھے اور مرزا قادیانی ابھی دو تین سال کے بچہ تھے۔ مگر دانیال علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ۱۲۶۰ھ کو ایک مکروہ چیز قائم کی جائے گی تو اگر مکروہ چیز ان مدعیان مہدویت کا وجود یا ان کی تعلیم ہو (یقیناً ہے) تو دونوں مذہب دانیال علیہ السلام کے نزدیک قابل اجتناب ہوں گے اور بہتر ہوگا کہ ان سے پرہیز کیا جائے اور اگر کوئی اور چیز مراد ہے جو ان بزرگوں کے وقت مکروہانہ حالت میں پیدا ہوئی تو اس کا بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ مگر افسوس ہے کہ نہ مرزائیوں نے کچھ بتایا اور نہ بابیوں نے۔ اس لئے ناظرین خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہے؟ دوسری مدت جو دانیال علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ وہ ۱۲۹۰ھ ہے۔ جس میں مرزا قادیانی مدعی مکالمہ صراحۃً نظر آتے ہیں اور بہاء اللہ نے بھی تقریباً اسی مدت میں کچھ تاویل کر کے دعوائے مسیحیت کیا ہے۔ (دیکھو مفاوضات) بہر حال دونوں مدعی مساوی طاقت

سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لئے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ تیسری مدت ۱۳۳۵ھ جس میں دونوں کی کوشش ضائع ہو چکی ہے۔ کیونکہ:

اول ..... اس میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو ۱۳۳۵ روز تک انتظار کرتا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ۱۳۳۵ تک تمام مدعیان مہدویت و مسیحیت کا شور و غل ہو جائے گا اور دعوت مذاہب جدیدہ کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔

دوم ..... وفات مسیح قادیانی ۱۳۲۵ھ تھی۔ اب اگر سنہ اعلان نبوت سے یہ مدت شروع کی جائے تو بیشک بایوں کی تاویل سے ۱۳۳۵، ۱۳۳۵ھ بن جاتا ہے اور اگر سنہ بعثت سے یہ شروع کیا جائے تو تیرہ سال کرنے پڑیں گے۔ کیونکہ ہجرت سے تیرہ سال پہلے آپ نے دعویٰ رسالت کیا تھا اور اعلان تین سال بعد کیا تھا۔ مگر بابی مذہب اس مقام پر خاموش نظر آتا ہے۔ کیونکہ ان کے کسی عہد پر بھی یہ مدت چسپاں نہیں ہوتی۔ چوتھی مدت ۲۳۰۰ ہے۔ جس میں بایوں نے یہ پیش کیا ہے کہ دانیال علیہ السلام نے یہ مدت تعمیر بیت المقدس سے شروع کی تو ولادت مسیح سے پہلے ۲۵۶ سال گذر چکے تھے اور میلاد مسیح کے بعد ۱۸۴۴ میں باب کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لئے آپ کی ولادت ۲۳۰۰ مقدسی میں واقع ہوئی تھی۔ مگر مرزائی یہاں خاموش ہیں تو تیسری مدت کا گلہ نہ رہا۔ مگر غیر جانبدار کے نزدیک اس طرح سے اپنی صداقت پر بائبل کو پیش کرنا سراسر حماقت ہے۔ کیونکہ وہاں روز یا صبح و شام کے لفظ ہیں اور یہاں سال مراد اس لئے لئے جاتے ہیں کہ ایک دفعہ دن کا مقابلہ سال سے کیا گیا تھا۔ ناظرین خود سوچیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال تو ہوئی کہ کسی نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں وارد ہے کہ خدا کے ہاں ایک روز کی مقدار ہزار سال ہوگی تو دنیا کی پیدائش چھ ہزار سال میں ہوئی ہوگی اور ایک ہزار سال خدا نے تھکاوٹ اتاری ہوگی۔ رمضان کے روزے تیس ہزار سال کے روزے ہوں گے اور کفارہ کے ساٹھ ہزار سال کے اور سال کی گنتی بارہ ہزار سال تک پہنچ جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجید میں مہینوں کی گنتی بارہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری قباحت یہ ہے کہ ایک جگہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ دانیال علیہ السلام نے اپنا حساب سنہ مقدسی سے شروع کیا تھا اور دوسری جگہ سنہ ہجری اور سنہ بعثت پیش کیا جاتا ہے۔ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دونوں مذہب ایک دوسرے کو کاٹنا چاہتے ہیں ورنہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہماری یہ چال صحیح راستہ پر نہیں۔ تیسری قباحت یہ ہے کہ سنہ مقدسی میں سال مذکور ہیں تو اگر دونوں سے مراد ہر جگہ سال مراد ہوں تو سالوں سے مراد صدیاں لینی پڑیں گی۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ دانیال کی پیشین گوئی میں دونوں مذہب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھی قباحت یہ ہے کہ



عیسائیوں کی طرح دونوں نے اس پیشین گوئی کے مقام کو تبدیل کر ڈالا ہے۔ جیسا کہ مقابلہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ پانچویں قباحت یہ ہے کہ جب ہلاکت مرزا کا سوال پیش آتا ہے تو خاص تاریخ پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ پیش ہونے والی پیشین گوئیاں سچی نہ تھیں۔ مگر جب اپنی باری آتی ہے تو دس سال تک بھی جھمکہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہی انصاف اور اسلام ہے جس کو بانس پر چڑھایا جا رہا ہے؟

..... اصل بات یہ ہے کہ دنیا ال کی کتاب خوابوں سے پر ہے۔ جن کی تاویل کے متعلق آخری سطروں میں لکھا ہے کہ یہ راز آخری دنوں تک سر بہمہر رہیں گے۔ اب ان دونوں کو دیکھئے خواہ مخواہ مہر شکن بنتے ہیں اور یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان ایام کے واقعات سے ہماری مہر شکنی موافق بھی ہے یا ہم تحریف و دجل سے کام لے رہے ہیں۔ پس ان حرکات ناشائستہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں مذہب دھوکا دینے میں ایک دوسرے سے کم نہیں۔ خدا ان سے محفوظ رکھے۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے  
خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

..... ۲ ۱۸۹۸ء میں بقول ڈمبل مسیح کا ظہور قادیان میں ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی ڈمبل کے کسی قول سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایک نقلی مسیح قادیان میں ظاہر ہوگا۔ اب اگر اس کا قول معتبر ہے تو اس کے باقی خیالات بھی پیش کئے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس جگہ ظہور مسیح کا منتظر تھا۔

..... ۳ عہد مسیح کو جنت سعادت بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی جنت سے آدم نکالا گیا تھا تو مرزائی تعلیم کسی محسوس جنت کی معتقد نہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ (ہمیں تو اہل سنت والجماعت کے کسی عقیدہ کی جھلک مرزا قادیانی یا ان کے کسی حواری میں دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن یہ مرزائی دیدہ دلیری کے بانس ہاتھ کا کرتب ہے۔ ناظرین کو متحیر نہیں ہونا چاہئے) اتنا بڑا دھوکا کچھ تو شرم کرو۔ بانی مذہب نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ عہد مسیح آزادی، عیاشی اور کمال امن و امان اور مساوات کا زمانہ ہوگا۔ جس کا بہترین نمونہ کسی زمانہ میں یونان کے اندر دیوجانس کلبی کے عہد میں ملتا ہے یا آج کل بالشویک کے عہد سے روس میں نمبر اول پر اور پیرس یا دیگر حصص یورپ میں دوسرے نمبر پر اور ہندوستان اور ایشیاء میں تیسرے نمبر پر نظر آتا ہے۔ مگر مرزائی ڈمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی تو پوسٹ کارڈ پر دکھاتے ہیں کہ بکری اور شیر دونوں ایک جگہ پانی پیتے نظر آ رہے ہیں اور قیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی حکومت برطانیہ کو ظل الہی کا خطاب دے کر تحفہ قیصریہ پیش کرتے ہیں

اور کبھی اس سلطنت کو چھوٹا سینگ اور سیاسی دجال بناتے ہیں تو گویا اس وقت ہند کا علاقہ بہشت و دوزخ دونوں کا بروز بنا ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں کا مسیح بھی نقلی (بروزی) ہی تھا۔ بہر حال ان گورکھ دہندوں سے بانی مذہب پاک ہے۔ اس لئے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی جدید مذہب میں جنم لیتا ہے۔ اس کے لئے بہتر ہوگا کہ بانی یا بہائی مذہب اختیار کر کے باعث امن ثابت ہونہ کہ قادیانی بن کر ہندوستان کا میوہ پھوٹ بیچنے کا ٹھیکہ دار بننے ہوئے اپنے بھائیوں کا گلہ کاٹے۔ ابھی خدا کا شکر ہے کہ ملہم قادیانی نے ژالہ باری کے متعلق کوئی الہام نہیں کیا اور نہ ہی شدت کی برف اور کڑا کے کی دھوپ پر کچھ لکھا۔ ورنہ معلوم نہیں کہ آپ کی رحمتہ للعالمینی ہندوستانیوں پر کیا کیا غضب ڈھاتی۔

۴..... ۱۲۶۰ھ گذرنے کے بعد بتایا ہے کہ دجال یورپ مقدس مسیح کے مقابلہ پر مغلوب ہو جائے گا اور اس سے یہ مراد لی ہے کہ ملہم قادیانی نے دو چار رسالے لکھ کر کسر صلیب کر لیا ہے اور اس تمدن کا خاتمہ کر دیا ہے جو ترک مذہب کا درس دیتا ہے۔ مگر آج اندھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملہم قادیانی کے بعد یورپ کی آزادی روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ لوگ عملی طور پر ہر ایک مذہب سے دست کش ہو کر اسے لعنت کا طوق سمجھ رہے ہیں۔ زن و مرد میں صورت و سیرت کا امتیاز نہیں رہا، رراگ و رنگ میں حیا سوز وہ وہ طریق اختیار کئے جا رہے ہیں کہ ۱۲۶۰ھ میں بطور خواب و خیال بھی کسی کو معلوم نہ تھے۔ خود اسی رسالہ میں اس زمانہ کے دجال کا زمانہ لکھا ہے تو پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہوا کہ ۱۲۶۰ھ کے بعد خدائی بادشاہی قائم ہوگی۔ ہاں اگر یہ مراد ہو کہ قادیانی ملہم دوسروں کو یوں پکارتا تھا۔

بن کے رہنے والو تم نہیں ہو آدمی

کوئی ہے روباہ کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار

اور اپنی چھ لاکھ فرضی جماعت کو انسان بلکہ قدوسی بتا کر بروز صحابہ بتایا کرتا تھا۔ اس لئے خدائی بادشاہت بالکل چھوٹی حدود کے اندر قائم ہو چکی تھی تو اس پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔

اول..... یہ کہ تلخ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر جگہ راعی درعیت کے درمیان

شکر رنجی کا باعث یہی جماعت ہوتی ہے اور جھوٹ، دجل و فریب قد و سیت کے پردہ میں خباثت کا منظر دیکھنا ہوتا اسی جماعت میں ملتا ہے۔

دوم..... یہ کہ اس صورت میں خدا بڑا کمزور ثابت ہوتا ہے کہ دجال کی حکومت کا

مقابلہ نہیں کر سکا۔ بلکہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مخلومانہ اور اہتجانہ پہلو اختیار کر کے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہمیں ٹرکی کی طرح وجہ معاش کے لئے کچھ حکومت دے دیں۔ تاکہ ہماری شکم پروری

ہو جائے۔ باقی تم جانو تمہارا کام اور ہم بھی سچے رہیں اور تم بھی۔ عقل کے دشمن بہترے ہوں گے جو ہم کو تم پر غالب سمجھیں گے۔ معاذ اللہ! اگر یہی فیصلہ الہی ہو چکا ہے تو ایسے اسلام کو صد سلام اور ایسے مسیح پر ہزار پوسٹ گندہ رنج و آلام۔

۵..... ”ما وعدتنا“ سے مراد عہد مسیح لینا قرآن شریف کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں اہل جنت کا بیان دوسری دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں اگر بہائیوں کی طرح آج کی دجالی حکومت بہشت ہے تو یہ معنی ہوگا کہ دجالی حکومت کے ماتحت رہنا مرزائیوں نے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا ہے۔ پھر اس کے حاصل ہونے کے بعد اسے مٹانے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ عجیب گورکھ دہندہ ہے۔ ہم سے اس کی عقدہ کشائی نہیں ہو سکتی۔

۶..... یہ عجیب منطق ہے کہ مسیح کی بادشاہت کا ذکر آتا ہے تو بہائیوں کی طرح تسخیر قلوب مراد لی جاتی ہے اور جب اس کے مقابلہ پر دوسری حکومتوں کی تباہی کا تذکرہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو رو ماتاہ ہو گیا۔ ٹرکی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہودی بیت المقدس کے پاس آباد ہو رہے ہیں۔ مگر اب دنیا ہوشیار ہو چکی ہے۔ اب اس طرح کے چھٹوں میں دنیا نہیں آ سکتی۔ بلکہ جو لوگ پھنس چکے ہیں وہ بھی بیزار نظر آتے ہیں۔

۷..... ناظرین! کی آنکھ میں دھول ڈال کر ظہور مسیح کا وقت بقول ڈمبل وغیرہ دو طرح بیان کیا ہے۔

اول..... سنہ ہجری ۱۲۶۰ یا ۱۳۳۵۔

دوم..... سنہ عیسوی ۱۸۶۸ یا ۱۸۹۸، اور اتنا بھی نہیں سوچا کہ عیسائیوں کو یا بالخصوص دانیال علیہ السلام کو کس بات نے مجبور کیا تھا کہ سنہ ہجری کے مطابق اپنا خیال بیان کریں۔ اس کے بعد یہ بھی خیال نہیں کیا کہ جب عیسائیوں نے ۱۸۹۸ء کے بعد تیس سال گزر جانے پر ظہور مسیح کا وقت دیا ہے تو ملہم قادیانی کو کب موقع مل سکتا ہے کہ وہ مدعی مسیحیت بنے۔ کیونکہ ۱۹۲۸ء سے پہلے مرزا کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ علاوہ اس کے جس مسیح ناصر کو عیسائی پیش کر رہے ہیں۔ ملہم قادیانی وہ مسیح نہ تھا اس لئے عیسائی تحریرات سے اپنی مسیحیت ثابت کرنا دانشمندیوں کے نزدیک خوش فہمی ہوگی اور خوش فہموں کے نزدیک ابلہ فریبی۔

۸..... یہ عبارت آج کل کی بائبل میں نہیں ملتی کہ مبارک وہ جو ۱۳۳۵ تک آتا ہے۔ اگر مان بھی لی جائے تو اس میں مرزا قادیانی کی صداقت ظاہر نہیں ہوتی۔ کیونکہ ۱۳۲۶ھ تک فہم ہو چکے تھے اور دنیا سے چلے گئے تھے۔ اگر کسی تاویل سے ”آتا ہے“ کا مطلب ”زندہ رہتا

ہے“ کیا جائے تو بابی اور بہائی صداقت پیش کرنے کے حقدار ہوں گے۔ کیونکہ وہ بھی اس مدت سے پہلے زندہ مدعی رکھتے تھے۔

۹..... ڈومبل کو بیوقوف بنایا جاتا ہے (کہ شکست دجال کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب کہ اسلامی حکومت اٹھ چکی تھی) اس لئے اس نے حکومت اسلامیہ کو ہی دجال سمجھ لیا تھا۔ حالانکہ حکومت یورپ ہی دجال تھی جو دنیا کو مذہب سے بیزار کر رہی ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے ۱۸۹۸ء میں خدائی بادشاہی قائم ہوئی جس کا دار الخلافہ قادیان تھا اور جس کا گورنر ابن مریم خود مریم، مسیح بن اللہ، خود اللہ، ابواللہ، مظہر انبیاء و اولیاء و کرشن اوتار، حبیبہ بنا لوی، بے سنگھ بہادر، حجر اسود، سنگ افتادہ، خالق ارض و سماء، پیدا کنندہ آدم و حوا اور خود آدم، خود کوزہ خود گل کوزہ مالک بہشتی مقبرہ ہے۔ مگر افسوس ہے تو یہ کہ اپنی خیالی بادشاہت پیش کرنے پر اس جرأت سے کام لیا جاتا ہے کہ بابی مذاہب بھی ایسی ابلہ فریبی سے کنارہ کش نظر آتے ہیں۔

۱۰..... زمانہ حال کو جنت سعادت یا ہزار ہفتم عہد سعادت کا خطاب دیا جاتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ روحانی اعتبار سے دنیا بربریت اور وحشیت کے وہی پہلے منازل طے کر رہی ہے۔ جو ظہور اسلام سے پہلے زمانہ میں طے کئے جاتے تھے۔

۱۱..... یہ افسوس کیا ہے کہ ۱۸۹۱ء میں مسیح ظاہر ہو چکا تھا۔ مگر عیسائیوں نے شناخت نہ کیا اور ہم بھی ان پر افسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ ناقد رشناس واقع ہوئے ہیں۔ قادیانی ملہم سے پہلے ایرانی مسیح بھی گذر چکا تھا وہ اسے بھی شناخت نہیں کر سکے تھے۔ مگر جب انہوں نے اسے شناخت نہ کیا۔ حالانکہ علم و فضل اور جاہ و جلال میں قادیانی ملہم سے بڑھ کر تھا تو یہ کمال ابلہ پن ہوگا کہ قادیانی مسیح کی ناقد رشناسی پر افسوس کیا جائے تو فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آج یورپ ہی تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور یہیں کے لوگ آج کل نیک و بد کے امتیاز کرنے میں ثالث مقرر ہو چکے ہیں اور دنیا کے ہر گوشہ سے یہ آواز آرہی ہے کہ۔

بجا کہے جسے یورپ اسے بجا سمجھو

اسی کا فیصلہ نقارۂ خدا سمجھو

۱۲..... ”سخر لکم“ کی تفسیر کرتے ہوئے حکومت یورپ کو حیوانی حکومت کا خطاب دیا ہے۔ صرف اس لئے کہ مصنف کے خیال میں یورپ نے تسخیر قلوب کا کام نہیں کیا۔ حالانکہ صاف غلط ہے۔ کیونکہ تمدن یورپ اور احکام حکومت کے سامنے سرانقیاد کی خمیدگی نظر آرہی ہے اور آزادی و نشاط کا تسلط آج دلوں پر اس شد و مد سے ہو رہا ہے کہ خود تقدس مآب ہستیاں بھی

اس عیاشی کے سیلاب میں بہہ کر اپنا آپ چکنا چور کر چکی ہیں اور شراب تمدن یورپ میں ایسی مدہوش ہو رہی ہیں کہ ان کو یورپ کی ہر ایک حرکت و سکون مذہبی جذبات کا نمونہ دکھائی دیتی ہے اور اسی کی خاطر ہزاروں روپے خرچ کئے جا رہے ہیں۔ غرضیکہ یورپ نے ایسی تسخیر قلوب کی ہے کہ عیاشی کے کلور افارم سونگھنے سے لوگ یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی مذہب کے دلدادہ ہیں۔ حالانکہ مذہبی تسخیر کو رخصت ہوئے تیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یعنی جب کہ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور تمام دنیا کو اسلام جدید کی دعوت دی تھی جو تمدن یورپ کا پہلا زینہ تھا تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ مسیح قادیانی حیوانی حکومت کا خود معین و مددگار تھا۔ اس لئے نہ وہ نبی تھا اور نہ اس میں تسخیر قلوب تھی۔

۱۳..... اس مقام پر امی کا معنی جامع صفات کمالی کیا ہے جو کسی لغت سے نہیں ملتا اور ہم سنتے تھے کہ مرزا قادیانی کو ہی نئے معنی کشف ہوتے تھے۔ مگر نہیں آپ کی امت نے معنی تراشی میں آپ کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو اس میں شک نہیں کہ اپنی امت کی شاگردی اختیار کرنے میں ان کو فخر حاصل ہوتا۔

۱۴..... دروغ گور حافظہ نباشد، آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ آسمانی بادشاہت کا آغاز ۱۸۹۸ء سے ہوا۔ مگر اب ص ۴۲ پر لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور عہد رسالت میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ شاید یہ خیال گیا ہوگا کہ بنیاد اور آغاز میں فرق ہوتا ہے۔ اس لئے گو عہد رسالت میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ مگر چونکہ بہت جلد فتح اعوج کا زمانہ ہزار ششم (عہد ضلالت) سے شروع ہو گیا تھا۔ اس لئے مسیح موعود نے ہزار ہفتم (عہد سعادت) میں آغاز کر دیا۔ گو اس تاویل سے عہد رسالت کی توہین تو ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی عہد مسیح کی عزت و توقیر بھی کافور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دعویٰ تو یہ تھا کہ مسیح موعود نے اس بادشاہت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ جس کی تکمیل کے لئے تمام انبیاء شائق تھے۔ مگر مکمل نہ کر سکے اور اب کہا جاتا ہے کہ مسیح موعود تکمیل کا بیج بو کر چلے گئے ہیں۔ جن کو کوئی قدرت ثانیہ آ کر مکمل کرے گی تو پھر بتائیے مسیح کس مرض کی دوا ٹھہرا؟

۱۵..... توہین رسالت کرتے ہوئے مولف نے یہ بھی بتایا ہے کہ تیرہ سو سال تک مسلمان خواہش مند ہو کر خدا کے سامنے دست بد دعاء رہے کہ حضور ﷺ کو معاذ اللہ قادیان (مقام محمود) میں مبعوث فرما۔ مگر اس کو تحریف کرتے ہوئے ذرہ شرم دامنگیر نہ ہوئی۔ کجا مقام محمود عرش عظیم کے پاس جگہ جو حضور ﷺ نے مقام شفاعت ٹھہرائی ہے اور کجا مغلوں کی بستی قادیان جو متعفن ڈھاب کے کنارہ پر جو اپنے اندر ہزاروں مصائب لپیٹے ہوئی ہے۔ کیا مرزا قادیانی نے

تہمیں یہی ہدایت کی تھی کہ ہر ایک لفظ کے مفہوم کو بدل کر اپنی خوش فہمی کا ثبوت دیا کرو۔ مگر ہم تو اس وقت آپ کو شاگرد رشید سمجھیں گے کہ آپ قادیان کے لفظ سے کچھ قیدی ثابت کریں اور قادیان سے کچھ کیا اور مکار کا استنباط کریں یا کم از کم لفظ مرزا سے یہ ثابت کریں کہ ایک دفعہ مر جاؤ۔ پھر زندہ ہو کر قدرت ثانیہ کا ہی ظہور دکھاتے رہو۔

۱۶..... ص ۰ پر قرآن شریف کی خانہ زاد اور ہی تفسیر کی ہے کہ ابولہب دجال (حکومت یورپ) ہے جس کو مسیح موعود نے تسخیر قلوب کی حکومت سے بے دخل کر دیا ہے۔ مگر مؤلف نے یہاں پر صرف تین جھوٹ بولے ہیں۔

اول..... مرزائی تعلیم پیٹ پیٹ رہتی ہے کہ مرزا قادیانی سے اپنے مشن کی تکمیل نہیں ہو سکی اور آپ بتاتے ہیں کہ تکمیل ہو چکی ہے۔ بتائیے جھوٹا کون ہوا۔

دوم..... اسلام میں ابولہب سے حضور ﷺ کا چچا ہے۔ جس کی مخالفت مشہور ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابولہب دجال حکومت یورپ ہے۔ آپ یہ اعلان کریں کہ یہاں ابولہب سے مراد حضور ﷺ کا چچا نہیں ہے تو دنیا خود فیصلہ کر لے گی۔

سوم..... تسخیر قلوب کے مقابلہ میں عیسائی مشن کی تسخیر قلوب انزور پڑ گئی ہے۔

حالانکہ یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ آج سب سے برآمدہ تمدن یورپ کی محبت ہے کہ جس نے بڑی بڑی مقدس ہستیوں کو بھی سیر یورپ کا گرویدہ کر لیا ہے اور تبلیغ کے بہانہ سے ہزاروں روپے اس بیدردی سے خرچ کر ڈالے ہیں کہ جس کے حساب دینے سے بھی ان کو چکر آتے ہیں۔ صرف ہندوستان میں ہی خاص عیسائیوں کی آبادی بیس لاکھ سے زیادہ ہے اور مرزائی مشکل سے پانچ لاکھ بھی ہوں تو بڑی کامیابی سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ سکھ، ہندو اور مسلمان محبت یورپ میں اپنے مقدور کے مطابق مستغرق نظر آتے ہیں اور مذہب کو لعنت بتا کر آزاد ہو رہے ہیں۔ نہ ہندو ہندو رہا ہے اور نہ مسلمان مسلمان۔ بلکہ یہاں کی نئی نسل کا تو یہ حال ہے کہ ہر ایک بچہ لارڈ کرزن کا بروز بننا چاہتا ہے اور ہر ایک لڑکی مس روفن کے روپ میں عریاں ہو کر ڈانس کی ڈیوٹی دینے کو تیار ہے۔ گو غریب اور جاہل مسلمان اس سیلاب سے بچ کر برکنار دریا نظر آتے ہیں۔ مگر تعلیم یافتہ اور مالدار ہندوستان جن میں مغل قوم زیادہ مستور نظر آتی ہے سب کے سب قعر دریاے غواہت و ضلالت میں تہ نشین ہو چکے ہیں اور کسی طرح بھی اس امر کے باور کرنے کی کوئی وجہ پیدا نہیں ہو سکتی کہ قادیانی خلیفہ یا اس کا باپ اسلامی محبت پیدا کرنے میں محبت یورپ کے مقابلہ پر کامیاب ہو چکا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کا تمام نظم و نسق اور سب کاروبار اور ہر

طرح کا نشیب و فراز عشق یورپ کی جھلک دکھا رہا ہے تو اب۔

آنکس کہ گمراہ است کرا رہبری کند؟

۱۷..... مرزائی مذہب میں عہد مسیح کو ہزار ہفتم اور سعادت و ہدایت کو زمانہ بتایا جاتا ہے اور مؤلف نے ص ۲ پر حکومت برطانیہ کے لقم و نسق پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ثابت کر دیا ہے کہ حکام بھی اس وقت سیاسی دجال بن گئے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے کتاب البریہ میں ثابت کیا تھا کہ مشنری اور مستری دونوں دجال ہیں اور حکام رحمت الہی ہیں۔ اب پیر و مرید آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی شخص صحیح الرائے سمجھے تو کسے سمجھے؟ شاید مرید صاحب کہہ دیں گے کہ دیسی حکام دجال ہیں اور انگریزی حکام رحمت الہی ہیں۔ مگر ایک کچھری دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ رحمت الہی اور دجال جب آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو غلبہ کس کا ہوتا ہے۔ پس اگر دجال کو غلبہ حاصل ہو، تو مسیح مغلوب ہو اور اگر رحمت الہی کو غلبہ حاصل ہو تو ص ۲ کا بیان غلط ثابت ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیت میں ایک یہ بھی تاثیر ہے کہ دماغی طاقتیں قائم نہیں رہتیں۔ کیونکہ آخری سطر دس میں صاف لکھ دیا ہے کہ قادیانی اور ابولہب (دجال) برسریکار ہیں اور بہت جلد اس سے حکومت چھین لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بانی مذہب قادیانی دجال سے حکومت حاصل کرے گا۔ حالانکہ مؤلف نے اس رسالہ کا اصل مدعا یہ قرار دیا تھا کہ وہ ثابت کرے کہ مرزا قادیانی نے وہ بادشاہت مکمل کر دی ہے کہ جس کی تکمیل کے لئے تمام انبیاء سابقین کو شاں نظر آتے تھے۔ مگر اپنی ہی مخالف بیانی سے مؤلف کی وہ خوش فہمی ظاہر ہو چکی ہے کہ اگر انسان ہوگا تو آئندہ کبھی کوئی تحریر شائع کرنے پر آمادگی ظاہر نہ کرے گا۔

## ۲۲..... مکاشفات بائبل

مرزائیوں نے شاید بائبل کو موڑ توڑ کر اپنے مذہب پر چسپاں کیا ہوگا۔ مگر دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کی بحث میں جب دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے پیر و مرشد باب و بہاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ فن تحریف میں مکاشفات بائبل کے متعلق بھی ان سے بڑھ کر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ذیل میں مفاوضات عبدالبہاء کے ابتدائی ابواب سے چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں۔ تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ بائبل کو اپنے اوپر چسپاں کرنے میں بہائی کس قدر چالاک ثابت ہوئے ہیں۔ اب ذیل میں مکاشفہ کی عبارت نقل کی جاتی ہے اور خطوط وحدانیہ میں بہائی مذہب کی تشریح درج ہوگی۔

.....۱ مکاشفہ نمبر ۲۱ میں ہے کہ میں نے ایک نئے زمین و آسمان (شریعت جدیدہ) کو دیکھا۔ کیونکہ پہلا زمین و آسمان (شریعت قدیمہ) جاتے رہے تھے اور سمندر (لغزش مذہبی) بھی نہ رہا۔ پھر میں نے نئے بیت المقدس (شریعت بہائیہ) کو خداوند کے پاس سے اترتے دیکھا۔

.....۲ مکاشفہ نمبر ۱۲ میں ہے کہ ایک عورت (شریعت محمدیہ) نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئی تھی۔ (یعنی سلطنت فارس پر حکمران تھی۔ جس کا قومی نشان سورج تھا) اور چاند (لڑکی جس کا قومی نشان چاند ہے) اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں (بارہ اماموں) کا تاج اس کے سر پر تھا اور بچہ (بہاء اللہ) جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر سرخ اژدھا (حکومت بنی امیہ) جس کے سات سر (نفت اقالیم بنی امیہ مصر، افریقہ، روم، فارسی، عرب، فارس، اندلس، ترک، ماوراء النہر) تھے اور دس سینگ (بنی امیہ کے دس بادشاہ جو بلا تکرار نام گذرے ہیں جن کا پہلا بادشاہ ابوسفیان اور آخری مروان الحمار) تھے اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے (اڑھائی سال جو دانیال علیہ السلام نے بتا کر ۱۲۶۰ کی مدت ظہور باب کے لئے مقرر کی تھی) کھینچ کر زمین پر ڈال دیئے۔ پھر وہ اژدھا اس عورت کے پاس گیا تاکہ اس کے بچے کو نگل لے۔ مگر وہ بچہ جنی جو لوہے کے عصا (قوت قدسیہ) سے حکومت کرے گا اور بہت جلد خدا کے پاس بھیجا گیا اور وہ عورت (شرع محمدی) بیابان (حجاز) کو بھاگ گیا۔ تاکہ ۱۲۶۰ دن (سال) تک اس کی پرورش کی جائے /

.....۳ مکاشفہ نمبر ۱۱ میں ہے کہ مجھے عصا کی مانند (معین و مددگار ہر عاجز) ایک (مرد کامل) نے ناپنے کی لکٹری دی اور کہا گیا کہ مقدسوں کو ناپوں (اور ان کا حال دریافت کروں) اور صحن کو نہ ناپوں (کیونکہ اس پر دوسروں کا قبضہ ہے) دوسرے لوگ ۴۲ ماہ (۱۲۶۰ سال) تک پامال کریں گے۔ (شریعت روحانی عقائد نہیں بدلتی اور شریعت جسمانی کے عبادات و معاملات وغیرہ بدل جاتے ہیں اور یہی صحن اور مقدس کی حقیقت مبدلہ ہے) اور میں اپنے دو گواہوں (محمد و علی) کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے (اور پرانی شریعت کی تصدیق کرتے ہوئے) ۱۲۶۰ دن نبوت کریں گے اور یہ وہی دو (محمد و علی) چراغ دان ہیں جو خدا کے حضور کھڑے ہیں۔ جو ان کو ضرر پہنچاتا ہے۔ اسے ان کے منہ (احکام شرعیہ) سے آگ نکل کر کھا جاتی ہے۔ (اور دشمن مغلوب ہو جاتا ہے) ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں اپنی نہ برسے (اور فیض حاصل نہ ہو) اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں (کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام و یسوع علیہ السلام کی طرح ہیں) اور جتنی دفعہ چاہیں زمین (عرب) پر ہر طرح کی آفت



(عربی قوم) لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان (حکومت بنی امیہ) جو ہادیہ سے نکلے گا ان سے لڑ کر غالب آئے گا۔ (اور بنی ہاشم مغلوب ہوں گے) اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشیں (شرح محمدی) اس بڑے شہر (ملک سوریا و بیت المقدس پایہ تخت بنی امیہ) کے بازار میں پڑی رہیں گی۔ جو مصر اور سدوم کہلاتا ہے۔ جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا اور لوگ ان کی لاشوں کو (شریعت محمدی مردہ اور بے فیض کو) ساڑھے تین دن (۲۶۰ سال) تک دیکھتے رہیں گے اور دفن نہ کرنے دیں گے اور خوشیاں منائیں گے۔ کیونکہ ان دونوں نبیوں نے ان کو بہت ستایا تھا۔ ساڑھے تین دن (۲۶۰ سال) کے بعد ان میں زندگی کی روح (باب و بہاء کا ظہور) داخل ہوئی اور کھڑے ہو گئے۔ لوگ ڈر گئے اور آسمان سے آواز آئی کہ اوپر آ جاؤ تو بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے۔ (یعنی باب و بہاء شہید ہو گئے) دشمن ان کو (ان کی عظمت) دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک زلزلہ آیا (اور قتل باب کے وقت شیراز میں زلزلہ آیا اور وہاں پھیل گئی) اور شہر کا دسواں حصہ گر گیا اور ۷۰۰۰ آدمی مرے۔ دوسرا افسوس (باب) ہو چکا۔ تیسرا افسوس (بہاء اللہ) ہونے کو ہے۔ حزقی ایل فصل نمبر ۳۰ میں ہے کہ اے آدم زاد (بہاء اللہ) نبوت کر اور خداوند کہتا ہے کہ افسوس اس روز پر۔ پھر مکاشفہ نمبر ۱۱ میں ہے کہ ساتویں فرشتہ (مبشر با مسیح) نے زلزلہ پھونکا تو آسمان پر یہ آواز بلند ہو گئی کہ دنیا کی بادشاہت خداوند اور مسیح (بہاء اللہ) کی ہو گئی اور وہ ابدال آباد تک بادشاہی کرے گا اور چوبیس بزرگوں نے جو خدا کے پاس تخت پر بیٹھے تھے سجدہ کر کے کہا کہ شمر ہے کہ اے خدا تو نے بادشاہی کی (ہر ایک دور نبوت میں بارہ اصفیاء گذرے ہیں۔ چنانچہ دور ابراہیمی میں یعقوب کے بارہ بیٹے، اصفیاء تھے۔ دور موسوی میں بارہ نقیب اور دور محمدی میں بارہ امام تھے۔ لیکن دور بہاء میں چوبیس اصفیاء ہیں) اور وہ وقت آ گیا ہے کہ مردوں (محبت الہی سے خالی آدمیوں) کا انصاف ہو اور تیرے بندوں اور نبیوں کو جو تجھ سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔ (اور ابر پر اذ فیض جاری کیا جائے) اور خدا کا مقدس (تعلیم بہائی کی فلاح) جو آسمان پر ہے کھولا گیا اور اس کے عہد کا صندوق (کتاب عہد) دکھائی دیا۔ بجلیاں (انوار) پیدا ہوئیں۔ بھونچال آیا اور او لے پڑے (اور غضب الہی منکروں پر نازل ہوا)

یہ امر ناقابل تردید ہے کہ مرزائی مذہب نے بہائیت کا ہر امر میں تتبع کیا ہے۔ مگر اس موقع پر مکاشفات کی تحریف میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جس قدر کہ بہائیوں نے قطع و برید سے کام لے کر مکاشفات کو اپنے بانیان مذہب پر چسپاں کر دکھلایا ہے۔ لیکن حقیقت شناس طبائع خوب سمجھ چکی ہیں کہ ان دونوں کی نکتہ آفرینی صرف ابلہ فریبی کا کام دے سکتی ہے۔ ورنہ اگر

مکاشفات کا خود مطالعہ کیا جائے تو ساری کتاب میں اول سے آخر تک نہ مسیح قادیانی کا وہاں ذکر ہے اور نہ مسیح ایرانی کا۔ کیونکہ یوحنا حواری کے عہد میں عیسائیوں کے صرف سات گرجے تھے۔ جن کی طرف اس نے خط و کتابت کے سلسلہ میں یہ مکاشفات لکھے تھے جن کا حاصل یہ ہے کہ میں خواب میں مسیح علیہ السلام کے پاس آسمان پر گیا ہوں۔ جب کہ وہ خدا کے سامنے ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور چوبیس فرشتے آس پاس تھے تو آپ نے سات گرجوں کے متعلق سات پیغام الگ الگ روانہ کئے۔ پھر سات فرشتے دکھائی دیئے۔ جنہوں نے مخالفین کے ہلاکت کے سامان دکھائے اور مریم علیہا السلام کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ کی مخالفت میں بڑا زور لگایا ہے۔ مگر آپ کا بیٹا مسیح دوسری دفعہ دنیا میں نازل ہوا ہے اور نزول سے پہلے یا جوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں۔ شیطان کی حکومت جاتی رہی ہے۔ بت پرستی کے شہر بابل وغیرہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اس لئے عیسائیوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ آمد مسیح کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر ثابت قدم رہیں۔ یہ خواب تھا مگر انہوں نے خواہ مخواہ دخل در معقولات دے کر اصل مقصد بگاڑ دیا اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر اپنی مسیحیت منوانی چاہی تو گواندھی تقلید کے پتلے ان کے پتھر میں آگئے۔ لیکن دیکھ بھال کرنے والوں کا شکار کرنا مشکل تھا اور ہے۔

## ۲۳..... اعلان نبوت مسیح قادیانی اور ایک غلطی کا ازالہ

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ دعاوی کے مراتب طے کئے تھے اور شروع میں دبی زبان سے مدعی نبوت نظر آتے تھے۔ لیکن منتظر تھے کہ جماعت کافی ہو جائے تو گول مول اقوال کو جوجی کارنگ دے کر اعلان نبوت کے عنوان سے پیش کیا جائے تو جناب کی خوش قسمتی نے آپ کو یہ زریں موقعہ دیا کہ آپ سے سوال ہونے لگے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو خاتم النبیین مان کر کون مدعی نبوت ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں اسلامی تعلیم کے خلاف یوں کہا کہ میں محمد ثانی ہوں۔ اس لئے مہری نبوت کوئی الگ نبوت نہیں اور نہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہوا اور جن تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا یا یوں کہہ کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر ڈالے۔ لیکن سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں آپ روپ بدل کر مسیح موعود کہلائیں گے۔ اس لئے نبوت قادیانی، نبوت محمدی کا ہی بروز ٹھہرا۔ کوئی الگ چیز نہ ہوئی۔ مگر ناظرین غور کریں کہ یہ تاویل آپ نے کہاں سے سیکھی؟ ظاہر ہے کہ جناب بہاء نے یہ سبق پڑھایا

تھا۔ کیونکہ ایقان میں آپ نے صاف لکھ دیا تھا کہ شمس حقیقت ایک ہے۔ کبھی موسیٰ بن کر نمودار ہوتا ہے کبھی عیسیٰ اور کبھی محمد یا بہاء اللہ۔ تو جو شخص اس کے مظاہر میں سے ایک کا بھی منکر ہے وہ تمام مظاہر نبوت کا منکر ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی آج سورج سے انکار کرتا ہے تو گذشتہ ایام کے سورج کا بھی اسے انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سورج ایک ہی ہے اور لیل و نہار کے اختلاف سے اس میں جزوی اور رسمی اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی اپنی تصنیف (ایک غلطی کا ازالہ ص ۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶، ۲۰۷) میں اس حقیقت کو یوں بے نقاب کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ: ”ایک پر یہ اعتراض ہوا کہ تیرا مرشد نبوت کا مدعی ہے۔ اس کا جواب نفی میں دیا گیا۔ مگر حق یہ ہے کہ جو پاک وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے اس میں ایک دفعہ نہیں صد ہا دفعہ نبی، رسول اور مرسل کے لفظ موجود ہیں اور اس وقت تو پہلے کی نسبت زیادہ صراحت موجود ہے۔ براہین احمدیہ شائع ہوئے ۲۲ برس ہو چکے ہیں۔ اس میں مکالمہ الہیہ موجود ہے کہ: ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدی (الآیہ ص ۲۹۸) جری اللہ فی حلال الانبیاء“ یعنی خدا کا رسول نبیوں کے صلوں (کپڑوں) میں ہے۔

”محمد رسول اللہ والذین معہ“ دنیا میں ایک نذر آیا۔ دوسری قرأت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اسی طرح براہین میں مجھے متعدد جگہ رسول کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ خاتم النبیین کے بعد دعوائے نبوت کیسے صحیح ہوا، غلط نکلا۔ کیونکہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا پانا نبی نہیں آ سکتا۔ مگر آپ لوگ چالیس برس مسیح کو اتار کر نبی مانتے ہیں اور سلسلہ وحی کو چالیس برس تک حضور ﷺ سے بھی بڑھ کر جاری رکھتے ہیں۔ بے شک یہ عقیدہ معصیت ہے اور لفظ ”خاتم النبیین“ اور ”لا نبی بعدی“ اس کے خلاف زبردست شاہد ہیں اور کذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہاں ”خاتم النبیین“ میں ایک پیشین گوئی ہے جس کا علم مخالفین کو نہیں کہ خدا نے پیشین گوئیاں کرنے والے (نبیوں) کا خاتمہ کر دیا ہے اور قیامت تک پیشین گوئی کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور ممکن نہیں کہ کوئی ہندو، عیسائی یا رسمی مسلمان نبی کا لفظ اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ سیرت صدیقی کے سوا تمام کھڑکیاں بند کی گئی ہیں جو اس کھڑکی سے آتا ہے اس پر ظلی طور پر نبوت محمدی کی چادر پہنائی جاتی ہے۔ اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں۔ کیونکہ نبی کے چشمہ سے نبوت لیتا ہے۔ تاکہ اپنے نبی کا جلال ظاہر کرے۔ اس لئے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ محمد کی نبوت آخراً محمد کو ہی بروزی طور پر ملی اور آیت کا یہ معنی ہوا کہ: ”وخاتم النبیین ولا سبیل الی فیوض اللہ من غیر

توسطہ“ تو میری نبوت میرے محمد اور احمد ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ نام مجھے فنا فی الرسول ہونے سے ملا۔ تو خاتم النبیین کے معنی میں کوئی فرق نہ آیا۔ لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آجاتا ہے۔ سو میں اب ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے منکر نہیں۔ خدا نے مجھے آنحضرت ﷺ ہی کا وجود قرار دیا ہوا ہے۔ اس لئے میرے وجود سے ختم رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیونکہ ظل اپنے اثر سے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہوں۔ اس لئے ختم رسالت کی مہر نہیں ٹوٹی اور محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ محمد ہی نبی رہا نہ کوئی اور۔ جب کہ میں بروزی طور پر محمد ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمد یہ معنہ نبوت محمد یہ میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں تو پھر کون سا انسان ہوا جس نے الگ ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ غرضیکہ ”خاتم النبیین“ کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو آنحضرت ﷺ کی نبوت پر لگ گئی ہے۔ ممکن نہیں کہ یہ مہر ٹوٹ جائے۔ مگر ہاں یہ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجائیں اور بروزی رنگ میں نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز ایک قرار یافتہ عہد تھا جو ”وآخرین منہم“ میں مذکور ہے۔ نبیوں کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ انہی کا نقش اور صورت ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے۔ پس جو شخص شرارت سے مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا اور ناپاک ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے (اور اسی بناء پر اللہ نے مجھے نبی اللہ اور رسول اللہ کہا ہے) مگر بروزی رنگ میں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ ﷺ کا ہے۔ اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا اور نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ بلکہ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔“

تنقید

مرزا قادیانی کے طرز کلام سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ کو نبوت کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ نبوت نقلی تھی یا اصلی۔ تنازع یا رجعت اور بروز کے طور پر تھی یا حقیقی یا مجازی طور پر تھی اور یا محدث کو ہی نبی سمجھ بیٹھے تھے۔ اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ کیونکہ اخیر دم تک آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں ہوں کیا۔ طبیعت مرقاتی تھی جس طرف خیال جم گیا اپنے ہی خلاف کہتے چلے گئے۔ چنانچہ (ضمیر تحفہ گولڑویہ ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۶۱، حاشیہ ۱۹۰۲ء) پر لکھتے ہیں کہ محدث پر نبی کا اطلاق فصیح استعارہ ہے۔ (استغناء ص ۱۶، خزائن ج ۲۲ ص ۶۳، مطبوعہ ۱۹۰۷ء) پر لکھ دیا کہ میرا نام مجازی طور پر نبی رکھا گیا ہے۔ تقریر واجب الاعلام دہلی میں لکھا تھا کہ منکر ختم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ (حماتہ البشری ص ۸۱، خزائن ج ۷ ص ۳۰۰) میں لکھا کہ محدث میں نبوت کے

اجزاء بالقوہ موجود ہوتے ہیں۔ بالفعل نہیں ہوتے۔ پس محدث بالقوہ نبی ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ بھی بالفعل نبی ہوتا۔ شہادۃ القرآن طبع دوم ص ۲۷ میں لکھ دیا کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ ۱۹۰۲ء میں جب بمقام لاہور مولوی عبدالحکیم کلانوری مرحوم سے مباحثہ ہوا تو آٹھ گواہوں کے سامنے آپ نے حقیق نبوت سے دستبردار ہوتے ہوئے ایک تحریر دی کہ: ”ابتداء سے میری نبوت یہی ہے کہ میں محدث کو نبی جانتا ہوں۔ جو مکلم کے نام سے مشہور ہے۔ (مسلمان اگر محدث کو نبی کہنا مناسب نہیں سمجھتے) تو اپنے بھائیوں کی دلجوئی کے لئے اس لفظ کو دوسرے چیرا یہ میں بیان کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے۔ سو ہر جگہ میری تصانیف میں نبی کی بجائے محدث کا لفظ سمجھیں اور اس (لفظ نبی کو) کاٹنا ہوا خیال کریں۔“ یہ اقرار نامہ قول مجید میں مولوی احسن امروہی نے بھی نقل کیا ہے۔ ناظرین کو تعجب ہو گیا ہوگا کہ وہ کندن اور کاہ برآوردن کا معاملہ ہوا کہ لوجی سنا تھا کہ مرزا قادیانی نبی ہیں۔ چودم برداشتم مادہ برآمد۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیرا تو اک قطرہ خون نہ نکلا

دیکھا تو اقرار نامہ میں بالکل ہی مکر گئے اور قول مجید میں اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ایسے مشتبه الفاظ نہ لکھوں گا۔ مگر یہ وعدہ بھول گئے اور ۱۹۰۷ء میں پھر وہی دلائل لفظ لکھ دیا کہ میں نبی ہوں اور ۱۹۰۸ء کو مئی کے پرچہ اخبار عام میں شائع کر دیا کہ: ”خدا کے فضل سے ہم نبی اور رسول ہیں۔“ اس حرکت ناشائستہ کا ارتکاب اور وعدہ خلافی کا اختیار کرنا ایسا عیب ہے کہ جو معمولی اخلاق کا مالک انسان بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اگر ایک مقدس ہستی اپنے لفظوں سے پھر جائے تو سخت افسوس ہوگا اور یہ کہنے کا موقعہ نہیں رہے گا کہ اس کی زندگی بے لوث تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ مولوی عبدالحکیم صاحب کلانوری مرحوم کو بھی آپ نے پتھر دے کر پیچھا چھوڑا یا تھا کہ میں محدث ہوں نبی نہیں ہوں۔ کیونکہ آپ کے نزدیک محدث کی شخصیت وہ نہیں جو اسلام میں مشہور ہے کہ وہ نور ایمان کی وجہ سے واقعات کا پس و پیش اس طرح عیاں دیکھتا ہے کہ گویا اس کو کسی نے کچھ بتا دیا ہوا ہے۔ اس حالت کا نام فراست ایمانیہ ہے اور یہ صفت اولیاء اللہ میں کبھی کبھی پائی جاتی ہے۔ جس سے کوئی شخص بالقوہ بھی نبی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حضرت عمرؓ کو حضور ﷺ نے محدث تسلیم کیا تھا۔ وہ اس لئے اول المحدث سمجھے مگر باوجود اس کے آپ نے کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ بالفعل نہ بالقوہ، نہ مجازی نہ حقیقی، نہ اصلی نہ نقلی اور نہ بروزی نہ

عکس اور نہ مستقل اور نہ غیر مستقل۔ یہ تمام اصلاحی الفاظ مدعیان نبوت کے زیر استعمال رہے ہیں اور کبھی صوفیائے کرام نے بھی شطیحات کہہ دئے ہیں۔ لیکن بعد میں یا تو انہوں نے خود انکار کر دیا تھا اور یا اہل حق نے تکفیری ڈنڈے سے اصلاح کروا ڈالی تھی تو فتنہ فرو ہو گیا تھا۔ مگر اب ایسی آزادی ہے کہ تکفیری فتویٰ کو معارضہ صداقت ٹھہرایا جاتا ہے۔

بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا

ہاں مرزا قادیانی کے نزدیک محدث کی شخصیت انہی بڑی ہوئی ہے کہ کبھی وہ خدا میں بھی گھس سکتی ہے اور کبھی خدا اس میں گھس جاتا ہے اور تمام انبیاء و اولیاء کا مظہر بنتی ہے اور جامع جمع صفات کمالیہ بن کر اور تمام انبیاء سے مساوات پیدا کر کے کہ۔

آنکہ دادست ہر نبی راجام

داداں جام را مراتام

توین انبیاء میں بھی اتنی جرأت دکھاتی ہے کہ۔

عیسیٰ کجاست تاہند پامہنرم

(درمبین فارسی از مرزا ملعون)

پس اس شخصیت کا محدث تمام انبیاء سے افضل ٹھہرا تو اسے نبی یا رسول بننے کی کیا ضرورت تھی۔ اس لئے مولوی صاحب کو ہتھ دے دیا کہ آئندہ میں نبی کا لفظ اپنے لئے استعمال نہ کروں گا۔ مگر پھر جب خیال آیا کہ محدث کی اصلیت ہوائے انظہار نبوت کے منکشف نہیں ہو سکتی تو پھر خلاف وعدہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا اور یہاں تک بڑھ گئے کہ اربعین نمبر ۴ میں نبی تشریحی اور مستقل ناخ شرع ہونے کا بھی دبی زبان سے دعویٰ کر دیا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی محدثیت میں کیا کیا دھرا پڑا ہے۔ آپ غور سے اعلان نبوت کی عبارت پڑھیں تو آپ کو مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوں گی کہ:

..... جناب نے یہ پیش کیا ہے کہ نبوت جس طرح پہلے جاری تھی اسی طرح حضور ﷺ کے بعد میں بھی جاری چلی آئی ہے اور قیامت تک چلی جائے گی۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ عہد رسالت سے پہلے ہر ایک مذہب میں جاری تھی اور عہد رسالت کے بعد مذہب اسلام سے خاص ہو گئی اور مسلمانوں میں اس نبوت کو وہ لوگ حاصل کرتے رہے جو فنا فی الرسول ہو کر صدیقی کھڑکی سے داخل ہوتے آئے ہیں اور باقی تمام مسلمانوں کو اس سے محروم کر دیا۔ مگر ہمارے نزدیک یہ افسانہ طرازی صرف اس شخص پر موثر ہو سکتی ہے جو اسلامی تعلیم سے ناواقف ہو

اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ علوم مروجہ کے حاصل کرنے سے میں نے اسلام بھی سیکھ لیا ہے۔ ورنہ ٹھوس لیاقت کا انسان اسے بلا ثبوت اور بلا دلیل ہونے کی وجہ سے صرف مرزا قادیانی کے کہنے پر ماننے کے لئے تیار نہیں۔

۲..... تعلیم بہائیت اور ہندو تاثرات کے ماتحت آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب محمد ﷺ بار بار دنیا میں روپ بدل کر آتے رہے ہیں اور ہزاروں دفعہ قیامت تک روپ بدل کر آتے رہیں گے۔ اس روپ دھارنے کو رجعت تناخ اور بروز وغیرہ کے الفاظ سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ بہر حال یہ مسئلہ یہود و نصاریٰ سے حاصل کیا گیا ہے۔ یا ہندوؤں اور سکھوں سے اڑایا ہے۔ کیونکہ آپ کو کرشن اوتار اور جلیپا بننے کی سخت ضرورت تھی۔ مگر نہ آریوں نے مانا اور نہ سکھوں نے۔ مسلمان بھی پھنسے تو وہی جو عقل کے دشمن تھے یا جن کے پیچھے عقل ڈنڈا لئے پھرتی تھی۔

۳..... نمبر دوم کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا کہ میں محمد ثانی ہوں اور میری بعثت بعثت محمدی ہی ہے اور خدا نے میرا نام محمد رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ خدا اپنے پیاروں کو نبیوں کے نام دیا کرتا ہے۔ مگر یہ دعویٰ ایسا ہے کہ جس پر سوائے اس کے کوئی اور دلیل نہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے اور بس۔ کیونکہ ہم کرشن ہیں اور رجعت و تناخ کا ثبوت اس نے اپنی کتاب گیتا میں بار بار پیش کیا ہے۔

۴..... آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھ میں حضور ﷺ کے تمام صفات کمالیہ حاصل ہو گئے ہیں اور خاتم الانبیاء بھی بن گیا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ آئندہ رسالت میری اولاد میں ہی جاری رہے اور ان لوگوں میں جو میرے مخلص تابعدار بن کر صدیقی کھڑکی سے داخل ہوں۔ یہاں تک تو آپ نے ثابت کر دیا کہ مجھ میں اور حضور ﷺ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ آپ اصلی محمد ہیں اور میں نقلی، یا وہ اصل ہیں اور میں ان کا سایہ۔ بہر حال اس قسم کی مساوات اہل اسلام کے لئے جانفرسا ہے کہ اس سے بڑھ کر تکفیر کے لئے کوئی مکمل سامان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ جیسے شخصیت آپ کے مساوی نہ ہو سکی تو دوسرے امتی کی کیا وقعت ہے کہ آپ کے غبار پا کے برابر بھی ہو سکے۔

۵..... محدث کی شخصیت کو آپ نے اتنا بڑھایا کہ حضور ﷺ کے مساوی لاکھڑا کر دیا اور جب دوسرے دعوؤں کا خیال کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس مساوات کے حاصل کر لینے کے بعد آپ کو وہ مدارج بھی حاصل ہو گئے تھے جو کسی نبی کو حاصل نہیں تھے۔ مثلاً خدا سے متحد ہونا خدا کی صفت بنا۔ خدا کا کارمختار بننا اور تمام انبیاء کا مظہر بننا وغیرہ۔ یہ ایک ایسی حرکت

ہے جو کسی ایماندار سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ سوائے اس کے وہ اسلام چھوڑ کر مستقل نبوت کا مدعی ہو۔

۶..... ایک جگہ آپ نے اپنی حرکت کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خدا نے لوگوں سے خوب چال چلی کہ براہین میں مجھے نبی بنا کر لوگوں کو اشتباہ میں ڈالے رکھا اور جب یہ مخالفت میں ہلاک ہو چکے تو میری نبوت کا صریح اعلان کروادیا تو گویا ۲۲ برس تک خدا امت محمدیہ کو دھوکا دیتا رہا ہے اور آپ بھی دھوکا دیتے رہے۔ حق بزبان جاری۔ اصل بات نکل آئی کہ آپ نے شروع سے ہی نبوت کی ٹھان لی تھی۔ مگر اخلاقی کمزوری سے ۲۲ برس ایچ پیج میں ہی گزار دیئے اور جب اپنی جماعت بن گئی تو اعلان کر دیا کہ میں ایسا محدث نبی ہوں کہ جو کمالات ایک ایک نبی میں تھے۔ وہ سارے ہی مجھ میں پائے گئے ہیں تو بھلا ایسا چالاک نبی کب خدا کا پیارا بن سکا ہے اور تکفیر سے بچ کر اپنی پوزیشن اخلاقی کمزوری سے کیسے پاک رکھ سکتا ہے؟

۷..... بہائی مذہب کی پیروی کرتے ہوئے جناب نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ حضور ﷺ بھی تین سال تک اعلان نبوت نہ کر سکے تھے۔ (جیسا کہ ۱۳۳۵ھ کی تقریر میں بیان ہو چکا ہے) اور بقول شیعہ غیبت صغریٰ میں رہے تھے اور میں بھی بائیس برس تک اسی غیبت میں رہا۔ کیونکہ میری مخالفت ان سے بڑھ کر تھی۔ مگر جب حکومت برطانیہ آپ کے ساتھ تھی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آپ پہلے دن ہی نبی نہ بن جاتے۔ شاید یہ ڈر ہوگا کہ مجھ پر میرا ہی نسخہ نہ برتا جائے کہ مفتری علی اللہ اور مدعی نبوت قطع و تمین کے عذاب سے فوری موت کے ساتھ مرتا ہے۔ مگر خدا کی قدرت دیکھئے اعلان نبوت کرنا ہی تھا کہ سات برس کے اندر ہی ہیضہ سے فوری موت نے پیر صاحب کی بددعاء کے زیر اثر آدبوچا اور یہ ظاہر کر دیا کہ واقعی آپ کی نبوت دھوکے کی ٹٹی تھی۔

۸..... اس تقریر میں آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ: ”خاتم“ کا مفہوم یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس پر مہر لگ جائے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور حضور ﷺ آخری نبی تھے۔ جن کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ مگر آپ کے مرید اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کامل نبی مراد ہے۔ جس کے ماتحت اور نبی بھی ہو سکتے ہیں تو گویا جس چال پر آپ چل رہے ہیں اسے چھوڑ کر مریدوں نے دوسری آسان چال نکال لی ہے۔ جس سے ہم حیران ہیں کہ آیا ان کے نبی کو ناقص البیان سمجھیں یا ان لوگوں کو گستاخ جانیں کہ اپنے نبی کی مخالفت کرنے سے بھی شرم نہیں کرتے۔ مگر۔

نیش عقرب نہ ازپے کین ست  
مقتضائے طبیعتش این است



۹..... نبوت کا بنڈل چاروں طرف مہروں سے بند کیا ہوا موجود تھا۔ آپ نے اپنے کیمبرہ وجودی میں اس کا فوٹو حاصل کر کے دعویٰ کر دیا کہ جو کمالات اس بنڈل میں تھے سب ہی مجھ میں موجود ہو گئے ہیں۔ مگر پہلے تو ہم بلا دلیل کیسے مان لیں کہ آپ فوٹو کا کیمبرہ بن چکے تھے۔ اس کے بعد ہم کیسے مانیں کہ کسی چیز کی تصویر میں اس کی خاصیتیں بھی موجود ہو جاتی ہیں۔ خود آپ کی تصویر مریدوں کے پاس موجود رہتی ہے۔ مگر اس میں نہ آپ کی کوئی تاثیر موجود ہے اور نہ وہ بول کر آپ کی طرح کسی کو لپیٹ میں لاسکتی ہے۔ بہر حال یہ ایسا ہتھیار دیا گیا ہے کہ سادہ مزاج فوراً پھنس جاتے ہیں۔ مگر حقیقت شناس جانتے ہیں کہ آپ وہی ہیں جو ہیں۔

بہر رنگ کہ خواہی جامہ سے پوش

من اندازِ قدتِ رائے شناسم

۱۰..... اپنے آپ کو نبوت محمدی کا حقدار ثابت کرنے میں جو طریق جناب نے اختیار کیا ہے وہ وحدت وجودیوں کو بھی نہیں سوجھا۔ آپ نے کمال کر دیا ہے۔ اپنی نبوت کو محدثیت بنا کر اس طرح بانس پر چڑھایا کہ تمام نقلی نبوتوں کے دانت کھٹے کر دیئے اور پھر امتی کے امتی بنے رہے۔ بلی سات چوہے کھا کر پھر حاجن کی حاجن۔ یہ چال اگر عقل سلیم تسلیم کرتی ہے تو جارج پنجم کا ایک مخلص دوست کہہ سکتا ہے کہ میں فتانی الجارج ہو کر جارج ثانی بن گیا ہوں۔ اس لئے انگریزی حکومت کا وارث میں ہی ہوں اور میرے بعد وہ لوگ وارث ہیں جو میری نسبی یا روحانی اولاد ہوں گے۔ بہر حال یہ ایک ایسی مکروہ حرکت ہے کہ جس سے ادنیٰ درجہ کا مسلم بھی نفرت کرتا ہے۔

۱۱..... اگر آپ کو تمام کمالات محمدی کے حاصل کرنے میں سچا مان لیا جائے تو امتحان کرنے سے بالکل فیل نظر آتے ہیں۔ کیونکہ حضور ﷺ کا کوئی کمال بھی آپ میں موجود نہ تھا۔ نہ صحت اور تنومندی تھی۔ نہ فصاحت و بلاغت تھی کہ آپ کے اقوال بھی ضرب المثل بن جاتے۔ نہ شجاعت و شہامت، نہ سلطنت و بادشاہت تھی۔ نہ نیکی اور یتیمی تھی۔ نہ جو دو سخا تھا نہ جان کے خطرہ میں وطن چھوڑنا پڑا۔ نہ حکومت کی مخالفت تھی۔ نہ دشمنوں کے بار بار حملوں سے سینہ سپر ہو کر جو ابد ہی کے طور پر جنگ آزما ہونے کا موقعہ پیش آیا تھا۔ نہ قومی احساس تھا۔ نہ قومی ہمدردی میں جانثاری تھی۔ نہ یہ موقعہ حاصل تھا کہ ایک پست قوم کو عرشِ معلیٰ تک پہنچایا ہوتا اور نہ پیشین گوئی کا بغیر تاویل کے پورا ہونا۔ نہ بد دعاؤں کی تاثیر کاری طور پر تھی۔ نہ خوش بیانی تھی۔ نہ شیریں گفتاری اور تخیل تھا۔ نہ برائی کے بدلے نیکی تھی۔ نہ عبادت تھی نہ زہد تھا۔ نہ تقویٰ تھا نہ پرہیز

گاری تھی۔ نہ دنیا سے بے تعلقی تھی۔ نہ سادہ خوراک تھی۔ نہ سادہ لباس تھا۔ نہ قناعت تھی نہ صبر تھا، نہ توکل تھا۔ نہ تجمل الی اللہ تھا۔ غرضیکہ کچھ بھی نہ تھا۔ تو پھر کس شئی سے کہہ دیا کہ مجھ میں حضور ﷺ کے تمام صفات کمالیہ حاصل ہو گئے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ موجب تکفیر نہیں ہو سکتا؟

۱۲..... جب محمد ثانی کا دعویٰ تھا تو کرشن کے مدعی کیوں بنے؟ جیٹیا کیوں ہوئے؟ بے سنگھ بہادر کیوں بنے؟ حجر اسود، خدا، خدا کا بیٹا، خود خدا، بلکہ خدا کا باپ، مریم، ابن مریم، مجنون مرکب، سنگ قادیان (قادیانی پتھر) اپنے آپ کو کیوں بنایا؟ کیا کبھی ہمارے نبی ﷺ نے ان دعاوی میں سے کبھی ایک دعویٰ بھی کیا تھا؟ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں۔ کوئی صریح آیت یا حدیث دکھا دیجئے ہم مان لیں گے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر یہ کیوں شنی بھکاری کہ میں محمد ثانی ہوں۔ پس اگر یہ ہتھمہ دیا ہے تو اپنی ہستی خراب کر لی۔ نہیں دیا تو حضور ﷺ سے بڑھ کر دعویٰ ہوا تو پھر تکفیر سے کیا ڈر؟

۱۳..... خلاصہ یہ ہے کہ اس اعلان نبوت کا ایک ایک لفظ ہمارے اسلام کے خلاف ہے اور جو امور آپ نے پیش کئے ہیں۔ ان میں کا ایک بھی تو انسان کو خارج از اسلام کر دینے کے لئے کافی ہے تو بھلا جب سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایسے شخص کو کیوں ایسا نہ سمجھا جائے کہ اس نے نیا اسلام اور نئی نبوت پیش کی تھی اور جو کچھ بہائی مذہب نے کیا تھا وہی رنگ مرزائیت کو دیا تھا؟ اور کیوں ہم یوں نہ کہیں کہ جب بہائیوں کے نزدیک مرزائیت کفر ہے اور مرزائیت کے نزدیک بہائیت کفر ہے تو ہمارے نزدیک دونوں مذہب کیوں کفر نہ ہوں گے۔ بالخصوص جب کہ ہم کو دونوں مذہب مخالف نبوت بنا کر جنہمی اور کافر قرار دیتے ہیں۔

## ۲۴..... دشنامہ قادیانی مسیح

مرزا قادیانی نے اپنا اتحاد حضور ﷺ سے پیش کیا ہے۔ مگر ذیل کا دشنامہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب کو حضور ﷺ سے دور کی بھی نسبت نہ تھی۔ کیونکہ حضور ﷺ ”لم یکن فحاشاً“ فحش گو نہ تھے اور آجناب کی کوئی تحریر بھی فحش گوئی سے خالی نہ تھی۔ چنانچہ کتاب البریہ میں جناب خود مان چکے ہیں کہ مجھے تقریباً چار سو گالیاں دی گئیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم زیادہ نہ سہی تو جناب نے بھی تو لوگوں کو چار سو گالیاں دی ہوں گی۔ جن کا خلاصہ بلا تکرار لفظی کتاب ”تحریک قادیان“ مصنفہ مدیر ”سیاست“ لاہور سید حبیب صاحب سے نقل کیا جاتا ہے۔ جو کہ ردیف وار ہے۔

الف..... اے بذات فرقدہ مولویاں تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کا الانعام کو بھی پلایا۔ اندھیرے کے کیڑو۔ ایمان و انصاف سے دور بھاگنے والا اندھے نیم دھریہ ابولہب، اسلام کے دشمن، اسلام کے عار، اے جنگل کے وحشی، اے نابکار، ایمانی روشنی سے مسلوب، احمق، مخالف، پلید، دجال، اسلام کے بدنام کرنے والے۔ اے بد بخت مفتریو، اعمی، اشرار، اول الکفرین، اوباش، اے بذات، خبیث دشمن اللہ و رسول، ان بیوقوفوں کو بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی اور صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔

ب..... بے ایمان، اندھے مولوی، بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بے حیائی سے بات بڑھانا، بددیانت، بے حیا انسان، بذات، فتنہ انگیز، بد قسمت منکر، بد چلن، بخیل، بد اندیش، بد باطن، بد بخت قوم، بد گفتار، بد علماء، باطنی جذام، بخل کی سرشت والے، بیوقوف، جاہل، بیہودہ، علمائے بے بصیر۔

پ..... پاگل بذات، پلید طبع۔

ت..... تمام دنیا سے بدتر، تنگ ظرف، ترک حیا، تقویٰ اور دیانت کے طریق کا ہلکی چھوڑ دینا۔ ترک تقویٰ کی شامت سے ذلت پہنچ گئی۔ تکفیر و لعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لئے۔

ث..... ثعلب۔ ”ثم اعلم ایہا الشیخ الضال والدجال البطل“

ج..... جھوٹ کی نجاست کھائی۔ جھوٹ کا گوبر کھایا۔ جاہل وحشی، جاہدہ صدق و صواب سے منحرف، جعلساز، جیتے ہی جی مر جانا۔

چ..... چوہڑے چمار۔

ح..... حمار، حمقاء، حق سے منحرف، حاسد، حق پوش۔

خ..... خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا ضمیر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ خنزیر سے زیادہ

پلید۔ خطا کی ذلت انہی کے منہ میں۔ خالی گدھے، خائن، خیانت پیشہ، خاسرین، خالیہ من نور الرحمن، خام خیال، خفاش۔

د..... دل سے محروم دوکھادے۔ دیانت و ایمانداری سے خالی، دجال، دروغ

گو، دشمن سچائی، دشمن حق، دشمن قرآن، دلی تاریکی۔

ذ..... ذلت کی موت، ذلت کے ساتھ پردہ داری، ذلت کے سیاہ داغ ان کے

منخوس چہروں کو سوروں اور بندروں کی طرح کر دیں گے۔ ذلت سے غرق ہو جاؤ۔

- ..... ڈوموں کی طرح مسخرہ۔
- ..... رئیس الدجال۔ ریش سفید کو منافقانہ سیاہی کے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ روسیاء، روباہ، بان رئیس المنافقین، رئیس المعتدین، راس الغاوین۔
- ..... زہرناک مارنے والے، زندیق، زور کم پیشوا لی موجی الغرور۔
- ..... س..... سچائی چھوڑنے کی لعنت انہی پر برسی، سفلی ملاں، سیاہ دل منکر، سخت بے حیا، سیاہ دل فرقہ کس قدر شیطانی افتراؤں سے کام لے رہا ہے، سادہ لوح سانس، سفہاء، سفلہ، سلطان التکبرین، الذی اضاع نفسه بالكبر والتوہین۔ سگ بچگان۔
- ..... ش..... شرم و حیا سے دور، شرارت خباثت و شیطانی کارروائی والے۔ شریف از سفلہ نے ترسد، بلکہ از سفلی او میترسد، شریر مکار، شیخی سے بھرا ہوا، شیخ نجدی۔
- ..... ض..... ضال، ضرر، ہم اکثر من ابلیس لعین۔
- ..... ط..... طالع منحوس، طعم نفاقا بالغاء الحق والدین۔
- ..... ظ..... ظلمانی حالت۔
- ..... ع..... علماء السوء، عداوت اسلام، عجب دیندار، عدو العقل، عقارب، عقب الکلب (کتے کی نسل) عدوہا۔
- ..... غ..... غول الاغوال، خدار سرشت، غالی، غافل۔
- ..... ف..... ”فمعت یا عبد الشيطان“ فریبی فن عربی سے بے بہر، فرعونی رنگ۔
- ..... ق..... قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے۔ قست قلوبہم، قد سبق الكل فی الکذب۔
- ..... ک..... کینہ ور، کمہار زادے، کوتاہ، نطقہ، کھوپری میں کیڑا، کیڑوں کی طرح خود ہی مرجائیں گے، کتے، مکینہ، کج دل قوم۔
- ..... گ..... گدھا، گندے اور پلید فتویٰ والے۔ گندی کارروائی والے، گندی عادت، گندے اخلاق، گندہ وہانی، گندی روحوں۔
- ..... ل..... لاف و گزاف والے۔ لعنت کی موت۔
- ..... م..... مولویت کو بدنام کرنے والو، مولویوں کا منہ کالا کرنے کے لئے منافق، مفتزی، مورد غضب، مفسد، مرے ہوئے کیڑے، مخذول، مجبور، مجنون، مغرور، منکر، محبوب، مولوی مگس ظلیت، مولوی کی بک بک، مردار خوار، مولویو! نجاست نہ کھاؤ۔

ن ..... نا اہل مولویوں، ناک کٹ جائے گی، ناپاک طبع لوگوں نے، نایدینا علماء، نمک حرام نفسانی، ناپاک نفس، نابکار قوم، نفرتی ناپاک شیوہ، نادان متعصب، نالائق، نفس امارہ کے قبضہ میں نا اہل حریف، نجاست سے بھرے ہوئے نادانی میں ڈوبے ہوئے نجاست خواری کا شوق۔

و ..... وحشی طبع، وحشیانہ عقائد والے۔

ہ ..... ہالکین، ہندو زادہ۔

ی ..... یک چشم مولوی، یہودیانہ تحریف، یہودی سیرت، یا ایہا الشیخ الضال

والمفتری البطل، یہود کے علماء، یہودی صفت

مندرجہ ذیل نظم بھی جناب کی گندہ ذہنی کاشتوت ہے۔

آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے	اک سنگ دیوانہ لودیانہ میں ہے
اس کی نظم ونثر و اہیات ہے	بدزباں بدگوہر و بدذات ہے
ہے نجاست خوار وہ مثل گس	آدمیت سے نہیں ہے اس کو مس
منہ پر آنکھیں ہیں مگر دل کور ہے	سخت بدتہذیب اور منہ زور ہے
آدمی کا ہے کوہے شیطان ہے	حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے
بھونکتا ہے مثل سنگ وہ بار بار	چنتا ہے بے ہدے مثل حمار
بکتے بکتے ہو گیا ہے باؤلا	مغز لونڈوں نے لیا ہے اس کا کھا
اس کا اک استاد ہے سو بد گھر	کچھ نہیں تحقیق پر اس کی نظر
اس کی صحبت کی یہ سب تاثیر ہے	دوغلا استاد اس کا پیر ہے
بولہب کے گھر کا برخوردار ہے	جہل میں بوجہل کا سردار ہے
جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے	سخت دل نمرود یا شداد ہے
مسخرہ ہے منہ پھنسا اوباش ہے	ہے وہ نایبنا ویاخفاش ہے
پھر حدت بنتے ہیں دونوں شریر	وہ مقلد اور مقلد اس کا پیر
پھیرتا ہے اس سے منہ اب نابکار	اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار
جس طرح کہ زہر ماروسگ میں ہے	شور شیخی ان کی ہر رگ رگ میں ہے
لاکھ لعنت اس کے قیل و قال پر	ہائے صد افسوس اس کے حال پر
مل گیا کفار سے وہ بے دلیل	آدمی ہے یا کہ ہے بندر ذلیل
پادری مردود کا ہے خوشہ چین	وہ یہودی ہے نصاریٰ کا معین

ذیل میں وہ فحش گوئی درج کی جاتی ہے جو مخالفوں کو پیش کی ہے۔ مثلاً: ”کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریۃ البغیا“ (آئینہ ص ۵۴۷، خزائن ج ۵ ص ۵۴۷) جو مسلمان ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔

(انوار الاسلام ص ۳۰)

”ان العده صار واخنازیر الفنا . ونسائهم من دونهن الاکلب“  
(نجم الہدی ص ۱۰، خزائن ج ۱۴ ص ۵۳)

”اذیتنی خبتاً فلست بصادق ان لم امت بالخزى یا ابن بغاء“  
(تمیز حقیقت الوحی ص ۱۵، خزائن ج ۲۳ ص ۴۶)

”من ینکر فافهو کافر“  
(حقیقت الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷)  
درمشین اردو میں ہے۔

بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی

کوئی ہے روباہ کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار

ہم اس بحث میں دو نہیں جانا چاہتے۔ کیونکہ آپ کے متعلق یہ مسلم الثبوت نظر یہ ہے کہ آریوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس تحقیرانہ اور ناقابل برداشت الفاظ سے مخاطب کیا ہے کہ جن کے سننے کی ادنی غیرت بھی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی پہلی کتاب براہین سے لے کر آخری کتاب نزول مسیح تک مطالعہ کرنے والا تحقیرانہ پیرایہ کے فقرات اور مقدس گالیاں نوٹ کرنے لگ جائے تو شاید کوئی مقام بھی ایسا دکھائی نہ دے گا کہ جس میں مخاطب کو دو شالہ میں لپیٹ کر جوتا سے تواضع نہ کی ہو اور اس دل آزار رویہ پر آپ کو پھرناز بھی ہے کہ قرآنی آیات میں مخالفین کو اسی محقرانہ طرز پر خطاب کیا گیا ہے اور بشری کے ایک مقام پر ایک انہامی شان نزول بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب ابوطالب نے حضور ﷺ سے کہا تھا کہ تم گالیاں نہ دیا کرو تو آپ نے جواب دیا تھا کہ میں اپنا رویہ نہیں بدل سکتا۔ یہ روایت جس طریق پر بگاڑ کر اپنی تائید میں پیش کی ہے۔ اس کی ذمہ داری خود مرزا قادیانی پر ہی ہے۔ مگر تاہم اتنا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ آپ کو قول اللہ اور قول النبی ﷺ میں امتیاز نہ تھا یا عمادوں کو ایک ہی سمجھ رکھا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ گو قول الہی میں تندی آمیز الفاظ موجود ہیں۔ مگر قول الرسول میں ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو۔ لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ آپ کی وحی بھی گالیوں اور تحقیر آمیز الفاظ سے پر ہے اور

آپ کا ذاتی قول بھی حیا سوز فقرات سے موجب اعتراض بنا ہوا ہے۔ خلاصہ یوں ہے کہ حضور ﷺ کا ذاتی کلام اشتعال آمیز بالکل نہیں تھا اور مرزا قادیانی کا کلام جا بجا اشتعال آمیز اور نفیس آلود تھا۔ اس لئے یوں کہنا کمال گستاخی ہوگی کہ معاذ اللہ محمد نے اپنے دوسرے روپ میں فحش گوئی بھی اختیار کر لی تھی۔ ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی حضور ﷺ کا بروز نہ تھے۔

ہم نے جو فہرست یا نظم پیش کی ہے اس کے متعلق اگر یہ اعتراض ہو کہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا تو جواب یوں ہوگا کہ جو تحریرات قادیانیہ ہم نے اس کتاب میں پیش کی ہیں۔ ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کس درجہ پر جانفروا تھے۔ ابھی معترض کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہئے کہ ہم نے تفصیلی طور پر فحش گوئی پر بحث نہیں کی۔ کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ورنہ اگر انجام آتھم اور براہین کے حواشی کی ہی فہرست پیش کی جائے یا قصیدہ اعجازیہ سے گالیوں کی فہرست مرتب کی جائے تو کم از کم ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہوگی۔ اس لئے اس مختصر فہرست اور نظم پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے اور یقین دلایا جاتا ہے کہ اگر یہ گالیاں اور پایہ نظم مرزا قادیانی کی پیدا کردہ نہ بھی ہوں تو ان کے طرز تحریر کا نمونہ ضرور ہیں۔ جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فحش گوئی کے عیب سے ایک بزم خود بڑی مقدس ہستی بے لوث ثابت نہیں ہو سکتی۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

## ۲۵..... مسیح قادیانی کے الہامات، کشف اور خوابیں

قرآن مجید میں مکالمہ الہیہ کے تین طریق مذکور ہیں۔ پس پردہ، بوساطت فرشتہ اور وحی۔ مگر مرزا قادیانی کا خدا سے مکالمہ بحوالہ براہین احمدیہ پانچ طرز پر تھا۔ ژالہ باری، غوطہ زنی، قلبی خیال، رویت تحریر یا فرشتہ بشکل انسان وغیرہ اور بیرونی آواز کی شنوائی، قرآن کی رو سے آپ نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ شیطانی وحی بد معاشوں پر نازل ہوتی ہے اور وحی رحمانی نیک آدمیوں پر نازل ہوتی ہے۔ مگر مکالمہ الہیہ کو مطلب خیز شاہی اقتدار کے ساتھ نازل ہونے والا اور غیب پر بلکی اطلاع دینے والا لکھا ہے۔

وحی رحمانی اور شیطانی میں امتیاز

اور شیطانی مکالمہ کو قلیل المقدار غیر فصیح بد بودار صرف ایک فقرہ یا دو فقرہ پر مشتمل بتایا ہے۔ کیونکہ شیطان بخیل گنگا، گلا ہوا ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے بول ہی نہیں سکتا۔ اس کا کلام رعب اور شوکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو ملہم بھی سختی کے وقت اس کا الہام چھوڑ بیٹھتا ہے اور الہام الہی اکثر

معظمت امور میں ہوتا ہے۔ کبھی غیر زبان میں اور کبھی غیر مستعمل الفاظ میں ہوتا ہے۔ اس وحی سے نہ مجھے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور نہ مجھے اس سے کچھ غرض ہے۔ ”اجرد نفسی من ضروب الخیال“ یہ خدا کا فعل ہے۔ میرا اس میں دخل نہیں ہے۔ میں نے براہین میں لکھا تھا کہ مسیح آسمان سے نازل ہوں گے۔ اگرچہ مجھے بتایا گیا کہ تو ہی مسیح ہے اور تیرے ہی آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی ہے۔ مگر میں نے اس وحی کو مشتبہ سمجھ کر ناویل کی اور عقیدہ نہ بدلا۔ مگر جب بارش کی طرح بار بار وحی نازل ہوئی کہ مسیح تم ہی ہو اور صد ہا نشان بھی مل گئے تو مجبوراً مجھے کہنا پڑا کہ آخری زمانہ کا مسیح میں ہی ہوں۔ پھر اس الہام کو قرآن کی رو سے پیش کیا تو معلوم ہوا کہ مسیح مرچکے ہیں۔ پھر قرآن وحدیث نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے آپ کو مسیح موعود مانوں۔ میں پوشیدگی کے حجرہ میں تھا۔ اس نے مجھے جبراً نکالا اور عزت کے ساتھ شہرت دلانے کا وعدہ کیا۔ میرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ میں کجا اور مسیح ابن مریم کجا۔ مگر جب مجھے نبی کا خطاب دیا گیا اور امتی بھی ٹھہرایا گیا تو ۲۳ برس کی وحی نے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ پہلی وحیوں پر ایمان ہے۔ مسیح سلسلہ موسوی کے آخری خلیفہ تھے اور سلسلہ محمدی کا میں آخری خلیفہ ہوں۔ اس لئے خدا نے یہ نہ چاہا کہ میں اس سے کم رہوں۔ میں عالم الغیب نہیں۔ میں وحی کے تابع ہوں۔ اس وقت آسمان پر غیرت الہی جوش زن ہے۔ کیونکہ عیسائی حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سو خدا نے دکھا دیا کہ حضور ﷺ کے ادنیٰ غلام، مسیح ابن مریم سے بڑھ کر ہیں، میری نبوت وہ نہیں جو پہلے زمانہ میں براہ راست ملتی تھی۔ بلکہ مصلحت الہیہ نے حضور ﷺ کے افاضہ روحانیہ کی تکمیل کے لئے مجھے نبوت تک پہنچا دیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے الہام اور حدیث میں مجھے امتی بھی کہا گیا ہے اور نبی بھی۔

قلیل المقدار الہامات

..... ۱۔ براہین احمدیہ کے لئے امداد مانگی تو الہام ہوا: ”بالفعل نہیں“ کچھ عرصہ بعد الہام ہوا: ”ھزیا لیک بجذع النخل“ کھجور کا تنہ ہلاؤ تو تازہ پھل گرے گا۔ پھر آمدنی ہونے لگی۔ چنانچہ الہام ہوا: ”عبداللہ ذریہ اسماعیل خان“ تو ڈاکخانہ سے اس کا خط آ گیا۔

..... ۲۔ ایک مدقوق ہندو کے لئے دعاء کی تو الہام ہوا: ”قلنا یا نارکو نی بردا“ تو اس کا بخار سرد ہو گیا۔

..... ۳۔ غلام علی قصوری کا شاگرد مولوی نور احمد قادیان آیا اور الہام کی تصدیق طلب کی تو علی الصباح مجھے ایک کاغذ دکھایا گیا جس پر دو فقرے لکھے تھے۔ ”آئی ایم کوارٹر۔ ہذا



شاہد نزاع“ شام کو امرتسر سے سمن آ گیا کہ رجب علی پادری مالک مطیع سفیر ہند کا کسی سے مقدمہ ہے تم گواہی کے لئے آؤ اور نزاع (تباہ کن) بنو۔ تو ثابت ہوا کہ پہلے فقرہ سے مراد رجب علی تھا اور دوسرے سے میں مراد تھا۔ اس سے پہلے دس دن روپیہ پاس نہ تھا۔ تو الہام ہوا کہ دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں۔ ”الا ان نصر اللہ قریب فی شائل مقیاس، وین ویل یوگوٹو امرتسر“ (یعنی اونٹنی بچے جننے کے لئے کچھ دن تک دم اٹھاتی ہے۔ بس اتنی ہی دیری ہے روپیہ آجائے گا۔ مگر بتاؤ تم امرتسر کب جاؤ گے) تو گیارہویں روز راولپنڈی سے روپے بھی آگئے اور امرتسر بھی شہادت کے لئے جانا پڑا۔

۴..... مخالفوں نے قرآن پر اعتراض کئے تو الہام ہوا: ”گاڈ از کنگ بانی ہر آری۔ ہی از وہ یوٹوکل اتھی“ (خدا فوج لے کر آتا ہے وہ تیرے ہمراہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے ہے) میری فتح ہوئی۔ خدا ان کو جلا دے گا۔ واللہ واللہ سدھا ہو یا اولاً۔ خوشیاں منائیں گے۔ بلائے ناگہانی، یا اللہ فتح مسیح کا مہمان، غلام احمد کی ہے۔ ان کے لئے بہتر ہے، پوری ہو گئی، طوفان آیا، شرابی تلوار کی تیز دھار، احمد غزنوی، بلائے دمشق، سلطان عبدالقادر، تکلیف کی زندگی، پچیس دن، ایک ہفتہ تک ایک بھی باقی نہیں رہے گا، روشن نشان، بادشاہ آیا، مبارک آسمانی بادشاہت، فوق حمید، خدا اس کو بیخ بار ہلاکت سے بچائے گا۔ امین الملک جے سنگھ بہادر، پیٹ پھٹ گیا، دشمن اضطراب میں ہے۔ ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ رہنا عاج، عالم کباب، شادی خان، کلمتہ اللہ خان، کلیسا کی طاقت کا نسخہ، دشمن کا بھی ایک وار نکلا، زلزلہ آیا، بشیر الدولہ، دردناک دکھ، دردناک واقعہ، میری بیوی کا ایک مرگئی، ایک کلام اور دو لڑکیاں، زندگی، ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا، ایک دانہ کس کس نے کھانا، سلام اخبار شائع ہو گیا۔ کرنسی نوٹ، تین بکرے ذبح کئے جائیں گے، کبیل میں لپیٹ کر صبح قبر میں رکھ دو، دن تھوڑے رہ گئے، سب پر اداسی چھا گئی، رہا گو سپندان عالیجناب، پیشاب کا دورہ تھا، تو صحت کا الہام ہوا، السلام علیکم، دو شہتیر ٹوٹ گئے، رد بلا بامراد، آتش فشاں، مصالح العرب، میر العرب، انا اللہ، اس پر آفت پڑی، ان لوگوں کی شرارت جن پر تو نے انعام کیا، میں ان کو سزا دوں گا، میں اس عورت کو سزا دوں گا۔ لنگر اٹھا دو، زمین تہ وبالا کر دی، آہ نادر شاہ کہاں گیا۔ ہماری فتح فتح نمایاں المبارک، اس کے آگے فرشتے پہرہ دے رہے ہیں۔ میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔ (یہ فقرہ کسی کی فریاد تھی) چوہدری رستم علی، روز نقصان، بر تو نیاید، غلام قادر صاحب آئے گھر نوروبرکت سے بھر گیا، دخت کرام (شریفوں کی لڑکی) ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت، فضل الرحمان نے دروازہ کھول دیا۔ تم سب جانے والے

ہو۔ خدا کے نزدیک اس کی موت کا واقعہ بڑا بھاری ہے۔ بلا زال یا حادث یا آثار صحت، سلیم حامداً مستبشراً، مجموعہ فتوحات، اس میں خیر و برکت ہے، تم (مردوں) میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ ینادی مناد من السماء (ایک پکارنے والے نے آسمان سے پکارا) اگلی عبارت یاد نہیں رہی، نتیجہ خلاف مراد نکلا، فسوس صد فسوس، راہگرائے عالم جاودانی شد، محمود، رستن الخمر (بخار والا، ناخواندہ مہمان کی خبر) سلطان القلم، فیہر مین (معقول آدمی) خاکسار، پیپر منٹ، مضر صحت، کمترین کا بیڑہ غرق، ۲۵ دن۔

اس قسم کے الہام و کشوف اور بھی ہوں گے۔ جن میں ملہم نے اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کیا کہ یہ کس کے متعلق ہیں۔ یا ان کا کیا مطلب ہے۔ مجذوب کی بڑیا گونگے کے اشاروں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئے۔ مگر مریدوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی واقعہ درپیش آجاتا ہے تو فوراً اس پر چسپاں کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ چسپاں کرنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں اور کبھی ان میں اختلاف بھی پڑ جاتا ہے۔ بہر حال ان کے اس طرز عمل سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نبی کو جو باتیں معلوم نہ ہو سکیں ان کو معلوم ہو گئی ہیں۔

بے معنی الہام

.....۱ ”غثم غثم غثم، لہ دفع الیہ من مالہ دفعة“ (دیا گیا اس کو مال اس کا اچانک)

.....۲ (الف) ۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱  
.....۳ (ج) ۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱  
.....۴ (د) ۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱  
.....۵ (و) ۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱

.....۳ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا الہام دوران سر کے وقت ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت بے معنی الفاظ مدہوشی کی حالت میں منہ سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ ایک صوفی نے بھی شدت دوران سر کے وقت کہا تھا۔

من غبڑ غچم کریا ریلل یلواہ یدغ یا یوصلنا

اور دوسرا الہام مستصلہ یا علم جفر کے کسی تعویذ کو عمل کرتا ہے۔ کیونکہ بقول شخصے جناب نے ایام ملازمت سیالکوٹ میں ایک سید مبارک شاہ صاحب سے علم جفر، رمل اور نجوم، تینوں حاصل کئے تھے۔ اس لئے ممکن ہے کہ کسی مخالف کے متعلق کوئی سیفی تیار کی ہوگی۔ یا حب و عداوت

کی رفتار معلوم کی ہوگی۔ ایک مرید نے ان اعداد سے واقعات مشہورہ کی طرف اشارات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر مدعی ست گواہ چست اس کو اپنے نبی کے بیان کی تصدیق حاصل نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ ناکام رہا ہے۔ کچھ مریدوں نے ایسے الہاموں کو قرآن شریف کے مقطعات کی طرح تشابہات قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک جب مسیح قادیانی محمد ثانی ہیں تو ان کی وحی بھی وحی ثانی ہوگی اور اس میں مقطعات بھی ہوں گے۔ مگر انہوں نے یہ جرأت نہیں دکھائی کہ اس قرآن ثانی کو نماز میں بھی پڑھتے اور بہانیوں کی طرح ان الہامات کی تلاوت بھی کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضمیر ایسے الہامات قبول کرنے سے ان کو روکتی ہے۔ کیونکہ ان کے اپنے اصول کے مطابق یہ ایسے الہام ہیں کہ جن کو شیطانی الہام کہا جاسکتا ہے۔ یا کم از کم وہ ایسے الہامات سے مشابہت ضرور رکھتے ہیں۔

### الہامات شرکیہ

”انی مع الرحمن اتیک بغتۃ . انی مع الرسول . ومن یطومه اللوم . افطر واصوم . انت معی وانا معک . انی بایعتک . بایعنی ربی . یعظمتک الملئکۃ . اصلی واصوم . اسهر وانا م . واجعل لک انوار القدوم . واعطیتک ما یدوم“ میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا۔ جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔ تیرے لئے اپنے آنے کے نور عطاء کروں گا۔ تجھے وہ چیز دوں گا جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہے۔ ”انی مع الاسباب اتیک بغتۃ انی مع الرسول اجیب . اخطی واصیب . انی مع الرسول محیط“ میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا۔ خطا کروں گا۔ بھلائی کروں گا۔ میں اپنے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔ ”انی مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الی الوقت المغلوم“ ایک مقرر وقت تک اس زمین سے علیحدہ نہیں ہوں گا۔ ”ساکر مک بعد توہینک“ تیری توہین کے بعد تیرا اکرام ظاہر کروں گا۔ ”سانحرمک اکراماً عجیباً“ عنقریب تیرا بہت عجیب طرح سے اکرام کروں گا۔ ”یسئلونک عن شانک وقل اللہ“ تیری شان کی نسبت پوچھتے ہیں۔ انہیں کہہ دے کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ”سلام علیکم طبتم . انت منی بمنزلۃ لا یعلمها الخلق . انت منی بمنزلۃ عرشی“ سلام ہو تم پر۔ تیری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جسے لوگ نہیں جانتے۔ تو مجھ سے بمنزلہ عرش کے ہے۔ ”انی مع الروح معک ومع اهلك“ میں روح کے ساتھ تیرے اور تیرے ساتھ ہوں۔ ”لا تقوموا ولا تقعدوا ولا معہ . لا تردوا مورداً الا معی“ نہ کھڑے ہو اور نہ بیٹھو۔ مگر اس کے ساتھ نہ کسی کو

ہناؤ۔ مگر ساتھ اس کے ”انسی مع الرسول اقوم وروم ما یروم“ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور بہتان باندھنے والے پر بہتان باندھوں گا۔ ”یا شمس یا قمر انت منی وانا منک“ اے سورج چاند تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ ”انت منی بمنزلة بروزی“ تو مجھ سے ایسا ہے کہ میں ہی ظاہر ہو گیا۔ یعنی تیرا ظہور میرا ظہور ہو گیا۔ ”انک انت الا علی“ بے شک تو ہی عالی مرتبہ ہے۔ ”نثنی علیک“ ہم تیری ثناء کرتے ہیں۔ ”ظهورک ظہوری“ تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔ ”واللہ لو لا الاکرام لهلك المقام“ واللہ اگر تمہارا اکرام ہم کو منظور نہ ہوتا تو یہ مقام ہلاک ہو جاتا۔ ”اکرام تسمع به الموتی“ تیرا ایسا اکرام کروں گا کہ اس کے ذریعہ تو مردوں کو سناے گا۔ ”انسی مع اللہ فی کل حال“ میں ہر حال میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ ”سنکر مک اکراماً عجباً“ ہم تیرا نہایت ہی اکرام کریں گے یا عجیب طور پر ہم بزرگی دیں گے۔ ”اروم ما یروم“ اس بات کا قصد کروں گا۔ جس کا وہ قصد کرے۔ ”احمد اوزارک“ میں تیرے بوجھ اٹھاؤں گا۔ ”یا مسیح اللہ عدوانا“ اے اللہ کے مسیح ہماری شفاعت کر۔ ”کذب علیکم الخبیث الخنزیر عناية اللہ حافظک انی معک . اسمع ولسدی . الیس اللہ بکافی عبد . فبراه اللہ بما قالوا وکان عند اللہ وجیبها“ تم پر خبیث نے جھوٹ باندھا۔ تم پر خنزیر نے جھوٹ باندھا۔ اللہ کی عنایت تیری محافظ ہے۔ اے میرے بیٹے سن۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں۔ اللہ نے اس بات سے اسے بری کیا جو انہوں نے کہی تھی۔ وہ اللہ کے نزدیک وجیہ تھا۔ ”بشری لک یا احمدی . انت مرادی ومعی غرست کرامتک بیدی . وقس علیہ“

ان الہامات میں خدا رحمان کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ صوم وصلوٰۃ کا پابند اور عید فطر کی سویاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر رحمان کون ہے۔ قرآن شریف میں ”لا تاخذہ سنۃ ولا نوم“ کیوں کہا؟ اور یہاں جاگتا سوتا کیوں دکھائی دیا۔ پھر وہ غلطی بھی کرتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے قرآن میں ”لا ینسنی“ کہا ہے کہ وہ نہیں بھولتا اور یہ بھی کہا کہ: ”لم یکن لہ کفواً احد“ لیکن اب کہتا ہے کہ تو میری اولاد اور میرا بچہ ہے۔ ”کیا لم یلد“ کا لفظ یوں ہی کہہ دیا تھا؟ ”الحمد للہ“ کہہ کر بتایا کہ تمام تعریف خدا کا حق ہے اور یہاں پر مسیح کی تعریف و ثنا کرنے لگ گیا۔ پھر ایسا خادم بنا کہ اس کے بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کی عزت و آبرو کے لئے تعظیم بجا لاتا ہے۔ کبھی اس کو عرش بنا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ: ”لیس کمثلہ شئی“ اور قادیانی کو اپنا بروز اور مظہر اتم بناتا اور کبھی خود قادیانی مسیح کا مظہر اتم بن جاتا ہے۔ اگر کتاب البریہ

کے الہامات اور کشفِ محویت اور الوصیہ کی وحی بھی ساتھ ملائیں تو خدا اور مسیح ایسے نظر آتے ہیں کہ کبھی مسیح خدا کا اوتار بن جاتا ہے اور کبھی خدا مسیح کا اوتار بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ الہامات وحی الہی قرآن ثانی ہیں تو قرآن اول کی تعلیم سے اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ وہاں تو خدا چھوٹی چھوٹی بات پر شرک کا خوف دلاتا ہے اور یہاں ایسا شکر و شکر ہوا کہ عابد و معبود میں محویت ہوگئی۔ پھر اس پر ہی بس نہیں۔ آپ مسیح میں محو ہو گیا۔ پھر مسیح محمد اول میں محو ہوتا ہے۔ کبھی مسیح ناصری اور باقی انبیاء میں۔ کبھی کرشن میں، کبھی بے سنگھ بہادر اور جیشید میں یا کبھی سکندر ذوالقمرین اور حجر اسود اور سنگ قادیانی میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تمام ہستیاں ایک ہی ہیں۔ چنے کی طرح کبھی دال کا روپ لیتی ہیں۔ کبھی روٹی کا کبھی مٹھائی وغیرہ تو پھر مسیح ایرانی بہاء اللہ پر کیا افسوس ہوا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور سب انبیاء کو حقیقت واحد کا مظاہر ٹھہرایا تھا۔ مگر پھر بھی وہ اچھا رہا کہ اینٹ پتھر اور جمادات کو تو اس امر میں شامل نہیں کیا تھا اور یہاں دیکھو کہ: ”هو . هو الکل“ ہمہ اوست کا نقشہ جنایا جاتا ہے۔ کبھی خدا کی صفات خاصہ تو حید و تفرید میں اشتراک ہے۔ کبھی صفت خلق پر قبضہ ہے اور کبھی عاشق کبھی معشوق اور کبھی مخدوم کبھی عاجز کبھی خادم۔ غرضیکہ عجب بھول بھولیاں میں مریدوں کو ڈال دیا ہے۔ وہ بہتیرا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور وحی ثانی کو وحی اول کے ساتھ موافق کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ مگر ان کی کچھ پیش نہیں جاتی۔

رہ رہ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ: ”انت منی“ کا یہ معنی ہے کہ تو میرا تابعدار ہے تو پھر ”انا منک“ سے خدا تابعدار کیوں نہ ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ: ”سلمان منا“ مگر اس پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بنی نوع انسان کچھ نہ کچھ متحد فی الصفات ہو سکتے ہیں۔ لیکن عابد و معبود نے آج تک نہ کسی سے اتحاد ذاتی کیا ہے۔ نہ صفاتی۔ قادیانی اتحاد کن صفات میں ہے۔ اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ تشابہات سے ہے۔ ”اسمع ولدی“ میں مسیح کو ابن اللہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ کچھ مرید گھبراتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو انجیل کو غلط بتاتے تھے۔ وہی بلا یہاں آپڑی کہ انسان خدا کا بیٹا بن گیا۔ مگر جو انسان خدا کا روپ ہوا سے بیٹا بننے سے کیا ڈر ہے۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ الہام اصل میں ”اسمع واری“ تھا۔ (کہ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں) کاتب کی ستیا ناس اس نے ”ولدی“ لکھ دیا تھا یا شامت اعمال کو سنگساز نے یہ گوہ کھایا تھا۔ تعجب ہے کہ بیس سال بعد آج یہ سو جھی اور خوب سو جھی۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ اس فقرہ کو ترجمہ بھی کسی اور نے کیا تھا؟ جس میں صاف لکھا ہے کہ: ”سن اے میرے بیٹے“ کاتب نے یہ ترجمہ کیا تھا تو وہ ضرور بھائی مذہب کا پیر ہو گا۔ سنگساز نے بگاڑ کر یہ حرکت

کی تھی تو وہ بابی ہوگا۔ تاکہ مسیح ایرانی و قادیانی کی تعلیم ایک طرح کی نظر آئے۔ بھلا یہ عذر کون مان سکتا ہے۔ سیدھا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ قرآن کی رو سے یہ ایک الہام نہیں۔ ایسے سارے الہام ہی غلط ہیں اور جس قوم کو حیات مسیح کا اعتقاد رکھنے سے شرک کا ڈر لگتا ہے۔ اس ملہم نے اس کو شرکیہ بھنور میں ڈال دیا ہے کہ ہر قسم کے شرک کو مدد و نجات ٹھہرا دیا ہے۔ بھلا اب کوئی اسلامی توحید کا نام تولے۔ بیشک قادیانی توحید و تفرید اور قادیانی عابد و معبود اسلامی نکتہ نگاہ سے الگ ہیں اور واقعی یہ لوگ تاویل در تاویل کرتے کرتے درجہ الحاد تک پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ ایک نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ: ”فانذکروا اللہ کذکرکم آباءکم“ قرآن شریف میں بھی ایسی شرکیہ تعلیم موجود ہے کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو۔ جیسے کہ تم اپنے باپوں کو یاد کیا کرتے ہو اور خدا کو پکارو تو ابا، ابا باپ باپ یا جد بزرگوار کہہ کر پکارو۔ وائے بر حال قادیان! تو کس منہ سے کہتی ہے کہ میں نے توحید پھیلائی۔ کیا تو نے یہودی اور عیسائی تعلیم کو اسلامی تعلیم سے ملا کر سب کو مشرک نہ لباس نہیں پہنایا۔ ایچ پیج سے توبت پرست بھی مشرک نہیں ٹھہرتے۔ تو پھر اس تحریف سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور تم کو یہ کہنے کی کیسے جرأت ہوئی کہ مسیح ایرانی اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ بار بار یوں بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کرام کو بھی ایسے ویسے الہام ہوئے ہیں۔ مگر یوں نہیں سوچتے کہ اہل حق نے ان سے کیا برتاؤ کیا تھا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب تک وہ ایسے الہامات سے دست بردار نہیں ہوئے۔ تکفیری فتاویٰ کی دستبرد سے نہیں بچ سکے۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ کو کون چین لینے دے گا۔ خصوصاً جب کہ یہاں محدث بن کر تمام انبیاء کو بھی بچھاڑ دیا ہوا ہے۔ کون ہے کہ تغلب و استیلاء ہذا سے چیخ نہ اٹھے۔

### البشری

مسیح قادیانی کی انجیل کا نام کتاب البشری ہے۔ جو حکیم نور الدین صاحب کے عہد میں تالیف کی گئی تھی۔ اس کی دو جلدیں ہیں۔ (انجیل اول، انجیل ثانی) اور ہر ایک جلد کے اخیر ایک ایک تشریحی ضمیمہ درج ہے۔ جس میں آیات الہامیہ کی تشریح اور شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ مگر یہ انجیل ہمارے قرآن سے بڑھ کر چند زائد صفات رکھتی ہے۔

اول..... وہ عربی، فارسی، اردو، پنجابی، انگریزی اور جنات کی زبانوں میں اترتی ہے۔  
دوم..... کچھ آیات ایسے ہیں کہ ان میں عربی، فارسی اور انگریزی تینوں زبانیں درج ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ صرف انگریزی ہیں۔ یا عربی یا اردو یا پنجابی۔ ہم نے ہر قسم کے الہام الگ الگ لکھ دیئے ہیں۔

سوم..... اس میں اشعار بھی درج ہیں اور اشعار بھی کوئی ایک زبان پر منحصر نہیں۔  
کچھ اردو ہیں کچھ فارسی اور کچھ پنجابی۔

چہارم..... قرآن مجید کے آیات کو مختلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک مسلسل واقعہ کی صورت میں پیش کیا ہے اور یہ پرواہ نہیں کی کہ نزول اول میں یہ آیات پس و پیش تھیں یا ان کا قبل و ما بعد کسی دوسرے طریق پر شروع ہوتا تھا۔ کیونکہ خدا خود مختار ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی وحی کو نزول ثانی میں کچھ تبدیلی کے ساتھ نازل کرے۔

پنجم..... چونکہ مرزا قادیانی ہر ایک نبی کا بروز تھے۔ اس لئے ان کی تاریخی آیات نزول ثانی میں ایک پیشین گوئی کے رنگ میں اتری ہے۔ مگر ہیں وہ غیر متعین۔ اس لئے جب کوئی بھی واقعہ درپیش ہوتا ہے تو فوراً اس پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ششم..... الہام کشفی کے آیات یہ منظر پیش کرتی ہیں کہ ملہم کے سامنے آئندہ کے واقعات پیش نظر ہیں۔ جن کے اظہار کی اس کو اجازت نہیں۔ مگر ان واقعات کے متعلق چیدہ فقرات یا آوازیں جو سنائی دی ہیں وہ بیساختہ ملہم کی زبان سے جاری ہو گئی ہیں۔

ہفتم..... نزول ثانی میں بعض دفعہ الہام کا کچھ حصہ یاد سے نکل بھی جاتا تھا۔ اس لئے یہ وحی قابل اعتبار نہیں اور نہ ہی مکمل ہے۔

ہشتم..... اس وحی کی عربی عبارت اسلامی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فارسی عبارت بھی کچھ ایسی ویسی ہے۔ کتاب الایقان کا ایک فارسی فقرہ مقابلہ پر رکھا جائے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ نبوت بہائیہ میں نبوت قادیانیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ پنجابی عبارتیں گویا صحیح ہیں۔ گو پنجابی کے مشہور شاعر وارث شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اردو کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ پنجابی نما گلابی اردو ہے۔ زمیندار کا ایک پرچہ سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو سارا بہروپ کھل جائے۔ باقی رہے انگریزی الہام سواس کے متعلق یہ رائے ہے کہ اگر مرزا قادیانی دو کتابوں کے علاوہ دو چار اور بھی انگریزی کی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو ایسے لیکچروں میں مکمل الہام ہوتے کہ ایک ایک کو کتابی صورت میں شائع کیا جاتا۔ مگر افسوس کہ ملہم کو پرائمری سے زیادہ لیاقت نہ تھی۔ اس لئے یہ سلسلہ کچھ مکمل نہ ہو سکا۔

نہم..... اس قرآن میں زیادہ تعلیمات کا ذکر ہے جو تو بین انبیاء تک پہنچ چکی ہیں۔  
دہم..... قرآن اگرچہ قرآن اہل اسلام کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔ مگر نماز میں اس کا دہرانا ابھی تک رائج نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے چیدہ چیدہ فقرات نماز میں دہرائے

جانے لگیں۔ مگر ہمارے خیال میں یہ اس وقت ہوگا کہ جب قادیان کو مکہ معظمہ بنا کر وہاں کی مسجد حرام مسجد المرزا سیہ قرار دی جائے گی۔

یازدہم..... البشریٰ بمعنی انجیل سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ملہم مسیح ہے اور تابعدار بنی اسرائیل اور یہودی اور جس طرح یہودیوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو مسیح کو نبی نہیں مانتی۔ بلکہ صرف ولی اللہ مانتی ہے۔ اسی طرح قادیانی یہودیوں میں بھی پیغمبری جماعت اپنے مسیح کو صرف محدث اور ولی اللہ مانتی ہے اور حقیقی نبی نہیں مانتی۔

دوازدہم..... یوز آسف کو مسیح ناصر صری تصور کر لیا گیا ہے۔ جس پر بشوری کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس لئے جب ملہم مسیح کے ضمن میں یوز آسف بنا تو ضروری تھا کہ اس پر بشوری یا بشری بھی نازل ہوتی۔

سیزدہم..... الہامات میں نصف اول سے بشری کی پہلی جلد مراد لی گئی ہے اور نصف ثانی سے دوسری۔ نصف اول کے الہامات پر صفحات کے نمبر درج ہیں اور نصف ثانی کے اوپر خود الہامات کے نمبر لکھے گئے ہیں اور الہامات مہملہ والہامات قلیل المقدار بھی صفحات کے نمبر ہیں اور ان کے نیچے ایک یا دو کا ہندسہ لکھ کر جلد اول و دوم کا اشارہ کر دیا ہے۔

چہار دہم..... البشریٰ پیغمبری یہودیوں کے نزدیک قابل ترمیم ثابت ہو چکی ہے۔ اس لئے انہوں نے اسے مکاشفات کے عنوان سے شائع کرنا شروع کر دیا ہے۔

### الہام مرکب..... نصف اول

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منارہ بلندتر محکم افراد، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ (اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ جناب الہی کے عنایات کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی پاک رحمتیں اس طرف متوجہ ہیں) ”دی ڈیز شل کم وین گاڈ ہیلمپ یو گھوری بی ٹوڈس لارڈ گاڈ میکراوف ارتھا اینڈ ہیون“ وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ خدائے ذوالجلال آفرینندہ زمین و آسمان میں اپنی چوکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا سے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔

”الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولوا العزم . ياد اؤد عامل بالناس رفقا واحسانا و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها و اما بنعمة ربك فحدث . يو



مسك ڈووث آئی ٹولڈ یو۔ اشكر نعمتی رايت خدیجتی انك اليوم لذو حظ  
عظیم۔ انت محدث اللہ فیک مادة فاروقیة۔ فارتدا علی اثارهما ووهب له  
الجنة“ اتنے میں طاقت بالا اس کو بھیج کر لے گئی۔

### نصف ثانی

سچا ارادت مند ”اصلها ثابت وفرعها فی السماء فرزندد لبند گرامی  
ارجمند مظهر الحق والعلا كان اللہ نزل من السماء“ غلام احمد قادیانی، مسیح تجدید  
فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے مطابق تو آیا ہے۔ ”وكان وعد اللہ  
مفعولا انت معی وانت علی الحق المبین انت فصتیب ومعین للحق  
(۱۸۹۷ء) ما هذا الا تحديد الحکام قد ابتلی المؤمنون لیعلمن اللہ  
المجاهدين منكم ویعلمن الکاذبین (اے فی البیعة)“

صادق آں باشد کہ ایام بلا

میگذار دبا محبت باوفا

گرفضارا عاشقے گردد اسیر

بوسداں زنجیر را کز آشنا

”ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد..... انی مع الافواج  
اتیک بغتة تاتیک فصرتی..... انی انا الرحمان ذوالمجد والعلی“ مخالفوں میں  
پھوٹ۔ ایک تناس کی ذلت اور ملامت خلق پھر اخیر حکم ابراء وفيه شیء (اے فی البریة) بلجبت  
آیاتی۔ لوائے فتح۔ انما امرنا..... فیکون۔ یہ الہام مقدمہ اقدم قتل کے متعلق ہے۔ جو کتاب البریہ  
میں مذکور ہیں۔ (۱۸۹۸ء) میں ظالم کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ ”ان  
الذین یصدون عن سبیل اللہ سینالہم غضب من ربہم ضرب اللہ اشد من  
ضرب الناس انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون۔ اتعجب لا  
مری انی مع العشاق۔ انی انا الرحمان ذوالمجد والعلی ویعض الظالم علی  
یدیہ ویطرح بین یدی۔ جزاء سیة بمثلها وترہقہم ذلہ۔ مالہم من اللہ من  
عاصم۔ فاصبر حتی یاتنی اللہ بامرہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم  
محسنون“ یہ الہام بتی زلی اور بنا لوی کے متعلق ہے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ تیرہ ماہ (۱۵ ستمبر  
۱۸۹۸ء لغایت ۱۵ جنوری ۱۹۰۰ء) کے اندر ان کو ذلت ہوگی۔ چنانچہ بنا لوی نے ایک خفیہ رسالہ

دربارہ ان کا مہدی خونی لکھ کر گورنمنٹ کو دیا۔ جو مجھے مل گیا اور اسی انکار پر مجھے کافر کہلا چکا تھا۔ اب میں نے بھی استفتاء کے ذریعہ سے اس کی تکفیر کرائی اور وہ ذلیل ہوا اور دوسرے بھی ذلیل ہوئے۔ ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب ”لك خطاب العزة“ ایک بڑا نشان، اس کا ساتھ ہوگا۔ (۱۹۰۰ء) آپ کے ساتھ انگریزوں کا نرمی کے ساتھ ہاتھ ہاتھ تھا۔ اسی طرف خدائے تعالیٰ تھا جو آپ تھے۔ آسمان پر دیکھنے والوں کو ایک رائی برابر غم نہیں ہوتا یہ طریق اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیڈر سیا لکوٹی عبدالکریم کو ”خذوا الرفق فان الرفق راس الخیرات“ خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اگر مسیح ناصری کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہ اس سے برکات کم نہیں۔

پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار  
وروشن شد نشا نہائے من  
بڑا مبارک وہ دن ہوگا۔

برمقام فلک شدہ یا رب  
گرامیدے وہم مدار عجب

بعد ازاں انشاء اللہ تعالیٰ، لاہور میں ہمارے پاک ممبر موجود ہیں۔ ان کو اطلاع دی جائے۔ لطیف مٹی کے ہیں۔ وسوسہ نہیں رہے گا۔ مگر مٹی رہے گی۔ سلسلہ قبول الہامات میں سب سے کچا مولوی تھا۔ سب مولوی ننگے ہو جائیں گے۔ ”انا اللہ ذوالمنن انی مع الرسول اقنوم“ (شعر کا مطلب یہ ہے کہ میری رفعت ہوگی۔ باقی الہام سمجھ میں نہیں آیا) جس کا تھا اس کے پاس آ گیا۔ ”لنفخنا فیہم من صدقنا“ یہ بات آسمان پر قرار پا چکی ہے۔ تبدیل ہونے والی نہیں۔ ”تعهد وتمکن فی السماء۔ الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تضلیل نزول درقادیان انی انا الرحمان حل غضبه علی الارض“ تقدیر میرم ہے اور ہلاکت مقدر، ”یسبح له من فی السموات والارض من الذی یشفع عنده الا باذنہ انک انت المجاز“ یعنی نواب محمد علی خان کالڑکا عبدالرحیم خان دو ہفتہ تک بخار سے بیمار رہا۔ میں نے تہجد میں دعاء کی تو یہ الہام ہوا۔ تو میرے منہ سے یہ نکلا کہ اگر دعاء کا موقعہ نہیں تو میں شفاعت کرتا ہوں۔ تو الہام ہوا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اب ہر ایک اعتراض کرتا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ ہماری فتح ہمارا غلبہ۔ ”ظفر من اللہ وفتح مبین۔ ظفر وفتح من اللہ

رسول اللہ ﷺ ”پناہ گزین ہوئے قلعہ ہند میں۔“ واللہ مخرج ما تکتُمون . بلاء وانوار “بستر عیش، خوش باش کہ عاقبت کو خواہد بود۔“ کلکم ذاہب “ضرور کامیابی۔“ اکمل اللہ کل مقصدی . کل امری کمل . انی مع الرسول اقوم واقصدہ واروم . انت معی وانا معک . ازیحک ولا اجیبک “(۱۹۰۴ء) اے بسا خانہ دشمن کہ تو ویراں کر دی۔“ اجرت من النار “جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں۔“ فسحقہم تسحیقا “(یہ مخالفان اسلام کے متعلق ہے)“ انت منی بمنزلۃ لا یعلمہا الخلق انت منی بمنزلۃ عرشی “فضل الرحمان نے دروازہ کھول دیا۔  
امن ست در مکان محبت سرائے ما، طاعون تو گئی مگر بخار رہ گیا۔

دخت کرام “انت معی وانا معک . انی معک یا امام رفیع القدر رب اجزہ جزاء اوفی “شوخی و شنگ لڑکا پیدا ہوگا۔“ انه فعال لما یرید . انی معک ومع اهلك، ومثلک در لا یضاع انا فتحناک فتحا مبینا“  
معنی دیگر نہ پسندیم ما

”سنلقی فی قلوبہم الرعب“ خدا تیرا دوست ہے۔ اسی کی صلاح و مشورہ پر چل۔“ عفت الدیار محلہا ومقامہا . انی حافظ کل من فی الدار . انی اعطیتک کل النعم “میں تمہیں بھی ایک معجزہ دکھاؤں گا۔“ النالک الحدید انا انزلناہ فی لیلة القدر . انا انزلناہ للمسیح الموعود “مبارک سو مبارک۔ آسمانی تائیدیں ہمارے ساتھ ہیں۔“ اجرک قائم و ذکرک دائم . الفارق وما ادراک ما الفارق “روز نقصان بر تو نیاید۔ غلام قادر آئے گھر نور و برکت سے بھر گیا۔“ رد اللہ الی “(۱۹۰۵ء) تازہ نشان۔ تازہ نشان کا دھکا۔“ زلزلة الساعة . قوا انفسکم . ان اللہ مع الابرار . دنا منک الفضل . جاء الحق وزهق الباطل “میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔ (ایک روح کی آواز ہے)۔“ نخور آنچہ ترا نخور ائم۔“ لک درجۃ فی السماء وفي الذین ہم یبصرون . نزلت لک . نری آیات ونہدم ما یعمرون . قل عندی شهادة من اللہ فهل انتم مؤمنون . کففت وعن بنی اسرائیل ان فرعون ..... خاطئین “فتح نمایاں ہماری فتح۔“ صدقت الرؤیا . انی مع الافواج “میاں محمود کو خواب آیا کہ مجھے افواج کا الہام ہوا ہے تو میں نے تصدیق کی۔“ المبارک بركة زائده علی هذا الرجل “اس کے آگے فرشتے پہرہ دے رہے ہیں۔“ مارمیت “اشتہارات مراد ہیں۔ آہ نادر شاہ کہاں گیا۔ پھر بہار آئی خدا

کی بات پھر پوری ہوئی۔ ”یستنبئونک احق هو“ زمین تڑو بالا کر دی۔ ”انسی مع الافواج“ لنگراٹھا دو۔ ”شرالذین انعمت علیہم“ میں ان کو سزا دوں گا۔ میں اس عورت کو سزا دوں گا۔ (معلوم نہیں وہ عورت کون ہے) ”ارد الیہا روحها وریحانها۔ انی رددت الیہا روحها وریحانها“ گھر در دسر اور کھانسی کی شکایت تھی۔ تو یہ الہام ہوا۔ ”صلوۃ العرش الی الفرش ان معی ربی سیہدین“ (گھر تکلیف تھی تو شفاء ہوگی) تپ ٹوٹ گیا اور صحت ہوئی۔ الحمد للہ! ”لعنة اللہ علی الکاذبین“ اس پر بڑی آفت پڑی، روحانی عالم کا دروازہ تیرے پر کھل گیا۔ ”فبصرک الیوم حدید“ آتش فشاں مصالح العرب میرا العرب۔ بامر اردو بلا۔ ”اما بنعمة ربک فحدث، انی مع الرسول“ آب زندگی۔ ”قل میعاد ربک“ خدا کی طرف سے سب پر اداسی چھا گئی۔ ”انسی معک یا ابن رسول اللہ“ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو۔ ”علی دین واحد قل میعاد ربک“ بہت دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی۔ ”قرب اجلك المقدر ولا نبقی لك من المخزیات ذکرا“ (۱۹۰۶ء) ”قل اللہ ثم ذر کل شیء ان اللہ مع الذین ہم یتقون“ دہلی گئے ہیں اور خیریت سے واپس آئے ہیں۔ ”الحمد للہ الذی اوصلی صحیحا کتب اللہ لا غلبن، سلام قولاً“ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ (یعنی قتل از موت کی فتح نصیب ہوگی اور مدنی غلبہ اسلام حاصل ہوگا)

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

”اماما ینفع الناس فیما کتبت فی الارض“ عورت کی چال۔ ”ایلی ایلی لما سبقتنی، بریت کففت عن بنی اسرائیل“ شاید کوئی چھپا ستم تکلیف دے گا۔ زلزلہ آنے کو ہے۔ ہمارے لئے عید کا دن۔ ”رب لا ترنی زلزلة الساعة رب لا ترنی موت احد منهم“ جس سے تو پیار کرتا ہے میں اسے پیار کروں گا اور جس سے تو ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں گا۔ (آفت مراد ہے) ”اینما تولوا فثم وجه اللہ“ (یعنی میری محبت خدا کی محبت ہے) خدا نے تیری ساری باتیں پوری کر دیں۔ (یعنی کرے گا) ”امانرینک“ بشرط عدم توبہ ان کو سزا ملے گی۔ ”قل ان صلاتی ونسکی، رب ارنی ایة من السماء، اکرام مع الانعام انا اعطینک الکوثر، ان احد من المشرکین“ مردوں کو جتنے چاہو لے جاؤ۔ مگر عورتیں نہ جاویں۔ ”سواء علیہم، انذرتہم، انت سلمان منی یا ذالبرکات“ (یہ حضور علیہ السلام کا قول ہے) چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی پنجبار

مقام او میں از راہ تحقیر  
بدور انش رسولاں ناز کردند

خدا نکلنے کو ہے۔ (اور نکل کر زلزلہ لائے گا) ”انت منی بمنزلة بروزی“ یعنی تیرا ظہور میرا ظہور ہو گیا۔ ”وعد الله ان وعد الله لا یبدل“ رفیقوں کو کہہ دیں کہ عجیب در عجیب کام دکھلانے کا وقت آ گیا ہے۔ ”قال ربك انه نازل من السماء ما یرضیک“ زلزلہ آیا زلزلہ آیا۔ ”انا ارسلنک شاهد اعلیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا ، رب لا تصنع عمری وعمرها واحفظنی من کل افة انه نازل من السماء ما یرضیک ، اریک ما یرضیک عندی حسنة هی خیر من جبل الم تعلم ان الله علی کل شئی قدير“ آسمان سے دودھ اتر رہے۔ محفوظ رکھو۔ ”انا ارسلنا الیکم رسولا ..... الی فرعون رسولا“ تیری خوش زندگی کا سامان ہو گیا ہے۔ ”الله خیر من کل شئی“ دشمن کا بھی ایک دار نکلا۔ ”وتلك الایام نداولها بین الناس“ یہ میری کتاب ہے۔ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ مگر وہی جو خاص میرے خدمت گار ہیں۔ ”الله یعلینا ولا نعلی“ پھر بہاری تو آئے تلحج کے آنے کے دن۔ (تلحج سے مراد اطمینان قلب ہے کہ متردین بہت نشان دیکھ کر تسلی پائیں گے یا بہت برف پڑے گی۔ جیسا کہ ۱۹۰۶ء میں ہوا۔ یا بہت مصائب اور آفات نازل ہوں گی) ”هل اتاک حدیث الزلزلة بل یاتیہم بغتة“ دو چار ماہ ”اریحک ولا اجیحک واخرج منک قوما“ جیسا کہ میں نے ابراہیم کو قوم بتایا۔

آفتوں اور مصیبتوں کے دن ہیں۔ (ایک دوست کے متعلق ہے) خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا نہ دیکھا نہ جانا۔ برہمن اتار سے مقابلہ کرنا اچھا نہیں۔ ”رب فرق بینی و بین صادق و کاذب انت تری کل مصلح و صادق . ما ارسل نبی الا خزی به الله قوما لا یؤمنون ، یلقى الروح علی من یشاء من عباده“ خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتاب بڑا کام کیا۔ بشیر الدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلمتہ اللہ خان (یعنی منظور محمد کے گھر محمدی بیگم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ جن کے یہ نام ہیں۔ مگر وہ مرگئی اور کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا) ”رب ارنسی انوارک الکلیة انی انرتک واخترتک وانه نزل من السماء ما یرضیک“ دو نشان ظاہر ہوں گے۔ اللہ اس کو سلامت رکھنا نہیں چاہتا۔ (معلوم نہیں وہ کون ہے) ”انا اخذناہ بعذب الیم“ خدا تمہیں

سلامت رکھے۔ ”ینصرك رجال نوحى اليهم من السماء ياتون (ياتيك) من كل فج عميق سلام عليكم طبتم ولا تصعر لخلق الله ولا تسأم من الناس . لمن الملك اليوم . لله الواحد القهار“ (یہ الہام ایک زلزلہ دیکھ کر ہوا) مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور ان کی تعظیم ملوک اور ذوی الجبروت کرتے ہیں اور ان پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا اور سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ شستوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ ”انا اخذناك بعذاب الیم“ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا۔ نہ دیکھا نہ جانا۔ دیکھ میں آسمان سے تیرے لئے پانی برساؤں گا اور زمین سے، نکالوں گا۔ پر وہ جو تیرے مخالف ہیں پکڑے جائیں گے۔ صحن میں ندیاں چلیں گی اور سخت زلزلے آئیں گے۔ ”ویل لكل همزة المزة ساكرمك اكراما عجا و القى به الرعب العظيم ياتون من كل فج عميق . و اذا بطشتم بطشتهم جبارين . نصرت بالرعب وقالو الات حين مناص“ صبر کر خدا تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ امین الملک جے سنگھ بہادر ”رب لا تبقي لى من المخزبات ذكرا“ پیٹ پھٹ گیا۔ (معلوم نہیں کہ کس کا پیٹ پھٹ گیا) دشمن نہایت اضطراب میں ہے۔ ”لدبلونكم“ فوق حید کاذب کا خدا دشمن ہے وہ اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔

آسمانی بادشاہت ”لا تخف ان الله معنا“ (معلوم نہیں کہ کسے تسلی دی گئی) ”ما ننسخ من آية او ننسها..... قدیر . لا تخف ان الله معنا“ اے سیف اپنا رخ پھیر لے۔ (ایک نواب کے متعلق ہے جو مغلوب ہوگا) ”مبارك ما اقامت موقفا اغيظ من هذا ان ابطش ربك لشديد ان الله من عليكم واعطاك ما اعطاك ان الذين لا يلتفتون اليك لا يلتفتون الى الله“ اولياء الله سے مخالفت رکھنا اس کا نتیجہ اچھا نہیں۔ ”يكرمك الله اكراما عجا اليس الله بكاف عبده“ مبارکباد پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ امن است در مکان محبت سرائے ما، آسمان سے بہت دودھ اتر ہے۔ محفوظ رکھو۔ بہت سے سلام تیرے پر ہوں در کلام تو چیز سے ست کہ شعر ارا دروے دخلے نیست۔ اے ازلی ابدی خدا بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔ وہ کام جو تم نے کیا وہ خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا۔ (۱۹۰۷ء) ”ساكرمك اكراما عجا و كان الله على كل شئ مقتدرا“ اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔ ”معمر الله“ روشن نشان

ہماری فتح ہوئی۔ خدانے تیرے پر رحم کیا ہے۔ ”رحمك الله انك انت الاعلى“ امید بہاری ہر ایک مکان سے خیر دعاء ہے۔ ”ان الله مع الابرار وانت من الابرار“ تمام دنیا میں سے ایک ”العید الاخر تنال منه فتحة عظيمة“ زندگی بآرام ہو جانا پہلی زندگی ہے۔ ایک اور خوشخبری ”نثنیٰ علیک الخیر والبرکة“ آسمان ٹوٹ پڑا۔ سارا کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ”اولئک قوم لا یشقے جلیسہم من ذالذی ہو اسعد منک“ ایک ہفتہ تک ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ ”ویل لكل همزة لمزة انی مع الرسول“ پسپا شدہ ہجوم، افسوس ناک خبر آئی ہے۔ (میری موت مراد ہے) بہتر ہوگا کہ اور شادی کر لیں۔ (یہ کسی کی طرف اشارہ ہے) سخت زلزلہ آیا۔ آج بارش بھی ہوگی۔ خوش آمدی نیک آمدی۔ ”انما یرید اللہ ان ینزل علیہم منہم مخرجاً یخرجہم منہم“ ہے تو بہاری مگر خدائی امتحان کو قبول کر لو۔ ”یا ایہا الناس اعبدوا..... خلقکم . اتقوا ربکم اللہ خلقکم“ اے میرے اہل بیت خدا تمہیں شر سے محفوظ رکھے۔ ”انت منی وانا منک“ (یعنی تو مجھ سے ظاہر ہو اور میں تجھ سے اس زمانہ میں ظاہر ہونے والا ہوں) ”انت الذی طار الی روحہ ربنا افتتح بیننا وبینم اعجبتم ان تموتوا“ ان کی لاش کفن میں لپیٹ کر لائے ہیں۔ پچیس دن (تک) ”من الناس والعامۃ“ لاہور میں ایک بے شرم ہے۔

”ویل لك ولا هلك انی نعیبت انی انا اللہ لا اله الا انا ان اللہ مع الصادقین“ ایک امتحان ہے۔ بعض اس میں پکڑے جائیں گے اور بعض چھوڑے جائیں گے۔ ”انما یرید اللہ لیذهب..... تطہیرا اعجنبی موتکم“ یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں ایک قسم کی طاعون پھیلے گی جو بہت ہی سخت ہوگی۔ ریاست کابل میں قریب پچاس ہزار کے آدمی مرے گئے۔ ”واستوت علی الجودی“ قدرت کے دروازے کھلے ہیں۔ نیکی یہی ہے کہ خدا کے احکام کو پورا کرنا تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ ”انسی امرتک واثرتک“ جو دعائیں آج قبول ہوئیں ان میں قوت اسلام اور شوکت اسلام بھی ہے۔ تیرے لئے ایک خزانہ مخفی تھا۔ ”کل لك ولا مرک“ یا اللہ اب شہر کی بلائیں بھی ٹال دے۔ ایک موسیٰ ہے میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ ”اجر الاثیم واریہ الجحیم . یلجت ایاتی قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون“ میں نے خدا کی مرضی کے لئے اپنی مرضی چھوڑ دی۔ اس سے تو تم پر حسن چڑھا ہے۔ ”اردت زمان الزلزلة“ لاکھوں انسانوں کو تہ و بالا کر دوں گا۔ ”انسی مع الرسول اقوم“ میرا دشمن ہلاک ہو گیا۔ میرے دشمن ہلاک ہو گئے۔ ہن

اسادالیکھا خدا نال جا پئے۔ ”ان اللہ مع الابرار“ کوئی درباری میرے حلقہ اطاعت سے گزرنے نہ پاوے۔ کوئی درباری اس جرم پر سزا سے محفوظ نہیں رہے گا۔ سلطان عبدالقادر ”احل لہ الطیبات قل ما فعلت الا ما امرنی بہ اللہ کل مقابر الارض لا تقابل ہذہ الارض“ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ ”احق اللہ امری ولا تنفکامن ہذہ المرحلۃ“ دولت اسلام بذریعہ الہام بخشی کمرہ میں نزول ہوگا۔ ”ہل تری جزاء الاحسان الا الاحسان لو لا الاکرام لہلک المقام لو لا خیر الانام ہلک المقام“ (آغاز الہام یاد نہیں رہا۔) لائف آف بین، یا اللہ رحم ”انسی مع اللہ فی کل حال اخترطنا سیفہ“ خدا کے سات تکوکار بندے ہر جگہ بیٹھے ہیں۔ ”حم تلك ایات الکتاب المبین“ راز کھل گیا۔ ”الذین اعتدوا منکم فی السبت“ (باقی فقرہ بھول گیا) ”مت ایہا الخوان تمت کلمۃ اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا . رحم اللہ . فضلناک علی ماسواک . واللہ انی غالب و سیظہر شوکتی و کل ہالک الامن قعد فی سفینتی اعزاز“ (لفظ یاد نہیں مگر مفہوم یہ ہے کہ) اس کو پکڑ لو۔ اے چھوڑ دو۔ ایک اور قیامت برپا ہوئی۔ بلائے دمشق ”سیرک سسری“ ایک اور بلا برپا ہوئی۔ فتح ہے تمہاری تمہارے نام کی۔ ”انا شانکک ہو الابر حد ظباۃ انت منی بمنزلۃ موسیٰ احمد غزنوی سلام قولاً“

خدا دو مسلمان فریق میں سے ایک کا ہوگا۔ پس پھوٹ کا ثمرہ ہے۔ ”انسی مع الافواج..... انی مع اللہ الکریم“ طوفان آیا وہی طوفان شر آئی۔ ”ساریکم ایاتی فلا تستعجلون“ یہ دو گھر بھی مر گئے۔ ”اصلح بینی و بین اخوتی خروا علی الانقان سجدا ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین . تا اللہ لقد اثرک..... لا تثریب..... الراحمین..... سلام قولاً من رب رحیم“ پوری ہو گئی۔ ”فلیدع الزبانیہ“ اے بسا خانہ کہ تو ویراں کر دی۔ ”ان شکرتم لا زیدنکم . امانینک“ زبردست نشانوں کے ساتھ ترقی ہوگی۔ ”انا انزلنا فی رقیمۃ من موسیٰ . انی مہین من اراد اهانک سنسمہ علی الخراطوم رب انی مغلوب فانصر ساریکم ایاتی فلا تستعجلوہ“ بدی کا بدلہ بدی ہے۔ اس کو پلگ ہو گئی۔ اس کا نتیجہ طاعون ہے۔ جو ملک میں پھیلے گی۔ ”ویل یومئذ للمکذبین“ کئی نشان ظاہر ہوں گے۔ کئی بھاری دشمنوں کے گھرویراں ہو جائیں گے۔ وہ دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ ان شہروں کو دیکھ کر رونا آئے گا۔ وہ قیامت کے دن



ہوں گے۔ زبردست نشانوں کے ساتھ ترقی ہوگی۔ ایک ہولناک نشان میری رحمت تجھ کو لگ جائے گی۔ اللہ رحم کرے گا۔ ”واللہ خیر حافظا..... الراحمین اعییناک“ ”حالیہ مصلحت وقت دراصل ہے ”رب اخرجنی من النار، الحمد لله الذی اخرجنی من النار انی مع الرسول..... یلوم واعطیک..... لن ابرح الارض الی الوقت المعلوم“ غلام احمد کی ہے۔ ”انی مع الرسول . یروم رب ارنی حقائق الشیاء“ ”ایسوی ایشن۔“ ہیضہ کی آمدن ہونے والی ہے۔ ”انی مہین..... معین رب اجعلنی غالباً علی غیری“ ”میری فتح“ ”انی مع الافواج“ ”غیرت بخش سزائیں دی گئیں۔“ ”انی من الناظرین انی انزلت معک الجنة . تو کلو علیہ ان کنتم مؤمنین بسلام منا“ ”تو ہر ایک بلا سے بچایا جائے گا۔ خدا خوش ہو گیا۔“ ”یا عبدی انی معک . انت منی بمنزلۃ رحی السلام . انرتک واخترتک ان اللہ معی فی کل حال“ ”ہر حال میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ تیری منشاء کے مطابق“ ”کل یوم ہو فی شان احببت ان اعرف انی انا الرحمن ذوالعز والسطان انت منی بمنزلۃ عرشى انت منی بمنزلۃ ہارون الم ترکیف فعل ربک باصحب الفیل..... ابابیل لائف اوف پین..... رب ارحمنی ان فضل ورحمتک ینجی من العذاب تعلقت بالاهداب“

خیر اور نصرت اور فتح انشاء اللہ تعالیٰ ”ما منا الا ولہ مقام معلوم ینصرك رجال نوحی الیہم وساکننا معذبین..... رسولا ضیف مسیح . اریک ما اریک ومن عجائب ما یرضیک“ ”آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔“ ”رد الیہا روحہا وریحانہلوا ما ترین احدا منهم انا مبشرک بغلام حلیم ینزل منزلة المبرک“ ”مبارک احمد جیسا ہوگا“ ”ساقیا آمدن عید مبارک باد است۔“ ”ان اللہ مع الذین انقوا . ساهب لك غلاما زکیا . هب لی ذریہ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی . الم تر..... الفیل اخذہم اللہ وحده لا شریک معہ قل جاء الحق وزہق البطل ، موت قریب ان اللہ یحمل کل حمل من خدمک خدم الناس کلہم ومن اذک اذی الناس جمیعا“ ”آمدن عید مبارک باد است۔ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ (آگے بتانے کی اجازت نہیں) بلائے ناگہانی بخری (یعنی تو ان کی چچیں سے گا) ”یا اللہ فتح انسی معک . اهلك احمل اوزارک“ ”میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں۔“ ”انی معک یا مسرور ووقع واقع وهلك هالك وضعنا

الناس تحت اقدامك وضعنا عنك ..... اجيبت دعوتك ..... سنريهم اياتنا .....  
 انفسهم ..... اجيبت دعوتكما ان الله على كل شئى قدير ..... يا ابراهيم انى انا  
 ربك الا على اخترت لك ما اخترتك “خزّام کہ وقت تو نزدیک رسید، ۲۷ کو ایک واقعہ، اللہ  
 خیر و اچھی خوشیاں منائیں گے۔” بعد سنة واحدة صلوتك خير و ابقى ان صلوتك  
 سكن لهم دخلتم الجنة وما علمتم بالجنة وما علمتم ما الجنة ذلك اليوم  
 الاخر “آج ہماری بخت بیداری” ان شانئك هو الا بتر “خدا نے اسے لیا۔” واللہ واللہ  
 سداها هو يا اولا وقت رسید “(ایک تائب کے متعلق ہے) (۱۹۰۸ء) و بدبہ خسرویم شد  
 بلند۔ زلزلہ درگور نظامی فگند۔” انسى معك فى الدنيا والآخرة ان الله مع الذين  
 اتقوا ..... به اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تفتيلا . لا تقتلوا زينب . آسمان ایک مٹھی  
 بھر رہ گیا۔” امثال الرحمة اول الذكر اخر الذكر حم تلك ايات الكتاب المبين۔ لا  
 تذروه جارية “معدے کے فضل سے بھی درم ہو جاتی ہے۔” احسن الله امرك احسن  
 الله امرى “ياتين من كل فج عميق امید سے بڑھ کر۔ رعایا میں سے ایک شخص کی موت۔  
 ”فتح حم تلك ايات الكتاب المبين“ بیمار بہت ہی چھین مارتا ہے۔ ماتم کدہ!  
 ”انى احافظ كل من فى الدار من هذه المرض الذى هو سارے“  
 امید سے بڑھ کر فائدہ ہوا۔ دوبارہ زندگی۔ منسوخ شدہ زندگی ”انى براء من ذلك“  
 (کسی کا قول ہے) ”كتب الله على نفسه الرحمة . حق علينا نصر المؤمنين .  
 اتانى الرحمة فى اول الذكر واخر الذكر“ رحمت اور فضل کا مقام شکر کا مقام۔  
 تنقيد بر الہامات مرکبہ

ان الہامات میں ملہم نے بتایا ہے کہ:

.....۱ میں آہستہ آہستہ ترقی کروں گا۔ مخالفین تنگ کریں گے۔ مگر آخر میں ان پر غالب  
 آ جاؤں گا۔

.....۲ چونکہ میری تبلیغ مختلف ممالک میں پہنچے گی۔ اس لئے مختلف زبانوں کے فقرے ایک  
 ہی الہام میں درج ہوئے ہیں۔ مگر یہ نہیں سوچا کہ اپنے آقا سے بڑھ کر میں کیوں قدم  
 مار رہا ہوں۔ شاید محمد ثانی بن کر یہ درج پایا ہوگا۔

.....۳ آئندہ کے واقعات کا منظر سامنے دکھایا گیا ہے۔ جن کی طرف یہ بے ربط فقرات  
 اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے مرید بعد میں خود یہ بھارت میں بوجھ لیں گے۔ بہر حال ملہم

کو علم ماکان و علم ما یسکون کا دعویٰ ہے اور نرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ فوقیت کا بھی خیال ہے۔  
کیونکہ احادیث نبویہ کے اخبار الفتن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

## عربی الہام..... نصف اول

”یا احمد بارک اللہ فیک مارمیت اذرمیت لکن اللہ رمی۔ الرحمان  
علم القرآن۔ لتنذر قوما ما انذر اباؤہم لتستبین سبیل المجرمین قبل انی  
امرت وانا اول المؤمنین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل۔ ان الباطل کان زهوقا  
کل برکة من محمد ﷺ۔ فتبارک من علم وتعلم۔ قل ان افتريته فعلى اجرامى  
هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الهق ليظهره على الدين كله۔ لا مبدل  
لكلمات الله ظلموا وان الله على نصرهم لقدير۔ انا كفيناك المستهزئين  
يقولون انى لك هذا ان هذا الاقول لبشر واعانه قوم اخرون افتاتون السحر  
وانتم تبصرون۔ هيهات هيهات لما توعدون۔ من هذا الذى هو مهين ولا يكاد  
يبين اوجاهل مجنون۔ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ هذا من رحمة  
ربك۔ يتم نعمة عليك ليكون آية للمؤمنين۔ انت على بينة من ربك فبشر۔ ما  
انت بنعمة ربك بمجنون قل ان كنتم تحبون الله هل انبئكم على من تنزل  
الشياطين قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون۔ ان معى ربي سيهدين۔  
رب ارنى كيف تحى الموتى رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنى فردا  
وانت خير الوارثين۔ رب اصلح انت امة محمد۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا  
بالحق وانت خير الفاتحين۔ قل اعملوا على مكانتكم۔ لا تقولن لشيئ انى  
فاعل غدا۔ وتخفونك من دونه۔ انك باعيننا سميتك المتوكل۔ يحمدك الله من  
عرشه۔ نحمدك ونصلى ويريدون ان يطفئوا نور الله۔ اذا جاء نصر الله وفتح  
امر الزمان الينا۔ اليس هذا بالحق هذا تاويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي  
قالوا ان هذا الاختلاف قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون۔ من اظلم ممن  
افترى على الله كذبا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وخرقوا له وبنات  
قل هو الله احد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ الفتنة ههنا فاصبر  
كما صبر اولوا العزم قل رب ادخلنى مدخل صدق وامانرنيك بعض الذى  
نعدهم اونتوفينك۔ ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم كن معى انى معك اينما

كنت۔ اینما تولوا فثم وجه الله كنتم خیر امة اخرجت للناس وافتخار  
 للمؤمنین ولا تئس من روح الله الا ان روح الله قریب الا ان نصر الله  
 قریب۔ یاتیک من کل فج عمیق۔ یأتون من کل فج عمیق ینعمک الله من  
 عنده۔ ینصرك رجال نوحی الیهم من السماء لا مبدل لکلمات الله انا فتحنا  
 لک فتحا مبینا فتح الولى فتح وقربناه نجیا اشجع الناس لوکان الایمان  
 بالثریا لنالہ وقربناه نجیا اشجع الناس لوکان الایمان معلقا بالثریا لنالہ۔  
 انار الله برهانه۔ یا احمد فاضت الرحمة علی شفیتک انک باعیننا۔ رفع الله  
 ذکرك ویتم نعمة علیک فی الدنیا والاخرة ووجدک ضالاً فهدى ونظرنا الیک  
 وقلنا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراهیم خزائن رحمة ربک یا ایها المدثر  
 قم فانذر وربک فكبر۔ یا احمدیتکم اسمک ولا یتم اسمی کن فی الدنیا کانک  
 غریباً۔ اوکعبا برسبیل وکن من الصالحین الصدیقین وامر بالمعروف وانه  
 عن المنکر وصل علی محمد و آل محمد۔ الصلوة هو المرئی۔ انی رافعک الی  
 والقیة علیک محبة منی فاكتب ولیطبع ولیرسل فی الارض خذوا التوحید  
 یا ابناء فارس وبنشرالذین امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم واتل علیهم ما  
 اوحی الیک من ربک ولا تصمراً لخلق الله ولا تسام من الناس واصحاب  
 الصفة ما اصحاب الصفة ترى اعینهم تفیض من الدمع۔ یصلون علیک۔ ربنا  
 انما سمعنا منا دیاینا دی للایمان وداعیا الی وسراجاً منیراً۔ بورکت یا  
 احمد وکان مبارک الله فیک حقافیک۔ شانک عجیب واجربک قریب۔ انی راض  
 منک انی رافعک الی الارض والسماء معک کما هو معی (یتعریف در حقیقت  
 حضور ﷺ کی ہے اور ہر جگہ یوں ہی سمجھو) انت وجیه فی حضرتی اخترتک لنفسی۔  
 انت منی بمنزلة توحیدی وتفیدی فحان ان تعان وتعرف بین الناس هل  
 اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراً۔ سبحان الله تبارک  
 وتعالی زاد مجدک ینقطع اباؤک ویبداً منک (شرف اور محمد کی ابتداء مراد ہے)  
 وقالوا لات حین مناص ما کان الله لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب  
 وامره غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا یعملون اذا جاء نصر الله وفتح  
 وتمت کلمة ربک هذا الذی کنتم به تستعجلون اردت ان استخلف فخلقت

آدم انسى جاعل فى الارض (یہ اختصاری کلمہ ہے۔ آدم سے مراد روحانی پیدائش کا باپ ہے) دنى فتدلى ..... ادنى (بقابلہ مراد ہے اور تخلق باخلاق اللہ) محى الدين و يقيم الشريعة يا آدم اسكن و زوجك الجنة يا مریم اسكن انت و زوجك الجنة يا احمد اسكن انت و زوجك الجنة نفخت فيك من لدنى روح الصدق۔ نصرت وقالوا لات حين مناص ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه كتاب الولى (براہین احمدیہ) ذوالفقار علی۔ یکادزیتہ یضیئى ولولم تمسسه نار ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ سیہزمہ الجمع ویولون الدبروان یروا الایاه یعرضوا ویقولوا سحر مستمر واستیقنتها انفسهم وقالوا لات حين مناص فبما رحمة من الله لنت لهم ولو ان قرانا سیرت به الجبال۔ انا انزلناه قریبا من القادیان وبالحق انزلناه وبالحق نزل صدق الله وصدق رسوله وكان امر الله مفعولا۔ هو الذى ارسل رسوله ..... (روحانی طور پر یہ آیت میری خبر دیتی ہے۔ کیونکہ اس وقت طبائع مائل بہدایت ہیں اور تبلیغ کے وسائل کمال تک پہنچ گئے ہیں۔ اب میرے ہی ذریعہ سے اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر ہوگا) صل علی محمد وال محمد سید ولد آدم وخاتم النبیین هذا رجل یحب رسول الله انک علی صراط مستقیم فاصدع بما تؤمروا عرض عن الجاهلین وقالوا لولا انزل علی رجل من القرتیین عظیم وقالوا انى لك هذا۔ ان هذا المکر مکرتموه فی المدینة۔ ینظرون الیک وهم لا یبصرون۔ تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلك فزین لهم الشیطان قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله واعلموا ان الله یحی الارض بعد موتها۔ من کان لله کان الله له قل ان افتریقته فعلى اجرام شدید۔ انک الیوم لدینا مکین امین وان علیک رحمتی فی الدنیا والذین وانک من المنصورین۔ یحمدک الله ویمشی الیک الا ان نصر الله قریب۔ سبحان الذی اسرى بعبده لیلا (گمراہی کی رات مراد ہے۔ جس کی مسجد اقصیٰ معرفت الہی ہے) خلق آدم فاکرمه جبرئیل الله فی حلل الانبیاء وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها عسی ربکم ان یرحم علیکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم لکفرین حصیرا (یہاں نزول مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ پر اس کے بعد مسیح علیہ السلام کمال جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہیں صاف

کر دیں گے اور یہ زمانہ اس کے لئے بطور ارہاس کے واقع ہوا ہے) توبوا واصلحوا والی  
 اللہ توجھوا وعلى اللہ وكلوا واستعينوا بالصبر والصلوة بشرى لك يا  
 احمدى انت مرادى ومعى غرست كرامتك بيدي قل للمؤمنين يغضوا من  
 ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك اذكى لهم۔ واذا سئلك عبادى فانى قريب  
 عجيب دعوة الداع اذ دعان وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ لم يكن الذين  
 كفروا من اهل الكتاب والمشركين وكان كيدهم عظيما واذا قيل لهم لا  
 تفسدوا فى الارض..... المفسدون قل اعوذ برب الفلق..... وقب انى ناصرك  
 انى حافظك انى جاعلك للناس اماما۔ اكان للناس عجا قل اللہ عجيب قل  
 هو اللہ عجيب يجتبى من عباده من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون  
 وتلك الايام نداؤها بين الناس (عنایات الہیئوت بنوبت افراد امت محمدیہ پر وارد  
 ہوتے ہیں) تطف بالناس وترهم عليهم انت فيهم بمنزلة موسى واصبر على  
 ما يقولون (موسى عليه السلام بڑے علم تھے) واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس.....  
 لا يعلمون ويحبون ان تدهنون قل يا ايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون قيل  
 ارجعوا الى اللہ فلا ترجعوا و قيل استحوذوا فلا تستحوذون (اى لا  
 تغلبون على النفس) ام تستلهم من خرج فهم من مغرم مثقلون۔ بل اتينا هم  
 بالحق فهم للحق كارهون سبحانه وتعالى عما يصفون احسب الناس ان  
 يحمدوا وبالمال يفعلوا ولا يخفى على اللہ خافية ولا يصلح شئى قبل اصلاحه  
 ومن رد من مطبوعه فلا مرد له (خدا کا مطع مراد ہے) لعلك باخع ان لا يكونوا  
 مؤمنين لا تقف ما ليس به علم لا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون يا  
 ابراهيم اعرض عن هذا انه عبد غير صالح (لا اعلم من هو) انما انت مذكر  
 واما انت عليهم بمسيطر واستعينوا بالصبر والصلوة واتخذوا من مقام  
 ابراهيم مصلى يظل ربك عليك ويغيثك ويرحمك وان لم يعصمك الناس  
 فيعصمك اللہ من عنده وان لم يعصمك الناس واذي مكر بك الذين كفروا اوقد  
 لى ياها مان لعل اطلع الى اله موسى واظنه لمن الكاذبين تبت يدا ابي لهب  
 وتب ما كان له ان يدخل فيها الا خائفا وما اصابك فمن اللہ (اشارة الى شئى  
 احد) الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولوا العزم الا انها فتنة من اللہ ليحب حبا

جما من الله العزيز الاكرم عطاء غير مجذوذ شاتان تذبحان وكل من عليها  
 فان ولا تهنوا ولا تخزنوا اليس الله بكاف عبده الم تعلم ان الله على كل  
 شئى قدير وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اوفى الله اجرک ويرضى عنك ربك  
 ويتم اسمك عسى ان تحبوا شيئا وهو شرلكم وعسى شرلكم والله يعلم وانتم  
 لا تعلمون كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف ان السموات والارض كانتا  
 رتقا ففتقناهما وان يتخذونك الاهزوا هذا الذى بعث الله قل انما انا بشر  
 مثلکم يوحى الى انما الحكم اله واحد والخير كله فى القرآن لا يمسه الا  
 المطهرون ولقد لبثت فيکم عمرا من قبله افلا تعقلون قل ان هدى الله هو  
 الهدى وان معى ربه سيهدين رب اغفر وارحم من السماء رب انى مغلوب  
 فانتصر- ايلى ايلى لما سبقتنى- ايلى آوس (لا اعلم ما هو ايلى آوس) يا  
 عبدالقادر انى معك اسمع وارے غرست لك بيدي وقدرتى ونجيننا من الغم  
 وفتناك فتونا لياتينكم منى هدى الا ان حزب الله هم الغالبون وماكان الله  
 ليعذبهم وانت..... يستغفرون- انا مجيبك نفخت فيك من لدنى روح الصدق  
 واقبت عليك محبة منى ولتصنع على عينى كزرع اخرج شطا..... سوقه  
 (اشارة الى كمالنا) انا فتحنا لك فتحا مبينا..... تاخر اليس الله بكاف عبده  
 فبراء الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا  
 والله موهن كيد الكافرين- بعد العسريسرو الله الامر من قبل ومن بعد اليس  
 الله بكاف عبده ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرالله مقضيا قول  
 الحق الذى فيه تمترون- محمد رسول الله..... عن ذكر الله متع الله المسلمين  
 ببركاتهم فانظر الى اثار رحمة الله وانبئونى من مثل هؤلاء ان كنتم  
 صادقين ومن يتبع غير الاسلام ديننا..... الخاسرون يا احمد فاضت الرحمة  
 على شفيتك. انا اعطينك الكوثر فصل لربك وانحر واقم الصلوة لذكرى انت  
 معى وانا معك سرى وضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك ورفعنا لك  
 ذكرك انك على صراط مستقيم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين  
 حماك الله تصرك الله رفع الله حجة الاسلام- جمال هو الذى امشاكم فى كل  
 حال لا تحاط اسرار الاولياء وقالوا انى لك هذا ان هذا الا سحريو ثرلن

نومن لك حتى نرى الله جهرة لا يصدق السفيه والاسيف الهلاك. عدولى  
عدوك قل اتى امر الله فلا تستعجلوه اذا جاء نصر الله (يقال) الست بربكم  
قالوا بلى. انى متوفيك ورافعك الی۔ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا  
الئى يوم القيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا۔ وكان بكم رؤفا رحیما۔ الا ان اولياء الله  
لا خوف عليهم لا يحزنون تموت وانا راض منك فادخلوا الجنة انشاء الله  
امين سلام عليم طيتم فادخلوها امين سلام عليك جعلت مباركك سمع الله  
انه سمیع الدعاء انت مبارك فى الدنيا والآخرة امراض الدنيا وبركاته ان  
ربك فعال لما يريد انكر نعمتى التى انعمت عليك انى فضلتك على العالمين  
فادخلى فى عبادى وادخلنى جنتى (الاحسان) من ربكم عليكم واحسن الی  
احبابكم وعلمكم مالم تكونوا تعلمون وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها رب  
اجعلنى مباركك حيث ما كنت لا تخف انك انت الاعلى ننجيك من الغم الم  
تعلم ان الله على كل شئ قدير۔ الخير كله فى القرآن كتاب الله الرحمن الیه  
يصعد الكم الطيب هو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة  
وكذلك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتندر قوما ما انذر  
اباؤهم فهم غافلون قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون ان معى ربي  
سيهدين ربنا عاج۔ رب السجن احب الی مما يدعوننى الیه رب نجنى من  
الغم ايلی ايلی لما سبقتنى (عاجى کے معنی معلوم نہیں ہوئے) يعيسى انى متوفيك  
ورافعك الی وجاعل الذين..... ثلة من الاولين وثلة من الاخرين فلما تجلے  
ربه للجبل (المشكلات) جعله دكا قوة الرحمن لعبيد الله الصمد مقام لا  
يترقى العبد فيه بسعى الاعمال۔ سلام عليك يا ابراهيم انك اليوم لدينا  
مكين امين ذو عقل متين حب الله خليل الله اسد الله وصل على محمد ما  
ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك الم نجعل لك سهولة فى كل امر بيت  
الفكر، بيت الذكر ومن دخله كان امنا (جو خلوص کے ساتھ بيت الفكر میں داخل ہوگا وہ  
سوء خاتمہ سے امن میں آجائے گا۔ بيت الفكر وہ چوبارہ ہے جس میں براہین وغیرہ کتابیں تصنیف  
ہوئیں اور بيت الذکر وہ مسجد ہے جو اس کے پاس واقع ہے) مبارك ومبارك وكل امر  
مبارك يجعل فيه (اس الہام سے بيت الفكر کی تاریخ نکلتی ہے) رفعت وجعلت



مبارک۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔  
یریدون ان یطفئوا نور اللہ قل اللہ حافظ عناية اللہ حافظک نحن نزلنا  
واناله لهافظون اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ویخوفونک من دونه  
ائمة الکفر لا تخف انک انت الاعلیٰ ینصرك اللہ فی مواطن ان یوحى لفصل  
عظیم کتب اللہ لا غلین انا ورسلی لا مبدل لکلماته بصائر للناس نصرتک  
من لدنی انی منجیک من الغم وکان ربک قدیراً انت ہی وانامعک خلقت لک  
لیلا ونهاراً اعمل ماشئت فانى غفرت لک (لانک هبرت على حدة من  
المنکرات) انت منى بمنزلة لا یعلمها الخلق وقظروا ان هو الا افک افترى وما  
سمعنا بهذا فی ابائنا الاولین ولقد کرمنا منى ادم وفضلنا بعضهم على  
بعض اجتبینها لهم واصطفینا هم كذلك لیکون آية للمؤمنین ام حسبتم ان  
اصحب الکهف والرقيم کانوا من ایتنا عجباً قل هو اللہ عجیب کل يوم هو فی  
شان ففهمناها سليمان ووجدوا بها واستهقنتها انفسهم ظلما وعلوا سنلقى  
فی قلوبهم الرعب قل جاء کم نور من اللہ فلا تکفروا ان کنتم مؤمنین سلام  
على ابراهيم صافیناه ونجیناه من الغم تفردنا بذلك فاتخذوا من مقام  
ابراهيم مصلی (طریق نجات مجھ سے طلب کریں اور اپنے طریق چھوڑیں) والسماء  
والطارق الیس اللہ بکاف عبده (کاشان نزول سیرۃ المہدی میں گذر چکا ہے) اماما  
ینفع الناس فیمکت فی الارض۔ اجیب کل دعائک الا فی شوکاتک (رشتہ داروں  
سے جائداد کا تنازع تھا۔ دعاء مقبول نہ ہوئی) جاعل الذین اتبعوک (یہاں کفر سے مراد  
صرف میرا انکار ہے) فیہ (ای فی المسجد) برکات للناس من دخله کان امنا ان  
یمسک بضر فلا کاشف له الا هو وان یثک بخیر فلا راد الفضله الم تعلم ان  
اللہ على کل شئی قدیر۔ ان وعد اللہ لات۔ قل بفیضک انی متوفیک قل  
الاخیک انسى متوفیک (جو تیرا مورد فیض یا بھائی ہے اسے کہہ کہ میں تیرے پر اتمام نعمت  
کروں گا یا میں تجھے وفات دوں گا) (مکتوبات احمدیہ ج ۱ ص ۶۷)

”قل هاتوا برهانکم ان کنتم صدقین یا حیى خذ الکتاب بقوة  
خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى یا عبدالرافع انی رافعک الی۔ انی  
معزک لا مانع لما اعطى۔ یدعون لک ابدال الشام وعباد اللہ من العرب عجل

جسد له خوار له تصب وعذاب (یہ لکھرام کے لئے ہے) ایتها المرآة توبی توبی فان البلاء علی عقبك ان كيدكن عظیم (سالہ نے پیالہ سے بہانہ دے کر خط لکھا کہ میرا بیٹا اور آپ کی ساس مرگئی ہے مگر الہام نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے) انا نبشرك بغلام حسين فارس اعلیٰ اشارهما ووهب له الجنة اجاهد جیشی ساوتيك بركة واجلی انوارها حتی يتبرک من تيابك الملوك والسلاطين۔ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت بلیة مالیة“

### نصف ثانی

”ثمانین حولاً او قریباً من ذالک او تزید علیہ سنیناً وتری نسلآ بعیدا“ (تریاق القلوب ص ۳۷) میں لکھا ہے کہ مجھے سولہ دن تونج خون تھا اور بار بار خون پانخانہ آتا رہا۔ رشتہ دار تین بار مجھے سورہ یسین سنا چکے تھے۔ انتظار تھا کہ آج رات کو قبر میں چلا جاؤں گا تو خدا نے کہا کہ دریا کا پانی جس میں ریت بھی ہو لے کر اس پر یہ پڑھو۔ ”سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل علی محمد وآل محمد“ تو یہ پڑھ کر پانی بدن پر لگانا شروع کر دیا۔ ابھی ایک پیالہ ختم نہ ہوا تھا کہ بدن کی گرمی جاتی رہی اور اطمینان ہو گیا اور رات سوتا رہا۔ صبح ہوئی تو الہام ہوا: ”ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بشفاء مثله“ میرے عباس لدھیانوی اور الہی بخش نے دعاء کرائی تو الہام ہوا: ”ننجیہما من الغم رایت هذه المرآة واثر البكاء علی وجهها فقلت ایتها المرآة توبی فان البلاء علی عقبك والبلاء نازلة علیك بموت (احمد بیگ) ویبقی منه کلاب متعددة کذبوا بایاتنا وکانوا بها يستهزعون فسیکفکم اللہ ویردها الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید انت معی وانا معک عسی ان یربعثک ربک مقاما محموداً (لڑکی کا باپ وغیرہ مجھے کاذب جانتے تھے تو ان کے لئے نشان طلب کیا گیا۔ چنانچہ میری طرف متوجہ ہوا میں نے استخارہ کے ذریعہ درخواست کر دی۔ ۷ اپریل ۱۸۹۲ء کو دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ۳۱ ستمبر ۱۸۹۲ء کو احمد بیگ مر گیا تو وہ ڈر گئے۔ اس لئے اس پیشین گوئی کے باقی جزو منسوخ ہو گئے) انا ارسلناه شاهداً ومبشراً ونذیراً کصیب من السماء فیہ ظلمت ورعد وبرق کل شئی تحت قدمیہ (میری موت کے بعد یہ ظاہر ہوگا) فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ واصنع الفلک باعیننا ووحینا۔ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ..... ایدیہم (۱۸۸۸ء میں یہ پیغام بیعت آیت ہے)۔“

الا انتى فى كل حرب غالب  
فكدنى بما زورت فالحق يغلب  
وبشرنى ربى فقال مبشرا  
ستعرف يوم العيد والعيدا قرب

” (یہ لیکھ رام کے متعلق ہے) انه من الهالکین بشرنى ربى بموته فى ست سنة. قل ما يعبايكم ربى لولا دعاؤكم. قل انى امرت وانا اول المؤمنين الحمد لله الذى اذهب عنى الحزن واتانى مالم يوت احدا من العلمين الذين تابوا واصلحوا اولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. ام يسرناها الهدى وامم حق عليهم العذاب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكيد الله اكبر. ان يتخذونك الالهزوا اهذا الذى بعث الله قل يا ايها الكفار انى من الصادقين فانتظروا ياتى حق حين سنريهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حجة قائمة وفتح مبين. ان الله يفصل بينكم ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب. يريدون ان يطفئوا..... الكفرون نريد ان نزل عليك اسرار امن السماء ونمزق الاعداء كل ممزق. ونرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون سلطنا كلا باعليك وغيظنا سباعا من قولك وفتنناك فتونا فلا تحزن على الذين قالوا ان ربك لبا لمرصاد حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان يوتى له الملك العظيم ويفتح على يده الخزائن تشرق الارض بنور ربها ذلك فضل الله وفى اعينكم عجيب (اس میں کفار سے مراد منکر ہیں) ويستلونك احق هو قل اى وربى انه الحق وما انتم بمعجزين وزوجناكها لا مبدل لكلماتى. وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كتاب سجلناه من عندنا. اخرج منه اليزيديون (قاديان کے باشندے یزیدی الطح پیدائے گئے ہیں) لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. قل لواتبع الله اهواءكم لفسدت السموات والارض ومن فيهن لبطلت حكمته وكان الله عزيزا حكيما. قل لوكان البحر مدادا..... قل ان كنتم تحبون فاتبعونى يحببكم الله ان الله كان عفورا رحيمًا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. انت اشد مناسبة بعيسى ابن مريم واشبه الناس به خلقا وخلقًا

وزمانا۔ کلب يموت على كلب (ایک مخالف ۵۲ سال کی عمر میں مرے گا اور ۱۳۰۰ھ ہوگا) هذا هو الترب الذى لا يعلمون (ای عمل الترب واشعبدة) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ جعلناك المسيح ابن مريم انا زيننا السماء الدنيا بمصاييح اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فى احسن تقويم (۱۸۹۲ء) انا الفتاح افتح لك نرى نصرا عجيبا (بعض الثائبين) يخرون على المساجد (ويقولون) ربنا اغفر لنا انا كنا خاطئين۔ جلايب الصدق۔ فاستقم كما امرت۔ الخوارق تحت منتهى صدق الاقدام كن الله جميعا ومع الله جميعا۔ انى مهين من اراد اهانتك (لاہور میں مولوی محمد حسین پٹالوی کے لئے الہام ہوا) قل انى امرت وانا اول المؤمنين۔ يتربصون عليك الدوائر عليهم دائرة السوء۔ الله اجرک الله يعطيك جلالک۔ قل ان کنتم تحبون الله۔ (فتوئے کفر جاری ہوا تو یہ الہام ہوا) طوبى لمن سن وسار۔ لا تخف اننى معك وماش مع مشيك۔ انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق۔ وجدتك ما وجدتك وانى معين من اراد اعانتك انت معى وسرك سرى وانت مرادى ومعى انت وجيه فى حضرتى اخترتك لنفسى۔ هذا (التعريف) لى وهذا لاصحابى يا على دعهم وانصارهم وذراعهم ذرونى اقتل موسى نظر الله اليك معطرا قالوا اتجعل فيها من يفسد..... لا تعلمون قالوا كتاب (براهين) ممتلى من الكفر والكذب قل تعالوا ندع ابناؤنا الكاذبين يوم يجئى الحق ويكشف الصدق ويخسر الخاسرون انت معى وانا معك ولا يعلمها (هذه الحقيقة) الا المسترشدون نرد اليك الكرة الثانية ونبدلنك بعد الخوف امانا۔ ياتى قمر الانبياء وامرك يأتى يسر الله وجهك وينير برهانك سيولدك الولد ويدنى منك الفضل وقالوا انى لك هذا قل هو الله عجيب ولا تئيس من روح الله انظر الى يوسف واقباله۔ وقد جاء وقت الفتح وافتح اقرب يخرون على المساجد ربنا اغفر لنا انا كنا خاطئين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اردت ان استخلف فخلقت آدم نجى الاسرار انا خلقنا الانسان فى يوم موعود (يعنى اس وقت مسیح آئے گا کہ روئے زمین پر دجال یعنی عیسائی حکومت ہوگی اور وہ روحانی حکومت سے ان پر حکمران ہوگا۔ کیونکہ جسمانی حکومت تو صرف قریش کے لئے ہی مخصوص

ہے اور یضیح الحرب کا اشارہ بھی یہی ہے کہ مسیح لڑائی موقوف کر دے گا اور جہاد کا حکم اڑا دے گا) یحییٰ الحق..... الخاسرون ان ربك فعال لما يريد ا دعونی استجب لکم ”محمد حسین دہلوی نے مجھے دجال اور جاہل کہا ہے اور میرے دوست حکیم نور الدین اور محمد احسن امر وہی کو بھی جاہل کہا۔ تو ہم نے کہا کہ آؤ تم اور تمہارے ہم خیال ملاں اور مولوی نذیر حسین دہلوی میرے مقابلہ پر عربی میں دس جزو کی عربی تفسیر لکھو۔ جس میں بالکل مفہومات جدیدہ ہوں اور کسی کتاب سے اخذ نہ ہوں اور اسلام سے بھی باہر نہ ہوں۔ اسی اسی (۸۰، ۸۰) آیات کی سورتیں انتخاب کر لیں۔ ان میں سے جس پر قرعہ نکلے اس کی تفسیر لکھی جائے۔ اس کے بعد انتخاب کر کے قرعہ نکالا جائے۔ جب قرعہ نکلے تو اس پر ایک مدحیہ قصیدہ مشتملہ نعت محمد ﷺ عربی میں لکھا جائے۔ مگر محمد حسین بھاگ گیا اور میں نے اپنے غلبہ کے لئے دعاء کی تھی تو بذریعہ الہام مذکور الصدر قبول ہوئی۔ ”انا نری تقلب وجهک فی السماء ما قلبت فی الارض انا معک نرفعک درجات“

مہر علی کو خواب میں دیکھا کہ اس کے فرش کو آگ لگ رہی ہے تو میں نے بجھائی۔ اس سے کہا گیا کہ بلا آئے گی۔ استغفار کرو تو چھ ماہ بعد اس پر سنگین مقدمہ چلا۔ چھ ماہ کے بعد وہ رہا ہو گیا۔ درحقیقت وہ دعاء کا اثر تھا۔ مگر وہ انکاری رہا۔ آخر ۲۵ فروری ۱۸۹۳ء کو الہام ہوا کہ اگر وہ ایک ہفتہ تک اقرار نہ کرے تو میرا اور اس کا مقدمہ آسمان پر دائر ہوگا۔ ”وکان حقاً علینا نصر المؤمنین هذا (آئینہ کمالات اسلام) کتاب مبارک فقوموا للاجلال والاکرام“ حضور ﷺ کو دو دفعہ خواب میں اس پر اظہار مسرت کرتے دیکھا اور ایک فرشتہ نے روز سے یہ الہام بڑھا۔ مسیح انسان تھے۔ ”کرم الجنة دوحة الجنة“ یعنی میری بیٹی عصمت زندہ رہے گی۔ پھر قبض رہی تو زیادتی عمر کی دعاء قبول نہ ہو سکی۔ ”یقضی امرہ فی میت“ لیکھ رام ۶ مارچ ۱۸۹۶ء کو زخمی ہو کر چھ بجے دن کے مر گیا۔ ”یا عیسیٰ ساوریک ایاتی الکبریٰ انی معک حیثما کننت انی جاعلک عیسیٰ ابن مریم وکان اللہ علی کل شئی مقتدر ا اردت استخلف فخلقت آدم (۱۸۹۴ء) انا نبشرك بغلام“ عبدالحق غزنوی نے مباہلہ چاہا مگر میں نے بددعائے نہ دی۔ آتھم کو مہلت ملی تو اس نے استہزاء کیا کہ مجھے دوسری عورت بھی مل گئی ہے۔ (جو اس کے بھائی متوفی نے چھوڑی تھی) الہام ہوا کہ: ”ان شانک هو الایتر“ بیس سال تک اس کی اولاد نہ ہوئی۔ مگر میرے ہاں مرزا شریف احمد ۱۸۹۵ء کو پیدا ہوا تھا۔ پھر خدا نے کہا کہ جب تک چار بچے نہ ہو لیں۔ عبدالحق نہ مرے گا۔ ”ان

کنتم فی ریب مما ایدنا عبدنا فاتوا بکتاب من مثله، یعنی نور الحق کتاب لا جواب ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ ”ما ننسخ من آية او ننسها“ جنگ مقدس کے بعد عیسائیوں پر آفات آئیں اور حکیم نوردین کالٹز کا مرگیا تو سعد اللہ لدھیانوی نے استہزاء کیا تو انوار الاسلام لکھتے لکھتے یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا حکیم صاحب کو دیا جائے گا۔ جس پر کچھ پھوڑے ہوں گے۔ اور ہلدی وغیرہ لگانے سے اچھا ہو جائے گا تو ویسا ہی ہوا۔ آتھم خوفزدہ ہوا تو الہام ہوا کہ: ”اطلع اللہ علیہمہ وغمہ ولن تجد لسنة اللہ تبديلا فلا تعجبوا ولا تحزنوا واذتم الاعلون ان کنتم مؤمنين وبعزتي وجلالي انك انت الاعلى ونمزق الاعداء كل ممزق ومكر اولئك هو يبور۔ انا نكشف السر عن ساقه يومئذ يفرح المؤمنون۔ ثلثة من الاولين ثلثة من الاخرين وهذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا (۱۸۹۵ء) واني انا الرحمن ناصر حزبه (۱۸۹۶ء) ترى اعينهم تفيض من الدمع يصلون عليك ربنا اننا سمعنا منا ديا“ یہ لوگ صدق ہیں۔ ”اللہ اکبر خربت خيبر (مذاهب باطلہ) ان اللہ معك ان اللہ يقوم اينما قمت (۱۸۹۱ء) بيني وبينكم ميعاد يوم من الحضرة (مبارک احمد کی پیدائش مراد ہے جو ایک یوم یعنی دو سال کے بعد ہوئی) ان اللہ يجعل الثلثة اربعة (تولید فرزند چہارم مراد ہے) الارض والسماء معك كما هو معي۔ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امرى الى اللہ“

عیسائیوں نے رسالہ امہات المؤمنین شائع کیا تو حمایت اسلام لاہور نے اس کی بندش کی درخواست کی۔ مگر گورنمنٹ نے نامنظور کی اور میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب لکھنا چاہئے۔ تو یہ الہام ہوا۔ (۱۸۹۸ء) ”ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم انه اولى القرية۔ انى مع الرحمن اتيك بغتة۔ ان اللہ موهن كيد الكافرين۔ يا احمد فاضت الرحمة على شفيتك۔ يا عيسى انى متوفيك..... الى يوم القيمة“ برکات غیر فانیہ یعنی معارف الہیہ اور علوم حکمیہ مجھے عطاء ہوئیں تو میں مہدی بن گیا اور برکات فانیہ جیسے تابعداروں کی بہتری اور مخالفین کی ابتری مجھے عطاء ہوئیں تو میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا اور چونکہ برکات غیر فانیہ حضور ﷺ کی وساطت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے میرا نام محمد اور احمد بھی ہوا اور مہدی بھی اس لئے ہوا کہ اصلی طور پر مہدویت حقیقت محمدیہ ہے۔ جو میری مہدویت کا وسیلہ ہے۔ ”غثم غثم غثم دفع اليه من ماله دفعة السهيل البدرى الامراض تشاع

والنفوس قضاع ان الله لا يغير ما بقوم انه اوى القرية ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون انت معي يا ابرهه ياتيك نصرى انى انا الرحمان يا ارض ابلعى ماءك وغيض الماء وقضى الامر سلام قولاً من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون انا تجالذنا فانقطع العدوا سبابه ويل لهم انى يوفكون يعرض الظالم على يديه ويوثق وان الله مع الابرار وانه على نصرهم لقدير شاهدت الوجوه وانه من آيات الله وانه فتح عظيم انت اسمى الاعلى انت منى بمنزلة المحبوبين اخترتك لنفسى قل انى امرت وانا اول المؤمنين (مراد تزيق القلوب كاقصه) سيفغر "جمال الدين منصفى من فيل هو اتواسے جموں میں انسپکٹر مدرس بنایا گیا۔ برق طفلی بشر۔ اس کی آنکھ دکھی تو ہفتہ بعد اچھی ہوگئی۔" فورب السماء والارض انه الحق (۱۸۹۹ء) يخرون سجدا ربنا اغفر لنا انا كنا خطئين "مراد توبہ کرنے والے ہیں۔" ربى الاعلى اصبر مليا ساهب لك غلاما ذكيا انى اسقط من السماء واصيبه رب اصح زوجنى هذه "مراد پیدائش مبارک احمد" يا حى يا قيوم برحمتك استغيث ان ربى رب السموات والارض انا لنعلم الامروانا عالمون سيبدى الامرو ننسفن نسقا "مراد عبدالکریم" قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون ايضاً مسلمون قل ان كنتم تحبون الله وقل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا اى مرسل من الله ياتيك من كل فج عميق لولا فضل الله عليكم ورحمة على لا لقى راسى فى هذا الكنيف (مراد عبدالکریم) انا اخرجنا لك زروعا يا ابراهيم۔ ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين (۱۹۰۰ء) ان الربى تدور وينزل القضاء ان فضل الله لات وليس لاحدان يرد ما اتى قل وربى انه الحق لا يتبدل ولا يخفى وينزل ما تعجب منه وحى من رب السموات العلى ان ربى لا يضل ولا ينسى ظفر مبین وانما نواخرهم الى اجل مسمى انت معى وانا معك قل الله ثم ذره فى غيه يتمطه انه معك وانه يعلم السر وما اخفى لا اله الا هو يعلم كل شئ ويرى ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون الحسنى انا ارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا فقالوا كذاب اشرو جعلوا يشهدون عليه ويميلون اليه كماء منهم ان حبى قريب انه قريب مستتر (مراد وہ وقت ہے جب کہ مسجد کا کوچہ کچھ

اینٹوں سے بند کیا گیا ہے۔ مجھے حسب معمول درد سر تھا۔ ظہر و عصر ملا کر پڑھ لی تو شام تک یہ الہام  
 ہوئے (افصححت من لدن رب کریم مبارک (مراد خطبہ الہامیہ) سبحان اللہ انت  
 وقارہ فکیف یتزکک انی انا اللہ وقل رب انی اخترتک علی کل شیء۔ سيقول  
 لك العدولست مرسلنا سناخذہ من مارن اوخر طوم وانا من الظالمین  
 منتقمون وانی مع الافواج اتیک بغتہ۔ یوم یعض الظالم علی یدیه یالیتنی  
 اتخذت مع الرسول سبیلا وقالوا سیغلب الامر وماکانوا علی الغیب  
 مطلعین انا انزلنک وکان اللہ قدیر انت قابل یاتیک وابل انی حاشر کل قوم  
 یاتونک جنبا (جوق درجوق) وانی انرت مکانک تنذیل من اللہ العزیز الرحیم  
 بلجت ایاتی انت مدینة العلم طیب مقبول الرحمن وانت اسمی الاعلی۔  
 بشری لك فی هذه الايام انت منی یا ابراهیم انت القائم علی نفسه مظهر  
 الحی وانت منی سید الامر انت من مائنا وهم من فشل ام یقولون نحن جمع  
 منتصر سیهزم الجمع ویولون الدبر الحمد لله الذی جعل لكم الصهر والنسب  
 انذر قومك قل انی نذیر مبین قالوا لتهلکنک قال لا خوف علیکم لا غلبن  
 ورسلی وانی اموج موج البحران فضل اللہ لات ولیس لا حد ان یرد ماتی  
 قل ای وربی انه لحق لا یتبدل ولا یخفہ وینزل ما تعجب منه وحی من رب  
 السموات العلی لا اله الا هو یعلم کل شیء ویرى ان اللہ مع الذین اتقوا الذین  
 هم یحسنون الحسنہ تفتح لهم ابواب السماء ولهم بشری فی الحیوة الدنیا  
 انت تربی فی حجر النبی وانت تسکن تنن الجبال وانی معک فی کل حال۔  
 وقالوا ان هذا الاختلاق۔ ان هذا الرجل یجوج الدین قل جاء الحق وزهق  
 الباطل۔ قل لوکان الامر من عند غیر اللہ لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا هو الذی  
 ارسل رسوله بالهدی ویدین الحق وتهذیب الاخلاق لتنذر قوما ما انذر  
 اباؤهم ولتدعوا قوما اخرین۔ عسی اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم  
 مودة۔ انی انا اللہ فاعبدنی ولا تنسی واجتهد ان قصلتی واسئل ربک وکن  
 سئولا اللہ ولی حنان علم القرآن فبای حدیث بعده تحکمون نزلنا علی  
 عبدنا رحمة ذرنی والمکذبین انی مع الرسول اقوام ان یومی لفصل عظیم  
 وانی رافعک الی ویاتیک نصرتی۔ انی انا اللہ ذوالسلطان۔ انا للہ (مراد وفات محمد



اکبر بن ابوی) سلمان منا اهل الیبت و یصالح الناس علی مشرب الحسن (یعنی مسیح موعود حسنی المشرب ہوگا۔ حسن کا دودھ پیئے گا اور لڑائی کا خاتمہ کر کے لوگوں میں صلح پیدا کرے گا) یریدون ان یرواکم تک واللہ یریدان یریک انعام۔ الانعامات المتواتره۔ انت منی بمنزلة اولادى۔ واللہ ولیک وربک وقلنا یا نار کونی بردان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون الحسنی (عصائے موسیٰ کے متعلق ہے کہ اس کا مصنف الہی بخش لاہوری میری کمزوریاں دکھانا چاہتا ہے۔ مگر ایسا نہ ہوگا) کونی بردا وسلاما (انگلی میں درد تھی تو آرام ہو گیا) تنزل الرحمة علی ثلث (العین ولی الاخرین، تین اعضاء مراد ہیں) قل ان ہدی اللہ هو الہدی (قطع و تین کا مسئلہ سمجھایا تو الہام ہوا کہ یہی تقریح صحیح ہے) والموت اذا عسص "اذا بیطس سے سو سو دفعہ مجھے پیشاب آتا تھا۔ کاربکل کا بھی خطرہ تھا۔ کیونکہ اس کے آثار دونوں شانوں میں نمودار ہو چکے تھے۔ الہام ہوا تو شفا ہو گئی۔ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ (سیکنڈ) بھی ایک نشان ہے۔ (۱۹۰۱ء) "اصح زوجتی"

میری بیوی کو غشی ہوئی تو یہ الہام ہوا۔ "منعہ مانع فی السماء (تو اعجاز مسیح کا مقابلہ کسی نے نہ کیا) قالوا ان التفسیر لیس بشئ" مراد تفسیر سوزہ فاتحہ مندرجہ اعجاز مسیح "انی انا الرحمن دافع الاذی انی لا یخاف لدی۔ المرسلون" پھنسی نکل ہوئی تھی خیال ہوا کہ ذیابیطس کا اثر نہ ہو تو اس الہام سے تسلی ہوئی۔ "کفیناک المستہزئین رب زدنی عمری وفی عمر زوجی زیادة خارق العادة" سے مراد سلسلہ کے خاص حامل دوست ہیں۔ "انی مع الافواج ایتک" دیوار کے مقدمہ میں ہوئی۔ "ایام غضب اللہ غضب غضبا شدید انه ینجی اهل السعادة انی انجی الصادقین هذا علاج الوقت النربسی" قاضی یوسف علی ریاست جنید بیمار تھے تو یہ الہام ہوا۔ "محموم جاء نظرت الی المحموم رشن الخبر" ناخواندہ مہمان کی خبر رشن بمعنی ناخواندہ مہمان۔ "کان من اهل الیبت علی مشرب الحسن یصالح بین الناس" مراد مسیح موعود ہے۔ "لا یتقطع الاعداء الایموت احد منهم (۱۹۰۳ء) قد جرت عادة اللہ انه لا ینفع الاموات الا الدعاء فکلمہ من کل باب ولا ینفعه الا هذا الدواء (ای الدعاء) فیتبع القرآن ان القرآن: کتاب اللہ کتاب الصادق" ایک عربی مردہ دل سخت جوش زن تھا۔ اس کے لئے لئے یہ دعاء ہوئی۔ دوسرے روز دوران سر میں میں نے عربی زبان میں اپنی صداقت

کے دلائل پیش کئے تو وہ مرید ہو کر واپس عرب کو مبلغ بن کر چلا گیا اور یہاں بھی ایک تائیدی اشتہار دے گیا۔ ”انسی افر مع اہلی الیک“ حکیم نور الدین کے متعلق ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جموں میں طاعون ہے میں قادیان آ رہا ہوں۔ ”انت معی وانسی معک انسی بایعنتک بایعنی ربی۔ انی مع الرسول اقوم ومن یلومه الوم افطر واصوم“ یعنی کبھی طاعون پڑے گا اور کبھی نہیں پڑے گا۔ ”یا مسیح الخلق عدوانا لن تری من بعد موادنا وفسادنا“ اے مسیح ہماری خبر لے شفاعت سے بچا تو پھر ہمارے خبیث مادے تو نہیں دیکھے گا۔ یعنی ہم سیدھے ہو جائیں گے اور بدزبانی چھوڑ دیں گے۔ ”یا ولی اللہ کنت لا اعرفک“ زمین کے متعلق ہے کہ معذرت کر رہی ہے۔ نزل بہ جبیز چراغ دین جمونی کے متعلق ہے کہ اس کے الہام حدیث النفس ہیں۔ جو خشک مجاہدات کا نتیجہ ہیں۔ یا تمنا کے وقت شیطان القاء کرتا ہے یا کسی خشکی یا سوداوی مواد سے ایسے خیالات کا القاء ہوتا ہے۔ پس ہماری اصطلاح میں اس الہام جمیز کہتے ہیں۔ ان کی کثرت سے دیوانگی کا خطرہ ہے۔ ”انسی اذیب من یریب“ یہ بھی چراغ الدین کے ہی متعلق ہے کہ اگر وہ اپنی رسالت سے تائب نہ ہو تو وہ عارت ہو جائے گا۔ ”انسی حافظ کل من فی الدار“ دار کی تشریح نہیں ہوئی کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ ”لو لا الامولہک التمر“ یعنی ائمہ الکفر کی ہلاکت میں تاخیر نہ ہوتی تو اب بھی درندہ صفت مخالف ہلاک ہو جاتے۔ ”انسی احافظ کل من فی الدار الا الذین علوا باستکبار“

علوم موسوی جائز ہے اور علو فرعونی ناجائز ہے۔ ”انسی اری الملائکة الشدائد اللهم ان اهلکت هذه العصابة فلن تعبد فی الارض“ یہ الہام شدہ مرض میں ہوا۔ ”انسی انا ربک القدیر لا مبدل بکلماتی“ سیف چشتیائی کے متعلق ہے۔ ”مات ضال ہائما“ نذیر حسین دہلوی مرا تو میری زبان پر یہ فقرہ جاری ہوا۔ ”انسی احافظ کل من فی الدار ولن جعلہ اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا عندی معالجات“ لوگ طاعون کا ٹیکہ کراتے ہیں۔ ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میری بیوی نے بھی ایک تصدیقی خواب دیکھا کہ شیخ رحمت اللہ نے لاہور سے ہزار شیشی کا ایک بکس بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے کبھی دوائیں دس بارہ شیشیاں منگائی تھیں۔ مگر یہ خواب معالجات کی تصدیق کرتا ہے۔ ”احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امانا وهم لا یفتنون۔ یرید وان یطفثوا نورک ویتخطفوا عرضک انسی معک ومع اهلك واما نرینک بعض الذی نعدہم للسلسلة السماویة اونتوفینک جف القلم بما ہو کائن قل انما انا بشر مثلکم

یوحی الی انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی القرآن فاتقوا النار“ کفرین مجارہ سے وہ انسان مراد ہیں جو اپنے حواس سے کام نہیں لیتے۔ تسبیح ۳ بار” واللہ شدید العقاب انہم لا یحسنون“ پکٹ مدعی الوہیت کے متعلق دیکھا کہ چند کتابوں پر یہ الہام لکھا ہے۔ ”خسف القمر والشمس فی رمضان فباى الاء ربکما تکذبان“ سے مراد میں ہوں۔ ”من اعرض عن ذکرى نبتله بذریة ملحدۃ یمیلون الی الدنیا ولا یعبدوننی شیئا“ یعنی مخالف کی اولاد ملحد ہوگی اور عبادت نہ کرے گی۔ ”یموت قبل یومی هذا“ یہ رسل بابا مکذب امر تر کے متعلق ہے۔ میرے یوم سے مراد جمعہ کا دن ہے جو دراصل خدا کا دن ہے۔ اس دن میں بیمار تھا۔ تو وہ مجھ سے پہلے طاعون سے مر گیا۔ ”رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی“ یہ اسم اعظم ہے اور دافع ہر مصیبت ہے۔ ”سلام علیک یا ابرہیم ینادی مناد من السماء“ ایک نے پکارا اس کے آگے ایک فقرہ تمہارا نہیں رہا۔ ”انی مع الافواج اتی“ میں اپنی فوجوں کے ہمراہ آیا۔ ”علی شکر المصائب ای ہذہ صلة علیہ یاتی علیک زمن کمثل (من موسیٰ انہ کریم تمشی امامک وعاد من عاد۔ ای عادى من عادک) انی صادق صادق وسیشهد اللہ لی انی انا الصاعقہ“ صاعقہ خدا کا نام ہے۔ ”انی اجہز الجیش ان اللہ لا یغیر ما بقوم انہ اوی القرية لولا المقام لهلك المقام (۱۹۰۳ء) یبدی لك الرحمن شیئا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه بشارۃ تلقاها النبیون جاء نی آئل واختار وادار اصبعہ و اشار یعصمک اللہ من العدے اولیسطو بکل من سطا ان وعد اللہ قد اتی (وکل علی الارض وسطا) فتوبی لمن وجد ورائے قتل (العدو) خيبة وزید هیبة بقیة الطاعون اریک برکات من کل طرف اثارک اللہ علی کل شیء ان معی ربی سیہدین افاتین آیات تفصیل ما صنع اللہ فی هذا الباس بعد ما اشعة فی الناس اصبر سنفرغ یا مرزا غاسق (عند) اللہ ساکرمک اکراما عجباً ان اللہ مع عبادہ (وہو) یواسیک لا یموت احد من رجالکم (مما لا افہم) سننجیک سنعلیک وانی معک واهلک ساکرمک اکراما عجباً انی مع الافواج اتیک بفتة دعاؤک مستجاب انی مع الرسول اقوم واصلى واصوم واعطیک ما یدوم اصلى واصوم واسهر وایام واجعلک لك انوار القدوم واطیک ما یدوم ان اللہ مع الذین اتقوا برز ما عندهم من الروح ذلك بما

عصوا واکانو یعتدون حرب یهجه (آریوں نے گالیاں بھرا اشتہار دیا تھا) انی مع ..... بغتة انی مع الرسول اجیب اخطی واصیب انی مع الرسول محیط۔ انی مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الی الوقت المعلوم یوم الاثنين وفتح الحنین حجة الله “یہ نام نواب محمد علی کا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی قوم سے الگ ہو کر میرے پاس آیا تھا۔” دعاؤک مستجاب۔ ساخبر وفي اخر الوقت انک لست علی الحق “محمد حسین بنالوی کے متعلق ہے۔” ماکان الله لیعذبهم وانت فیهم رب انی مظلوم فانتصر انا نحن نرث الارض ناکلها من اطرافها قلنا یا ارض ابلعی ماء ک یا سماء اقلعی فیہ خبرو برکة (نسیت اولہ) سلیم حامدا مستبشرا (نسیت شیئا منه) ان الله مع الذین اتقوا الذین هم محسنون فیہ آیات للسائلین “مقدمہ جہلم میں جس کی فتح ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے۔” الفتنة ههنا والصدقات لعنة الله علی الکاذبین یسین والقرآن ..... رحیم لا اله انا فاتخذنی وکیلا ساکرمک بعد تو هینک ساکرمک اکراما عجباً ساکرمک اکراما حسنا ان السموات ..... فتقنا هما قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یسئلونک عن شانک قل الله (اعلم) ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون ماتری فی خلق الرحمان من تفاوت “مقدمہ گورداسپور کے متعلق تھا۔” کتب الله لا غلبن انا ورسلی۔ فی حفاظة الله سلام علیکم طبتم “یا حفیظ یا عزیز یا رفیق طاعون وغیرہ سے بچنے کے لئے بتایا گیا۔ رفیق خدا کا نیا نام ہے۔” سلام قولاً من رب رحیم “سر الشہادتین لکھ رہا تھا کہ درد گروہ سے بیتاب ہو گیا۔ مقدمہ پر گورداسپور بھی جانا تھا تو شہید عبداللطیف کا تصور کر کے دعاء کی اور گھر والوں نے آمین کہی تو شفا ہو گئی۔ قتل خبیة وزیدہیبة!

اری ارض مد قدارید بتارها  
وغادرهم ربی کفصن مجدر  
ولیس علاج الوقت الا اطاعتی  
اطیعون فالطاعون یغنی ویدحر  
لقوم هدی لا باریک الله مدهم  
جهول فادی حق کذب فابشروا

(غصن اونٹنی، مد میں طاعون پڑا تو نصف تک آدمی مر گئے) ”فبشروا“

للمؤمنين "بمقام گورد اسپورلیتہ القدر کو اپنی جماعت کے لئے دعاء کی تو الہام ہوا۔" انی ہمی الرحمن۔ کبر عند اللہ موت هذا الرجل ان اللہ لا يضر ان اللہ مع الذين ترى نصرا من عند اللہ وهم يعمهون (۱۹۰۴ء) غلبت الروم (الف) اردت ان تسقفتح ان اللہ عزيز ذو انتقام۔ (ب) اذا جاء نصر اللہ "کھانسی شدت سے تھی موت قریب تھی مگر خدا نے کہا کہ لوگ جوق در جوق آئیں گے تو تمہاری موت ہوگی۔" لعلى اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى۔ ان شانئك هو الابتر من دخله كان ائنا غفور رحيم۔ اعملوا ما شئتم (من المباحات) انى غفرت لكم ان شاء اللہ ائنين انى امرت لكم (ای امرت الملكة بالدعاء لك) نراد اللہ عمرک ادنعمتی۔ غرست لك بيدي رحمتی وقدرتی۔ عفت الديار محلها ومقامها سنزداد حسناً من حسنك (ای بسبب حسنك) انى انا الرحمن ساجعل لك سهولة فى امرک انى انا التواب من جاءك (كانه) جاءنى ولقد نصرکم اللہ يبدر وانتم اذلة سلام عليكم طبتم عفت الديار محلها ومقامها انت منى وانا منك عسى ان تکرهوا شيئاً وهو خير لكم۔ انى مع الرسول (۱۹۰۵ء) ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بشفاء مثله "حکیم نور الدین بیمار ہو گئے تو دعاء کی گئی اور شفاء ہو گئی۔ یہ الہام پہلے بھی ہوا تھا۔" بسم اللہ الكافى بسم اللہ الشافى بسم اللہ الغفور الرحيم بسم اللہ البر الكريم يا حفيظ يا عزيز يا رفيق يا ولى اشفتى "میری گال سوچ گئی تو اس دعاء سے شفاء ہوئی۔" انى لا جدريح يوسف لولا ان تفندون انى مع الروح معك ومع اهلك انما امرک اذا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون (لم يؤا الملهم) لا تياسوا من روح اللہ (نسبت مابعدہ) سلاماً سلاماً محونا نار جهنم (لعل اللہ يدفع الطاعون عن الديار كلها او عن الدار خاصة) كفت عن بنى اسرائيل "مرزائی جماعت مراد ہے کہ اس پر جو ظلم ہو رہے ہیں۔ آئندہ نہ ہوں گے۔" انى مع الافواج اتيك بغتة جاءك الفتح قل مالك حيلة؟ سلام قولاً من رب رحيم صدقنا الرؤيا انا كذلك نجزي المتصدقين "مراذخواب طاعون ہے جوچ نکلا۔" ارید ما تريدون "مجھے خطاب ہے۔"

ياتون من كل فج عميق

وياتيک من كل فج عميق

۲۵ برس بعد پھر یہ الہام ہوا۔ ”ینجی الناس من الامراض“ یعنی میرے ذریعہ سے کئی لوگ شفا پائیں گے۔ ”انسی معک ومع اهلك ومع کل من احبک فزع عیسیٰ ومن معہ شہت الوجوه“ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن مغلوب ہوں گے۔ ”اذا جاء نصر اللہ“ نماز میں والعصر پر ہنسنے کو تھا کہ یہ لفظ زور سے جاری ہو گئے۔ ”ارنی زلزلة الساعة ما كان لفسن ان تموت الاباذن اللہ تؤثرون الحیوة الدنيا ان المنایا لا تطیش سہا مہا۔ السلام علیکم“ پیشاب کا سخت دورہ تھا۔ اچھا ہو گیا۔ ”انسی انما الرحمن لا یخاف لدی المرسلون قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون طلع البدر علینا من بینات الوداع لا تخف انی لا یخاف وقالوا من ذا الذی یشفع عنده هیہات ہیہات لما توعدون قل ان اللہ عزیز والاعتدال افلا تؤمنون قل عندی شہادة من اللہ فهل انتم مؤمنون قل ما ارید لکم من امری والحمد للہ رب العالمین انا انزلنا فی لیلۃ القدر انا کنا منزلین۔ یتیک نصرتی حسنت مستقرا ومقاما اذ کففت عن بنی اسرائیل ارید الخیر یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ انسی مہین انسی مع الرسول اقوم۔ یدوم لا تقوموا ولا تقعدوا الا معہ ولا تردوا موردا الا معی انسی معک ومع اهلك۔ انسی مع الرسول اقوم اما نرینک بعض الذی نعدہم اونتوفینک تموت وانا راض منک لا یقبل عمل مثقال ذرۃ من غیر التقویٰ انکء اعیننا سمیتک المتوکل انفقوا فی سبیل اللہ ان کنتم مسلمین۔ رب اجلک المقدر ولا نبقی لک من المخزیات شیئا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین“ یہ فقرہ الہام نمبر ۴۰۵ کے ساتھ دوبارہ نازل ہوا۔ ”انزل فیہا (مقبرہ بہشتی) کل رحمة کبرت فتنة جاء وقتک وینقی لک الایات باہرات قرب وقتک ونبغی لک الایات بینات“ بینات اور باہرات اسم حالیہ ہیں، جو دوام وجود پر وال ہیں۔ (خوب بہت خوب) ”قال ربک انه نازل من السماء ما یرضیک رحمة منا وکان امرا مقضیا قرب ما توعدون۔ واما بنعمة ربک فحدث انه من یتق اللہ ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یا شمس یا قمر انت منی وانا منک (خوب ہے) انا نبشرك بغلام نافلة لک من عندی (مگر لڑکا پیدا نہ ہوا ۱۹۰۶ء) انسی مع الافواج الخ حرام علی قریة ووضعنا عنک وزرک اللہ غالب علی امرہ ننجیک من کربک قطع دابر القوم الذین لا یؤمنون۔ یوم

تأتى السماء بدخان مبين وترى الارض يومئذ خامدة مصفرة سفينة  
وسكينة “ مراد سلسلہ کی تختی نرمی ہے۔ ” رب اشف زوجتى هذه واجعل لها بركات  
فى السماء وبركات فى الارضها انى اترك انى مع الافواج ولنجعل لك سهولة  
من كل امر ان ربك فعال لما يريد رب اخر وقت هذا (اى الزلزلة بتاويل  
العذاب) رب سلطنى على النار اى فار العذاب اخره الله الى وقت مسمى “ اس  
سخت زلزلہ کو تاخیر میں ڈال دیا گیا۔ ” انا نبشرك بغلام نافلة “ پسر محمود مراد ہے۔ ” هو الذى  
ارسل رسوله ..... كله ان الله قد من علينا ياتيك الفرح رب ارنى زلزلة  
الساعة يريكم الله زلزلة الساعة اريك زلزلة يستلونك احق هو قل اى وربى  
انه لحق ولا يرد (عذابه) من قوم يعرضون نصر من الله وفتح مبين اراد  
الله ان يبعثك مقاما محمودا. هو الذى ارسل رسوله. الامراض تشاع  
والنفوس تصنع “ یہ دوسری دفعہ الہام ہوا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ قادیان کے متعلق ہے یا  
پنجاب کے متعلق۔ ” تا الله لقد اترك الله وان كنا لخطئين انى حفيظك ويل اهذه  
الامرأة وبعلمها (معلوم نہیں کہ یہ کون عورت ہے) اشفنى من لدنك وارحمنى “ بیماری  
کی حالت میں ہوا۔ ” انى مع الاكرام لولاك لما خلقت الافلاك . لا تكلمنى فى  
الذين ظلموا انهم مغرورون وعد علينا حق “ یعنی جو تیری جماعت سے بگڑیں ان کے  
لئے شفاعت مت کر غیر بھی خیال رکھیں اور جماعت میں داخل ہوں۔ ” هل اتاك حديث  
الزلزلة اذا زلزلت الارض زلزالها “ یعنی اکثر جگہ یوں ہوگا۔ ” انى مع الافواج اتيك  
بغثة اريك زلزلة الساعة انى احافظ كل من فى الدار “ ” ترد عليك انوار  
الشباب سيأتى عليك زمن الشباب “

” ان كنتم فى ريب ..... بشفاء من مثله روعليها ردها وريحانها “  
تین چار ماہ سے میری حالت ایسی کمزور ہو گئی تھی کہ ظہر و عصر کے سوا نماز بھی گھر ہی پڑھتا تھا۔  
خدمت اسلام کے لئے ایک دوسٹر بھی لکھتا تو خطرناک دوران سر شروع ہو جاتا تھا اور دل ڈوبنے  
لگتا تھا۔ جسم بالکل بیکار ہو گیا تھا۔ جسمانی قوائے بالکل مضحل ہو چکے تھے کہ مسلوب القوی ہو کر  
آخری وقت آ گیا تھا۔ میری بیوی بھی دائم المریض تھی اور امراض رحم و جگر دامکنیر تھے تو دعاء کی اور  
یہ بشارت آئی۔ ” واذ قيل لهم لا تفسدوا فى الارض . ادعونى استجب لكم . انى  
مع الافواج بغثة . انى احافظ كل من فى الدار . انى خلف فخلقت

أدم ان الله على كل شئ قدير ان الله لا يخزي المؤمنين “أیک دفعہ بدن کا اٹھنا  
حصہ حرکت سے معطل ہو گیا اور ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ سخت درد تھی۔ خیال تھا کہ فالج ہے۔ تب  
دعاء سے نجات ہو گئی۔ ”شفیع اللہ“ یہ میرا نام ہے۔ ”انی مع الروح اتیک بغتة بلجت  
ایاتی وبشرالذین آمنوا ان لهم الفتح علم الدرمان“۔

ان المنایا لا تطیش سہا مہا

ان المنایا قد تطیش سہا مہا

”اما نرینک بعض الذی نعدہم یاتیک من کل فج عمیق یأتون من  
کل فج عمیق یاتیک رجالا نوحی الیہم من السماء“ ”توحات الیہ مراد ہیں۔  
”ینصرکم اللہ فی دینہ اتقنظ من رحمة اللہ الذی یربیکم فی الارحام“ ”انگر  
خانہ کا خرچ پندرہ سو سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ قرضہ لیں تو وہ بھی ایک ماہ میں خرچ ہو جائے گا تو یہ  
الہام ہوا۔ ”رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ما ننسخ من ایة رب  
احفظنسی فان السقوم یتخذوننی سخرة یکرمک اللہ اکراما عجبا الیس اللہ  
بکاف عبده (۱۹۰۷ء) انی انا الرحمن اصرف عنک سوء الاقدار۔ انما یرید  
اللہ بکم الیسر الحق بشیعة موسی ورضی اللہ بہ قولاً۔ اضایرید اللہ لینہب  
عنکم الرجس اهل البیت دعنی اقتل کل من اذاک ان العذاب مربع ومدون۔  
کل الفتح بعده مظهر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء من (خواض)  
الناس والعامۃ لولا الاکرام لهلك المقام“ ”یعنی میری جماعت کے لوگ بھی طاعون سے  
مریں گے اور قادیان کا طاعون سے استیصال نہ ہوگا۔ ”یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی  
انت منی وانا منک ظہورک ظہوری انت الذی طار الی روحہ انی انا اللہ  
ذوالجود والعطاء انزل الرحمة علی من اشاء والضحی..... الاولی واللہ لولا  
اکرام لهلك المقام۔ اکرام تسمع بہ الموتی۔ علمہ عند ربی لا یضل ربی  
ولاینسی لا تطاء قدم العامة قدم النبی بلغت قدم الرسول۔ انی علی کل شئ  
قدیر کل واحد منهم ثلج۔ انقلب۔ علی عقبیہ۔ لقد اثرک اللہ علینا۔ انی مع  
الرسول اقوم یدوم اجیب دعوة الداع۔ سلام علیک یاتیک تحائف کثیرة  
سننجیک سنعلیک سنکرمک اکراما عجبا عمرہ اللہ علی خلاف التوقع۔ امرہ  
اللہ علی خلاف التوقع۔ ءانت لا تعرفین القدیر۔ مرادک حاصل اللہ خیر



حافظا وهو ارحم الراحمين۔ خير لهم خير لهم شرفنا بكلام منا شرفنا  
 باكرام منا۔ سلام انى مبشر۔ ان الله معنا انى مع الله ان خير رسول الله  
 (عليه السلام) اقع ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سينالهم غضب  
 من ربهم يوم تاتي السماء بدخان مبين “يعنى قحط پڑے گا۔” ان خير رسول الله  
 واقع لا تحزن ان الله معنا۔ ان ربي كريم قرين انه فضل ربي انه كان بي  
 خفيا۔ انى معك يا ابراهيم لا تخف صاقت قولى۔ سينالهم غضب من ربهم  
 افمن يجيب المضطر اذا دعاه قل الله ثم ذرهم من كان فى نصرة الله كان الله  
 فى نصرته۔ لكم البشرى فى الحيوۃ الدنيا والضحى..... ما قلى انى معك ومع  
 اهلك انى معك يا ابراهيم۔ انى مبارك ما بقى لى هم بعد ذلك انى انا الرحمن  
 لا يخزى عبدى ولا يهان عشقك قائم ووصلك دائم۔ من عاد اوليالى فکانما  
 خرمن السماء انى موجود فانتظر لا يهد بناؤك وتوتى من رب كريم  
 وضعنا..... ذكرك قذف فى قلوبهم الرعب وعد غير مكذوب۔ انما صنعوا كيد  
 ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ انت منى بمنزلة روحى۔ انت منى بمنزلة  
 النجم الثاقب۔ جاء الحق وزحق الباطل۔ يا ايها النبى اطعموا الجائع  
 والمعتر “جلسہ پر کچھ بھوکے رہ گئے تو آپ نے البہام پا کر ان کو پھر کھانا کھلوايا۔” انى معك  
 ومع اهلك انى معك فى كل حال وعند كل مقال۔ انت معك فى كل موطن نصر  
 من الله وفتح قريب وهم من بعد غلبهم سيغلبون واما نرينك بعض الذى  
 نعدهم اونتو فينك نصركم الله نصرا۔ انى معك يا ابراهيم۔ انى معك ومع  
 اهلك هذه ملعونين اينما ثقفوا اخذوا۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله يا  
 مسيح الله عدوانا ظفركم الله ظفرا مبينا۔ انا فتحنا لك فتحا مبينا“

### البہام عربى پر تنقيد

..... ان البہامات میں ملہم نے کوشش کی ہے کہ حضور ﷺ کے اسماء صفاتی کے  
 مقابلہ میں اپنے بھی نو دو نہ نام پیش کرے۔ اگر کوئی تاڑ جائے گا تو کہہ دیں گے کہ میری ہستی  
 درمیان میں نہیں یہ محمد ثانی کے ہی نام ہیں۔ یہ بہانہ وحدت وجودیوں نے خوب نکالا ہوا ہے۔ مگر  
 اہل حق اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسے بہانوں کی تردید میں تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔  
 اگر مسلمان پھر وہی مشرکانہ تعلیم پھیلانے لگے تو اسلام اور کفر میں کیا فرق رہا اور بت پرستی اور خدا

پرستی میں کس طرح امتیاز ہو سکے گا۔

۲..... قابل شرم ایک اور یہ بھی بات ہے کہ الہامی عربی جس میں کہ قرآنی آیات سے قطع و برید نہیں کی ایسی کمزور یا غلط ہے کہ کوئی عربی تعلیم یافتہ اپنی زبان پر نہیں لاسکتا اور ”کلمو الناس علی قدر عقولہم“ کے مطابق خدا مجبور ہو گیا تھا کہ وہ تھرڈ کلاس عربی میں الہام بھیجے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو عربی میں نطق کرنے کی ابھی لیاقت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ سوچ سے کام لیتے تو پہلے فصیح عربی کی لیاقت پیدا کر لیتے۔ تب الہام شروع کرواتے۔ اب کیسی شرم کی بات ہے کہ خدا کو بھی غلط گویا نا آموز ثابت کر دکھلایا ہے اور اپنی لیاقت کا بجز خود ہی ادھیڑ ڈالا ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ یہ سلسلہ شروع ہی نہ کرتے۔

۳..... تابعدار کہتے ہیں کہ جو اعتراض اس عربیت پر پڑتے ہیں وہی قرآن شریف پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ مگر ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ خیال صرف ان لوگوں کا ہے جو خود عربیت سے پوری واقفیت نہیں رکھتے اور نیم ملا بن کر خطرہ ایمان ثابت ہو رہے ہیں۔ ورنہ یہ عربیت یوں کہنے پر اہل علم کو مجبور نہیں کرتی کہ اگر آپ کو عربی لکھنا نہیں آتا تھا تو کیوں عربی الہام وغیرہ لکھنے بیٹھ گئے؟ سمرقندی مسیح اور عربی الہام؟ پھر لکھتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ مشتبہ ہے۔ فلاں کے معنی نہیں آتے۔ سمجھ میں کیا آئے خاک؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ سمرقند سے ہند میں آئے۔ آپ کو پشتہا پشت ہو گئیں۔ (دیکھو سلسلہ نسب مرزا) مادری زبان تو اس طرح گئی، عربی میں جو لیاقت ہے وہ ناظرین خوب جانتے ہیں۔ پہلے ان کے خدا نے عربی میں الہام اتارا (عظم عظم عظم) تو آپ بہت پریشان ہوئے تو اب ان کے خدا کو بھی بڑی مشکل درپیش آئی۔ کیونکہ جو زبانیں مرزا قادیانی جانتے ہیں وہ خدا نہیں جانتا۔ (معاذ اللہ) اور جس زبان میں الہام ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی کی سمجھ نہیں آتا وہ بھی آخر خدا تھا۔ اس نے ایک نئی زبان ایجاد کر ڈالی جس کا نام ”قادیانی عربی“ تجویز ہوا۔ بظاہر وہ عربی نما تھی۔ لیکن معانی جو مرزا قادیانی کریں وہی صحیح ہیں اور وہ یقیناً خدا ہی کے سکھائے ہوئے معانی ہوتے تھے۔ اب مرزا قادیانی رہے نہیں دنیا بھر میں کوئی اور شخص یہ زبان جانتا نہیں ہم یہ تعلیم کس سے حاصل کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح مرزا قادیانی نہیں رہے ان کی زبان نہ رہی۔ اسی طرح ان کا مذہب بھی باقی نہیں رہے گا۔ انشاء اللہ!

اردو الہام

اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیرا پڑ جاتا۔ تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور

وہ تجھے برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بست ویک روپیہ آنے والے ہیں۔ بست ویک روپیہ آئے ہیں۔ ایک مقدمہ درپیش تھا۔ مجھے الہام ہوا کہ ڈگری ہوگئی۔ مگر لوگ نہ مانے۔ مجھے بھی شک ہوا تو خدا نے کہا کہ تو مسلمان ہے؟ تو میں نے یقین کر لیا۔ وید گمراہی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر تمام لوگ منہ پھیر لیں تو میں زمین کے نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے مدد کر سکتا ہوں۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی برائیوں کا وبال جلد تر اسے (مرزا نظام الدین کے) درپیش ہے۔ اس سفر (موضع کبجراں ضلع گورداسپور) میں تمہارا یا تمہارے رفیق کا کچھ نقصان ہوگا۔ (تو حامد علی کی چادر اور ہمارا رومال کھویا گیا) پٹیا لہ سے واپس آئے تو الہام ہوا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا اور کچھ ہم غم پیش آئے گا۔ چنانچہ ٹکٹ لینے لگے تو رومال ندارد موضع دوراہہ کے سٹیشن پر پہنچے تو ہمیں لدھیانہ بتایا گیا۔ اتر پڑے تو گاڑی چلی گئی۔ دیکھ میں محمود دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں۔ (پچاس روپے کی ضرورت تھی قادیان سے بنالہ کی طرف تین میل کے فاصلہ پر نہر کے کنارہ پر جا کر دعاء کی تو الہام ہوا اور دوسرے دن روپے مل گئے) یہود اسکر یوٹی، لوگ آئے اور اس کو پکڑ بیٹھے شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ آریوں کا بادشاہ آیا ہے، کرشن جی رو در گوپال، خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ آگ سے ہمیں مت ڈرا۔ آگ ہماری بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ۔ خدا تین کو چار کرے گا۔ ایک امیر نوراورد پنجابی الاصل کی نسبت متوحش خبریں۔

### نصف ثانی

ماجھے خان کا بیٹا شمس الدین پٹواری ضلع لاہور سے بھیجنے والے ہیں۔ تیرے سفر کو (جو ہوشیار پور اور لدھیانہ میں واقع ہوا) میں نے مبارک کر دیا۔ تجھے قربت کا نشان دیا جاتا ہے۔ فتح و ظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام تاکہ اسلام کا شرف ظاہر ہو۔ تجھے بشارت ہو کہ تجھے ایک وجیہ اور ایک پاک لڑکا دیا جائے گا۔ ذکی غلام (بیٹا) تجھے ملے گا۔ وہ تیرے ہی تخم سے ہوگا۔ تمہارا مہمان آتا ہے۔ اس کا نام عنموائیل اور بشیر بھی ہے۔ اسے مقدس روح دی گئی۔ رجس سے پاک ہے نور آلہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ مسیح نفس سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کر دے گا۔ کلمۃ اللہ ہے۔ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ دل کا حلیم علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دو شنبہ ہے۔ مبارک دو شنبہ فرزند دلندہ گرامی ارجمند مظہر الاول والاخر مظہر الحق و العلاء کان اللہ نزل من السماء جس کا نزول مبارک اور موجب ظہور جلال الہی ہوگا۔ نور آتا ہے نور۔ جس کو خدا

نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ جلد بڑھے گا۔ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ تو میں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اسے اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ ”وکان امر اللہ مقضیا“ تیرا گھر برکتوں سے بھرے گا۔ خواتین مبارکہ سے تیری نسل بہت ہوگی۔ نسل بہت بڑھاؤں گا۔ کچھ بچپن میں بھی مرے گی۔ تیری نسل ملکوں میں بھی پھیل جائے گی۔ تیرے جدی بھائیوں کی ہر ایک شاخ کاٹی جائے گی۔ تو بہ نہ کریں گے تو بہت نابود ہو جائیں گے۔ رجوع کریں گے تو خدا رحم کرے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی۔ تیرے نام انقطاع دنیا تک عزت کے ساتھ قائم رکھے گا۔ تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دوں گا۔ تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھائے گا۔ جو تیری ذلت اور تباہی کے خواہاں ہیں وہ خود نامرادی میں مرے گی۔ خدا تجھے بلکی کامیاب کرے گا۔ تجھے ساری مرادیں دے گا۔ میں یہ خالص محبوبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا۔ ان کے مال و جان میں برکت ہوگی۔ منکروں پر غالب رہیں گے تو مجھے ایسا ہے کہ جیسے انبیاء بنی اسرائیل۔ بادشاہوں اور امیروں کے دل میں تیری محبت ڈالے گا اور وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

اے منکرو! اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو تو اس نشان رحمت کی مانند تم بھی دکھاؤ۔ ”فان لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ نازل من السماء ونزل من السماء“ (پہلے نو برس کی خبر ملی تھی اب نو ماہ کی خبر ملی ہے مگر جو لڑکا آئیے اللہ ہو گا وہ معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوگا) اکیس ماہ تک ان پر (یعنی مرزا امام الدین و نظام الدین) پر ایک سخت مصیبت پڑے گی۔ (تو نظام الدین کی لڑکی پچیس سالہ مرگئی) ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا۔ جس کا نام محمود ہے اور وہ اولوالعزم ہوگا۔ پاس ہو جائے گا (تو میرا بیٹا تحصیلداری میں پاس ہو گیا) دشمن کا بھی خوب وار نکلا۔ (بشیر کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی تو لوگوں نے نحول کیا تھا) جب کفار کو جس شرابریہ ذریعہ الشیطان وغیرہ کہا گیا تو ابوطالب کو دشنام دہی سے روکا۔ مگر حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ اظہار واقعہ ہے۔ دشنام نہیں، تو مدد چھوڑنے کو تھا۔ مگر آب دیدہ ہو کر پھر آمادہ ہو گیا۔ ان علماء نے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں۔ میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ (مراد اس زمانہ کے مولوی ہیں) نبی ناصر کے نمونہ پر اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بندگان خدا کو زیادہ صاف کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ کہ جسمانی بیماریوں کو صاف کیا گیا ہو۔ (۱۸۹۲ء) اب اے مولویو! اے محل کی سرشت

والو اگر طاقت ہے تو خدا تعالیٰ کی ان پیشین گوئیوں کو نال کر دکھلاؤ۔ ہر ایک قسم کے فریب کام میں لاؤ اور کوئی فریب باقی نہ رکھو۔ پھر دیکھو کہ خدا کا ہاتھ غالب رہتا ہے یا تمہارا۔ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا۔ تیرے آثار میں برکت رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ۔

چل رہی ہے نسیم رحمت کی  
جو دعاء کیجئے قبولی ہے آج

سید محمد حسین وزیر پٹیالہ غم میں مبتلا تھے تو میری دعاء سے رہائی ہوئی۔ (۱۸۹۳ء)  
۲۰ فروری ۱۸۹۳ء سے چھ برس تک یہ شخص لیکھ رام اپنی بد زبانوں کی سزا میں جو حضور ﷺ کے حق میں کی ہیں۔ شدید مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ (یہ الہام میرا معیار صداقت ہے) ۷ مارچ ۱۸۹۷ء کو بمقام لاہور وہ قتل ہو گیا۔ اس بحث میں جو فرق عمداً جھوٹ اختیار کر رہا ہے پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور دوسرا فریق عزت پائے گا اور بعض اندھے سو جاکھے کئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔  
عبداللہ آتھم پنشنر کو جب یہ الہام دس بجے جلسہ گاہ میں سنایا گیا تو ڈر کر کہنے لگا کہ میں حضور ﷺ کو مفتری اور دجال نہیں سمجھتا۔ اس لئے تاخیر سے مستفید ہوا۔ پھر جب عیسائیوں نے برا بیچتہ کیا اور اس نے چار ہزار روپے دینے تک بھی اظہار خوف نہ کیا تو ایک سال تک مر گیا۔ جنگ مقدس سے پہلے ڈاکٹر ہنری مارٹن کو مبالغہ کی دعوت دی اور کہا کہ مسیح انسان تھے مگر سچے مرسل برگزیدہ نبی بھی تھے جو مسیح کو دیا گیا۔ وہ بتا بعت حضور ﷺ تھے دیا گیا اور تو مسیح موعود ہے اور تیرے پاس ایک نورانی حر یہ ہے جو ظلمت کو پاش پاش کرے گا اور صلیب توڑے گا۔ مگر عیسائی مقابلہ پر نہ نکلے۔  
(۱۸۹۳ء) مسیح موعود کی روحانی لڑائیاں ہیں۔ آتھم نے مہلت پائی تو سعد اللہ نے استہزاء کا اشتہار دے کر دجال کہا تو مجھے الہام ہوا کہ اے عدو اللہ تو مجھ سے نہیں خدا سے لڑ رہا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ: "ان شانك هو الابرار" تو سعد اللہ جنوری ۱۹۰۷ء میں پلیگ سے مرا۔ جب کہ وہ اپنے پندرہ سالہ لڑکے کی شادی میں مصروف تھا اور وہ لڑکا لا دل رہا۔ اگر آتھم اپنے دعویٰ میں سچا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ عمر پائے گا۔ جھوٹا ہے تو جلد مر جائے گا۔ (۱۸۹۵ء) "یوم یقوم الروح والملئكة" میں روح سے مراد رسول اور محدث ہیں۔ جن پر روح القدس ڈالا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہوتے ہیں اور بحاورہ قرآنی روح بمعنی ارواح ہے۔ نور القرآن لکھی تو عماد الدین پادری کے متعلق الہام ہوا تو اس کی مثل پر قادر نہیں ہوگا۔ خدا تجھے عاجز اور رسوا

کرے گا۔ تیری قوم تجھ سے متفق بھی ہو جائے۔ مگر آخر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ نور الحق کے متعلق الہام ہوا۔ کافر اور مکفر اس پر قادر نہ ہوں گے کہ اس کتاب کی مثل نثر اور نظم معہ التزام معارف و احکام تالیف کر سکیں۔ کسوف و خسوف کی تشریح بذریعہ الہام ہے۔ کرامات الصالحین میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ مکفرین کے مقابلہ پر ایک ہفتہ میں لکھی گئی ہے اور ان کو ایک ماہ کی بھی مہلت دی۔ مگر وہ قاصر رہے۔ (۱۸۹۶ء) جلسہ مذاہبہ، لاہور میں، ہوا تو الہام ہوا کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا۔ نیک اور ابرار کے درجات، اخروی کی تشریح (۱۸۹۷ء) پھر ایک دفعہ ہندو مذہب کا رجوع اسلام کی طرف بڑے زور کے ساتھ ہوگا۔ خدا کا یہی ارادہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا۔ وہ کاٹا جائے گا۔ بادشاہ، یا غیر بادشاہ۔ سلطان روم کی حالت اچھی نہیں ارکان کی حالت اچھی نہیں۔ میرے نزدیک انجام نہیں۔ تم پاس ہو گئے ہو۔ (مرزا یعقوب بیگ نے آخری امتحان دیا تو یہ الہام ہوا تھا) میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ (۱۸۹۹ء) خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھائے اور تیرے نام کی چمک آفاق میں دکھائے۔ آسمان سے کئی تخت اترے۔ مگر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ دشمنوں سے ملاقات کرتے وقت ملائکہ نے تیری مدد کی۔ قیصر ہند کی طرف سے ایک شکر یہ یہ منشا بہات ملے سے ہے۔ مبشروں کا زوال نہیں ہوتا۔ گورنر جنرل کی پیشین گوئیوں کے پورے ہو۔ کا وقت آ گیا۔ (۱۹۰۰ء) مبارک وہ آدمی جو اس دروازہ کی راہ سے داخل ہو۔ (مراد ایوب بیگ کی وفات)۔

قادر کے کاربار نمودار ہو گئے

کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے

کافر جو کہتے تھے وہ گنونسار ہو گئے

جتنے تھے سب کے سب ہی گرفتار ہو گئے

(مراد اتمام حجت ہے) اچھا ہو جائے گا۔ مراد نور محمد مالک ہمد۔ (۱۹۰۰ء) آج سے

یہ شرف دکھائیں گے ہم۔ اگر یہ جزر ہی سب کچھ رہا ہے۔ (مراد تقویٰ ہے) سب سے بہتر اور تیز

تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے۔ یعنی سیف یا حربہ قلم۔ حقیقت میں ہزار سالہ موت

کے بعد جو اب احیاء ہوا ہے۔ اس میں انسانی ہاتھ کا دخل نہیں۔ یعنی جیسے مسیح بن باپ پیدا ہوا اور

اس کی حیات میں کسی انسان کو دخل نہ تھا۔ ویسے ہی یہاں بدوں کسی استاد یا مرشد کے خدا نے

روحانی زندگی عطا کی۔ فریمین مسلط نہیں کئے جائیں گے کہ اس کو ہلاک کریں۔ پوڑی یعنی روح

آسمانی آئی اور آسمان پر ہی جائے گی۔ عدالت عالیہ سے اسے بری کیا ہے۔ نواب مبارک بیگم یعنی

مبارکہ بیگم نواب سے بیاہی گئی۔ اس کتے کا آخری دم ہے۔ افسوس صد افسوس۔ نتیجہ خلاف مراد ہوا یا نکلا۔ آخری لفظ یاد نہیں رہا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے۔ (۱۹۰۳ء) اے ازلی ابدی خدا بیڑیوں کو پکڑ کے آ (یعنی میری مدد کر) استقامت میں فرق آ گیا۔ طاعون کا دروازہ کھولا گیا۔ آثار صحت (معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے) مجموعہ فتوحات بلایا نازل یا حادث یا (معلوم نہیں کہ یا کے بعد کیا تھا) عنقریب ایسا ہوگا کہ شریر لوگ جو رعب داب رکھتے ہیں کم ہوتے جائیں گے۔ عرب کی خبر گیری کرو اور ان کو راہ بتاؤ۔ خدا کی پناہ میں عمر گزارو۔ کابل سے کاٹا گیا اور سیدھا ہماری طرف آ گیا۔ قریب ہے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ دیکھا جائے گا اور جو اسے معدوم کرنا چاہے گا اس کا نام نہ رہے گا۔ یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یاد رکھو آسمان سے کوئی نہیں اترے گا۔ تمہاری اولاد اولاد بھی عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی تو لوگ گھبرائیں گے کہ صلیب کا غلبہ بھی گزر گیا مسیح کیوں نہ اترے۔ آج کے دن سے تیسری صدی ابھی پوری نہیں ہوگی کہ لوگ اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔

دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا (یعنی میں اور میری تعلیم) میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں۔ اب وہ تخم بڑھے گا پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ جس مذہب میں خدا کے ساتھ مکالمہ نہیں وہ مذہب مردہ ہے۔ ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہوں گے کہ آریہ مذہب کو نابود ہوتے دیکھ لو گے۔ تم خوشی سے اچھلو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ گالیاں سنو چپ رہو۔ ماریں کھاؤ۔ صبر کرو۔ بدی کے مقابلہ سے حتی المقدور پرہیز کرو۔ کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ عبداللطیف کا خون کیسے کیسے پھل لائے گا۔ عبدالرحمان مارا گیا تو خدا چپ رہا۔ مگر اب چپ نہیں رہے گا۔ اس نادان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم کو قتل کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اے بد قسمت زمین کابل تو خدا کی نظر سے گر گئی۔ آگ سے ہمیں مت ڈرا۔ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام۔ (۱۹۰۴ء) ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت۔

خدا تیری ساری مراویں پوری کرے گا۔ بہت حادثات اور عجیب کاموں کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔ (۱۹۰۵ء) خاکسار پیپر منٹ ماتا موتی لگ رہی ہے۔ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ چوہدری رستم علی۔ موت دروازہ پر کھڑی ہے۔ ہم نے وہ جہان چھوڑ دیا ہے۔ (یہ روح کی آواز ہے) ہے سر راہ پر تمہارے وہ جو ہے مولا کریم۔ بھونچال آیا اور بڑی شدت سے آیا۔ بادشاہ وقت پر جو تیر چلاوے اسی تیر سے وہ مارا جائے۔ کیا عذاب کا معاملہ درست ہے اگر درست ہے تو کس حد

تک۔ عبدالقادر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، مضر صحت، خدا نے اس کو اچھا کرنا ہی تھا بے نیازی کے کام ہیں۔ (باغ میں چار بیمار تھے ایک کی موت یقینی تھی مگر وہ بچ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی تقدیر اصلی طور پر مبرم نہ تھی ورنہ توجہ الٰہی صاحب الحال سے بھی نہ ملتی) محمد مفلح تیرے لئے تیرا نام چمکا، پہاڑ گرا تو جانتا ہے میں کون ہوں۔ میں خدا ہوں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ۴۷ سال کی عمر ان اللہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ اکبر زندہ گیوں کا خاتمہ۔ کبل میں لپیٹ کر صبح قبر میں رکھ دو۔ میں تیری جماعت کے لئے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ (۱۹۰۶ء) تین بکرے ذبح کئے جائیں گے۔ ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا۔ اٹھو نمازیں پڑھیں اور قیامت کا نمونہ دیکھیں۔ پہلے بنگال کی نسبت جو حکم جاری کیا گیا تھا۔ اب ان کی دلجوئی ہوگی۔ کرنسی نوٹ۔ دیکھو میرے دوستو۔ اخبار شائع ہو گیا۔ (اخبار سے مراد خبر ہے) بشیر الدولہ، دردناک دکھ اور دردناک واقعہ۔ میری بیوی یکا یک مر گئی۔ زلزلہ آنے کو ہے۔ پچاس یا ساٹھ نشان دکھلاؤں گا۔ کلیسیا کی طاقت کا نسخہ۔ کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں۔ اب تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ زندگی کے آثار (یہ سینٹھ عبدالرحمان مدراسی کا تار تھا) زلزلہ آنے کو ہے۔ ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ (معلوم نہیں کس کے متعلق ہے۔ باقی الہام بھول گیا آج کل کوئی نشان ظاہر ہوگا۔ خبر موت ۱۳ ماہ حال کو) (معلوم نہیں کس کے متعلق ہے) اے عبدالحکیم خدا تجھ کو ہر ایک ضرر سے بچاؤے۔ اندھا ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہونے سے قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بنا دے۔ بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ کمترین کا بیڑہ غرق ہو گیا۔ (کسی کی آواز ہے) تیری دعاء قبول کی گئی۔ (۱۹۰۷ء) روشن نشان۔ ہماری فتح ہوئی۔ تختہ الملوک۔ ہزاروں آدمی تیرے پیروں کے نیچے ہیں۔ دہلی میں واصل جنم واصل خان فوت ہو گیا۔ زلزلہ اس طرف چلا گیا۔ آج ہمارے گھر میں پیغمبر ﷺ آئے۔ آگئی عزت اور سلامتی۔ قبول ہوگئی۔ نودن کا بخار ٹوٹ گیا۔ (مراد مبارک احمد) ایک دباؤ پڑے گی۔

اردو الہام پر تنقید

..... ملہم کا خدا بھی فصیح اردو نہیں بول سکتا تھا۔ پنجابی نما اردو فقروں میں اپنے مطالب کا اظہار فرمایا ہے۔ شاید اس لئے کہ ملہم اہل تسوید میں سے نہ تھا تو بھلا ملہم کو سلطان القلم کا خطاب کیوں دیا جاتا ہے؟ غالباً اس لئے کہ غلط سلسلہ ایسی کتابیں اور سینکڑوں اشتہار لکھ مارے



تھے۔ مگر صرف لکھنے سے سلطان القلم کا خطاب نہیں مل سکتا۔ ورنہ ملاپ و پرتاپ اخبار کا ایڈیٹر بھی اس خطاب کا حقدار ہوگا۔

۲..... اردو الہامات میں مصائب کا ذکر بہت ہے اور زلزلوں کی بھرمار ہے اور کچھ اپنی کامیابی پر اظہار افتخار ہے۔ ورنہ ان میں کوئی روح صداقت نہیں ملتی۔ کیونکہ اس قسم کے گول مول الہام اور تعلق آئیز مضامین ان لوگوں کے تبلیغی رسائل میں بھی درج ہیں۔ جو آپ کے بعد نبوت کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔

۳..... مشکوٰۃ شریف کا آخری حصہ اٹھا کر مطالعہ فرمائیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شان نبوت یوں ہو کرتی ہے؟ اخبار بالغیب کس صفائی سے مذکور ہیں۔ علم ماکان و ماسیکون کا اظہار کس طرح کیا گیا ہے۔ الہامات قادیانیہ اور حضور کی اخبار بالغیب بالمقابل رکھ کر موازنہ کریں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ۔

شیر بر بی دیگر و شیر نیستاں دیگر است

دعویٰ تو یہ تھا کہ حضور جب قادیان میں کرشن اوتار بن کر آئے ہیں۔

تو آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں

مگر تجربہ نے ثابت کر دیا کہ یہ دعویٰ غلط تھا۔ زبانی باتیں ہی تھیں اور اس کرشن اوتار نے قلمی اور قوی میدان میں جو نظم و نثر کے گدھے ہانکے ہیں ان سے تو اس شہسوار میدان فصاحت رانض مضمار جوامع الکلم سیدنا و مولانا و امانا و طمانا صلی اللہ علیہ و سلم۔

ہزار بار بشوئم دہن بمشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

کے غبار کا تتبع بھی نہیں ہو سکتا۔ بھلا کہاں ایک پنجابی الفطرۃ مغل بچہ اور کہاں وہ باعث تخلیق عالم، اصح العرب صلوات اللہ علیہ۔

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک

اگر افسوس ہے تو ان مسلمانوں پر کہ جن کو عربی فارسی اور اردو میں ایک سطر بھی لکھنا یا سمجھنا نہیں آتا۔ وہ مفتی اردو بن کر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ تعلیم قادیانی اپنی فصاحت و بلاغت میں لا جواب ہے اور اس پر نکتہ چینی کرنا گویا نعوذ باللہ قرآن پر نکتہ چینی کرنے کے برابر ہے۔ یہ قول اگر مسلم الثبوت شخصیت کا ہوتا تو قابل توجہ بھی تھا۔ مگر اندھوں میں کانارا جا۔ اہل بصیرت مانیں تو کیسے مانیں؟ ”فذرہم فی طغیانہم یعمہون“

## پنجابی الہام

عشق خدا داوے سے مونہہ ولیاں ایہ نشانی (نصف ثانی) میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ ایسی آئی۔ جس نے ایہ مصیب پائی۔ (مراد مبارکہ بیگم) بیہوشی پھر غشی پھر موت۔ (جمعہ کے دن مہندی لگا کر بیٹھے تھے تو بوڑے خان قصوری کے متعلق خبر مرگ کا الہام ہوا) ہے رو دھر گو پال تیری است گیتا میں لکھی ہے۔

ناظرین! چند پنجابی فقرے الہام مرکب میں بھی گذر چکے ہیں۔ جن کو یہاں پر ملانے سے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ ہیر وارث شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی پنجابی نثر کا لگا کھا سکتے ہیں اور ملہم کو خود بھی اعتراف ہے کہ میری اصلی عرض شعر نہیں بلکہ اصل مقصد اپنی تبلیغی جدوجہد ہے اور یہ جس قدر الہامات کی صورتیں اختیار کی گئی ہیں ان سے صرف یہی غرض ہے کہ سامعین کو دلچسپی پیدا ہو۔ اصل میں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والا معاملہ ہے۔ کیونکہ ملہم کا خاندان عموماً شاعر ہے آپ بھی قبل از نبوت اشعار میں فرخ تخلص باندھ کر مجلس مشاعرہ میں حاضر ہوتے رہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آپ کونن شاعری میں پانسنگ مار کس بھی نہیں ملے تھے۔ لیکن آپ کی جدوجہد میں کوئی شک نہیں۔

## فارسی الہام

مخضے پائے من بوسید من گفتم کہ سنگ اسودم۔ بحسن قبولی دعاء بنگر کہ ز چہ زود دعاء قبول میکنم۔ از بردیش محمد احسن را۔ تارک روزگار مے پنم۔ تہیدستان عشرت را۔ (لدھیانہ کے سفر میں امام نبی شریک جائیداد کے متعلق الہام ہوا کہ) نصف ترانصف عمالیق را۔ (تو وہ مرگئی اور ہمیں اس کی نصف جائیداد مل گئی) عبداللہ سنوری کی منگنی چھوٹی تو الہام ہوا۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

طریق زہد و تعبد نام اے زاہد خدا اے من قدمم راندہ برہ داؤد۔

## نصف ثانی

ہرچہ باند نو عروسی را ہماں ساماں کنم

آنچہ مطلوب شما باشد عطائے آں کنم

(تو خاندان میر درد میں میری دوسری شادی ہوئی) (۱۹۰۱ء)

سال دیگر را کہ مے داند حساب

تا کجا رفت آنکہ باما بود یار

سلامت بر تو اے مرد سلامت۔ السلام علیکم۔ سلطان القلم۔ دلم مے بلرز دچو یاد آورم۔

مناجات شوریدہ اندر حرم۔ شوریدہ سے مراد دعاء کرنے والا ہے۔ اور حرم سے مراد غالباً قادیان ہے۔ راہگرائے عالم جاودانی شد۔ سرانجام جاہل جنہم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود۔ (۱۹۰۳ء) عمود صحت (یہ الہام درد گردہ کے بعد ہوا) خوش باش کہ عاقبت نکو خواہد بود۔ (۱۹۰۴ء) رسید مژدہ کہ ایام نو بہار آمد۔ (۱۹۰۵ء) شکار مرگ۔

امن است در مکان محبت سرائے ما

تو در منزل ما چو بار بار آئی۔ خدا بر رحمت بہار دیدیانیے رسید مژدہ کہ آں یار دلپسند آمد۔ رسید مژدہ کہ دیوار از میاں برخاست۔ دست تو دعائے تو رحم از خدا۔ (۱۹۰۶ء) تزلزل در ایوان کسری فتاد (یعنی شاہ ایران تخت سے اتارا گیا)۔

چو دور خسروی آغاز کردند  
مسلمانا مسلمان باز کردند

خدا قاتل تو باد۔ مرا از دست تو محفوظ دارد۔ (۱۹۰۷ء) آید آں روز یکہ متخلص شود۔ ناظرین! ان الہامات کو کتاب ایقان مؤلفہ بہاء اللہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت بہاء سے بہترین اور فصیح فارسی میں کلام کیا ہے یا مرزا قادیانی کو معمولی ابجد خوانی فارسی میں ٹال دیا ہے۔ کیونکہ آپ کو ذاتی قابلیت نہ تھی اور مسلم الثبوت استاد فن تسلیم نہ ہو چکے تھے۔ غرضیکہ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملہم کی لیاقت کے مطابق الہام ہوتے ہیں اور الہام کی شان سے ملہم کی شان نظر آتی ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ الہام بازی میں اپنے مرشد (حضرت بہاء) کے مقابلہ پر مرزا قادیانی اعلیٰ نمبر نہیں لے سکے۔ باقی رہی شان رسالت تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ملہم کو خدا تعالیٰ خود تعلیم دیتا ہے۔ وہ کسی مکتب میں الف بے بھی نہیں پڑھتے اور خدائی تعلیم سے اس قابل ہو جاتے ہیں اور ایسے قابل ہو جاتے ہیں کہ اعجازی کلام اور لائٹانی الہام ان کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ جس کو وہ خود بھی سمجھتے ہیں اور دور حاضر کے فصحاء قوم اس کے سامنے ہتھیار ڈال کر کہہ دیتے ہیں کہ: ”ما هذا قول البشر“ اور کسی کو اس وقت جرأت نہیں ہوتی کہ اس کلام کا ایک حرف بھی بے موقع ثابت کرے یا اس میں ادبی غلطی دکھائے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آج کل کے جاہل دشمنان اسلام جو خود عربیت میں فیل ہیں۔ نکتہ چینی کرنے لگ جائیں۔ مگر ایسے لوگوں کو ”فخیر من اجابته السکوت“ کہہ کر دفع کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے یہ پتہ نہیں دیا جاسکتا کہ اگر قادیانی الہام پر نکتہ چینی ہوئی ہے تو کی اور مدنی الہامات پر بھی نکتہ چینی ہو چکی ہے۔ ”فشتان ما بین العراق ویشرب“

## انگریزی الہام

- .....۱ ڈوال مین ہڈی اینگری بٹ ڈاڈ از ودہ یو۔ ہی شیل ہلیپ یو۔ ورڈز اوف گاڈ کین ناٹ ایکس چینج۔ آئی لو یو۔ آئی شیل گو یو اے لارج پارٹی اوف اسلام۔
- .....۲ آئی شیل ہلیپ یو۔ یو ہیو گوٹو امر تر۔ ہی ہیلٹس ان دی ضلع پشاو روڈ اینڈ ٹو گرلز۔ لائف۔

.....۱ معلوم ہوتا ہے کہ ملہم کا خدا مجبور تھا کہ انگریزی میں شیکسپیر کے ڈرامے نازل نہ کرتا۔ کیونکہ ملہم سمجھنے کی قابلیت نہ رکھتا تھا۔ صرف دو ہی انگریزی کی کتابیں پڑھی تھی اور یہ الہام بھی بعض دفعہ ایسے مشکل نظر آتے تھے کہ ان کا ترجمہ کرانے کو آریہ دوستوں سے مدد لینی پڑتی تھی۔ اسی اصول سے معلوم ہو سکتا ہے کہ پہلے ملہم کو اعلیٰ قابلیت پر قابض ہونا ضروری ہے ورنہ الہامات تھرد کلاس ہی نازل ہوں گے اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملہم کا ذاتی کلام بھی کس پایہ کا ہوگا۔

## قیاس کن زگلستان من بہار مرا

.....۲ اس موقعہ پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی الہام مختلف زبانوں میں کیوں ہو گئے۔ اگر یہ خیال تھا کہ: "لیظہرہ علی الدین کلہ" کے ماتحت میں ہر رنگ کے الہام کا نازل ہونا ضروری ہے تو کشمیری، گجراتی، سندھی اور پنجاب کی باقی زبانوں میں الہام کیوں نہ ہوئے۔ کیا یورپ کی زبان صرف انگلش ہی رہ گئی تھی اور وہ بھی صرف بچوں کے فقرے جرمنی، فرانس، اٹلی، روس، چین، جاپان، ٹرکش وغیرہ کی زبانیں کہاں گئیں؟ کیا ان میں تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی؟ شاید ان الہامات کو ام الالسنہ کے الہام تصور کر لیا ہوگا۔ اگر یہی بات ہے تو ان لوگوں کو ہی سلامت رہیں جو عقل کے اندھے اور گانٹھ کے ڈھیلے نظر آتے ہیں۔ ورنہ ارباب دانش و بینش اس جہل مرکب میں پھنس نہیں سکتے۔ یا صفرء یا بیضاء وغیرہ وغیرہ۔

## ۲۷..... مرزا سیت اور اہل اسلام میں فرق

جب تک مسیح قادیانی براہین احمدیہ کی چار جلدیں ختم نہ کر چکے تھے۔ آپ بحیثیت مبلغ اسلام اور خادم دین کے اسے پیش کرتے رہے اور اہل علم نے آپ کو صوفی اور فلاسفر اسلام سمجھ کر اتنا بڑھا دیا کہ آپ کے الہامات مندرجہ براہین کی بھی وہی تاویل میں لگے جو دوسرے صوفیوں کے الہام اور شطیحات کی کیا کرتے ہیں اور آپ کے متعلق سادہ مزاج صوفیوں نے خوابین بھی دیکھنی شروع کر دیں۔ صرف اس لئے کہ آپ نے ابھی اپنا وہ راز جس کے لئے یہ

تمام جال بچھایا تھا ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی عہدہ کے مدعی تھے۔ چنانچہ اسی لاعلمی میں لوگوں نے ان کو صوفیاء کی صف میں لاکھڑا کر دیا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا کارثواب سمجھا۔ چالاک قادیانی نے جب اسلامی طبقے کا یہ رنگ دیکھا تو اپنی غیر معمولی عیاری سے کام لے کر لدھیانہ میں بنیادی پتھر رکھ کر اپنی بیعت لینی شروع کر دی۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ ہزار ہا مسلمان آپ کے مرید ہو گئے اور آپ کی ہر دلچیزی میں دن دو گئی رات چو گئی ترقی ہوتی گئی۔ جناب یہ سنہری موقعہ کب ہاتھ سے دینے لگے تھے۔ فوراً غنیمت سمجھ کر اپنے دعاوی کو ایک دوسرے سے وابستہ کر کے غیر متناہی سلسلہ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان ان نھلی صوفی صاحب کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کر نہایت ہی متحیر ہوئے اور زبان حال وقال سے بہتیرا سمجھایا بچھایا۔ لیکن جناب نے جلتی پرتیل کا کام کرتے ہوئے ۱۹۰۱ء میں محمد ثانی کا دلخراش دعویٰ پیش کر دیا۔ بس پھر کیا تھا ملک بھر سے آپ کا اعتماد اٹھ گیا۔ بیگانے تو رہے بیگانے ان کے اپنے سگے لڑکے سلطان احمد نے وہ وہ ہاتھ دکھائے کہ ساری جماعت کے چھکے چھوٹ گئے۔ ہندوستان بھر میں بہت سے مناظرے کئے۔ لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو نبی ثابت نہ کر سکے۔ سینکڑوں پیشین گوئیاں کیں۔ لیکن ایک بھی پوری نہ ہوئی۔ ہزاروں الہام لکھے مگر ایک بھی سچا ثابت نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۸ء میں بمقام لاہور حضرت پیر جماعت علی شاہ مدظلہ العالی کی بددعاء سے مرض ہیضہ سے وفات پائی۔ آپ کی لاش بقول ان کے دجال پر سوار کر کے قادیان پہنچائی گئی۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ کیا جناب اس اصول کی رو سے کاذب ثابت نہیں ہوتے؟ کیا مرزائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟

وفات مسیح کے بعد خلافت اول کا اثر نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوا تھا۔ مگر خلافت ثانیہ میں پیغامی جماعت (لاہوری) الگ ہو گئی اور اپنے مرشد کو اس قدر نہ بڑھایا کہ مستقل نبی بنا کر پیش کریں۔ مگر قادیانی جماعت نے بھی تشدد سے کام لیا اور جس تشدد کو مسیح نے شروع کیا تھا اسے تکمیل تک پہنچا دیا۔

پدر اگر نتو اندپر تمام کند

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزائی تعلیم اسلامی تعلیم سے الگ نظر آنے لگی اور کئی وجوہات سے ایک دوسرے کی تکفیر و تلقین کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ مذہب قادیانی نے اپنے خیالات کا نام اسلام جدید رکھ لیا ہے اور اسے اسلام کارون پہلو بتانے لگ گئے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلیم نے گو قرآن و حدیث کو تو قابل عمل لکھ کر اپنے مذہب کا

نام اسلام ہی رکھا ہوا ہے۔ مگر اہل بروزی کی طرح عملی طور پر یہ بتا دیا ہے کہ چودھویں صدی کے اوّل قرآن وحدیث کا مفہوم کچھ اور تھا اور بعد میں دوسرا ہو گیا اور اس تبدیلی کا حق سوائے امام الزمان کے کسی کو نہیں پہنچتا۔ اس لئے امام الزمان ونبی اللہ ماننا پڑے گا اور چونکہ یہ شریعت ناقابل تنسیخ ہے۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ مسیح کو ثانی اور حضور انور کا ہی اتار مانا جائے۔ گویا حضرت محمد ﷺ نے ہی قرآن وحدیث کے مفہومات سابقہ کو منسوخ کر کے نئے مفہومات کو واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ بنا بریں ہمارا فرض ہے کہ ناظرین کے سامنے ان کے چند ایک ایسے عام خیالات پیش کریں جو اہل اسلام کے خلاف قادیانی مذہب میں موجود ہیں۔

### وجوہات تفرقہ

۱..... الفضل ۱۱ مارچ ۱۹۳۰ء میں ہے کہ: ”عبادات میں روح باقی نہ رہی تھی۔ حضور ﷺ کی روح بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس لئے مسیح کی ضرورت محسوس ہوئی۔“ تعلیمات بہائیہ میں بھی یہی عذر کیا گیا ہے کہ دنیا مر چکی تھی تو بہاء اللہ نے قیامت بپا کر کے ازسرنو روحانی زندگی عطاء کی ہے۔ مگر قادیانی تعلیم میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور ﷺ کو بھی مسیح نے محمد ثانی بنا کر ازسرنو زندہ کر دکھلایا ہے اور مریدوں کو صحابہ کا درجہ دے کر خلافت راشدہ قائم کی ہے۔ لیکن اسلام اس نقل وحرکت کو بنظر تحسین نہیں دیکھتا۔

۲..... ریویو جون ۱۹۲۹ء میں ہے کہ: ”ان کے مسیح کا ذہنی ارتقاء حضور ﷺ سے بھی بڑھ کر تھا۔ کیونکہ آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقعہ نہیں ملا تھا اور چونکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ اس لئے حضور ﷺ کی توہین نہیں ہوتی۔“ مگر اہل اسلام یہ لفظ سننے کو کبھی تیار نہیں اور جن لفظوں سے ان کی اشک شوئی کی ہے وہ بالکل ہی فضول ہیں۔ کیونکہ مسیح قادیانی کی شخصیت کا ارتقاء تجربہ کے بعد خود قادیانیوں کی زبان سے معلوم ہو چکا ہے کہ بالکل ناقص تھا۔ کیونکہ آپ نے کئی جگہ غلطی کی ہے اور کئی عقائد تبدیل کئے ہیں تو پھر اہل اسلام ایسے ناقص التعلیم کو حضور ﷺ کا ثانی یا حضور سے بڑھ کر ماننا تو بجائے خود سننے کے لئے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟

۳..... (انوار خلافت ص ۶۰) میں ہے کہ: ”جو شخص میری (میاں محمود) کی گردن پر تلوار رکھ کر کہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے۔“ اس مقام پر اجرائے نبوت کی توثیق کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو کاذب لکھ دیا ہے۔ کیونکہ کسی مسلم کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا۔

۴..... (آئینہ صداقت ص ۲۹) میں ہے کہ: ”جو مسیح قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں

وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگرچہ اس نے ابھی تک نام بھی نہ سنا ہو۔“ یہ بروزی نبوت اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اس نے سب کے سینہ پر مونگ دل دیئے ہیں۔ اس کا جواب تو مخالفین کی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ مگر اس عذر کی اصلیت ضرور معلوم ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ جس قدر کافر ہوئے ہیں مسیح کو نہ ماننے سے کافر ہوئے ہیں۔

.....۵ ”کوئی احمدی غیر احمدی کو لڑکی نہ دے۔“ (انوار خلافت ص ۹۰) تو پھر کیوں یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ اہل اسلام کی لڑکیاں ان کے گھر ہوں۔

.....۶ مسیح قادیانی اس لئے آیا ہے کہ مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارے۔ (عرفان الہی ص ۹۴) اور اس زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کو سولی پر لٹکائے۔ (تقدیر الہی ص ۲۹) ناظرین غور کریں کہ مخالفین کی طرف سے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟

.....۷ جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ (انوار اسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱) کیا ایسی ہستی محمد ثانی بن سکتی ہے؟ نفوذ باللہ!

.....۸ غیر احمدیوں کا بچہ بھی غیر احمدی ہے۔ اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔ (انوار خلافت ص ۹۳) کیا اس سے بھی بڑھ کر تفرقہ اندازی ہو سکتی ہے؟

.....۹ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ ان کی حیات پر ایمان لانے کو خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن میں حکم دیا ہے اور وہ ابھی تک نہیں مرے اور مرنے کے بھی نہیں۔ (نور الحق ص ۵۰، خزائن ج ۸ ص ۲۹) اہل اسلام کے قرآن میں یہ مسئلہ درج نہیں۔ یقیناً مسیح قادیانی نے غلط لکھا ہے اور اسی وجہ سے وہ امام الزمان تسلیم نہیں ہو سکتا۔

.....۱۰ یہ غلط ہے کہ نیم مردہ مسیح کو پہلو شگاف زخم آیا اور ۲۴ گھنٹے تک کس پرسی کے عالم میں رکھ کر مرہم عیسیٰ سے علاج کیا گیا تھا۔ کیونکہ حالات حاضرہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور پہلی کوئی معتبر تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔

.....۱۱ یوز آصف کے معنی یہ کہنا غلط ہے کہ وہ خود مسیح تھا۔ کیونکہ خیالی دلائل کے سوا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔

.....۱۲ (کتاب مسیح ہندوستان میں ص ۵۵، خزائن ج ۱۵ ص ۵۵) میں یہ غلط لکھا ہے کہ مسیح کی بروایات صحیحہ عمر ۱۲۵ برس گذر چکی ہے۔ یہ بھی غلط لکھا ہے کہ تمام فرقے مانتے ہیں کہ مسیح کی عمر ۱۲۵ برس ہے اور یہ کہ زمین کے اکثر حصہ پر آپ نے سیاحت کی تھی اور یہ کہ عیسیٰ خیل کیا تعجب ہے کہ مسیح کی اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ مسیح بنارس اور نیپال وغیرہ میں آیا تھا

اور یہ کہ بنی اسرائیل نبی کشمیر میں آیا تھا اور یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میرے اوپر ایک انجیل نازل ہوئی تھی اور یہ کہ اس کا وقت بھی وہی لکھا ہے جو حضرت مسیح کا وقت تھا۔

۱۳..... مرہم عیسیٰ پہلو شگاف زخم کے لئے استعمال نہیں ہوتی۔

۱۴..... اسلام میں بروزی نبوت کا ثبوت صرف زنادقہ اور ملاحظہ میں پایا گیا ہے۔

۱۵..... امام الزمان سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام لئے گئے ہیں اور حدیث

”من لم يعرف امام زمانہ فقد مات میتة الجاهلیة“ میں حاکم وقت مراد ہے جو ہر زمانہ میں موجود ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے مسیح قادیانی مراد نہیں۔ کیونکہ وہ خود محکوم تھا حاکم کیسے ہو سکتا تھا۔

۱۶..... اسلام اس امر کا عادی ہو چکا ہے کہ لفظوں کو اپنی اصلیت پر پورا ہوتے

ہوئے دیکھے۔ جس طرح کہ قرآن و حدیث کی تمام پیشین گوئیاں اور حشر و نشر کے تمام واقعات پیش نظر ہیں۔ اس لئے نزول مسیح کے مقام پر سارا اسلام ہی تبدیل کر دینا غلط ہوگا۔

۱۷..... عیسائیوں پر تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کفارہ کا مسئلہ اس لئے غلط ہے کہ وہ

مذہبی مسلسل تعلیم کے خلاف ہے۔ لیکن جب دعویٰ مسیح کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو کوئی مسلسل مذہبی تائید پیش نہیں کی جاتی۔

۱۸..... توہین انبیاء کا ارتکاب صرف الزامی صورت میں امکان پذیر ہو سکتا ہے۔

مگر ساتھ ہی اس کے اپنی شخصیت کو بڑھا کر توہین کرنا اسلام میں ممکن نہیں سمجھا گیا۔

۱۹..... کتب نبی، استغراق مطالعہ، امتحان میں ناکامی، چار قسم کے استادوں

سے تعلیم حاصل کرنا اور قرآن و حدیث کی خود ہی تیاری کرنا۔ پھر اس کے بعد تصنیف کا سلسلہ

۷۰ کتابوں تک پہنچایا اور تقریروں کا ڈھیر اشتہارات کے ذریعہ لگا دینا۔ نظم و نشر میں اپنا ذاتی کلام

فحش طور پر لکھنا اور کچھ مدت تک شاعریوں کا کفرخ نام رکھا وغیرہ وغیرہ۔ ایک مولوی یا منشی یا محرر کے

اوصاف ہو سکتے ہیں۔ ورنہ کسی نبی میں یہ تمام اوصاف موجود نہیں ہوتے۔ اس لئے اہل اسلام مسیح

قادیانی کو نبی تسلیم کرنے میں تامل کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کا علم لدنی ہوتا ہے اور کسی سے حاصل نہیں

ہوتا اور صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کم از کم اپنی

امت سے کم نہیں ہوتا۔

۲۰..... نبی کی تصدیق دو قسم ہے۔ اول کہ وہ اپنے زمانہ میں سچا تھا۔ دوم یہ کہ اس

کی تعلیم ہمارے لئے واجب التعمیل ہو۔ مرزائی وہی تعلیم مانتا ہے جو مسیح قادیانی نے بطور تجدنی

الاسلام پیش کی ہے۔



۲۱..... حدیث کسوف کی تاویل صرف الہامی طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ورنہ اس کا ثبوت کسی اسلامی تعلیم سے پیش نہیں کیا۔

۲۲..... اہل بیت کی توہین خواہ کسی تاویل سے کی جائے اہل اسلام کے نزدیک قابل تلعین ہے۔

۲۳..... امکانی طور پر کسی کو نبی مان کر اس کی تصدیق کرنا خلاف اسلام ہے۔ اس لئے کرشن وغیرہ کو حقیقی طور پر نبی تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

۲۴..... اسلام کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کسی کے ”پاپ“ حجاز کر صاف کر دے۔ مگر مرزا قادیانی نے کرشن بن کر یہ ٹھیکہ بھی حاصل کر لیا ہے۔

۲۵..... اسلامی روایات کی رو سے حضور ﷺ کا ظہور دنیا کے ساتویں ہزار سال میں ہوا ہے اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ساتویں ہزار پر ہمارا قبضہ ہے۔

۲۶..... ولادت مسیح اسلام میں بغیر باپ کے مانی گئی ہے اور آجکل محقق مرزائی آپ کا قرآن سے باپ ثابت کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ خصلت آدمی مریم کو نظر آیا اور اس سے نکاح کی درخواست کی تاکہ اس کی اولاد ہو۔ ورنہ پیشتر مریم کو یہ یقین دلایا جا چکا تھا کہ خدمتگاروں کو شادی کرنا ممنوع ہے اور بغیر اجازت ولی کے عورت کا نکاح جائز نہیں ہوتا اور زکریا کے قریبی

رشتہ دار (موالی) بھی اسے غیر سے نکاح نہ کرنے دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے نکاح میں لائیں۔ اس لئے قرعہ ڈال کر اپنی تحویل میں لانا چاہتے تھے۔ تب مریم ناامید ہو چکی تھی اور اس مرد سے کہا تھا کہ میں قابل اولاد نہیں رہی۔ مگر اس نے کہا کہ میں تمام موانع رفع کر کے تجھے اولاد بخشوں گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ آئندہ کوئی خادم یا خادمہ بغیر شادی کے نہ رہنے پائے۔ اس لئے یوسف نے شادی کر لی اور اسے مصر لے گیا۔ وہاں بچہ پیدا ہوا جس کو یہودی دستبر دے بچا کر

مشکل سے پالا۔ پھر اور اولاد بھی ہوئی اور یہ واقعہ اس لئے آیت الہی ثابت ہوا کہ اس میں عورتوں کو اجازت ہوگئی کہ بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے اور کسی مقدس مقام کا مجاور بھی نکاح سے محروم نہیں

رہ سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعات صرف خیال اور نکتہ طرازی سے نہیں گھڑے جاسکتے۔ ورنہ واقعات کی طرف کسی کو رجوع کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لئے یہ نظریہ صرف خیالی ہی خیالی ہے۔ کوئی مورخ کوئی اہل کتاب اور کوئی اہل مذہب اسے تسلیم نہیں کرتا اور یہ کہنا کہ قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ تیرہ سو سال سے ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کیوں

۲۷.....

۲۸.....

۲۹.....

۳۰.....

ہونے لگا؟ یہی جواب ہوگا کہ ہم نے معنی اور مفہوم تبدیل کر کے یہ واقعہ گھڑ لیا ہے تو پھر اس کو ہم تحریف کہتے ہیں۔ خواہ تم اس کا نام اصل رکھو یا اسلام کا روشن پہلو یا اسلام جدید یا کوئی اور۔

۲۷..... بروز رجعت اور روپ یا جون بدلنا اسلام کے نزدیک ہرگز معتبر نہیں۔ مگر بہائی اور مرزائی تعلیم میں یہ ایک اساسی مسئلہ تصور کیا گیا ہے۔

۲۷..... ہم مسلمان حضور ﷺ کو لاثانی نبی مانتے ہیں۔ مگر مرزائی تعلیم میں مسیح قادیانی کو محمد ثانی تصور کر لیا گیا ہے۔

۲۸..... اسلام میں اہل اسلام کے کسی خاص فرقہ میں فیضان نبوت مخصوص نہیں کیا گیا۔ مگر مرزائی مذہب میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی یا آپ کے بعد آپ کی جون قدرت ثانیہ بدل بدل کر ٹھیکیدار ہو چکی ہے۔ کوئی غیر احمدی اس فیضان سے مستفید نہیں ہو سکتا۔

۲۹..... تو بن انبیاء الزامی طریق کے علاوہ اپنے تقدس کو پیش کر کے شائع کرنا اسلام میں ہرگز جائز نہیں۔ مگر ان کے ہاں صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔

۳۰..... غیر تابعدار اور خالفین کو قرآن مجید میں سخت ست الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ مسیح قادیانی بھی اپنے ذاتی کلام کو وحی قرآنی کا مساوی قرار دے کر توہین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گویا اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ رکھا ہے اور اپنے کلام کو وحی الہی۔ ورنہ اگر صرف نبوت کا دعویٰ ہوتا تو اپنے کلام کو کلام رسول کے مساوی قرار دے کر ثبوت پیش کرتا۔ مگر اسلام کا دعویٰ ہے کہ حضور ﷺ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا تو پھر مسیح قادیانی محمد ثانی کیوں کر ہوا؟

۳۱..... انبیاء علیہم السلام تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اور تعلیم کے متعلق جو روایات بعض انبیاء کے بارے میں آئی ہیں وہ سب مشکوک ہیں۔ کیونکہ انبیاء کی تعلیم روحانی طور پر خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ قرار پایا جا چکا ہے کہ ایک نکما مولوی کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ مگر مسیح قادیانی کی تاریخ حیات بتا رہی ہے کہ جناب نے چار استادوں سے علم ظاہری حاصل کیا تھا۔ کیمیاگری اور علم جفر فل وغیرہ کے لئے بھی کچھ اوقات بسر کئے تھے۔ تصوف سیکھنے کے لئے بھی ایک حنفی اور ایک وہابی صوفی کی صحبت میں حاضر ہوتے رہے تھے۔ لیکن خود داری کو مد نظر رکھ کر نہ قرآن و حدیث کسی سے سبقاً سبقاً پڑھا اور نہ منازل فقر کسی خاص مرشد سے طے کئے۔ بلکہ خود بدولت شب بیداری اور کثرت مطالعہ سے اور کتب نبی کی حرص سے ادھر صوفی بن کر خشک مجاہدے شروع کر کے اپنا ستیاناس کر لیا اور ادھر خود ساختہ تعلیم سے قرآن و حدیث کی آڑ میں اسلام جدید گھڑنا شروع

کردیا۔ حالانکہ یہ دونوں راستے خطرناک تھے۔ استاذ کامل اور مرشد صادق کے سوا کبھی طے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے خود بھی ڈوبے اور دوسروں کا بھی بیڑہ غرق کیا:

راہ پر خطر ست و دزدان درکیم  
رہبرے برتا نہ مانی برز میں

اور یہ مقولہ سچ نکلا کہ: ”من لم ياخذ الشيخ فشيخه الشيطان“

۳۲..... ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ (بدر ۵ مارچ ۱۹۰۸ء) میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت ایک وحی الہی اور مسیح موعود کا دعویٰ تھا۔ (حاشیہ براہین احمدیہ نمبر ۵ ص ۵۲، خزائن ج ۲۱ ص ۶۸ حاشیہ) یہ دعویٰ آپ کا آخری دعویٰ ہے۔ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بروز محدثیت امتی اور مجدد ہونے کے مراحل طے کر کے آپ نے ایک مستقل نبوت کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ اسلام اس قسم کی ترقی ماننے کو ہرگز تیار نہیں۔ کیونکہ اس کی نظر میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کو پہلے اپنی شخصیت کا ہی علم نہ ہو کہ میں کیا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ محدث سے ترقی کرتا ہوا مستقل نبی بن چکا ہو۔ بلکہ جو نبی ہوئے ہیں اپنی عہد رسالت کے پہلے دن ہی نبی تھے اور ترقی پا کر یا بے خبری کے بعد کوئی نبی نہیں بنا۔

۳۳..... مسیح قادیانی نے جس قدر جوئیں بدلی ہیں اسی قدر اس میں بیماریاں بھی جوئیں بدلتی رہی ہیں۔ لیکن تشنج قلبی اور امراض دماغی کا دائمی شکار کوئی نبی نہیں تھا۔ اس لئے اہل اسلام حیران ہیں کہ یہ جون کس روح سے حاصل کی تھی؟۔

۳۴..... آپ کا نوٹ دیکھ کر ہر ایک ماہر طب بتا سکتا ہے کہ آپ کے موٹے ہونٹ صاف بتا رہے ہیں کہ آپ کو مانجھو لیا مرقی ضرور تھا۔ گاہ بگاہ فوری تے یا دست کا آنا بھی بتا رہا ہے کہ آپ میں مرقاق خوب جڑ پکڑ چکا تھا۔ نیم خواب آنکھیں اور تھج اجھان اس امر کی علامات تھیں کہ آپ کے دماغ میں سوداوی اور بلغمی مواد کا کافی ذخیرہ تھا جس کی وجہ سے نخوت، خلوت نشینی، تنفر بیجا اور خیالی خطرات سے خوف اور رنگ دار اشیاء کا خواب میں نظر آنا اور وہمیات میں پڑ کر اپنے تقدس کو بڑھاتے جانا جھولیل خاموشی یا طول کلامی اور بار بار ایک مضمون کو دہرانا، بے ہوشی، غشی اور استفراق فی الخیال یہ سب کچھ موجود تھا۔ لیکن کوئی نبی اس قسم کا بیمار نظر نہیں آتا۔ اس لئے آپ کی نبوت نہ صرف مخدوش ہی ہے بلکہ کسی حد تک خلاف واقع مجذوبانہ شطیحات میں داخل ہے۔

۳۵..... جناب میں غلط نویسی کا مادہ بہت تھا اور زبان دانی کے دعویٰ میں بھی گولن

ترانیاں بہت دکھائی ہیں۔ مگر جب آپ کی ضمیر کو ملامت کرتی ہے تو اعتراف بھی کر جاتے ہیں کہ میری اصلی غرض تفہیم ہے۔ ورنہ میں شاعر نہیں ذرہ اور اضافہ کر دیتے کہ میں عربی فارسی میں بھی ماہر نہیں ہوں تو معاملہ ہی صاف ہو جاتا۔ لیکن کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس زبان میں وہ وحی پاتا ہو اس میں وہ قادر الکلام نہ ہو۔

۳۷..... جناب کی صداقت کے اصول آپ کے عام الہام اور عام پیشین گویاں ہیں جن میں آیات آسمانی کو فتوحات، کثرت مال، کثرت اتباع اور عام مقبولیت کے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن کوئی نبی ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس نے اپنے فتوحات مالیہ کو پیش کیا ہو۔ کیونکہ فتوحات مالیہ اور کثرت مریدین کو پیش کرنا صوفیائے کرام کا مایہ ناز ہے۔ انبیاء کا مایہ ناز نہیں۔ اس لئے صوفیانہ ترقی کو صداقت نبوت کا نشان ٹھہرانا سخت غلطی ہوگی۔ ہاں اگر ایسی صداقتوں کو حصول تصوف کا نشان بتایا جائے تو کسی قدر قابل توجہ ہو سکتی ہیں۔ مگر تحصیل نبوت کے لئے ایسی فتوحات اور ایسی مقبولیت نشان صداقت کبھی پیش نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایک زبردست مغالطہ ہے جو خود قادیانیوں کو بھی لگا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی اسی مغالطہ میں ڈال رہے ہیں۔ غالباً پیغامی پارٹی (لاہوری) نے اسی وجہ سے فیصلہ کر لیا ہے کہ مرزا قادیانی ایک صوفی آدمی تھے اور مولوی نہ تھے اور نہ رسول۔ مگر اہل اسلام اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ بے مرشد اور بے استاد بھی تھے۔

۳۹..... صوفیانہ نشانات کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو الہامات اور نشانات کی نوکری میں سوائے چند گول مول ظاہری استدلالات کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ بھی اسلام کی مسلسل تعلیم سے مصدقہ نہیں ہیں۔ مگر ایک نبی دوسرے نبی کی تعلیم کے خلاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس لئے بھی نبوت قادیانی نہایت مخدوش ثابت ہوتی ہے۔

۴۰..... مولوی اور زبان دان بن کر جب عربی الفاظ کی تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بالکل اہل زبان کے خلاف اور غلط ہوتا ہے۔ جس کے جواب میں یوں عذر کیا جاتا ہے کہ ہم کسی اصول کے پابند نہیں ہیں۔ بلکہ تمہارا فرض ہے کہ ہمارے کلام سے اصول قائم کر کے ایک نئی صرف و نحو شائع کرو اور یہ ایک ایسا اچھمہ ہے کہ جاہل تو اس پر لٹو ہو جاتے ہیں۔ مگر اہل علم تاڑ جاتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ بھلا آج تک کبھی یہ بھی پڑھایا سنا ہے کہ اہل عرب نے کلام مرزا کو فصحاء عرب کے دیوانوں میں درج کیا ہے۔ یا اس کو بنظر استحسان دیکھ کر آپ کو اصح العرب کا خطاب دیا ہو۔ سخت افسوس ہے کہ

حضور علیہ السلام افصح العرب تسلیم کئے گئے ہوں اور محمد ثانی مسیح قادیانی عربی کا ایک فقرہ بھی صحیح نہ لکھ سکتا ہو؟۔

۴۱..... کسی نبی کی پیشین گوئیوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ ان پر حاشیہ آرائی کی جائے اور اگر کچھ ذرہ اشتباہ ہوتا ہے تو فوراً کافور کر دیا جاتا ہے۔ مگر جناب کی ایک پیشین گوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی عمارت پتھر کاری کی محتاج نہ ہو۔

۴۲..... مرزائی عموماً اور پیغامی خصوصاً اپنے مرشد کی تجہیل کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اجتہادی غلطیاں کی ہیں اور انہی غلط بیانیوں پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا تھا۔ لیکن کوئی نبی ایسا نہیں پایا جاتا کہ جس کی امت علوم نبوت میں اس کی تجہیل کرتی ہو۔

۴۳..... نظریہ سازی میں امت مرزائیہ اپنے مرشد سے بڑھ گئی ہے اور ایسے ایسے خیالات اختراع کر رہی ہے کہ اس کے مرشد کو بھی نہیں سوجھے تھے۔ تو گویا امت کا علم اپنے نبی کے علم سے بڑھ گیا ہے اور یہ ان کے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں۔ کیونکہ مرشد خود لکھ چکا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی ذہنیت سے اس کی ذہنیت بڑھی ہوئی ہے۔ اب اس کی روح تلمقاتی ہوگی کہ میری بھی حجامت ہونے لگ گئی ہے۔ مگر عوض معاوضہ گلہ ندارد۔ اس نے حضور علیہ السلام پر اپنی علمی طاقت کو بڑھایا تھا تو اس کے مریدوں نے اپنی علمی فوقیت اس پر ظاہر کر دی تو کون سا غضب ہو گیا: خود کردہ راعلا جے چوست۔ لیکن اسلام اس ملحدانہ ارتکاب کا روادار نہیں۔

۴۴..... اسلام میں مسیح و مہدی دو ہستیاں الگ الگ ہیں اور مرزائی تعلیم اپنے مسیح قادیانی کو (جو درحقیقت مسیح نہ تھا مہدی) مسیح اور مہدی ایک ہستی مانتی ہے۔

۴۵..... مہدی و مسیح کے متعلق جس قدر اسلام میں پیشین گوئیوں کے ضمن میں حالات بتائے گئے ہیں مسلمان ان کو محسوس اور واقعی صورت میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ اور دجال مسیح المہدی۔ دابۃ الارض، مقصد خلیفہ مسیح، یا جوج ماجوج، اختصار وقت نزول مسیح کسر صلیب، قتل خنزیر، اور دم مسیح وغیرہ محسوس اور مشاہدہ کے طریق پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس قدر آج سے پہلے اسلامی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں جیسے ہلاکت کسرے و قیصر، فتح مکہ، اشاعت اسلام، ذلت یہود، عموم حکومت نصاریٰ، مصائب اہل مدینہ، واقعات کربلائے معلیٰ، اور تنافس فی الاموال مع حالات حاضرہ، وہ سب بلا تاویل مشاہدہ میں آچکی ہیں اور آ رہی ہیں۔ لیکن مرزائی تعلیم ان کو خیالی طور پر پیش کرتی ہے اور تاویل کر کے اسلام کو مشکوک حالت میں پیش کر رہی ہے۔

۴۶..... اسلام میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول جسمانی طور پر دمشق میں مذکور

ہے اور جناب امام کاظہور مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر لکھا ہے۔ اس کے بعد جبل افیق پر یہود و اہل اسلام کے مابین جنگ مذکور ہے۔ مگر مرزائی تعلیم میں اس کا نشان نہیں ملتا۔ باتیں بنا کر سب کچھ قادیان میں بنالیا ہے جو بچوں کا کھیل سمجھا جاسکتا ہے کہ جس کا جو جی چاہے بنالیا کرے۔

۴۷..... اہل اسلام کا حج بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کا حج قادیان میں قرار پایا ہے اور مکہ کا حج اس کے بعد چنداں ضروری نہیں سمجھا گیا۔

۴۸..... کوئی نبی پچاس سال تک شرک میں گرفتار نہیں رہا۔ لیکن مرزا قادیانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بقول خود حیات مسیح کا قول کرتے ہوئے پچاس سال تک مشرک رہے ہیں۔ اگر کسی نبی کو شرک کے ماحول سے کچھ اشتباہ ہوتا تھا تو بہت جلد اس کا دفعیہ کر دیا جاتا تھا۔

۴۹..... اسلام کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بعثت انبیاء نہ ہوگی۔ مگر مرزائی مذہب نے حیلے بہانے کر کے اسے جاری کر رکھا ہے۔ لیکن صرف اپنے لئے اور یہ امور ابھی تک مشتبہ رہا ہے کہ کیا یہ نبوت صرف مرشد کی اولادِ صلیبی میں جاری رہے گی یا روحانی اولاد (مرید) بھی اس کے حق دار ہیں؟ محمودی پارٹی کا خیال ہے کہ اولادِ صلیبی ہی قدرتِ ثانیہ اور نبی بن سکتی ہے اور چند ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں کہ قدرتِ ثانیہ بن کر اعلان کر رہی ہیں کہ مسیح کے تمام مرید ہی نبی وقت بننے کے حق دار ہیں۔ اور اسی کشمکش میں ان کے درمیان رسالہ بازی اور مہابہ بازی ہوتی رہتی ہے اور ان کے مدعیان زمانہ حال صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے خود خلیفہ محمود کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ مگر خلیفہ صاحب ان کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ صحیح الدماغ نہیں ہیں۔ اہل اسلام مرزا قادیانی کے متعلق یہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لوگ گھبراتے ہیں۔ لیکن اپنے سر پر بڑی توجہ دھڑک جنون کا فتویٰ لگا دیا ہے۔

۵۰..... ۱۰ جولائی ۱۹۳۴ء کو محاصرہ ”زمیندار“ لاہور نے بحوالہ کتاب سیرا مصنفین از محمد یحییٰ تنہا ثابت کیا ہے کہ براہین احمدیہ مسیح قادیانی کی تصنیف نہ تھی۔ بلکہ اس میں جتنا مواد تھا وہ دوسرے لوگوں کی منتِ خوشامد اور چاپلوسی کر کے بمشکل حاصل کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مولوی چراغ علی مرحوم کے کاغذات سے ایسی کئی چھٹیاں برآمد ہوئی ہیں جن میں سے تین چھٹیوں کا اقتباس ذیل میں درج ہے:

الف..... ”جب آپ جیسا اولوالعزم صاحب فضیلت دینی و نبوی تہ دل سے حامی ہو اور تائید دینِ حق میں دل گرمی کا اظہار فرمائے تو بلا شائبہ ریب اس کی تائیدی سبیل اللہ خیال کرنی چاہئے۔ ماسوا اس کے اگر کچھ دلائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تو وہ بھی مرحمت فرمادیں۔“

یہ ہے مرزائیوں کے آقا و مولا کی لیاقت کے ڈھول کا پول۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ تخلیق آدم سے سات ہزار سال تک جتنے رسل اور انبیاء آئے ہیں حقیقت میں ہی ایک شخصیت تھا جو مختلف صورتوں میں پیرہن نبوت پہن کر ظاہر ہوتا رہا۔ نجی اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، اور روح اللہ بن کر ایک عرصہ تک اپنے روحانی کرشموں اور معجز نمایوں سے دنیا کو حیرت زدہ کرتا رہا۔ جتنے آسمانی صحائف اترے ان کا عامل میں ہی تھا۔ حتیٰ کہ سید الرسل فخر انام شافع عالمیان محمد الرسول اللہ کہلا کر میں نے دنیا کو تاریکی کے عمیق گڑھے سے نکال کر بام ثریا تک پہنچایا اور وہ کلام معجز بیان بھی مجھ پر ہی نازل ہوا جس کو دنیا کے کروڑوں انسان باوجود سینزدہ صد سال گزرنے کے آج تک اسے اپنا حرز جان بنائے ہوئے ہیں اور آج تک کسی کو اس میں سرو متحریف کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ میں محمد ثانی بن کر تجدید دین کے لئے پہلے سے زیادہ آن بان کے ساتھ پھر نازل ہوا۔ حیرت کا مقام ہے کہ وہ دعویٰ دار افضلیت انبیاء آج ایک کتاب ”براہین احمدیہ“ لکھنے سے عاجز آ گیا اور اسے اپنی امت میں سے ایک شخص کا جس سے کہ اس کا علم ہر حیثیت میں زیادہ ہونا چاہئے تھا۔ ہمیں تعجب ہے کہ یہی افضل نبی دست مگر نظر آتا ہے اور اس سے استمداد چاہتا ہے اور اپنی سچائی کے لئے اس سے دلائل مانگتا ہے۔ حیف ہے ایسی افضلیت پر اور ترف ہے ایسی نبوت پر۔ کیا نبی کا علم اپنی امت میں سب سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کیا مرزائی انبیاء میں اس کی نظیر پیش کر سکتے ہیں؟۔ اب ہم دوسری چٹھی کا اقتباس درج کرتے ہیں جو پہلے سے وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے:

ب..... ”آپ کے مضمون اثبات نبوت کی ایک مدت تک انتظار میں نے کی۔ کوئی عنایت نامہ نہیں پہنچا۔ مگر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایت بزرگانہ بہت جلد مضمون اثبات حقانیت فرقان حمید تیار کر کے میرے پاس بھیج دیں۔“

ناظرین! خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا قادیانی ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلتے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں اب ان کی دال گلتی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ انہوں نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اب تیسری چٹھی ملاحظہ فرمائیں:

ج..... ”آپ کو جو اپنی ذاتی تحقیقات سے ہنود پر اعتراضات معلوم ہوئے ہوں یا وید پر جو اعتراض ہوں ان اعتراضوں کو ہمراہ مضمون اپنے کے ضرور بھیج دیوں۔“

لوب اور سنئے۔ محمد احسن امر وہی جب ۱۹۱۴ء میں قادیانیت چھوڑ کر لاہوری پارٹی میں

شامل ہو گیا تھا تو اس نے بھی اپنی کتاب قول مجد میں کئی ایک چھٹیاں مرزا قادیانی کی نقل کی ہیں جن میں بتایا ہے کہ مرزا قادیانی کو جب مشکل پڑتی تھی یا کتاب کے حوالہ دینے میں کسی سخت اعتراض کا جواب دینے میں تو مجھ (احسن امروہی) سے ہی امداد طلب کرتے تھے اور کمال لجاجت اور منت سماجت سے خط لکھا کرتے تھے۔ جس میں میری تعریف و توصیف میں زور دار فقرے موجود ہوتے تھے۔

بہر حال یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی بحیثیت ایڈیٹر کے اپنی تصانیف کیا کرتے تھے۔ مضامین عام طور پر لوگوں کے ہوتے تھے اور ایک آدھ اپنا بھی ہو گیا تو خیر مگر نام مرزا قادیانی کا ہی چلتا تھا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے مضامین کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا وہ ان کے اپنے ہی مضامین ہیں۔ اور یہ طرز ان کا توہین مسیح میں بھی مسلم الثبوت ہو چکا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ آپ شہرت طلب بہت تھے اور مضمون چرانے میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ لیکن اسلام میں اس وصف کا کوئی نبی نہیں گزرا کہ لوگوں کے مضامین چرا کر وحی کے رنگ میں ظاہر کرتا ہو۔

۲..... کرشن کا دعویٰ کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے بروز اور رجعت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ کرشن کی کتاب گیتا میں تناخ اور بروز کا ثبوت کم از کم پندرہ جگہ پر دیا ہے۔ اس لئے جب آپ کرشن تھے تو یہ عقیدہ بھی خلاف اسلام آپ کو بدلنا پڑا۔ اس لئے اہل اسلام زور سے کہتے ہیں کہ کسی نبی نے تناخ کا قول نہیں کیا۔ اور نہ ہی اپنے روپ بدلنے کو ظاہر کیا ہے اور جن تحریرات سے رجعت اور تناخ ثابت کیا جاتا ہے وہ اسلام کے نزدیک غیر معتبر ہیں اور یا ان کا مطلب غلط طور پر بتایا جاتا ہے۔ اس لئے اہل اسلام مانتے ہیں کہ نہ مسیح قادیانی نبی تھا اور نہ کرشن۔ ورنہ ان دونوں کی تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہوتی۔

۵۱..... مولوی محمد حسین مرحوم بٹالوی اور مرزا قادیانی کے درمیان دیر تک ہنگامت کے دعاوی عدالت میں چلتے رہے۔ اخیر میں دونوں سے اقرار نامہ لے کر صلح کرائی گئی۔ مرزا یوں نے مولوی صاحب کا اقرار نامہ شائع کر کے ثابت کیا ہوا ہے کہ ان کو ذلت پہنچی تھی اور مرزا قادیانی بیچ نکلے تھے۔ مگر ذیل کی تحریرات ثابت کرتی ہیں کہ مرزا قادیانی میں جرأت نبوی ذرہ بھر بھی نہ تھی اور نہ ان کی زندگی بے لوث تھی۔ بلکہ ہزاروں عیوب سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے عدالت کا نوٹس ملاحظہ ہو۔ پھر مرزا قادیانی کا اقرار نامہ:

”جی ایم ڈبلیو ڈگلس صاحب بہادر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت سے مورخہ ۲۳ اگست ۱۸۹۷ء بمقدمہ سرکار بذریعہ ڈسٹرکٹ کلارک بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان



حسب ذیل ریمارک فیصلہ میں ہوئے جو تحریرات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ (مرزا) فتنہ انگیز ہے۔ انہوں نے بلاشبہ طبائع کو اشتعال کی طرف مائل کر رکھا ہے۔“ پس مرزا غلام احمد کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناسب الفاظ میں اپنی تحریرات استعمال کریں۔ ورنہ بحیثیت صاحب مجسٹریٹ ضلع ہم کو مزید کارروائی کرنی پڑی گی۔

”میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو بحضور خداوند تعالیٰ حاضر جان کر باقرار صالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ: ۱..... میں ایسی پیشگوئی جس سے کسی شخص کی تحقیر (ذلت) کی جائے یا مناسب طور سے حقارت (ذلت) سمجھی جائے یا خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد ہوشائع کرنے سے اجتناب کروں گا۔ ۲..... میں اس سے بھی اجتناب کروں گا شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ کسی شخص کو حقیر (ذلیل) کرنے کے واسطے جس سے ایسا نشان ظاہر ہو کہ وہ شخص مورد عتاب الہی ہے۔ یہ ظاہر کرے کہ مباحثہ مذہبی میں کون صادق اور کون کاذب ہے۔ ۳..... میں ایسے الہام کی اشاعت سے بھی پرہیز کروں گا کہ جس شخص کا حقیر (ذلیل) ہونا یا مورد عتاب الہی ہونا ظاہر ہو یا ایسے اظہار کے وجہ پائے جائیں۔ ۴..... میں اجتناب کروں گا ایسے مباحثہ میں مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے خلاف، گالی گلوچ کا مضمون یا تصویر لکھوں یا شائع کروں جس سے اس کو درد پہنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف اس قسم کے الفاظ استعمال کروں جیسا کہ دجال، کافر، کاذب، بطلوی، میں کبھی اس کی آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے برخلاف کچھ شائع نہ کروں گا جس سے اس کو آزار پہنچے۔ ۵..... میں اجتناب کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے دوست یا پیرو کو مبالغہ کے لئے بلاؤں۔ اس امر کے ظاہر کرنے کے لئے مباحثہ میں کون صادق اور کون کاذب ہے نہ میں اس محمد حسین یا اس کے دوست یا پیرو کو اس بات کے لئے بلاؤں گا کہ وہ کسی کے متعلق کوئی پیشین گوئی کریں۔ (دستخط: مرزا غلام احمد قادیانی بقلم خود ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء)

کسی نبی نے اس قسم کا اقرار نامہ حکومت وقت کے سامنے پیش نہیں کیا اور نہ ہی اپنی کمزوریوں کا ضمناً اقرار کیا ہے۔

۲۸..... عہد قادیانیت میں مدعیان نبوت

۱..... چراندین جمونی

مرزا قادیانی نے رسالہ دافع البلاء میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ میری تائید کے لئے

مبعوث ہوا تھا۔ مگر میں نے اس کو منظور نہیں کیا۔ کیونکہ خشک مجاہدہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا اور جو الہامات اس پر نازل ہوتے ہیں ان کے متعلق مجھ کو یہ الہام ہوا ہے کہ نزل بہ جبیر اس پر خشک روئی اتری ہے مراد یہ ہے کہ اس کے الہامات شیطانی ہیں۔ یہ نبی آپ کی زندگی ہی میں تباہ ہو گیا۔

۲..... الہی بخش ملتان

نزیل لاہور (اکاونٹ) وہ مرزا قادیانی کا مرید تھا۔ بگڑ کر موسیٰ بن گیا تھا۔ اور ایک بڑی ضخیم کتاب (عصائے موسیٰ) لکھی جس میں الہامات کے ذریعہ بتایا کہ مرزا میرے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے گا۔ مگر وہ طاعون سے پہلے مر گیا۔

۳..... ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیا لوی

بیس سال تک مرزائی رہ کر خود مدعی رسالت بن بیٹھا۔ قرآن شریف کی تفسیر لکھی اور رسالہ حکیم جاری کیا اور مرشد کی ہلاکت کے متعلق اس نے ایک الہام شائع کیا کہ ۴ مارچ ۱۹۰۸ء تک مرزا قادیانی مرجائیں گے۔ مرزا قادیانی نے اس کے مقابلہ پر الہام شائع کیا تھا کہ وہ میری زندگی میں تباہ ہو جائے گا۔ مگر وہ ایسا سخت جان نکلا کہ مرشد کے مرنے کے بعد سات سال تک زندہ رہا۔

۴..... ڈاکٹر ڈوئی (امریکہ)

نے مسیح ہونے کا اعلان کیا اور چونکہ وہ بہت عمر رسیدہ تھا۔ فوج لگ کرنے سے مر گیا اور مرزا قادیانی نے کہا کہ چونکہ وہ میرے مقابل کھڑا ہوا تھا اس لئے مر گیا۔

۵..... احمد سعید سنہریالی

مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ میں جون بدل بدل کر آؤں گا اور قدرت ثانیہ کہلاؤں گا۔ تو جناب کی موت کے بعد کئی مدعی کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ احمد سعید سنہریالی (ضلع سیالکوٹ) اسٹنٹ مدارس مدعی قدرت ثانیہ ہوا اور اپنا لقب یوسف موعود رکھا۔ اپنے الہامات اپنے رسائل ”پیرا ہن یوسفی“ میں جمع کئے۔ جس میں اس نے ظاہر کیا تھا کہ میں نہایت غم کی حالت میں رورہا تھا کہ مریم علیہا السلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”بچہ رونہ“ یہی الہام امرتسر چوک فرید میں بیان کیا تو لوگوں نے اسے سنگسار کرنا شروع کیا تو بھاگ گیا اور بچوں نے ”بچہ رونہ۔ بچہ رونہ“ کہہ کر چھیڑنا شروع کیا۔ وہ اپنی ایک تصنیف میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب ناجائز ہیں اور وہ والد الزنا ہیں۔ آئندہ کے لیے میں حکم دیتا ہوں کہ ہندوؤں کی طرح غیر قوموں سے رشتہ کریں اسکے گلے میں ایک گلٹی ہے جسے مہر نبوت ظاہر کرتا ہے۔

## ۶..... ظہیر الدین (اروپ ضلع گوجرانوالہ)

اس نے بھی یوسف موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اپنی کتاب ”براہین حقہ“ میں لکھا تھا کہ مرزا صاحب کی شخصیت کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا، وہ حقیقی نبی تھے۔ قادیان میں مسجد الحرام بیت اللہ شریف ہے اور وہی خدا کے نبی کی جائے پیدائش ہے۔ اس لئے اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نبی ناکام رہا اور مرزا محمود کے ہاتھ پر تائب ہو کر مریدوں میں شامل ہو گیا۔

۷..... یار محمد وکیل ہوشیار پور

اس کا دعویٰ ہے کہ محمدی بیگم میں ہوں۔ نکاح سے مراد بیعت میں میرا داخلہ ہے اور مرزا صاحب کے بعد گدی کا حقدار میں ہوں۔ کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قدرت ثانیہ کا مظہر وہ ہوگا۔ جو میری خوبی پر ہوگا۔ چنانچہ یہ علامت مجھ میں سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہے۔ مرزا محمود کے مقابلہ میں تقریباً پچاس رسالے لکھ چکا ہے۔ جس میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر مسند خلافت پر چونکہ محمود صاحب قابض ہیں۔ اس لئے اس کی تبلیغ معرض وجود میں نہیں آئی۔

## ۸..... فضل احمد ابن غلام محمد ڈاکخانہ چنگا بنکیال متصل گجر خان

دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب کا ظہور میں ہوں۔ میں اپنی چالیس سال کی عمر گزار چکا ہوں۔ مرزا صاحب کی اصلی عمر پچانوے سال تھی وہ ساٹھ سال کی عمر پا کر مر گئے تو بقیہ عمر مجھے دی گئی۔ اب میں مرزا صاحب ہوں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ فتوحات مکیہ جلد اول باب ۲۷ میں ہے کہ بیت اللہ شریف کے تیز زمین میں ایک خزانہ مدفون ہے۔ حضور علیہ السلام نے کسی مصلحت کی وجہ سے اسکو نہیں نکالا۔ فاروق اعظم نے بھی ارادہ کیا تھا مگر پھر رک گئے اور جب میں (ابن عربی) شہر تونس ۵۹۸ ہجری میں گیا تو مجھے ایک تختی دکھائی گئی۔ جو انگل بھرموٹی اور بالشت بھر چوڑی تھی۔ طول بھی ایک بالشت یا کچھ زیادہ تھا۔ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تختی واپس اسی خزانہ میں لوٹائی جائے۔ مجھے خوف تھا کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو بگڑ جائیں گے کیونکہ یہ امام آخر الزمان کا حق ہے کہ وہ خزانہ نکال کر تقسیم کرے اور یہ خزانہ معارف قرآنی ہیں۔ جو مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں۔ ۱۵ جنوری ۱۹۳۱ء کو مجھے الہام ہوا کہ مولوی صاحب اخراج من کنوزک المخزونة (ازالہ اوہام ص ۲۳۵، خزائن ج ۳ ص ۲۳۲) پر لکھا ہے کہ ”جو شخص کعبہ کی بنیاد کو حکمت الہی کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ وہ بڑا عقلمند ہے خدا کا فرشتہ مجھے قرآن پڑھاتا ہے۔“ اصحاب کہف کا قصہ یوں ہے کہ (تسری الشمس) نبوت محمدیہ کے آفتاب کو تم دیکھو گے کہ (اذا طلعت تزاویر عن کھفہم ذات الیمین) جب وہ نکلے گا تو کعبہ سے دائیں طرف مشرق کو نکل جائے گا۔ یعنی قادیان

میں ۳ مارچ ۱۸۸۸ء کو اس کا ظہور ہوگا۔ یعنی مرزا صاحب کا ظہور ہوگا۔ (تقرضہم ذات الشمال) پھر وہ سورج قادیان سے شمال مشرق کا کائنا ہوا چلا جائے گا۔ جس سے مراد میں ہوں۔ ۱۸ اگست ۱۹۰۷ء کو مسیح قادیانی نے بھی دیکھا تھا کہ شمال مشرق کی جانب سے یعنی میرے مقام رہائش سے ایک ستارہ سیدھا سر تک آ کر گم ہو گیا۔ یعنی میں اس تحریک کو کمال تک پہنچا کر مر جاؤں گا۔ جو میری راہ میں نہیں چلے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تمام روکا و ٹیس اٹھادی جائیں گی۔ میں اقوام عالم کے لئے خدا کے ارادوں کا الارم ہوں۔ میں القائم بامر اللہ ہوں۔ میں ہی وہ خزانہ تقسیم کر رہا ہوں۔ جو بیت اللہ میں ہے میں ختم النساء ہوں۔ میری بیعت کرو۔ یہ مدعی نبوت ابلہ مغرور ہے۔ جیسا کہ اس شعروں سے اندازہ ہو سکتا ہے۔

یار غصے میں سخت بھرا ہے پر کے اندر آؤ  
جل جائیں گے باہر والے جلدی اندر آؤ

یار کی نظراب قہر آلود ہے آجاؤ قال مری میں  
سپر اب اس نے مجھے بنایا آجاؤ ڈھال مری میں  
سامنے اس کے میں کھڑا ہوں آجاؤ ڈھال کے اندر  
بیعت میری ڈھال خدا کی آجاؤ بیعت کے اندر  
اب نہ رکنا بیعت مری سے بیعت جلدی کرلو  
شاہ و گدا سب آؤ ادھر کو بیعت جلدی کرلو

ب.....

درو پہ کا آخری میں ہوں آجاؤ میرے اندر  
بعد مرے دروازہ بند ہو کیونکر آؤ گے اندر

زمانہ میرا بیس سال پانچ اور پانچ ہیں پھر بھی  
فضل کے بعد بھی فضل ہی ہوگا بیعت کرنا پھر بھی

ج.....

اے عزیزو! وہ چکنے والا ستارہ میں ہوں  
سب سے بڑا فرزند مسیحی فضل العر بھی میں ہوں

صدیوں کے غوث مجدد قطب ابدال جہاں کے  
چھپے چھوڑے اڑنے والے کل اولیاء جہاں کے

اے خدا میری سن لے دعا  
اے میرے رب عجیب دعا

الہام دلوں پر نازل کر  
کلام اب اپنا نازل کر

میری زندگی کی حد خدا تعالیٰ نے یوں بتائی ہے کہ: ”ثمانین خولاً اور قریباً من ذلک ۰ ماہو المیزان ۰ ہو فوق سبعین حولاً“ یا اللہ اس سے آگے یہاں رہنے کی زندگی مرحمت ہو۔ زندگی آگے ملتی ہے۔ یہاں اٹھہ ہے ”ان اللہ جعل الصورة فی الشقیقین“ یعنی آدمی زندگی آسمان پر اور آدمی زمین پر اے خدا عالم آخرت میں میرا کیا عہد ہے؟ تم بنجم النساء ہو۔

اپنے مغرب سے طلوع آفتاب اب ہو گیا  
باب توبہ بند ہوگا فیصلہ اب ہو گیا

یہی خاکسار ستر سال والا دروازہ ہے۔ جب تک میں دنیا میں ہوں عذاب کتر ہوگا۔ اس جہاں سے جانے کے بعد بالکل تظارہ قیامت ۱۹۵۱ء تک قائم رہے گا۔ بیعت کرو تو یہ عذاب رفع ہو جائے گا اور آئندہ بیس سال امن میں گزریں گے۔ خدا نے ۱۸۸۸ء کو مجھے کہا کہ تیری عمر ستر سال ہے اور مانگی تو کہا فرار ہے۔ فراخی کے ساتھ عمر کا طول مانگتا کہ کام مفوضہ انجام دے سکوں فرمایا زندگی آگے ملتی ہے۔ یہاں اٹھہ ہے۔ یعنی انسان یہاں اٹھہ کی مانند ہے۔ اس دنیا سے نکلنے کے بعد خالص زندگی ملتی ہے۔

۹..... مرزا محمود بن مرزا غلام احمد قادیانی

مسند آراء خلافت آپ ہی ہیں۔ آپ میٹرک فیل ہیں مولوی نور الدین خلیفہ دوم سے دینیات کی مشق کی۔ اردو میں ان کی تصانیف ہیں اور لیکچر دیتے ہیں عربی فارسی میں کوئی تحریر نہیں دیکھی گئی۔ پرائیویٹ طور پر انگریزی کی معمولی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ اپنے والد بزرگوار سے کان اللہ نزل من السماء کا خطاب حاصل کیا ہوا ہے۔ عثمانی ایل صاحب المجد والعلیٰ بھی آپ ہی کہلاتے ہیں۔ فخر الرسل بھی آپ ہی کا خطاب ہے۔ ۱۹۳۳ء میں سالانہ جلسہ کے موقع پر بیان کیا تھا کہ فرشتوں نے مجھے قرآن شریف کے وہ جدید مفہوم سمجھائے ہیں کہ آج تک کسی کو معلوم نہیں چنانچہ آج کل وہ مفہوم تفسیر کی صورت میں خاص خاص مرزائیوں کے پاس چھپ کر پہنچ رہے

ہیں۔ بہر حال آپ قدرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کو نبوت جدیدہ کے دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب کے عہد میں تبلیغ زوروں پر ہے۔ مگر قوت بازو سے تبلیغ میں وہ تمام وسائل استعمال کئے جاتے ہیں جو سرفدائی اور مشددیں استعمال کیا کرتے ہیں۔ انہی کے عہد میں محفوظ الحق علمی اینڈ کو بہائی مذہب کے پیرومدت دراز تک مرزائی رہ کر قادیان سے نکال دیئے گئے۔ عبدالکریم ایڈیٹر اخبار مہبلہ کا سانحہ جانفرسا بھی آپ کے عہد میں ہی پیش آیا۔ سکھوں کے ایک گرو نے مرزائی بن کر آپ سے ہی ہزاروں روپے کی تھیلیاں وصول کیں۔ ضرب و قتل کی واردات بھی آپ کے عہد کا امتیازی نشان ہیں اور آپ کا ہی یہ فتویٰ ہے کہ جو لوگ مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں اور مخالف کتیوں کی اولاد اور یہود سے بدتر ہیں۔ سیر یورپ کو گئے تو دمشق اتر کر منارہ بیضاء کا قرب حاصل کیا اور جناب عرفانی صاحب خلیفہ بہاء نے ہر چند تبادلہ خیالات کی غرض سے ملاقات کرنا چاہی مگر آپ گریزاں رہے

۱۰..... عبداللہ تیماپوری

اسے دائیں بازو کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ انجیل قدسی اس کی بہترین کتاب ہے قرآن شریف کی تحریف کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ یسفک الدماء سے مراد یہ ہے کہ معاذ اللہ حکم الہی کے خلاف حضرت آدمؑ نے بی بی حوا علیہا السلام سے خلاف وضع فطرت انسانی کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ بھی قدرت ثانیہ کا مدعی ہے اور دعویٰ سے کہتا ہے کہ بہت جلد مرزا محمود میری بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے تابعدار کھیل پور اور پشاور کے مضافات میں پائے جاتے ہیں۔

۱۱..... عابد علی شاہ بدو ملہی ضلع سیالکوٹ

مرزا محمود کا فتویٰ ہے کہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے رشتہ نامہ قطعاً حرام ہے۔ مگر اس نے اجازت دی ہوئی تھی طاعون سے مرافقا۔

۱۲..... محمد بخش قادیانی

پہلے پہل مخالف رہا پھر بیعت مرزا میں داخل ہو گیا اور بہت جلد ترقی کر کے الہامات شائع کر دیئے جن میں سے ایک الہام یہ بھی ہے کہ ”آئی ایم وٹ وٹ“

۱۳..... ڈاکٹر محمد صدیق

(لاہوری پارٹی) علاقہ کدک (بہار) میں اپنا مذہب پھیلا رہی ہے اپنی کتاب (ظہور

بشپور) میں لکھتا ہے کہ مسیح قادیانی دشنوا تار تھا۔ خلیفہ محمود ولد مرزا غلام احمد دیر بسنت ہے اور میں جن بشپور ہوں۔ میرے ظہور کے بعد سات سال تک مرزا محمود مر جائے گا۔ (مگر یہ الہام غلط ثابت ہوا ممکن ہے کہ اس سے مراد اخلاقی موت ہو کیونکہ بقول فضل پکٹ بھی اخلاقی موت سے مرگیا تھا) اور یہ بھی لکھا ہے کہ صوبہ بہار کی مذہبی کتابوں میں یہ دو موعود مذکور ہیں اور ان کا ہندو لوگ کمال انتظار کر رہے تھے یہ بھی لکھا ہے کہ:

۱..... مرزا محمود بہت جلد میرے ہم خیال ہو کر بادشاہوں کا سردار بنے گا اور ۸۴ سال عمر پائے گا۔

۲..... جب خدا اور رسول کے خلاف کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو مامور (غوث، قطب ابدال) وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ قادیان سے آواز آئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے۔ اس جہک آمیز عقیدہ کے دفعیہ کے لیے خدا نے مجھے معبود کیا ہے۔

۳..... جو علامات کتب ہندو میں لکھے ہیں ان کے مطابق میں ظاہر ہوا ہوں کہ میری والدہ نے بیوہ ہو کر نکاح ثانی کیا تو میں ساتویں نمبر پر پیدا ہوا۔ برکچاری بن کر علاقہ کرنا تک کو گیا۔ ۸ سال تک پوشیدہ رہ کر ظاہر ہوا۔ پینٹھ پر سانپ کے منہ کا نشان موجود ہے۔ ہاتھ میں سگھ نیل چکر وغیرہ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ کتب حدیث میں چالیس صدیوں کا ذکر ہے۔ جن میں سے چند نشان مثلاً خال وجہ وغیرہ مجھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔

۴..... حضور علیہ السلام کے بعد صدیق کا درجہ مہدی اور مسیح سے بھی بڑھا ہوا ہے میرا نام بچپن سے ہی صدیق دیندار ہے مجھے ایسے دعاوی کی ضرورت نہیں۔ خدا نے مجھے اپنے فضل سے پیشوا بنایا ہوا ہے میرا فرض ہے کہ جو جہک قادیان سے ظاہر ہوئی ہے اسے دور کروں۔

۵..... حضور علیہ السلام کے قول کے مطابق ۱۳۴۲ھ میں ترکستان میں سات سال جنگ رہی بعد میں میں پیدا ہوا۔ اس وقت میری عمر چالیس برس تھی اور ۱۳۰۳ھ میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ۸ اپریل ۱۸۸۶ء میں مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ ایک مامور (مدت حمل میں) عنقریب آنے والا ہے۔ اس کا نزول نزول الہی ہے وہ میں ہی یوسف موعود ہوں تاکہ اہل قادیان کی اصلاح کروں اسلام میں اس سے بڑھ کر کوئی اور حملہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کھڑا کیا جائے اور امتی کو احمد والی آیات کا مصداق بنایا جائے اور میں کروڑ مسلمانوں کو نبوت مرزا کے انکار پر خارج از اسلام تصور کیا جائے۔ اہل قادیان باز آجائیں تو بہتر ہے ورنہ وعید ہے دیر آمدہ زراہ دور آمدہ کا وعدہ مجھ سے پورا ہوا۔ محمودیوں اور پیغامیوں میں جھگڑا تھا اس لئے

میں حکم بن کر آیا ہوں (چن بشو سور)

۶..... ہندوؤں میں مشہور تھا کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوں گا مرزا صاحب بھی میری خبر دے چکے ہیں۔ میری صداقت سمجھ میں نہیں آتی تو چند دن صبر کرو خود فیصلہ ہو جائے گا۔ زمین آسمان میرے شاہد ہیں میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا جیسا کہ ان کو بھی معلوم ہے۔ مزید تحقیقات کی ضرورت ہو تو کم از کم پندرہ روز میرے پاس ٹھہر و حق کھل جائے گا۔

۷..... حضرت موسیٰ کے ۱۴ سو سال بعد حضرت عیسیٰ نے مجازی طور پر خدا کا نفاذ اپنے اوپر عائد کیا (جیسا کہ کذکر کم ایاء کم میں مذکور ہے) مگر لوگوں نے حقیقی خدا سمجھ لیا، خدا کے دربار میں جب پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ نے اپنی خدائی سے بالکل انکار کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد مجدد قادیان نے مجازی طور پر اپنی نبوت ظاہر کی تو مرنے کے بعد محمود نے حقیقی نبوت سمجھ لی۔ ۱۳۳۲ء میں مجھے مکافہ ہوا کہ میں جناب باری میں کھڑا ہوں۔ مرزا صاحب بھی موجود ہیں خدا نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی جماعت کو تعلیم دی کہ مجھے نبی مانو۔ کہا میں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی۔

۸..... لوگ مجھے مہدی مانتے ہیں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں میں وہی ہوں جو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ میں احمدیوں کے لئے یوسف موعود ہو کر آیا ہوں اور ہنک نبوت دور کر دی ہے۔ ہندوؤں میں کلمہ طیبہ موجود تھا میں نے اسے بھی ظاہر کر دیا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ میرے نشانات کئی ہزار ہیں۔ صرف اخلاقی نشان ۵۴ ہیں۔ یہ نعمت کیسے ملی! صرف حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا ہونے سے ملی اور قادیان کے خلاف کرنے سے ملی؟ غیرت الہی نے مرزا صاحب سے بڑھ کر نشانات میرے لیے ظاہر کئے۔ میرے سوا قادیان کی اصلاح ممکن نہ تھی۔

۹..... تلاش حق میں مرزا محمود کا مرید بنا عقائد پسند نہ آنے پر بیعت فسخ کر دی وہاں سے نکالا گیا اور لگا تار ۱۲ سال سے اس عقیدہ کی تردید کر رہا ہوں۔ خدمت رسول علیہ السلام کے طفیل جو مجھے نشان دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے بارش کا نشان زیادہ اہم ہے جو میری کتاب خاتم النبیین میں مذکور ہے۔

۱۰..... کذبت رسل من قبلك ..... نصرنا لکک کے جنگل میں ۲۰ دن بیٹھا رہا ہندو مارنے آئے تو ایک اڑدھانے بھگا دیئے۔ ملاڑ کے علاقہ میں بارش دو دو ہفتہ تک برستی ہے میرا وعظ میدان میں مقرر ہوا ہندوؤں نے مجھے جیل میں ڈالنے کی ٹھان لی تھی۔ بعد از



مغرب ابر پھٹ گیا گیارہ ہندوؤں آپڑے میں نے ایک آیت پڑھی سب ڈر گئے باوجود زبان بندی کے ۲۵ وعظ کئے۔ گدگ میں بارش نہ تھی میں نے دعا کی تو بارش آگئی۔ موضع بلہاری میں میرے خلاف مینٹنگ ہو رہی تھی۔ تو میز کے نیچے سے ایک سانپ نکل آیا تو سب بھاگ گئے۔ ڈاؤن گڑھ میں بارش نہ تھی میں نے کہا کہ میں وعظ کروں گا تو پندرہ منٹ میں بارش آئے گی۔ تو ایسا ہی ہوا لوگ واپس گھر پہنچے ہی تھے کہ سخت بارش ہوئی۔ پنڈت ہالیانے کہا کہ بشو یسور کی دعا سے بارش کا ہونا لکھا ہے ضلع میسور میں ایک سپرنٹنڈنٹ پولیس نے وعظ کے وقت مجھ پر گندگی پھینکوا دی تو اس کی ذلت ہوئی کہ اس کا داماد میرا مرید ہو گیا۔ مقدمہ چلا ہائی کورٹ میں میرے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ دل کی حرکت بند ہونے سے مر گیا اور اس کے معاون ڈگریٹ ہو گئے۔ سیٹھ محمد صاحب نے میسور سے مجھے چار شبنہ کے روز کہا کہ ناؤن ہال میں اتوار کو وعظ کرو میں نے کہا کہ خدا نے مجھے روک دیا ہے کہا کہ تم جھوٹے ہو میں ضرور وعظ کراؤں گا۔ اگلے دن ہی ایک ہندو پنڈت نے بحث کی تو میرا مرید ہو گیا غنڈوں نے کہا کہ اتوار کو ہم فساد کریں گے کیونکہ تم ہندو اتار ہو کر گائے کا گوشت کھاتے ہو۔ اب سیٹھ صاحب گھبرا گئے اور مجھے اتوار سے پہلے ہی میسور سے نکال دیا اور میں نے ان کو خط لکھا کہ دیکھو خدا کا کلام کیسے پورا ہوا نالیکوٹہ میں میرے ہمزلف عبدالقادر کے ہاں میری بیوی اپنی بہن کے پاس آئی میں اندر آنے لگا تو مجھے ڈانٹ پلائی۔ واپس چلا آیا تو چند یوم بعد وہ مر گیا۔ اس کی بیوہ میری مرید بن گئی۔ رات میرے پاس تنہا رہتی اور خدمت کرتی مجھے رامدرگ سے تالیگوٹہ کو جانا پڑا۔ اسٹیشن تک ۳۰ میل کا فاصلہ تھارات کو میری خوشدامن نے اسکو میرے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا جب پھر ہمزلف مذکور کے مکان پر پہنچے تو کوشے پر سو گئے بارش آئی تو نیچے الگ الگ سوئے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ لڑکی اپنی چھاتی میرے پاؤں سے لگا کر سوئی ہوئی دکھائی دی۔ اب میں دعا میں مصروف ہو گیا۔ چند روز بعد میری بیوی مر گئی اور اس لڑکی نے مجھ سے شادی کر لی۔ اسی تالیگوٹہ میں ایک سا ہو کار نے مجھے چھپر بند اور پھر شہر بدر کرنا چاہا تو رات کو اسے کان درد نے اتنا ستایا کہ ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے آخر دل میں ہی پشیمان ہو کر میرا نام لیا اور راکھ بانڈھی تو فوراً آرام ہو گیا صبح مجھ سے معافی مانگی۔ گدگ میں میرا ایک مخالف لڑکا مر گیا۔ لڑکائت میں ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ تم ہندو اتار ہو؟ میں نے کہا ہاں اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی میں وہاں سے نکل آیا۔ تو وہ مر گیا ۱۹۲۵ء میں بتایا گیا کہ ۵ ماہ کے بعد سرکاری دنگہ فساد ہوگا۔ تو ممتاز و باؤلہ کا کیس واقع ہوا۔ مجھے اپنے فونو کا بلاک بنوانا تھا قیمت سات روپیہ بذریعہ الہام ہو گئی۔ ہو سہلی کی مسجد سے مجھے آواز آئی بنگور میں صرف ۵۰۰ آدمی ہیں مطلب یہ تھا کہ اسلام

کے معاون صرف پانچ سو تھے ورنہ دولاکھ کی آبادی تھی۔ رانچور میں بارہ ہزار آدمی بتائے گئے توج نکلا۔ میرے حقیقی بھائی سید محبوب حسین میرے ساتھ تبلیغی دورہ میں مصروف تبلیغ رہے ۲۲ جگہ قیام کیا اور ۲۳ گھنٹے میں بغیر موسم کے بارش ہوتی رہی اور یہی چن بشو سیور کی نشانی تھی جو پوری ہوئی۔ ۱۹۲۵ء میں قادیان آیا تو وہاں بھی سخت بارش رات کو اس قدر ہوئی کہ کتبخانہ کی کتابیں لت پت ہو گئیں صبح میرے تکیہ کے پاس ہی کتابیں دھوپ میں رکھی گئیں وہ یوں کہتی تھی کہ تم نے غلط تعلیم دیکھ کر ہم پر پانی پھیر دیا ہے۔ میرے مکافضہ کے مطابق میرے بھائی احمد علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ خواب آیا کہ تیرتا ہوں اور میری پیٹھ پر میرے بھائی احمد علی کا لڑکا کا تہنیت علی ہے۔ کنارہ پر گیا تو اس کی جگہ اس کا بھائی مراتب علی پایا۔ معلوم ہوا کہ اسی رات مر گیا تھا۔ موضع ہلیلا رگ میں مجھے الہام ہوا کہ ایک واقعہ ہوگا۔ چنانچہ ایک مسجد میں وعظ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں اسی طرح آپکی امت بھی امام الامم ہے اس لئے چن بشو سیور بھی اسی امت میں پیدا ہوا ہے اتنا کہنا ہی تھا کہ مجھے بری طرح نکالا گیا اور مسجد دھوئی گئی۔ دربار شاہی حیدرآباد میں حاضر ہوا۔ تو لوگ مجھے پیشوا ماننے لگے میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ خدا نے مجھے پیشوا بنا دیا ہوا ہے ایک مولوی صاحب نے مجھے کافر کہہ کر خوب ڈانٹا مگر میں نے پروانہ کی بلکہ لکھ کر دیدیا کہ میں پکا احمدی ہوں سلسلہ محمودیہ کا سخت دشمن ہوں اس کی بیچکتی کرتا ہوں اور کرونگا پھر میں نے دبا یا تو وہ دب گئے اور مجھ سے معافی مانگی۔ حکیم سید محمد حسین نے میرے عقائد پوچھے تو میں نے یہ نظم پڑھ کر سنائی۔

### نظم

ساری قوموں کے میرے سامنے ہیں اصل اصول  
 جگ کی ہر قوم کے دنگل کا پہلوان ہوں میں  
 یعنی عیسائی و صوسائی زردشتی ہوں میں  
 آریہ ہوں لٹکا نب ہوں و قرآن ہوں میں  
 چھتری ہوں دیش ہوں شو درھن برہمن ہوں میں  
 سکھ کا نستہ ہوں اور حلقہ بھگوان ہوں میں  
 قادیانی ہوں لاہوری ہوں نجدی ہوں میں  
 نیچری ہے مرا مذہب اور اس سے فرحان ہوں میں

قادری چشتی دسہوردی ورفاعی ہوں میں  
 نقشبندی بروز مہدی دوران ہوں میں  
 حنبلی شافعی ہوں مالکی اور حنفی ہوں  
 عرشی فرشی ہوں بہائی واہل قرآن ہوں میں  
 خارجی معتزلہ اور ہوں میں اہل حدیث  
 اورسنی بھی ہوں اور زمرہ شیعیان ہوں میں

الغرض کل یہ مذاہب جو ہیں انسان کے ہیں  
 مجھ میں سارے ہیں مذاہب کیونکہ انسان ہوں میں

جیسے آدم کا وجود ہے گا خلاصہ عالم

پس اسی طرح ہے اسلام مسلمان ہوں میں

ہر ایک مذہب اور بالخصوص اسلام اپنے اصول پر قائم نہیں لوگوں نے فالتو باتیں شامل  
 کر رکھی ہیں مرزائی تعلیم کا بھی یہی حال ہے لوگ مرزا کو نبی جانتے ہیں حالانکہ ۶۳ جگہ اس نے لکھا  
 ہے کہ میں نبی نہیں ہوں پھر مولوی صاحب مجھے بزرگ جاننے لگے کیونکہ ایک بچلی میرے ساتھ تھی  
 جس سے وہ میرے مرید بن گئے۔

۱۴..... شروع میں موضع مریج سے ایک نے کہا کہ ہندو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان  
 گوشت خور بشویور بنا ہوا ہے کرنا تک علاقہ سے نکال دیں یا اس پر جادو چلائیں تاکہ روگی  
 ہو جائے۔ میں نے کہا کچھ پروا نہیں دو ہزار روپیہ دے کر آٹھ دن تک جادو کرایا۔ مگر کچھ نہ بگڑا  
 کیونکہ یہ کام اللہ کا تھا اور میرا جو ددر میان میں نہ تھا۔

۱۵..... ایک نے مجمع میں مجھے مار ڈالنے کی ٹھان لی قریب آیا تو میں نے کہا کہ میں  
 چراغ الہی ہوں خدا مجھے بچھنے نہ دے گا۔ موضع چکوڑی میں ایک نے کہا کہ تم بشویور ہو تو میں  
 داڑھی بڑھا کر رسول اللہ بننا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا ثبوت تو ۱۶ جگہ سے ملتا ہے تمہارا کیا ثبوت  
 ہے وہ خاموش ہو گیا پھر ایک لاشی لیکر آیا میں نے اس کو پاس بٹھالیا تو وہ لاشی غائب ہو گئی اور میں  
 بچ گیا۔ پھر میں جاتا رہا جا گھسا تو لوگ مجھے سلام کرنے لگے۔ بیل ہونگل میں لوگ مجھے پر خول  
 اڑانے لگے کسی نے داڑھی نوچی، کوئی دانت دیکھتا، کسی نے دم پوچھی میں نے کہا کہ تم گالیاں دو  
 میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو کہنے لگے ہم آپ کو اوتار مانتے ہیں ہم نے آزمایا ہے۔

۱۶..... میں حیدر آباد آیا وہاں ایک مولوی صاحب تکفیر میں بڑے ماہر تھے مجھے بھی

مرتبہ کہا میں نے کہا کہ میں ایسے لفظوں سے نہیں گھبراتا میں تو برہمن ہوں میں خود قرآن ہوں ایک ایک آیت پر اٹھارہ اٹھارہ کتابیں لکھ سکتا ہوں سارہ فقہ کا ترجمہ پوچھا تو میں نے سنا دیا اور کہا کہ کیا ماہر قرآن کو مرتبہ کہتے ہو؟ خالی ترجمہ تو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں مگر معارف کس سے سیکھیں گے۔ ایک دن اپنی انجمن بنگلور کے ہال میں وعظ کو نکلا۔ خیال تھا کہ بیت المال قائم ہو غلیل صاحب سے کہا کہ وہ قائم نہ ہوگا کیونکہ ایک اور واقعہ ہونی والا ہے۔ یہ کہہ کر سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھیں جن میں ایثار کا ذکر تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تم ایثار نہ کرو گے تو کیا قبر میں مال لے جاؤ گے؟ یہ سکر جناب ظہیر الدین کی وزیر زراعت میسور وہیں مر گئے۔ ہلال ضلع کاروار میں سورہ ابراہیم پر وعظ کیا تو ایک آدمی بیہوش ہو گیا۔ ایک عورت ہلی میں میرا وعظ سکر ایسی متاثر ہوئی کہ ہر طرف اسے بسویشور ہی نظر آتا تھا کئی دن تک یہی حالت رہی پھر میری مرید ہو گئی۔ کئی ایک وعظ سکر مجھے مہدی کہنے لگے۔ میں نے کہا صدیق ہوں اور یہی اعلیٰ رتبہ ہے میں اپنا نام نہیں جانتا۔ نبی کا نام بس ہے میں سب کو مسلمان جانتا ہوں۔

۱۷..... ایک نے خواب دیکھا کہ میں چار سو رجون کے درمیان ہوں تو اس نے حلیہ پہچان کر میری بیعت کر لی۔ ۱۳۳۱ھ میں محبوب شاہ افغانی نے خواب دیکھا کہ ہلی نور سے پر ہے اور ایک حوض میں کثرت سے تارے گرتے ہیں۔ تو وہ مدراس سے مجھے ملنے آیا اور میرے ہتھیال ہو گیا۔ سید غوث محی الدین تاڑ پتری نے کہا کہ گدگ میں مہدی آئے ہوئے ہیں تو آپ نے میری بیعت کر لی ایک سیاح نے خواب میں کتاب پر پیران پیر کی تصویر دیکھی کہ وہ مجسم بن گئی ہے۔ اسی سے میرا حلیہ لیکر میرا مرید بن گیا۔ ایک راجہ کو دو پہر کے وقت خواب آیا کہ جاؤ پیران پیر صاحب مصیبت میں ہیں حفاظت کرو تو وہ میری حفاظت کو آگئے۔ ڈیڑھ ماہ پیشتر پیر محی الدین نے میسور میں خواب دیکھا کہ ان کے پاس دو خادم لیکر آیا ہوں۔ آواز آئی کہ ان کی مدد کروں میں پہنچا تو پہلے خواب سنا چکے تھے اور میری شناخت کر لی اور معتقد ہو گئے۔ گل محمد نے ۹ ماہ پیشتر شاہ نور میں خواب دیکھا جس میں میرا حلیہ بتایا گیا جب میں پہنچا تو اس نے شناخت کر لیا۔

۱۸..... ہلی میں ایک شادی پر مجھ سے کہا گیا کہ بارش ستاتی ہے میں نے دعا کی تو بند ہو گئی بلہاری میں ایک کو بچھونے کاٹ کھایا کسی نے میرے نام کی دہائی دیکر دم کیا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ رکن الدین مخالف تھا تو اس کا گھر بار فنا ہو گیا آخر ایک بچہ رہ گیا تو اسے میرے قدموں پر رکھ کر معافی کا خواستگار ہو گیا۔ سیٹھ حسن نے اپنی بہن سے میرا نکاح کر دیا۔ جب مذہبی وعظوں کا شور اٹھا تو گھبرا گئے ایک رات میں باہر تھا تو میرے گھر کو باہر سے تالا ڈال گئے۔ میں نے دیکھ کر کہا

کہ تالا کھولو مگر آپ نے بہت کچھ کہا کہ کل عقائد کا تصفیہ ہوگا۔ میں ایک دوست کے گھر چلا آیا۔ صبح ہوئی بحث چھڑی میں نے کہا کہ یہ مہینوں کی بات ہے۔ بتاؤ کہ ہمیشہ کو بھیجتے ہو کہ جاؤں۔ تو وہ خاموش ہو گئے میں نے سوچا کہ وہ مجھے ماریں گے مگر وہ نرم ہو گئے اور گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ پھر سارا کنبہ میرا مرید بن گیا۔ ایک روشن ضمیر بچہ ست سالہ نبین کئی متصل گدگ میں تھا اسے ایک سا دھو سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا ہے کہا کہ ۶ وید ۱۸ پران اور چھ شاستر کہا تو پھر چن بشو یور آج کہاں ہیں کہا معلوم نہیں کہا تو پھر تم نے کچھ نہیں پڑھا وہ ڈیڑھ ماہ تک گدگ آئیے میں گدگ آیا تو میرے پاس آ کر میری تصدیق کی اور سب حاضرین کا حال بتا دیا اور میرے پاؤں دبانے لگا اور مجھے اپنا باپ کہہ کر پکارنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ لکنت والا مہدی ہے جو میری تصدیق کے لئے معبوث ہوا ہے۔

۱۹..... میں یوسف صدیق ہوں۔ یوسف جیسا علم مجھے دیا گیا ہے جس کی شہادت میرے عقارب اور میرے تبلیغی علاقہ کے مخالفین دے سکتے ہیں اور یوسف جیسی پاکدامنی بھی مجھے دی گئی ہے کیونکہ میرے ایک بعید رشتہ میں ایک خوبصورت اور شوخ طبع لڑکی تھی جو چار سالہ عمر میں ہی میری دوست تھی اور اس کے سینہ میں سوائے میری تصویر کے کسی دوسرے کی تصویر نہ تھی۔ ۲۵ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر میں کفن پوش فقیر بن گیا تو اس کا ناتہ دوسری جگہ ہو گیا مگر وہ مجھے چاہتی تھی میرا خط جاتا تو سینہ سے لگا لیتی جب میں نے اصلاح المسلمین، تبلیغ الاسلام۔ خادم اسلام، صفحہ اسلام وغیرہ انجمنیں قائم کیں تو ان دنوں میں اسی کے گھر رہتا تھا۔ ایک دن جمعرات کو ۵ بجے دیوان خانہ میں بیٹھا تھا کہ اس نے اپنے ماموں کا بسترہ تو دیوان خانہ میں بچھوایا اور میرا بسترہ والان میں تیار کرایا۔ رات کے دو بجے تھے سچی سچائی میری چادر میں آٹھسی اور لب پر لب رکھ دیئے میں نے آنکھ کھلتے ہی اسے دھکیل دیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وضو کرتا تھا مگر ہوش قائم نہ تھی اور گھنٹہ بھر وضو ہی کرتا رہا اور جب تہجد شروع کی تو نیند آگئی اور خواب دیکھا کہ میں پریشان حال اپنی بیوی کے پاس رام درگ ضلع بلاگوں گیا ہوں پیرا ہن پیچھے سے چاک ہے۔ بیدار ہوا تو صبح اور تہجد ملا کر پڑھیں اور لڑکی کو خط لکھا کہ ایسا کام نہ کرو۔ میں تم سے شادی نہ کرونگا اگر موجودہ ناتہ ناپسند ہے تو دوسری جگہ تبدیل کرالو اس نے کہا کہ مجھے لیجاؤ ورنہ زہر کھالوں گی میں نے روکا مگر وہ نہ مانی۔ یہ خطوط اس کی جیب میں تھے کپڑے اتار غسل خانہ میں گئی تو خالہ اس کے کمرہ میں آئی اور وہ خط اٹھا کر پڑھ لئے۔ اس نے فوراً چکچکرائین کی شیشی پی لی۔ اب ڈاکٹر آئے کہرام مچ گیا رات کو میں نے دیکھا تو نبض کمزور تھی اور کہہ رہی تھی کہ مردار کی موت مر رہی ہوں۔ میرے چچا نے کہا

کہ خون تم نے کیا ہے میں نے کہا کہ وہ خود دو بجے میری گود میں آگھسی تھی۔ میں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار ہوں۔ میری عصمت پر دھبہ آتا ہے اس واسطے میں نے صاف کہہ دیا ہے اور یہ عصمت حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر تھی۔ کیونکہ میں تیس سالہ تھا اور وہ ۷ سالہ کسی کا خوف بھی نہ تھا وہ منکوحہ تھی اور یہ باکرہ میرا غنویہاں تک ہے کہ مجھے کسی چیز کی پروا نہیں۔ نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوزخ کا ڈر ہزار روپے آتے ہیں مگر گھر ایک روپیہ بھی نہیں بھیجتا۔ کیونکہ میں جہاد بانفس کا پہلوان ہوں۔

۲۰..... اس امت میں جو مامور آئے گا حضور علیہ السلام کے متعلق جو تہک کے لفظ استعمال کئے جاتے ہیں ان کو دور کرنا اس کا خاص کام ہوگا۔ دکن میں مشہور ہے کہ پہلے اولوالعزم محمود ویر بسنت آئے گا۔ اس کے خیالات سے دنیا میں ابتری پھیلے گی (کیونکہ وہ ختم رسالت کا انکار کرے گا) جن کو دور کرنے کے لئے جن بشوہ سور صدیق اللہ کا بندہ ظاہر ہوگا۔ ویر بسنت کے نشانات یہ ہیں کہ ۱۹۱۳ء بروز جمعہ گدی نشین ہوگا۔ تاریخ پیدائش ۱۸۹۱ء سے پہلے ہوگی کشمیر کے نیچے کے علاقہ میں ظاہر ہوگا۔ گردن اور پیشانی کے بال اکٹھے ہوں گے پیشانی پر ہری رگیں ظاہر ہوگی کرشن اوتار کی گدی پر بیٹھے گا اس کے عہد میں جماعت دو کٹڑے ہوگی اور خون کی ندی بہے گی یعنی گریٹ وار ہوگی۔ اس کے دست دراز ہوں گے قرآن شریف کے غلط معنی کریگا۔ ایشور اوتار حضور علیہ السلام کی تہک کریگا۔

۲۱..... اے جماعت احمدیہ تمہاری جدوجہد کا لوہا مانا گیا ہے دکن میں میرے ساتھ ملکر کام کرو۔ اختلافات چھوڑ دو۔ بیچ اقوام کو سرکش لوگوں کی غلامی سے چھڑاؤ اور مسلمانوں کو کافر کرنے کی بجائے کافروں کو مسلمان کرو۔ اے خلیفہ قادیان، دکن اور قادیان کی جماعتیں گلجائیں گی آپ کو شمالی دولہا کہا گیا ہے۔ میرے پاس دس بارہ ہزار تک لوگ جمع ہو جاتے ہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے ۶۳ جگہ مدعی نبوت کو کافر جانا ہے۔ میں یوسف موعود بھی اعلان کرتا ہوں آپ کے بعد مدعی نبوت کافر، کاذب اور دجال ہے (یہ ہاتھی کے دانت دکھا کر ۷۸ پر لکھا ہے کہ لاہوری پارٹی اور قادیانی پارٹی دونوں نے خط و کتابت سے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تیرے ساتھ مل کر تبلیغ کا کام کریں گے)

۲۲..... حضور علیہ السلام کے بعد نبی بادشاہت قائم نہ ہوگی۔ جتنے بھی پہلے یا پیچھے موعود آئے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے آپ نے فرمایا کہ ماسن نبی الالہ نظیر من امتی اس لئے آپ کے عہد میں اعزازی اور بروزی موعود موجود تھے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر

مثیل ابراہیم تھے۔ حضرت عمر مثیل نوح۔ حضرت عثمان مثیل ادریس اور حضرت امام مثیل یحییٰ تھے۔ مگر ان کو نبی ماننا سخت گناہ ہے۔ حضرت پیران پیر نے اپنے اندر نبوت دیکھی تو فرمایا کہ اوتی الانبیاء اسم النبوة و اوتینا اللقب مولائے روم نے شمس تبریزی کو کہا کہ آپ رسول اللہ ہیں اور میں عمر ہوں۔ صرف چھیا لیسواں حصہ نبوت کا باقی ہے۔ اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ علم تصوف سے ناواقف غلو کرتے ہیں اور تکفیر میں لگ جاتے ہیں ورنہ مشنوی میں صاف لکھا ہے کہ آں نبی وقت باشد اے مرید اور ابن عربی اسکو ہمیشہ جاری مانتے ہیں۔ اے جماعت قادیان تمہارا غلو کرنا مصلحت خداوندی تھی کہ مماثلت مسیح پوری ہو مرزا صاحب کا قول ہے کہ آج ۱۸۸۶ء سے چالیس سال بعد تم (قادیانیوں) کا مامور آتا ہے وہ عنموائل یوسف صدیق ہے دور سے آتا ہے آپ نے بھی اس کے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ

باغ میں ملت کے ہی کوئی گل رعنا کھلا

آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار

آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے

گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار

۲۳..... عہد رسالت میں جہاد کبیر سے صحابہ نے بڑے مراتب حاصل کیے اب پھر

وہی زمانہ ہے۔ بابرکت ہیں وہ لوگ جو اس لیلۃ القدر کی قدر کرتے ہیں۔ قادیانیو! میاں صاحب

مامور نہیں ہیں ان کا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے اور ہم دونوں کا وجود کن کے لیے حجت ہے۔

اسلامی کامیابی صوفیانہ رنگ میں ہوتی ہے اور کبھی خشک ملاؤں سے نہیں ہوتی اور یہ کامیابی غیر اقوام

کے موعود سے ہوتی ہے چنانچہ حضرت طارق اسپین کے موعود تھے۔ خواجہ معین الدین ہندوستان

کے۔ حضرت عمر بیت المقدس کے، محمود غزنوی گجرات کے۔ یوسف عادل شاہ کرناٹک کے۔ دکن

مسلمان ہونے کو ہے تم ہی جو اس بوجھ کو اٹھاؤ گے۔ مجھے خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ تم میرے

پاس جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تمہارا موعود بشیر ہوں، مرزا صاحب کو نبی کہنا چھوڑ دو۔ خدا ایک ہے سب

کا رسول بھی ایک ہے۔ سخت بیدینی ہوگی کہ اس مرکز کو چھوڑ کر الگ مرکز قائم کیا جائے۔ پہلے گو

مرکز بہت تھے مگر جب شہنشاہ آگیا تو الگ بادشاہت قائم کرنا بغاوت ہوگا۔ اس کتاب سے انشاء

اللہ قادیانیوں کو ہدایت ہوگی۔

۲۴..... فروری ۱۸۸۶ء میں مرزا صاحب نے کہا کہ خدا نے الہام کیا ہے کہ ایک

وجیہ پاک لڑکا تم کو دیا جائے گا۔ وہ غلام زکی ہوگا۔ خوبصورت۔ تمہارا مہمان علیموائل بشیر صاحب

روح مقدس۔ نور اللہ۔ آسمان سے نازل ہونیوالا۔ مبارک۔ رفیق فیصل، صاحب شکوہ و عظمت و دولت۔ مالک مسیحی نفس، شافی امراض۔ کلمۃ اللہ، سخت ذہین فہیم، حلیم القلب۔ عالم علوم ظاہری و باطنی۔ تین کو چار کر نیوالا۔ فرزند دلہند۔ گرامی ارجمند۔ مظہر الاول والاخر۔ مظہر الحق والعداۃ۔ کان اللہ نزل من السماء نور آتا ہے نور۔ مسوح الہی تو میں اس سے برکت پائیں گی۔ ۱۸ اپریل ۱۸۸۶ء کو الہام ہوا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب پیدا ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کریگا۔

”نازل من السماء كذلك منذنا علی یوسف ۱۸۸۳ء انظر الی یوسف و اقبالہ ۰ انا خلقنا الانسان فی یوم موعود ۱۸۹۲ء یاتی قمر الانبیاء ۱۸۹۳ء کان من اهل البيت علی مشرب الحسن یصالح بین الناس ۱۹۰۱ء انی لا جد ریح یوسف لولا ان تفتدون ۱۹۰۵ء“ تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کرونگا اس کو قرب اور اپنی وحی سے مخصوص کرونگا اس سے حق ترقی کریگا۔ لوگ سچائی کو قبول کریں گے ممکن ہے کہ وہ ابتدا میں بے حقیقت نظر آئے۔ یاد رہے کہ ہر ایک کامل انسان بننے والا بھی نطفہ اور علقہ ہی ہوتا ہے ۱۹۰۵ء۔

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد

دیر آمد زرداہ دور آمد

باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا۔ ۱۹۰۷ء حضرت صاحب کو تین پھل آم کے ملے۔ ایک سبز رنگ سب سے بڑا تھا۔ یعنی بشیر اول یوسف موعود۔

۲۵..... ورنہ سب متعلق یہ الہام ہے کہ ایک دوسرا بشیر تم کو دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں اولوالعزم بھی ہوگا ۱۸۸۸ء میاں محمود پیٹ میں تھے تو مرزا صاحب کو ان کا نام مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا نظر آیا۔ یہ بھی الہام ہے ایک اولوالعزم پیدا ہوگا۔ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ وہ تیری ہی نسل سے ہوگا۔ فرزند دلہند گرامی ارجمند۔ مظہر الحق والعداۃ۔ کان اللہ نزل من السماء اور وہی فضل عمر ہے۔ ۱۸۸۷ء

۲۶..... بشیر اول عنموائل (ثانی اثنین) خدا اس کے ساتھ ہے یعنی صدیق اور عنموائل دونوں کے اعداد ۲۰۸ ہیں۔ یہ مکان کا بچہ نہیں کیونکہ اس بشارت کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے ہیں جو گذر گئے تھے۔ اس کے بعد دو سال ۹ ماہ ۴ دن تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میاں محمود پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دو فرزند پیدا ہوئے ہیں۔



خیر میں مبارک احمد پیدا ہوا۔ اب میری صداقت یہ ہے کہ:

..... ۱ آپ کہتے ہیں کہ وہ یوسف کہیں ضرور پیدا ہوا ہے۔ اب دور ہے دیر سے آئے گا  
۱۹۰۷ء کے اشتہار باغ ملت کی نظم میں اسی مضمون کو دہرایا ہے۔

..... ۲ میں ۱۸۸۶ء میں پیدا ہوا اور یوسف موعود ہوا جیسا کہ الہام میں تھا۔

..... ۳ تورات اور احادیث اور منجمین یورپ امریکہ بھی یہی ۱۸۸۶ء بتاتے ہیں اور ۱۹۲۳ء کو  
تاریخ ظہور بحساب قمری میں قرار دیا ہے۔

..... ۴ دکن کے ۶۳ اولیاء اللہ بھی ۱۸۸۶ء میں پیدائش مانتے ہیں اور ۱۹۲۳ء میں اس کا ظہور  
لکھا ہے۔

..... ۵ یوسف کی تمام صفتیں باکمال پائی جاتی ہے۔ (مرزا محمود میں نہیں پائی جاتیں)

..... ۶ میں بھائیوں کے لحاظ سے چوتھا ہوں۔ بیٹوں کے لحاظ سے بھی چوتھا اور چھوٹوں بڑوں  
کے لحاظ سے بھی چوتھا ہوں۔

..... ۷ پیدائش کی گھڑی بھی چوتھی ہے۔ دن چوتھا ہے تاریخ بھی چوتھی ہے بعد از ہزار صدی  
بھی چوتھی ہے۔ سال بھی چوتھا ہے (۴ رمضان پیر کا دن ۱۳۰۳ھ)

..... ۸ یوسف زلیخا کے قصہ سے میرا بالکل مشابہ ہے۔

..... ۹ اس کے الہامات بھی مرزا صاحب کی طرح بے دم اور بے زبان ہیں۔

مثلاً یہ کہ:

الف ..... تم دونوں ملکر ایک محکمہ قائم کرو گے، لوگ اس سمت کو نہیں دیکھیں گے، میدان

کر بلا، کام کرنا چھوڑ دیں گے، ڈھوروں کے حملہ سے کتا آیا اور میرے انگوٹھے کو آ پکڑا، مفارقت  
ہوگئی، ۳۵ کو سرکاری ڈنگا ہوگا، جاتا ہے مار کھاتا ہے، یہ آگ نہیں بجھتی، یہ پانی کڑوا ہے، آج بازار

ہے، آگے کام بڑھے گا، جو مانگے گا سو دوں گا، اب بھی بہت ہے چلو، ایک لاکھ چوبیس ہزار،  
بنگلور اور میسور کر بلا کے میدان ہیں، چور ہے، سر پر سبز پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں، لوگ تماشہ

دیکھیں گے، سکندر اوہاں جاؤ کام ہو جائے گا، شاید ہی ایسی سیر نصیب ہو، یہ گر جاتے ہیں، رائے  
چور میں بادہ ہزار آدمی مل جائیں گے، میں یہاں سے نکال دیتا ہوں، حیدر آباد کی ناک آپ کے

ہاتھ میں ہے، بنگلور جائے، تکلیف یا نقل پائے، کشتی ہوگی، معذرت نامہ ذرا کمزور ہے، ہندو اٹل  
گئے ہیں، جماعت والوں کو تمہارا بھی یقین ہو گیا، گیارہ کوس تک تمہارا اثر ہے۔

ب ..... ترکوں کی دعا بازی کا زور صدیق کے ہاتھوں سے ظاہر ہوگا، مہدی کے

زمانہ میں آدمی بیچ سے چیرا جائے گا، تیس خزانہ ملتے ہیں، کمین والا مکان تیرا، زمین آسمان تیرا، دانت توڑ ڈالیں گے، آپ کی جان میرے ہاتھ میں ہے، تیری عزت کروانا میرا کام ہے، کمال پاشا کی مردہ زمین کو جگائے گا، ہم تغیر کرنے والے ہیں، ۱۵۳۵ء کو تختہ الٹ جاتا ہے، چھ باب ہیں، تو سب کو گھیرے گا، تم میں اور جارج تیرا نام دنیا میں جگاؤں گا، تین سال گزر جانے دو، اب اس علاقہ میں اسلام نہیں پھیلے گا، انگورہ گورنمنٹ کے تیرے لئے سامان تیار کیا ہے، گدک مسلمانوں کا ہے، حیدرآباد یڑھ سو سال کے بعد روحانیت کے کمال کو پہنچ جائے گا، جو مجھے مان کر آگے بڑھا وہ شہید ہوا، اے سیمیا مصیبت کے دن میں، انگلینڈ کے لئے بھی تلوار چلے گی، قادیانی پارٹی مجھے مل جائیں گی، تلوار لیکر کام کریں گے، آٹھ سو سال میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک اور لڑائی ہوگی، سب سے بڑا واقعہ حسن نظامی کی بیعت ہے، ایک بچی آئی ہے آپ کے پاس تاکہ نکاح کرے، ایک سالہ لڑکی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ کہ میں کسی (صدیق) سے قرآن شریف پڑھوں اور اس کی مرید ہو جاؤں، گاندھی جی مجھ کو دیکھ کر ایک اندھیرے حجرے میں جا کر چھپ گئے۔

### نظم

راز دانوں کے لئے نقطہ عرفاں ہوں میں  
یہ وہ شے ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی  
کوئی شے ایسی نہیں جو نہ ہو مجھ میں ظاہر  
کوئی سیارہ فلک کا نہیں مجھ سے باہر  
میرے ماندہ پردہری رہتی ہے دنیا کی فضا  
جتنے دنیا کے مزے ہیں وہ ہیں مجھ میں موجود  
میں ہوں قرآن جہاں میری قرأت سب میں  
فعل مخصوص ہر اک جان کا ہے عام میرا  
اب تو انسان ہی کو خلق لکم کہتا ہے  
جب عناصر کے یہ پردے کو اٹھا کر دیکھا  
کچھ جدائی نہیں کہنے کو ہے اندر باہر  
کوئی شے غیر نہیں غیر کا سایہ بھی نہیں  
قاب تو سین کے منزل میں اتر کر دیکھا

اس کا اظہار کروں کس طرح حیراں ہوں میں  
گنتی میں ہوں میں حسب میں نمیلیں ہوں میں  
مظہر عالمیاں کرتب یزداں ہوں میں  
ہر فلک مجھ میں ہے افلاک میں دوران ہوں میں  
عالم ہر جنس کا ہے سب کا حکمراں ہوں میں  
گندی رنگ ہے میرا مجموعہ الوان ہوں میں  
گو لجن ایک ہے پر مجموعہ الحان ہوں میں  
مظہر نور خدا پر تو یزداں ہوں میں  
ہوں میں لولاک کے شمایاں اگر انسان ہوں میں  
قرب اللہ میں خود جنت وریحاں ہوں میں  
پھر قریب اور بعید ہونے میں یکساں ہوں میں  
احدیت میں جو کبھی تھا وہی آلاں ہوں میں  
انست خالق و مخلوق سے انسان ہوں میں

ہے مخالف یہ خلافت ورنہ رحماں ہوں میں  
 عکس رب ہوں یا کہ قدرت بڑاں ہوں میں  
 کیونکہ مہی رضا ہونے سے یک جہل ہوں میں  
 پھر تو ڈر گیا ہے اگر بے سر و ساماں ہوں میں  
 چار میں چوتھا وہی بندہ رحمان ہوں میں  
 ان میں ظاہر ہوں کبھی اور کبھی پنہاں ہوں میں  
 فرط رحمت میں برستی ہوئی باراں ہوں میں  
 یعنی اس دور کا خورشید درخشاں ہوں میں  
 سب کو تابع بھی کیا تابع فرماں ہوں میں  
 کیونکہ سب سستیوں سے شرف جاتاں ہوں میں  
 چونکہ ذوالفضل ہے وہ اس لئے دشماں ہوں میں  
 جو زمانہ میں عیاں وہی پنہاں ہوں میں  
 دائرہ نون یہ ہے نقطہ عرفان ہوں میں  
 زیں سبب عرش معلیٰ پہ حکمران ہوں میں  
 کیونکہ ہر شان سے توحید میں سرعالم ہوں میں  
 یعنی احمد کے عقب دست بداماں ہوں میں  
 دوسری آن میں بر عرش حکمران ہوں میں  
 اور در رنگ الہ گنبد دوراں ہوں میں  
 میں ہوں قرآن میں سائر نفس قرآن ہوں میں  
 میری خادم ہے ہر اک چیز حکمراں ہوں میں  
 میں ارادہ ہوں خدا کا یعنی انساں ہوں میں  
 صورت جسم لئے سب میں نمایاں ہوں میں  
 روپ لاکھوں میں ہر اک شان کا شلیاں ہوں میں  
 حوض کوثر کا وہی پیالہ عرفاں ہوں میں  
 جام کوثر ہوں صراط ہوں اور میزاں ہوں میں  
 عالم غیب شہادت میں نمایاں ہوں میں

دل ہے آئینہ میرا اور میں آئینہ میں ہوں  
 دیکھی تبدیلی امثال میرے ہاتھوں میں  
 رب کی مرضی سے میری مرضی ہے ملتی جلتی  
 مالک الملک ہوا ہے خانساں میرا  
 بندہ رب ہی رہا قادر کن فیکوں  
 میں وہی نور ہوں جس نور سے افلاک بنے  
 آنا آتا ہے جانا کبھی دکھتا ہی نہیں  
 ہفت افلاک انگوٹھی میں گنینہ ہوں میں  
 میری آمد نے ملائک کی زباں بند کردی  
 میرے ہی قلب میں اللہ ہی سما سکتا ہے  
 دلو ہاتھوں سے بنایا ہے میرے رب نے مجھے  
 ظل مولے کے نتیجے میں تو مولے نکلا  
 یہ جہاں عرش خدا ہے لوح محفوظ ہوں میں  
 پائی ہے رفعت سماوات نے رفعت مجھ سے  
 آگئے ارض و سما میرے قدم کے نیچے  
 مات کر دیا میری پرواز نے پروازوں کو  
 میری پرواز ہے اس طرح کہ آلاں یاں ہوں  
 ہو کا حاکم ہوں میں اللہ کا شاہد ہوں میں  
 کوئی مکنون جہاں مجھ سے نہیں چھپ سکتا  
 کل بہا عیاں کھڑے ہو گئے میرے ہی لیے  
 میں نہ ہوتا تو خدا کو یہ ضرورت کیا تھی  
 عقل کل تھا میں کبھی نفس میں آ کر ٹھیرا  
 اسے دلا دیکھ لے ہیں تینوں زمانے مجھ میں  
 دست احمد میں چھلکتا ہوں مثیل خورشید  
 مجھ سے بڑھ کر نہیں اس وقت کسی کی قسمت  
 احدیت سے بڑھ کر ایک میں آ کر ٹھیرا

شان و قرآن و عمل میں ہی شاہد بن کر  
 خشک زاہد تو لکیروں سے جسے ڈھونڈتا ہے  
 دائرہ نون میں نکتہ کا ٹھکانہ ہوں میں  
 ہفت افلاک سدا میری عبادت میں ہیں  
 یہ زمیں آسماں جو ہے وہ میری کرسی ہے  
 مجھ سے نکلا ہوا مجھ میں ہی فنا ہوتا ہے  
 درد و آلام کا احساس مجھے کچھ بھی نہیں  
 نہ کبھی نیند ہے نہ اونگھ نہ غفلت کا اثر  
 میں نہ محصور ہوں نہ موت مجھے آئے گی  
 ہر زمانہ کو سنبھالا ہے میری طاقت نے  
 رات دن عالم ملکوت میں ہے ذکر میرا  
 غیر موصوف ہوں موصوف نظر آتا ہے  
 عقل انساں کی رسائی سے بہت دور ہوں میں  
 یہ مقامات ہیں غیروں کو دکھانے کے لئے

تفقید..... ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس ضرورت قدرت ثانیہ نے اپنے  
 دعاوی میں کیا کیا رنگ دکھلائے ہیں ایک طرف تو مدعی نبوت کو کافر کہہ کر اپنی ہستی کو مہدویت  
 و مسیحیت سے الگ رکھا ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر اپنی فوقیت دکھائی ہے  
 اور صاحب وحی۔ مظہر الہی اور نجات دہندہ عالم و عالمان بن کر وحدت وجود کا بھی دم بھرا ہے اور  
 بعینہ یہی اس کے مرشد کی بھی حالت تھی۔ مریدوں میں بیٹھ کر خدائی تک پہنچتے تھے اور غیروں کے  
 سامنے نبوت اور مہدویت سے بھی انکار تھا۔

۱۲..... احمد نور کا ملی قادیان

مدعی رسالت قادیان میں ہی مدت سے مسیح قادیانی کا زلہ رہا ہے۔ ناک پر پھوڑا ہوا  
 تھا۔ تو کافی گئی اور نبوت کا رتبہ پایا، تہجد گزار۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ سرمہ فروش خانہ  
 بدوش افغان ہے۔ ہم ذیل میں اس کی افغانی اردو میں اس کے وعادی بیان کرتے ہیں۔ اس نے  
 لیک ٹریکٹ شائع کیا ہے جس کا عنوان لکل امة اجل نیچے لکھا ہے کہ:

..... اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ دین میری ہی تابعداری ہے۔ مجھے نہ

ماننا اللہ کے دین سے اخراج ہے۔ روحانی سورج ہوں میرا زمانہ لیلۃ القدر ہے۔ رحمتہ العظیمین ہوں۔ میرا نام محمد رسول ہے۔ میں منار سپید سے نازل ہوا۔ مظہر جملہ انبیاء ہوں اور قرآن کو ستاروں سے لایا ہوں۔ عسی ان یبعثک ربک مقاما محموداً میں خدا نے مجھے ہی کہا تھا کہ خلیفہ محمود کے عہد میں قادیان کے اندر تجھے معبوث کیا جائے گا اور ابعثہ مقاما محموداً میں بھی یہی حکم ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین میں ہے کہ افغانوں میں خدا نے ایک رسول بھیجا ہے و آخرین اور احمدیوں میں جو مسیح قادیانی کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس میں دو قوم کا ذکر ہے۔ ایک قوم مسیح موعود کی جو امت محمدیہ سے ملتی ہے دوم میری قوم جو مسیح کے بعد پیدا ہوئی اور غیر ملتی ہے اور اسی غیر ملتی قوم میں رسول کا معبوث ہونا لکھا ہے سو میں شرعی رسول ہوں میری شریعت قرآن ہے اور یہ قرآن اب اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے مجھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ احمد نور رسول اللہ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی دی ہے قریباً دس ہزار کے وحی ہے اور کثرت کے ساتھ کلام کیا ہے۔ میری وحی رحمن کی طرف سے ہے اس پر ایمان واجب ہے۔ میرا ساتھ دینا جنت ہے۔ الگ رہنا دوزخ ہے، میرے انکار پر ماریعت ہے۔

۲..... الہامات یہ ہیں کہ تم جملہ انبیاء کے مظہر ہو۔ واتبعوا النور الذی معہ

کما او حینا الی نوح ولقد اوحی الیک۔ ارسلنک شہدا۔ احمد نور کابلی اللہ کا رسول۔ الا رحمتہ العظیمین۔ ما انت بنعمۃ ربک بکاہن ولا مجنون۔ تم خاتم النبیین ہو اور قرآن تجھ کو دیا ہے مسیح موعود نے کلمہ کا دعویٰ کیوں نہیں کیا (اگرچہ بعد میں مرزائی یوں کہتے ہیں (لا الہ الا اللہ احمد جری اللہ) اس کا جواب یہ ہے کہ: ”ذک فضل اللہ یوتیہ من یشاہ“

۳..... فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر ایک رسول کا وقت مقرر ہے دوسرا

وقت اس کی امت کا ہے اور اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے پھر اور رسول کا وقت آجاتا ہے جو مسیح ثانی اور شمس روحانی کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ کے بعد یہودی شہداء علی الناس بن کر حاکم بنے رہے شمس روحانی عیسیٰ آیا تو یوم القضا تھا اور وہی لیلۃ القدر تھا عیسیٰ کے بعد شہداء ہوئے اور مطلع الفجر تک حاکم رہے تب محمد علیہ السلام لیلۃ القدر کے بعد پیدا ہوئے۔ کہ رات تمہاری اسی سے ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنی تبلیغ اپنے رسول کے سپرد کیا۔ جب آپ فوت ہو گئے۔ تو امت کے سپرد دین کی خدمت کیا اور اس کو شہداء بنایا۔ مسیح موعود آیا اب امت محمدیہ کا وقت گزر گیا۔ مسیح موعود مر گیا تو رات ہو گئی اور مرزائیوں نے سمجھا کہ ہمارا وقت قیامت تک ہے۔ اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ یہ نہ سمجھا

کہ یہ لیلۃ القدر پر نبی کا وقت ہے یہ حتی مطلع الفجر تک ہے۔ اب امت کا وقت گزر گیا۔ احمد صبح موعود کی امت میں محمد ثانی کے سپرد ہے اب حکم ہے کہ: ”ما اتکم الرسول فخذوه اطیعوا الرسول“ اگر تمام انبیاء ماقبل مانو اور مجھے نہ مانو تو تم مومنین میں نہیں ہو۔ میں قادیان میں سورج چڑھا ہوں میرا انکار کفر ہے۔ میں صبح ہوں ”والصبح اذا تنفس . ایس الصبح بقریب“ اگر لوگ میرا انکار کریں۔ تو وہ مجرم ہیں اور سورج کی روشنائی سے دور ہیں۔ اب موسیٰ عیسیٰ محمد اور احمد پر ایمان لانا کام نہیں دیتا۔ میں اپنے مقام پر بیٹھ کر تبلیغ کروں گا کیونکہ تبلیغ کے وسائل ڈاک وغیرہ موجود ہیں اپنی جان خطرہ میں کیوں ڈالوں ”فلا تکونن من الجاہلین“ تم رسول کو ڈھونڈو یہ ورنہ دوزخ میں جاؤ گے پڑھو۔ ”لا الہ الا اللہ احمد نور رسول اللہ۔ اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان احمد نور رسول اللہ“

۴..... شمس روحانی رسول اپنے وقت کا دائرے ہے۔ جب جاتا ہے تو دوسرے دائرے کے آنے تک فشی کام کرتے ہیں۔ دوسرا آجائے تو پھر بھی وہ کام کرنے لگ جائیں تو ان کو توپ سے اڑا دے گا۔ ہائے افسوس ان لوگوں نے (یعنی مرزائیوں نے) رسول کو نہ مانا خدا کی لعنت ان پر برسی اور دین سے خارج ہو گئے ”کمثل الحمار یحمل اسفارا“ بن گئے، رسول کے وقت لوگ تین قسم کا ہوتا ہے ایک منعم علیہم رسول کو ماننے والے دوم مغضوب علیہم اس کے منکر سوم، ضالین جو خاموش ہیں ”جعلوا اصابعہم فی اذانہم“ یہ تین قسم کے لوگ قیامت تک رہے گا۔ جو لوگ مجھے مانتے ہیں وہ کامیاب ہیں اب یہ کلام الہی مانو: ”الحمد للہ رب العالمین۔ ولا الضالین۔ الم ذلک الكتاب..... ہم یوقنون..... ارسلنک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ فکیف اذا جننا..... شہیدا۔ لکل امة اجل۔ یا ایہا الرسول بلغ..... الذین یبایعونک..... والذین امنو بہ وعزروه..... یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مالکم لا تؤمنون باللہ و الرسول یدعوکم لتتؤمنوا برکم اخذ عنکم میثاقکم۔ فتوکل علی اللہ۔ انک علی الحق المبین من یطع اللہ..... فوزا عظیما۔ ومن یشاقق اللہ..... شدید العقاب فجعلہم کعصف ماکول۔ ما والہم جہنم الا انہم ہم الخاسرون۔ کتب اللہ لاغلین انا..... عزیزا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا۔ قل فانظر و انی معکم..... فبا بغضب علی غضب واللکفرین عذاب مہین۔ بتس مثل القوم الذین کذبوا ابا یات اللہ انک لمن المرسلین۔ امنو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

يحسرة على العباد.....المؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك  
 وَاخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ “ اس میں یہ ہے کہ میں محمد رسول کلمہ والا سفید منارہ سے  
 نازل ہو کر عیسیٰ بن مریم کے بعد قرآن لایا اور زمانہ محمود اور مقام محمود پر قائم ہوا۔ ” مثل الذین  
 حملوا التوراة انا فتحنا لك فتحا مبينا هو الذي بعث في الاميين “ یعنی  
 افغانوں میں نبی بھیجا۔ اس افغان قوم کو دین کا وارث بنایا ہے۔ احمد نور کی وفات کے بعد یہ قوم  
 شہداء علی الناس ہوگی۔ پھر ایک اور رسول آئے گا اور یہ تین قسم بن جائے گی۔ ” منعہم علیہم  
 مغضوب علیہم اور الضالین “ افغان قوم با تخصیص اور باقی لوگوں کو بالعموم بشارت ہے کہ  
 بابرکت ہے وہ جس نے میری آواز پر لبیک کہا اور کہا کہ: ” ربنا انما بما انزلت واتبعنا  
 الرسول۔ کذبت قبلہم قوم نوح.....وعید بل کذبوا ابالحق لما جاء  
 ہم۔ ما ارسلناک الا رحمة للعالمین هو الذی ارسل رسولہ “ وہ مشرک ہے جو میری  
 مقابل کی آواز پر لبیک کہا اور میری آواز کو چھوڑ دیا ” انا لما طغيا الماء.....واعیہ کذبت  
 ثمود.....ابشر او احد انتبعہ۔ ما اغنی عنی مالیہ.....فما بکت علیہم السماء  
 یا ایہا الذین امنوا استجیبوا للہ.....یحییکم قل تمتعوا فان مصیرکم الی  
 النار۔ عالم کباب “ بھی یہی ہے اس آیت میں بتایا ہے کہ احمد نور عالم کباب ہے کہ مسج نے اس  
 کے آنے کی خبر دی ہے ” وقالوا کنا نسمع.....کان نکیر۔ وزرنی والمکذبین  
 .....عذابا الیما۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ “ اب اللہ کے  
 دین کی باگ صرف احمد نور کے ہاتھ میں ہے۔ افغانو! میرے ساتھ ہو جاؤ عرب کی طرح عزت  
 پاؤ گے۔ ” واللہ علیم بذات الصدور۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم برهان یوم  
 تبيض وجوه وتسود۔ یوم یدعون الی جہنم دعا۔ یا ایہا المدثر.....فکبر۔  
 الیس بقادر علی ان یحیی الموتی “ کیا میں قادر نہیں کہ احمد نور اور افغانو جیسے مردوں کو  
 زندہ کروں ” انہ لقول رسول کریم.....تذہبون “ احمد نور کا کلام رسول کا کلام ہے اور  
 کریم رسول ہے اور ثاقب اول رسول ہے۔ اللہ کے پاس کے عرش والا اللہ ہے، عزت دیا گیا  
 امین ہے یہ تمہارا صاحب مجنون نہیں یہ مجنون کا حال نہیں کہ ایسا کلام اس پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ  
 مجھے اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا ہے۔ ” انہ لقول فصل ما یتجنبها الا الا شقی الذی  
 یصلی النار الکبری فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا وجئی یومئذ بجهنم لقد  
 جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظلمون “ احمد نور موسی

ہے اس کا کلام بیانات ہے میری تابعداری چھوڑ کر دوسرے کی تابعداری کرنا عجل ہے اور یہ ظلم ہے یہ شرک فی الاواز ہے ایک طرف اللہ کی آواز ہے اور ایک طرف غیر اللہ کی۔ ایسے چھڑے کی تابعداری ہر قوم نے کی ہے۔ ”ہو الذی ارسل رسوله“ مشرک وہ ہے جو اللہ کی رسالت کو ناپسند کرتا ہے اور برخلاف آواز پر لبیک کرتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔

تفقید..... اس رسول نے اپنے عقائد کی بنا پر مرزا صاحب کو حقیقی رسول مانا ہے اور اپنے آپ کو مرزائیت کا ناخ نی قرار دے کر وہی چال چلا ہے جو اس کا مرشد چلا تھا۔ مگر اس کا قرآن چھوٹا ہے اور اس کا بڑا۔ شرک فی الاواز کا محاورہ مرشد کی تابعداری سے حاصل کیا ہے اب ہمیں کچھ ضرورت نہیں رہی کہ مرزائیوں کو خارج از اسلام کہیں۔ کیونکہ خود ان میں دو شخص (صدیق اور احمد نور) خصوصاً اور باقی مدعیان نبوت عموماً ان کی تکفیر کر رہے ہیں۔ ایران کی طرف نگاہ کی جائے تو وہاں سے بھی ان پر تکفیری گولہ برستا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آپس میں نپٹ کے ہماری طرف متوجہ ہوں تجھکو پرانی کیا پڑی اپنی صفرتوں۔

۱۵..... غلام محمد لاہوری رسول محاسبہ مظہر قدرت ثانیہ

ورنہ کیا جانے کوئی کون ہوں اور کہاں ہوں میں یہ مسلم ہائی سکول لاہور میں انٹرنس پاس کر کے دفتر پیغام صلح لاہور میں ملازم ہو گیا پھر وہیں ترقی پا کر ذمہ دار اراکین مجلس تک پہنچ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف مرضی کام ہوتا ہے تو وہی طریق حصول نبوت اختیار کیا جسے ان کے ہاں نبی بنا کرتے ہیں اور الہام ہونے شروع ہو گئے پیشین گوئیاں ہونے لگیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی۔ کہ خواجہ کمال الدین بہت جلد مر جائے گا۔ ملازمت سے برخاست کیا گیا اور زیر علاج رہ کر پھر بحال ہو گیا اور اس نے اپنے اشتہارات کے ذریعہ انجمن کی خیانتیں لکھنی شروع کر دیں کیونکہ راز دار تھا۔ اس لئے انجمن نے یہی مناسب سمجھا کہ گو اس کا دماغ درست نہیں مگر فتنہ سے بچنے کے لئے یہی بہتر ہے کہ اس کو کچھ دلاسا دے کر اپنے ساتھ ہی شامل کر لیا جائے۔ یقیناً اگر الگ ہو جاتا تو ضرور اپنی کتاب ماندہ شروع کر دیتا۔ جس کا کہ وہ وعدہ کر چکا تھا۔ مگر اب اس کی آتش فتنہ فرو ہو چکی ہے۔ تاہم اپنے دعویٰ سے دستبردار نہیں ہوا ہمارے خیال میں وہ کسی موقعہ کی تلاش میں ہے اور وہ دن دور نہیں جبکہ وہ اپنی لن ترانیاں اہل ہند کے گوش گزار کرے گا۔

۱۶..... عبداللطیف قمر الانبیاء

مہدی آخر الزمان مجد دو وقت نبی اور رسول۔ ساکن موضع گناچور ضلع جالندھر



پنجاب۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ایک دفعہ ۱۹۰۴ء میں بروز جمعہ قبل از نماز مغرب مجھے یہ الہام ہوا کہ: ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی“ جس میں مجھکو قطعی طور پر نبی اور رسول بتایا گیا۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں اس نے ایک کتاب چشمہ نبوت شائع کی ہے۔ جس کا پہلا حصہ پانچ سو صفحہ تک پہنچتا ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ

..... ا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے تھے۔ پھر نبی بنائے گئے۔ اسی طرح میں بھی مرزا صاحب پر ایمان لایا تھا مگر ان کی وفات کے بعد مہدی آخر الزمان اور نبی امتی اور رسول بن گیا ہے۔

..... ۲ مرزا صاحب کو ۱۸ سال تک اپنی رسالت پر یقین نہ تھا۔ بعد میں وحی جب زور سے آنے لگی تو ہوش سنبھالا کہ اوہ میں تو نبی ہوں اور مسیح ناصری سے بڑھ کر ہوں۔ تعجب ہے کہ اس طرز نبوت کی تصدیق حضور علیہ السلام کی نبوت سے حاصل کی جاتی ہے کہ (حضور علیہ السلام کو بھی تین سال تک یا بروایت دیگر چند ماہ تک یقین نہ تھا۔ کہ میں نبی ہوں یا ماؤف الدماغ؟ جبریل علیہ السلام ہر چند آ کر عرض کرتے رہے کہ: ”انک رسول اللہ“ مگر آپ اسے اسب شیطانی سمجھے جنابہ خدیجہ الکبریٰ اور ورقہ بن نوفل نے ہر چند حضور کو سمجھا یا مگر آپ کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اور اسی تذبذب میں آپ نے کئی دفعہ یہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ کسی پہاڑ کے اوپر سے گر کر جاں بحق ہو جائیں۔ مگر تائید ایزدی نے آپ کو بچا لیا تھا) لیکن یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہلی وحی میں نبوت حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ ہی آپ کو یقین ہوا تھا۔ کہ آپ نبی ہیں اور مرزا صاحب نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کا جو یہ لفظ نقل کیا ہے۔ کہ آپ فرماتے تھے کہ: ”خشیت علی نفسی“ مجھے اپنی جان کا خوف پڑ گیا تھا کہ جن بھوت مجھے ہلاک نہ کر ڈالیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ کیونکہ حضور علیہ السلام کو وحی اول سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا۔ کہ مجھے نبوت عطا ہوگی قبل از نبوت کے تاریخی واقعات اور معجزات نہ صرف آپ کو یقین دلا چکے تھے۔ بلکہ یہود و نصاریٰ کو بھی چشم برراہ اور آمادہ کر چکے تھے کہ کب آپ سے یہ دعویٰ معرض ظہور میں آئے اگر ان واقعات کو نظر انداز کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ وحی اول کے بعد متصل جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کا اسلام معتبر نہ ہوتا۔ بچوں میں حضرت علی علیہ السلام اول المؤمنین نہ ہوتے عورتوں میں جنابہ خدیجہ الکبریٰ اور مردوں میں جناب صدیق اکبر کو صدیق کا خطاب نہ ملتا کیونکہ حضور کو جب پہلی وحی ہوئی تھی تو آپ سفر میں تھے۔ کوئی آدمی مکہ سے واپس جاتا ہوا ملا۔ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے وحی اول کے ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو

جناب ابو بکرؓ نے اسی وقت آپ کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ اگر ان واقعات کو بھی ناقابل توجہ نہ سمجھا جائے تو اس کی وجہ ہمیں ضرور سمجھادی جائے کہ وحی اول (سورہ اقرآء) آج قرآن شریف میں کیوں داخل ہے۔ کیونکہ جب حضور علیہ السلام کو اپنی نبوت کا (بقول مرزا) یقین نہ تھا تو یہ وحی اول وحی نبوت نہ ٹھہری بلکہ ولایت ثابت ہوگی جو وحی نبوت میں شامل نہیں ہو سکتی ورنہ اولیاء عظام کے الہامات بھی داخل قرآن سمجھے جائیں۔ بہر حال اس مقام پر مرزا صاحب نے سخت غلطی کھائی ہے اور آپ کے بعد جناب خلیفہ محمود بھی لکیر کے فقیر بن کر سخت ٹھوکر کھا رہے ہیں اور خشیت علی نفسی کا مفہوم بھی صحیح طور پر نہیں سمجھا کیونکہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو اپنا ماحول دیکھ کر خطرہ پڑ گیا تھا کہ میں اس بار امانت کو کس طرح سنبھال سکوں گا اس لئے لعلك باخ نفسك کی طرح آپ مشکلات میں پڑ کر جاں بحق ہونا چاہتے تھے۔ علاوہ بریں یہ امر پایہ یقین تک پہنچ چکا ہے۔ کہ بیرونی شہادت سے حضور علیہ السلام کو اپنی نبوت کا فوراً یقین ہو چکا تھا۔ تذبذب کی حالت صرف چند ساعت تھی۔ گو آپ نے فترۃ وحی کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی کمزوری سے تین سال تک اعلان نبوت کی تبلیغ شروع نہیں کی تھی۔ مگر خاموشی سے اپنا کام اول یوم سے شروع کر دیا تھا۔ لیکن مرزا صاحب کو نہ تو ۱۸ سال تک اپنی شخصیت معلوم ہو سکی اور نہ ہی اعلان نبوت سے پہلے بیعت نبوت شروع کی۔ لدھیانہ میں بھی ۱۸۸۹ء کو جو پہلی بیعت شروع کی تھی وہ بھی مہدویت کی بیعت تھی نبوت کی تصریح پر قادر نہ ہو سکے۔ ۱۹۰۱ء میں بھی گو اعلان نبوت کر دیا تھا۔ مگر بیعت میں پھر بھی نبوت کا اقرار نہیں لیا جاتا تھا۔ بہر حال اگر ہم مان بھی لیں کہ بقول مرزا حضور علیہ السلام کو کچھ دیر کے لئے اپنی نبوت میں شک رہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کو پورے اٹھارہ سال تک اپنی نبوت کا یقین نہ ہو اس کج فہمی کی بناء پر مخالفین مرزا صاحب کی اس طرز نبوت پر ہنسی اڑایا کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عجیب ڈھنگ کھیلا تھا۔

۳..... نبی کو سب سے پہلے اپنی نبوت پر یقین ہونا ضروری ہے اور جس کو یقین نہیں وہ اس وقت تک نبی نہیں۔ نبی کو خدا تعالیٰ اپنا خاص غیب بتلاتا ہے کہ جسمیں حواس ظاہری اور باطنی تجربہ اور قواعد حکمیہ کو مطلق دخل نہیں ہوتا اور نہ یہ وہ غیب ہے کہ بعض کو معلوم ہو اور بعض سے پوشیدہ جیسے برقیات کا تجربہ کہ پہلے اہل ہند نہیں جانتے تھے اور اب جاننے لگ گئے اور جیسے مسریزم وغیرہ کہ قواعد حکمیہ کے استعمال کرنے سے حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پس یہی غیب الہی پر اطلاع پانا نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور یہی وہ علم غیب خدا کا

خاص علم غیب ہے جو دوسرے میں ذاتی طور پر پایا نہیں جاتا۔

۴..... مرزا یوں نے یہ غلط سمجھ رکھا ہے کہ مسیح اور مہدی ایک شخصیت ہیں کیونکہ مرزا صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی مہدی آچکے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ ہاں ان کے زمانہ میں کوئی مہدی نہ تھا۔ کیونکہ وہ خود ہی ایسے مہدی تھے جن کو خدا تعالیٰ نے مسیح بن مریم کا خطاب عطا کیا تھا۔ اس لئے میں آخر الزمان مہدی ہوں۔ میرا زمانہ شروع ہے اور مسیح کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔

۵..... مرزا صاحب کا اصلی نام غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ تھا۔ مگر آسمان میں آپ کا نام مسیح بن مریم رکھا گیا۔ علیٰ ہذا القیاس میرا اصلی نام عبداللطیف ہے مگر خدا نے آسمانوں میں میرا نام مہدی موعود محمد بن عبداللہ رکھا ہے اور جس طرح آپ روحانی اولاد بن کر سید ہاشمی بن گئے تھے اسی طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔

۶..... میرے نوے معجزہ ایسے ہیں جو بالکل مفصل واضح اور یقینی ہیں اور درست نکلے ہیں۔ خوابیں اور پیشینگوئیاں الگ ہیں جن کی تعداد بھی سینکڑے کے اوپر ہے اور مرزا صاحب سے بڑھ کر سچی نکلی ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں زلزلے۔ دباؤں اور سیاسی انقلاب میری پیشینگوئیوں کے مطابق آئے اور مرزا صاحب کی پیشینگوئیاں وہاں درست نہ نکلیں۔ رہا اب یہ سوال کہ ایک مدعی نبوت کو کس قدر معجزوں کی ضرورت ہے تو اس کا حل یوں ہے کہ مرزا صاحب کو اگر بقول بعض مرزائیوں مدعی نبوت ۱۸۸۲ء میں مانا جائے تو صرف ۳۷ معجزوں سے کام چل سکتا ہے کیونکہ آپ نے سراج منیر ۱۸۹۷ء میں اپنے صرف اتنے ہی معجزے گنے ہیں اگر آپ کو ۸۷ یا ۸۸ میں مدعی نبوت تسلیم کیا جائے تو سو معجزوں سے زیادہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ جیسا کہ تریاق القلوب ۱۸۹۹ء میں مذکور ہے۔ نزول المسح ۱۹۰۱ء میں ۱۵۰ تک مکمل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر بیماری کی وجہ سے صرف ۱۲۵ تک لکھ سکے۔ اخیر میں (حقیقت الوحی ۱۹۰۷ء ص ۳۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۳۰۰) پر یوں لکھا کہ میرا ارادہ تھا کہ تین سو تک نشان لکھوں مگر تین روز سے بیمار ہوں اور ۲۹ ستمبر ۱۹۰۶ء کو اس قدر بیمار تھا کہ غلبہ مرض اور ضعف اور نقاہت سے لکھنے سے اب مجبور ہو گیا ہوں۔ براہین حصہ پنجم میں انشاء اللہ تین سو پورے کر دوں گا۔ بہر حال حقیقت الوحی میں بھی ۲۰۸ سے زیادہ نہیں لکھ سکے اور ۹۲ معجزوں کا ادھار ان کے سر رہا۔ اب اگر ابتدائے نبوت کا خیال رکھا جائے تو میں نے معجزوں کا کورس ختم کر لیا ہوا ہے۔ میں ابھی زندہ ہوں میری نبوت کا آخری زمانہ امید ہے کہ مرزا صاحب سے بہت زیادہ معجزے حاصل کر سکے گا کیونکہ اس وقت بھی اگر رویا۔ کشوف اور اخبار بالغیب

شامل کئے جائیں تو ان کی تعداد ۲۰۸ سے نہ صرف بڑھ کر ہوگی بلکہ کئی گنا زیادہ نکلے گی۔ جو قلمبند ہو چکے ہیں اور قلمبند کرنے میں روزنامچہ پٹواریوں کی طرح تاریخ دن اور وقت تک درج ہے۔ باقی رہے وہ نشانات جو ابھی تک تحریر میں نہیں آئے تو وہ بھی مرزا صاحب سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کے نشان تین لاکھ سے زیادہ نہیں اور میرے نشان بارہ لاکھ سے زیادہ ہیں۔

۷..... خواجہ نعمت اللہ نے میری نسبت مہدی کا لفظ لکھا احادیث میں میرا ہی ذکر ہے۔ حدیث الکسوف میں میرا ہی تذکرہ ہے۔ دانیال نے میرا ہی زمانہ ۱۳۳۵ھ سے ۱۳۳۰ھ تک بتایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو صد اقتیں اپنے لئے مرزا صاحب نے پیش کی ہیں۔ وہ ساری مجھ پر بہت چسپاں ہوتی ہیں۔ غرضیکہ پونے چار سو تک میرے دلائل صداقت موجود ہیں۔

۸..... مرزا صاحب کی طرح شرائط بیعت بھی دس ہی مقرر ہیں۔ مگر گورنمنٹ سے جائز مطالبہ میں شریک کار ہونا ہمارے نزدیک گناہ نہیں اور نہ ہی ہم کسی مسلمان کو صرف اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ اس نے ہماری بیعت اختیار کیوں نہیں کی کیونکہ ایسے امور فروعات میں داخل ہیں اور اصل نجات خدا اور رسول اور قرآن شریف کے مان لینے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور بس باقی امور صرف تجدید ایمان کے لئے پیش کئے جاتے ہیں (اس لئے مرزا صاحب کا اپنی تعلیم کو مدد نجات ٹھیرانا غلط ہوگا)

۹..... مرزا محمود مامور من اللہ نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی تخت نشینی کے وقت لکھا تھا کہ پیغامی پارٹی بہت جلد فنا ہو جائے گی۔ کیونکہ ان کو الہام ہوا تھا کہ: ”یَمِزْقَهُمُ اللَّهُ“ خدا ان کو پارہ پارہ کر دے گا۔ مگر ابھی تک وہ الہام پورا نہیں ہوا

۱۰..... مولوی حکیم نور الدین بھیروی اپنے زمانہ میں مہدی وقت تھے کیونکہ سات نشان والا مہدی وہی تھے اور مرزا محمود بھی پہلے تو ان کو مہدی مانتے تھے۔ مگر جب تخت نشین ہو گئے تو لا مہدی الاعیسیٰ کی بناء پر منکر ہو بیٹھے

۱۱..... رہا یہ سوال کہ ایک ہزار سال تک نبی کیوں نہ آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صرف ہزار سال کے لئے خاتم النبیین قرار دیا تھا تاکہ فیضان نبوت کے بند ہونے سے اہل اسلام کمزور ہو جائیں اور نصاریٰ جاہل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا کے تحت میں طاقتور ہو جائیں اور غلبہ نصاریٰ کے وقت ظہور مسیح موعود کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔

## تفقید رسالت

اہل اسلام کے نزدیک نہ مرزا صاحب رسول تھے اور نہ ان کے مظاہر قدرت ثانیہ جو مہدی اور رسول بنے ہوئے ہیں کیونکہ وحی رسالت جبرائیل علیہ السلام کو وساطت سے شروع ہوتی ہے اور یا ایسے مخاطبہ و مکالمہ الہیہ سے ہوتی ہے کہ جس کو اور لوگ بھی محسوس کرتے ہیں اور اس مقام وحی کو خاص طور پر ممتاز بنایا جاتا ہے مگر یہ پیر و مرشد بتائیں کہ ان کو کس مقام مقدس پر شرف مکالمہ حاصل ہوا تھا۔ یا کس فرشتہ کی وساطت سے یہ مقام حاصل ہوا تھا۔ بالخصوص جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو محمد کی رسالت حاصل ہوئی ہے تو گھر بیٹھے بٹھائے یا غنودگی اور خواب میں کیوں حاصل ہوئی جبرائیل کیوں نہ آیا۔ دعویٰ تو اتنا زبردست کیا جاتا ہے کہ محمد اول کو بھی معاذ اللہ وسعت علمی اور وسائل تبلیغ حاصل نہیں ہوئی جو ان کو حاصل ہیں مگر جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صرف ہمارے دل میں ڈالا گیا تھا کہ ہم نبی وقت بن گئے ہیں۔ جناب اس قسم کے الہاموں نے نو آموز اور عام خیال صوفیاء کا بیڑہ غرق کر دیا تھا۔ تو بھلا آپ کون ہیں۔ تمہارا تو مرشد ہی کوئی نہیں، مرشد کامل کے ہوتے ہوئے جب صوفیائے کرام کا یہ ابتلائی مقام اہل اسلام کے لئے اور خود ان کے لئے فتنہ ثابت ہوا۔ تو ایک بے مرشد ہر ولایت کو معلم المملکت نے آڑے ہاتھوں کیوں نہ لیا ہوگا۔ تعجب تو یہ ہے کہ ان کے پیر صاحب فخر یہ طور پر لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت مسیح کا باپ نہ تھا اسی طرح میرا بھی روحانی باپ اور مرشد کوئی نہ تھا۔ اس لئے مجھے مسیح کا خطاب دیا گیا اور کبھی خیال نہیں کیا کہ شاید شیطان ہمارا مرشد بن چکا ہو اور نہ ہی اس وسوسہ کو دور کرنے کے لئے کسی مرد کامل سے استصواب یا استفسار کیا تھا اور نہ ہی (جیسا کہ تاریخ گواہ ہے) پیر و مریدوں میں سے کسی نے استعاذہ اور ابتلائے شیطانی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ زور دیا جاتا ہے تو صرف شب بیداری اور تہجد گزاری پر مگر ہم کہتے ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں کو ہی تو آسانی کے ساتھ شکار کر لیا کرتا ہے کیا تم نے صوفیائے کرام کے حالات نہیں پڑھے۔ یا تم نے جناب غوث اعظم کا مشہور واقعہ نہیں سنا کہ روشن ستونوں میں تہجد کے وقت آپ کے سامنے جناب شیطان علیہ اللعین تشریف لے آئے تھے اور قسم قسم کی بشارتیں دے کر فاصنع ماشئت کا درجہ پیش کیا تھا مگر آپ اس کے پتھر سے بچ نکلے تھے اور شیطان ہاتھ ملتا ہوا واپس چلا گیا کہتا تھا کہ تمہاری قسمت یا اور بھی بچ گئے ورنہ میں نے تو کئی تہجد گزاروں کا بیڑہ غرق کر دیا ہے۔ مرزائی نبی بھی اگر کسی کامل کی صحبت میں تزکیہ قلوب حاصل کریں۔ یا کچھ دنوں کے لئے تہجد کی بجائے اپنے تقدس کو جواب دے کر روزانہ

سجدہ میں گر کر ہزار دفعہ استغفار اور استعاذہ کو دہرائیں یا جو ان میں ماؤف الدماغ ہیں اپنی صحت جسمانی کے حاصل کرنے میں کوشش کریں۔ تو ہمیں امید کامل ہے کہ اس نبوت بازی اور اشتہاری تقدس کی بلا سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ عمل ناقابل برداشت ہے تو ذرہ اتنا سوچئے کہ جس نبی میں فتانی الرسول کا جھوٹا اور بلا ثبوت دم بھرتے ہو اس کو تو تینوں طرح کی وحی حاصل ہو چکی تھی اول وحی فرشتہ کی وساطت سے اظہار عطاءے نبوت کے وقت دوسری وحی بالمشافہ یا من وراء الحجاب لیلۃ القدر لیلۃ المعراج میں اور تیسری وحی الہامات و کشف کے ضمن میں کہ جس کو وحی غیر ملوکو کہا جاتا ہے مگر تمہارے پلے کیا ہے۔ یہی خواہیں حدیث النفس غیر معقول طبیعت کے اثرات اور سو داوی خیالات سمجھ بیٹھے ہو۔ اگر یہ سب صحیح بھی ہوں تو اس سے وحی رسالت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا اور صوفیائے کرام کا دعویٰ رسالت اور دعوائے الوہیت بھی اس لئے مسترد کر دیا گیا تھا۔ کہ ان کو وحی رسالت حاصل نہ تھی۔ مگر اپنے تقدس کے عشق میں اپنے الہام اور اپنی وحی ولایت کو گوعرش بریں تک پہنچا دیا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اس وحی کو وحی رسالت کا رنگ دیکر نہ اپنی تعلیم کو حقیقی طور پر موجب نجات ٹھہرایا تھا اور نہ اپنے غیر مبایعین کو اسلام سے خارج تصور کیا تھا مگر یہ آپ ہی ہیں کہ گندم نما جو فروش ہو کر اصل اسلام سے لوگوں کو بے خبر کر رہے ہیں اور نبوت کو ایسا مٹھکے خیر بنا دیا ہے کہ آئے دن ایک نہ ایک انہیں سے محمد کا روپ لیکر دنیا کے سامنے آدکتا ہے پوچھو تو پیش ملاں حکیم ملاں و پیش ہر دو بیچ۔ لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل۔ کچھ شرم کرو غیر مسلم اقوام کے سامنے اہل اسلام کی کیوں تضحیک کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ماؤف الدماغ نیم تعلیم یافتہ مظاہر محمدیہ کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ العود احمد کے طریق پر ہم کو معاذ اللہ محمد اول پر علمی اور عملی طور پر فوقیت حاصل ہے تو فوراً اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

۱۷..... نبی وقت نبی بخش معراج کے

ضلع سیالکوٹ کا باشندہ ہے اس کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کے طریق پر میں بھی اس وقت کا نبی ہوں۔ کسی ظریف نے اس کے جواب میں لکھ بھیجا تھا کہ ہم نے تو تمہیں نبی بنا کر نہیں بھیجا تم خواہ خواہ کیوں نبی بن گئے؟

۱۸..... غلام حیدر چہلمی

محکم الدین پٹیالوی اور محمد زمان سندھی وغیرہ بھی مدعی نبوت ہیں۔ مگر ان کی شہرت نہیں ہوئی۔

## ۱۹..... حکیم نور الدین بھیسروی

حکیم الامتہ اور مہدی وقت سات نشان والے مدعی مسیح قادیانی بقول عبداللطیف گنا چوری آپ قریشی النسب ذو شجۃ (پیشانی کے زخم والے) تھے۔ نبی عباس میں آپ کا نسب ملتا ہے مسیح نے انہی کی اقتداء میں نماز پڑھنی تھی۔ سو مدت تک پڑھتے رہے۔ یہی معاویہ بن کعبہ نصاریٰ سے لڑتے رہے۔ اکثر مسلمان ان کی بدولت ہی مرزاہیت میں داخل ہوئے اور یہی خلیفہ مسیح قرار پائے ابتدائی تعلیم اپنے اصلی مولد بھیرہ ضلع شاہ پور میں جناب مولانا احمد الدین صاحب مرحوم بگوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاصل کی تھی۔ مروجہ تعلیم سے فارغ ہو کر لکھنؤ جا کر طب پڑھی۔ پھر حرمین شریفین میں اکتساب علوم کیا مولانا مرحوم بگوی فرمایا کرتے تھے کہ اے نور الدین تم سے مجھے بدبو آتی ہے۔ مجھے خیال ہے کہ تم اہل اسلام کے لیے فتنہ بنو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں قیام کیا تو حضرت مولانا عبدالغنی مرحوم کی وساطت سے شیخ الاسلام عارف آفندی کے کتب خانہ سے علامہ طحاوی مرحوم کی تالیف شدہ ایک نایاب کتاب اٹھالائے کیونکہ وہ اسی لائق تھی کہ در کعبہ بزداد گر بیانی جناب مولانا عبدالغنی مرحوم نے ہر چند مطالبہ کیا خطوط لکھے مگر مہدی وقت ایسی پی گئے کہ ڈکار تک نہ لیا کیونکہ کتاب کے کیڑے تھے اور نئی تحریک کے دلدادہ تھے۔ ہندوستان واپس آئے تو ترک تقلید پر وعظ کہنے شروع کر دیئے اور رسائل شائع کئے تو علمائے عصر نے تحت قیادت جناب مولانا عبدالعزیز صاحب بگوی سجادہ نشین جناب مولانا غلام مرتضیٰ صاحب سجادہ نشین بیر بل اور جناب مولانا غلام نبی صاحب سجادہ نشین اللہ شریف، حکیم صاحب کو ایک فیصلہ کن مناظرہ میں شکست دے کر فتوائے تنقیر تیار کیا جس کی وجہ سے آپ کو بھیرہ چھوڑنا پڑا اور جموں تشریف لے گئے اور کسی کی سفارش سے مہاراجہ کے پاس طیب رہے طبیعت جدت پسند تھی اور سرسید مرحوم کا آغاز تھا۔ تو آپ نے سید صاحب سے خط و کتابت کے ذریعہ رشتہ اتحاد پیدا کر لیا۔ مرزا صاحب بھی ان دنوں تصانیف سرسید کے شائق تھے انہوں نے بھی نیچریت کی اشاعت میں مالی اور قوی بہت حصہ لیا۔ بقول وکیل جموں آپ نے ایک ایسا رسالہ مرتب کیا کہ جس میں ترک مذاہب کی تعلیم تھی۔ مگر یہ حوصلہ نہ ہوا کہ اسے شائع کریں۔ ان کی خوش قسمتی سے لاہور میں عبداللہ چکڑالوی نے تعلیم قرآنی کا اعلان کر دیا تو آپ فوراً اس کے طرفدار بن کر منکر احادیث بن گئے۔ ابھی اسی خیال میں منہمک تھے کہ براہین احمدیہ زیر مطالعہ آگئی تو لٹو ہو گئے اور قادیان کی راہ لی۔ اس وقت مرزا صاحب کی خوش قسمتی سے حکیم صاحب کے تعلقات ریاست جموں سے منقطع ہو چکے تھے اور بھیرہ واپس آ کر اپنے جدی مکانات کی تیاری میں عمارتی

ضروریات بہم پہنچانے کو لاہور آئے تو اشتیاق نے قادیان آنے پر مجبور کر دیا۔ پھر مرزا صاحب نے نہ جانے دیا۔ آخر قادیان میں ہی ہجرت کر آئے اور مرزا صاحب کے آخری دم تک تبلیغ کے کام پر متعین رہے۔ ۱۹۰۸ء میں جب مرزا صاحب کا انتقال ہوا تو جناب ہی خلیفہ المسیح منتخب ہوئے اور چھ سال تک امن و امان سے گدی سنبھالا۔ لے رہے اور مرزا محمود خلیفہ دوم کو اپنی زیر تعلیم اس قابل بنا گئے۔ کہ وہ مسائل متنازعہ کا مطالعہ خوب کر سکے اور مضمون نویسی میں کہیں خم نہ کھائے۔ بہر حال یہ شخص الہام و انکشاف کا مدعی تھا۔ بہدویت کا دعویٰ گواہی زبان سے نہیں کیا تھا لیکن مریدوں کے دل میں یقیناً یہ بات جم چکی تھی کہ سات نشان والے مہدی یہی تھے۔ وعظ میں ایک خاص لطف آتا تھا۔ منکرین اسلام کے اعتراضات کا جواب ایسے طرز پر بیان کر جاتے تھے کہ ان کو برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ مرزائیت چونکہ نیچریت کا ہی دوا آتش عرق ہے اس لئے نظریہ سازی میں جناب ید طولی رکھتے تھے۔ دھر مپال کے مقابلہ پر اپنے نام سے کتاب نور الدین لکھی جس میں مذہب سے آزاد ہو کر جواب دیئے اور صداقت مرزا پر ایک دو مقام میں اس قدر زور دیا کہ ناظرین حیران رہ گئے۔ قرآن شریف کے تفسیری نوٹ لکھواتے تھے مگر کتابی صورت میں شائع نہ کر سکے (مرزا محمود جو تفسیر آجکل شائع کر رہے ہیں شاید وہی ہو) اور کتاب فصل الخطاب میں باریک مسائل پر بحث کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ احسن امر وہی اور یہ شخص مرزا صاحب کی تائید میں کھڑے ہو کر تصانیف اپنے نام پر یا مرزا صاحب کے نام پر شائع نہ کراتے تو اس مذہب کو کبھی یہ فروغ حاصل نہ ہوتا۔ مگر تاہم ادبیات میں طبیعت کے بلید واقع ہوئے تھے۔ عربی میں لغم و نثر کی کوئی کتاب نہیں لکھی احسن امر وہی بھی اسی قماش کے مالک تھے۔ سیرۃ المہدی میں گزر چکا ہے کہ مرزا صاحب اپنی فوقیت حاصل کرنے کے لئے اپنی عربیت کی تحریریں ان دونوں کے ہی پیش کرتے تھے اور یہ دونوں بزرگ سردھن کر اور خراج تحسین گزار کر مریدوں کے سامنے چار چاند لگا دیتے تھے۔ اگر کچھ اصلاح دی بھی ہوتی تو مرزا صاحب اسکو مسترد کر دیتے بہر حال علوم نقلیہ میں مرزا صاحب سے یہ دونوں بزرگ فائق تھے جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے اور مرزا صاحب کا قول ہے کہ مسیح کے دو فرشتے یہی دونوں ہیں کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اتر ہے۔ حکیم صاحب کے خصوصیات یہ تھے کہ قبر کشمیر کا نظریہ آپ نے ہی قائم کرایا تھا۔ ہر مذہب و ملت کی کتب نبی کے شوق نے آپ کو مجبور کر دیا ہوا تھا کہ بہائی مذہب کی کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی آپ کے کتب خانہ میں موجود تھی۔ گردن کا مسح چھوڑ کر رکھا تھا۔ نکسیرتے اور تہقہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ مذہب آزادی تھا۔ نہ حنفی تھے نہ وہابی۔ سو کے قریب عمر پا کر قادیان میں ۱۹۱۴ء کو وفات پائی اور



بہشتی مقبرہ میں دفن ہوئے (دیکھو رسالہ شمس الاسلام بھیرہ فروری ۱۹۲۳ء) مرزائیوں نے آپ کی تاریخی حالات قلمبند کرنے میں بہت کچھ غلو کیا ہے مگر اہلیان بھیرہ کے مصدقہ حالات وہی ہیں جو ہم نے درج کر دیئے ہیں۔

۲۲..... عبداللہ تیماپوری نبی کے متعلق رسالہ مذکور لکھتا ہے کہ تیماپوری ریاست حیدرآباد کن میں ہے عبداللہ نے اپنا نام رکھا ہے۔ ”یمن السلطنة حکم عدل فی الارض خلیفة اللہ وفی السماء محمد عبداللہ مامور من اللہ مہدی موعود“ پہلی وحی یہ ہے کہ: ”یا ایہا النبئی“ تیماپور میں رہو۔ ۱۳۲۳ھ میں مدعی نبوت ہوا ہے اپنی کتاب (حاکم آسمانی ص ۳۱) پر لکھتا ہے کہ مجھے ۱۳۳۳ھ میں دعوائے نبوت کرتے ہوئے دسواں سال جا رہا ہے اور اپنے عروج کے لئے ۱۵ سال کا الہام موجود ہے اگر کسی دشمن خلافت کو مقابلہ منظور ہے تو مقابلہ کے لئے تیار ہوں۔ اس کتاب سے پہلے ۳۰ سال سے الہام شروع ہیں مگر ۱۳۳۳ھ میں زیادہ زور دار الہام شروع ہو گئے ہیں۔ مرزا صاحب کو مقام شہودی حاصل تھا مقام وجودی سے خالی تھے مگر مجھے دونوں مقام حاصل ہیں اس لئے میں ظل محمد، ظل احمد ہوں اور دونوں کا مظہر ہوں میرے مذہب کا نام طریقہ محمدیہ ہے مرزا صاحب نے خود میرے متعلق لکھا ہے کہ: ”کان اللہ نزل من السماء وجاءك النور وهو افضل منك“ ”درجہ رسالت میں، میں اور مرزا صاحب دونوں مساوی اور بھائی ہیں۔ جو فرق کرے کافر ہے اسی طرح مرزا صاحب اور حضور علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مامور من اللہ کو ۳۰ یا ۴۰ آدمی کی قوت رجولیت حاصل ہوتی ہے اور بلا اجازت فراغت نہیں ہوتی۔ ۱۳۳۹ھ میں اپنی کتاب قدسی فیصلہ میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے دربار حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ یا اللہ مسلمان مفلس ہو رہے ہیں۔ سود کی ممانعت منسوخ ہونی چاہیے۔ تو جواب آیا کہ فی سیکڑہ ساڑھے بارہ روپے سود تک کی اجازت دیتا ہوں۔ رمضان کے تین روزے بھی کافی ہیں۔ عورتیں بے پردہ رہ سکتی ہیں۔ میں بروز محمد ہوں اس لئے احکام شریعت بدل سکتا ہوں۔ اس سلسلہ کی تصانیف یہ ہیں۔ تفسیر فاتحہ۔ ”طوفان کفر۔ اسلامی گیت۔ ام العرفان۔ قصہ ادم۔ قدرت ثانیہ۔ رحمت آسمانی۔ ارشادات۔ توحید آسمانی۔ شناخت آسمانی۔ مکار مرشد کا ارشاد۔ فرمان محمدی۔ کسر صلیب۔ رسمی شادی۔ مبشرات آسمانی۔ صحیفہ آسمانی۔ شان تعالیٰ۔ حقیقت وحی الہ“ ان کی اشاعت کے لئے میر حسن میرزائی میل کنٹریکٹر۔ موٹرسروس ٹمکو رصوبہ کن وقف ہو چکا ہے۔

۲۳..... لو تقول علينا بعض الاقاويل سے مرزا صاحب نے (آئینہ

کمالات اسلام، خزائن ج ۵ ص ۵۴ ٹکس) میں ثابت کیا ہے کہ وہ شخص مفتری جو مدعی مکالمہ الہیہ ہو۔ بارہ سال کی مہلت پاسکتا ہے؟ (انجام آختم، خزائن ج ۱۱ ص ۵۰) میں لکھا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مفتری خدا پر بیس سال افتراء کرتا رہے اور وہ اسے نہ پکڑے۔ (ضمیمہ تحفہ گولڈویہ، خزائن ج ۱ ص ۴۲) میں لکھا ہے کہ براہین احمدیہ کو شائع ہوئے تیس سال ہو رہے ہیں تو اگر یہ مدت میری صداقت کے لیے کافی نہیں تو معاذ اللہ نبوت محمدیہ بھی مشکوک ہوگی (کیونکہ اس کی مدت بھی ۲۳ سال ہی تھی) (ایام صلح، خزائن ج ۱۳ ص ۲۶۸ مفہوم) میں لکھا ہے کہ کوئی مفتری علی اللہ ایسا نہیں پایا گیا کہ جس نے پچیس سال یا اٹھارہ برس مہلت پائی ہو۔ (حقیقت الوحی، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵، ۲۱۴) میں لکھا ہے کہ میری دعوت پر تیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جو نبوت محمدیہ کے زمانہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہلاکت مفتری سلسلے کی چار شرطیں ہیں۔

اول..... دعویٰ الہام معہ علم اس بات کے کہ وہ خود خدا نہیں ہے۔ کیونکہ مجنون اور معتوہ (نیم پاگل) کا کچھ اعتبار نہیں۔

دوم..... وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا معترف ہو۔

سوم..... دعویٰ کرے کہ مجھ سے خدا کلام کرتا ہے چہاں یہ کہ وہ اپنے دعویٰ کا اعلان بھی کرتا ہو۔ تو جس فتری میں یہ چار شرط موجود نہ ہوں وہ اس سے ہلاکت کے تحت میں داخل نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حسب تحقیق مرزا صاحب مفتری بارہ سال کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ مہلت پائے تو تیس سال کے اندر ضرور مر جائے گا۔ پس اگر معیار اول پر فیصلہ کیا جائے تو مرزا صاحب مفتری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اعلان نبوت کے بعد صرف آٹھ سال زندہ رہے تھے اور آپ کے مرید مظاہر قدرت ثانیہ دیندار۔ فضل بنگا مولوی عبداللطیف۔ تہا پوری اور احمد نور وغیرہ جو اس وقت مرزا صاحب کو کافر کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ بارہ سال گزار چکے ہیں تو کیا وہ سب معیار اول کے مطابق سچے ہیں؟ تو پھر ان کی اطاعت کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر یہ عذر ہے کہ وہ معتوہ اور نیم پاگل ہیں یا مجنون اور مرقا تو یہ الزام مرزا صاحب پر بھی قائم ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ خود اقراری ہیں کہ مجھے مرقا ہے اور یہ مدعی اقرار نہیں کرتے کہ ہمیں بھی کسی وقت مرقا ہوا تھا اور اگر مرقا یا مجنون کو خدا کی طرف سے مہلت ملتی ہیں کیونکہ وہ خود اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو دعوائے رسالت میں سچا تسلیم کیا جائے تو اس لئے بھی مرزا صاحب کی نبوت مخدوش نظر آتی ہے۔ اگر یہ عذر ہو کہ یہ لوگ خدائی دعویٰ کرتے

ہیں۔ تو اس لپیٹ میں مرزا صاحب بھی سب سے پہلے آسکتے ہیں۔ کیونکہ تھوڑی دیر کے لئے یہ بھی خدا بن گئے تھے اور صفات آلہیہ کا درجہ ہمیشہ کے لئے ان کو عنایت کیا گیا تھا۔ بہر حال اس موقع پر معیار صداقت ۱۲ سال یا ۳۰ سال مقرر کرنا صداقت مسیح کی مخصوص دلیل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قرآن شریف میں کوئی خاص مدت مقرر کی گئی ہے۔ نکتہ بعد الوقوع کے طور پر یہ سب کچھ گھڑ لیا گیا ہے کہ مفتری بارہ سال یا تیس سال کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ نظریہ قرآن شریف کے خلاف بھی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کی رسی دراز کرتا ہے اور اہل مکہ کو شریک مسائل کے افتراء کرنے میں مفتری کہا گیا ہے اور وہ خدا کو بھی مانتے تھے اور مجنون بھی نہ تھے اور دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ان کے مسائل حکم الہی کے مطابق ہیں۔ مگر نہ عہد رسالت سے پہلے زمانہ فترت میں بارہ سال کے اندر مرے اور نہ ہی عہد رسالت کے بعد بارہ سال کے اندر برباد ہوئے۔ اس لئے آیت قطع و تین سے ایک اصول قائم کرنا بالکل غلط ہوگا کہ چونکہ نزول آیت کے بعد حضور علیہ السلام تیرہ سال زندہ رہے تھے۔ اس لئے ہلاکت مفتری کی کم از کم مدت بارہ سال ہوگی اور چونکہ آپ کی رسالت ۲۳ برس تھی۔ اس لئے جو شخص ۳۰ سال تک مدعی نبوت رہے وہ بدرجہ اول سچا رسول ہوگا۔ اب اگر ہم انبیائے سابقین پر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت مخدوش ہو جاتی ہے کیونکہ اعلان نبوت کے بعد صرف اڑھائی سال تبلیغ کر سکے تھے اور واقعہ صلیب کے بعد گو مرزا بیوں کے نزدیک کشمیر چلے گئے تھے۔ مگر اعلان نبوت سے دستبردار ہو کر روپوشی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے اور اگر قطع و تین سے مراد قتل مفتری ہو۔ تو کئی ایک ایسے نبی بھی پائے گئے ہیں کہ ان کو ناحق قتل کیا گیا تھا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ آیت قطع و تین سے ایک اصول کلیہ قائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔

۲۲..... حقیقت یہ ہے کہ قطع و تین کی تہدید صرف حضور علیہ السلام کے لئے ہی تھی۔ جس سے آپ بچ نکلے تھے۔ اس کے نظائر خصوصی قرآن شریف سے اور بھی بہت مل سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ یتیم تھے تو خدا تعالیٰ نے اپنی کفایت سے پرورش کیا تھا، یا آپ غار میں چھپ گئے تھے یا آپ تنگ دست تھے بعد میں مالدار ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ تو ان مخصوص واقعات سے اگر یہ اصول قائم کیا جائے کہ نبی کے لئے یتیم ہونا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مفلس ہو اور غار میں چھپے تو تینوں اصول سے مرزا صاحب کی نبوت کا فوراً ہو جاتی ہے اور امر و نواہی میں بھی کوئی اصول قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو حکم ہوتا ہے کہ: ”قم الليل الا قليلا ورتل القرآن ترتيلا“ اکثر رات کو خدا کی یاد میں قیام کرو اور قرآن شریف خوش الحانی سے پڑھو تو پھر بھی مرزا

صاحب فیل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دائم المریض ہونے کی وجہ سے نہ خوش الحان تھے اور نہ قائم اللیل بلکہ صرف تقدس کے زور میں محمد ثانی بننے کا شوق تھا اور بس۔

### ۱۵..... خواجہ کمال الدین وکیل

ولد خواجہ عزیز الدین۔ ان کے بھائی جمال الدین نے کشمیر اور جموں میں تعلیم کی نشر و اشاعت کی اور ان کے جدا مجد خواجہ رشید الدین ایک مشہور شاعر اور لاہور کے قاضی تھے۔ خواجہ نے فارمن کرپین کالج لاہور میں تعلیم پا کر ۱۸۹۳ء میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور اکنامس میں تمغہ حاصل کیا اور ان کو بائبل میں خاص شغف تھا۔ ۱۸۹۸ء میں وکالت پاس کر کے لاہور اور پشاور میں پریکٹس کرتے رہے اور اسلام پر لیکچر دیتے رہے اور علیگڑھ یونیورسٹی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ ۱۹۱۲ء میں تبلیغ کے لئے یورپ گئے اور دوکنگ مشن کی بنیاد ڈالی اور دوکنگ مسجد کے امام بن کر رسالہ اسلامک شائع کیا۔ اردو میں رسالہ اشاعت اسلام بھی اپنے ہی خرچ سے نکالا اور رسائل بھی تصنیف کئے۔ کلر جی من پاور یوں میں خصوصیت کے ساتھ جادلہ خیالات کیا۔ جن سے متاثر ہو کر لارڈ ہیڈلے قادیانی ہوئے جو آجکل لنڈن میں مسجد نظامیہ کی تحریک کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے افریقہ یورپ اور ایشیا کا بھی سفر کیا تھا۔ حج کے موقع پر مرزا محمود کے ہمراہ جب مسیح قادیانی کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے یوں کہہ کر ٹال دیا کہ میں اسے صرف اپنا مرشد سمجھتا ہوں (جس کا یہ مطلب تھا کہ نبی اور مسیح نہیں مانتا) بہر حال سلامتی کے ساتھ حج کر سکے آپ کی مشہور کتاب بیبا بیع المسیحیہ ہے جو بیبا بیع الاسلام کے مقابلہ پر لکھی تھی اسلام کے لئے اپنی جائداد وقف کر چکے تھے اور ۱۹۳۲ء میں ۲۸ ستمبر کو وفات پائی۔ جب کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر زیر تالیف تھی۔ مولوی کرم الدین صاحب جہلمی کے مقدمہ میں مرزا صاحب کی طرف سے مفت ہکالت کرتے تھے اور مولوی فضل الدین صاحب بھیروی نے بھی اس مقدمہ میں بہت حصہ لیا تھا۔ مرض الموت میں فالج گر گیا تھا اور لاہور میں دفن ہوئے تھے۔ گو عام عقائد کی بناء پر مسلمانوں کو مسلمان ہی جانتے تھے۔ مگر ترک موالات میں سخت کوشاں تھے۔ لاہوری پارٹی سے تقریباً الگ ہو کر تبلیغ اسلام میں سرگرم تھے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مرزا صاحب کو بحیثیت مسیح ہونے کے پنجاب سے باہر اور یورپ میں کوئی نہیں چناتا۔ چنانچہ لارڈ ہیڈلے جب پنجاب میں آئے تھے تو قادیان نہیں گئے تھے

۲۶..... قادیان کی بہ نسبت لاہوری ذرہ وسیع الخیال معلوم ہوتے ہیں۔ مگر خواجہ ان دونوں سے الگ تھے اور مرزائی اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے مرزا صاحب سے بیعت کی تھی

اور ان کو مجدد وقت اور صوفی یا فلاسفر اسلام سمجھتے تھے۔ مگر غور سے دیکھا جائے۔ تو دونوں کا اصل مقصد ایک ہی ہے کیونکہ قادیانی کہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے امتی مجدد مثیل مسیح اور مہدی موعود کے مدارج طے کر کے بروز کے طریق محمد ثانی کا درجہ حاصل کیا تھا اور اخیر میں کمال رسالت کو پہنچ کر بغیر کسی حاشیہ آرائی کے کہہ دیا تھا۔ کہ خدا کے فضل و کرم سے ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس لئے جو شخص ان کا منکر ہے۔ ایمان بالرسول نہیں رکھتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ لاہوری اس منزل پر دوسرے راستے سے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف مجدد وقت مانتے ہیں اور مسلمانوں کو اس لئے کافر نہیں سمجھتے کہ انہوں نے مرزا صاحب کو نہیں مانا کیونکہ خود مرزا صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میرے انکار کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو سکتا اور لاہور کے مناظرہ میں مرزا صاحب نے تحریر اچند گواہوں کے سامنے مان لیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں اور یہ بھی کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد مدعی نبوت کو کافر سمجھتا ہوں اس لئے آپ کے بعد نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے اور نہ نیا۔ مگر چونکہ مرزا صاحب مجدد اعظم اور اعزازی طور پر بروزی نبی اور مسیح موعود تھے اور ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں تک گذشتہ مجددین میں سے کوئی نہیں پہنچا اس لئے جو مسلمان مرزا صاحب کو خارج از اسلام سمجھتا ہے۔ ہم بھی بطور معاوضہ اس کو کافر جانتے ہیں اور اس اصول میں خواجہ صاحب بھی شریک کار تھے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اہل اسلام قادیانیوں کے نزدیک اس لئے کافر ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کو نبی نہیں مانا اور مدعی نبوت کا الزام دے کر کافر قرار دیا ہے اور لاہوریوں کے خیال میں اس لئے کافر ہیں کہ انہوں نے ایک مجدد اعظم کو کہ جس کو خدا تعالیٰ نے اعزازی طور پر نبی کا بھی خطاب دیا تھا کافر کہا ہے اور خواجہ صاحب کے خیال میں مسلمان اس لئے کافر تھے۔ کہ ان کے مرشد کو مسلمان نہ جانتے تھے لو اب مطلع صاف ہو گیا کہ اہل اسلام کو مرزائیوں کا کوئی فرقہ بھی مسلمان نہیں جانتا۔ گو بظاہر چندہ وصول کرنے کی خاطر یوں کہہ دیں کہ ہم اہل اسلام کو اپنا بھائی جانتے ہیں اور اہل اسلام ان کے تمام فرقوں کو اسلام سے خارج جانتے ہیں اور جو ان کے کفر میں سرمو شک کرے اسے بھی ایسا ہی یقین کرتے ہیں۔ کیونکہ قادیانیوں نے اس شخص کو محمد ثانی قرار دیا ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کو بدل ڈالا تھا اور بروزی نبوت کا دعویٰ کر کے ان سابقہ بروزی نبیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ جو ملاحدہ اور زنادقہ میں پیدا ہوئے تھے اور اسلامی تلوار سے مارے گئے اور جس کے مظاہر قدرت ثانیہ آجکل برساتی کیڑوں کی طرح جا بجا سر نکال رہے ہیں اور اپنی اپنی نبوت کے رو سے خود مرزائیوں کو بھی کافر ثابت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور لاہوریوں نے اس شخص کو مجدد تسلیم کیا ہے کہ جس نے تجدید اسلام کا مطلب یہ لیا ہے کہ

اسلام قدیم کو چھوڑ کر اسلام جدید پیش کیا جائے گا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب باشریعت نبی نہ تھے مگر جو کام ناسخ شریعت نے کرنا تھا وہ جب مجدد نے سرانجام دے دیا ہے تو صاحب شریعت ماننے کی ضرورت ہی کیا رہی اور مظاہر قدرت ثانیہ نے مرزا صاحب کو مستقل نبی مانا ہے اور اپنی نبوت کی دعوت دی ہے۔ بہر حال اس نبوت بازی سے مسلمانوں کا شیرازہ جمعیت کچھ پہلے ہی بکھرا ہوا تھا۔ اور بھی بکھر گیا اور دن بدن بکھر رہا ہے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر ایک شاعر نے کہا ہے۔

چہ خوش بودے اگر مرزا نہ بودے      اگر بودے فتن افزا نہ بودے  
بدیں تجدید کردہ چوں بہائی      ازاں شد چوں بہائی میرزائی  
مسلمانان بند در قعر ہستی      زاودنگر تباہ کردند ہستی  
برادر برابر نیست یک دل      پدر را پسر بنی مجادل  
چراگشتی مسیح اے قادیانی      چوں دانستی کہ آں ہستی کہ آنی  
مسیح وصل رامایاں خریدار      کرشن فصل را از دور بیزار

۲۷..... خواجہ صاحب اگرچہ کسی عہدہ کے مدعی نہ تھے مگر یہ بات ضرور تھی کہ اپنے مرشد کی اصولی اصلاح ان کے بائیں ہاتھ کا کرتب تھا۔ مسیح بن باپ کا مسئلہ آپ نے ہی ترمیم کیا تھا اورینا بیع المسیحیہ میں ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ بت پرستوں سے لیا گیا ہے حالانکہ مرزا صاحب کو اپنے بے مرشد رہنے پر اس لئے ناز تھا کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ مگر خواجہ نے یہ خیال منسوخ کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ میں بھی کچھ الہامی گدگدیاں موجود تھیں جو تصانیف میں ظاہر ہوتی تھیں۔ آخری تفسیر اور ترجمہ شائع ہو جاتا تو سارا بخیہ ادھر جاتا کہ آپ کو باوجود تفسیر مولوی محمد علی کے کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ خامہ فرسائی کریں۔

مولوی محمد علی صاحب کو یہ ناز ہے جس تفسیر کو مرزا قادیانی اپنی حیات میں شائع نہ کر سکے وہ میرے لئے مقدر تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو جماعت اس کام کو سرانجام دے گی وہ حق پر ہوگی اور چونکہ ایک الہام میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قادیان میں یزیدی پیدا ہوں گے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ہم مدینہ المسیح دار الهجرة لاہور میں اس قلم کی روشن تبلیغ مذہب کریں۔ کہ جس کی نسبت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو قلم علوم لدنیہ کے ظاہر کرنے کو مجھے دی گئی تھی میرے بعد خدا تعالیٰ نے وہی قلم محمد علی کو دیدی ہے۔ یہ خیالات صحیح ہوں یا غلط ہمیں اس سے بحث نہیں مگر ان سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ کلام محمد علی کلام مسیح ہے اور کلام مسیح وحی الہی تھا

اور وحی الہی خدا کا کلام تھا۔ پس وحی کا دعویٰ سات پردوں میں ضرور مضمر ہوا۔

۲۸..... مرزا محمود کا دعویٰ ہے کہ میں مظہر قدرت ثانیہ ہوں میرے آنے کی سب سے نبیوں نے خبر دی ہے۔ میں فخر رسل ہوں

مقام اوبیس ازراہ تحقیر  
بد ورائش رسواں نازکر دند

پس میرا انکار مرزا صاحب کا انکار ہے اور مرزا صاحب کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے اس لئے جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہوا۔ بہر حال لاہوریوں نے قادیانیوں کو یزیدی قرار دے کر اپنے اسلام سے خارج کیا تھا۔ تو قادیانیوں نے ان کو خارجی اور باغی بنا کر بدلہ لے لیا۔ عوض معاوضہ گلہ نہ دارد۔ ناظرین یہ ہے غی روشنی اور باہمی تکفیر۔ تلعنین۔ کیا اب بھی آپ شکایت کریں گے کہ دقیانوسی مسلمان جھٹ کا فر بنا دیتے ہیں؟

۱۹..... راجل یسعٰی احمد رسول نبی چیچا وطنی ضلع منٹگمری محمد ثانی عبید اللہ مسیح موعود  
اس کی ادبی لیاقت بالکل محدود ہے۔ مرزائیوں میں جس قدر جہالت کمال پر پہنچتی ہے۔ اسی قدر نبوت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ آنجناب اپنی کتاب ہدایۃ اللغلمین میں فرماتے ہیں کہ شناخت مسیح کے متعلق درمنام وحی کا مفہوم یہ تھا کہ ساتھ منادی عیسیٰ کے اپنا رسول ہونا بھی ظاہر کر۔ الرسول یدعوکم اور اطیعوا الرسول میں میری طرف اشارہ ہے۔ ایک خواب میں میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے کہا کہ میرا جامہ مسیح کا۔ وہ حیران رہ گئی کہ کل تو یہ کہتا تھا کہ مسیح آئے گا اور آج خود بن بیٹھا ہے۔ بیدار ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ روح بد نے مجھ سے مسیح ہونے کا دعویٰ کرایا تھا اور اسی طرح یہی روح خبیثہ مرزا غلام احمد قادیانی پر ڈالی گئی تھی اور خود مسیح بن گیا تھا۔ حالانکہ خود کو لکھ چکا تھا کہ مسیح آسمان سے نازل ہوگا۔ (حقیقت الوحی ص ۱۳۹)

براہین میں نے مسیح کا آسمان سے آنا لکھا ہے۔ (حقیقت الوحی حاشیہ ص ۳۲۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳) میرا نام خدا کے نزدیک مدت تک مریم رہا تو اس نے مجھ میں سچائی کی روح پھونک دی اور میں حاملہ ہوا۔ فنفسنا فیہا من روحنا میں میرا ہی ذکر ہے پھر میرا ہی نام مسیح بن مریم رکھا (حقیقت الوحی ایضاً ص ۱۳۵) مجھے الہام ہوا کہ مرزا بن مریم کیسے بن سکتا ہے اس کی آمد کا کوئی حکم نہیں تو جیسا فرضی مریم بنا۔ ویسا ہی ابن مریم بنا۔ جو ماں ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتی اور جو بیٹا ہے وہ ماں نہیں بن سکتی یہ کیسے ابن مریم بن سکتا ہے حالانکہ نہ یہ اللہ کا بندہ بنا نہ اس کے پاس کتاب ہے نہ الصلوٰۃ الوسطی قائم کی نہ صلوٰۃ دلوک الشمس نہ صلوٰۃ زلف من اللیل نہ زکوٰۃ

دی نہ بغیر باپ کے پیدا ہوا نہ کلام فی الہد کیا نہ اس کو کتاب و حکمت سکھائی گئی نہ تورات و انجیل نہ نبی اسرائیل کی طرف معبوث ہیں نہ پرندے پیدا کئے نہ کھانے پینے کی خبر دی نہ تورات کی تصدیق کی نہ کچھ حرام کیا نہ حلال کیا۔ نہ حواری (یعنی صوفیائے کرام) اس پر ایمان لائے وحی سے۔ نہ تائید روح القدس پائی۔ نہ بند کئے اسرائیل اس سے۔ نہ ماندہ اتر اور نہ پاک ہوا۔ نہ وجیہ اور نہ بلند۔ نہ اس کے تابعداروں کو مخالفین پر فوقیت حاصل ہوئی۔ نہ کل اہل کتاب اسپر ایمان لائے۔ نہ اس نے احمد رسول کی تصدیق کی نہ سولی کی نفل کی۔ حق الیقین کے ص ۱۳۸ پر لکھتا ہے کہ غلام احمد معنوی طور پر ابن احمد ہے اور اپنے باپ احمد کی طفیل و صفی طور پر بلکہ اسم علم نہ ہونے کے طور پر بھی احمد ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اور محمود لکھتا ہے کہ احمد رسول یہ خود ہی ہے۔ عیسایوں کو ستانے کے لئے خدا نے ان کو استعارہ کے طور پر اپنا بیٹا کہا۔ اس دعویٰ کرنے میں محمد سے بھی بڑھ گیا یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا کی صفت توحید اور صفت تفرید ہوں۔ (حقیقت الوحی ص ۹۵، جزائن ج ۲۲ ص ۹۹) میں ہے کہ یہ تمام برکت محمد سے حاصل ہے۔ انہ جمع فی نفسی کل شان النبیین انہ خاتم الانبیاء وانا خاتم الاولیاء لا ولی بعدی الا الذی ہو منی و علی عہدی سیقول لعد ولسنت مر سلا انک لمن المر سلین (حقیقت الوحی ۹۹) جائداد کا دسواں حصہ دیکر اس کا مرید بہشت حاصل کرتا ہے جنت چندہ اور دفن مقبرہ بہشتی میں نہیں ملتی جس کے متعلق اس کا شیطانی الہام ہے کہ: "انزل فیہا کل رحمة" مجھے الہام ہو ہے کہ کل بہشتی مقبرہ حرام اور عیسے ملنے پر منہدم کیا جائے گا۔ تمام اس نے اپنے خدا کو دیکھا پاس شکل بہشتی مقبرہ حرام اور عیسے ملنے پر منہدم کیا جائے گا۔ تمام اس نے اپنے خدا کو دیکھا پاس شکل محمد کی بھی تھی تو کاغذات پیش کر کے فیصلہ کر لیا کہ اسے احمد تیرا نام آج رنگ دیا ہے قلم کا چھیننا عبداللہ سنوری کے کرتے پر بھی پڑا مگر خدا سامنے کلام نہیں کرتا جس پر آیت ما کان لبشر الا یہ گواہ ہے اور ولا ہم منا یصبحون قلم دوات کی ضرورت نہیں کن فیکون کا طریق جاری ہے نہ کوئی اس کے حکم میں شریک ہے الہام ہوا کہ غلام احمد مخالف مسیح انجیل کا اس میں روح اور نگزیب کی ہے ابن مریم کا نزول ہوگا منارہ قادیان پر ابن اللہ ہونے پر اس کو نہ مانوں گا۔ اگرچہ کل صفات آلہیہ کا مصداق بن جائے گا مگر قادیانی مسیح کو مار چکا ہے اور توفیتی کا سوال قیامت کو ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ ہو چکا ہے تو فی کا معنی پورا ہونا ہے خواہ کسی طرح ہو موت میں ہو یا منام میں خواہ احسن تقویم میں تفصیل کے لیے دیکھو ہدایت للعلمین اس میں ثابت کیا ہے کہ عیسے کی توفی فی المنام تھی اور خدا نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا تھا پس حیات مسیح کے تین دلائل ہیں کہ وہ



ادھیڑ عمر میں نازل ہوگا کل اہل کتاب اس کے مرنے سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے روز سب پر گواہی دیگا اس لئے میرا دعویٰ مسیح کا نہیں ہے حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ ہر ایک اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے محمد پر ایمان لے آتا ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ قرآن میں اس قسم کے ایما ن سے فرعون کو مومن نہیں کہا اور نزع کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا الہام ہوا کہ کل اہل کتاب بطو رتساخ کے وفات عیسے سے پہلے موجود ہوں گے۔

۳۰..... مسیح قادیانی کے وفات کے بعد جو زلرے آئے ہیں ان کے متعلق آ نجناب کے الہام یوں ہیں بھونچال زلزلہ دیکھائی دیا کہ ظالم ہلاک ہوں زلزلہ دس دن ایک گھنٹہ رہے گا زلزلہ تین دن سات راتیں آتا رہے گا لوگوں نے کہا آفت آئی میں نے کہا یہ وہی زلزلہ ہے زلزلہ عظیم دیکھا قیامت برپا تھی آسمان صاف تھا۔ تر جف الاض وہ دعویٰ کر دیں زلزلہ نمونہ قیامت ہوگا پہاڑ اڑتے ہیں۔ ۱۹۴۴ء میں مرزا یوں کا اشتہار دکھائی دیا کہ مرزا کی صداقت کے لیے فلاں جگہ طغیانی آئی میں نے کہا کہ یہ میری صداقت ہے اس کو تو مرے ہوئے اٹھارہ سال گذر چکے ہیں چند شکلوں نے کہا کہ تیری کوئی بات پوری نہیں ہوئی ہر سچہ کی شکل نے کہا جاپان یورپ اور بمبئی میں عذاب آیا ہے میں نے کہا جب یہ سرکش مانتے ہیں تو خواجہ حسن نظامی کیوں نہ مانتا ہوگا اچھا اس سے پوچھیں گے رعد و برق دنیا کا کل نقشہ دکھایا گیا موضع شاہ حسین جھیل تھی بیٹری چلتی تھی جنوبی ہند گول برہما اس کماری تھی صاعقہ دو بار مثل صاعقہ عاد و ثمود جن علماء نے اس الہام سے انکار کیا۔ ان کی شکلیں شیطان کی تھیں اکبر پور ضلع نکوڈر کو عذاب سے ڈرا گیا خواب میں اس کی تصدیق ہوگئی ایک ہندو نے کہا کہ ایسا عذاب کسی کتاب میں درج نہیں میں نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ تو اس عذاب سے ڈرا اس قوم کو کہ جس کے ہاں نذیر نہیں آئے یعنی اہل ہند کو ڈرا رام کرشن اور گوتم کے عہد میں کوئی عذاب نہیں آیا اس لیے وہ نذیر نہ ٹھیرے ایک ہندو نے کہا کہ بابو صاحب کو لینا میں نے کہا کہ میرا اختیار نہیں تینوں منظور کیا جھڑی بدلیوں والی آئے گی میری ہمیشہ ہ مردہ نے مجھے سے ایک کارڈ پڑھایا جس پر میرا ہی دعویٰ لکھا تھا خواب میں دیکھا کہ قوم لوط جیسی باد صراٹھی ہے عذاب صبح سے کیوں نہیں ڈرتے میری بستی کے باشندے ر جل یسعے کے ہیں وہ خامدون کے ہیں قریۃ الظالم اہلہا سے مراد نکوڈر ہے اٹھا کیہ کے ہیں المغضوب بھی نکو ڈر ہی ہے محمود احمد قادیانی نکوڈر ہے دور سولوں کا پہلا ایک ہے اٹھا کیہ تا حال ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ تابعت امام مہدی آخر الزمان ۱۹۶۱ء تک باقی رہے گا بعد مو سے کے قردن اولی ہلاک نہیں ہوئے اب میرے وقت ہلاک ہو رہے ہیں عقوبتیں مماثل محکمہ حال کے ملازم تبدیل ہوئے تو میں نے کہا

کارمیم اول لوہا اتارنا ہے پھر تجھ کو نکسال کا مالک بنانا ہے پچاس ہزار برس جنت اس میں سے دس ہزار برس زمین کا جنت ہے اور چالیس ہزار برس آسمان پر اور اسی قدر عذاب ہے نہ لائیں گے ایمان جب تک نہ دیکھ لیں عذاب اللہ محیط بالکفرین میں اشارہ ہے قادیانی فرقہ کی طرف اور ان کی طرف جو مجھے دیوانہ اور جھوٹا کہتے ہیں اٹھالیا ہم نے تم کو کشتی میں ہم نہیں بھیجتے جب تک کہ نہیں بھیجتے رسول کو رجز کافروں کی کاٹی جائے گی۔ سبئی میں بارش شدید دکھائی دی گھوڑے پر سوار ہوں عذاب کیوں نہ آوے گا سلطنت روم مٹ گئی خلافت علیہ منہاج النبوة وعدہ عذاب کا اٹل ہے ٹلنا اس کا ناممکنات سے ہے وہ عذاب ماہ جون میں آویگا بخدا تم پر ضرور عذاب آوے گا میں مامور من اللہ ہوں جنہوں نے نکالا ہم ہلاک کریں گے ان کو شاہد دلہ اور محمود معہ اولاد کے ہلاک ہوں گے دھارو لعل ابو جہل ہے ارے کہاں تک پہنچ گیا وہ ملازم اول تبدیل ہوگا پھر ہلاک عطیہ وار کوئی نہیں بچے گا اچانک ہلاک ہوگا بروئے تاریخ علمائے امت اب یہود و نصارے ہیں اور زہریلے سانپ ہیں ان کا مار ڈالنا ضرور ہے ہم تھوڑا سا عذاب دیں گے جس میں پھوڑے پھنسی اور درد سر وغیرہ بھی شامل ہے جو رات کو عبادت نہیں کرتا وہ ایسا ایماندار نہیں سکھو دیکھ لو اپنی کتاب میں میرا آنا ضرور ہے ممالک یورپ میں عذاب آئے گا۔ انذر الناس لتتذرن امر القری ومن حو لها آتی امر اللہ فلا تستعجلوه ڈوگر مامور ہو گیا بنایا ہم نے تم کو رسول۔

۳۱..... قبروں کے متعلق یوں دیکھا کہ ایک قبر پر بیٹھنے والے کو خوب مار رہا ہوں چیخ و طنی میں ایک قبر سپید پتھر کی تھی دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہ تھا ہانی نے کہا کہ اس پر میرا تین سو روپیہ خرچ ہوا ہے میں نے کہا بے سود مسجد میں ایک قبر تھی زبان سے نکلا کہ صرف پتھر ہی ہیں بوسیدہ قبر دیکھی جو کسی وقت بنگلہ تھی محبوب الہی کی قبر دیکھی بیچ میں کچھ نہیں پیر مہر علی شاہ گولڑی اور خواجہ حسن نظامی چلہ کشی کرتے تھے میں نے کہا کہ فضول ہے علی جویری کے مزار پر آیا دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں کیونکہ داتا صاحب ماگھی نمبر دار چچا وطنی میں روپ لے چکے تھے ملتان کے قبرستان میں نماز کے لیے جگہ تلاش نہ کی کیونکہ اس جگہ نماز حرام ہے رب سے مراد نصاب ہیں فنا جتنبوا رجس من عمل الشیطان دیوان چاولی محمد خان چودہری میں آیا ہے مزار میں کچھ نہیں رہا۔ بیعت حرام ہے۔ پاکتین گیا پیاس لگی۔ مزار کے پاس پانی سے سوا کے برابر نفرت تھی۔ کل بہشتی مقبرہ حرام عیسیٰ ملنے پر جا کر اس کو گرا دوں گا۔ یہ الہام قادیانی کے بہشتی مقبرہ کی طرف تھا۔ جو در پا کو مانے یا کتاب یا مرشد یا مزار کو سجدہ کرے من لضا لین ہے شہیدوں پر چراغ جلاتے ہیں یہ مزار پرستی ہے مڑھی کے پاس ہندو مردوزن دیکھے میں نے کہا کہ نہ مڑھی میں طاقت ہے کہ مرادیں

دے سکے اور نہ مجھ میں اس وقت میرا جامہ ہندو کا تھا سامنے شکل کرشن کی تھی عمرہ ۵۵ سال ڈاڑھی منڈی ہوئی سفید بروئے تناخ میں کرشن ہو گیا اور ان کو کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں کیا کہ میری موٹی پوجو اور میری مڑھی بنا کر پوجو انہوں نے خود ہی یہ کام شروع کر رکھا ہے اس زمانہ کے بت چین بغدادی اور اجیر اور انبیاء و رسول ہیں پیر مہر علی شاہ گولڑوی جس جس جگہ پر بیٹھے۔ اس جگہ کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ بھی گمراہی ہے۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے ہاتھ سے کاغذات گر پڑے ہزاروں اٹھانے کے لیے آئے میں نے کہا کہ یہ بت ہے خواجہ حسن نظامی سے میں نے پوچھا کہ کیا میرے رسالے پہنچے ہیں کہا ہاں پھر میں نے کہا کہ خواجہ محبوب الہی بت ہے خواجہ ناراض ہو کر چلا گیا خواجہ کی شکل کبھی نورانی نظر آئی اور کبھی سیاہ بال کترے ہوئے داڑھی نصف بالشت میں نے کہا شیطان ہے میں نے کہا یہ وعظ کی کہ: "واتخذوا من دون الله آلهته يا اعلیٰ" کہنا مردود ہے جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم مثلاً محمد رسول پیدا ہو کر زین العابدین کہلایا موسے پاک شہید شاہ شمس تبریز اور سرد یا حسن پھلواڑی کہلایا شیعہ یا علی پکارتا تھا میں نے کہا نہ عبادت کر اس کی جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے تابوت دیکھا جیسا کہ دسہرہ ہے میں نے کہا جب تناخ مانا جائے گا۔ یہ نہ رہے گا مر اسی اندر دیوتا کا بھجن گا تا تھا تو میں نے کہا کہ اسی طرح مسلمان نعت خوانی کرتے ہیں مردہ رسول یا استاد یا مرشد سے فیض حاصل کرتے ہیں مگر وہ آگاہ نہیں ہندو کو سوچ پوجتے دیکھا تو کہا کہ وہ بھی آگاہ نہیں رسولوں کو ہمیشہ رہنے والا اور ایسا جسم جانتے ہیں جو کھاتا پیتا ہے اور نذر و نیاز دیتے ہیں کریم بخش نمبر دار نے کہا کہ پاکپتن کب جاؤ گے تو میں نے کہا میلوں پر جانا حرام ہے اور ان کے نام کا کھانا بھی سور کے برابر ہے مردہ کی دعوت دیکھی میں نے کہا فضول رسم ہے مردہ کو ثواب نہیں پہنچتا تو میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ کلام بخشی یہ تو مردہ کے بھائی وال ہیں کفن سے صافہ لیتے ہیں۔ ساتویں دن کپڑے جمعرات کو روٹی چالیسوں دسواں ششماہی اور سالانہ وغیرہ قبر پر تین روز قرآن پڑھتے ہیں اور اسقاط کراتے ہیں گیارھویں اور دودھ ایک نے کہا کہ تین ماہ ہوئے میرا لڑکا مر گیا ہے دعائے مغفرت کرو میں نے کہا کہ کیا فائدہ وہ تو دوسرے جسم میں آ بھی گیا ہوگا۔

۳۲ ..... شفاعت کے متعلق یہ خواب آیا کہ یہ پیر و مرشد ہر ایک کے کہنے سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں من ذالذی یشفع عنده اور تناسخ کے ثبوت میں کئی آیات پیش کی ہیں اور خواب دیکھا ہے کہ خدا نے میری زبان سے یہ کہلایا کہ میرا دعویٰ ہے مڑ کے پیدا ہونا خدا کی قسم یہ قرآن کا بھاری معجزہ ہے شمس الدین پٹواری نے پیر مہر علی شاہ

سے کہا کہ اس نے زوالا دعوے کیا ہے کہ انسان بار بار پیدا ہوتا ہے پیر نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی لکھا ہے میں نے کہا کہ خدا نے یوں ہی لکھا ہے من نفس واحدة خلقاً بعد خلق فی هذه الدنيا حسنة۔ عذاب شديد فی الدنيا والاخرة وہ گن گن کر کے جواب دینے لگا پیر نے کہا کوئی پختہ دلیل دو۔ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں کہ اندھا، کانا، گنگا، بد صورت وغیرہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اس جہاں میں بدلہ نہیں ملتا تو سارے بچے یکساں پیدا ہوتے مجھے بتایا گیا تم ہاتیل ہو۔ میں نے سمجھا کہ میں ہی پہلے نوح، لوط، اسحق، ہارون، الیاس، لقمان، سلیمان، عمران، یحییٰ، محمد، ابن عربی وغیرہ تھا۔ جارج پنجم اور فرعون بھی رہا ہوں۔ قادیانی اندھیرے میں سو رہا ہے۔ میں نوح جاگتا ہوں۔ پوچھا گیا موسیٰ کون ہے۔ نوح کون ہے۔ جواب آیا کہ یہ نذیر (یعنی میں) خیال آیا کہ دیکھوں قادیانی کی دعوت قبول کرتے ہیں اور میری سچی دعوت قبول نہیں کرتے۔ کفیی باللہ شہیدا میں حزقیل اور یونس ہوں۔ اے اسرائیل میں آیا تمہارے پاس جیسے آیا تھا۔ پہلے (یعنی شیت ہوں) تیری جور و آگ میں جلی تو لوط تھا۔ شعیب کا نام دیکھ کر میں نے کہا یہ محمد رسول اللہ تھا۔ بلقیس آئی تو میں سلیمان تھا اور بلقیس میری بیوی جھنڈی بی تھی۔ وہ ام المؤمنین ہے۔ میری روح صالح نبی میں تھی کسی نے کہا محمد عبید اللہ نے اصحاب الرس سے خوب کی۔ ایلیانہ کی روح مجھ میں ہے۔ روح عمران یحییٰ میں میرے پاس دو آدمی آئے تیسرا ڈر گیا نہ آیا۔ دو بھی جانے لگے کہ مرزائی نہ دیکھ لیں۔ میں نے کہا نہ ڈرو میں یحییٰ زندہ ہو کر بیٹھا ہوں۔ وحی میں خدا نے کہا اے یحییٰ تیری روح ہر سہ امام میں یعنی امام مہدی۔ امام زین العابدین اور امام غائب میں ہے ان الیک یسعی والیک المصیر۔ انتم الخلفاء یعنی تو ہی ہارون الرشید تھا۔ امام بخاری اور ابن عربی اور تو ہی امام آخر الزمان ہوگا۔ ملتان گیا تو کسی نے کہا کہ موسیٰ پاک شہید رسول اللہ ہیں۔ شاہ شمس تبریز میں ہوں۔ نعمت ولی بھی میں ہی ہوں۔ خدا نے کہا کہ حافظ شیرازی تو ہے۔ میں نے کہا کہ روح میری سرمد میں ہے۔ میں میاں میر میں۔ لوگوں نے مجھے فردالاولیاء حسن پھلواری کہا۔ اخیر میں ہی رجل یسعی ہوا میں بہادر شاہ تھا کسی نے مجھے کہا تم نے محمد سمرنا بننا ہے۔ کسی ہندو نے کرشن کے جامے (روپ) دریافت کئے جامہ محمد پر خاموش رہا اور جامہ گوبند سنگھ پر تصدیق کی۔ میں نے کہا کہ اب وہ کرشن کی روح مجھ میں ہے۔ کرشن سنگھ دیکھ میں نے کہا کہ اگر میں اسے کہوں کہ میں ہی گوبند سنگھ اور کرشن ہوں تو برامنائے گانہ کہنا ہی مناسب ہے۔ گورو گوبند سنگھ محمد ہے دسویں گرنتھ میں دیکھو۔ کہا تو سا کی منی ہے اور توبدہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی نورانی شکل دکھائی گئی۔ اخیر پر مظاہر ہوا کہ وہ میں ہی تھا۔ زبان سے جاری ہوا میں ہی محمد ہوں۔ میں نے

ایک مجمع میں بار بار پیدا ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تصدیق ہو چکا کہ یہی محمد ہے۔ ثبوت تاسخ میں آیات بتائی گئی۔ الانسان من سلالة من طین لا زب یمیتکم ویحییکم من ماء مہین ہدایت دینے بغیر کوئی مجرم نہیں بن سکتا تو بتاؤ ہند میں کون نذیر آیا امریکہ یورپ اور چین میں کون تھا لمبی عمریں دے کر ادھر کی رو میں ادھر دل بدل کر ایشیاء کے نبی سب کے لئے نذیر بنے بار بار ایشیاء اور یورپ کی تبدیل خلق ہی تظاول عمر ہے اور اسی پر گرفت ہوگی اب پہلے قرن پیدا کئے گئے خالقکم ثم یتوفاکم احسن تقویم میں تم کو مکمل کرتا ہے ارذل العمر سے مراد دوسری ادنیٰ مخلوق ہے جس میں انسان جا کر پہلے کام بھول جاتا ہے۔ اس سے مراد شوخت نہیں ہو سکتی کیونکہ کبر سن میں ابراہیم اور یعقوب زکریا وغیرہ ہوئے ان کے حواس تو ٹھکانے تھے تو لکی لا یعلمہ بعد علمہ شیاء کیسے صبح ہوا البتہ فیکم عمر یہاں عمر جمع ہے عمر کی تقلب فی الساجدین میں بار بار پیدائش مراد ہے اسی طرح لرادک الی معاد ہاتیل کی موت پر کہا من آجل ذلك هذا نذیر من النذر الا ولی سورہ نوح میں الم تر سے تاسخ ثابت ہے سخر لکم ما فی السموات وما فی الارض تسخیر سماوی بغیر تاسخ کے مشکل ہے عبد انعمنا علیہ انہ علم للساعۃ سے مراد قادیانی اور میں ہوں اہلکنا ہم بذنوبہم ثم انشانا بعد ہم قرنا اخرین سے دنیاوی بدلہ مراد ہے الم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن ہلاکت قرون کے وقت اہل مکہ مشاہدہ کر رہے تھے ارایت میں بھی یہی اشارہ ہے ان اللہ قادر ان یخلق مثلہم انکم مبعوثون یوم الدین میرا عہد ہے منکم من یتوفی من قبل کیا اب بھی تاسخ میں شک ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ انکم مخرجون یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون یعنی حیاتی کی طرف لوٹائے جاتے ہو یبد الخلق ثم یعیدہ و ہوا ہون علیہ کما بداکم تعودون یات بخلق جدید بدلنا امثالہم تبدیلا اولیس الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی اذ انشاء النشرہ لم یکن شیاء مذکور فی اسی صورتہ ما شاء رکبک جون سابق کی طرف اشارہ ہے انسان کی پیدائش مٹی ہڈی علقہ نباتات کچھڑ جوک وغیرہ سے بنا کر جو میں ثابت کی ہیں ینقلب الی اہلہ مسرور انہ کان فی اہلہ مسرورا پڑھو تا مڑ کے پیدا ہوتا ہے کل نفس بما کسبت رھین فجعلہ نسا و صہر مختلف جنوں میں نسب و صہر ہو سکتا ہے ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم یوبقھن

بما کسبو بچوں پر اعمال بد سے مصائب آتے ہیں من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتھا  
 نوف الیہم اعمالہم فیہا مراغما کثیرة بار بار کی پیدائش مراد ہے لترکبن طبقا عن  
 طبق بعث ما فی القبور ۷ نومبر ۱۹۱۷ء میں میرا والد فوت ہوا۔ ۱۸ جولائی ۱۹۷۱ء میں  
 والدہ فوت ہوئی میری تاریخ پیدائش مارچ ۱۸۹۹ء میں ہے روایا میں والدہ آئی تو اسکو بخشوایا گیا میرا  
 والد سری مقطلی کے ساتھ رہتا ہے۔ دہلی سے آئی مردے اٹھ کے مجھ میں روح محمد کی  
 ہے۔ علاوہ الدین میرٹھی میں روح عثمان کی نور صدیق عبداللہ چکڑالوی ہے۔ میرا بیٹا نور صدیق  
 اکبر ہے اور علی ذولفقار کی حضرت علی ہے یا نبی لاشرک باللہ میں لقمان تھا میرا نام اسماعیل بھی ہے  
 یعقوب ہی ایوب ہے سموئیل پیغمبر علی بنت محمد مریم ہے نیکیوں کے نصف برابر بدیاں ہوں تو کا ناپیدا  
 ہوتا ہے برابر ہوں تو اندھا اندھے سادھو کو سکھ پر سوار رکھا معلوم ہوا کہ سکھ ظالم تھا ظالم بلا بھی بنتا  
 ہے میرے دونو بھائی ظالم ہیں۔ فقیر اور ماچھی ظالم ہیں۔ چوڑھے نچ ظالم ہیں۔ ایک تنگی عورت  
 دیکھی وہ ظالم تھی۔ چیز اسی ظالم ہیں۔ نور صدیق نے کہا اباجی جو حد سے گذرے وہ ظالم ہے  
 ساتوں جنت آسمان پر نہیں کچھ زمین پر بھی ہیں۔ لا تفتح لہم ابواب السماء سے معلوم ہوتا  
 ہے کہ ایک جنت آسمان پر بھی ہے

۳۳..... آریہ جزوی تناخ مانتے ہیں درختوں میں روح نہیں مانتے مگر بد عملی سے  
 روح درخت بھی بنتی ہے کہ کیونکہ وہ بھی نرمادہ ہوتے ہیں وحی سے معلوم ہوا کہ مرزائی فرقہ بھی  
 درختوں میں روح نہیں مانتا تو پھر وہ تسبیح کیسے کرتے ہیں اور انسان نباتات سے کیسے نکلا آریہ قوم شو  
 د ہیں یا جبال ابوبی معہ سے ثابت ہے کہ پتھروں میں بھی جان ہے علمائے زماں سانپ ہیں۔  
 دھارو لعل کو مگر مجھ دیکھا نذیر احمد کو دیکھا کہ وہ چوہڑا منڈاموں کا ہے فقیر سائل گھوڑے پر سوار تھا  
 معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے سابقہ جنم اس نے کچھ اچھے عمل کیے تھے۔ اس لئے اسے سواری ملی ہے  
 ایک ہندو عورت مریدوں میں بیٹھی تھی آواز آئی کہ سورنی ہوگی مران چوہیا بنتی ہے ایک بلوگلڑہ  
 نے میرے ہاتھ سے لکڑہ چھٹ لیا وحی آئی کہ یہ مولا سکھ ہے۔ چوہدری عبدالرحیم راجپوت میں  
 نالک کی روح بولی وہ بلال کا درجہ بھی حاصل کرے گا غلام محمد امام مسجد چچا وطنی کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ  
 وہ دیانند تھا اور اس کا بیٹا شروہانند ہے۔ انتھی اقوال رجل یسعی!

تفقید

۳۳..... محمد ثانی کا مصداق ہر ایک مدعی نبوت بن رہا ہے غالباً یہ مسئلہ انہوں نے  
 آریوں سے حاصل کیا ہے کہ چاروشی چاروید کی تعلیم ایک دفعہ دے چکے ہیں اور جب زمانہ کی رفتار

بدل جاتی ہے تو وہی کسی ایک میں روپ دھار کر پھران دیدوں کی تجدید کر دیتے ہیں چنانچہ دیا نند ان کا ہی بروز تھا جس نے دیدوں کی اصلی تعلیم کو بگاڑ کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی تھی اور ہندوؤں میں تفرقہ ڈال دیا تھا مرزا صاحب اور ان کے تابعدار وغیر تابعدار نبیوں نے بھی وہی چال چلی ہے اور حضور علیہ السلام کا بروز بن کر محمد ثانی کا دعویٰ کیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کو از سر نو قائم کیا ہے مگر بد قسمتی سے یہ بہروپی نبی جس قدر بھی ہیں خود اپنے مرشد مسیح قادیانی کو باطل ٹھہراتے ہیں اور اگر اس کی تعلیم کو منسوخ قرار نہ دیں تو آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر و تلعنین کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ سلسلہ آج نہیں شروع سے چلا آ رہا ہے ایرانی مدعیان نبوت نے آپس میں بگاڑ کر صبح ازل کو کافر ٹھہرایا تھا اس کے بعد جب معاملہ سلجھا تو ہزار سال تک اعلان کر دیا کہ اب محمد ثانی بننے کی ضرورت نہیں رہی اور فتویٰ لگا دیا تھا کہ جو مدعی نبوت اس ہزار سال کے عرصہ میں پیدا ہو گا وہ دجال اور کافر و ملعون ہو گا لیکن مرزا صاحب نے جرات کر لی اور محمد ثانی بن کر ان ایرانی گیارہ نبیوں کو خارج از اسلام قرار دیا اور کہہ دیا کہ اب نبوت میرے خاندان سے مخصوص ہو چکی ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے مریدوں نے روحانی ذریت بن کر محمد ثانی بنا شروع کر دیا اور جو داؤ پیچ آپ نے پیدا کئے تھے انہی کے ذریعہ یہ بھی نبی بن بیٹھے غالباً ان پنجابی نبیوں کی تعداد بھی گیارہ تک پہنچ چکی ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور قرآن شریف کا نیا نیا مفہوم تراشنے میں استاد ثابت ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو شخص ایسے تمام مدعیان نبوت کی تعلیم پر ایک سرسری نظر بھی دوڑاتا ہے تو یوں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:

الف ..... انہوں نے تنازع اور رجعت کا مسئلہ جو آج تک اسلامی تعلیم میں مردود تصور کیا جاتا ہے اپنا بنیادی اصول قرار دیکر وحدت ادیان کا اعلان کیا ہے جس کا مطلب یا تو یوں لیا جاتا ہے اصول مذہبی تمام مذاہب میں ایک ہی تھے مگر بعد میں لوگوں نے مخصوص الوقت امتیازات سے تفرقہ ڈال رکھا ہے اس لئے قرآن وید گیتا اور گرنتھ وغیرہ کو ایسے مفہوم پر لاکھڑا کر دینا چاہیے کہ ان کی تعلیم ایک ہی نظر آئے اور یا یہ مطاب لیا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں کو منسوخ قرار دے کر ایک نئی آسمانی کتاب پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہر ایک مذہب و ملت کے تابعدار داخل ہو سکیں بہر حال دونوں خیالات کا واحد مقصد اخیر میں یہ نکلتا ہے کہ دنیا مذہب کو لعنت سمجھا کر چھوڑ دے اور ایک نئی شریعت قائم کرے جو تمدن یورپ سے حاصل ہو رہی ہے۔

ب ..... یہ اصلاحی نبی اگر آپس میں متفق ہو کر ایک تعلیم پیش کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کو آریوں کی طرح کامیابی حاصل ہو جاتی اور لوگ اسلام کو خیر باد کہہ کر نئی شریعت کو قبول

کر لیتے مگر بد قسمتی سے ایسی آواز ایک نہیں اور وحدت ادیان پیش کرتے ہوئے اپنی اڑھائی اینٹ کی مسجد کی الگ الگ دعوت دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ وحدت پھر کثرت اور اختلاف کا باعث بن جائے اور جس اسلامی اختلاف مذہبی سے بچ کر یہ چال چلے تھے وہی پھر آپس میں پیش آ گیا اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک عام مجلس میں حکومت برطانیہ کے زیر صدارت تمام جو موجودہ انبیاء کی تعلیم پیش کی جائے اور مدبران تمدن یورپ کچھ عرصہ کمال خوض و فکر کے بعد فیصلہ کریں کہ اسلام چھوڑنے کے بعد کس نبی کی تعلیم تمدن یورپ کے لئے از بس مفید ہو سکتی ہے اس کے بعد انتخاب بائبل کی طرح ان کی تعلیم سے ایک نیا کورس تیار کرایا جائے جو سلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر ثانی کر کے شاہی حکم سے واجب التعمیل قرار دیا جائے تاکہ رعایا آرام کی نیند سوئے اور تکفیری مشینیں توڑ کر یورپ کے عجائب خانہ میں رکھی جائیں۔ قدیم اسلام میں صرف دو سیاسی فرقے چلے آتے تھے سنی اور شیعہ مگر ان میں سے کسی قسم کا سنی یا شیعہ کوئی بھی ایسا نہیں پایا گیا تھا کہ سرے سے قرآن کو ہی دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور عہد حاضر میں تجدید اسلام کے بانوں نے آپس میں اصول تجدید کی بناء پر ایسا اختلاف اور ایسی دھڑا بندی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک کا طریق اسلام الگ ہی نظر آتا ہے اور اصولی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر اور خارج از اسلام یقین کرتے ہیں ہر ایک دوسرے کا جانی دشمن نظر آتا ہے اس لئے لوگ اگرچہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ آج سے پہلے مسلمانوں کو مذہبی اختلافات نے قعر مذلت میں گر ادیا ہے لیکن اگر غور کریں تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ قدیمی اختلافات صرف فروغی تھے جو صرف تھوڑی دور تک چل کر رہ جاتے تھے اور باوجود اختلافات کے تمام فروغی مذاہب عام طور پر اخوت اسلامی پر قائم تھے لیکن دور حاضر کے نبوتی اختلاف ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ مسلمان آپس میں بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو سکیں۔

..... حالات حاضرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے دل سے یہ آواز بے بس ہو کر نکلتی ہے  
 مسلم ان تمام مذاہب جدیدہ کو اور ان تمام جدید اسلامیات کو دور سے سلام کرے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو اپنے اسلام قدیم پر ہی قدم جمائے جائیں اور جس قدر نئے نئے شکوک اور نئی نئی تحقیقات پیش کی جائیں ان سب کو ایک ہی لاجول پڑھ کر دور ہٹایا جائے۔ کیونکہ ان میں سے گو ہر ایک محمد ثانی کا دعویٰ دار ہے لیکن صرف لفظ ہی لفظ ہیں ورنہ سب بے معنی دعاوی ہیں کیونکہ ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ کم از کم اولی لیاقت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات تو کجا آپ کے



کسی ادنیٰ غلام کا پاسگ بھی ثابت ہو آؤ ان سب کے تالیف شدہ قرآن اور الہام ناظرین کے پیش خدمت ہیں قرآن وحدیث سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں ایک لفظ بھی نہ قول رسول سے لگاؤ کھاتا ہے نہ قرآن سے بھلا جس بانی اسلام کے مقابلہ میں مسیلہ کذاب جیسے فرقان بنانے میں نا کام رہے اور ابولعلا معری جیسے مقابلہ کرتھکے اور لبید جیسے شاعروں نے شاعری چھوڑ دی اس کا مقابلہ ایرانی اور پنجابی کریں جن کو فعل فاعل پہچاننے کی بھی تمیز نہیں اور عربی فارسی ترکیب میں امتیاز نہیں لکھنے بیٹھتے ہیں تو فصاحت و بلاغت کا نام نہیں شعر بولتے ہیں تو عروض ہی نثار دیکھا پدی کیا پدی کا شور با مفت میں انہوں نے محمد اول کو بھی بدنام کر رکھا ہے کیا مخالفین اسلام ان کو دیکھ کریوں نہ کہتے ہونگے کہ جب مسلمانوں کے محمد ثانی غلط گو۔ غلط نویس اصول کے کچے بات بات پر بدلنے والے بد گو بد نویس اور بد اخلاق ہیں تو ان کا محمد اول بھی شاید ایسا ہی ہوگا۔ (معاذ اللہ)

ہ..... ابتداء میں مسلمانوں کو اگرچہ بہت تکلیف کرنے کے بعد مرزائیوں کا مقابلہ کرنے پر تھا مگر اب خدا کا فضل ہو گیا ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں اور ایسا مطلع صاف ہو گیا ہے کہ ان میں اگر ایک کی صداقت پیش کی جائے تو دوسرے کی صداقت اس کا قلع قمع کر دیتی ہے گو ان اسلام کے دشمنوں نے اسلام منسوخ کر ڈالا ہے اور ہمارے سینے پر مونگ دالے ہیں لیکن خدا شرے برا انگیزہ کہ درو خیر ما باشد اس نبوت بازی میں اب ہمیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں رہی ان کی پتنگیں خود بخود ہی آپس میں پھینکا کر کٹ رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ تمام مذاہب جدیدہ کٹ کٹ کر کسی وقت ایک افسانہ رہ جائیں جس طرح کہ از منہ متوسط میں قراسطہ اور ملحدہ کی بروزی نبوتیں اور خدائی دعوے آج صرف کتابوں میں ملتے ہیں ورنہ ان کا نام لیوا آج ایک بھی نظر نہیں آتا۔

..... ورجل یسعی نے اپنی صداقت سورہ یسین سے پیش کی ہے مرزا صاحب نے سورہ فاتحہ سے پیش کی تھی۔ بہر حال قرآن سے ہی ہر ایک ناخ شریعت قرآن کے مٹ جانے کا ثبوت دیتا ہے مگر تعجب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہیں تاکہ وحی جدید عالمگیری ثابت ہو۔ شاید ان کی ضمیر ہی خود ملامت کرتی ہوگی کہ پلے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں۔ صرف چند ابلہ مغرور نا تعلیم یافتوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے ورنہ من آنم کہ من دانم۔ اس لئے شرم آتی ہوگی کہ اسلام کا عنوان چھوڑیں تو کس منہ سے، اور کس بل بوتے پر۔ ان گھر کے بھیدی دشمنوں نے اندر ہی اندر اسلام کو کھالیا ہے اور گھن بن کر اسے کھوکھلا کر دیا ہے ہر کمالے راز والے۔ شاید یہی تفرقہ خودان کی نبوت فروشی کی دکان کو پھیکا کر دے۔ توقع زوالا انذ قیل تم

ز..... رجبل یسعی کے دعاوی مرزا صاحب کی نسبت وزنی اور شمار میں زیادہ ہیں اس نے کوئی دعویٰ ایسا نہیں کیا کہ جس کا بار ثبوت اس کے ذمہ پڑے اور اس سے عہدہ برآ نہ سکے۔ تمثیلی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے صرف یہ کہہ کر جان چھڑائی ہے کہ خواب میں مجھے نایک بنایا گیا۔ مگر مرزا صاحب نے اپنی صداقت ایک تحریری ثبوت میں پیش کیا ہے کہ ایک جنم ساکھی میں یوں مذکور ہے کہ مروانہ نے گورونانک سے پوچھا تھا کہ بھگت کبیر کے بعد بھی ویسا کوئی ہوگا تو نایک نے کہا تھا کہ ہاں سو سال بعد بتالہ کے پاس ایک جیٹھا پیدا ہوگا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ جیٹھا میں ہوں نا واقفوں نے تو جھٹ تسلیم کر لیا۔ مگر جب تاریخی واقعات کی دیکھ بھال ہوئی۔ تو نایک کا عہدہ باہر کے عہد حکومت میں پایا گیا اور مرزا صاحب کا عہدہ نبوت برطانیہ میں حساب لگایا گیا تو صرف چار سو برس کا فرق نکلا۔ اب لگے حاشیہ آرائی کرنے مگر کیا پیش جاسکتی ہے غرضیکہ ان کے باقی نظریات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ اگر تاریخی معیار سے جانچے جائیں تو نظریہ قبر کشمیر اور ہند میں سفر کج نامصریح کی طرح تاریخی جہالت کا پورا ثبوت دے سکتے ہیں۔ لو اب ہم ایک اور نبی کا ذکر کرتے ہیں جو غالباً انبیاء ایران کا بروز ہے۔

### سید محبوب عالم شاہ

۳۵..... بنی اسرائیل منا د خداوندی اہل اللہ پنجاب گوجرانوالہ موضع باغبانپورہ بر لب سڑک حافظ آباد رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک الہامی کتاب مسکئی بہ امام حقیقی لکھی ہے جس کے چار حصہ ہیں پہلے حصہ عقدہ کشاء میں لکھتے ہیں کہ پنجاب میں پنجابی نبی ہی آسکتا ہے جو اردو یا پنجابی میں تبلیغ کرے نبوت کو کس نے بند کیا؟ آدم کو کہا کہ شجر یعنی جھگڑے کے نزدیک نہ جاؤ ورنہ ظالم ہو جائے گا۔ کلو ا جھگڑے والوں کی باتیں اس کے دل میں سا گئیں۔ ورق الجزیہ نجاتی ورق یعنی دعا کی طرف متوجہ ہوا۔ شیطان جھگڑا لو آدمیوں نے اسے بہکایا تھا اور حکم دیا ہم نے کہ اس سر سبز زمین سے نکل جا اور سختی زمین میں جا کر رہ۔ جھگڑے سے تباہی آتی ہے اس لئے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے جتنا ہو سکے کرو اور آپس میں نہ جھگڑو۔ ناری شریعت والے رسول سے ہم نے کہا کہ تم سے دنیا تنگ آگئی ہے۔ اس لئے ہم خاک کی خلیفہ پیدا کریں گے اس نے کہا کہ یہ بھی تو شرارت کرے گا۔ ہم نے کہا کہ نہیں یہ اور کام بھی کریگا۔ پھر اسکو ناری خاک کی شریعت دی اور ناری سے کہا کہ آدم کی شریعت پڑھ کر سنا تو وہ نہ سنا سا اس لئے ہم نے کہا کہ اسے سجدہ کرو اور جھگڑا چھوڑو۔ تو ناری رسول نے انکار کیا اور تباہ ہوا۔ پس خدا نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ بلکہ ناری رسول کو بتایا تھا کہ دنیا تجھ سے تنگ آگئی ہے مگر آدم نے بھی جھگڑا کیا اس لئے جنت جیسی زمین سے نکالا گیا

اور اسے کہا کہ تیری نسل پر شریعت آتی رہے گی اور نوح کے زمانہ میں بھی لوگ جھگڑا کرنے لگے تو بجاہ ہو گئے۔ پھر ابراہیم کا اپنے باپ سے جھگڑا ہوا تو اس نے دعا مانگی۔ خواہ کچھ ہو یا اللہ تو ان میں رسول بھیجتا رہو۔ پس موسیٰ عیسیٰ اور محمد اس کی نسل سے آگئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے و اتقوا ایوماً میں مہیم کی تنوین جمع کی ہے۔ یعنی اے نبی اسرائیل تم ایسے دنوں سے ڈرو کہ جب معمر میں نہ تمہاری کوئی ضمانت دیتا تھا اور نہ تمہارا جرمانہ منظور ہوتا تھا۔ پھر ہم نے تمہارے لئے دریا کا پانی چھوٹا کر دیا تو تم پارا تر گئے۔ موسیٰ طور پر گیا۔ تو تم فونوگراف کے صندوق کو پوجنے لگ گئے۔ خدا کا دیدار مانگا تو تباہ ہونے لگے اور اس موت سے بجلی کے ساتھ ہم نے پھر زندہ کیا من وسلوا یعنی مہربانی سے ہم نے نرم گوشت کھلایا۔ شہر میں نماز پڑھ کر داخل نہ ہوئے تو ہم نے رجز یعنی بھوک پیاس بھیج دی۔ پھر ہم نے بانٹ دیا بارہ ٹھنڈے سرداروں کو (عیسائے) پس موسیٰ نے شکار کھیلنے کا گھاٹ ہر ایک کو بنا دیا۔ تاکہ وہیں پانی بھی پئیں اب مچھلیاں کھاتے کھاتے تنگ آ گئے اور ساگ پات کے متلاشی ہوئے تو ہم نے ان کو پھر معمر میں بھیج دیا اور پھر ذلیل ہو گئے۔ رفعنا فوقکم الطور پہاڑی لوگوں نے کہنا مانا تو فائق ہو گئے۔ اے محمد جب تک یہ جھگڑا کریں گے تم کو نہیں مانیں گے۔ مریم کی ماں نے دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ تیری لڑکی کی مانند اب کوئی مرد نہیں ہے۔ ہم نے اس کا نام رکھا مریم (عزرا) شراتیوں سے ہم نے اسے پناہ دی ان یطہرکم پس اے نبی بغاوت سے بچ اور اہل بیت کو بچا۔ اہل بیت نسل رسول اور اس کے آبا و اجداد میں جن کو خدا نے فضیلت دی ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا تو اس نے کہا اے بابا خواب کیا ہے خدا کا کہنا مان۔ مگر ابراہیم نے بیٹے کا کہنا نہ مانا (لما اسلما) اور زمین پر اسے گرا دیا تو خدا نے کہا تو نے خواب کو سچ ہی مان لیا تھا لہذا حرف نفی ہے جیسے لما يعلم اللہ میں خدا کا کلام تین طرح سے ہوتا ہے؟ آواز سے یا قاصد سے یا الہام قلبی سے پس خواب ان تینوں میں نہیں بلکہ آدم کے بیٹوں نے پہلے قربانی دی تھی اور بیت اللہ کی قربانی کا حکم ابراہیم کو ہوا تھا۔ الہدی سے مراد قیمت بھی ہے اور یہ حکم نہیں کہ قربانی کی بڑیاں سکھا کر کھاتے رہو۔ بالغ الكعبة قربانی کعبہ میں ہی ہوتی ہے۔ گھر کی قربانی کچھ نہیں لا تحلو اشعائر اللہ میں حکم ہے کہ راستہ میں کعبہ کی قربانیوں کی بے عزتی مت کرو۔ پس اگر گھر ہی کعبہ کی طرف منہ کر کے قربانی ہو سکتی ہے تو گھر بیٹھے حج بھی کر لیا کرو۔ لا تحلقوار ثوسکم جب تک قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے تم اپنے سر پیچھے کونہ موڑو۔ اذی مقدمہ وغیرہ سر پر بن جائے تو قربانی بھیجو۔ تو جب امن ہو جائے تو عمرہ سے حج کا فائدہ حاصل کرو۔ پاس کچھ نہ رہ جائے تو روزے رکھو تین کعبہ میں اور سات گھر میں واپس آ کر اور یہ قربانی

ہوگئی اور یہ روزے مسافروں کے لئے ہیں کیونکہ وہ جانور نہیں لے جاسکتے۔ پس گھر قربانیاں نہ کرو  
نوح کا کوئی بیٹا کنعان نافرمان نہ تھا جیسا کہ بائبل سے ثابت ہوتا ہے۔ من سبق جو کشتی چلنے  
سے پہلے آئیں ان کو بھی سوار کر لے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا یعنی اپنی قوم کو مگر اس نے نہ مانا غرق  
ہوتی دیکھ کر پھر دعا مانگی تو خدا نے کہا لیس من اھلک کہ یہ قوم تیری تابعدار نہیں ہے۔ ابن آدم سے  
مراد نبی نوع انسان ہیں۔ اسی طرح ابن نوح اور ابن لقمان سے مراد ان کی قوم ہے کیونکہ جزو سے  
کل مراد ہو سکتی ہے اور کل سے جزو جیسے لا الہ الا اللہ میں نفی کل (نماز) کی ہے اور مراد ثبوت  
ایک کا ہے عامین یعنی ماں نے بچہ کو پیٹ اور گود میں اٹھایا۔ کیا صرف لقمان کے بیٹے کو ہی اٹھایا  
تھا؟ اعظمک بواحدة وحدانیت کی عبادت کو کہتا ہوں ان تقو مو امثنیٰ وفرادیٰ ایک دو  
دفعہ تو ضرور حاضر ہوا کرو اور سوچو کہ ان جنوں سے ہمارا کوئی مددگار نہیں اہل علم یخرون وہ سجدہ  
کرتے تھے یزید ہم وہ زیادہ عاجزی کرتے تھے۔ پس سجدہ ایک ہو یا دو ہوں۔ یادو سے بھی  
زیادہ مگر انکار نہ کرو۔ یا ایہا المزملاے تکلیف اٹھائیو اے رات کو کھڑا ہو۔ خواہ آدھی رات کو  
یا نصف رات کو یا (زد) چھو تھے پہر میں دن کے کام سے فارغ ہو کر تیرا رب مشرق و مغرب  
دونوں میں ہے ہر طرف سجدہ کر لیا کرو۔ ان ربک یعلم تیرا رب جانتا ہے کہ نصف رات کے بعد  
کھڑا ہوتا ہے تو اخیر رات کسی وقت عبادت کر لیا کرو۔ اسی طرح دن کے نصف اخیر میں شام  
ہونے تک کسی وقت نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ تکلیف دینا نہیں چاہتا علم تم جانتے ہو کہ تم لیل و نہار کو  
نہیں روک سکتے اس لئے تم ہر روز نماز پڑھو علم تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم کو سفر کرنا اور روزی کمانا بھی  
ہے پس جتنا ہو سکے تم ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھ لیا کرو پس تحصوہ کا معنی ہے بند کرنا اور  
حصر سے نکلا ہے تاب بار بار آنا۔ فاذا فرغت جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر عبادت کرو خواہ  
دن میں ہو یا رات میں یسر یعنی کام حاصل کرنے کے بعد جتنا میسر ہو۔ ادبار النجوم یعنی  
سورج ڈھلنے کے وقت یا پچھلی رات جب کہ ستارے ڈوب جائیں۔ نجوم سے مراد یہاں سورج  
ہوا کیونکہ سارے ستارے اسی سے روشنی لیتے ہیں دلوک سورج ڈھلنے سے دن کی نماز کے تین  
وقت مراد ہیں۔ خیط ابیض سورج ہے کیونکہ والشمس وضخماہیں بتایا کہ سورج وہ ہے  
جو روشن کرتا ہے۔ قرعہ چھپے جاتا ہے اسی طرح نفس وہ ہے جو کسی شکل میں ہوتا ہے الہام وہ ہے کہ  
جس کو نیکی بدی کی شناخت ہوتی ہے قبل طلوع الشمس سے مراد مطلع الفجر ہے جس  
میں نبی پر فرشتے اترتے تھے اور روح یعنی کتاب لاتے تھے چونکہ انسان بندہ اور آدمی ایک ہے اس  
لئے فجر اور سورج بھی ایک ہی ہیں وان جو بھی نبی گذرا ہے اس کو مخالف دور لے جا کر چھوڑنا

چاہتے تھے۔ یہ طریق چلا آتا ہے۔ مگر ہم حفاظت کرتے ہیں اس لئے حکم ہوا کہ نماز پڑھو مشہود یعنی فجر تک اور بے یعنی اس سے تم کو انعام ملے گا۔ فجر لفظ جس سے نکلا ہے جس کا معنی ہے ایک رنگ سے دوسرا رنگ ظاہر ہونا۔ یا اس سے مراد رات کا ہٹنا اور دن آنا ہے یا اس کا معنی چیرنا جیسے فجر نا العیون سے ظاہر ہے۔ پس دن کو بھی تین وقت ہیں اور رات کو بھی تین وقت ہیں (اور رات دن کے پہلے نصف میں چھٹی ہے) تو چھ وقتوں میں کسی وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ اے نبی بشیر تو پیدا ہوئی اور نسلی رسول ہے مجھکو بلا اعمال رسالت ملی ہے نجات بھی بلا اعمال ہوگی۔ مگر تم عمل کرو اور شریعتی رسول کا کہنا مانو۔ ورنہ یوں نہ کہنا کہ ہمارے پاس ہماری زبان کے رسول نہیں آئے تھے۔ روزے تین سے دس تک رکھو کیونکہ ایام حج میں یہی دس روزے مذکور ہیں۔

روزہ ..... مگر روزہ دار کو عاکف رہنا ضرور ہوگا۔ یعنی تیرا دل دماغ ہماری طرف ہونا چاہئے۔ احکام حج میں یومین اور یہاں آخر ہے دونو ملا کر تین ہوئے الفجر و لیلال عشر دس فجریں اور دس راتیں روزہ کی ہیں۔ شفع وتر دو دور رکھو یا ایک ایک سیرتم کو آسانی دی ہے۔ سارے سال میں رکھو یا اکٹھے رکھو۔ وتر سے مراد ایک روزہ بھی ہے اس لئے اے مخاطب دس رکھ یا ایک۔ ال سے فجر کی تعداد دس مراد ہے۔ بعد اذ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے رحم کے حکم سے پھرنے والی قوم سے ہم نے کیا کیا تھا فجر برزخ ہے رات دن کے درمیان اور اعتکاف گھر میں ہی کر سکتے ہو۔ عورت ایک کرو وہ اجازت دے تو اس کے کنبہ سے دوسری بھی کر سکتے ہو مگر وہ اس کی غلام ہوگی۔ آقا اپنے غلام کی خلوت نہ رو کے ورنہ ایک ماہ دس روز تک وہ غلام بن جائے گی۔

نکاح و طلاق ..... اور یہ آقا ہوگا۔ مگر صلح ہو جائے تو معاف ہوگا۔ خدا کی نظر میں نرناری برابر ہیں۔ اس لیے تم ناری کی عزت کرو۔ ورنہ عذاب ہوگا ناری بھی اپنے نرنکی خدمت کرے ورنہ اس کو عذاب ہوگا۔ اب یہ احکام منسوخ ہیں تین یا چار عورتیں کرنا۔ نماز کی قضا دنیا۔ جہاد کرنا۔ زانی کو سزا دینا اور عرضی گناہ کے بدلے قدرتی اعضاء کا ثنا۔ حواء آدم سے پیدا نہیں ہوئی (بلکہ یہ دونوں اپنے والد سے پیدا ہوئے تھے) محمد کے زمانہ میں جہاد تھا اور یتیم لڑکیاں اور بیوہ عورتیں آتی تھیں۔ تو اس وقت یہ حکم ہوا کہ ان پر جبر نہ کرو۔ بلکہ دو سے چار تک نکاح کرو اور ان سے انصاف کرو ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ مگر اب نہ جہاد ہے نہ قیمت تو یہ حکم کیسے جاری رہا۔ خدا کا وجود قدیم ہے تو اس کے اوصاف بھی قدیم ہیں۔ اس لئے خلق کی صفت بھی قدیم ہوئی اور آدم سے حوا پیدا نہ ہوئی۔ کنتم امواتا سے مراد واسلام نہیں ورنہ نثم یمیتکم کا یہ معنی ہوگا کہ خدا تم کو کافر بنا دیگا۔ بلکہ اس سے مراد وہ اٹھارہ تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے والدین کی پیٹھ اور پیٹ

میں یا اس کے پہلے ہوتی ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے کہ لم یکن شیفاً مذکور اور یہی انسان کی لطیف صورت ہے۔ مادامت السموات میں بتایا ہے کہ نیک و بد، لطیف صورت میں کئی دفعہ اتنی مدت رہا ہے۔ کہ جتنے میں زمین و آسمان کو فنا کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد کثیف صورت میں آیا۔ یعنی کئی دفعہ دنیا تباہ ہوئی اور کئی دفعہ تباہ ہوگی۔ لڑکی کا وارث اپنے کنبہ کے معتبروں کے سامنے کہے کہ میں نے اپنی لڑکی اس لڑکے کو دینی و دنیاوی خدمت کے لئے بخش دی۔ پھر لڑکی سامنے آ کر کہے کہ مجھے منظور ہے لڑکا بھی کہے کہ مجھے منظور ہے۔ مہر اور دیگر اشیائے سب اہتمام پر لکھ کر لڑکی کی جائیداد بنائی جائیں اور اسی وقت دی جائیں مہر کی کمی بیشی میں کوئی حد مقرر نہیں، موسیٰ نے بھی پہلے مہر دیا تھا اور لڑکی کے والد نے وہ وصول کر لیا تھا۔ محمد نے لے پالک زید کی بیوی سے نکاح کر لیا جبکہ اس نے طلاق دیدی مخالفوں نے کہا کہ یہ اخلاقی جرم ہے مگر لے پالک تکلیف دیتے تھے۔ کہ چند روز بیٹا بن کر مال کا حصہ لیتے اور اصلی والدین سے جا ملتے۔ اس لئے حکم ہوا کہ ہمارا پرانا حکم جاری کرو کہ یہ اصلی بیٹے بن کر وارث نہیں بنتے صحیحین سے مراد پرانے احکام رسالت ہیں جو لوگوں نے چھوڑ دیئے تھے اس لئے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا کہ انہوں نے پرانی رسالت کو کامل طور پر جاری کر دیا تھا اور جمع کا صیغہ کئی مقام پر واحد کے لئے خدا نے اپنے واسطے استعمال کیا اس لئے یہاں پر بھی ایک رسالت کو جمع بنایا گیا۔ تاکہ عظمت معلوم ہو ورنہ یہ مطلب نہیں کہ رسول آنے بند ہو گئے تھے۔ کیونکہ آپ وسط زمانہ میں آئے ہیں اور آپ کی امت (وسط) درمیانی امت کہلاتی ہے اس لئے ضروری ہوا کہ جتنے نبی آپ سے پہلے آئے تھے اتنے ہی آپ کے بعد بھی آئیں اور امتیں بھی اتنی ہی ہوں جتنی کہ پہلے تھیں۔ یوسف مر گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح موسیٰ عیسیٰ کے بعد بھی ہوا اور محمد یوں نے بھی وہیں سے سیکھ لیا اور گالیاں بھی ان سے ہی سیکھی ہیں کہ نبیوں کو دیوانہ جانتے تھے مجھے بھی کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے مگر تم مجھ سے جلاؤ تاکہ تم سے یہ سوال نہ ہو کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو تم سے کوئی جواب بن نہ پڑیگا اور عذاب میں پڑو گے۔ طلاق اور نکالنا جائز نہیں۔ آپ نکل جائے تو اس کا مہر باطل ہو جائے گا۔ واپس آئے تو مہر کی حقدار نہ ہوگی۔ کیونکہ ایسے احکام سے عداوت پھیلتی ہے۔ اگر بد چلن ہو تو تم کو کیا وہ خود اپنی سزا بھگتے گی اور جب تک مذہبی عداوت سے نہ بچو گے تو سات سو سال تک تباہ ہوتے جاؤ گے۔

عام احکام ..... قبروں اور قبوں کا گرانا حرام ہے۔ نبی رشی مناد حقیقی خدا کا کلمہ روح اور حکم ہوتے ہیں اور تم میں ہر وقت ان میں سے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے ورنہ گواہ نہیں رہ

سکتے اور سب کا مادہ ایک ہی ہے۔ اسی پودے سے محمد، موسیٰ، عیسیٰ، رام چندر اور نائک پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو زندہ ماننا فرض ہے۔ ہاں جسمانی موت سے سب مر چکے ہیں۔ عیسیٰ بھی مر چکے ہیں۔ البتہ ان کا نام زندہ اور باقی ہے کیونکہ ان کو خلد نہیں حاصل ہوا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی ہے کہ ہر ایک نبی مر چکا ہے کیونکہ اگر کل شئی مراد ہو تو معنی صحیح نہیں رہتا۔ تعلیم شریعت پر تنخواہ لینا حرام ہے کیونکہ کسی نبی نے معاوضہ نہیں لیا اور زکوٰۃ نہ دینا بھی حرام ہے۔ اس لئے اہل اللہ کو نذر و نیاز دینا ضروری ہو اور قربانی کا شمس بھی ضرور دیا جائے اور جو بیچ رہے وہ بیت المال میں جمع رہے۔ مالدار اتنی شراب پیئیں۔ کہ ان کی روٹی ہضم ہو سکے اور ہوش میں فرق نہ آئے۔ غریب آدمیوں پر دودھ اور گوشت اور روغن حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے۔ جب تک کہ روزانہ تین سے پانچ روپیہ تک نہ کمائیں اور اپنا مکان نہ بنالیں اور قرض نہ اتار دیں۔ سکر یعنی شراب کو خدا نے اپنا انعام بتایا ہے۔ تو پھر کیسے حرام ہوا۔ ہاں ہمارے حکم کی خلاف حرام ہے اپنی ضروریات سے زائد مال سے صدقہ خیرات کرو اور یہی نیکی ہے خواہ چٹکا آٹا ہو اور یہی نیکی ہے۔ کیونکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہے۔ ورنہ تمہاری نماز اور روزہ سے دوسروں کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ دبا یعنی روپیہ کے کرایہ سے خدا کے ہاں مال نہیں بڑھتا اگرچہ دنیا میں بڑھ جاتا ہے اور زکوٰۃ سے بڑھ جاتا ہے اس لئے سود خور گیارہ ماہ سود کھائے اور بارہویں ماہ کا زکوٰۃ میں دے اپنے رشتہ داروں کو اور شریعت بتانے والے کو اڑھائی روپے فی سیکنڈے کا حساب منسوخ ہو گیا ہے کمائی کرنیوالا فی روپیہ پیسہ دیا کرے اور محنتی فی روپیہ ایک ادھیلہ زمین اور چار پاؤں کی زکوٰۃ بھی فی روپیہ ایک پیسہ کے حساب سے ہے۔ تکبیر سے حرام جانور صاف حلال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صاف کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ پس جو مردہ جانور صاف کیا جائے۔ وہ اگر اپنی حیاتی میں حلال تھا اور اب بھی حلال ہے۔ ورنہ حرام ہے۔ ہاں کھانے کے وقت سب پر خدا کا نام لیا کرو۔ کتا روٹی لے جائے تو دانت کی جگہ پھینک دو۔ باقی صاف کر کے کھاؤ۔ نذر و نیاز خواہ کافر اور مشرک کی ہو اللہ اکبر کہہ کر کھا جاؤ۔ کیونکہ وہ اصل میں حلال ہے مگر غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دینا حرام ہے اللہ اکبر کہہ کر یہ بھی کھاؤ جس کا گلا گھونٹا ہوا ہو جس کے لاشی لگی ہو۔ گر کر مر ہو۔ سینگ سے مرا ہو یا درندہ پھاڑ گیا ہو۔ قبریابت وغیرہ کی نیاز ہو یا تیر وغیرہ سے مر گیا ہو۔ یا باز، کتے اور بندوق سے مر گیا ہو۔ تم شکاری کتا یا باز وغیرہ چھوڑو۔ تو حق تیری ذات کہہ کر چھوڑو۔ اہل توحید کا رستہ لو، اہل تمثیث کا نہ لو۔ بغیر سود کے روپیہ قرض نہ دو یہو پار کی سند سرکاری ہو۔ لنگر جاری کر کہ بڑا ہو جائے۔ ذی روح کو تکلیف نہ دے جھوٹ نہ بول۔ معافی لے اور دے۔ غریب کی پرورش کر میرے نام کا

تصور کرتا کہ تو گور و بن جائے اور عالم محبوب کی حیاتی میں مل۔ مفت رو پیہ نہ دو محنت کرو امیر بن جاؤ گے۔ چھوٹے سے بحث نہ کر کیونکہ وہ کچا پھل ہے۔ برابر یا بڑے سے دین کی بات کر۔ بد بودار اور بری چیز کو کمرہ کہتے ہیں۔ نیک و بد کی تمیز الہام قرآن و ید نبوت اور رسالت سے ہے۔ یہی الہام چرندوں پرندوں میں بھی ہے حالات بدلنے سے خدا کا علم بدلتا ہے۔ پس اختلاف کی وجہ سے امام حقیقی کو نہ چھوڑو دکھ سکھ میں خدائی ہے اور نیک و بد تمہاری ایجاد ہے اور اس پر جزو سزا شریعت الہام بوقت ضرورت ہوتا ہے۔

۳۶..... امام حقیقی مسمی بہ مظہر الاسرار میں لکھتے ہیں کہ خدا اپنی ذات اور رسالت صفات میں قدیم ہے اور ہم اپنی ذات سات صفات عناصر ربہ روح۔ خلاء اور تغیر میں حارث ہیں۔ مصنوع اپنے صانع کو نہیں پاسکتا خدا کی چار صفات (قدیم ہونا۔ ناقابل تغیر ہونا۔ بلا اسباب پیدا کرنا اور قائم بالذات ہونا) ذاتی ہیں اور ہماری سات صفات خدا کی صفاتی صفات ہیں اور ان گیارہ صفات میں وہ لاثانی ہے باقی اوصاف عارضی اور جدید ہیں اور نبی صفات صفاتیہ کی صفت عارضی ہوتا ہے اور زمانہ جدید میں ہو کر جدید ہی چلا جاتا ہے۔ سات صفاتی صفات میں انسان بھی عارضی طور پر شریک ہیں اور چار ذاتی صفات میں ہرگز شریک نہیں ہو سکتے۔ انسان کے صفات لاشریک ہیں اور وہ بھی اپنی ذات میں لاشریک ہے تو خدا کیوں لاشریک نہ ہوا؟ خدا خالق حقیقی ہے اور رسالت عناصر خالق عارضی ہیں اور خالق ذاتی کی مخلوق ہیں اور اپنے خالق کی طرح نہیں ہو سکتے جس طرح تمہارے فعل تم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسی طرح خدا مخلوق اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جس شریعت میں نفع کم اور نقصان بہت ہو وہ قابل تنسیخ ہوگی تو پھر تم کیوں قدرت کا اضافہ (کہ ایک دانہ سات سو دانہ بنتا ہے) کھاتے ہو اور روپے کا اضافہ (سود) نہیں کھاتے؟ کہہاں برتن بناتا ہے تو جس طرح چاہے انگور پکاتا یا توڑتا ہے نہ وہ برتن کہہاں میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ کہہاں برتنوں میں داخل ہوتا ہے۔ پس خدا اور مخلوق آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ پتے کی سبزی سے صفت موصوف ایک بناتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ سبزی اڑ جاتی ہے اور پتا قائم رہتا ہے۔ تو پھر کس طرح وہ ایک دوسرے میں داخل ہوئے اور خدا جب تم میں داخل ہوگا۔ تو تم ہی خدا بن جاؤ گے تو بڑا کون ہوگا؟ خدا نے سات صفات کو بغیر مادہ کے پیدا کیا اور ان کو خلق بالا سباب کا وسیلہ بنایا۔ چنانچہ پہلے خلا یعنی آسمان پیدا کیا اس کی حرکت سے ہوا پیدا ہوئی۔ پھر ان دونوں سے آگ پھر ان تینوں سے پانی پھر ان چار سے مٹی اور ان پانچ سے حیوان پھر ان کے بدلنے سے تغیر اور اس سے ہمارا نام خالق ہوا۔ پس یہ خالق عارضی اور:



تناخ..... ان سے مخلوق ہدایت وحی اور پرورش وغیرہ چلی۔ پس ہر چیز جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہیں ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تم بھی ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو کہ دنیا کہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائے گی تو گرو سے ملو۔ مخلوقات جتنی قسم ہے اتنی قسم ہی اس کے عناصر ہیں۔ کڑوے کے کڑوے اور شیریں کے شیریں کو بعض صفات میں مل جاتے ہیں۔ مگر مادہ میں نہیں ملتے اور ہر ایک کا ختم اسی مادہ میں رکھا ہے۔ اس لئے ایک جنس سے دوسری پیدا نہیں ہوتی اور ان میں اتحاد نہیں بلکہ عداوت چلی آتی ہے جو عنصر جس میں زیادہ ہے۔ وہی مخلوق اس کی ہے تم میں مٹی زیادہ ہے اس لئے تم مٹی ہو جاؤ گے اور مچھلی میں پانی زیادہ ہے تو مکرر پانی ہو جاتی ہے۔ ایک روحانی مخلوقات بھی ہے جو زو مادہ کے سوا پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کھیتی وغیرہ کے کیڑے اور پتنگ اور ہر وقت کی بیشی ہوتی ہے اس لئے تم ہر وقت مرتے بھی ہو اور جیتے بھی، عناصر کی بیرونی سطح نیچے اور درمیان میں ان کی اپنی اپنی پیدائش چھوٹی بڑی موجود رہتی ہے اور ہر ایک عنصر اپنے ان تینوں حصوں میں ختم ہو جاتا ہے اور ہر ایک عنصر کی اپنی پیدائش دوسرے عنصر میں اتنا ہی زندہ رہ سکتی ہے کہ جتنا حصہ اس عنصر کا اس میں موجود ہوتا ہے۔ پھر فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے حصہ کے مطابق دوسرے عنصر کی پیدائش کو سنوارنا یا بگاڑنا بھی ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ جنس کو جنس کا مٹی ہے اور لوہے کو لوہا، اس سے ثابت ہوا کہ انسانی اصلاح انسان سے ہی ہو سکتی ہے غیر سے نہیں ہوتی اور تمہارے عناصر کو بھی تمہاری طرح بھوک پیاس دکھ سکھ خوراک کی موافقت اور مخالفت ہوتی ہے اور تمہارے ختم (روح و مادہ) کے ذرات کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی آپس میں دوست دشمن نیک و بد ہوتے ہیں اور تمہاری طرح ان کی بھی عبادت ہے اور ان کو بھی موت و حیات آتی ہے اور یہی سات عناصر سات روز پیدائش کے ہیں۔ پس یہی نظام عالم قانون قدرت ہوا۔ ان میں اتفاق و افتراق ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا پھر ہوگا اور یہی اتفاق کر کے کئی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے واؤ، الف ایک ہے مگر بدل بدل کر یا تک تیس حروف بن گئے ہیں۔ یہ سات عناصر سات دنیا ہیں تم ان میں حرکت کرتے آئے ہو اور پہلے جہاں سے فنا ہو کر دوسرے میں پیدا ہوتے رہے ہو جتنے جنم تم بھوگ آئے ہو۔ ان کی خبر سوائے نبی کے کسی کو نہیں ہوتی تم رحم سے نکل کر پینتالیس یوم ماں کے جسم میں پھیل جاتے ہو پھر تین ماشہ کی بوٹی بن کر پینتالیس یوم میں انسان بن جاتے ہو۔ پس یہی تمہارے پینتالیس یوم پہلے پینتالیس سال ہیں جس میں تم عقل کامل تک پہنچتے ہو پھر پینتالیس سال تک ختم ہو جاتے ہو جتنے سانس تم نے ماں کے پیٹ میں لیے ہیں اتنی صدیاں کل جگ کی عمر ہے اور جتنے سانس والد کی پشت میں لیے ہیں اتنے سال کلجگ

اور دو اپر کی عمر ہے اور جتنے سانس تم نے خوراک خلا اور ماں کے جسم میں مل کر لیے ہیں اتنی صدی روز شب کی آبادی ہے جتنے مسام تیرے جسم پر ہیں اتنی قسم کے انسان ہیں اور اتنے ہی تیرے معدے میں کانٹے ہیں دو پہر تک ست جگ کی عمر کا اندازہ ہے اور تیسرے پہر سے کلجگ کا اندازہ لگاتے ہیں جب تم نوے دن رحم میں رہتے ہو تو والدین کو چاہئے خوراک اچھی کھائیں ورنہ تیری حقیقی عمر نوے سال سے دس سال کم ہو جائے گی اس وقت بوٹی میں سب طاقتیں موجود ہیں مگر ابھی روح مادہ نہیں آیا اس لیے ان کا اظہار ناممکن ہے والد کی پشت میں بھی تم بیمار ہو سکتے ہو اور رحم میں بھی اور اس میں ماہوار ساڑھے تین چھٹانک تم بڑھتے ہو جس کو خون کی بیماری ہو اس کا بچہ دس روز بعد پیدا ہوتا ہے اور چالیس سال تک بچہ بیمار رہ کر مر جاتا ہے والدین پیدا ہوتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہو اور پندرہ سال تک مٹی بن جاتے ہو۔ جتنے بیمار سانس تم نے پشت اور پیٹ میں لیے ہیں اتنے ہی دنیا میں لوگ کیونکہ تم اس جہاں کا فوٹو ہو جس طرح تم کو دوائی کی ضرورت یہاں ہے وہاں بھی ہے اس لیے جس کا بچہ پیدا نہ ہو یا مر جائے تو سات سال دوسرے ملک میں رہے اور خوراک بدل کر کھائے جو یہاں عبادت کرتا ہے موت کے بعد بھی وہ اس میں مصروف رہتا ہے غرض جو کچھ تم اس دنیا میں ہو وہی تم اگلے جہاں میں بنو گے اگر یہاں ہم سے ملو گے تو وہاں بھی ہمارے ہی طالب رہو گے جتنے روز و شب یہاں ہیں اتنے ہی جنت اور جہنم کی عمر ہے اور پھر وہ دونوں برباد ہو جائیں گے اور دوبارہ زمانہ از سر نو شروع ہوگا۔ کیونکہ تم محدود ہو تمہاری جزا سزا بھی محدود ہوگی۔ سات حالت عناصر کی لطیف زندگی ہے پھر پانچ حالتیں خوراک مٹی رحم مو جو اور قبر کثیف زندگی کی ہیں کل بارہ حالتیں اور جو نہیں ہیں اگر تم ہم میں سرتی لگا کر محو اور حلو ل ہونے کی عادت پکاؤ تب تم کو نجات حاصل ہوگی ورنہ تم کو پھر یہی بارہ جو نہیں بھگتنی پڑیں گی اور جتنا چکر تمہارے آنے جانے کا ہے اتنا ہی چکر تمام حیوانات کا ہے وضو میں تین تین دفعہ پانی لینے کی ضرورت نہیں صرف صفائی کی ضرورت ہے خواہ مٹی سے ہو یا پانی سے کہنی اور ٹخنہ کی بھی ضرورت نہیں۔ خون ہو اور پاخانہ پیشاب سے وضو نہیں ٹوٹتا جنابت سے غسل فرض نہیں صرف قدرتی اصول ہے کہ انسان صاف رہے پرندے بھی اس وقت پر جھاڑ لیتے ہیں قدر و قضا کا حکم منسوخ ہے محدود اشیاء نصف عمر تک بڑھتی ہیں پھر گھٹتی گھٹتی فنا ہو جاتی ہیں مگر غیر محدود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ امت وسط تک دنیا کمال تک پہنچ چکی تھی تو اب نبوت بند ہو چکی ہے کیونکہ دنیا اتادی اور غیر محدود ہے اس کا قیاس محدود پورے وغیرہ نہیں کرنا چاہئے پس امت محمدیہ وسط اور درمیان ہے جتنے نبی اس سے پہلے آئے تھے اتنے ہی بعد میں

آئیگیے اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو خدا تعالیٰ اپنا آلہ قدرت کھڑا دیتا ہے یعنی نبی بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو از سر نو خبردار کرے۔

احکام..... اور خواب کی شریعت معتبر نہیں جیسا کہ مرزائی تعلیم میں ہے کیونکہ ابراہیم کی خواب کو خدا نے باطل ٹھہرایا تھا اور یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ تم افضل ہو اور جنگ بدر میں تھوڑے دکھائے گئے تاکہ جو کام کرنا تھا ہو جائے ورنہ اس کی اصلیت کچھ نہیں صرف دیکھنے والے تک ہی محدود رہتی ہے اور بس قدرتی حلال وہ ہے جو دکھ نہ دے اور نہ اس کے کھانے سے تکلیف ہو اور نہ اس کے لباس سے کراہت ہو ورنہ پلید اور حرام ہوگی روٹی بد بودار ہو کر مکروہ ہو جاتی ہے تم بھی گناہ سے پلید ہو جاتے ہو تم کو پاک کرنے کی ضرورت ہے پانی اور ہمارے نام سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا گناہ سے تمہاری روح بد بودار ہو جاتی ہے تو ہم کو پکار اور جنم کو سدھا نیک و بد کے لئے تمہاری ضمیر ہی تمہارا امام ہے دکھ میں صبر کرو اور خدا کی یاد میں جو سانس گزارے گے اس میں عذاب نہ ہوگا۔ ورنہ غیر جنس میں جنم لینا ہوگا جو یہاں پر ہی نجات کا طالب ہے کہ زندگرو در باری کو ملے جس کی شناخت یہ ہے کہ ہر مذہب سے آزاد ہوتا ہے اور پیدا انشی عالم ہوتا ہے۔ کسی سے کچھ نہیں پڑھتا۔ مصلح ہو کر شرارت دور کرتا ہے۔ شریعت کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ سب کو ایک ہونا اور محبت سکھلاتا ہے اور کوئی بھی اس کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے اصحاب بننے سے یا اس کا تصور جمانے سے نجات حاصل ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے کلام کا تصور جمانا بھی موجب نجات ہے۔ جن کو در سن بات ہے ان کو ہوگات جن کو ات نہ ہو وی ان کو ہوگ نہ ات یعنی حقیقی گرد کے دیکھنے والے وہاں بھی اسے دیکھیں گے اور عارضی گرد یعنی مولوی وغیرہ کا ملنے والا اسی کے ساتھ ہوں گے اور ان کی مکتی اتنے بھگتے کے بعد ہوگی کہ جتنے سانس اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں لیے ہیں الہام قدیم اور جدید ایک ہی ہیں مگر ضرورت کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں پس قربانی مکہ میں جائے سو جاؤ ہوا جتنے وقت چاہو عبادت کرو روزہ ایک رکھو یا دس جب چاہو حج کرو۔ جہاں نبی ہے وہی جگہ خدا کا مکان ہے۔ اسی مکان کی زیارت ہی حج ہے حقیقی منادی علامت یہ ہے کہ ایک اکیلا ہو کر سب پر غالب آتا ہے اور لوگوں کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے کہ کسی کو کافر مت کہو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے کافر وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا جس کو خدا خود پکڑے گا فتوے حکم آسمانی ہوتا ہے خدا نے اب تمام فتووں کو عالم محبوب کی زبانی توڑ دیا ہے جو اپنی بیوی کو ماں کہے یا جو اپنے خاوند کو باپ کہے وہ حسب طاقت جرمانہ بھریر مفلس ہوں تو رشتہ دار پانچ پانچ جوتے ان کے سر پر ماریں یہ معاف بھی کر سکتے ہیں مگر ان کو بری عادت پڑ جائے گی ہر فیصلہ مالی یا بدنی امام وقت یا سلطان وقت

کرے اور یا قوم کا سردار برا کہنے والے کو ملازمت کرو چوری یاری ڈاکہ خون لوٹ مار اور جبر کا فیصلہ سرکار کرے گی۔ ورنہ یوں فیصلہ ہوگا کہ وہ نقصان پورا کرے۔ جرمانہ اور قید بھی ہو۔ زانی اور زانیہ کو جرمانہ اور قید۔ چور سے مال لے کر جرمانہ اور قید۔ خون کا جرمانہ مقتول کے وارث کو ملے باقی جرمانہ حاکم کو۔ جو بدکاری کا بن دیکھے الزام لگائے اس کے منہ پر تھوکنا اور ملامت۔ درود سے مراد نبی کی عزت و آبرو ہے نہ کہ منہ کی آواز۔ ایمان بالغیب ضروری ہے دیکھ کر نہیں جو ایک کا بھی انکاری ہے وہ سب کا انکاری ہے جیسے ایک آیت کا انکار سب آیت کا انکار ہے وسیلہ بغیر نجات نہیں اس لئے تم میرے پاس آؤ میں تمہارے بوجھ اتار دوں گا اور راستہ صاف کروں گا۔ کیونکہ تم نے اختلاف مذہبی کیا ہے۔ غریب چوہڑے چمار کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے اور ان سے عورت نہیں لیتے ہر ایک نبی بتایا نہیں جاتا جن چیزوں سے انسان یا اور مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ وہی پاک اور معصوم ہیں ایک جزو ہوا کا نبی اور بادشاہ ہوتا ہے ایک پانی کا ایک مٹی کا اور ایک آگ کا اس طرح خلاء وغیرہ میں بھی خیال کرو اور انہی اجزاء سے حقیقی مناد کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کا ماننا ہی حقیقی کلمہ اور اسلام ہے اور نہ ماننا کفر ہے اور عارضی کلمہ اسلام نہیں نبی کا حکم کا پابند ولی شیدائی مصدق اور گواہ ہے اور یہ نبی کے زمانہ میں ہوتے ہیں خواب نشہ ہے اور نشہ والے کا کلام معتبر نہیں اس لئے نیند کی شریعت معتبر نہیں۔ نبی پیدائش پاک ہوتا ہے۔ گیارہویں پارہ تیسری سطر میں نبی کو استغفار کا حکم نہیں ہوا بلکہ یہودیوں کو۔ سورہ فتح میں بتایا کہ مال خرچ کر کے جو تم نے لڑنا تھا۔ لڑ چکے آئندہ لڑائی کا بوجھ تم سے اتار لیا ہے اب محبت سے اسلام چلے گا۔ ذنبک بمعنی تکلیف جنگ ہے۔ پس محمد نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ناپاک کا کلام ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس سے نجات کیسی؟ نماز میں جس طرح چاہو ہاتھ باندھو۔ بچہ رو کر کہتا ہے ماں موت یعنی ہے اسی طرح تم اختلافی موت رو کر خدا سے لیتے ہو اور برباد ہو رہے ہو۔ میری بیعت میں داخلہ ضروری ہے جس طرح کہ محمد کی بیعت میں داخلہ ضروری تھا بربط ستار بجا اور راگ سے بھی خدا کی عبادت کر سکتے ہو مگر اس میں غیر کا نام نہ ہو۔ عبادت میں بھجن اور نظم و نثر راگ سے ہو سکتی ہے کیونکہ راگ ایک آواز ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ بھجن کا نمونہ یہ ہے۔

ہر اک برکت ذات و ج لیا کجھ نہ مل	یا مولا تو واحد ہے خالق ہر جز و کل
نہ تیری کوئی نسل کل ناں مائی ماں باپ	پیدا جسوں کریں تو دیویں روزی آپ
بنا تا ڈی ذات دے ساری ذات کذات	رحم محبت پرورش وصف تیری و ج ذات
جنم جنم اس گھاٹرا ہر گز ودھے نہ راس	جو در تیرا چھوڑ کے نکلے پرانی آس

تو مالک ملکیتاں کریں حفاظت آپ اوہ بھی وچ نگاہ دے جو وچ پشت باپ  
تے ہو رخوا کاں اندر جیہڑے رحمتیں آئے تے اوہ بھی پرورش تیری اندر جو پائی نہیں جائے  
یا مولا ہر حالت اندر توں مالک ہیں کل جوشی پرورش واسطے کدیں نہ ویکھیں مل  
یا مولا صلوة تمامی تیری خاطر ہے تو قائم بالذات ہے دائم تیری بے  
داہڑی منڈاؤ یا رکھو یہ نجاتی فعل نہیں ہے۔ ہاں نبی ضرور رکھے اور لب کے بال بھی نہ  
کاٹے وہ بال کاٹیں جو تکلیف نہ دیں ختمہ بھی اختیاری ہے یہ رسم ابراہیم سے پہلے کی ہے حنیف کا  
معنی مختوں نہیں بلکہ وحدانیت والا ہے۔ غسل میت صرف صفائی کے لئے ہے۔ ورنہ نجاتی  
نہیں۔ بیوی میاں کو اور میاں بیوی کو غسل دے اسی طرح ماں باپ وغیرہ ساتا چالیسواں کوئی چیز  
نہیں سامنے رکھ کر مردہ کے لئے دعائے مانگوں بعد دفن مانگوں کوئی تعزیت کے لئے نہ آئے۔ کیونکہ  
اس میں مالی نقصان ہے۔ فراغت پا کر عام قبروں میں جاؤ تا کہ تم کو موت یاد آجائے۔ مصیبت کا  
نام مجزہ ہے۔ ۱۹۱۰ء میں میں نے کہا تھا۔ کہ رنگ بدلنے والا ہے لوگوں نے مجھے جرمنی جاسوس سمجھ  
کر تین روزہ گرفتار کرایا۔ مگر حاکم نے کہا کہ تو راست باز پادری ہے باغی نہیں اور بعد میں خود شکایتی  
باغی ہو گئے۔ ہر طرف پاؤں دراز کر سکتے ہو۔ آواز آئی کہ نبی کی بھینس ہی رسالت ہے اندر رہ کر  
سناؤ باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جو مذہبی لڑائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور یہ مثال بری نہیں کیونکہ  
پہلی تعلیم میں اس سے بھی بڑھ کر مخالفتوں کو کہا گیا تھا۔ موسیٰ نے جب کتاب (عصا) سنائی تو فرعون  
کو (حیثہ) سانپ ڈس گیا اور ید بیضا یعنی سپید آنکھیں نکالیں اور ناراض ہوئے۔ عصا سے  
مراد کتاب ہے غم سے مراد قوم اور بتوں سے مسائل ہیں۔ مسیح نے مردہ دل زندہ کئے تھے نہ کہ حقیقی  
مردے زندہ کئے ورنہ ان کی نسل دکھاؤ اور وہ پرندے بھی کھاؤ جو آپ نے بنائے تھے کیف  
یحیی الموت ابراہیم نے کہا کہ میری قوم مردہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے تو خدا نے پرندوں کی مثال  
سے سمجھایا کہ ان کی پرورش کرو پھر بلاؤ آجائیں گے۔ میرا مدگار نبی ابھی پوشیدہ ہے جب اس کا  
نام مجھے بتایا جائے گا تو میں اعلان کرونگا۔ پانچ گواہ تو ہو چکے ہیں۔ جو میری طرف سے تبلیغ کرتے  
ہیں۔ انشق القمر انسان کا وجود پھٹ گیا اور جسم فنا ہو گیا سر اجا منیرا نبی کی حیاتی ہے۔  
خدا کی طرف دھیان کرو ہم میں محو ہو جاؤ اور یا وہاب کی آواز ہو مگر نبی سے یا کسی نسل نبی سے  
اجازت حاصل کرو تو دیدار الہی (صابرہ) ہو جائے گا۔ جو حساب سے عبادت کرتے ہیں وہ اپنی  
جان کا دام ادا کریں پھر خوراک پھر پرورش کا ورنہ غریبی کا اظہار کریں۔ میری بیوی صابرہ بیس  
سال سے میری محبت میں رہی اور خدا کا اسم اعظم اپنے دل پر لکھا اور خیال میں ہی خدا کو پکارتی رہی

کہ یا اللہ کرامت کیا چیز ہے تو خدا نے کہا کہ کرامت تو تیرا ہی وجود ہے پھر کہا تو کہاں رہتا ہے؟ تیرا جسم کیسا ہے تو خدا آگ پانی وغیرہ سے مرکب ہو کر محدود شکل دھا کر چار پائی پر نظر آیا اور نقشہ قدرت اس کو دکھایا۔ ایسا دیدار سات دفعہ ہوا اور نبی کی نظر میں محدود ہو کر آتے ہیں اور وہ غیر محدود بن کر ہمارے وجود میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ ہم ہر ایک چیز پر قادر ہیں اور شاہ رگ سے بھی نزدیک ہیں۔ ایک دفعہ ہم صابرہ کو یوں نظر آئے کہ؟ آسمان پر اس کو چار چاند لگا کر شاہی شکل میں نظر آئے اور بال بال سنہری تار تھا تا کہ اس کو معلوم ہو کہ خدا ہی تمام روشنی کا منبع ہے۔ جب اسے شک ہوا کہ خدا آسمان پر ہے۔ تو خدا نے اسے زمین کی پتال بھی دکھائی اور زمین و آسمان کے دفتر بھی دکھائے اور ایک تار لطیف روحی بھی دکھائی تا کہ گواہ رہے کہ زناری کا یہاں فرق نہیں۔ یہ مرتبہ میری وجہ سے اس کو حاصل ہوا اور گوئیں نبوت کا طالب ہوں مگر وہ خدا کی طالب ہے میری طرح وہ فطرتی اور بلا اعمال پاک ہے اس نے پوچھا کہ یا اللہ توں کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ تو خدا ایک کہہا کی شکل میں بت بناتا ہوا دکھائی دیا۔ کہا کہ یا اللہ بت کی پرستش منع ہے۔ کہا کہ میں بتاتا ہوں پرستش نہیں کرتا۔ پس بت بنانا جائز ہوا اور پوجنا حرام۔

۳۷..... کتاب امام حقیقی سبکی بمعراج روحانی میں لکھے ہیں کہ مجھے روحانی معراج جنوری ۱۹۰۷ء میں یوں ہوا تھا کہ دوپہر کے بعد خدا کی ہستی میں غور کرتے ہوئے باغ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ پانچ آدمی آکر کہنے لگے چلو تم کو ام لکتاب کا حقیقی راز دکھائیں جب میں تھوڑی دور چلا تو ایک طاق تہ زمین کی طرف دیکھا جس میں اتر کر میں نے ایک دوسری دنیا دیکھی جس میں نظام شمسی قائم تھا تو تین آگے چلنے لگے اور دو پیچھے اور یہ دنیا مجھے بھول گئی کیونکہ کہ دنیا صاف ستھری شور و غل سے پاک تھی آگے بڑھا تو ایک وسیع میدان میں سٹیج پر ایک کرسی خوشنما نظر آئی جس پر محمد ﷺ جلوہ افروز تھے اور ہیر دیکھ کر چوری کر رہے تھے اور دائیں طرف رام چند راور کرشن کھڑے درخواست کر رہے تھے اور بائیں طرف نایک اور دیا نندا اپنی درخواست پیش کر رہے تھے اور میرے تابعدار اس بہشت میں جمع ہو رہے تھے میں نے کہا یہی اصل اسلام ہے کہ تمام مذہب جمع ہیں آگے بڑھا تو عورتوں کی مجلس نظر پڑی جس میں حضرت مریم اور موسیٰ کی والدہ یوحنا نڈ کرسی نشین تھیں اور حضرت فاطمہ اور سیتا سامنے درخواست گزار تھیں پھر آگے بڑھا تو ایک پردہ نظر آیا اس کے اندر گیا تو ایک بڑا میدان آیا جس کے درخت ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتے تھے کیونکہ میں ابھی کثیف حالت میں تھا پھر ایک اور مجلس دیکھی جس میں راون تخت نشین تھا اور پیچھے آدم برہما اور روشن کھڑے تھے دائیں طرف ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کھڑے تھے اور بائیں طرف رنجیت سنگھ اور انگلیز

یہ گودنیا میں لڑتے رہے مگر وہ بلا اعمال تھے کیونکہ اصلاح عالم کے لیے لڑتے تھے آگے بڑھا تو لوگوں نے کہا آؤ خاص دربار میں حاضری بھرو آگے چلا تو لوگ کچھ پڑھتے نظر آئے معلوم ہوا کہ دو اسم ذات اوم یا وہاب پڑھ رہے تھے اور آج تیسرا اسم حق تیری ذات ان کو پڑھایا گیا تھا یہ تینوں اسم میری شریعت میں داخل ہیں اور انہی تینوں اسم ہر ایک نبی اور شی کا نکیہ کلام ہوتے ہیں آگے بڑھا تو شیشے کے رنگارنگ مکان نظر آئے جن کے وسط میں اک بڑا سائبان دیکھا جس میں ایک کرسی پر انسان کی شکل نظر آئی جس کے ارد گرد تمام ستارے اور چاند گھوم رہے تھے اور وہ حرکت کرتا تھا تو ان لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے کہا حق تیری ذات پاک تیری ذات پھر آواز آئی کہ سید سر دار عالم تریجے میں حقیقی امام ہوا اور شریعت اتفاقی اس کو عطا ہوئی کہ سید سر دار عالم تریجے میں حقیقی امام ہوا اور شریعت اتفاقی اس کو عطا ہوئی پھر محمد نے ناک کے ہاتھ کپڑے منگوائے تو دستار حسنؐ نے رکھی چولہہ حسین نے پہنایا چادر محمد نے اور شلوار میں نے خود ہی پہن لی پھر محمد نے کہا ارے ناک تیرے بعد میرا بیٹا خلیفہ کیا گیا ہے بزید نے میرا گھر ویران کر دیا تھا اب پھر آباد ہو گیا ہے پھر ناک نے مجھے اور نان کھلائے پھر راگ شروع ہوا جس میں یہ شعر پڑھتے تھے۔

تو پورب پچھتم سائیاں تیریاں سب نے جا لیاں	تیرا احمد تے حامد تیرے تیریاں وڈ پایاں
تیرا علم علیم بھی تیرے تیرا کھیل کھلایاں	تو دانو کا دانا سایاں تیریاں سب دانایاں
تو حاکم محکوم اسی ہاں تیری سب بھلایاں	اول آخر ظاہر باطن تیریاں نے سب ہلہیساں
تو اونچے تو نیچے سایاں ہر جا سایا	سورج چند ستارے سارے نظر تیری وچ آیا
رنگورنگ عجائب خانے قدرت رنگ دکھلایا ہر	اک بوٹے ڈالی پتر راگ تیرے تھیں پایا
تو وحدت تے وحدت تیری ہر وچ سمائی	نبی رشی سب اتھے تیری دین گو اہی

محمد کہا راگ جائز ہے اور یہاں صرف نبی اور روشی ہے یا وہ ہیں کہ جن کو اتفاقی شریعت ملی ہے۔ باقی لوگ بہشت کے ساتویں پردہ میں رہتے ہیں جن کو اختلافی شریعت ملی تھی تم اتحادی شریعت سکھاؤ آپ کے دائیں طرف ایک مکان میں پنجتن پاک اور خدیجہ الکبریٰؓ دیکھیں پھر محمد نے کہا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ شریعت بنی اسرائیل کا حق ہے مرتے وقت پھر حکم ہوا تو میں نے قلم دوات منگائی کہ خلافت حضرت علی اور اس کی اولاد کا حق لکھوں مگر عارضی عالموں نے جھگڑا کیا اور کہا کہ یہ بیہوشی کا کلام ہے حالانکہ نبیؐ کبھی بے ہوش نہیں ہوتا قرآن میں بھی ہم نے یہی لکھا تھا مگر عارضی عالموں نے سب حکم توڑ دیئے اس لئے تم کو نبی بنایا کہ لوگوں کو دھوکہ سے بچائے پھر مشرق و مغرب کی طرف دروازے کھلے جس میں انسانی پیدائش نظر آئی ایک ہوائی تھا دوسرا ناری مگر ان

دونوں میں بھی تخت خداوندی نظر آیا۔ پھر اور پردہ کھلا جس میں تمام جانوروں کی پیدائش نظر آئی انڈے سے پرند نکلتا ہوا معلوم ہوا اور پرند سے انڈہ دکھائی دیا۔ پھر ایک اور پردہ کھلا جس میں تمام قسم کے ہتھیار جنگی موجود تھے۔ پھر شاہی مسجد لاہور کے گنبدوں کے برابر سات انڈے نظر آئے مگر وہ بھی مکان ہی تھے۔ پھر دوزخ کا پردہ کھلا جس میں نہ روشنی تھی اور نہ گرد۔ تالاب خون اور پیپ سے پر تھے۔ پچھ اور بندروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک اور پردہ کھلا جس میں سوراٹے ٹانگے ہوئے تھے۔ جن کے زمانہ میں کوئی نبی نہ آیا تھا۔ پھر ایک دروازہ سے باہر نکلا تو ساتھ والوں نے کہا کہ پورے دس سال آپ کو معراج ہوا ہے۔ صابرہ نے کہا کہ تم کو گئے ہوئے تو ایک ہی منٹ گزرا ہے۔ محمد نے بھی ایسا ہی معراج کیا تھا۔ ابراہیم کو ایک آدمی راستہ میں ملا جو قبرستان سے عبور کرتا تھا کہا کہ یہ قبرستان کیسے زندہ ہو سکتا ہے تو اس کو نیند آگئی جس میں سو سال تک سویا رہا جاگا تو ابراہیم نے پوچھا کتنی مدت سوئے ہو کہا کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا ابراہیم نے کہا کہ تم تو سو سال مرے رہے یعنی سوئے رہے ہو مگر اس نے نہ مانا اور کہا کہ میری خوراک اور میری سواری سلامت ہے لیکن اے ابراہیم تیرا کہنا ماننا ہوں کیونکہ تو نبی ہے اور خدا ہر شے پر قادر ہے۔ میرا معراج بھی دس سال کا اسی طرح گزرا ہے ماننے والے مان لیں گے میں ابھی چار سال کا تھا۔ میرا باپ مکھن شاہ نماز پڑھ رہا تھا تو جب سجدہ میں پڑا تو میں اس کے سر پر بیٹھ گیا اور زور سے دباتا رہا آخر وہ ہنس کر مجھے اتارنے لگا تو میری دادی نے کہا کہ اس بچے نے تیری نماز معاف کرادی ہے ایک ہی سجدہ منظور ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہوگا کیونکہ جب دیکھتی ہوں قرآن پھاڑتا ہے اور کاغذ دھوتا ہے اور اس کے جانور بناتا ہے تو ابتداء سے ہی تبدیلی مجھ میں موجود تھی۔ جس نے جو کام کرنے ہیں۔ بچپن میں ہی اس کو ان کا خیال ہوتا ہے۔ مثلاً عالم و عاقل بچپن میں ہی بعد پیدائش پچاس دن کی آواز کو غور سے سنے گا اور جب وہ پشت اور رحم میں ہوگا تو اس کے والدین عقل کی باتیں سنیں گے۔ حاکم بچپن میں کسی کا کلام نہ سنے گا اور متحمل مزاج ہوگا۔ کنجوس عورت کا حمل سخی ہو تو وہ بھی سخاوت کرنے لگ جاتی ہے صدقہ بیماری کی شفاء کے لئے کیا جاتا ہے۔ سوا لی کو دینا خیرات ہے اور آمدنی سے کچھ دینا زکوٰۃ ہے۔ مگر صدقہ۔ عقیقہ۔ ولیمہ (احکام) سنانا۔ چالیسواں وغیرہ سب حرام ہیں کیونکہ ان میں انسان کا نام آجاتا ہے خدا کا نام لیکر نذر نیاز ہو تو جائز ہے، سال میں تین دفعہ ہمارے ہاں حاضری بھرتا۔ اول بیس جیٹھ کو جبکہ میں پیدا ہوا دو مہینے جنوری کو جبکہ مجھے معراج ہوا سو مہینے موت کے دن جبکہ شریعت پوری ہو جائے گی۔ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جو میری ہدایت پر چلے اپنا بیوپار یا کام کر کے پیٹ پالے ورنہ بیت المال سے اسکو کچھ تعلق نہ ہوگا اور نہ ہی



ہماری جائیداد کو سوبہ فروخت کر سکے گا۔ ایک ماہ میں ایک دفعہ جمعہ کیا کرو اور اس میں اپنی جماعت کے لئے بہتری کے کام سوچو اور خلیفہ سے منظوری حاصل کرو اور جاتے ہوئے ہر طرف ایک ایک سجدہ کرو اور خلیفہ بھی مغرب کی طرف پاؤں پھیلائے ورنہ وہ طرف پرست ہوگا۔ جمعہ پر آئیوالے کم از کم ہمارے لئے فی روپیہ ایک پیسہ لائیں تاکہ یتیموں کی تعلیم پر خرچ ہو۔ نذر نیا ز قربانی زکوٰۃ خشک یا تر مال سب یہاں پر حاضر کرنا ہوگا۔ تمہاری ہڈی کی تجارت بھی روا ہے۔ تعلیم دینے والا بیت المال سے کھائے اور تنخواہ لینا اسکو حرام ہے۔ لڑکی کی شادی پر ایک روپیہ اور پیدائش پر آٹھ آنہ بیت المال میں جمع کراؤ اور لڑکے کی پیدائش پر ایک روپیہ ادا کرو اور شادی پر دو روپے ہر ایک دنیاوی کام پر بھی ہماری فیس دینی ہوگی۔ مبلغین اور ان کی اولاد بیت المال سے کھائیں کسی اہل اللہ کو ضرورت ہو تو بیت المال سے قرضہ سود پر لے سکتا ہے۔ بشرطیکہ خلیفہ نگرانی کرے، متعہ ناجائز ہے اور نکاح وقتی جائز ہے اور مدت گزرنے پر خونخوہ طلاق ہو جائے گی۔ ورنہ طلاق منسوخ ہو چکی ہے لا وارث عورت تن بخشی کرے تو گواہوں کے سامنے کرے ورنہ وہ دونوں زانی ہوں گے اور ان کو دس آدمیوں کے درمیان شرمایا جائے۔ ہماری عبادت گاہ کے دروازے ہر طرف ہوں۔ گنبد چنداں ضروری نہیں عبادت کے وقت راگ میں میرا نام بھی خدا کے ساتھ ملا کر جو۔ ورنہ تم مشرک بن جاؤ گے۔ نبی اور اللہ کو دو حاکم ماننا شرک ہے۔ اس لئے تمام مولوی مشرک ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ چھپ کر یا رکھنے والی عورت چار تک مردوں سے نکاح کر سکتی ہے۔ مگر ایسی خونخوار عورت سے بچو۔ زانی کا نکاح زانیہ سے کرائیں تاکہ جنس کو جنس مل جائے غیروں سے پردہ کرو۔ امیر پر غریب کی پرورش فرض ہے۔ خاوند چھ ماہ تک غائب رہے تو اس کے بھائیوں سے خرچ بھی اور دنیاوی خواہش بھی پوری کرائے اور لوگوں کو سنا دے وہ نہ مانیں تو کسی سردار ہم خیال سے اپنی خواہش پوری کرے۔ پھر اس کے گھر رہے یا وہ سردار سے کسی کے سپرد کرے اس کا بھی اظہار کر دے ورنہ چوری مدد دینے والا زانی ہوگا۔ اور چھ صدی آگ میں عذاب پائیگا۔ مالک واپس آجائے تو عارضی مالک انکار نہ کریں ورنہ سرداری سے توڑا جائے اور مالک کا بھائی خدار ثابت ہوگا۔ اس اثناء میں جو اولاد ہو اس کی وارث صرف ماں ہے جسے چاہے دیدے سات رشتہ والدین کے اور سات رشتہ اپنے چھوڑ کر باہر شادی کرو۔ ورنہ تم کافر بن جاؤ گے آدم کے پہلے سات آدم تھے تو اس کی اولاد نے ان کی اولاد سے نکاح کیا اور جب ناری تنگ کرتے ہیں تو خاکی کو پیدا کیا جاتا ہے اسی طرح کئی دفعہ ہوا اور ہوتا رہے گا اور جب نبی نہیں آتا تو اس وقت گناہ کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے نبی بعد نبی کے اور کتاب بعد کتاب کے بھیجنا ضرور ہوا۔ ورنہ پیر اور مولوی دین تباہ

کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ محمد کے بعد انہوں نے حجر اسود اور منازل شیطان (حجرات) کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ تم اس سے بچو خواجہ خضر پانی پرستوں نے پانی کا نام رکھا ہوا ہے اور زمزم کی بھی عبادت کرتے ہیں ورنہ قرآن کا حکم نہیں حلال چیز حرام کے ملنے سے حرام نہیں ہوتی اس لئے چوری کے مال سے زکوٰۃ جائز ہے۔ شیردار کو ایذا نہ دو۔ ورنہ بارش کم ہو جائے گی۔ بادشاہ اور نبی کے بچاؤ کے لئے قربانی دیا کرو۔ میزان نظام شمسی کا نام ہے۔ وزن اعمال کا نام نہیں کیونکہ معراج میں دکھایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی جزا و سزا شروع ہے۔ کم نہ تو لو اور پردہ دردی نہ کرو۔ نبی اور بادشاہ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کوابلبل کے بچے پکڑ رہا تھا کہ میں نے ان کو چڑھایا۔ تو بلبل کہنے لگی کہ اب حفاظت میں میرے بچے آگئے ہیں۔ یہ ابھی آزاد کر دیگا۔ کبھی کبھی ہر ایک کے عبادتخانہ میں جا کر ان کی طرح عبادت کرو۔ عناصر پاک ہیں۔ مگر جب تمھ سے ملتے ہیں۔ تو ناپاک ہو جاتے ہیں۔ میں کرشن ہوں۔ محمد۔ موسیٰ مسیح اور راجھہ رکا عملی نمونہ ہوں گا مذہبی نہ رشی ہے نہ اتار ہے۔ کیونکہ وہ ایک مذہب کا پابند ہے اور چوہڑے چمار۔ سکھ۔ صائنی اور ہندو مسلمان سب کو ملاتا ہوں۔ خدا کا حکم ہے کہ میری خشکی، بحر سمندر میرے گرجے مسجد مندر۔ میرے ازل ابد دے بندر۔ میں مالک مختار پیدا میں ہر اک بچے دیو بچ آواں۔ اپنی وحی تحریر لکھاواں۔ نحن اقرب حکم سناواں۔ کم کراں دلداریدا میں خود نبی رشی ہو آواں اپنا حکم میں آپ بتاواں پیر عالم تمھیں برا سداواں دیواں سبتی غفاریدا۔

ہر ایک نبی کو غریبوں اور مسکینوں نے مانا ہے اس لئے صدقہ خیرات حق ان کا ہے محمدی لوگ نماز میں ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تمھاری سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر نبی کا درود پڑھتے ہو۔ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ میں سولہ سال کا تھا کہ خدا شیر کی صورت میں آیا اور اس نے پکڑ کر مجھے چاروں طرف گھمایا تو میں نے کہا کہ حق تیری ذات سچ تیری ذات۔ شریعت رور ہی تھی کہ میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ خدا نے کہا کہ تیرے مخالفوں کو آگ میں ڈالوں گا۔ اے راستی تیرے بیٹوں میں سے سب سے بڑا بیٹا سید محبوب عالم بنی اسرائیل اب تیری حفاظت کے لیے نبی بنایا ہے۔ آل رسول کے دشمن یزیدی اور فرعون بنی ہیں۔ انہوں نے ہی کہل تھا کہ حسین کو جلد قتل کرو نماز قضاء نہ ہونے پائے۔ شریعت کے ہند جو صدق شریعت آتی ہے وہ تبدیل ہو کر پہلی ہی شریعت ہوتی ہے اور پہلا ہی نبی رشی منادی ہوتا ہے۔ (یعنی محمد ثانی ہوں) مگر لوگ نہیں سمجھتے۔ نبی کے بعد خلیفوں نے نماز کو یعنی شریعت کو بگاڑ دیا۔ اس لئے تم ان سے بچو۔ خدا بے مثل ہوں اور میرا کلام

بھی بے مثل ہے علیون سجدیون بہشت کے دو علاقہ ہیں جن میں میرے لوگ رہیں گے۔ فلا اقتحم میں تحم سے مراد سستی ہے اور عقبہ سے مراد غلام ہیں مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ہم خیال کو تکلیف میں دیکھ سستی نہ کرو اور نہ فقیر کی خدمت سے باز آؤ۔ سموات و لفقنوں سے مرکب ہے سماء یعنی آسمان اور اوت یعنی پیدائش یا یوں کہو کہ اصل میں تھا سماء معہ سات یعنی آسمان اور سات عناصر جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ قیام سے لیکر سجدہ تک جو تم کرتے ہو۔ وہ نماز اور صلوة ہے جو ایک دفعہ کرو یا دس دفعہ تین یا پانچ کی شرط نہیں۔ قرآن کی ماہیت خدا جانتا ہے۔ یار اسخون جانتے ہیں۔ میں راخون ہوں اور قرآنی معما میں ہی حل کرونگا۔ عارضی بادشاہ ایک قوم کو عزت دیتا ہے اور دوسری کو ذلیل کرتا ہے اور حقیقی بادشاہت کو عزت دیتا ہے۔ پس نبی ہی حقیقی بادشاہ ہوا۔ ابراہیم نے جب تین جھوٹ بولے تھے تو اس وقت وہ نبی نہ تھا اور نہ وہ جھوٹ نہ بولتا۔ اس کا نام برکت ہے اور ہر ایک نبی کا نام بھی برکت ہوتا ہے مشہور ہے کہ خدا پنڈلی دوزخ میں ڈالے گا تو وہ سرد ہو جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ مردے کی پنڈلی کھولی جائے گی اور قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ مسیح اور محمد کے حواری بھی اسرائیل ہی ہیں۔ سردار ولی۔ غلام علی۔ سردار صابروہ اسی نسل سے ہیں جنہوں نے تیری گواہی دی۔ بدلہ کا معنی برابر کرنا ہے سو آج تیرے سبب اس کرخت شریعت کو منسوخ کیا اور رحم فرمایا تاکہ اتفاق پیدا ہو پس جو قاتل ہو وہی مارا جائے۔ یہ نہیں کہ جس کے گلے میں پھانسی پوری ہو اس کو قتل کیا جائے۔ حکم پروردگرمیوں نے شریعت بگاڑ دی ہے۔ اخیر کا نشان یہ ہے کہ بھلائی کم ہو جائے گی اور برائی تیزی پر ہوگی۔ یہ نشان تیسری بتی کل جگ کے جانے پر ہوں گے دوسری تبدیلی تب ہوگی کہ زمین و آسمان بدلیں گے اور اس تبدیلی کو سات سو سال گزر جائیں گے پھر سب چیز پانی ہو جائے گی اور سو سال تک پانی چڑھتا رہے گا اور اصلی اخیر تب ہوگی کہ گھڑا وٹا بھی فنا ہو جائے گا اور صرف خدا ہی رہ جائے گا شیریں اور تلخ کو زیادہ نہ کھاؤ۔ اندر بیٹھ آرام کر برتن کی تاثیر خوراک میں ہوتی ہے اس لئے تو مٹی ہے اور مٹی کے برتنوں میں ہی کھا۔ امیر کو خیرات لینا زہر ہے۔ جانور سے اس کی طاقت کے موافق کام لو مخالفت کو توڑنا خارق ہے۔

۳۹ ..... امام حقیقی نمبر ۳ مسی بہ گیان گنج میں لکھا ہے کہ اگر تم آنے والے عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ تو میری تابعداری کرو ورنہ پچھتاؤ گے اور چار صدی نو ماہ نو دن کے بعد بار بار پیدا ہوتے رہو گے اور اگر تابعداری کرو گے تو حشر تک آرام سے سوتے رہو گے۔ جب بہشت دورخ برباد ہو کر دوسری دفعہ دنیا آباد ہوگی تو اس کا ابتدائی زمانہ ست جگ ہوگا۔ جیسا کہ مسیح سے سات بجے تک کوئی شرارت نہیں ہوتی۔ ست جگ میں نہ نکاح منڈو ہوتا ہے۔ نہ چوری یاری اور

نہ شریعت صرف جنگل کی گزران ہوتی ہے۔ جب جنگلی تمدن چھوڑ کر انسان اپنا تمدن اختیار کر لیا اور شریعت آئے گی یہ زمانہ دوا پر کا ہوتا ہے جو سات بجے سے ایک بجے تک کی مثال ہے اور اس میں کام کاج ہوتے ہیں اور تڑپتے میں یعنی تین بجے سے پانچ بجے تک بھوک پیاس ڈگریاں وغیرہ ہوتی ہیں اور اسی حصہ میں ظلم ہوتا ہے اور نبی آ کر کہتا ہے کہ کسی کو نہ ستاؤ۔ عصر کے بعد کا وقت آخری زمانہ کب جگ ہے۔ جس میں ہر کوئی آرام کی طرف مائل ہوتا ہے اور مطلب کی عبادت کرتا ہے۔ مگر اہل اللہ راستی کی آواز سناتے ہیں۔ قیامت اسی زمین پر قائم ہوگی اور یہیں نیک بندے اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ یاجوج ماجوج یعنی انکاری لوگ جب قبروں سے نکل کر ادھر ادھر بیہوشی میں پھریں گے تو ہماری اطاعت نہ کرنے پر افسوس کریں گے۔ نبی رشی اور سات ہستی حقیقی فرشتے ہیں ہر ایک بھلا کرنے والا بھی فرشتہ ہے اور برا کر نیوالا شیطان اس کی شناخت یہ ہے کہ انسان کو چھیڑتا رہتا ہے۔ زمانہ کے دوسرے حصہ میں آٹھ مذہب ہیں۔ ایک اہل اللہ بانی سات مٹی آگ ہوا خول پانی روح اور تغیر کو ہی مانتے ہیں مگر وہ فساد نہیں کرتے اس لئے ان کو عذاب نہ ہوگا ان تذبحو بقرۃ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ جس سانڈھ کی تم عزت کرتے ہو اس سے کام لو اور اسے خدا کا اوتار نہ سمجھو اور فاسقتلوا انفسکم تم اپنے آپ کو گناہ کی وجہ سے ذلیف سمجھو اس مقام پر نذر و نیاز کا جانور یا قتل نفس مراد نہیں اس لئے خدا کی راہ نہ کچھ جلا یا جائے اور نہ جانور مارا جائے اور اپنے نبی کی مورتی کے سوا کسی اور کی مورتی کی پرستش نہ کرو ورنہ تیس جنم کی سزا ملے گی اور نبی کی مورتی کی تعظیم سال بسال کی جائے۔ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ جتنی عمر تم زندہ رہتے ہو اگر تم انکاری ہو گے تو اس سے تیس گناہ زیادہ سزا پاؤ گے۔ (مثلاً جو ۲۰ سال کا ہے اس کو ۶۰۰ سال زیادہ ہوگی) انسان چرند پرند وغیرہ میں جنم نہیں لیتا۔ بلکہ چور اسی اجزا میں اس کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ ۳۵ برس میں وہ اپنے چور اسی جنم کھا لیتا ہے اور نوے سال تک گھٹتا جاتا ہے۔ نیک ہوگا۔ تو جنت میں جائے گا ورنہ پھر ان چور اسی اجزا میں واپس آئے گا اور پھر پیدا ہوگا۔ پس یہی چور اسی جنم ہیں جو اپنی حیاتی میں کھا کر مرتا ہے چالیس سال کے بعد جو نر ناری شادی کریں اور بے عیب ہوں تو ان کی اولاد ایک سو چالیس سال تک زندہ رہے گی تیس سال میں شادی کریں تو ایک سو بیس سال، بیس سال میں شادی کریں تو اسی نوے تک ان کی اولاد زندہ رہے گی۔ زمین و آسمان ایک برن ہے جس میں چرند پرند اور سامنے انسان چوہڑے چمار بادشاہ اور کیمین سانس لیتے ہیں اور اپنے اندر سے خوراک نکالتے ہیں اور وہی مشترکہ اجزاء لطیف ہو کر اور ہماری کثیف غذا بن کر ہمارے جسم میں آتے ہیں۔ تو پھر اونچ نیچ کا خیال کرنا غلط ہوگا۔ اس لئے

گرو سے ملو۔ تاکہ تمہارا یہ بھرم گنوا دے ورنہ ایک لاکھ چوراسی جنم لینا ہوگا۔ سوچو کہ غیب اور لطیف حالت میں تم سب ایک ہی ہو۔ جیسا کہ ثابت ہوا مگر اب کثیف حالت میں تم الگ الگ کیوں ہو گئے اس لئے میں مذہبی اختلافات کو مٹانے آیا ہوں اور خدا بھی مٹانا چاہتا ہے۔

پڑھ عالم تم چڑیاں سارے مذہب باز بن گیا  
 ایک ایک کر کھائے سھناں اپنا جشن منایا  
 ہے شیطان فسادى نالام رجول بہن تھیں موڑے  
 ست چت آند سردپوں سانوں توڑ د چھوڑے  
 اکو ازل ابد بھی اکو اکو مایاں جائے  
 تے ہند و مسلم چوہڑے گلڑے کیونکہ نام سداے  
 جاپے ملاں پنڈت دیدی ملن تسان نہ دیندے  
 اک کلمہ نوں پڑھے جے دو جا اسنوں کافر کہندے  
 لالہ دے آکھن کا رن دسوی بریائی  
 تے رام رام دے آکھن کارن کیوں نہ ملے رہائی

جب تک تم مذہب کی گرفت میں ہو تم ترقی نہیں کر سکتے اسے چھوڑو ورنہ تمہارے لئے بیڑیاں ہتھکڑیاں اور پھانسی تیار ہے تو جب اس عذاب میں پھنسو گے تو کہو گے ہائے مذہب تیرا ستیا ناس۔ ہر ایک عنصری پیدائش کی جنسیں حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ تمام انسان ایک ہیں۔ صرف اوقات اور موسم سے مختلف ہیں۔ ورنہ مٹی میں انسان ہوتا ہے اور انسان میں مٹی۔ اپنے گھر آپ ہی پیدا ہوتا ہے اور اپنا ہی بیٹا کہلاتا ہے۔ اسی طرح رشی نبی کا مادہ قرآن وید پران اور گرنٹھ ہیں۔ یہی مٹی ان میں خرچ ہوتی ہے اس لئے ان کی بھی تعظیم واجب ہے۔ صفا اور مردہ پہاڑیاں ہیں ان کی تعظیم بھی جاری ہے مگر یہ تعظیم خدا کے جلوہ سے ہے ورنہ لکڑی پتھر وغیرہ کی پرستش ناجائز ہے۔ اسی طرح گرو کو پر ماتما ہی مانو جو انسانی صورت میں نمودار ہوا ہے ورنہ بت پرستی ہوگی اور نوے۔

احکام..... سال میلا اور پیپ کھانا پڑیگا بس نبی صورت تبدیل کر کے انسان بنا ہوا ہے ورنہ وہ پر ماتما ہی ہے۔ انہ لقول رسول کریم قرآن رسول کا ہی کلام ہے اور وہی کلام خدا کا بھی ہے پس ثابت ہوا کہ خدا رسول اور قرآن رسالت سب ایک مادہ ہیں جو شخص الگ الگ خیال کرے وہ کافر ہوگا ایک سو سال تک کوڑھی رہے گا اور جو لوگ نبی کو نبی جانکر مٹی کو مٹی جانکر اور

پتھر کو پتھر وغیرہ جا کر پوجتے ہیں وہ بت پرست ہیں۔ سانس لطیف خوراک ہے۔ تم جب نطفہ تھے اس وقت بھی تمہاری خوراک لطیف تھی۔ تو بہشت میں بھی تمہاری خوراک لطیف ہوگی۔ نبی اپنے فائدہ کی دعا نہ مانگے اٹھو دانہ تلاش کرو۔ سورج آگ ہے اور چاند پانی اور چاند سورج کے اوپر ہے اور اس سے بڑا ہے تاکہ سردار ہے۔ ایک سیر پانی تول کے رکھو تو جتنا وہ ہر روز کم ہوتا ہے اتنا ہی تم روزانہ مرجاتے ہو اور تین گنا زندہ ہوتے ہو۔ نصف عمر کے بعد دو گنا موت اور ایک گنا خوراک ہوگی۔ نیک بروں کی محبت میں نہ بیٹھے اس لئے کرو سے ملو تاکہ تمہارے دل کا رنگ صاف ہو۔ مذہب کا تفرقہ اصلاح کے لئے ہوا ہے۔ مگر تم نے عداوت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس سے بچو۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں پہلے پہل گیانی کا تھوک ڈالو اور اس کے کان میں روزانہ سات دفعہ رام رام کرو اور سات دفعہ اللہ اللہ تاکہ مذہب سے دور رہے اور بچے کو لوری اس طرح دیا کرو۔

اے بچہ تیرے رب تہہ عدموں کیا موجود باجھوں اس اکال روپ کریں نہ کتے سمود  
اندر ہر ہر حال دے ہے تیرا نگہبان ست چت آنند نندتے رکھیں دلوں ایمان  
پرورش کردا تہہ دی باجھوں دام دعا مئے عوض نہ ایسا کردا ہے دیا  
تیرے وانگر اوس تے بچہ ہر دی آس جو مئے سو پایگا نہ کوئی رہے نراس  
حاملہ عورت سے نہ طوور نہ وہ بھی بیمار ہوگی اور تم کو بھی سستی وغیرہ ہو جائے گی اور حمل  
گرتا رہتا ہے اور سات جنم میں اور (بے اولاد) رہتا ہے۔ نبی کا فیض بعد از موت بھی ہے ورنہ وہ  
نبی ہی کیسا ہے مگر واقفیت ضروری ہے اس لئے بدیشی نبی سے تم کو نجات نہیں ملتی۔ کیونکہ وہ تمہارا  
واقف ہی نہیں۔ پس میں ہی موجودہ زمانہ کے لئے آیا ہوں مجھ سے ملو اور جو میرے بعد میرا خلیفہ  
ہوگا وہ بھی کسی مذہب کا طرفدار نہ ہوگا میں حقیقی انسان مثل پر ماتما کے ہوں تمام تفرقے مٹانے آیا  
ہوں کیا خدا انسان کا جامہ نہیں پہنتا۔ تو پھر قرآن گرنہ وغیرہ خدا کا کلام کیسے ہوئے۔ حالانکہ یہ نبی  
کا کلام ہے خدا نے تو ان کو جلد بنوا کر نہیں دی۔ پس رسول رسالت اور خدا ایک ہیں۔

پڑھ ہم مندر ہم مسجد گرجے ہم ہی تھا کردارے ہیں  
ہم ہی رام محمد ناک ہم ہی کرشن پیارے ہیں  
ہم ہی واپو انگر اگنی ہم عالم ددباری ہیں  
ہم ہی موسیٰ عیسیٰ برہماوشن مہیش سہارے ہیں  
ہم ہی گنگا جمنائکا تے ہند سندھ پیارے ہیں  
ہم ہی یروٹلم تے کئے اکے دے بلہارے ہیں

کہو عالم جو کل ہے میرا باغ تمام  
پھل پھول اسدے جان توں نوع نبی انسان

جب دنیا پھر پیدا ہوگی تو جو عورتیں اس وقت حاملہ ہو کر مری ہیں وہ اس وقت بغیر مرد کے بچے جنمیں گی اور آدم حوا پیدا ہوں گے اگرچہ وہ اس وقت مٹی ہو گئی ہیں مگر ان میں انسان کا بیج موجود رہے گا۔ جیسا درخت میں بیج ہے اور بیج میں درخت۔ آدم کا باپ بھی اس سے پہلی مخلوق سے تھا اور عیسیٰ کا باپ ایک رسول تھا کہ جس نے کہا تھا کہ لا ھب لك غلاما زکيا میں تجھے لڑکا دیتا ہوں۔ بہشت کی خوراک لطیف ہوگی اور کھانے والے بھی لطیف ہوں گے اور ان لطیف جوڑوں سے حور و غلمان پیدا ہوں گے۔ ظلیل کا بت خانہ نہدا کا مکان تھا ایسے عمر۔ موسیٰ، عیسیٰ، کرشن اور ناک کا آستان بھی خدا کا ہی آستان ہے۔ ویسے ہی عارضی مسجد، مندر، گرجا اور گوردوارہ بھی اس کا آستان ہے اسی طرح میرا مکان بھی درہ نجات ہوا۔ ایک دن میں نے جنگل میں کچھ کورے برتن دیکھے جو پانی سے خالی تھے اور کچھ پرانے جن میں پانی تھا۔ مجھے پیاس تھی میں نے پیاس بجھائی تو خدا نے مجھے کہا کہ رسی مولوی اور پنڈت کورے برتن ہیں۔ ان میں نجات کا پانی نہیں اور جن کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں ان میں نجات کا پانی موجود ہے انسان مچھلی مار کر کھاتا ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے جو ظاہر ہوا تم کسی کو کچھ نہ کہو برے اپنی برائی خود پالیں گے۔ تین ماہ جس کا بچہ گرتا ہے اس کے پاس تین ماہ کی حاملہ نہ جائے۔ ورنہ اس کا بھی حمل گر جائے گا۔ جس کے بچے مرتے ہوں۔ تو زچہ کے پاس نہ جاتے۔ بلکہ پچاس روز تک زچہ کے پاس خونصورت نیک خصلت جائیں بری موثری پاس نہ ہو۔ وہاں لڑائی نہ ہو بلکہ راگ لطیف ہو اور محبت کی باتیں ہوں اور وہ پچاس روز تک باہر نہ نکلے ورنہ بیمار ہو جائے گی۔ روح کا حلیہ نہیں تو خدا کا حلیہ بھی نہیں بھائی اور والدین سے خوراک کا مول نہ لے کیونکہ بعد موت کے تم وارث ہو بھائی کی بیوہ تم سے اولاد حاصل کرے۔ بشرطیکہ وہ کہہ دے کہ میں اب دیور سے اولاد لے لوں گی۔ اگر دیور نہیں تو سر سے اولاد پیدا کرے بشرطیکہ غیر کنبہ کی ہو۔ لے پالک لڑکی بھی تم پر جائز ہے۔ بشرطیکہ غیر کی ہو۔ دودھ شریک بہن بھائی کا نکاح جائز ہے بشرطیکہ غیر کنبہ کے ہوں۔ جبرائیل عزرائیل میکائیل اسرافیل چار فرشتے یعنی چار رشی تھے۔ پھر لطیف ہوئے تو دید شنید و چار اور ذائقہ کے چار اصول بن گئے۔ اسی طرح نبی رشی رسول اوتار اور کتاب ایک ہی ہیں۔ جاہل اعتراض کرتے ہیں۔ موسیٰ، جبری آدمی کی بیعت ہو تو اس نے کہا کہ میرا کہنا مان میرے کام پر اعتراض نہ کرنا۔ اس لئے میرے شیدائی کا سردار ولی۔ ولی غلام اور بھاگ تولہ اور صابراہ ایسے ہوئے کہ موسیٰ بھی ایسا نہ ہوا اور نہ مسیح و محمد کے

حواری ایسے ہوئے کیونکہ وہ سب منافق تھے بعد تو ن عذر کرتے تھے مگر نبی کو خدا نے ان کا حال بتا دیا تھا اس لئے ان میں ملکر گزارہ کرتا رہا اصلی تابعدار تو حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ باقی سب یزیدئے تھے اب بھی جو لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں وہ سب یزیدئے ہیں اور چار آدمی میرے ساتھ اصلی تابعدار ہیں۔ ہاروت ماروت رشتی تھے جو سلیمان سے مل کر کام کرتے تھے۔ بلقیس تخت بھی وہی لائے تھے۔ میرے ساتھی بھی ہاروت ماروت جیسے ہیں۔ تنخواہی مولویوں نے باتیں بنائی ہیں کہ وہ فرشتے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک کتاب بنا کر محمد کی پیش کی کہ یہ سلیمان کی تعلیم تھی۔ مگر خدا نے کہا کہ سلیمان کافر نہ تھا اور اس میں کفر ہے۔ تو وہ جھوٹے ہوئے۔ وہ دونوں رشی بابل میں تھے۔ ان پر شریعت اتری جس میں تفرقہ کی بات کوئی نہ تھی جب محمد نے یہ سنایا تو نبذ فریق ایک گروہ نے نہ مانا اور وہ پیر و مولوی تھے وراء ظہور ہم بعد کی کتاب کو بھی نہیں مانتے حالانکہ اس میں قرآن کی عقیدہ کشائی ہے یا کالون بالباطل پیر مولوی حرام کھاتے ہیں۔ مہدی سے مراد ہدایت اور شریعت جدید ہے ورنہ اس سے مراد کوئی آدمی نہیں۔ مردہ پرست چاہتے ہیں کہ نیا مہدی پیدا ہو مگر کہاں سے؟ پس حقیقی مہدی وہ ہے کہ جس کو شریعت جدید ملتی ہے۔ رشی کا وجود کلام الہی کا صندوق ہے۔

چيون چيون بين ضرورتاں تينوں تينوں ہون اوڤا  
 اہل ہمارے ہون جو ديون تر ت سنا  
 تن مسیت وچ من مصلے سرت امام پچان  
 او از صلوة خواہش تسبیحاں ہونی ہار ایمان  
 وضو حق تے بانگ محبت پرورش پڑہن پڑہان  
 بھرم تمامی دور کر ہوویں مسلمان

تین قسم کے صوفی ہیں۔ اول لباس بھورا پوش دوم سفید پوش اور ہاتھ منہ صاف رکھنے والے سوم جو ہمارے نام سے صفائی حاصل کرتے ہیں اور کسی مذہب کے پابند نہیں۔ حج کے دنوں میں سردار مال جمع کیا ہوا بانٹتے تھے اور ان میں صلح ہوتی تھی تین دن بعد میں جلسہ کرتے تھے اور اپنی اپنی ترقی کے وسائل سوچتے تھے محمد نے کہا تم یوں تباہ ہو جاؤ گے۔ صرف ایک کا حصہ ضروری ہے یعنی جو بت نہیں پوجتا اور جمعہ بھی ماہ بامہ قائم کرتے تھے جسمیں مشورہ کرتے تھے ورنہ اس قسم کا حج بیکار ہے کہ جا کر پیسہ خرچ کر آئے اور خالی ہاتھ گھر آ بیٹھے اس لئے اسراف سے بچو۔ پس وہ مال اہل اللہ کو دو اور اختلاف ملانے پر خرچ کرو۔ زکا ورش یکساں برابر ہے۔ زرنہ ہو تو ناری کا حصہ



یکساں برابر ہے۔ نہ کر کے ہوتے ہوئے ناری کا وہی حصہ ہے جو اس نے شادی پر حاصل کر لیا ہے یا کرے گی۔ کیونکہ اب وہ خاوند کی وارث ہوگی۔ لاولد آدمی کا وارث اس کا رحم شریک ہے لاولد عورت کا وارث بھی رحم شریک ہے جو صرف اس کے مہر سے حصہ حاصل کریگا۔ اگر کل مال مہر سے کم ہو تو بعد ادائے قرضہ تین حصہ آدمی کے وارث لیں اور ایک حصہ عورت کے وارث جس کا قرضہ اور اولاد ہو وصیت نہ کرے اور جیتے جی جتنا ہو سکے اہل اللہ کو دے کیونکہ دان سے ہی راجہ اور گرد جنم ملتا ہے۔ ہم سے تصور لگاؤ تو موت کے بعد تم ہم میں حلول ہو جائے گا اور آرام کا بہشت پاؤ گے۔ ورنہ جس کی محبت میں مرد گے اسی میں جاؤ گے اور عذاب ہوگا۔ لڑکیوں سے جبر آنا نہ کرو۔ خرچی دے کر جائز ہے بازارن کے پیٹ سے جو اولاد ہو وہ صاحب نطفہ کی ہوگی اے انسان تو نور ہے۔ مگر دشمن کے کہنے سے نار ہو گیا ہے۔ اب نجات کی خواہش ہے تو عالم محبوب کا دامن پکڑ کیونکہ نبی رشی کی دید شنید اور کلام خود خدا ہوتا ہے اور دونوں کا جسم ایک ہے پس ہمارے جسم میں عالم محبوب ہے۔ معافی مانگ ورنہ اندھیرا جنم لے گا۔

تتقید

۳۹..... مدعیان نبوت قادیانیہ ایرانیہ و چیچا وطنی و گوجرانوالیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے خیال میں تمام نبی اور ذات باری ایک ہی تھے۔ تب ہی تو اس کا کلام ان کا کلام ہوا اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو پہلے زمانہ میں رجعت اور بروز کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی تشریح کرنے میں تنازع کا مفہوم الگ کیا تھا اور پھر بھی کسی زبردست دلیل سے یہ امتیاز حاصل نہ ہوا تھا۔ وہ آج وحی کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور جنم بھو گنا یا جون بدلنا ان کا آسان ترجمہ ہے مگر حیرت یہ ہے کہ اسلام تنازع کا قائل نہیں۔ البتہ جو لوگ کرشن یا نایک کے اوتار بنے ہیں ان کا یہ اصولی مسئلہ ٹھہرتا ہے ورنہ وحدت ادیان کا ادعا پیش نہیں کر سکتے۔

۴۰..... جب تعلیمات پیش کردہ سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھویں صدی کے رشیوں نے تنازع پر ہی اپنی نبوت کی بنیاد رکھی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ:

الف..... اگر معصوم بچہ بیمار ہوتا ہے اور گزشتہ جنم کی سزا میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی تشخیص گزشتہ حالات سے کیوں نہیں کی جاتی اور کیوں خواہ مخواہ ڈاکٹری اور یونانی اصول حکمیہ کے استحصال میں پسینہ اور خون ایک کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا فرض تھا کہ ایک مکمل فہرست پیش کرتے کہ ان بد اعمالیوں سے دوسرے جنم میں یہ بیماریاں پیش آتی ہیں تاکہ اس قسم کا اوپا کیا جاتا۔ اگر وہ غلطی ناقابل تلافی ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کو کیوں خواہ مخواہ مجرم بنا دیا جا رہا ہے کہ خدا تو اسکو یہ سزا دے

کر اسے صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی بہترین جنم میں اوتارے مگر معالج خواہ مخواہ اس فعل خداوندی میں رکاوٹ پیش کرتا ہے اور والدین بھی چاہتے ہیں کہ اس کی یہ سزا دور ہو جائے۔ تو پھر کیا معالج یا وارث اس طرح رکاوٹ ڈالنے سے مجرم نہ ٹھہریں گے؟ اور کیا اس بیمار کے حق میں یہ خیر خواہی کمال عداوت نہ ہوگی کہ اس کو پوری سزا نہیں بھگتتی دیتے۔

ب..... قصص الانبیاء (بائبل) کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر اصلی نبی یا تابع نبی ہوئے وہ ایک دوسرے کے مصدق تھے اور ایک دوسرے کی مخالفت میں اپنی زبان کو کبھی حرکت نہ دی تھی۔ مگر ان چودھویں صدی کے مدعیان نبوت کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کھا جانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایرانی مسیح اپنے بعد کے مدعیوں کا کافر و جال کہتے ہیں اور قادیانی مسیح ان کو کفر تو کجا اس سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب قادیانی نبوت نے قدرت ثانیہ کا بیج بویا۔ تو جنگلی دھتوروں نے پیدا ہوتے ہی ایک دوسرے کی آنکھ پھوڑنی شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ بچو مادگیرے نیست آج میری بیعت ہی باعث نجات ہے اور جو مجھے نہیں ماننا وہ ناری اور صحیح طور پر کافر دین الہی ہے ان لوگوں کو شکایت تھی کہ اہلسنت آپس میں ہمیشہ تکفیری الفاظ میں مستغرق رہتے ہیں۔ مگر ان چالیس نبیوں کی باری آئی تو آپس میں تکفیری مشینیں اس طرح چلائیں کہ اتحاد کرتے کرتے انشقاق و افتراق کا پختہ اور غیر متزلزل ستون بن گئے اور اس بات کو نہ سمجھے کہ اتفاق صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ دعوت اتحاد دنیا میں صرف ایک ہو مگر ایسی دعوتیں ۳۵ یا ۴۰ تک پہنچ جائیں تو یہ تمام اتحادات ان افتراقات سے بھی برائے نتیجہ پیدا کرتے ہیں جو ان سے پہلے تھے اور جن کے متعلق دنیا شاک تھی کہ انہوں نے شیرازہ اسلام بکھیر دیا ہوا ہے بہر حال جب عہد حاضر کے مسیح آپس میں ہی ایک دوسرے کے مصدق نہیں تو ہم سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں۔

ج..... خدا ایک ہے اور اس کے افعال اور اقوال اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور سب گواہ ہیں کہ اس کا کوئی فعل کسی قسم کے عیب سے طوٹ نہیں مگر جب عہد حاضر کے کرشنوں کے حالات پیش نظر آتے ہیں۔ تو تمام حالات پڑھنے کے بعد خدا کے متعلق بھی ایک بدظنی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر ایک کو وہ بیٹا ہی دیتا ہے کسی کو بیٹی نہیں دیتا یعنی وہ بھی زمانہ ساز ہے۔ جو سامنے آیا اسی کو امام الزمان وغیرہ بنا دیا اور غیر حاضر کی امامت سلب کر کے اس کو دیدی تو گویا خدا تعالیٰ بھی (عیاذ باللہ) ان چالیس کرشنوں کے بھیجنے میں صادق القول نہیں رہ سکا اور دھوکا دے کر سب کو نبوت عطا کرتا رہا ہے اور ساتھ ہی تکفیر کی تعلیم بھی کرتا رہا ہے۔ کہ جو تمہیں نہیں ماننا وہ کافر ہے۔

ادھر کچھ ادھر کچھ ایک کو امام الزمان بنایا پھر اسی کو دوسرے کی زبان سے شیطان یا دجال بتایا کیا یہ ایسا فعل شنیع نہیں ہے کہ جس سے انسانی اخلاق بھی تنفر کرتے ہیں تو بھلا خدائی صفات اس سے کیوں تنفر نہ کریں گے۔ رنجیت سنگھ صبح دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا سی سا لٹا نہ طریق پر دعا دینے لگا تو رنجیت سنگھ نے اپنے نوکر سے کہا میرے والد نے آج مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ جب یہ مرا سی صبح آئے تو اس کے سر پر سو جوتے لگانا۔ مرا سی نے عرض کیا کہ جناب آپ کا والد بڑا ہی دوغلا ہے کہ مجھے تو خواب میں یوں کہہ گیا تھا کہ گپت سنگھ سے صبح سنہری کنگن کی جوڑی وصول کرو۔ دیکھو وہ بڑا ہی شاطر ہے کہ مجھے کچھ کہہ گیا اور بیٹے سے کچھ۔ تو ایسے والد کی اولاد کبھی ہوگی۔

..... وحدت ادیان کا ولولہ ایسے تمام تعلیمی افتہ اشخاص کی ذہنیت پر قابض ہو کر دکھائی دے رہا ہے کہ جن کے نزدیک تجدید یورپ کے سامنے قدامت مذہب نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ تو اب جب تک مذہب کو موڑ توڑ کر اس کے موافق نہ کر لیا جائے مذہب قائم نہیں رہ سکتا۔ ورنہ مجبوراً مذہب کو خیر باد کہنا پڑیگا۔ اس لئے ان خیر خواہان مذہب نے دو طرح پر اصلاح شروع کر دی ہے جن میں سے ایک وہ گروہ ہے جو صاف تمدن یورپ میں جذب ہو کر اسلام کو مختص الوقت مذہب قرار دیتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ اگر بانی اسلام اس وقت ہوتے تو آج وہی تمدن اور معاشرت اختیار کرتی جو حقیقتیں یورپ نے عملاً اور تحقیقاً پیش کی ہے اور اپنے عقائد بھی وہی ٹھکان لئے ہوتے جو موجودہ فلسفہ سے پیدا ہو چکے ہیں دوسرا گروہ ایک وہ پیدا ہوا جنہوں نے مسیح کرشن اور دنیا کے قریب تر بانی مذہب نائک وغیرہ بن کر اپنا اپنا نصاب تعلیم پیش کیا اور اپنی اپنی یونیورسٹی کے اخراجات کے لئے ایک بیت المال قائم کرنے کی دعوت دی۔ جواز سود، ترک صلوات اور قطع ارکان حج اور روزہ اور دیگر مروجہ عبادات کے بعد اپنے فروعی اختلافات میں ایک دوسرے کو کاذب، دجال اور کافر بتانے لگا اور اسلام قدیم کو موجب لعنت قرار دے کر ایک نیا اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں تمدن یورپ کی جھلک موجود ہے اور ہندو مسلم اور عیسائی اور یہودی تعلیم کو سامنے رکھ کر ایک نیا مذہب تجویز کیا جو اس وقت مسلم ہستی کے لئے موجب نجات تصور کیا جا رہا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہر ایک کا نصاب نبوت اور کورس شریعت آپس میں ٹکرا رہا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ تمام مذہب جدیدہ اور نبوت حاضرہ کے تابعدار ایک کانفرنس قائم کر کے اس امر کا فیصلہ کریں کہ دنیائے اسلام کے لئے کونسا کورس جاری کیا جائے پھر جاری کرنے میں ان کو دو طریق پر چلنا ہوگا ایک یہ کہ ایک ایک یا دو سال کے لئے پہلے مرزائی تعلیم یا ایرانی تعلیم پاس کی جائے کیونکہ یہ پہلے کورس ہیں۔ ان کے بعد دوسرے کورسوں کی تعلیم کو بھی ترویج کا موقعہ دیا

جائے۔ دوم یہ کہ محققین یورپ ان چالیس کرسٹوں کی تعلیمات کو یکجائی طور پر غور و فکر کے بعد ایک مشترکہ تعلیم پیش کریں جس میں تمام کو فیصدی کے حساب سے حقوق دیئے جائیں اور حصہ رسدی ہر ایک کے بیت المال کو پہنچتا رہے۔

۳۱..... موجودہ صورت میں تارکین اسلام قدیم کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ براہ راست تمدن یورپ اور معاشرت مغربی کو اختیار کر کے ان کرسٹوں کو ایک قلم چھوڑ کر دور سے ہی سلام کریں۔ کیونکہ یہی ان کا آخری مقصد ہے۔ جہاں تک پہنچنے کے لئے خواہ مخواہ کرسٹ بننے کی زحمت گوارا کر رہے ہیں۔ علاوہ بریں بیت المال کی فیس اور ہشتی مقبرہ کا جزیہ وغیرہ بھی ادا کرنے سے رہائی ہوگی۔ مگر جو لوگ اصلی اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ سچ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ متعدد ہوتے ہیں۔ پس اگر اسلام کو تجدید اور ترمیم کی ضرورت پیش آئی تھی تو خدا تعالیٰ ضرور ایک قسم کی ہی تجدید پنجاب اور ایران میں پیش کرتا اور نبوت کے لئے وہ اشخاص منتخب کرتا جو خود غرضی کبر و نخوت اور جہالت مرکبہ سے خالی ہو کر صرف خدائی تعلیم کا جلوہ پیش کرتے اور محمد ثانی بن کر اسلام کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ نہ بنتے۔

۳۲..... عیسائیوں نے مدت سے یہ ظاہر کر دیا ہوا ہے کہ قرون اولیٰ میں اسلام کچھ اور تھا اور بعد میں تفسیر۔ حدیث اور فقہ و تصوف سے اس کی اصلی تعلیم کو ستر ہزار پردوں کے نیچے دبا دیا گیا ہے اور اس اظہار سے ان کا یہ مطلب تھا کہ عیسائیت سے یہ اعتراض رفع ہو جائے کہ اصلی انجیل تو دنیا سے معدوم ہو چکی ہے تو اب عیسائیت کس حقانیت پر قائم ہے اور جواب یوں دیا گیا کہ اگر اصل عیسائیت دنیا میں نہیں رہی تو اسلام بھی اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہا۔ اب اس اشکال کو جو لوگ پائدار سمجھ کر محو حیرت ہوئے تو انہوں نے عیسائیت کے ہم نوا ہو کر مان لیا کہ واقعی اسلام ایک معما بن چکا ہے جس کو آج تک کسی نے حل نہیں کیا۔ آؤ ہم اپنی فہم و فراست سے یا اپنے الہامات جدیدہ سے حل کرتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے جو حل ان لوگوں نے پیش کئے ہیں وہ آپس میں ایک مرکز پر قائم نہیں۔ باوجودیکہ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ قرآن شریف کی اصلی ماہیت میں ہی جانتا ہوں اور آج تک اسکو کسی نے حل نہیں کیا اس لئے ایک غیر جانبدار ان تمام کرسٹوں کو پیش نظر رکھ کر اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اسلام میں اتحاد کی بجائے اختلافات قدیم سے بڑھ کر اختلافات جدیدہ نے مسلمانوں کو ایسی مشکلات میں ڈال دیا ہے کہ ان کی عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کس کرسٹ کو قبول کیا جائے اور کس کو مسترد کر کے جھوٹ کا پتلا سمجھیں۔ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا۔ اس لئے آخری فیصلہ یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کی اس چال کو ایک چترہ سمجھ کر

اعلان کر دیں۔ کہ اسلام کی اصل کتاب قرآن مجید اور اسلام کی اصل تشریحات حدیث و تفسیر جب ہمارے پاس صاف صاف اپنی اصلیت سے موجود ہیں تو مسلم بجائے اس کے کہ تعلیمات جدیدہ کے مخمضوں میں پڑے ان کو پائے استحقاق سے ٹھکرا کر سلف صالحین کی اصلی تعلیم کو حاصل کرے اور قرآن و حدیث کی عربیت اور علوم تواریخ کی باقاعدہ سند حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ نیم ملاؤں کے تنازعات اس کے راستہ سے رفع ہو کر کافور ہو جائیں۔

۴۳..... اسلام کو جو شخص کما حقہ باقاعدہ تعلیم پا کر حاصل کرتا ہے اس کے سامنے آجکل کی تحقیق اور آج کل کی نبوت صرف بچوں کا کھیل نظر آتا ہے۔ کیونکہ عموماً آجکل کے محققین کو اسلام کی اسلامی تعلیم باقاعدہ نہیں ہے اور مدعیان نبوت نے تو اور بھی کمال کر دیا ہے کہ اپنی جاہلانہ لیاقت کو دبانے کے لئے اپنی جہالت علمی کا نشان صداقت ٹھہرایا ہے اور اعلان کر دیا ہے۔ کہ ہم کو خدائی تعلیم حاصل ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ تعلیم ادبی لحاظ سے انسانی تعلیم سے بھی گری ہوئی ہے۔ اغلاط سے پر ہے۔ محاورات سے خالی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا نام تک نہیں اصول محاورات کا پاس نہیں رکھا گیا۔ پھر دعویٰ ہے کہ ہم محمد ثانی ہیں اور محمد اول سے افضل ہیں تو کیا نبوت نے جو کچھ الہامی عبارات میں پہلے ادبی کمال دکھایا تھا۔ آج وہ سب کچھ بھول گیا؟ اور یا یہ لوگ تمام اہل اسلام کو اپنے مریدوں کی طرح ہی علوم اسلامیہ سے کورے سمجھے ہوئے ہیں۔ نہیں ہر گز نہیں ابھی اسلام میں اہل حق موجود ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھانے کو تیار ہیں اور جو تحریرات کر رہی ہیں اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ ان سے بخوبی ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ کہ یہ مدعی خود ہی ادبیت اسلامیہ سے خالی ہیں دوسرے کو، کب راہ راست پر لانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ آئیں کہ گمراہ ست کرار بہری کند؟

۴۴..... عہد حاضر کے مدعیان نبوت کو دو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اول تقدس کی بیماری کہ جو کچھ ہم کہیں خواہ صحیح ہو یا غلط وہی وحی الہی ہے اور جو کچھ دنیا میں انقلاب آرہے ہیں۔ وہ ان کی تصدیق و تکذیب کا ہی نتیجہ ہیں۔ دوم وحدت وجود کی بیماری جس کی تعلیم اٹھا کر دیکھیں سب میں اپنے آپ کو موعود الکل ہونے کا دعویٰ ہے اور گن گن کر جتنے بروز ایک کرشن نے سنبھالے ہیں اتنے ہی یا اس تعداد سے بڑھ کر دوسرے نے بھی پیش کئے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں بیماریاں انسان کا ایمان بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ ایک نہیں دو نہیں تمام انبیاء کا مظہر بنیں پھر اسپر بھی صبر نہیں خدا کا مظہر اور خدا کی صفات کا مظہر بننے کا شوق بھی دامسکیر ہو۔ مگر ذاتی قابلیت کا امتحان کیا جائے تو پانچ فیصدی نمبر بھی حاصل نہ کر سکیں۔

۲۵..... اب ہم لگے ہاتھ جناب کترین کا مذہب پیش کرتے ہیں کہ جس نے خود پیدا کردہ لیاقت علمی سے قرآن مجید کا ایک نیا مفہوم قائم کیا ہے جو ان مدعیان نبوت سے بھی نرالا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ نے اس کی اصلی تعلیم کو مدت سے چھوڑ کر پیروں اور مولویوں کی تعلیمات کو اسلام سمجھ رکھا ہے اور آج تک قرآن کی اصلی تعلیم پر ان کی بدولت ستر ہزار پردے پڑ چکے ہیں مگر خدا کے فضل و کرم نے مجھے قرآن فہمی کا ایسا کامل مادہ عطا فرمایا ہے کہ جس سے تمام تفاسیر و احادیث کا امتحان ہو سکتا ہے اور چونکہ یہ نعمت الہی بلا عمل حاصل ہوئی اس لئے اس کا اظہار ضروری ہے۔ جو اس وقت متعدد تصانیف اور رسالہ ”البلاغ“ امرتسر کی اشاعتوں میں ناظرین کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اور ایک تفسیر بیان للناس اردو میں شائع کی جا رہی ہے جس میں تمام مخالفین (آریہ، ہندو، سکھ، عیسائی، اہل سنت اور شیعہ) کی کمزوریوں پر بحث کی جاتی ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ جو قرآنی مفہوم چودھویں صدی میں قرار پایا ہے وہی دستور العمل بننے کا حقدار ہے۔ پچھلے دنوں میں ان کے رسالہ البلاغ کے مضامین پر اہل اسلام نے تنقید کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ یہ فرقہ ضروریات اسلام کا منکر ہے اور اہل قرآن کی پارٹیوں میں سے یہاں تک غلو کر چکا ہے۔ کہ قرآن و حدیث کی تردید قرآن سے ہی کرتا ہے اور عبادات اسلامیہ سے روکش ہونے کا درس دیتا ہے اس لئے اس پارٹی نے ان دنوں ایک آٹھ ورقہ ٹریکٹ شائع کیا ہے۔ جس میں وہ اپنی پوزیشن الزامات مذکورہ الصدر سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو چال اسمیں چلی گئی ہے وہ بہت گہری ہے جو نہ امام حقیقی کو سوچھی ہے اور نہ مہدیان پنجاب و ایران کے فلک کو سمجھ میں آئی ہے۔ چنانچہ جناب لکھتے ہیں کہ:

اول..... ہمارے عقائد میں اس قدر کشش ہے کہ تمام نو تعلیم یافتہ خود بخود ان کی طرف کھچے آ رہے ہیں۔ قوم کو گمراہ کر نیوالے مولوی چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان ان کی اجازت کے سوا قرآن پر حاوی نہ ہو۔ مگر اس امت مسلمہ نے یہ بت توڑ کر دینی آزادی کا علم کھڑا کر دیا ہے۔ ایسی جماعت کا شخصی نام امت مسلمہ ہے اور افراد امت ہذا کا نام مسلم قرار پایا ہے۔ کیونکہ یہ نام جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کو دیا تھا جس کو نبی اکرم نے اپنے لیے اور اپنے تابعداروں کے لئے قبول کیا ہے اور ہم بھی قبول کرتے ہیں یہ امت ہر ایک مسئلہ میں قرآن کو ہی کافی سمجھتی ہے اور ان مولویوں کا ذریعہ شکم پروری بند کرتی ہے۔ جو اس وقت آربا با من دون اللہ بنے ہوئے ہیں اور ہم کو بدنام کر رہے ہیں۔

جواب..... جو عقائد کرشن قادیانی اور مسیح ایرانی نے پیش کئے ہیں۔ ان پر بھی تو

تعلیم یافتہ لٹو ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ صداقت کا نشان کیسے ٹھہرا؟ رب کی تعریف آجکل یہ ہے کہ یہ وہ ایک شخص ہے کہ اپنے ہم عقائد بہم پہنچائے تو اس تعریف میں کمترین کا نمبر کسی سے کم نہیں بلکہ سب کے اول ہے کیونکہ غیر کے ذریعہ معاش پر بھی چھاپہ مارنے کی ٹھان لی ہے کہ کیا یہ وہ حرکت نہیں جو اہل مکہ نے آغاز اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کی تھی؟

دوم..... خدا ہی حقیقتاً واجب الاطاعت اور مستحق عبادت ہے اسی کے احکام جاری ہوں جس کے سب محتاج ہیں۔

جواب..... یہ اصول اگرچہ بزاز بردست معلوم ہوتا ہے۔ مگر عملی حالت میں آپ اس کے خلاف ایک معمولی چوہدری محلہ کے احکام بھی مانتے ہیں اور اگر یہ مطلب ہے کہ خدا نے ہی ان کے احکام ماننے کو کہا ہے تو اطاعت رسول بھی کسی جان بیل کی اطاعت سے کم نہ ہوگی۔

سوم..... یہ ماننا شرک ہے کہ خدا نے اپنے احکام میں کسی کو شریک کار بنا رکھا ہے لایسرك حكمه احدا

جواب..... لفظ حکم اور حکومت انتظامی معاملات پر حاوی ہے۔ عبادتی اور منوادی سے مخصوص نہیں اس لئے آیت پیش کردہ کا صحیح مفہوم یوں ہوگا کہ خدا تعالیٰ اپنی تدبیر و قضا و قدر میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا مگر پھر کمترین کا مطلب حاصل نہ ہوگا۔

چہارم..... رسول کی ذاتی شخصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اطاعت الہی سمجھنا کفر ہے اور رسول کا اسوۂ حسنہ مصدقہ بالقرآن واجب الاطاعت ہے اور اس کی عقلی و انتظامی اطاعت عند الضرورة واجب ہوتی ہے۔

جواب..... اس عقیدہ نے لایسرك فى حكمه احدا کے مستثنیات کی فہرست پیش کر دی ہے اور رسول کو بلحاظ انتظام اور اسوہ کے شریک فی الحکم بنا دیا ہے۔

پنجم..... قرآن مجید اپنے اندر ایک ایسا دستور العمل رکھتا ہے کہ جس سے سرفرازی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ دنیا و آخرت مالا مال کر دیتا ہے اور وہ اپنی تفسیر آپ ہے۔

جواب..... دستور العمل کی تشریح نہیں کی کہ آیا وہ ان فروغیات پر بھی حاوی ہے جو موجب ہدایت ہیں یا اس میں وہ تخیلات بھی جمائے جاسکتے ہیں کہ جن سے عہد حاضر کے کرشنروں نے اپنی نبوت ثابت کی ہے اور قصہ طرازی میں یہاں تک جو ہر دکھائے ہیں کہ کفر و اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا ہے اور تناخ کا اعتراف کرتے ہوئے امور آخرت کا صفایا کر دیا ہے یہ کس کا قول ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے؟ اگر کسی انسان کا قول ہے تو اسے کیوں تسلیم کیا جاتا ہے

ہمارے نزدیک یہ قول اگرچہ بعض جگہ قابل عمل ہوتا ہے۔ مگر قرآن نہی کے لئے اس کے علاوہ زبان دانی اور محاورات شناسی کی بھی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ اصول انسان کو ایسی تحقیقات کی طرف لے جائے گا کہ فجر جبر سے نکلا ہوا ہے اور زخمی زنا اور جبل سے مرکب ہے۔

ششم..... فرقہ بندی اور مذہبی نام فتنہ عظیم ہے ہوسماکم المسلمین کا ارشاد ہے اس لئے ہم مسلمان کا عنوان اپنے لئے پسند کرتے ہیں

جواب..... کیا تمام اہل اسلام کو اس سے انکار ہے آپ نے آنکھ بند کر کے یہ کیسے خصوصیت پیدا کر لی ہے۔ کیا یہ مطلب ہے کہ اس امت کے سوا تمام غیر مسلم ہیں؟ تو پھر کرشن ایرانی قادیانی پر کیا افسوس ہے کہ وہ دونوں اور ان کے تابع دار غیر بہائی و قادیانی کو مسلم نہیں جانتے۔ جناب ایسی خود غرضیوں نے ہی مدعیان تقدس کو تباہی کا شکار کیا ہوا ہے۔ کوئی اہل اللہ بنتا ہے۔ کوئی آخرین میں داخل ہو سکتا ہے اور باب رحمتہ میں داخل ہوتا ہے۔ مگر ان نام نہاد عنوانوں سے کچھ نہیں بنتا اور نہ ہی ایسے نام اپنے اندر کچھ اصلیت رکھتے ہیں اور ہمارے خیال میں امت مسلمہ کا امتیازی نام ”امتہ کبریٰ“ زیادہ موزوں ہے تاکہ پبلک کو معلوم ہو جائے کہ یہ امت صرف ان تہمتوں کی پیروی ہے جو بیان للناس میں کمترین نے شائع کئے ہیں اور حنفی شافعی وغیرہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ ایک جماعت ان خیالات کو صحیح تر سمجھتی ہے جو امام اعظم یا امام شافعی نے بہم پہنچائے ہیں اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ مذہبی نام فتنہ عظیم ہے اور امت مسلمہ کا خطاب مخصوص طور پر امتیازی نام بنانا فتنہ عظیم نہیں بلکہ واقعات شاہد ہیں کہ اس نام کے تحت میں کئی دفعہ فتنہ برپا ہوا اور برپا ہوگا۔

ہفتم..... صرف احسن اور اھلے حدیث قابل تسلیم ہے اور وہ حدیث مردود ہے۔ جو عقل کے خلاف ہو یا جس سے قرآن۔ رسول اور خدا پر کوئی الزام قائم ہوتا ہو

جواب..... اگر اس نمبر میں ایک اور اضافہ کر دیتے کہ عقل سے مراد کتیری فرقہ کی عقل ہے اور قرآن سے مراد وہ مفہوم ہے جو بیان للناس میں پیش کیا گیا ہے اور الزام سے مراد بھی وہ نکتہ چینی ہے کہ جس کو یہ فرقہ عیب قرار دیتا ہے تو اہل اسلام پر بڑا احسان ہوتا اور لوگ گندم نمائی کے جال میں پھنس کر جو فروشی کے خسارہ سے بچ جاتے۔ کیونکہ یہ فرقہ باقی تمام مسلمانوں کی حدیث نہی میں بیوقوف اور دشمن اسلام سمجھتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے

ہشتم..... حدیث قرآن پر حاکم اور قاضی نہیں کیونکہ عہد رسالت میں قرآن جمع کرنا حکم تو تھا۔ مگر احادیث جمع کرنا تو کجا بلکہ ممانعت کی جاتی تھی۔ اس کی بنیاد دوسری صدی میں



پڑی ہے تو اگر اسے وحی غیر منلو کا درجہ حاصل ہوتا تو عہد خلافت راشدہ تک بھی اسے کتابی صورت میں کیوں جمع نہ کیا گیا تھا۔

جواب..... یہ وہم دلا نا غلط ہے کہ حدیث ناخ قرآن ہے اور یہ کوئی مسلم بھی ماننے کو تیار نہیں کہ نبی، اللہ کے حکم کے برخلاف حکم دیتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ اہل سنت کے عمل بالحدیث سے حدیث کی حکومت قرآن پر مان لی گئی ہے اور خواہ مخواہ افتراء پردازی سے کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ عمل بالحدیث اور نسخ بالحدیث الگ الگ دو مفہوم ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ ابتدائے اسلام میں تدوین علوم کا سلسلہ نہ تھا خود ان کے اشعار بھی مدون نہ ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ قراطیس استعمال کرتے تھے قرآن کریم بھی عہد خلافت میں ہی کتابی صورت میں جمع کیا گیا تھا اور یہ بھی بڑی مشکل سے سرانجام پایا تھا۔ اسی طرح عہد رسالت کے فیصلہ جات۔ اخبار بالغیب اور حکم و مصالح یا تزکیہ نفس کے متعلق حضور علیہ السلام کے ارشادات اور تعلیمات عبادات چونکہ عملی نمونہ قائم رکھنے اور زبانی تعلیم دینے سے رات دن کا طرز عمل و علم بن چکے تھے اس لئے کتابی صورت میں لانے کی طرف توجہ معطوف نہ کی گئی مگر جب خیر القرون کا پہلا حصہ دنیا سے رخصت ہوا اور عہد رسالت کے چشمہ دید واقعات دیکھنے والے نہ رہے تو روایات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اختلاف رونما ہونے سے ائمہ ہدیٰ کو خیال پیدا ہوا کہ اپنی اپنی سعی کوشش سے اسلام کے اس حصہ کو بھی قلمبند کریں۔ تب قراطیس اور زبانی روایات کو جمع کیا گیا اور علم حدیث ایک مستقل معرکہ آراء علم بن گیا۔ غرضیکہ مصلحت وقت نے تدوین قرآن و حدیث پر ان کو مجبور کیا تھا۔ ورنہ وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہ سلسل یوں ہی زبانی قائم رہے گا۔ جس طرح کہ ان کے علوم و فنون اور اشعار جاہلیت کا ذخیرہ سینوں میں جمع تھا۔ لیکن چونکہ اسلام کا تعلق تمام دنیا سے تھا اس لئے عجم کا داخلہ بھی تدوین اصول کلام اور تدوین حدیث کا سبب بنا اور زیادہ عجمیوں نے ہی اپنی سہولیت کے لئے اس امر میں قدم بڑھایا۔ عہد رسالت کی مثال یوں سمجھو کہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں اولاد کی تربیت بھی اپنی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بچے بچپن میں ہی نماز روزہ والدہ کی گود میں سیکھ جاتے ہیں اور قرآن شریف پر ان کی لب کشائی ہوتی ہے مگر جنمیں صرف شنیدنی اسلام ہے ان کا بچہ اگر نماز روزہ سیکھنا چاہے تو اس کو ایک مستقل علم سیکھنے کا سامنا پڑتا ہے اسی طرح اگر اسلام صرف جزیرہ عرب میں رہتا تو ان کو نہ تدوین قرآن کی ضرورت تھی اور نہ تدوین حدیث کی۔ مگر جب عاقبت اندیش مومنین نے یہ سوچا کہ یہ مذہب عجم کے لئے بھی ہے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لئے تدوین حدیث و علوم تو ابع کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لئے آج یوں کہنا کہ قرآنی تعلیم کے لئے زباندانی کی بھی

ضرورت نہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے آدمی کو اسلام کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے متعدد کرشنوں کے حالات موجود ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے کس کس طرح قرآن میں تحریف کی ہے اور کیسے کیسے خیالات گھڑے ہیں کہ خود لفظ قرآنی بھی ان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ باقی رہا احادیث کو وحی غیر متلو کا درجہ دینا سواس کے متعلق یوں گزارش ہے کہ جب جناب کے تفسیری مضامین کو تمہیمات الہیہ کا درجہ دیا جاتا ہے جو تقریباً الہام کے مساوی ہے تو اگر مسلمانوں نے مقالات نبویہ کو ماینطق عن الہوی کے ماتحت الہام یا وحی کہہ دیا تو آپ کو کیوں ناگوار گزرتا ہے۔

نہم..... بیس آیات میں نماز کا حکم ہے کہ دو دو پڑھا کرو کسی جگہ تیسری نماز کا بھی بطور نفل حکم دیا گیا ہے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی بھی فہمی تعلق علی علیہ کے حاشیہ پر دو ہی نمازیں صبح و شام کے وقت لکھتے ہیں اور چند احادیث سے بھی دو نمازوں کا حکم ثابت ہوتا ہے ایک حدیث نے صرف ایک نماز بھی بتائی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پانچ نماز کا پابند بہت مبارک ہے سات والا اس سے بھی زیادہ مبارک ہے مگر یہ ضروری ہے کہ کم از کم دو نمازیں تو پڑھی جائیں۔

جواب..... احادیث کی روشنی میں اگر قرآن کی تشریح کرتے تو پانچ نمازوں کی فرضیت ظاہر ہو جاتی اور خواہ مخواہ عبادات سے روگردانی کا سبق دینے پر مجبور نہ ہوتے، مانا کہ آغاز اسلام میں پانچ نمازیں نہ ہوں مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تکمیل اسلام کے وقت بھی پانچ کی فرضیت قائم نہ ہوتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں نماز بھی صرف زبانی دو چار دعائیہ لفظ پڑھنے کا نام ہے جیسا کہ بعض روایات سے ثابت ہوا ہے کہ اس امت کا ایک بہترین فرد حقہ پیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر یہ واقعہ آج صحیح نہیں تو بہت جلد اس امت کے مصروف العمل افراد عملی نمونہ قائم کر دیئے کیونکہ یہ تعلیم ہی ایسی ہے کہ جس سے ایک طرف سکھ جب جی پڑھتا ہوا نظر آئے اور دوسری طرف ایک کترین دو چار تعریف لفظوں میں نماز ادا کر لے گا۔ بانی مذہب نے بھی نمازوں کے متعلق کچھ ایسا ہی حکم دیا ہے جس کا ثبوت اقتباس ایقان میں ملتا ہے۔ بہر حال ہمارے خیال میں آج کل نبی کی ڈیوٹی یہ تسلیم کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو احکام جدید کی دعوت دے کر قدیم اسلام کی پابندیوں سے آزاد کرے اور یہ صفت کترین میں پائی جاتی ہے اس لئے امت کا فرض ہے کہ اپنے مرشد کو نبی حنفی کا خطاب دیکر ان کرشنوں کی صف میں کھڑا کر دے جن کی تفصیل اوپر ہو چکی ہے تاکہ چالیس دجالوں کی فہرست مکمل ہو جائے اور احادیث نبویہ سے دو نمازوں کا ثبوت دینے میں جناب نے اسی ایک بیوقوف کا طریق اختیار کیا ہے کہ جس نے آٹھ کی

نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ ایک جمعہ کی نماز دوسرے جمعہ تک کفارہ ہوتی ہے۔ آٹھ کی نماز پڑھنے والے نے کہا نماز جنازہ پڑھی جائے تو دوزخ سے نجات ہو جاتی ہے۔ اخیر میں تین سو ساٹھ کی نماز کا پابند کہنے لگا کہ صرف عیدین کی نماز موجب نجات ہے۔ جیسا کہ روایات سے ثابت ہے۔ ایک حضرت بالکل ہی ملنگ تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ: ”من اسلم وجہہ للہ“ قرآن کا حکم ہے خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور حدیث میں ہے کہ: ”من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة“ جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے وہ داخل جنت ہوگا اس لئے سرے سے اقرار بالرسالت کی ضرورت نہیں تو نماز اور دیگر عبادات کی کیا ضرورت ہے دیکھا اہل قرآن نے اخیر میں کیسا عمدہ فیصلہ کیا ہے امید ہے کہ امت کمترینہ بھی اس کی اشاعت میں موچوں پر تاؤ دے کے دو ہاتھ دکھائے گی۔ جناب قرآن فہمی چیزے دیگرست اور نکتہ آرائی امرے دیگرست اس لئے آپ کا وجود اشد فتنہ عظیم ہے اور آپ جو عوام کو اس راستہ پر لے جانا چاہتے ہیں جس میں قرآن یوں پڑھایا جاتا ہے کہ: ”کلواواشربوا“ کھاؤ پینو ولا تسرفوا اور صرف نہ کرو کہ ایں راہ کہ تو میروی بترکستان است۔

دہم..... اصل مطاع اور واجب الاطاعة صرف خدا ہی ہے جس کی اطاعت خود نبی پر بھی عائد ہے

جواب..... اگر اس سے جناب کا یہ مطلب ہے کہ اہل سنت اپنے نبی کو خدا سمجھتے ہیں تو یہ بالکل افترا ہے اور اگر یہ مطلب ہے کہ رسول خدا کا حکم حسب تفہیم الہی واجب الاطاعة نہیں تو جناب کا خیال غلط ہے کیونکہ ماتحت ملازم کے لئے اپنے افر کا حکم واجب الاطاعة اور غیر مسئول عنہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی امت کو جناب پر سوال کرنے کا حق نہیں ہے ورنہ چتون بدل جاتے ہیں تو امت محمدیہ کی کیا شامت آئی ہے کہ رسول کا حکم زیر بحث لا کر اپنی تحقیقات کے درپے ہو۔ آج تک قرون ثلاثہ سے لیکر کوئی ایک موقعہ بھی نہیں ہے جس میں کسی مسلم نے حضور کے سامنے تنقیح و تنقید شروع کی ہو۔ ہاں منافق بحث و تمحیص میں پڑ جاتے تھے مگر وہ مسلمان نہ تھے۔ ہاں حاکم ماتحت اور حاکم بالا کا باہمی معاملہ اور ہے حاکم بالا خواہ اپنے ماتحت حاکم پر سوال کرے یا نہ کرے ہمیں اس میں دخل دینا خلاف ادب ہے۔

یازدہم..... قبلہ مقصود حقیقی نہیں اینما تولو افثم وجہ اللہ، لیس البران تولو او جوہکم قبل المشرق والمغرب  
جواب..... بہتر تھا کہ سرے سے یوں ہی کہہ دیتے کہ لیس البران سے ثابت ہوتا ہے

کہ قبلہ رو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں کیونکہ امر وہ نہیں وہ ضرور شر میں داخل ہوگا۔ تاکہ جو نتائج اس جماعت کو دوسرے سٹیج میں پیدا ہونیوالا ہیں ابھی ان کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ ذرہ اور ترقی کر کے امام حقیقی کے زیر ہدایت نماز میں ہر طرف جھکنے کا حکم دینا مناسب تھا۔ مگر معلوم نہیں کہ جناب کو انتظار کس کا ہے ورنہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ ثابت ہو اور آج تک غیر کعبہ کی طرف ادنیٰ فریضہ صلوة میں رخ بھی نہ کیا ہو اور قرآن شریف میں بھی شطر المسجد الحرام کی طرف رخ کرنا حکم ہو تو جناب کا یوں کہنا کہ رو قبلہ ہونا نمازی کے لئے ضروری نہیں تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ انسان گھر بیٹھے حقہ بدہن اور چوبے بدست رو بصحت خانہ دو چار کلمات کہہ دے تو ادائے فریضہ سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔

دوازدہم..... ہم سورج کو قبلہ معین نہیں کرتے۔

جواب..... ہاں ہمیں معلوم ہے کہ تعین قبلہ آپ کے ہاں خلاف قرآن ہے تو سورج کو قبلہ کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ مگر جن کو یہ وہم پیدا ہوا ہے کہ امت کمترین سورج پرست ہے کیا ان کو اس امر سے تو مغالطہ نہیں لگا کہ آپ کے رسالہ بلاغ میں یہ مسئلہ شائع ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح تفسیر میں شائع کرنا مذہبی رنگ ظاہر کرتا ہے اسی طرح رسالہ میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”مخفی نبی“ کا بھی یہی حکم ہے۔

سیزدہم..... جو دین مولویوں نے بنایا ہم اس کے دشمن ہیں اس لئے بقول شخصے ہم دہریہ مشہور ہو گئے ہیں۔ مگر یہ فیصلہ خدا کے سپرد ہے۔

جواب..... اگر دہریہ کا مفہوم یہ ہو۔ کہ خدا کی ہستی سے انکار کیا جائے تو آپ بیشک دہریہ نہیں ہیں اور اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ دہریہ صفت ہو کر آج نیا مذہب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو جناب کو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے فلسفہ جدید اور خیالات مغربہ کی روشنی میں جو دہریت کا ماوی و ملجائے تفسیر لکھی ہے اور جو اسلامی لٹریچر واقعات اسلامیہ احادیث نبویہ اور اقوال سلف یا تحقیقات کی روشنی میں ہم پہنچا ہے اسے مولویوں کا بنا ہوا دین قرار دیا ہے اور دبی زبان سے کرشن قادیانی کی طرح یہ ظاہر کر دیا ہے کہ عہد رسالت کے ختم ہوتے ہی علمائے امت نے یہ اسلام گھڑنا شروع کر دیا تھا اور اس پر پردے ڈالنے شروع کر دیئے اور یہودیوں کی طرح وحی الہی کو ستر ہزار پردوں میں ڈھانپ دیا ہے۔ اس لئے نہ وہ صرف کافر ہی ہیں بلکہ اشد ترین دشمنان اسلام ہیں خداوند تعالیٰ کو ایک ہزار تین سو برس بعد رحم آیا تو مخفی نبی امرت سر میں بھیج کر وہ ستر ہزار پردے اڑادیئے اور تمہیں مات الہامہ کے ذریعہ اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس

کے ماننے والے ابھی چند آدمی آئے ہیں نمک پیدا ہوئے ہیں خدا کی ساری دنیا تباہ ہو جائے  
لاتذر علی الارض من الکفرین دیارا اور ہم دنیا میں یوں زندگی بسر کریں کہ  
الف ..... نہ تو کسی مسجد کا نشان نظر آئے کیونکہ اسمیں سمت پرستی کا وہم پڑتا ہے بلکہ  
اس کی بجائے ایک بارہ دری یا کھلا میدان ہو جس میں انسان ہر طرف سجدہ کر سکے امام حقیقی کی  
ہدایت پر عمل کرنا ہو تو ہر طرف ایک ایک سجدہ ہونا چاہئے۔

ب ..... نہ تعداد صلوٰۃ مقرر ہو کر مصیبت بنے بلکہ ایک رکعت جس میں رکوع وجود  
ہو ادا کی جائے یا کم از کم دو اور وہ بھی ضروری نہیں کہ روزانہ ادا کیجی سے وبال جان بنے۔ بلکہ  
فاذا فرغت فانصب فراغت کے بعد جب کبھی بھی فرصت ہو نماز ادا کی جائے اور اس میں کوئی  
خاص دعا مقرر نہیں تسبیح و تہلیل کی آیات کو دہرا کر فرشتہ صفت نماز پیدا کی جائے اور یہ بھی ضروری  
نہیں کہ یہ فریضہ نماز شخصی ہو کر ہر ایک کو ادا کرنا پڑے کیونکہ ممکن ہے کہ حج اور جہاد کی طرح فرض  
کفایہ اور قومی ذیوٹی ہو جو بزرگزیدہ اشخاص کی ادا کیجی سے ساری امت کے لئے کفایت کرے اور  
یہ بھی ضروری نہیں کہ نماز میں عربی لفظ ہوں بلکہ رام رام اور اللہ اللہ کہنا ہی کافی ہوگا۔ پھوٹی ہوئی  
بوتل ہو۔ ٹوٹا ہوا پیانا۔

ج ..... جمعہ کا قیام بھی صرف ایک ایک ماہ میں ایک دفعہ ہو کیونکہ پرانی تحریروں سے  
یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسم ایک بار ہی منائی جاتی تھی۔ بلکہ اگر پارہ ذرا اوپر ہو جائے تو یوں حکم  
دیا جائے کہ بوقت ندالوگ دوڑ کر ذکر اللہ کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں بلکہ نماز کا وقت نکل کر نماز  
قضاء ہو جائے (قضیت الصلوٰۃ) تو وہاں سے چلے جائیں زیادہ تشریح یوں کی جائے کہ یہ  
ماہواری جلسہ ہوگا۔ جس میں امت کتریبیہ اپنی بہبودی کے وسائل سوچ سکے گی کیونکہ اسلام قدیم  
میں حج کا اجتماعی اور باجماعت پانچ وقت نماز کا اجتماع صرف باہمی تبادلہ خیالات اور تعارف  
اسلامی کے لئے تھا۔ جس کو آج اصلی طور پر ادا نہیں کیا جاتا اس لئے آج اس کی ضرورت نہیں مگر  
جب کوئی صحیح خیال سے ایسا کرے تو اسے اجازت بھی ہے۔

د ..... نماز کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ صرف صفائی مراد ہے اور چونکہ  
پہلے زمانہ میں خصوصاً عرب روزانہ غسل نہ کرتے تھے اس لئے نماز باجماعت کے لئے ان کے  
ہاتھ پاؤں صاف کرنے کو کہا گیا تھا ورنہ اگر یہ زمانہ ہوتا تو صبح کا غسل ہی کافی تھا۔

ہ ..... قربانی ضروری نہیں ختنہ بھی پرانی رسم ہے ورنہ قرآن حکم نہیں دیتا۔ غرضیکہ  
امام حقیقی نے یا بہاء اللہ نے جو احکام جاری کئے ہیں ان کی روشنی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام

عبادات سے وابستہ نہیں۔ سیاست۔ تمدن اور باہمی الفت و اتحاد کا نام اسلام ہے۔  
 و..... غالباً ہم نے آپ کے دلی خیالات کا صحیح فوٹو کھینچ دیا ہے اور اگر کچھ غلطی  
 معلوم ہو۔ تو ترمیم کے لئے ہدایت نامہ بھیج دیں مگر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ حتیٰ یا تیک الیقین کو  
 ملحوظ رکھ کر تمام عبادات کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ کیونکہ اس وقت بڑے بڑے فلاسفر بھی خدا کی ہستی  
 کے قائل ہو چکے ہیں۔

..... پانچ وقتی نمازیوں سے کہہ دیا جائے کہ قرآن میں صرف پانچ نمازوں کے  
 اشارے موجود ہیں۔ جن سے تم نے روزانہ حاضری سمجھ رکھی ہے۔ مگر قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا  
 کہ تم ہر روز بھی نماز پڑھاؤ اور ہر ایک پڑھے۔ بلکہ یہ دو امر مولویوں نے اپنی شکم پروری کے لئے  
 گھڑ لئے ہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ روزانہ حاضری ہر ایک کی ضروری ہے۔ تو پھر یہ  
 نہیں بتایا گیا کہ اس روزانہ سے مراد ہفتہ میں سے کس دن حاضری ہوگی صرف یوم جمعہ کی حاضری  
 لکھی ہے مگر ادائیگی نماز کا وہاں بھی حکم نہیں بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو نکل جاؤ۔ دو  
 نمازیوں سے بھی گزارش کی جائے طلوع وغروب شمس گو مذکورہ ہے مگر یہ مذکور نہیں کہ ہر روز یا فلاں  
 روز نماز کی حاضری ہوگی کیونکہ یوں آیت نہیں اتری کہ: ”کَلِمَا طَلَعَتْ وَكَلِمَا غَرَبَتْ  
 الشَّمْسُ“ اسی پانچ چھوڑ کر ہماری تمہیمات الہیہ پر ایمان لاؤ یہ حصہ صرف کمترین کو دیا گیا ہے ذلک  
 فضل اللہ یوتیہ من یشاء مگر دیکھنا چاہئے کہ یہودی اور عیسائی کس طرح عبادت کرتے ہیں  
 اور ہندو کس طرح بھجن گاتے ہیں۔ پس اسی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ باجے گائے کیساتھ خدا کے بھجن  
 گائے جائیں کیونکہ حکم ہوا ہے کہ: ”فبہدہم اقتدہ“ انبیائے سابقین کی پیروی کرو اور اگر  
 تجدید دین میں کمی رہ گئی ہو تو امام حقیقی اور مسیح ایران کی تعلیم پیش نظر رکھ کر مکمل کی جائے۔ خلاصہ یہ  
 ہے کہ اس عقیدہ کے ضمن میں مرزا صاحب کاراگ الاپا ہے کہ عہد رسالت و خلافت کے بعد تین سو  
 سال سے ہزار تک فیح اعوج اور گمراہی رہی ہے اور چودھویں صدی میں محمد ثانی مسیح قادیانی  
 نے اپنے کرشنی ظہور سے اسلام کی دعوت شروع کر دی ہے۔ پس اتنی مدت میں یا تو اس کے تابعدار  
 مسلمان ہیں اور یا ہزار سال سے پہلے تین سو سال میں باقی ہزار سال میں سب کفر ہی کفر تھا اور ابھی  
 جو ہمارے منکر ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ مرزائیوں نے تو اس کی تصریح کر دی ہے امت کتر بیہ بھی  
 اس کی تصریح کر دے تاکہ آئندہ کے لئے میدان صاف ہو جائے اور مسلمان یوں کہہ سکیں کہ اگر  
 ہمارا اسلام مولویوں کی ساخت ہے تو امت کتر بیہ کا اسلام بھی کمترین کا ساختہ پر داختہ ہے کیونکہ  
 اسلام کی مسلسل تعلیم اس کی تائید سے خاموش ہے اور اس طرح مذہب طرازی کی متعدد دکانیں نکل

چکی ہیں۔ جن میں قرآن ہی کو تحریف کر کے کئی لوگ نبی بن چکے ہیں۔ امام اور کئی کرشن۔ نبی خفی نے بھی اگر دماغ سوزی سے اسلام کا ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کیونکہ ان سے بڑھ کر استاد کار پیدا ہو چکے ہیں اور غالباً اسی امت کترینہ کا کوئی اور دور جدید ایسا بھی پیدا ہوگا کہ جو مخفی نبی کی شریعت کو ترمیم کر دیگا۔ کیونکہ تاریخ واقعات کو دہراتی ہے عبداللہ چکڑالوی نے اس مذہب کی بنیاد ڈالی تھی اور اہل قرآن کہلایا تھا اور تفسیر لکھ کر نیا اسلام پیش کیا تھا۔ مگر اس کے ہم خیالوں نے نہ اس کی تعلیم کو بحال رکھا اور نہ ہی اس کے عنوان مذہبی کو قائم رہنے دیا۔ بلکہ کوئی امام حقیقی بنا کوئی اہل اللہ اور کوئی امت مسلمہ جس سے فرقہ شمشی الگ ہو گیا ہے اور آئندہ اس کی بھی خیر نہیں لوگ اس سے بڑھ کر مذہب تراش لیں گے۔

چہار دہم..... کوئی تہذیب ان مسائل کے کہنے سے اور سننے سے انکار نہیں کرتی کہ نمازیں دو ہیں۔ سورج قبلہ ہے۔ حدیث کے ہم منکر ہیں۔ مگر اہل سنت کی کتابوں میں ایسی حیا سوز باتیں موجود ہیں کہ پیشانی پر بل ڈالے سوا کوئی شخص نہیں سن سکتا۔ جو ہمیں برا جانتے ہیں وہ ذرا یہ حوالجات بھی مطالعہ کریں۔ بخاری تفسیر نسائکم حرث لکم باب الحيض باب الغسل وغیرہ۔ ہدایہ شرح وقایہ قضیحاں کنز در مختار رد المحتار

جواب..... اس نمبر میں معلوم ہو گیا کہ شمشی فرقہ بھی آپ کے نزدیک صراط مستقیم پر ہے اور جو کچھ پہلے لکھا جا چکا وہ خالی رعب ہی تھا۔ مگر اہل سنت آپ کے خیال میں دین ساز مردود ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اسلام کو ہی چھپایا ہے بلکہ حیا سوز باتیں بھی اس میں درج کر دی ہیں۔ جو دشمنوں کا کام ہے جو حوالہ جات آپ نے پیش کئے ہیں ان کے جوابات بارہا شائع ہو چکے اس لئے ان پر یہاں بحث کرنا بے محل ہوگا۔ مگر تاہم اتنا ضرور کہہ دیتے ہیں کہ شیعوں نے مفہوات المسلمین لکھ کر پیش کیا تھا کہ زیر بحث مسائل کتب حدیث سے نکال دیئے جائیں اور الحمدیث نے کئی ایک رسالوں میں فقہی مسائل پیش کر کے ہدایت کی تھی۔ کہ یہ قابل اعتراض ہیں اور شیعہ صاحبان نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ لیکن بہارستان رنض نے شیعوں کے گھناؤنے مسائل پیش کر کے کہا تھا کہ یہ مسائل مذہب سے نکالے جائیں۔ ایک دفعہ دھرم پال نے بھی ترک اسلام لکھ کر پیش کیا تھا۔ کہ قرآن مجید نے خلاف توحید اور برعکس تحقیقات جدیدہ تعلیم دی ہے اس لئے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اہل قرآن نے بھی آج مختصر فہرست پیش کی ہے کہ مسائل پیش کردہ حیا سوز ہیں اور اس سے پیشتر اہل سنت نے البلاغ اور بیان للناس سے متعدد مسائل پیش کئے تھے اور ظاہر کیا تھا کہ یہ حیا سوز ہیں بہر حال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر ایک مذہب دوسرے پر نکتہ چینی کر رہا

ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ مسائل نہ ہوتے تو مخالفین اسلام کے اعتراضات پیدا نہ ہوتے مگر اہل سنت والجماعت نے ایسے اعتراضات کے جواب میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اعتراضات لاعلمی اور جہالت اسلامیہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ورنہ معاملہ صاف تھا۔ مگر جدت پسند طبائع نے ان اعتراضات کو قبول کر لیا اور معترض کے مشورہ سے ان مسائل سے انکار کر کے ایک جدید مذہبی نصاب شریعت تیار کیا ہے جو غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ حرکت ان مسائل سے زیادہ حیا سوز واقع ہوئی ہے جو مذکورہ صدر مسائل سے پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کو آج اتحاد کی سخت ضرورت ہے مگر الٹی کھوپڑی والے وہ اتحاد اسی میں سمجھتے ہیں کہ آئے دن ایک نیا فرقہ اور نیا مذہب نکالا جائے۔ حالانکہ جس فرقہ بندی سے نفرت کرتے ہیں اسی کو پیدا کر رہے ہیں غالباً یہ سلسلہ یونہی جاری رہے گا اور ہر ایک نو پیدا مذہب پہلے کی خبر لیتا رہے گا۔ اس لئے امت مکتربنیہ کو فرہ نہ ہونا چاہئے کہ ان کی تعلیم نکتہ چینی سے خالی رہے گی یا اس امر کی تردید کرنیوالے پیدا نہ ہوں گے۔

تمثیلاً بیان کیا جاتا ہے کہ آج کل کے مذہب طراز اور اہل سنت میں سے قد امت پسند فٹ بال کی دو ٹیمیں ہیں اور مذہب فٹ بال ہے اہل سنت کی ٹیم اصحاب الیمین ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسلام سیکھنے میں وہ تعلیم پائی ہے۔ جو دائیں ہاتھ سے دہنی طرف سے لکھی جاتی ہیں دوسری ٹیم اصحاب الشمال ہیں۔ کیونکہ انہوں نے پہلے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو بائیں طرف سے لکھی جاتی ہے پھر تصانیف محققین یورپ کو پیش نظر رکھ کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ان تمام مسائل سے پاک کر دینا چاہئے۔ جن سے آج کل کا تمدن متنفر ہے یا جن کو آج کل کا فلسفہ تسلیم نہیں کرتا۔ بہر حال مذہبی فٹ بال اصحاب الشمال میں رگیدا جا رہا ہے اصحاب الیمین اسے اصحاب الشمال کی زد سے بچانا چاہتے ہیں مگر وہ زور پکڑ گئے ہیں اور اسے گول کے قریب لے جا رہے ہیں ہر ایک کھلاڑی ایسی کک لگاتا ہے کہ باوجود اصحاب الیمین کے روکنے کے وہ گیند گول کے قریب ہوا جاتا ہے اور اصحاب الشمال اپنی اپنی ذاتی قابلیت کے جوہر دکھا کر ایک دوسرے سے بڑھ کر نمبر لے رہے ہیں۔ مگر ابھی تک ایک گول کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے میچ بڑا زبردست ہے۔ امت محمدیہ اور کرشنوں کا مقابلہ ہے دیکھئے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آیا اصحاب الشمال خود آپس میں لڑنے کے فتنہ ہو جاتے ہیں یا آپس میں اتحاد پیدا کر کے اصحاب الیمین کے سر گول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ میچ نصف صدی سے جاری ہے ایران کی ٹیم نے شروع کیا تھا۔ قادیانی ٹیم نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ مگر پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر الامر مظاہر قدرت ثانیہ اور مجددین اہل قرآن نے بھی اپنی ساری طاقت خرچ کر ڈالی۔ لیکن ابھی تک



کامیابی نہیں ہوئی۔ بہر حال اصحاب الہدیین کو اپنی کامیابی پر کامل وثوق ہے کیونکہ ایسے برساتی مذہب ہزاروں دفعہ نکلے اور چار دن کے بعد خود بخود مٹ گئے ابھی کل کی بات ہے کہ چیت رامی فرقہ نکلا تھا اور آج اس کے پیروں نظر نہیں آتے۔ عبداللہ چکڑالوی نے ایک جماعت پیدا کی تھی۔ جو اسی سے وابستہ تھی خود اس مسلک کے اتحادیوں نے اس کی تعلیم کو غلط قرار دیا۔ قادیانی تعلیم میں بھی افتراق نمودار ہو چکا ہے اور اپنے پیر کی تحریرات کو بعض دفعہ صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ غلط ہیں چیچہ وطنی نبی مرچکا ہے اور اپنا مذہب ساتھ لے گیا ہے۔ ازمنہ متوسطہ میں حسن بن صباح کے مذہب نے بڑا زور پکڑا تھا۔ مگر اڑھائی سو سال بعد اس کا نام و نشان نہ رہا۔ قادیانی مذہب کے متعلق خود کرشن کی پیشدیکھی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا نام ختم نہیں ہوگا اور تیرا نام ختم ہو جائے گا اس لئے ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے ورنہ کرشن قادیانی اپنے دعاوی اور الہامات میں سچا ثابت نہ ہوگا اور امت کمتر بیدہ بھی یہ سمجھ رکھے کہ العلوم تنزاید یوما فیوما اس لئے ممکن ہے کہ جن تحقیقات کی بناء پر بیان للناس لکھی جا رہی ہے چند سال بعد غلط ثابت ہوں اور یہ مذہب بھی مٹ جائے۔

پانزدہم..... ما او تیتتم من العلم الا قلیلا اور رب زدنی علما سے ثابت ہے کہ رسول کا علم قابل اضافہ ہے اور وہ علم الہی نہیں کہ جس میں اضافہ نہ ہو سکے اور قرآن کے عجائب غیر محدود ہیں تو اگر آپ نے سارے عجائب بیان کر دیئے تھے تو ان کا پیش کرنا ضروری ہے ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنے زمانہ کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ کافی تھا۔ مگر مستقبل زمانہ میں جن تشریحات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے ان کے متعلق آپ کا علم کافی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود اہل سنت نے بھی اپنی تفاسیر میں نئے علوم بھر دیئے ہیں۔

جواب..... آپ پیشک دقائق و معارف بیان کیجئے مگر آپ کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں کہ جو پہلے حقائق منکشف ہو چکے ہیں ان کو پاؤں سے ٹھکرا کر رکھیں پہلے معارف بیان کنندوں نے عمارت پر عمارت کھڑی کی ہے۔ پہلی عمارت گرا کر از سر نو قائم کرنا آجکل کے مجددین اسلام کا شیوہ ہو رہا ہے اور جدت پسندی ایسی زور پکڑ گئی ہے کہ اپنے ہمعصر مجدد کی بنیاد بھی آنکھوں کا شہتیر بن جاتی ہے علم نبی میں اضافہ خدا کی طرف سے تو ممکن ہے۔ مگر یہ اضافہ ناممکن ہے جو آپ جیسے کر رہے ہیں جس میں مفہومات قرآنیہ قدیم کو باطل قرار دے کر نئے مفہوم قائم کیے جائیں۔ یہ تو وہی شان ہے جو بہاء اللہ نے دکھائی ہے یا امام حقیقی دکھا رہا ہے اور کچھ کچھ مرزائے قادیانی نے بھی دکھائی تھی مگر آپکا ڈھنگ کچھ والا ہے۔ آپ تو مار آستین ہو کر ڈنگ چلاتے آتے ہیں حدیث مانتے بھی ہیں اس کی تردید پر کمر بستہ بھی ہیں۔ حضور کی فضیلت کا اقرار بھی ہے لیکن گھٹاتے گھٹاتے علمی

استعداد میں اپنے آپ سے بھی کم ظاہر کر دیا ہے۔ دنیا شاہد ہے کہ آپ سے تیس روزے اور پانچ نمازیں بلا کم و کاست دستور العمل بن کر منقول ہیں مگر جناب ہیں کہ اپنی رائے سے ارکان اسلام کو اتنی وقعت بھی نہیں دیتے کہ جتنی سکول میں پاجامہ کو ہے یا کالج میں ہیٹ کو۔ اسی طرح ہمارے نبی کی ثابت شدہ تعلیمات کو ہر جگہ رگید کر اپنی رائے الگ قائم کر لی ہے۔ پھر نزاکت یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو وجوب سے اباحت تک یا اباحت سے حرمت تک پہنچا کر اور شریعت جدید قائم کر کے بھی کمترین کا خطاب نہیں چھوڑا ہے برعکس نہ ہند نام زنگی کا فور۔ ہم نے تو آپ کو انبیاء کی صف میں کھڑا کر دیا ہے کیونکہ ایسے حالات کا مالک رسول ہی ہوتا ہے یا زندیق؟ غالباً آپ زندیق بننا تو پسند نہ کریں گے اس لئے آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں۔

مرزانے بھی کہا تھا۔ کہ میری استعداد علمی حضور علیہ السلام سے بڑھ گئی ہے اس لئے اب میں نبی ہوں آپ بھی کہہ دیں کہ میں بظاہر کمترین مولوی ہوں مگر اندر سے نبی ہوں کیونکہ خدا نے مجھے وہ باتیں سمجھائی ہیں جو احکام شرعیہ کی تفصیل میں معاذ اللہ محمد عربی کو بھی نہیں سوجھی تھیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کی شریعت امام حقیقی اور کرشن قادیانی اور مسیح ایرانی کی شریعت سے ذرہ مختلف ہے بہتر ہوتا کہ آپ ان کی شریعت کو مطالعہ فرما کر ان سے اتفاق رائے کر لیتے۔ مگر چونکہ آپ کی ذہنیت سب سے برتر تھی۔ اس لئے آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کا تتبع کریں۔ بہر حال کمترین بن کر جس طریق سے آپ نے علمی ذہنیت کا حملہ کیا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم اس کے معاوضہ میں جس قدر بھی آپ کو برا کہیں حق بجانب ہوں گے دل آزرہ راسخت باشد سخن آپ کا سوال ہے کہ تشریحات نبویہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احکام قرآنی کا عملی نمونہ اور اس کی مکمل تشریح کتب احادیث میں موجود ہے جن کو اگر کوئی وقعت شرعی نہ بھی دی جائے تو کم از کم بائبل کی حیثیت میں تاریخی طور پر تو معتبر ہو سکتی ہے۔ باقی رہے کہ سوالات جدیدہ کے جوابات اور تحقیقات فلسفیہ پر تنقید۔ سو یہ سب کچھ بعد کی چیزیں ہیں جن کے سمجھنے میں بھی انوار نبوت کی روشنی میں ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو خیال ہوگا کہ مخالفین کی تردید میں آپ کو یدِ طولیٰ حاصل ہے مگر آپ جہل مرکب سے نکل کر زرادنیہ کی ہوا لیں۔ اسلام میں اب بھی ایسی زبردست ہمتیاں موجود ہیں جو آپ کے طرزِ تعلیم کو باز پچھ پھلاں سمجھکر صدائے بیاباں سمجھ رہی ہیں۔ ہائے تقدس تیرا ستیا ناس! تو نے کمترین کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ بھی چند حاشیہ نشینوں کے خوشامدی فقروں کا شکار ہو گیا۔ ارے نخوت تیرا خانہ تباہ تو نے اس کے چھوٹے سے دماغ پر تسلط جمالیا اور اس پر آمادہ کر دیا کہ تعلیمات نبویہ کو قرآن کے خلاف ثابت کر کے اپنی تعلیمات کو اس کے

موافق کرنے میں ہمارے نبی سے بڑھ جائے۔ مردے خوب بود چہ شد کہ: ”بفحوائے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ کا مصداق علیٰ ابصارہم غشاوۃ پیدا شد وبحکم لا یسمع الصم الدعاء گوش برو الرسول یدعوکم لما یحییکم ندارد“

تغویرتو اے چرخ گردوں تفو  
چین کس فہمہ نکو ہش برو

شازدہم..... صحیح بخاری نہ وحی مملو ہے نہ غیر مملو۔ ورنہ کئی احادیث کو اسمیں کیوں درج نہ کیا۔ مسلم نے دیباچہ میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کے سوا کسی اور وحی کا قائل ہے وہ بد مذہب ہے اور تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ امام بخاری منحل الحدیث مخطی خلاف مذہب علماء ساقط الاعتبار اور فاسد القول تھے تیسری صدی میں تصنیف ہوئی اور اسپر تنقیدیں ہوتی رہیں۔ آخر چھٹی صدی کے اخیر ابن صلاح نے کہہ دیا کہ: ”اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری حالانکہ یہ فقرہ دوسری کتب احادیث کے متعلق بھی کہا گیا ہے۔ درحقیقت محدثین نے اقوال منسوبہ بطرف نبی کو تسلیم کیا مگر ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کہ فلاں قول واقعی رسول کی طرف منسوب ہونے کا حق رکھتا ہے یا نہیں؟ صدیوں کی کہی ہوئی باتیں کیسے پرکھ سکتے تھے۔ اگر امت مسلمہ کی قسمت یا اور ہوتی تو ان اقوال کو قرآن کے اوپر پیش کرتے اور عقل سے جاچختے، مطابق کو لے لیتے اور مخالف کو چھوڑ دیتے

جواب..... یہ مانا کہ قسمت نے کمترین کے وجود سے یہ سعادت عظمیٰ حاصل کی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا تیسری یا چھٹی صدی میں آپ جیسی ہستی کا پایا جانا ممکن تھا؟ جبکہ نہ تمدن یورپ کی بنیاد پڑی تھی اور نہ علوم فنون جدیدہ نے اپنے عالمگیر اثرات سے دنیا کو مذہب سے روکش کیا تھا۔ اس لئے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آپ ہی کا حصہ تھا اور آپ کی ہی ہستی سے اسلام کی یہ سعادت وابستہ تھی۔ جناب بخاری سے پہلے اراکین اسلام بنائے اسلام کی ادائیگی ویسی تھی جیسی کہ بعد میں چلی آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ سو سال کی ادائیگی ویسی تھی جیسی کہ بعد میں چلی آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ سو سال تک اسلام بغیر بخاری کے جاری تھا۔ اس لئے اس کے وجود سے اسلام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تھی۔ مگر چونکہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام اور عہد رسالت کے اقوال اور حالات بیان ہوئے تھے جو اس وقت کے علمائے اسلام کے نزدیک خلاف قرآن نہ تھے کیونکہ ابھی بقول آنجناب قرآن شریف ستر ہزار پردوں میں پوشیدہ تھا اس لئے قرآن وحدیث کا تطابق اظہر من الشمس تھا۔ تو صحیح بخاری کو وہ وقعت پیدا ہوئی جو دوسری کتابوں کو

حاصل نہ ہو سکی۔ کیونکہ اس میں علاوہ احکام کے اخبار بالغیب اور سیرت نبوی بھی درج تھی اور امام موصوف نے حتی المقدور وہ روایات درج کی تھیں۔ جو بلاشبہ قابل قبول تھیں اور جو تنقیدات بعد میں کی گئی تھیں۔ وہ جزوی طور پر تھیں۔ جنہوں نے اس کی عام مقبولیت کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اغلاط کا ہونا ناممکن نہ تھا۔ وہ خدا نخواستہ تفسیر بیان للناس تھوڑی تھی۔ کہ اس کا ایک ایک حرف تفہیم الہی سے ناقابل تنقید ہوتا اور امام بخاری کو وہ درجہ حاصل نہ ہوا تھا جو آپ کو عنایت ہوا ہے

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لیکن آنجناب اگر نبی نوع انسان کے فرد ہیں اور آپ سے بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بخوبی ذہن نشین کر لیں کہ وہ چیزیں آپس میں اسی وقت ملتی ہیں کہ ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہوں ورنہ ان میں تطابق محال ہوگا۔ عہد تجدید یعنی چودھویں صدی کے مجددین اور انبیاء سے پہلے قرآن وحدیث کو لوگ ایک ہی خط مستقیم پر (کہ وہ دونوں مافوق البشریت ہیں) سمجھتے رہے اور جن اقوال کو انہوں نے موضوع پایا ان کی کانٹ چھانٹ کر کے الگ کر دیا تھا جو کتب موضوعات میں اب تک درج ہیں اور آج تک ان کے باہمی تطابق پر کسی کوشش تک بھی پیدا نہیں ہوا۔ مگر بد قسمتی سے اصحاب الشمال تعلیم یافتہ اصحاب نے تصانیف غیر مسلم کو زیر مطالعہ کر کے اور ان کے اثرات اولیہ کو اپنے سادہ اور صاف دماغ پر جگہ دے کر بعد میں جب اسلامی لٹریچر کا از خود مطالعہ کیا تو انہوں نے پہلے قرآن کو مذکور الصدر خط مستقیم سے نیچے اتار کر سطح کردی کے ایک نقطہ پر رکھ دیا۔ جو چاروں طرف جھکنے لگا شمال کو جھکا تو ایرانی مجددوں نے اس کی کھال کا بال بال نوچ ڈالا۔ مشرق کو مائل ہوا تو قادیانی مغل نے لوٹ کر اپنے اندر ڈال لیا مغرب کو متوجہ ہوا، تو محققین یورپ نے اس کی ہستی کو مٹا دیا کہ یہ قول بشر ہے اور صحف متقدمہ کا منتخب کورس ہے سیدھا پنجاب کا رخ کیا تو مظاہر قدرت ثانیہ اور امام حقیقی اور دیگر امام الزمانوں نے اس کی خوب خاطر کی۔ امت مسلمہ کے ہاتھ پڑا تو اس نے اسکا سارا مفہوم ہی بدل ڈالا اور صاف کہہ دیا کہ آج تک جتنے مذاہب ہیں سب قرآن تصحیف شدہ کے خلاف ہیں اور شان رسالت کو ایک معمولی چھٹی رساں کی حیثیت میں لا کر کھڑا کر دیا کبھی رسول کا کٹھ کی پتلی بنایا کبھی خطا کار اور کبھی غلط گو۔ الغرض یہاں تک غلو کیا کہ جو کچھ نبی نے مجھکر قرآن شریف سے دستور العمل قائم کیا تھا اس پر صاف ہاتھ پھیر دیا۔ کہ نمازیں پانچ نہیں دو ہیں۔ روزے تیس نہیں دس ہیں اور نماز ارکان مخصوصہ کا نام نہیں صرف خدا کی طرف رجوع ہونے سے رام رام کرنے سے بھی ادا ہو سکتی ہے۔ قبلہ ضروری نہیں وضو فرض نہیں ہاتھ پاؤں صاف ہوں تو کرسی پر بیٹھ کر منہ میں حقہ کا دودھ کش لئے

ہوئے بھی صبح و شام کی تسبیح ادا ہو سکتی ہے غرضیکہ ساری ہی شریعت بدل ڈالی اور جب قرآن کو نیچے قدموں پر گرالیا۔

تو احادیث کو اس کے پاس لا کر رکھنے کی کوشش کی مگر ان میں تحریف اور تبدیل معانی کا حربہ نہ چل سکا اس لئے جو ناقابل تحریف ثابت ہوئیں ان کو نکالنا شروع کر دیا اور جو تحریف شدہ مفاہیم قرآنیہ سے مناسب معلوم ہوئیں ان کو قرآن کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک نکتہ پر دو جسم قائم نہیں ہو سکتے اس لئے قرآن ہی قرآن رہ گیا اور احادیث نبویہ کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ اسلامی خیر خواہی پہلے فرقہ ہائے اہل قرآن کے پہلے مجدد عبداللہ چکڑالوی نے ظاہر کی تھی۔ کہ جبکہ وہ لاہور مسجد چیدیاں میں پیش امام اور مدرس تھا۔ مدت تک صحاح ستہ کا درس دیتے ہوئے آخر اس نتیجہ پر پہنچا۔ کہ صحیحین (مسلم بخاری) ہی صحیح ہیں کہ کچھ عرصہ بعد صرف صحیح بخاری کو صحیح بنا کر قرآن مجید کے ترجمہ خود ساختہ کے ساتھ مطابق کرنے لگا۔ آخر کہہ دیا کہ یہ ترجمہ اور صحیح بخاری ایک ہیں۔ تو صرف قرآن ہی قابل عمل ہے۔ بہر حال اس کا ترجمہ اور تشریح قرآنی کچھ نہ کچھ احادیث کے مطابق تھی۔ لیکن بعد جو اس کے ناخلف پیدا ہوئے انہوں نے اپنے مرشد کو بھی غلط گو اور خطا کار ٹھہرایا اور آج وہ دن ہے کہ اس کے مذہب اہل قرآن کو بھی بدعت سمجھا جاتا ہے ممکن ہے کہ امت مسلمہ کے ناخلف کچھ عرصہ بعد اس کو بھی امت مسلمہ ہی کہنے لگ جائیں۔

ہفہ ہم..... ہمارے مخالف قرآن نہیں سمجھتے اور نہ ہی صاحب قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں تو پھر ہمارے عقائد پر کیسے حاوی ہو سکتے ہیں؟

جواب..... قرآن مجید کا جو پہلو آپ نے نکالا ہے۔ واقعی ابھی تک مشتتب ہے جب تک آپ کی ساری تفسیر شائع ہو کر عام نہ ہو جائے کسی کو کیا معلوم کہ آپ صاحب قرآن ہیں یا کوئی اور؟ مگر یہ تقدس کی خود آرائی نرالی شان رکھتی ہے۔ کہ ہمارے سوا کسی نے قرآن نہ سمجھا اور نہ سمجھتا ہے مرزا بھی یہی کہتا تھا اس لئے ہم آپ کو اس کے ساتھ ہی کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

۴۶..... خواجہ احمد الدین ناظم امت مسلمہ امرتسر: اس وقت تجدید قرآن میں منہمک ہیں۔ چند رسائل لکھ چکے ہیں اور ایک تفسیر بیان للناس شائع کر رہے ہیں۔ ماہواری رسالہ البلاغ آپ کی ہی زیر ادارت شائع ہوتا ہے۔ جس میں جدت طرازی کے خاص خاص نمونے شائع کئے جاتے ہیں۔ بارہا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسر سے مناظر ہوا کہ رسول کی حیثیت کیا ہے اور وحی کس کا نام ہے اور احادیث قابل عمل ہیں یا نہیں جس میں آپ نے کہہ دیا کہ اصل مطاع غیر مسئول خدا کے سوا کوئی نہیں اور نبی ہماری طرح کے غلط کار اور غلط گو ہوتے ہیں اور جو شخص حدیث

کو جی غیر متلو کہتا ہے یا جو رسول کو مطاع غیر مسئول سمجھتے ہیں وہ مرتکب شرک فی الالوہتہ ہیں۔ آپ انڈرگریجویٹ عمر رسیدہ مولوی مشہور ہیں ابتدائی تعلیم امرت سر کے مایہ ناز مولوی غلام علی صاحب سے پائی تھی پھر خود دینیات کا مطالعہ شروع کر دیا اور کئی کروٹ بدل بدل کر اس نتیجہ پر آ پہنچے ہیں کہ قرآن مجید آج تک کسی نے نہیں بھا قرآن مفصل کتاب ہے اور جو تفصیلات مسلمانوں نے قرآن کے لئے مقرر کی ہیں وہ مولویوں کی خود ساختہ ہیں اس لئے قرآن کی تفصیل وہی معتبر ہوگی جو خود قرآن میں موجود ہے اس لئے ضرورت پیش آئی کہ قرآن اور قرآن کی تفصیل میں ایک تفسیر لکھی جائے جس کا حجم کم از کم ڈیڑھ ہزار صفحہ ہو۔ یہ ارادہ دیر سے کر رہے تھے۔ مگر چونکہ پہلے پہل انجمن اسلامیہ امرتسر کے ملازم تھے اور سکول میں مختلف مضامین پڑھاتے رہے تھے اور لوگ آپ کے متعلق نیک ظن رکھتے تھے اس لئے یہ بھی دبے رہے اور جب ریٹائر ہو کر امام مسجد بن گئے تو آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار شروع کر دیا۔ آخر الامر یہاں تک اپنی جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہ عقائد لکھ کر اپنا مذہب قائم کر لیا۔ جس کی تفصیل پچھلے نمبروں میں آچکی ہے۔ یہ حضرت اگرچہ کمترین کا خطاب اپنے لئے تجویز کرتے ہیں۔ مگر اس تجدید اسلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو انہوں نے اپنے عقائد نامہ میں ظاہر کئے ہیں۔ ہم ان کو نبی مثنیٰ کا خطاب پیش کرتے ہیں امید ہے کہ منظور فرما کر چودھویں صدی کے انبیاء میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر یہ خطاب منظور نہیں تو کم از کم مجدد وقت اور امام الزمان کا خطاب تو ضرور لینا پڑے گا ورنہ امت مسلمہ بغیر نبی کے کس طرح معنون ہو سکتی ہے شاید یہ خیال ہوگا کہ آپ بروز ابراہیمی ہیں کیونکہ آنحضرت نے ہی کہا تھا کہ یا اللہ میری ذریت سے امت مسلمہ ہوگی یہ امت ابراہیمی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ مگر روحانی تعلق کی وجہ سے اس میں داخل ہو سکتی ہے۔

۴۷..... یحییٰ بہاری

کاویہ حصہ اول میں یحییٰ بہاری کا نام چھوہویں صدی کے نبیوں میں درج ہو چکا ہے اب ہم اس کی کتاب فرمان سے ایک نظم درج کرتے ہیں جس میں اس نے اپنے تمام دعویٰ درج کئے ہیں۔ نظم کی بندش دیکھ کر اندازہ لگ سکتا ہے کہ آدمی بڑا معقول ہے۔ مسیح قادیانی کی نظم اس کے سامنے پانی بھرتی ہے اور اس کے مظاہر قدرت تو سرے سے اس کی گاڑی کے تیل ہی نہیں بلکہ ان کا ذکر ہی فضول ہے البتہ مسیح ایرانی فارسی نثر لکھنے میں اس سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ فارسی اس کی مادری زبان تھی اور اردو یحییٰ کی مادری زبان تھی۔ لیکن قادیانی مسیح کی مادری زبان نہ فارسی تھی نہ اردو اس لئے پنجابی نما نظم و نثر لکھنے پر قادر تھا اور چونکہ ان مدعیان مسیحیت و مہدویت میں سے کوئی

بھی عربی الاصل نہ تھا اس لئے عربی نظم و نثر لکھنے میں ان تینوں میں کوئی بھی ایسا نہ نکلا کہ اس مردہ زبان کو زندہ کرے یا اس کے اندھے، لوہے الفاظ کو درست کر کے صحیح طور پر شفا بخشی سے کام لے اور مخفی نبی نے بھی کوئی خاص ادبی لیاقت آج تک اپنی خاص نظم یا نثر میں پیش نہیں کی۔ صرف آپ کو ناز ہے تو اس تقدس یا اس لیاقت پر جو ان کو ثنا گوشا گردوں اور اصحاب الشمال تابعداروں کی واہ واہ سے حاصل ہو چکی ہے۔ بہر حال یحییٰ کی نظم ذیل میں درج ہے۔

نظم

رانا ہم ہیں مریم ہم ہیں رستم ہم ہیں ہم ہی جم

گویا کہ بس ہم ہی ہم ہیں ہم ہی ہم ہیں ہم ہی ہم

یاد رہے تم سب کو اتنا جب تک ہے اس دم میں دم

بولینگے ہم بیشک حق لاکھ کر و تم ذم پر ذم

یا امسی یا امسی امسی امسی امی امی

مہدی مہدی مہدی مہدی مہدی مہدی ام

ہم ہی صحنی مہدی ہیں گہوارہ میں جو بولے تھے

احمد ہم ہیں موسیٰ ہم ہیں عیسیٰ ہم ہیں یحییٰ ہم

پہلے جو کچھ لائے تھے ہم دیدا کے تم سب کو گئے

تمنے اس کو ایک نہ مانا سیدھے بن کے ہو گئے خم

اب ہم جو کچھ لائے ہیں سولیلو بھلے فسائی سے

چھوڑو اپنا دھوم دھڑکا چھوڑو اپنا سارا بم

دیکھو کیا ہے شان ہماری سارے احمد حامد ہیں

قال رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

ایلی ایلی ایلی ایلی ولما سبقتنی

ان اللہ معنا پھر کیا ہے ہم کو اس کا عم

سبحنک لا علم لنا الا ما علمتنا

انک انت العلیم میں ہوں تیرا خالی نم

قدرت تیری رنگ برنگی تو قدرت کا مالی ہے

میں ہی تیرا فوٹو ہوں بس مجھ سے ہی عالم الہم

ابجد، ہوز، حلی، کلن، سفص، قرشت، سخذ، فغ  
سارے علم اسی میں بھرے ہیں ضاء ظہور العالم کم

دیکھو بھاگو بچتے جاؤ چلتی ہے تلوار مری  
چم چم چم چم چم چم چم چم چم چم چم چم

خون ہے گادینا میں پڑ جائیں گے کہرام بڑے  
سوکھی ساکھی دھرتی سب ہو جائیں گی اکدم سے ہم

لاتبديل لخلق الله سمع الله لمن حمده  
نئی تل کے مانس کی ہے دیکھو دونو نینا نم

سبحان الله تعالى من يخش الله يتقه  
جعل لكل شىء سبباً

هو المهدي هو الهادي ليس الهادي الا هو  
نازل ہوگا کس چا پر؟ امریکہ میں جوہی اک تھم

خشعاً ابصارهم يخرجون من الاجداث  
ليس لهم من دون الله كاشفة من هم الغم

ہادی مہدی نرزائن دولہا دولہن ایک ہیں  
سب کے سب کنگالی ہیں اور تم جو کھم خالی ہم

خود بقا اور خود فنا ہوں خود نبی اور خود نباہوں میں  
واہ کیا خوب دلربا ہوں میں اپنے ہی آپ پر فدا ہوں میں  
اختر ومہر وماہ برج و فلک جنت ودوزخ و خلا ہوں میں  
ابروار سحاب وقوس وقزح بارش و برق و طورو طاء ہوں میں  
بحر و برسبزہ مکین ومکان روح وارواح وبازیا ہوں میں  
الغرض جملہ کائن واماکان میں ہیں میں ہوں بتاؤ کیا ہوں میں  
اور ناممکن القیاس جو ہو وہ بھی میں ہوں بس اب خدا ہوں میں  
خود سے چھپتا ہوں شرم کے مارے حی یحیا وباحیا ہوں میں  
بس خدا ہی کا نام بچتی ہے میں نہ کچھ حاء دیاء ہوں میں



احکام..... دل نہ دکھاؤ۔ اپنی صفات کو قدسید بناؤ میرا چال چلن اختیار کرو۔ ورنہ افلاس اموات وامراض اور تباہی ومصائب میں گرفتار ہو کر عذاب پاؤ گے۔ زانی کو کتے سے کٹوا کر مار ڈالو۔ کوئی پیشہ امتحان پاس کرنے کے بغیر نہ کرو۔ محبت عامہ کو مقدم رکھو۔ بغیر پسند کے شادی نہ کرو۔ جو مزاحم ہواس پر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ طلاق نہ دو۔ کوئی کسی کا منہ چڑائے تو ہونٹ کاٹ ڈالو۔ ابرو سے اشارہ کرے تو موچنہ سے بال نوج دو۔ بہتان باندھنے والے کو چونہ کی بھیٹی میں بٹھا کر پانی ڈال دو۔ رہن اجارہ نہ کرو۔ قرض نہ لو۔ قاتل کو کرسی پر بٹھا کر بجلی سے قتل کرو۔ زیادہ گوشت نہ کھاؤ۔ جس سے تکلیف ہو وہ نہ کھاؤ۔ کسی کو دجال اور حرامی نہ کہو۔ صحت درست رکھو۔ جو باغ میں پیشاب کرے اس کے منہ میں پیشاب کرو۔ نطفہ ضائع کرنے والے کا آلہ تناسل کاٹ ڈالو اور جو عورت گاجرو غیرہ سے فرزندہ کرے۔ نمک نوشاد اور مرچ سے اس کو فرزندہ کرو۔ جانور سے مجامعت کرے تو عضو تناسل کاٹ دو۔ جو زنا بالجبر کرے اس کی جو رو یا بیٹی سے بازار عام میں زنا کراؤ۔ کتے سے اس کی سفرہ کو بی کرائی جائے۔ پھر تہ خانہ میں برف کے نیچے دباؤ۔ زانیہ حاملہ ہو تو اسے محاصرہ میں رکھو کہ حمل نہ گرائے ورنہ قتل عمد کی سزا پائے قاتل کو الٹا لٹکا دو کہ سوکھ کر مر جائے یا درندے نوچیں اور مفعول کو سولی دو۔ جو عقیم ہونے کی دوا دے یا مخمٹ بنائے اسے لاکھ کی دیوار میں چپکا دو۔ آگ لگانے والے کو توپ سے اڑاؤ۔ باغی کو بچھو کی خندق میں ڈالو۔ زبان کاٹ ڈالو۔ اس کی جو غلط خواب یا خبر پھیلانے یا برا افسانہ لکھے یا غیبت اور غمازی کرے یا جھوٹی گواہی یا جھوٹی جاسوسی کرے۔ جو کسی کو بنظر تحقیر دیکھے اس کی آنکھ میں چونہ بھر دو انگلی سے بکرنہ توڑو زفاف کا خون نہ دکھاؤ عقیقہ اور تسمیہ وغیرہ پر خرچ کرنے والے کو جس دوام کرو۔ زخم پہنچانے والے کو قتل کرو۔ مفلسی دور کرو۔ کیونکہ وہ تم کو گرجا میں بھی یکسوئی پیدا نہیں کرنے دیتی۔ سب کے ساتھ ملکر موحد الکل بنو۔ یہی اصل عبادت ہے جو سب کو موحد الکل بنائے اس کو عبادت کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے صبر کیا خوش کیا۔ برائی نہیں کی نیکی کو راہ دی۔ بروں کو نکالا یا اس لئے وہ عقل و حسن و صورت حکمت حکم حکومت عزت و اقبال اور نبوت و رسالت کا مستحق ہے۔ ید اللہ اور خلیفہ اللہ بنا ہے اور عرش بریں پر بیٹھنے کے قابل ہے اور خلیفہ الشیطان فی نار جہنم۔ سب اردو بولو اسی میں تعلیم ہو۔ ایک فرمانروائے کل کو قبول کرو جس کے ماتحت فرمانروائے جزو ہوں جو اس سے ملکر کام کریں اور خمس ۱/۵ جمع کر کے بیت المال میں جمع کرائیں۔ جو فرمانروائے کل کے زیر تصرف ہو اور جب تک ساری دنیا غنی نہ ہو جائے۔ بیت المال سے خرچ نہ کرو۔ سکھ اسٹامپ بیرق ٹکٹ خطبہ کلمہ سب فرمانروائے کل کے نام پر ہو۔ جو اتحاد کے مزاحم ہواسے تیزاب میں ڈالو۔ کھال اتر کر صحت ہو تو

پھر تیزاب میں ڈالتے رہو۔ ان کے ہاتھ کاٹو۔ راشی مرثی چور۔ بغاوت کا اشتہار شائع کرنیوالا خط کھولنے والا۔ برہنہ فوٹو بنانے والا۔ ریز کا آدمی یا عورت بنانے والا۔ بے جا طور پر مال کھانیوالے پر وہی مال پکھلا کر ڈالو۔ کفر و سرکشی کی سزا چار مہینہ ہے۔ جس پر اس کی کھال کھینچی جائے۔ پھوٹ ڈالنے والے کو سنگسار کرو۔ فرمان کے خلاف چلنے والے کو بھی سنگسار کرو۔ ملاح گاڑ بیان اور سواری والا تازہ سامان رکھے ورنہ جرمانہ اور تازیانہ لگاؤ اور نقصان بھرو۔ جس عضو سے جو برائی ہو وہی کاٹ ڈالو۔ جو جرم کسی جرم کے مشابہ ہو اسے اس کی مشابہ سزا دو۔ عورتوں کو پردہ میں جس نہ کرو۔ پردہ دری عند الامن حرام ہے اور پردہ داری عند الخوف حرام ہے۔ قابل اطمینان حالت پیدا کرو۔ پھر حرام کو بند کرو۔ توحید فی العمل کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ کرو گے تو جبراً کرایا جائے گا۔ یہ فرمان سب کے لئے ہے۔ ایک ابدالآباد حمد کردہ شدہ زندہ سردار سید محمد یحییٰ تمہاری سرکوبی کے لئے کافی ہے۔ زمانہ کے ساتھ تم بھی رنگ بدلو۔ آسخت کی حفاظت کرو۔ اور اس کو اپنے جوڑے سے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو یحییٰ مسیح کا یہی لیکچر ہے جو گرجاؤں میں دہرایا جائے اور یہی کافی عبادت ہے نیچے کی نظم میں سب برائیاں درج ہیں ان سے پرہیز کرو۔

### نظم

بظلی	طمع	و بزدلی	و کاحلی	سرقہ	میخواری	و کبر	و جاہلی
قہر	و بے صبری	و بہتان	و نفاق	کفر	و شرک	و بغض	اسراف و طلاق
کید	و غمازی	و دجل	و احکار	غیبت	و قتل	و قمار	و افتخار
قتنہ	و جملہ	فسادات	و شرور	مسکرات	عجب	و اغواؤ	غرور
بے وفائی	و ریادہ	و حق و جنگ		جلیق	و اغلام	وزنا	و کنسرنگ
چاپلو سی	و دل آزاری	و زور		غبن	و بد خلقی	و گمراہی	و جور
ہر بغاوت	ہر خیانت	ہر حسد		ہر بدی	ملعون	گشتہ	تا ابد
ہر چہ فرمودست	یحییٰ گوش کن			زشت	را بگذار	حالا	ہوش کن
نیز ترک	مذہب	اقوام	غرب	گفت	آسی	بدترین	عصیان رب

گر جا کو صاف رکھو۔ اتوار کو منبر کے پاس بخور جلاؤ و دائیں بائیں مسیح ثانی (میری) دو تصویریں ہوں۔ اس طرف لوگ سینہ پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائیں۔ بیخ کے سامنے لیسائیل ہو۔ حکام کے لئے اوپر برآمدہ ہو۔ منبر کے پاس بیخ پر خوش آواز باجا ہو۔ جب فرمان پڑھتے پڑھتے کوئی مقام

سرور افزا آجائے تو باجے کیساتھ خوش گلوگائیں اور بہت خوشی سے گرجا گھر میں فرمان پڑھ پڑھ کے خدا سے دعائیں مانگیں۔ سب ہمنوا ہو کر قسطنطنیہ کو اپنا دار الخلافہ بناؤ اور وہاں کے خنزیریوں کو مار ڈالو اور نہ حلقہ سموات کے پار سے ڈائینومٹ رکھ کر دنیا اڑادی جائے گی۔ بیت المقدس کو سید المعابد بناؤ۔ ممکن ہو تو امرمی کو وہاں جا کر اس طرز جدید پر نماز ادا کرو۔ فرمان کی تلاوت ڈیڑھ گھنٹہ سے زیادہ نہ ہو۔ بیچ میں ٹفن کی چھٹی بھی ہو۔ دلچسپی نہ بھی ہو تو پھر بھی ایک گھنٹہ عبادت ضرور پڑھو۔ جلسہ درخواست ہونے کے وقت خطیب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا ختم کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ یحییٰ عین اللہ کہہ کر سینہ پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے اور لوگ نیل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائیں۔ پھر نزدیک والے دروازے سے نکل جائیں۔ نیکہ لگواؤ۔ مردہ کے غم میں ماتمی نشان چالیس روز تک بازو پر رکھو۔ مردہ کو گاڑی پر لے جا کر مشین کے ذریعہ آگ میں پھونک دو۔ اور راکھ کسی خندق میں ڈال دو یا گڑھے میں غرق کر دو۔ بے اجازت گاڑی کے پیچھے بیٹھنے والے کو خوب مارو۔ اگرچہ مر جائے۔ ہسپتال پل سڑکیں اور کنوئیں بناؤ۔ حاجت روائی کرو تا کہ کوئی مفلس نہ رہے۔ مگر مساوی الدرجہ جائداد تقسیم نہ کرو۔ مجلس قائم کر کے ضلع کے ماتحت رپورٹ دیا کرو۔ وہاں سے وائسرائے کے پاس جائے اور وہ فرماندائے کل کے پاس بھیجے۔ اصلاح عالم جہاد ہے اس میں درم خرچ کرنا زکوٰۃ اور قدم بڑھانا خدمت ہے۔ قلم کی حاضری ملازمت ہے اور کلم کی حاضری وکالت، عند الضرورة اخبار نکال سکتے ہو اور سفارش بھی کر سکتے ہو۔ مشہور خادم خلق اللہ کا سیٹھ اونچے مینار پر کسی بڑے شہر میں رکھو۔ ریلوے اور جنگی کے سوا اتوار کو چھٹی کرو۔ لڑکی اپنی تصویریں بھیج کر لڑکوں کی تصویریں منگوا کر کسی ایک کو قرعہ ڈال کر منتخب کرے۔ خواہ وہ کیسا ہی ہو۔ فیس داخلہ فوٹو دو روپے ہوگی۔ جو لڑکی کا مہر منقل ہوگا۔ پھر دونو گرجا میں جا کر شکر یہ ادا کریں اگر خاوند میں نقص نکلے تو فوراً خلع کرائے اور دوسری جگہ شادی نہ کرے تو اچھا ہے۔ بچوں کو تصویروں سے بہلاؤ۔ آتش مواد کی دکان باہر ہوٹلیفون اور تار کے ستونوں پر چلیپا معہ چن تارہ کی شکل ہو۔ جان داروں پر رحم کرو۔ تعلیم لازمی ہے صبح غسل کر کے جمناسٹک یا کبڈی وغیرہ کھیلو۔ بچہ کو قیمتی کپڑا نہ پہناؤ۔ جو قصد اخود کو فاقہ کشی اور روزہ میں مبتلا کرے وہ حرازہ کفران نعمت کرتا ہے اور ایسے حرازادوں پر پھٹکار ہے جو فرمانروا کی پیروی نہیں کرتے۔ اے نمک حرام!

صد اقت یحییٰ

سور کے بچو تمہیں اب بھی یقین نہ ہوگا۔ حالانکہ تمہارے لئے مالک نے انسانی لباس اختیار کیا ہے۔ کنواری لڑکی سے خود کو پیدا کر دکھلایا مردہ زندہ کیا۔ تیرے میں پھرا۔ امی بن کر اہل

فصاحت کو متلجج کرایا۔ قبل از وقت پیدا ہو کر ۴۵ روز بغیر دودھ کے رہا، بچپن میں نکتہ چینی کی۔  
 چنے اور چائے پر گزارہ کیا اور مہینوں لگا تار فاقہ کشی کی۔ مسمران نام دہرایا۔ عبدالجید نے میرے  
 حجرے میں دیکھا تو اس کی آنکھ کو صدمہ پہنچا۔ چنو کو حیدر آباد میں خاک کر دیا۔ اشارہ کیا تو چھ  
 ستارے ٹوٹے خواب میں خدائی لباس میں جہیروں کو دیدار دیا۔ دشمن کو حکم دیا کہ جوانی موت میں  
 مرے یا مریض ہو یا کوڑھی یا بے اولاد۔ پیشینگوئیاں پوری ہوئیں۔ غیب سے آکر کسی نے کہا کہ یہ  
 خدا کا فوٹو ہے۔ فوٹو گرافر نے ہمارے فوٹو لینے میں ایک درجن شیشے استعمال کیے۔ مگر فوٹو نہ آیا۔  
 غیب سے میری تصدیق کے لئے آواز آئی کہ درست ہے فضائے آسانی سے یہ آواز آئی کہ:  
 ”حضرت مولانا سید محمد یحییٰ التحیات علیکم وخیرک من الاولی“ تکیہ  
 سے ان اللہ مع الصابریں کی آواز آئی۔ ۲۸ روز بڑودہ میں فاقہ کش ہو کر لپکچر دیا۔ لوگ مارنے  
 آئے تو ہم نے تلوار دکھائی اور سب بھاگ گئے مکہ میں لپکچر دیا۔ مدینہ پہنچا تو روضہ اقدس کا نپا اور یا  
 ہو کی آواز آئی۔ اژدھا، بچھو نے میں سا گیا۔ دیکھا تو آئینہ ٹوٹ گیا۔ زنجبار اور بمبئی میں انتقال کیا  
 اور چار گھنٹہ بعد پھر جی اٹھا تم نے کئی بار سکھیا دیا مگر کچھ نہ ہوا۔ بمقام لندن انڈیا آفس میں  
 خوبصورت تصویر نے جھک کر سلام کیا۔ ایک ہی وقت کئی جگہ تمکو نظر آیا۔ اصل کو پکڑ لو اور اہل اللہ یا  
 حقانی کہلاؤ۔ کوئی نن۔ مرلی جوگی اور سنیا سی نہ بنے۔ شادی کا حکم قطعی ہے کوئی عورت برقعہ نہ ڈالے  
 پا جامہ نہ پہنے۔ بلکہ گاؤن اور بوٹ اور ساڑھی پہنے۔ ہاتھ اور چہرہ کے سوا بدن ننگا نہ ہو۔ جھوٹا  
 خواب نہ بناؤ۔ مہندی نہ لگاؤ۔ سلام کرنے میں ٹوپی اتارو اور سینے پر ہاتھ رکھو۔ فرمانروا کے سامنے  
 جھکو اور سلام علیک ہرگز نہ کہو۔ بلکہ کہو کورتش یا کہو التحیات علیکم پیغمبر اسلام نے السلام علیکم کہہ کر یہ بتایا  
 تھا۔ کہ بابا تم کو سلام ہے گویا یہ لعنة اللہ علیکم کا ہم معنی ہے۔ تم کو کوئی کافر کہے کہ تم خوش  
 ہو جاؤ۔ کیونکہ تم مردودوں کو کافر کرنیوالے ہو یا حق کی کھیتی کرنیوالے اور باطل کو چھپانے والے  
 ولی صلوات اور اسلام اور مسلم کا لفظ بھی آج نجس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جسے ہم محمود کہیں وہ  
 محمود ہے اور جسے مردود کہیں وہ مردود ہوگا۔ کیونکہ تمام الفاظ پر ہمارا قبضہ ہے۔ عورت ڈاکٹری کی  
 طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اسے وہی سکھاؤ۔ شریعت قدیم ختم ہو گئی۔ اب شرع جدید پر عمل کرو۔  
 اس کے خلاف کرنا جرم ہے۔ ورنہ تم واجب التعویر ہو مال و متاع چھین لیا جائے گا۔ جو روٹی  
 خواص بنائی جائے گی۔ پھر تہ تیغ کیا جائے گا۔ رومی ایرانی۔ حیدر آبادی اور انگریزی ٹوپی پہنو۔ گچڑ  
 ی شملہ ابلیس کا لباس ہے عورتیں ٹیڑھی مانگ نہ نکالیں چلیپا نما مواف ہونقاب جالیدار۔ حجامت  
 نہ حزیرہ نما، نہ محراب نما، نہ نالی نما، نہ تالاب نما (بلکہ بیعہ نما ہو) یا منڈواؤ یا مسیحائی وضع کی رکھو۔

مونچھ مہے خوبصورتی ہوتی ہے۔ کان میں عطر کا پہا ہانہ رکھو۔ سرمہ نہ لگاؤ۔ ناک میں بال نہونے دو۔ گندہ دہن فوقانی دہن کا تحتانی بنا تا ہے۔ منہ کا لعاب نہ پیو۔ یہ ہجو بیج کسی کو نہ بناؤ۔ اردو بغیر کوئی زبان استعمال نہ کرو۔ ابن الوقت بنو۔ محض مکینہ اور حرامزادہ نہیں ملتا۔ تو تم اس پر درستی کرو۔ اگر وہ پاجی سرہی ہو جائے۔ تو اس کی پوری خبر لو ورنہ تم سا کوئی والد الحرام نہیں۔ تمباکو دیگر مسکرات اشیاء حرام سمجھو۔ فرستادہ خدا کے سامنے دلائل پیش نہ کرو۔ متکبر سے تکبر کرو۔ دجال کے سامنے دجال بنو اور بد معاش کے سامنے بد معاش اور مسیحا میں مسیحا بن کر جذب ہو جاؤ۔ شعر گوئی میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ قوم حرامزادی بڑی مردود ہے جس نے کتابوں کا حرف حرف نقطہ نقطہ اعراب وغیرہ شمار کیا ہے موسیقی بہترین چیز ہے مگر سور کے بچے حرامزادے ہیں۔ جو ساری نعمت الہی کا کفران کرتے ہیں۔ بچہ کو کھلاب سے دودھ پلاؤ۔ جانگہ پہناؤ ٹھیل گاڑی میں باہر لے جاؤ۔ ختنہ نہ کرو۔ زیور نہ پہناؤ۔ حق کہہ کر بہلاؤ لوری یوں دوہو الہادی۔ ہو المہدی لیس الہادی الا ہو۔

هو الحق هو الله هو يحيى قل يا هو بچہ کے بائیں کان میں کہوان اللہ علی العظیم پھر دائیں کان میں یہی فقرہ کہو۔ حاملہ بیہودہ قیام و قعود اور حرکت بے جا کو عبادت نہ سمجھے مثلاً بار بار زمین پر ناک رگڑنا یا دو پہاڑ کے درمیان دوڑ دھوپ کرنا۔ جھوم کھیل کھیل کے روسیہ پتھر کو چومنا۔ سارے شیاطین کا ایک مجمع تصور کر کے اینٹ پھینکنا وہ حرامزادے ہیں جو عورتوں کو جس بیجا کرتے ہیں اور ظنوا المومنین خیراً کادم بھرتے ہیں۔ بہت سے مردود لوگ تصویر رکھنا حرام سمجھتے ہیں وہ حرام کے بچے یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز تصویر سے خالی نہیں۔ لہذا ایسی مادر بخظا مردود حرامزادی قوم جو دکی باتیں نہ سنو۔ جو ٹھاپانی نہ پیو۔ گلاس بائیں ہاتھ سے پکڑو۔ انگلی اور برتن نہ چاٹو۔ اوپر کی چھت پر چلیپا نما انجم و ہلال ہو۔ مکان کشادہ ہو۔ دودو کے لئے سات سات گز کا کمرہ ہو، گل وریحان ہوں وغیرہ وغیرہ۔

۴۸..... فرمان یحییٰ بہاری کا قرآن ایک ضخیم کتاب ہے جس کے صفحات ۸۲۳ تک

ہیں۔ شروع میں اپنا نام یوں لکھا ہے۔ اعلحضرت احدیت مآب فرمانروا سید محمد یحییٰ خان دوران نائب اللہ علی العالمین۔ ذی لینڈ لا رڈ آف موضع یحییٰ پر گنہ اروسی ضلع گیا صوبہ بہار اور سنہ تالیف و طباعت مذکورہ نہیں مگر ص نمبر ۷۰۸ پر ۱۹۰۳ء لکھا ہوا ہے جس میں ان کو تین صحیفے ملے ہیں۔ جن کی بناء پر اپنا دعویٰ کھڑا کیا ہے اردو نثر خوب زور دار لکھی ہے فارسی اور اردو اشعار میں بھی خوب زور دیا ہے مگر عربی میں مرزائے قادیانی کے بھائی ہیں۔ لکھنے سے نہیں چوکتے مگر سب بے ہنگم غلط سلسلہ جو منہ میں آیا لکھ مارا اخیر میں کہہ دیا

کہ تمام الفاظ پر ہمارا قبضہ ہے اس مقام پر ان کے احکام کا خلاصہ لکھ دیا گیا ہے۔ ورنہ ان کے صحیف آسمانی کی تشریح۔ عقائد اور مسئلہ تاسخ کا ثبوت اور علم کلام دوسرے مسائل اتنے ہیں کہ یہاں ان کی گنجائش نہیں مگر جو اسلام کے خلاف حکم تھے وہ یہاں ضرور پیش کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام چھوڑ دو اور جو کچھ تمدن یورپ پیش کرتا ہے اسی کو اپنا مذہب بنا کر اہل اللہ کہلاؤ تو خلاصہ یہ ہے کہ:

الف ..... علی محمد باب سے لیکر مرزائے قادیانی کے اخیر زمانہ تک جو کچھ بھی تعلیمات بہائیت اور مرزائیت میں تھا سبھی نے اس کا صحیح مطلب بتا دیا ہے کہ گویا یہ لوگ کچھ نہ کچھ اسلام کا نام لیتے ہیں مگر مطلب سعدی ہمین ست کہ ما کفتم۔

ب ..... جس تحریک کو بہائی اور مرزائی تجدید نے شروع کیا تھا اس کو پائیت تکمیل تک پہنچا کر اسے عریاں ہو کر کہہ دیا ہے کہ عیسائی ہو جاؤ اور اسلام سے دست کش ہو کر دنیاوی ترقی حاصل کرو۔

ج ..... یہ جس قدر مامور بن کر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ مامور من اللہ نہیں ہوتے بلکہ مامور من النصارے ہوتے ہیں۔ جو عیسیٰ اور مہدی بن کر اس طرز پر اسلام سے بہکاتے ہیں تاکہ ان کا مرید آسانی کے ساتھ عیسائی ہو سکے۔ یا کم از کم اس سے برسر پیکار نہ رہے۔

د ..... اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتے تو ان کی تعلیم ایک دوسرے کی تائید میں لبریز ہوتی اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کی بجائے مصدق ہوتے جیسا کہ انبیائے سابقین کا دستور تھا۔ مگر ان کا یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ یہ کار خاص پر مامور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی کاٹ کھاتے ہیں۔ تاکہ اپنے بہروپ میں فرق نہ آنے پائے۔

ہ ..... بالفرض اگر یہ لوگ مامور من النصارے نہیں تو غالب خیال یہ ہے کہ یہ لوگ بائبل کے انبیاء کی طرح کاہن بن کر تعویذات جفر زل اور نجوم یا مسریم کے کمالات سے کچھ کرامات اور پیشینگوئیاں جمع کر لیتے ہیں اور چونکہ بدارواح سے ان کو تعلیم حاصل ہوتی ہے اس لئے اسلام سے بہکاتا ان کا فرض اولین ہو جاتا ہے اور جو کچھ اپنی وحی کے ذریعہ سے پیش کرتے ہیں وہ خبیث ارواح کی تعلیم ہوتی ہے۔ بائبل کا مقالہ تاریخ نمبر اول باب ۲۲ مطالعہ کریں جس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اخی اب بادشاہ نے اپنے وقت کے چار سونبیوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا مجھے جلعاد کی لڑائی میں فتح ہوگی؟ سب نے کہا کہ ہاں ضرور فتح ہوگی۔ یہو مغظ نے کہا

کہ میکایاہ نبی کو بھی بلاؤ اسے حاضر کیا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ خدا کے دربار میں پاک روہیں حاضر تھیں تو ایک خبیث روح آکر کہنے لگی کہ مجھے اجازت ہو کہ انہی اب کو جلعاد کی لڑائی میں بہکاوں تاکہ وہ وہاں جا کر مر جائے تو اسے اجازت دی گئی اور اس نے چار سو نبیوں کو (جو اصل میں فال گیر اور رمال (راول) یا کاہن تھے) سکھا دیا کہ اپنی غیبی آواز کی شنوائی کی بنیاد پر جا کر کہہ دیں کہ انہی اب فتیاب ہو گا صدیقانے یہ بات سکر میکایاہ کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ مگر اس نے کہا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ تم اندر کی کوٹھری میں جا چھو گے انہی اب مارا جائے گا اور نبی اسر ایمل بغیر راعی کے آوارہ بھٹھریں ہو گئی چنانچہ چار سو نبی جھوٹے نکلے اور ایک سچا ثابت ہوا۔

..... غالباً وہ خواب سچا ہو گا جو ایک حق پرست بزرگ نے ۱۹۱۳ء میں دیکھا تھا کہ میں ایک سرسبز جنگل میں پھر رہا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا چھوٹی سی سجدہ گاہ نظر آئی وہاں وضو کر کے نماز میں مصروف ہو گیا جب آخری نفل بیٹھ کر پڑھ رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے آکر سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا جلدی سے فارغ ہو کر دیکھا تو مرزائے قادیانی نظر آئے کہ برقعہ پہنے ہوئے ہاتھ پھیر پھیر کر کچھ پڑھتے ہیں اور دم بھی کرتے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا فرمایا کہ تم کو اپنا مطیع کر رہا ہوں میں نے کہا کہ آپ سارا زور خرچ کر ڈالیں پتھر کو گیدڑ نہیں چاٹ سکتے تو وہ اپنے کا م میں مصروف رہے اور میں خاموش بیٹھا رہا چند منٹ کے بعد میں نے نیچے دیکھا تو مرزا صاحب کے بائیں ہاتھ میں ایک ڈرائنگ کا پی نظر پڑی جس کو میں نے چپکے سے چھین لیا تو فوراً آپ نے اپنا عمل بند کر دیا اور کا پی واپس دینے کو کہا مگر میں نے کہا کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ میں اپنا کام کروں گا۔ اسی کشمکش میں کا پی الٹ کر جو دیکھی تو تین تصویریں نظر آئیں پوچھا تو کہا پہلی تصویر میرے ہمزاد کی ہے دوسری شیطان کی اور تیسری ملک الموت کی پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تینوں کا عمل یاد ہے ہمزاد کے اثر سے پاس آنوالے کو مطیع کر لیتا ہوں دور والے شیطان اور روح خبیثہ کے زیر اثر ہو کر چلے آتے ہیں اور جو دشمنی کرے اس کو عزرائیل کے سپرد کر کے ہاتھ چلاتا ہوں تو وہ تباہ یا ہلاک ہو جاتا ہے میں نے کہا کہ بس آپ کی ساری نبوت معلوم ہو چکی جائے میں یہ کا پی نہیں دوں گا میرا قبضہ آپ کی نبوت پر ہو چکا ہے آپ منٹیں بھی کرتے رہے مگر میں نے کا پی نہ دی اس کے بعد جاگ کھل گئی۔

..... حق اور سچی بات ایک ہوتی ہے جھوٹ اور باطل متعدد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں آپ اس معیار سے جانچ سکتے ہیں کہ چودھویں صدی کے مدعیان نبوت اور دعوی داران تجدید کہاں تک اپنے اندر صداقت رکھتے ہیں ان سب کی تعلیمات کو مطالعہ کرو

توضرو اس نتیجہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے کہ ان میں کچھ مامور من النصرا نیت ہیں کچھ پاگل ہیں اور کچھ کاہن اور فال گیر اسلام کے دشمن دنیا کو عیسائی بنا رہے ہیں اور اسلام کو اسلام کے ہاتھوں ہی تباہ کرنے کی ٹھان چکے ہیں۔ جہاں تک ہماری رائے کا تعلق ہے ہم بانگِ دہل بلا خوف لومتہ لام عیسائی مشزیوں کی اس گہری چال کا بھانڈا اچھوڑنے میں حق بجانب ہونگے جو انہوں نے چند سال سے عیسائیت کی علی الاعلان تبلیغ کو قطعاً بند کر کے ایک نیا راستہ تجویز کیا ہے یعنی مذہب و سیاست کے علمبردار گروہ اور اپنے حریف ازلی سے تلوار کی شکست کھانے کے بعد آج پھر سر اٹھانے کی جرأت کی اور چند خود غرض اور مست و سرشار اسلام سے روکش کا خطاب لینے والوں پر دولت کے ڈورے ڈال کر ایک زبردست سیاسی جنگ کا آغاز کر دیا۔ جس کے نتیجے کے طور پر مرزائے آنجمانی اور یحییٰ بہاری کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے مثلاً جیسا کہ اسی کتاب کے ص ۶۰۱ پر کتاب فرمان یعنی یحییٰ بہاری کے قرآن کے ۳۶۰ کا اقتباس درج کیا گیا ہے کہ گر جا کو صاف رکھو اتوار کو منبر کے پاس بنو جلاؤ دائیں بائیں مسیح ثانی (یحییٰ) کی دو تصویریں ہوں۔ اس طرف لوگ سینہ پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائیں وغیرہ وغیرہ یہ اس مسیح کی شرکیہ تعلیم ہے جو مسلمانوں کے لئے باعث نجات بنائے پھر تباہی حقیقت میں نجات نہیں بلکہ نجات ہے جو شیرازہ اسلام میں بدبو پھیلا رہا ہے عیسائیوں کو ان نیوں کی تعلیم سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم اس نبی کے ایک فقرہ سے بوضاحت بیان کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب عیسائی مبلغ ہیں۔۔۔

۱..... ہر بہاری مسجد کی بجائے گر جا کو صاف ستھرا رکھے اور

۲..... جمعہ کی بجائے اتوار کو اپنا اجتماع قرار دے

۳..... ایک خدا کو ماننے کی بجائے یحییٰ مسیح کے سامنے جھک جائے ہر کلمہ گو

مسلمان جس کے پہلو میں دل اور دل میں اسلام کا درد ایک ذرہ بھر موجود ہے اور جو شخص اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا سرفداؤ و شیدائی بتاتا ہے کیا ان مندرجہ بالا باتوں پر بحضور قلب ایمان لاسکتا ہے؟ کیا شہنشاہ دو جہاں کی غلامی پر عیسائی مبلغ کی غلامی کو ترجیح دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہاری تعلیم اور اسلامی تعلیم دو متضاد باتیں ہیں۔ بالآخر دوبارہ میں پھر قوم سے پر زور اپیل کرونگا کہ وہ زمانہ کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ایسے دھوکہ باز، جھوٹے اور دجل و فریب کے پتلوں سے ہمیشہ اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیں اور ان کی روہا بازیوں سے بچکر اپنا مال و دولت مفت میں ضائع نہ کریں۔ اگرچہ ہمیں امید کامل ہے کہ جس طرح ازمنہ متوسط میں ملاحظہ و مذاقہ کے ہاتھ سے اسلام تنگ آچکا تھا اور اخیر میں وہ خود بخود تباہ ہو چکے تھے اسی طرح یہ لوگ



بہت جلد تباہ ہو جائیں گے اور اسلام پھر اپنی جگہ سرسبز و شاداب نظر آئے گا۔ واللہ المستعان!

حق یہ رہ ثابت قدم باطل کا شیدائی نہ ہو

گر تجھے اسلام پیارا ہے تو ہر جائی نہ ہو

۴۹..... علامہ عنایت اللہ مشرقی امرتسر

ان کا مولد امرتسر ہے ابتدائی تعلیم پنجاب میں پائی ہے اور انتہائی تعلیم یورپ میں پا کر پی۔ ایچ ہوئے ہیں۔ سرشتہ تعلیم میں وزارت کا عہدہ سنبھالا۔ طبیعت تند تھی ڈی گریٹ ہو کر پرنسپل بنے پھر ہیڈ ماسٹر ہوئے مگر تنخواہ وہی بارہ سو ملتی رہی۔ دس سال ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب (تذکرہ مطبوعہ وکیل پریس امرتسر ۱۹۲۳ء) لکھی تھی جس کے متعلق یہ اعلان تھا کہ دس جلدوں میں ختم ہوگی۔ مگر ان کی بد قسمتی سے ایک جلد میں ختم ہو کر رہ گئی جس میں اسلام کی طرف سے قرآن کی آیات لے کر مسلمانوں کو منحرف کر نیکی ٹھان لی تھی اور اسلام حقیقی کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام جدید کی بنیاد ڈال کر مسلمانوں کو پریشان کیا تھا۔ سات سال کے بعد جب آپ کو مایوسی ہوئی تو یحییٰ بہاری کی طرح انہوں نے بھی ایک محرک غیبی مقرر کیا۔ جس کی زبانی یہ اطمینان دلایا کہ تذکرہ اندر ہی اندر تاثیر کر رہا ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ اس کی قدر افزائی ہو۔ تو آپ نے اس مضمون کو دوسری تصنیف اشارات میں قلمبند کیا اور ایک دستور العمل پیش کیا کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے مسلمان ترقی پا سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم کا خلاصہ ذیل میں درج ہے کہ پانچ بنائے اسلام (کلمہ، صوم، صلوة، حج اور زکوٰۃ) اس وقت فروعات میں داخل ہیں آج اصل اسلام کے یہ دس اصول مقرر کئے جاتے ہیں۔ ملکر کام کرنا۔ اتحاد بین الاقوام۔ حکومت کی تابعداری۔ مخالفین سے جہاد بالمال۔ جہاد بالنفس۔ جہاد بالسیف۔ غیر ممالک کو سفر کرنا۔ سعی و عمل کی رکاوٹیں دور کرنا۔ استقلال مکارم اخلاق تعلیم اور ایمان بالآخرۃ خدا نے بھی کہا تھا۔ مگر علمائے امت نے لوگوں کو بہرہ کا کر نماز روزہ میں لگا دیا۔ پس جو شخص ان اصول کا پابند ہوگا وہی مسلمان ورنہ کافر ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے خبر دی ہے کہ مسلمان بہت جلد تباہ ہو جائیں گے۔ اس لئے میں نے ان کو تنبیہ کر دی ہے۔ تمہاری موضوع احادیث میں مہدی کا ذکر ہے۔ مگر قرآن میں نہیں ہے اس لئے تمہارے آج وہی شخص مہدی ہو سکتا ہے جو تمہیں صحیح راستہ کی تعلیم دے قرآن الفاظ کا نام نہیں جو تم رٹتے رہتے ہو بلکہ اصول عشرہ پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے اور اس قانون الہی کا نام ہے جو ہر ایک کتاب سماوی میں مذکور ہے اور فطرت انسانی کا نام ہے جس کی خبر ہر ایک نبی نے دی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جھک جاؤ اس میں یہودی عیسائی اور محمدی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ صرف امتیازی

علامات ہیں۔ میں نہ نبی ہوں نہ عالم نہ فقیر لیکن خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ تم مسلمان پانچ سال کے اندر تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر بچنا ہے تو صراطِ مستقیم یعنی اصولِ عشرہ کی پیروی کرو۔ تو میں نے قرآن مجید سے دس اصول قائم کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیئے ہیں، عباداتِ اسلامیہ فطرۃ نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کی بنیاد ہیں بلکہ کسی وقت وہ امتیازی نشان تھے جبکہ یہود و نصاریٰ سے ممتاز ہونے کی ضرورت تھی۔

۵۰..... جناب نے کمال ناز اور خرحرہ کے ساتھ مہدی وقت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پیشینگوئیوں کی بناء پر اپنی تعلیم کو مدائنِ نجات سمجھا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو منہ بھر کر گالیاں دی ہیں علمائے اسلام کو بدتر سے بدتر ثابت کیا ہے احادیث و فقہ پر وہ گالیاں کسی ہیں کہ غیر مسلم بھی جرات نہیں کر سکتا۔ مشائخ اور پیروں کو بھی بری طرح گالیاں دی ہیں۔ بہر حال جتنے اس کے ہم خیال پہلے گزر چکے ہیں۔ ان سب کی طرف سے گالیوں اور بکواس کی ڈیوٹی اس نے پوری کر دی ہے اور اپنی کتاب اشارات میں اپنی اس کتاب کی تعریف کی ہے اور اپنے تابعداروں کی تعریف میں پل باندھ دیئے ہیں اور اخیر فصلوں میں بیت المال قائم کرنے کے لئے ایک سکیم پیش کی ہے کہ لاہور نئی آبادی میں ایک ہوسٹل ہے اس میں نوجوان بھرتی ہو کر کچھ عرصہ کے لئے داخل ہوں۔ ان کا خرچ ان کے اپنے ذمہ ہوگا۔ صبح غسل کے بعد بیچلے سے ڈرل ہوگی۔ پھر چار گھنٹہ کے لئے ان کو بیچلے لے کر باہر جانا ہوگا کہ اس کے ذریعہ عمارتی کاموں میں مزدوری کریں۔ جسمیں سے کچھ بیت المال میں بطور کرایہ ہوسٹل جمع ہوگا اور باقی ان کی ملکیت ہوگی اور پچھلے پہر ایک مانیٹر کے تحت شہر کے گلی کوچوں میں چکر لگا کر غریب اور یتیموں کا مفت میں کام کرنا ہوگا پانڈی مزدوری اور ٹیو کری مزدوری کی اعانت کرنی ہوگی۔ انگریزوں کی کوشیوں میں فوجی سلام کر کے لید اٹھانا ہوگا اور صاحب بہادر کے گھوڑوں کے لئے گھاس لانا ہوگا اور جب ہمارے دارالخلافہ سے سند حاصل ہو جائے تو اپنے اپنے علاقہ میں اسی طرح فوج تیار کرنا ہوگا۔ تاکہ تمام مسلمان خدمتِ خلقِ اللہ میں مستغرق ہو جائیں۔ علامہ نے یہ تعلیم پھیلانی لاہور امرتسر اور پشاور میں اپنی فوج تیار کر لی اور ہزاروں کی تعداد میں بیچلے بردار ڈرل کرتے ہوئے نظر آنے لگے اور افسروں کو اپنے ذاتی تیار کردہ نوٹوں سے تنخواہ دی جانے لگی اور کہا گیا کہ جب ہمارا بیت المال قائم ہوگا تو یہ نوٹ نقدی سے تبدیل کئے جائیں گے۔ مگر لوگوں نے جب غور کیا کہ تذکرہ کی تعلیم میں کچھ اور بتایا تھا اور اشارات میں کچھ اور رنگ بدلا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو صرف گھسیارے بنانا چاہتا ہے۔ تاکہ ذلیل ہو کر ہمیشہ کے لئے صاحب بہادر کے خانساماں بنے رہیں یا گوبر اٹھانے کی ڈیوٹی سنبھالیں نہ ان کو کسی صنعت

دعوت میں دخل ہونے علم و فضل کی راہ چلیں اور نہ تجارت اور سیاست سے آگاہ ہوں اس لئے غیر تمدن مسلمان تازہ گئے کہ یہاں ضرور دال میں کچھ کالا کالا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غالباً مامور من النصارى ہو کر سیاسی رو کو دانا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے بلند ارادوں کو پست کر کے ہمیشہ کے لئے دست نگر غیر کر دینا اس لئے پیلچہ پارٹیاں ٹوٹ گئیں سوائے ان چند پارٹیوں کے جن کو دست غیب سے تنخواہ ملتی ہے اور انجام کو نہیں سوچتے کہ علامہ صاحب اس وقت کیوں مستعفی ہو گئے ہیں اور کیوں گورنمنٹ سے جنگ زرگری شروع کر دی ہے حالانکہ یہی پہلے تذکرہ پر نوبل پرائز صرف اس لئے حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے تبدیل خیالات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور مسلمانوں کو اسلام چھڑانے میں بڑی کوشش کی تھی اور انگریزی لباس میں جلوہ گر ہو کر نظر آتے تھے مگر اب دیسی صورت اور دیسی سیرت میں مستغرق ہیں۔ معلوم نہیں اس کے تحت میں کیا راز مضمحل ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو ایسے چھپے رستموں سے پرہیز کرنا چاہئے کہ کہیں عیسائی نہ بنا ڈالیں۔

۵۱..... آج کل کے مجدد شاکی ہیں کہ اسلام کو یہود و نصاریٰ نے مسلمان بن کر بہت بگاڑ دیا ہے اور احادیث کا طومار بنا کر اصل تعلیم سے غافل کر دیا ہوا ہے اس لئے احادیث اور فقہ قابل عمل نہیں ہیں بلکہ یہ ستر ہزار پردے ہیں جو اسلام کے منہ پر پڑے ہوئے ہیں اس لئے یہ تمام پردے اٹھا کر اصل اسلام ٹولنا چاہئے کہ کہاں گیا۔ رات اندھیری تھی۔ سب مجدد ٹٹولنے لگے کسی کو عیسائی تعلیم ہاتھ لگی کہا بس یہی اسلام ہے کسی کو مغربی تمدن نے لٹو کر دیا۔ فرمانے لگے ہاں یہی اسلام ہے اور بعض کا رخاص پر تھے انہوں نے تو جن الاسلام وال المسلمین کو ہی اسلام سمجھ لیا۔ بہر حال اپنے مطلب کا اسلام انہوں نے گھڑ لیا اور پھر وہی پہلی دقت پیش آئی۔ کہ اسلام کس کے حصہ میں ہے یا کہ سارے خالی ہیں اس لئے اگر اسلام قدیم کے علمائے اسلام پر یہ حرف آتا ہے کہ ان کو یہود و نصاریٰ نے احادیث سازی میں دھوکا دیا تھا۔ تو آج کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ مجددین عیسائیوں کا آلہ کار بن کر اسلام کو برباد نہیں کرتے؟

۵۲..... عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلم ہیں مگر سنی، شیعہ، اہلحدیث، مرزائی بہائی اور کٹر عینی مذہب سے بیزار ہیں کیونکہ یہ بدعات ہیں اس لئے ہم کو ان سے الگ رہنا ضروری ہے۔ مگر یہ جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ملکی حیثیت سے کون ہو؟ تو آپ صرف یہ کہہ کر جواب نہیں دیتے کہ ہم ایشیائی ہیں بلکہ ملکی تقسیم کرتے ہوئے کسی شہر سے تعلق پیدا کرتے ہیں پھر اس میں بھی کسی محلہ اور بازار یا گلی کو چھٹی تخصیص کرنی پڑتی ہے اس کے بعد خاص سکونتی مکان بتایا جاتا ہے اور باوجود ان تمام بے انداز خصوصیتوں کے پھر آپ کے ایشیائی یا ہندوستانی ہونے میں فرق

نہیں آتا اور نہ ہی تمہارے صرف ہندوستانی ہونے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ تمہاری سکونت ملک کے کسی خاص حصہ شہر محلہ اور مکان میں نہیں ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی شخص چشتی صابری ہو تو اس کا یہ مطلب نہ ہوگا کہ وہ مسلم نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ اسلام کی وسعت میں اس نے اپنے خاص مسلک کو الگ کر لیا ہے اور خصوصیات مشربی پیدا کرتے کرتے صابری چشتی بن گیا ہے۔ اس لئے جو شخص ملکی خصوصیات کو بدعتوں میں شمار کرنے کی بجائے از حد ضروری سمجھتا ہے وہ یہ بھی یقین کرے کہ مذہبی خصوصیات بھی انقلاب زمانہ سے ایسی ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ اپنی مذہبی خاص سکونت کو اظہار کرنے میں مسلم کو دقت نہ رہے اور جس طرح قدرت نے ایشیا کے صوبے قسمتیں اضلاع تحصیلیں شہر کوچہ گلی اور محلہ پیدا کئے۔ اسی طرح اسلامی مذہب میں قدرت ربی مذہبی تقسیم پیدا کر کے سنی، شیعہ پھر تقسیم در تقسیم کرتی ہوئی مسلم ہستی کو صابری چشتی پہنچا کر امتیاز کلی بخشتی ہے۔ پس اگر ہندوستانی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو کسی خاص آبادی یا ملک اور شہر وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وحشی خانہ بدوش آزاد منش ہے تو مسلم کہنے کا بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ مذہبی دنیا میں ایک جنگلی جانور ہے جس کو اسلام کے کسی خاص قدرتی حصہ سے بھی کچھ تعلق نہیں رہا، یا یوں کہو کہ وہ اسلام سے ہی بیزار ہے۔ اس لئے بار بار مجددین عہد حاضر کا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ہم صرف مسلم ہیں ورنہ وہ صرف ہندوستانی بن کر دکھائیں اور موجودہ تعلقات کو خبر باد کہہ کر جنگلی اور افریقہ کے بن مانس بن کرو حشیانہ زندگی بسر کریں۔

میڈیم محمد یوحنا رام

۵۳..... ایک امرتسری عورت کا نام ہے جس نے ہندو ازم نصرانیت اور اسلام تینوں کے اجزاء کو کوٹ کر ایک مذہب جدید کی مجنون مقوی تہذیب مغربی تیار کی ہے۔ اس نے اپنی شریعت کا نام کتابی صورت میں لوح کتاب پر یوں لکھا ہے۔ کھجک کا جنازہ۔ کرشنا کرائسٹ مصطفائے مذہب (ایک اور برہم دینا تاسی ایک انکار کرتا پر کیہ۔ نہ بھونزور۔ مسجدیں گوردوارے اور گرجے سفید پوش بد معاشوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں) اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے جس کو ہم بہ ترتیب ابواب مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

۱..... من وسلوئی بہشت کا کھانا تھا۔ لوگوں نے دوزخیوں کے کھانے پسند کئے جو پختہ نہ تھے اب وہی کھاؤ جنتی بن جاؤ گے مردہ جلانے سے تین زہریلی گیسیں (کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ کاربن مونو آکسائیڈ اور کورین گیس) تیار ہوتی ہیں جو ہوا میں ملکر انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتیں۔ اسی سے ہندوستان میں انگریزوں کے دماغ بھی نکلے

ہو گئے ہیں۔ مردہ جلانا بند کرو تا کہ سوراج کی پہلی قسط بچاؤے۔

۲..... قرآن پران اور وید بھارت میں ہیں۔ چنانچہ روح القدس باپ بیٹا ہیں اور برہما بشن۔ ہمیش۔ روح نفسانی حیوانی اور طبعی ہیں۔ آلہ تناسل پر دھار مار کر بورک ایسڈ کے بخارات بچھاؤ۔ فوتوں میں انگلی ڈال کر صاف کرو تو ہاتھی کی مانند عقل آجائے گی۔

۳..... بائیس ہاتھ کی تین انگلیاں قولوں میں داخل کرو پارہتی کا مندر صاف ہو جائے گا اور کنیش شو بھگوان کا ترسول مارا جائے گا اور تم چوہے کی مانند چست و چالاک ہو جاؤ گے شیر گاؤ شراب طہور (کام دہن) ہے۔ گائے ہمارے ماتا نہیں۔ شو آسن اور پیر آسن التحیات ہے۔ ہر کشن بھگوان کی تصویر داڑھی مونچھ کے بغیر بناتے ہیں۔

۴..... بچوں کو انگریزی لباس پہنا کر تعلیم کی دیوی کی پوجا کرو۔ مہتر بادشاہ ہے موسیٰ بھی مہتر ہی تھے۔ بھنگی سرحد کی ایک بہادر قوم ہے خدا دجالوں کا خاتمہ کرے تاکہ ہم امن سے بیٹھیں بھنگی منشیات خون کا دورہ بند کر دیتی ہیں۔ لوگ نمک کھاتے ہیں۔ تو سانپ سے مر جاتے ہیں۔ کیونکہ نمک سے وٹ مائیں تباہ ہو جاتی ہے منو نے کشن سرتی کی بجائے منوسرتی جاری کر کے بیٹی کو محروم الارث بنایا ہے۔ ورن آشرم شاردا ایکٹ کا مخالف ہے۔ حضرت علی نے ایک بھیک مانگنے والے کو مارا تھا۔

۵..... مہاراج جسم میں ہیں۔ ہمیش، برہما، وش جسم کے حصے ہیں۔ صراط مستقیم جسمانی راحت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا (استشاق) جلی کر یا کرم ہے۔ گدا چکر وضو ہی جو مواد فاسد نکالتا ہے۔ بچے کی پیدائش پیدا ہونے سے پہلے بیس سال ہوتی ہے۔ سرمایہ دار خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دیویاں ست جگ پیدا کر دیں گی۔ شادی سوئمہر کی رسم ہوگی۔ گن، کرم اور سہما کے دیوتوں کی عبادت کرو۔ وٹ مائیں تین قسم کے اوجھ (سلوبل فیٹ، سلوبل واٹر اور سلوبل شوگر) ہیں۔ پانچ نمازیں پانچ بانیاں ہیں اور جب صاحب تہجد ہے۔ کچی زمین پر نماز پڑھنے سے جسم میں زمین کی بجلی دوڑتی ہے اور گدا، لنگ اور ناک سے مواد فاسد خارج ہوتے ہیں۔

۶..... پتسمہ کا پانی عیسائیوں کے پاس نہیں رہا۔ سکھوں کے پاس ہے مگر وہ صرف سکھ بنا سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے معجزہ دکھانے سے انکار کیا۔ کیونکہ وہ مداری کا کھیل تھا۔ حدیث (گورو پلاس) بہت عمدہ چیز ہے۔ خلق عالم سات دنوں میں ہوئی ہے۔ عورت اکاس بیل ہے۔ اس کے بال اس کی جڑ ہیں۔ راہب ٹھگ تھے جن کو عرب کے سانوریا نے ختم کر دیا۔

بغل کے بال شو جٹا ہیں اور مقوی روح طبعی ہیں۔ زن و مرد بال نہ کٹائیں اور زیور نہ پہنیں۔  
 پیغمبروں کا خاندان عرب لاڑ کملی والے گروہ حاری کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ روٹی تو بے پر نہ پکاؤ۔  
 ماش کی دال میں زیری ڈالو اور مونگ کی دال میں تیز پات، مہا بیر کی غذا دلیہ ہے۔ رفع حاجت گڑ  
 کسواری ہے۔ ہشت انگ ڈنڈوت نماز جمعہ ہے۔ امریکہ میں خشک زمین پر تیرتے ہیں۔

۷..... مسج نے کہا کہ ایک گال پر تھپڑ پڑے تو دوسری آگے کر دو۔ پس نبی ہو رہا  
 ہے کہ لیڈر قید کو فخر جانتے ہیں۔ لاڑ کملی والے نے کہا کہ ماتم صرف تین دن ہے۔ کرائسٹ نے  
 کہا تھا کہ میں بھی صرف تین دن قبر میں رہوں گا۔۔۔ ہندوؤں نے نفس ناطقہ کو آسمان پر جانے نہیں  
 دیا۔ زمین بھوکی ہے۔ معلوم نہیں آنے والے عذاب کے لئے قدرت کو کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ کرتی  
 کسان موجود نظام کو بدل دیں۔ ہمارا مذہب ست جگ لے آئے گا۔ کرائسٹ تبت میں لامہ  
 گوروں کے پاس رہ کر نینس کا کھیل لے گیا تھا۔ جو گوری قوم میں بلا تبدیلی ہے۔ زوریر سکھوں کو حکم  
 تھا۔ مگر انہوں نے جھٹکا شروع کر دیا۔ لاڑ کملی والے نے کہا تھا کہ مسجد حرام کے پاس شکار حرام  
 ہے۔ خدا جب ہر جگہ ہے تو مسجد حرام بھی ہر جگہ ہوتی۔ مگر مسلمانوں نے عرب کی مسجد کو حرام (عزت  
 والا) بنایا اور باقی مسجدوں کو بوچڑ خانہ۔ سر تاج رشی نے فرمایا تھا کہ اے محمد! خدا کی عبادت اور اپنے  
 نفس کی قربانی کر۔ کیونکہ یہی بے نسل دشمن ہے۔ تو لاڑ کملی والا جانوروں سے اتنا پیار کرتا تھا کہ  
 حسین کے پاس اک ہرنی اپنے بچے کھیلنے کو چھوڑ جاتی تھی۔ مولا ہارا چکر میں صحت ہے۔ شوار  
 پاربتی عزرائیل اور جبرائیل ہیں۔ جن کی پوجا سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ ٹینس راون کے دس سر  
 ظاہر کرتا ہے۔ گدھے کا سر ظاہر کرتا ہے کہ جب دماغ روشن نہ ہو تو انسان گدھا ہے۔ گردش کو اکب  
 سے مراد ناگوں کے تین چکر اور جسم کے چار چکر ہیں۔ ان کے رنگ بھی سات ہی ہیں اور یہی چودہ  
 طبق ہیں۔ پہلی سروں روح حیوانی کی ہے۔ پانچ اندر یا پانچ چکر ہیں۔ ٹخنہ، گھٹنہ اور موضع انگشت  
 پاؤقت التحیات دوسری سروں روح طبعی کی ہے اور تیسری روح نفسانی کی۔

۸..... امریکہ میں عورتوں چولہ پہنتی ہیں۔ لاڑ کملی والے نے بھی کہا ہے کہ  
 موٹھوں سے گھٹنوں تک پہنو اور یہی برقعہ ہے۔ جو پھل پک کر خود نہ گرے وہ من سلوی نہیں۔ تم  
 بھی پھول ہو۔ مگر تم کو پکنا نہیں آتا۔ تم بہار حسن میں خزاں نہ آنے دو۔ دوہم جنس پول ایک  
 دوسرے کو پھینک دیتے ہیں اور متضاد پول کھینچتے ہیں۔ زن و مرد بھی متضاد پول ہیں۔ ایک پول میں  
 شراب طہور اور کوثر کی کرنٹ ہے۔ دوسرے میں گاؤ کا دودھ اور سستی کا پھوارہ ہے۔ کرنٹ،  
 کرائسٹ اور محمد ایک ہیں۔ جیسے واٹر میلن تربوز اور ہندوانہ ایک ہیں۔ شو بھگوان بائیں کا مالک

ہے۔ بھارت کے ممبروں، معابد کو مالگدام کا کرہ بناؤ۔ مساوات اور حریت کی حوریں آئیں گی تو ست جگ آجائے گا۔ رامائن اور مہا بھارت صرف دو ناول ہیں۔ سکندر نامہ اور شاہنامہ بھی ناول ہی ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ راون کے ایک لاکھ پوت تھے اور سوا لاکھ ناری، درو پدی سات بھائیوں کی ناری تھی۔

۹..... امریکہ میں شراب بند ہے۔ ہماری ایک بہن عرب میں نماز پڑھتی تھی۔ پھر اس کا کپڑا لے کر اس کا باپ نماز پڑھتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک دن وہ دیر سے آیا تو آپ نے کچھ تحفے اور ایک اونٹ کجھور سے لاد کر بھیج دیا۔ مگر ہماری بہن نے واپس کر دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ایسی دیویوں نے اسلام یورپ تک پہنچایا تھا۔ وقت کی پابندی آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے۔ پرانک فلاسفی میں نصف چکر کی بجلی ہے جو زمین سے لے جاتی ہے۔ عمر نے اسی کو استعمال کر کے تیس سو میل تک پہنچایا تھا کہ پہاڑ کی آڑ لو۔ محبت کا دیوتا خدا ہے۔ شملہ میں مساوات ہے کہ ریت کی رقم (حق مہر) لے کر محبت کی دیوی شادی کراتی ہے۔ چاہتی ہے تو نال ورتن (طلاق) دے کر دوسرے سے ملتی ہے۔ شملہ میں سر پر رومال باندھتی ہیں اور یورپ میں ٹوپی۔ چونکہ دونوں کا ایک ہے۔ تم کھد کر ہیٹ مصطفائی استعمال کرو۔ پاؤں گرم رکھو، محبت کا دیوتا چوتھے آسمان پر ہے۔ جس پر لہو کی لالی ہے۔ آنکھ متوالی، ناگن لنگ رہے ہیں، کمر پتلی، صراحی دار گردن، لکڑی کی کنگھی مقوی شعر، انگلیا پستان محفوظ رکھتا ہے۔

۱۰..... عورتیں میدان میں لکھیں تو فتح ہو۔ جوان چارج رشی بنارس کالج میں سائنس کا پروفیسر تھا۔ وہ بنارس کو چھوڑ کر عربستان میں جا بسا۔ اس کے بیٹے کا پوتا محمد ایک بڑا بھاری جوگی ہوا ہے۔ خدا نے اس کو پیغمبر آخر الزمان کا خطاب دیا۔ اس نے عربی میں قرآن لکھ کر کرشن سمرتی کو ترمیم کر کے محمد سمرتی بنائی۔ چاند کا نشان چند رنبیوں کا ہے اور ہم نے محمد سمرتی کو ترمیم کر کے مساوات حریت اور انسانیت پر قائم کر دیا ہے۔ چونکہ سکسلا کو انگٹھی کھونے پر تکلیف ہوئی تھی۔ اس لئے ہم نے حق اطہر قائم کر دیا ہے۔ دو گواہ ضروری ہیں تاکہ اگر شادی کی انگٹھی گم ہو جائے تو وہ گواہی دے سکیں۔ (سین) آنحضرت ﷺ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوگی اور پیغمبر پاس ہیں جن میں کرائسٹ اور نائک بھی ہیں۔ حور و غلاماں سریلی آواز سے اس دنیا کے جلنے کی پارتھنا کر رہے ہیں۔ کنیش جی (بلی دیوتا) سمرتی دیوی (حوروں کی سرتاج) معنائی بہن کنگھی کے ست جگ کے پاس دائیں طرف ہیں۔ مگر ست جت جی مہاراج دونوں بہنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کل جگ کو کیوں آنے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم شرافت کی چال چل کر پھنس گئی ہیں۔ لوگوں نے حوروں کو

زندہ جلایا اور برقعہ اور ستری آگ میں راکھ کر دیا۔ کلجک کے سنتوں نے سنت محمدی کی خبر تک نہیں لینے دی۔ چین میں پاؤں چھونے کرادیئے۔ منونے عورتوں کے حق تلف کئے۔ جب تک گاؤ پرستی، بہمن پرستی اور مردہ جلانے کی رسم ہے۔ کن کرم اور سہما کے فرشتے ہندوستان میں نہیں آسکتے۔ صنعت و حرفت کا عروج غربا کے لئے چیزیں مہنگی کرتا ہے۔ اس لئے جھوپڑی میں رہو اور جھوپڑی ہی میں دستکاری کرو۔

..... آنے والی جنگ سے پہلے ہمارے مذہب میں داخل ہو کر امن پاؤ۔ جانور وقت مقررہ پر جوڑہ سے ملتا ہے۔ اپنی خوراک کے سوا دوسری نہیں کھاتا۔ مگر تم کیوں بہت نکاح کرتے ہو۔ جانور تین قسم کے ہیں۔ دو پائے، چار پائے اور بے پائے۔ کرائسٹ نے صرف پھلی سے معجزے دکھائے۔ عیسائیوں نے سارے جانور کھائے۔ سکھوں نے جھنکا کر لیا۔ مسلمان حلال کا لفظ لے کر جانور کھانے لگے۔ ہمارے نزدیک صرف پانی کا شکار جائز ہے۔ کیونکہ مقوی دماغ ہے۔ یہ جل توری ہے۔ خشکی کے جانوروں کا گوشت اندرونی دیتاؤں کو خشک کر دیتا ہے اور وحشی بنا دیتا ہے۔ نشہ سے نباتات بھی بیہوش ہو جاتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ صراط مستقیم بتاتے آئے تھے۔ مگر ابراہیمی مولویوں نے خبر نہ لی۔ آخر گوردواروں کے خاندان کو بتانا پڑا۔ جنہوں نے کہ باوہ سبزنگ کی تعریف کی تھی کہ مارا بوقت جنگ بکار آید سکھوں نے اسے بھنگ سمجھا۔ نشہ والے کی شفاعت نہ ہوگی۔ ہپ ہاتھ سے کنیش کر یا آسان ہے۔ جس میں انگلیاں ڈال کر پاخانہ نکال لیا جاتا ہے۔ انبا بھی کچھ نہیں۔ ستر ہاتھ سے ڈرائی ستر ہاتھ اور ڈرائی کلینک اچھے ہیں کہ ایک چھٹانک کی ڈوائی لے کر قولوں میں داخل کر کے قولن صاف کرو۔ کرشن بھگوان کے وقت اس کو ایک چھٹانک کی ہڑ ہڑ کہتے تھے۔ اس سے دل و دماغ صاف ہوتے ہیں۔ لوئی کہنی کا علاج مسلمان نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مختون ہیں اس لئے سنت محمد ہی بہتر ہے۔ قرآن میں ہے کہ سور اور مردہ جانور اور جو جانور پیر کے نام پر ذبح ہو حرام ہیں۔ گرد کے خاندان نے پیر پرستی کو معدوم کر دیا ہے۔ مچھلی کے سوا کوئی جانور نہ کھاؤ۔ پانی کی مردہ مچھلی بھی نہ کھاؤ۔

..... ۱۲ قوت رجولیت دماغ میں ہے۔ خدا میں بھی یہی طاقت ہے۔ تب ہی تو وہ تھکتا نہیں۔ دماغ اکال پرکھ کا ہیڈ آفس ہے۔ دجالوں نے لارڈ کملی والے کو قلم دوات نہ دی تو اس نے کہا چلے جاؤ۔ اکال پرکھ کے پیغام سنانے والا وحی کے حکم سے کہتا ہے۔ یہی دشمنو بھگوان کی مہما ہے اور یہی جبریل ہے۔ اے میری چٹی کالی بہنو جو کچھ مجھے ملا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جو کعبہ پرستی سے پیٹ پالتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اب محنت سے پیٹ پالنا ہوگا۔ چودہ سو



سال تک تمہارا بنا لحاظ کیا ہے۔ اب ہم کو "اینما تولوا قدم وجہ اللہ" کی فلاسفی سمجھ آگئی ہے۔ بدھ اچھا تھا مگر بعد میں بد معاشوں نے بت پرستی شروع کرادی۔ یورپ کا بچہ بچہ محبت کرتا ہے اور یہاں لڑتے ہیں۔ مگر یہ والدین کا قصور ہے کہ سوئمبر کی عمر میں شادی نہیں کرتے۔ ایسی شادی ہوگی تو خود بخود محبت ہو جائے گی۔ شو جٹا جسم کا اعلیٰ جزو ہے۔ کیونکہ لکشمی اور سورتی دیوی شو کے ہمراہ رہتی تھیں۔ جب شو جٹا نہ ہو تو حوریں بھی دنیا میں نہیں مل سکتیں۔

۱۳..... شو جٹا کی تصویر سکول میں لٹکاتے تھے کہ عبادت کرنے سے غم کی گنگا پاس نہ آئے گی۔ یورپ میں زنناری ایسا ہی کرتے ہیں۔ روس کے نجات دہندہ لینن کا دماغ برلن میں دیکھا گیا تو ۲۴ ہزار حصے نظر آئے۔ اگر وہ رگ پنڈ کی باتیں سیکھنا چاہیں تو ہمارے مذہب میں داخل ہوں۔ گنیش کی پوجا اس لئے زبردست ہے کہ جس سمندر میں گنیش سونڈ نکالے گا وہیں سورتی بھی کنول کے نیچے دکھائی دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنیش کر یا کرم سے کون صاف ہو جاتی ہے اور عقل قائم ہوتی ہے۔ کرشن کو دکھاتے ہیں کہ عورت کے کپڑے لے کر درخت پر چڑھ گیا تھا۔ ہم حیران ہیں اس وقت تو گمن کر اور سبھاؤ کی پوجا تھی۔ انسان پرستی کہاں سے آگئی۔ اب عورتوں نے یہ سارے راز کھول دیئے ہیں۔ بیضہ رحم کو دائیں طرف لگایا جائے تو بچہ پیدا ہوگا۔ بائیں ہو تو بچی، انجیکشن سے بدن کی طاقت ماری جاتی ہے۔ لمبے بال اوجھ بڑھاتے ہیں۔

۱۴..... کوئی شکار نہ مارو۔ کیونکہ قرآن میں اس کا تاوان لکھا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے وعظ کے لئے حج جاری کیا تھا۔ مگر اب ریل آگئی ہے اس لئے حج نہ کرو۔ روزہ سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ٹیکس میں ادا ہو جاتی ہے۔ مولویوں نے نواب بنائے ہیں۔ شیطان بھی بناتا ہے۔ مگر اس میں طاقت ہی کیا ہے جو حکومت برطانیہ کو ہماری اصلاح کے لئے خدا نے بھیجا ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ ہمیں حکومت خود اختیار دے دے۔ اول مسلمان آئے تو پوجاریوں کو مسلمان بنا کر گوشت کھلانا شروع کر دیا۔ مگر ان کو قرآن نظر نہ آیا کہ بوقت ضرورت گوشت جائز ہوتا ہے۔ جب کہ اس کے سوا جان نہ بچے، سرمد اور منصور کی روح پوچھتی ہے کہ تم کب مولویوں، پنڈتوں اور پادیوں کا خاتمہ کرو گے۔ جب تک یہ دجال ہیں صراط مستقیم نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے مذہب کا پیرو ہی سچا مسلمان اور کالی کملی والے کا تا بعد ار ہے۔ استری ہٹ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ جب سوئمبر کی رسم جاری ہوگی تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔

۱۵..... یہاں کی کنواریوں کو کھیلنے نہیں دیتے تو مکمل کیسے ہوں۔ دولت مند بننا ہے تو اپنے اخراجات کم کرو۔ مسٹر گلڈ سٹون درجہ سوم میں سفر کرتا تھا۔ ہون میں خوشبو اور گھی جلا یا جاتا

ہے۔ جس سے پلاسٹک کے جو مڑاؤ پکڑتے ہیں۔ مگر مردہ جلانے سے مردہ دلی پھیلتی ہے۔ جس کا تدارک ہون نہیں کر سکتا اور نجاتی کھی نے ہون کو اور بھی کمزور کر دیا ہے۔ ہندوستانی انگریزی حروف لیں تاکہ اتحاد ہو اگر مردہ کی ہڈیوں کی کھاد بنتی تو معلوم نہیں کس کس قسم کی نباتات پیدا ہوتی۔ مگر وہ تو سب گزگا کے سپرد ہوتی ہیں۔ غسل اور وضو سے گندے مواد نکل جاتے ہیں۔ پانی کی نسوار بھی مفید ہے۔ گردن کا مسح بھی مفید ہے۔ اب حوروں کے پیچھے لگو تب نجات ہوگی اور یہی راستہ صاف کر دیں گی۔ چنانچہ مصطفیٰ کمال پاشا نے نجات پائی۔ امان اللہ بھی نجات پاتا، اگر مولوی نہ ہوتے۔ ”انتھی ما قالته نبیۃ امرتسر“

۵۴..... تنقید

اس عورت نے تمام وہ مقاصد بیان کر دیئے ہیں کہ جن کی طرف آج کل مجددین وقت قدم بڑھاتے ہوئے اسلام کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اس نے تحریف کلام الہی میں وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کسی محرف کو نہیں سوجھا اور اسلام چھوڑنے میں وہ جرأت دکھائی ہے جو نہ امام حقیقی دکھا سکا ہے نہ کوئی کترین اور نہ بہائی کا کوئی گرو یا ان کا مرید مرزائی۔ مگر اس تعلیم کے دو مقام زیر بحث ہیں۔

اول..... یہ کہ تعداد از دواج اس کے ہاں جائز نہیں اور نہ ہی امام حقیقی اور کترین جائز سمجھتا ہے۔ مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ اسلام ان کے لئے بھی ہے کہ جن میں رجولیت کی طاقت مانوق الاحتمال ہوتی ہے۔ عرب میں جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیوی کے سوا ان کا گزارہ مشکل ہوتا ہے۔ طبی نکتہ نگاہ سے بھی تعداد از دواج ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب جوان آدمی ایک دفعہ فراغت پالے تو مدت حمل تک وہ مل نہیں سکتا۔ پھر بچہ پیدا ہوا تو والدہ کا دودھ چونکہ از بس ضروری ہے۔ اس لئے ڈیڑھ دو سال تک اور بھی اسے جواب مل گیا۔ ورنہ خلاف ورزی کی صورت میں نہ بیوی تندرست رہ سکتی ہے اور نہ بچہ صحت سے اپنی عمر حاصل کر سکتا ہے۔ انہی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور بہانہ بن جاتا ہے کہ لوجی پچھلے جنم میں اس نے گناہ کمائے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس کے والدین اس سے دشمنی کرتے رہتے ہیں۔ اب بتاؤ اس اصول کے مطابق جوان آدمی تین سال تک کیا کرے۔ جلد بالعمیرہ کرے تو جان جاتی ہے۔ رنڈی بازی کرے تو تباہی کا سامنا ہے۔ بند رہے تو کوماغ خراب ہو جاتا ہے اور جسم میں امتلا کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لئے حسب مقدور اس کو اجازت ہے کہ دوسری بیوی حاصل کرے۔ اس پر بھی اگر گزارہ نہیں ہو سکتا تو تیسری اور چوتھی بھی کرے۔ مگر زیادہ نہیں کیونکہ چار انتہاء ہے۔ اس

سے زیادہ انسان نہیں بڑھ سکتا۔ اب جو لوگ صرف ایک ہی نکاح کے خواہاں ہیں وہ یا تو خود ہی کمزور واقع ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ کے بعد کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یا ان کے ہاں استحصال خلاف وضع فطرت انسانی اور رنڈی بازی یا اغلام وغیرہ حرام نہیں یا انہوں نے طبی خیال سے اس پر غور نہیں کیا اور یا وہ تمام دنیا کو اپنے جیسا ہی کمزور خیال کرتے ہیں۔

دوم..... ”مردہ جلانا“ کترین اور امام حقیقی کی رائے ہے کہ مردہ جلایا جائے۔ لیکن اس عورت نے خوب عقلی طور پر مقابلہ کر دکھایا ہے۔ اس لئے جلانے کی حمایت والے سمجھ لیں کہ اس عورت نے ان کو چاروں شانے چت گرا دیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ خیال ہے کہ مردوں سے قبرستان پھیل کر زمین تنگ کر دیں گے تو یہ خیالی بات واقع کے خلاف ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ پرانے قبرستان پھر استعمال کئے جا رہے ہیں اور کوئی وقت پیش نہیں آتی۔ اگر اخراجات کا خیال ہے تو لکڑی تیل پر بھی بہت خرچ ہوتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ یہ لوگ دو پیسے کا دہی مل کر مردہ کو کتوں کے سپرد کر دیا کریں یا جنگل میں چھوڑ کر چلے آیا کریں تاکہ جنگلی درند پرند کھا کر ان کو دعائیں دیں یا خود قیمہ بنا کر کھالیا کریں تاکہ آبا و اجداد کا اثر جسم میں باقی رہے۔ بہر حال یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گنگا کی مچھلیوں کو مردوں سے کیوں نوازا جاتا ہے کہ وہ تو کچا گوشت کھائیں، یا ہڈیوں کا رس چوسیں اور مردوں کے بال بچے محروم رہیں۔

۵۵..... امام الدین

ہم ذیل میں استاذ امام الدین مرزائی کی نظم لکھتے ہیں۔ جس نے علامہ اقبال کے مقابلہ میں اپنے دیوان کا نام ”بانگ دہل بمقابلہ بانگ درا“ رکھا ہے۔ آپ گجرات شہر پنجاب میں میونسپلٹی کے ملازم ہیں۔ ہم پیشہ اصحاب کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہی ان کو اپنے ایک اجلاس کامل میں یہ ڈگریاں دے رکھی ہیں۔ بی۔ اے (بانی اور موجد ادب) ایل۔ ایل۔ ڈی (لاہ) یعنی اور لاٹانی ڈگری یافتہ) ایم۔ اے (موجد علم ادب) مطلب یہ ہے کہ وہ ملکی علم ادب سے ناواقف ہیں اور قادیانی علوم ادبیہ میں بڑے مشاق ثابت ہوئے ہیں اور جس طرح ان کا پیرومرشد مسیح قادیانی پنجاب نما غلط سلط اردو لکھتا تھا۔ اسی کا بروز آپ بھی ہیں۔ بقول شخصے معمولی کارگردار میونسپلٹی گجرات پنجاب میں مگر ظریف کانگرس نے ان کو ایسا آسمان پر چڑھایا ہے کہ کبھی کسی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کسی شاعر کا مقابلہ کرتے ہیں اور کبھی اپنی شیخیاں بگھارتے ہیں۔ عرضیکہ ان کا دیوان بانگ درا سے حجم میں کم نہیں۔ مگر جس طرح بانگ درا سے لطف آتا ہے اسی قدر اس بانگ دہل کے مطالعہ سے تفریح طبع کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کی

تفریح طبع کے لئے ہم یہاں پر ان کی وہ نظم درج کرتے ہیں جس میں وہ اپنے مشرب کے مطابق کسی وقت رسول رہ چکے ہیں۔ مگر وہ دوسری جون میں کلارک کا جنم لئے ہوئے ہیں۔ اس لئے جو شخص ان کو نبی یا رسول نہیں مانتا اسے ڈانٹ دکھلاتے ہیں اور پھر ہمہ اوست کا دورہ پڑتا ہے تو صدیق دیندار اور امام حقیقی کی طرح اپنا وجود ہر ایک چیز میں دکھاتے ہیں۔ نظم پڑھتے ہی بے ساختہ ہنسی آجاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چارلی چپلن اور ہیرولڈ لڈلو، سٹرکٹین نظریوں کے نبی ہیں۔ ورنہ کوئی سلیم الطبع انسان ان کو صحیح الدماغ بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔

### نظم

عالم نہیں رہا کہ میں فاضل نہیں رہا  
آتھر نہیں رہا کہ میں شاکل نہیں رہا  
تو نگر نہیں رہا کہ میں سائل نہیں رہا  
جنوں نہیں رہا کہ میں لیلل نہیں رہا  
ہرقل نہیں رہا کہ میں ہیکل نہیں رہا  
کاغذ نہیں رہا کہ میں پنسل نہیں رہا  
بیرسٹر نہیں رہا کہ میں موکل نہیں رہا  
ڈپٹی نہیں رہا کہ میں جنرل نہیں رہا  
بی اے نہیں رہا میں ایل ایل نہیں رہا  
جرنل نہیں رہا کہ میں کرنل نہیں رہا  
مقتل نہیں رہا کہ میں قاتل نہیں رہا  
تجزل نہیں رہا کہ معطل نہیں رہا  
ارسطو نہیں رہا کہ میں اجمل نہیں رہا  
کیوڈہ نہیں رہا کہ میں صندل نہیں رہا  
زیرہ نہیں رہا کہ میں فلفل نہیں رہا  
واٹر نہیں رہا کہ میں بوتل نہیں رہا  
انجن نہیں رہا کہ میں آئل نہیں رہا  
من مٹ نہیں رہا کہ میں بل جل نہیں رہا

دانا نہیں رہا کہ میں عاقل نہیں رہا  
جدہ نہیں رہا کہ میں واصل نہیں رہا  
حقیق نہیں رہا کہ میں ناقل نہیں رہا  
ناقہ نہیں رہا کہ میں محمل نہیں رہا  
ہے شکر کی جگہ کہ میں بز دل نہیں رہا  
حاکم نہیں رہا کہ میں شامل نہیں رہا  
منصف نہیں رہا کہ میں عادل نہیں رہا  
عہدہ وہ کون سا ہے جو حاصل نہیں رہا  
ممبر نہیں رہا کہ میں کونسل نہیں رہا  
تمغہ نہیں رہا کہ میں ماڈل نہیں رہا  
زخمی نہیں رہا کہ میں بسل نہیں رہا  
عرصہ ملازمت میں مسلسل نہیں رہا  
دارو نہیں رہا کہ میں درل نہیں رہا  
روغن نہیں رہا کہ میں جانفل نہیں رہا  
گوٹہ نہیں رہا کہ میں نریل نہیں رہا  
وسکی نہیں رہا کہ میں لیول نہیں رہا  
خنگلی نہیں رہا کہ میں جل تھل نہیں رہا  
سمندر نہیں رہا کہ میں ساحل نہیں رہا

بجلی نہیں رہا کہ میں بادل نہیں رہا  
 پیسبر نہیں رہا کہ میں مرسل نہیں رہا  
 پڑھتا نہیں رہا کہ میں غافل نہیں رہا  
 کتب نہیں رہا کہ رسائل نہیں رہا  
 گرتا نہیں رہا کہ میں سنبھل نہیں رہا  
 صادق نہیں رہا کہ میں باطل نہیں رہا  
 نمازی نہیں رہا کہ نوافل نہیں رہا  
 قرآن نہیں رہا کہ حائل نہیں رہا  
 میدان نہیں رہا کہ میں دنگل نہیں رہا  
 قصیدہ نہیں رہا کہ میں غزل نہیں رہا  
 امام دین نہیں رہا کہ میں فضل نہیں رہا

.....۵۶

ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس نظم میں کئی لفظوں کا ستیاناس کیا ہوا ہے اور عرضی اصول کو پامال کیا گیا ہے۔ مگر چونکہ استاذ امام الدین بروز مرزا ہیں۔ اس لئے ان کے لئے تشدید لفظ پر تشدد کرنا جائز ہے اور قطع و برید سے اپنی قطع و برید کا نشان دیا ہے۔ اس لئے اگر وہ صحیح اور صاف شستہ اردو لکھیں تو ان کو مرزائیت سے خارج ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مرزائی اس وقت نبی ہیں یا دوسرے مجدد جو اس وقت وحی پارہے ہیں۔ ان کا فرض اولین ہے کہ وہ امام الدین کی بیعت کریں۔ خاکسار اور کمترین بھی اس سے فیض اٹھائیں۔ کیونکہ وہ نبوت بازی اور تنسیخ بازی کے تمام کھیل کھیل چکا ہے۔ اس لئے ان کا فرض ہے کہ اس سے پوچھ کر مذہب جاری کریں۔ کیونکہ تجربہ کار غلطی نہیں کرتا۔ مشہور ہے کہ: ”سل المجرب ولا تسال الحکیم“ فلا سفر سے مشورہ نہ لو۔ لینا ہے تو کسی تجربہ کار سے لو۔ آئیے ہم آپ کو ایک گذشتہ امام الزمان کے کارہائے نمایاں سناتے ہیں کہ جس نے اسلامی حکومت کے چھکے چھڑا دیئے تھے اور جس کی امامت پورے اڑھائی سو سال تک چلتی رہی تھی۔ بہائی اور مرزائی مذہب کی مدت العمر ابھی اتنی لمبی نہیں ہوئی۔ اس لئے ابھی یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا وہ سچے ہیں یا مرزائی۔ کیونکہ جس طرح آیت تقول سے معیار صداقت ۲۳ سال پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح معیار بطلت ذیل کے سانحہ جانگزا سے اڑھائی سو سال تک قائم کیا جاسکتا ہے۔

۲۹..... حسن بن صباح اور اس کا سبق آموز

ویر بسنت قادیان مصنوعی بہشت.

.....۱ مولانا عبدالحلیم شرر اپنے رسالہ حسن بن صباح میں لکھتے ہیں کہ امام ماثق

المدین پانچویں صدی کے آغاز میں سرزمین فارس میں مرکز علم تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سے تین نامور ہوئے ہیں۔ اول حسن بن صباح، دوم نظام الملک، سوم عمر خیام۔ عمر خیام فلاسفر شاعر اور مہندس ہوا۔ جس کی یادگار میں آج یورپ کی ایک کلب ”عمر خیام کلب“ کے نام سے موسوم ہے۔ نظام الملک کا نام حسن تھا۔ اس نے دربار سلجوقی میں نظام الملک طوسی کا خطاب پایا تھا۔ اس کا قول تھا کہ حسن بن صباح ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے لئے فتنہ ثابت ہوگا۔ ان تینوں نے ایام طالب علمی میں باہم عہد کیا تھا کہ تحصیل علم کے بعد جو بھی برسر روزگار ہو۔ دوسرے کی امداد کرے۔ ان دنوں فرامش خانہ مذہب اسماعیلی کے پیروؤں نے شہر قیروان افریقہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ گو اس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت سے بیان کی جاتی ہے۔ مگر اس کا اجرا خلفائے فاطمیین کے ماتحت مصر میں شروع ہوا تھا۔ جب دار الخلافہ قاہرہ میں تبدیل ہوا تو فرامش خانہ بھی وہیں قائم کیا گیا۔ اس میں پہلے سات تعلیمیں تھیں۔ مگر اب دو اور بڑھا کر نو تعلیمیں کر دی گئیں۔ پہلی تعلیم یہ تھی کہ اگر اسلام کے متعلق وساوس پیدا کئے جائیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے متعلق جو دشواریاں پیش آئیں ان کو حسب ہدایت دور کیا جائے۔ دوسری تعلیم یہ تھی کہ امام الزمان اس وقت کون ہے؟ تیسری تعلیم میں عقائد اسماء علیہ بتائے جاتے تھے۔ مثلاً یہ کہ امام صرف سات تھے۔ جن میں سے افضل امام اسماعیل بن جعفر صادق تھے۔ چوتھی تعلیم یہ تھی کہ آج تک صرف سات نبی صاحب شریعت ہوئے ہیں جو اپنی نبوت کا اظہار کرتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خاموش نبی ہوتا تھا جو ان کی تائید و تصدیق کے لئے کمر بستہ رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ سام علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شمعون (بطرس) اور محمد ﷺ کے ساتھ حضرت علیؑ اور اسماعیل بن جعفر کے ساتھ محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادقؑ۔ پانچویں تعلیم یہ تھی کہ ہر ایک نبی کے لئے بارہ داعی اور نقیب ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک داعی الدعاة (مبلغین کا افسر) ہوتا ہے۔ گویہ بارہ فضیلت میں ان سے کم ہیں۔ مگر ان کی اطاعت سخت ضروری ہے۔ چھٹی تعلیم یہ تھی کہ شریعت ہمیشہ فلسفہ کے تابع ہوتی ہے۔ ساتویں تعلیم میں علم جعفر سکھایا جاتا تھا۔ جس میں حروف کی تاثیر اور اشارات اور باہمی طریق مکالمہ سکھایا جاتا تھا۔ آٹھویں میں انسانی حرکات و سکنات کا علم سکھایا جاتا تھا اور علم قیافہ سے بات معلوم کرنے کا طریق معلوم کرایا جاتا تھا اور علم جفر و قیافہ کو علم انبیاء میں بنیادی اصول بتایا جاتا تھا کہ انہی کے ذریعہ سے وہ نبوت کرتے تھے۔ نویں تعلیم میں یہ تھا کہ کسی پر

یقین نہ کرو۔ جرأت سے کام لو۔ بہر حال ان نقیبوں اور داعیوں نے مصر میں ایک بڑا لاج (فرامش خانہ) قائم کیا ہوا تھا اور کئی ایک اس میں تعلیم پا کر چپکے چپکے حکومت عباسیہ کے خلاف اپنے امام بنی اسماعیل کا حق خلافت ذہن نشین کر رہے تھے۔ حسن بن صباح بھی ان ہی ایام میں یعنی چوتھی صدی کے ابتداء میں پیدا ہو چکا تھا اور مضافات خراسان میں شہر طوس اس کی جائے پیدائش تھی۔ باپ غریب آدمی عیش پرست تھا اور صباح حمیری عربی النسل کی طرف خود بھی منسوب تھا اور اپنے بیٹے حسن کو بھی منسوب کیا تھا۔

۲..... حسن خود کہتا ہے کہ میں اثنا عشری ہوں اور سات برس کی عمر میں اصلاح مذہبی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بقول شخصے والد اہل سنت تھا اور استاد امام موثق الدین بھی اہل سنت ہی تھے۔ مگر یہ شعیہ ہی رہا اور جب روزگار کی تلاش میں نکلا تو اپنے کلاس فیلو حسن نظام الملک کو وزیر سلطنت پایا تو اس کے پاس جا کر وہ بھی وزیر بن گیا اور دل میں ٹھان لیا کہ اپنے حسن کو وزارت سے برطرف کرادے گا۔ اتفاقاً ایک روز سلطان حسن شاہ (شاہ روم و مصر و خراسان) نے نظام الملک کو حکم دیا کہ تمام ملک کی مردم شماری معہ آمد و خرچ کے تیار کرے تو اس نے کہا کہ کم از کم دو سال میں تیار ہوگی۔ حسن بن صباح حسد کے مارے آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ میں صرف چالیس یوم میں تیار کر سکتا ہوں۔ مگر جب اس نے رپورٹ تیار کی اور سلطان نے تفصیلات پوچھیں تو لاجواب ہو گیا تو اسی وقت حسن نظام الملک نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ میں نے اسی وجہ سے دو سال طلب کئے تھے تو سلطان نے اسی وقت حسن بن صباح کو دربار سے نکال دیا۔

۳..... اس وقت زمانہ کی حالت یہ تھی کہ جب سے بنی امیہ برسر اقتدار ہوئے تھے۔ تب سے ہی بنی فاطمہ اور بنی عباس ملک کر اندر ہی اندر رعایا سے اپنی بیعت لیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب سب رعایا بگڑ گئی تو بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان الحمار کے عہد میں خراسان سے لے کر شام تک یکدم بغاوت ہو گئی اور بنی عباس نے اپنا پہلا خلیفہ سفاح قائم کر لیا۔ اب چونکہ بنی فاطمہ کو اپنی کوشش کا کچھ حصہ نہ ملا تو انہوں بدستور سابق اب بنی عباس کے خلاف پوشیدہ بیعت لینی شروع کر دی۔ مگر غلطی یہ ہوئی کہ بنی فاطمہ علی الگ الگ پارٹیاں اپنے اپنے امام کے لئے بیعت لیتی تھیں۔ جس کی وجہ سے بنی عباس کو موقعہ بموقعہ یہ گنجائش ملتی رہی کہ بنی فاطمہ کے فتنہ کو تیغ آبدار سے فرو کرتے رہیں۔ مگر تاہم جابجا بنی عباس کے خلاف مجاہدانہ بیعت کی پوشیدہ پارٹیاں کام کر رہی تھیں۔ جن میں سے اسماعیلی پارٹی کی تبلیغ سب سے بڑھ کر باقاعدہ اور کامل تنظیم کے ساتھ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور حسن بن صباح چونکہ

سلطان سے ناراض ہو چکا تھا۔ اس لئے جب شام سے چل کر اصفہان پہنچا اور ابو الفضل مجسریٹ کے ہاں مہمان ہوا تو وقتاً فوقتاً یوں کہنے لگا کہ سچے دوست دو تین ہی مل جاویں تو سلو جتی سلطان کا تہس نہس نہیں کر دوں۔ مگر ابو الفضل اسے دیوانہ کی بڑ سمجھتا تھا۔ کیونکہ شام سے کاشغر تک کی حکومت کا اکھاڑ دینا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ مگر اس نے وظیفہ بدستور جاری رکھا۔ جس سے ابو الفضل کو خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ دیوانہ ہے۔ اس لئے اس کا باقاعدہ علاج دماغی شروع کر دیا۔ اس پر وہ تنگ آ کر وہاں سے چل دیا۔ آوارہ گردی کرتے ہوئے ایک اسماعیلی نقیب سے آشنائی ہو گئی۔ جس کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے اندر ہی اندر بہت متاثر ہو گیا۔ مگر بظاہر اس کی ایک نہ مانی۔ اس کے بعد کسی جگہ جا کر ایسا بیمار ہوا کہ خدا سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن دل میں یہ حسرت رہی کہ اگر کوئی نقیب مل جاتا تو مذہب اسماعیلی میں داخل ہو کر مسلمان تو مارتا۔ لیکن خدا کی قدرت کچھ دن بعد تندرست ہو گیا اور نقباء کی تلاش میں پھرنے لگا۔ آخر اسے ایک نقیب ابو نجم صہباج ملا۔ جس سے اس نے از سر نو تبادلہ خیالات کیا اور مذہب اسماعیلیہ کا معتقد ہو گیا۔ اس کے بعد مومن داعی سے ملا۔ جس کو داعی عراق عبدالملک بن عطاء نے باقاعدہ سند دعوت اور اجازت دعوت بخشی تھی اور اس سے متاثر ہو کر داخل مذہب اسماعیلیہ ہو گیا تو اس نے خلیفہ مصر المستنصر باللہ کے پاس شرف یابی کے لئے بھیج دیا۔ جب وہاں پہنچا۔ چونکہ اس کی شہرت پہلے ہی ہو چکی تھی تو خلیفہ نے کمال احترام کے ساتھ داخل دربار کیا۔ جس پر اراکین سلطنت کو حسد پیدا ہوا اور اس کے نکالنے کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ بدر رحمانی سرعسکر نے ایک دن موقع پا کر اسے زبردستی سے ایک جہاز پر سوار کر دیا جو افریقہ جا رہا تھا اور جس میں فرنگی سوار تھے۔ راستہ میں طوفان آ گیا مسافر پریشان ہو گئے۔ تو یہ کمال تقدس کے ساتھ کہنے لگا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ جہاز سلامت رہے گا۔ (غالبا اس خیال سے کہ مر گئے تو کون پوچھے گا بیخ گئے تو مفت کی قدوسیت حاصل ہوگی) اتفاقاً طوفان ہٹ گیا اور مسافر اس کے معتقد ہو کر اسماعیلی بن گئے اور جب ایک عیسائی ملک میں جہاز آ لگا تو وہاں کے حاکم عیسائی نے ان کو راہب تصور کر کے توامع کی۔ پھر جہاز ساحل شام پر آ لگا۔ تو حسن اترتے ہی ایران کو روانہ ہو گیا۔ راستہ میں حلب، اصفہان، خراسان، یزد، کرمان اور ایشیائے کوچک کے تمام مشہور شہروں میں ہوتا ہوا اور مذہب اسماعیلی کی نشر و اشاعت کرتا ہوا پھر واپس اصفہان آ پہنچا اور وہاں چار ماہ ٹھہر کر خوزستان میں تین ماہ ٹھہرا۔ پھر وہاں سے نکل کر دامغان آ کر تین سال ٹھہرا اور وہاں سے نکل کر اپنے ہم خیال پیدا کرتا ہوا قلعہ اتنونت میں آ پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔



جہاں بعد میں قلعہ التمونٹ بنایا گیا تھا۔ اسی سلسلہ کے نشیب میں شکار کھیلتے ہوئے اپنا باز چھوڑا تو اس نے شکار مار کر اپنی فروگاہ عین وہ میدان بنایا جس میں کہ بعد میں قلعہ التمونٹ تھا۔ بادشاہ اسے تلاش کرتے کرتے جب اپنے باز کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک بڑا لمبا جوڑا میدان خوشنما منظر کے ساتھ واقع ہے۔ اسے بہت ہی پسند خاطر آیا۔ یہاں تک کہ اس نے چند روز بعد اپنی سیرگاہ کے لئے ایک شاہی عمارت بصورت قلعہ کھڑی کر دی اور اس کا نام ”آلہ موت“ رکھا۔ کیونکہ ان کی زبان میں باز کو بلانے کی آواز یہی لفظ تھا۔ جس سے اس نے اپنے باز کو واپس بلایا تھا۔ مگر بعد میں بگڑ کر التمونٹ بن گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کا نام قلعہ طالقان پڑ گیا تھا۔ جو شہر قزوین کے صوبہ رودبار میں واقع تھا اور ایک اسماعیلی حاکم مہدی نامی اس میں رہتا تھا۔ جس سے ایک دن حسن نے کہا کہ ہم گوشہ نشینوں کے لئے یہ جگہ بہت مناسب ہے۔ اگر آپ تین ہزار روپیہ لے کر مجھے اتنی جگہ دے دیں کہ جس پر ایک چرسہ آسکتا ہو تو آپ کی کمال مہربانی ہوگی۔ مہدی نے مان لیا اور بیچ ہو چکی۔ مگر جب جگہ کا قبضہ ہونے لگا تو حسن نے چرسہ یعنی گائے کی پوری ایک کھال کی مہین مہین دھجیاں نکال کر ایک دوسرے سے جوڑ کر ان کو اتنا لمبا کیا کہ قلعہ کے تمام احاطہ کو محیط ہو گئیں۔ جس کا یہ مطلب نکلا کہ اس نے تین ہزار روپیہ دے کر سارا قلعہ خرید کر لیا ہے۔ اب مہدی مجبور تھا حسن کے مریدوں سے ڈر کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حسن پہلے پہل وہاں مسافرانہ زندگی بسر کرتے ہوئے شیخ اسماعیلیہ مشہور ہو چکا تھا اور اپنے تقدس کا زور یہاں تک بڑھایا تھا کہ مہدی بھی مرید ہو گیا تھا۔ آخر الامرانہ دون پر وہ مریدوں سے مل کر قلعہ لینے کی یوں ٹھانی کہ ایک دن صبح کو مہدی سے کہنے لگا کہ قلعہ ہمارے قبضہ میں کر دو۔ اس نے نہ مانا تو حسن نے اپنے مریدوں سے حملہ کرادیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے زبردستی پکڑ کر معہ سامان کے دامغان پہنچا دیا۔ بہر کیف اب حسن نے فراموش خانہ اپنے قبضہ میں کر لیا اور خلیفہ مصر سے بھی برائے نام ہی متفق تھا۔ ورنہ وہ خود امام بن گیا اور اصول مذہب نوکی بجائے پھر سات ہی رکھے اور مریدوں کی کثرت سے آس پاس کے بادشاہ ڈر کھا گئے۔ کیونکہ اس کے مریدوں نے جا بجا اپنے قلعے بنا لئے تھے اور حسن نے شدت سے کام لینا شروع کر دیا تھا اور قلعہ کے گرد باغات اور عمدہ عمدہ خوشنما عمارات، تالاب اور کوشکیں تیار کرائی تھیں۔

۵..... ۳۸۵ھ میں جب ملک شاہ اور نظام الملک دونوں نہادند میں تھے اور بغداد جانے کو تھے اور قلعہ طالقان پر محاصرہ کے لئے کافی فوجیں بھیج چکے تھے۔ جن کی وجہ سے قلعہ میں قحط پڑ گیا تھا اور لوگ تنگ آ گئے تھے تو حسن نے اپنے ایک نوخیز سرفردائی کو نظام الملک کے

مارڈالنے کے لئے بھیج دیا۔ چنانچہ وہ فوراً مستغیث کی صورت میں روتا چلاتا ہوا نظام الملک کے پاس آ حاضر ہوا۔ جب کہ وہ رمضان شریف کا روزہ افطار کر کے حرم سرا کو جا رہا تھا۔ لڑکے نے دامن پکڑ کر لمبی کہانی شروع کر دی اور جب نظام الملک کو ہمہ تن متوجہ پایا تو اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دی۔ جس سے وہ وہیں مر گیا۔ سلطان کو بڑا غم ہوا۔ مگر اتفاقاً ایک ماہ بعد وہ بھی اپنی موت سے یا بقول راوی کسی سرفدائی کے زہر پلانے سے مر گیا۔ اس لئے فوج میں واپس آ گئیں اور حسن آزادی سے ایسے سرفدائی تیار کرنے لگا۔ جس کا نمونہ قائم ہو چکا تھا۔ جس سے تمام حکمران تھرا گئے اور یہ سلسلہ اس کے جانشینوں میں قائم رہا۔

۶..... قصر التہنوت میں وہ تیس سال حکمران رہا۔ مگر اپنا تقدس یہاں تک جمایا کہ اس قصر سے تیس سال کے عرصہ میں صرف دو دفعہ نیچے اتر اٹھا۔ ورنہ وہ تھا یا چلہ کشی اور تقدس کے مواعظ پر تاثیر یا سلسلہ تصانیف تھا۔ جن کے ذریعہ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں استدلال قائم کیا کرتا تھا۔ (عالمنا مسیح قادیانی نے بھی یہ دو سبق اسی سے حاصل کئے تھے) تقدس جمانے کی خاطر یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ شریعت کی حکم عدولی کی سزا صرف قتل ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنے دو بیٹوں پر یہی حکم نافذ کر دیا تھا۔ وہ یوں کہ اس نے بیٹے حسن حرام کو اس لئے قتل کیا تھا کہ اس نے شراب پی لی تھی اور دوسرے بیٹے حسین کو اس لئے قصاص میں مار ڈالا تھا کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بجائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ سہم گئے کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہ پڑتی تھی۔

۷..... اپنے قلعہ کے ارد گرد باغات میں ملک کی خوبصورت عورتیں اور چھوٹے لڑکے جمع کر لئے تھے۔ جو ہجرت کر کے وہیں رہا کرتے تھے اور تمام آرائشی سامان نہریں شہد اور دودھ کی نشست گاہیں محلات البہہ فاخرہ زیورات اشجار و اثمار اور پر فضا میدان جسے دیکھ کر ہر شخص حیران و ششدر رہ جاتا تھا، بڑے حسن انتظام سے تیار کئے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مرید تین گروہوں میں تقسیم کئے۔ داعی پوشیدہ تبلیغ کر کے اپنا ہم خیال پیدا کرنے والے رفیق مجتہد مذہب جو مناسب موقع پر مسائل گھڑ لیا کرتے تھے۔ فدائی جو مخالفین کو قتل کرنے میں تبدیل مذہب دھوکا فریب اور تمام بے ایمانی کے وسائل اختیار کرنے میں درلغ نہ کرتے تھے تاکہ ان کو یہ جنت حاصل ہو اور حشیش (بھنگ) کے پودے اس جنت میں لگائے گئے تھے جن کو اس علاقہ میں پہلے پہل حسن نے ہی استعمال کرانا شروع کیا تھا۔ علاقہ رودبار طالقان کے نوجوان سرفدائی یوں بنائے جاتے تھے کہ حسن ان کو اپنے پاس کچھ عرصہ رکھ کر اس صفائی سے بھنگ پلا دیتا

کہ ان کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا۔ جب بیہوش ہو جاتے تو باغات میں پہنچا کر ”حور و غلاماں“ کے سپرد کئے جاتے جو ان کو اپنی گود میں لے کر بلائیں لیتیں۔ جب ہوش آتا تو نئی دنیا دیکھ کر محو حیرت ہو جاتے اور حور و غلاماں کو اپنے زیر تصرف پاتے اور جو چاہتے کرتے۔ بلکہ وہ اپنی دلربائی کے کرشموں سے وہ سین پیدا کرتیں جن کی نظیر کسی چمکے میں بھی نہیں ملتی تھی۔ چھ سات روز میں باغات کے چھ سات طبقات کی سیر کے بعد وہ بھی بھنگ سے بیہوش کر کے پھر حسن کی خدمت میں واپس بھیج دیتی تھیں۔ اب جو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر کی صحبت میں شرف قدمی حاصل کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ دیکھ چکے ہیں۔ سب خواب و خیال ہو گیا ہے تو پیر کا حکم ہوتا ہے کہ جس جنت کی سیر کر چکے ہو۔ اگر اس کی خواہش ہے تو جب تک کوئی سرفدایا نہ کام نہ کرو گے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نو جوان بڑھ بڑھ کر قتل مخالفین کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے کر وہ کام کر گزرتے جو مافوق الواسعت تصور ہوتے تھے۔ چنانچہ جب سلطان سخر حملہ آور ہوا تو رات کو کسی فدائی کی وساطت سے سخر کے سر ہانے ایک خنجر رکھوا دیا۔ صبح اٹھتے ہی سلطان سخر خنجر دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اسی وقت حسن کا خط بھی پہنچ گیا کہ اگر میں چاہتا تو اسی خنجر سے تمہارا سر کٹا دیتا۔ مگر میں نے مصلحت نہ سمجھی کہ پہلے ہی یہ کام شروع کیا جائے۔ سلطان سخر نے اس سے متاثر ہو کر صلح کر لی اور واپس چلا گیا۔ لیکن شرائط صلح میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ حسن اپنی ترقی نہ کرے۔ نہ باغ بنائے اور نہ قلعے تیار کرانے اور نہ ہی سرفدائی بھرتی کرے اور نہ مناجیق و اسلحہ کی طاقت بڑھائے۔ اس کے معاوضہ میں شہرق کی آمدنی شیخ الجبار (حسن بن صباح) کو دی گئی اور اس نے بڑی خوشی سے یہ شرط منظور کر لی۔ کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی اپنی تبلیغ باطن اور اندرون پردہ کے حاتم ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے ان کا مذہبی نام مسلمانوں کے ہاں باطنی قرار پا چکا تھا۔ کبھی ان کو شیشی اسماعیلی یا قراملی بھی کہتے تھے۔ معر اور ہندوستان تک کے شیعہ اسماعیلی تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ حق خلافت جعفر صادق کے بعد حضرت اسماعیل کا تھا۔ پھر آپ کی نسل میں مخفی طور پر امام مہدی تک پہنچ گئی اور جب دعوت فاطمین عہد عباسیہ میں الگ ہو کر شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے ایک داعی نے جس کا لقب قراملی تھا۔ شیخ الجبار کی طرح الگ مذہب گھڑ لیا تھا۔ جس میں محرمات کی اجازت تھی۔ اس نے بغاوت کر کے عمان میں اپنا دار الخلافہ مقرر کر لیا تھا۔ جو خلفائے مصر فاطمین اور خلفائے بغداد عباسین کے زیر اثر نہ تھا۔ اس کے تابع دار قراملی کہلاتے تھے اور انہوں نے یہاں تک زور پکڑا تھا کہ شرک و بدعت مٹانے کی خاطر بیت اللہ شریف تک کو گرانے کے لئے تیار ہو گئے تھے جو ان سے نہ ہو۔ مگر حجر اسود اٹھا کر عمان کو لے گئے تھے۔ جس کو مسلمانوں نے بیس سال بعد پھر حاصل کیا تھا۔ شیخ الجبار

نے دیکھا کہ ظاہری بغاوت میں آخر مغلوب ہونا پڑتا ہے۔ اس لئے اس نے درپردہ بغاوت شروع کر دی۔ جو شیش کے ذریعہ سے پھیلی تھی۔ اس لئے اس فرقے کا نام شیشی اور باطنی بھی مشہور ہو گیا۔ ملک شاہ نے ایک دفعہ سفارت بھیجی جس نے تمام حالات دریافت کر کے پیش کیا تھا کہ یہ قلعہ سلطان کے قبضہ میں کر دیا جائے۔ مگر اس نے اپنا رعب یوں دکھایا کہ ایک مرید کو حکم کیا تو اس نے فوراً خودکشی کر لی۔ دوسرا برج پر تھا اسے حکم دیا تو فوراً نیچے گر کر مر گیا۔ کیونکہ وہ منتظر رہتے تھے کہ حکم ہو تو مر کر جنت حاصل کیا جائے۔ اب سفارت خوفزدہ ہو کر واپس چلی گئی اور اس نے انتظام کرنا شروع کر دیا۔ ترکستان سے مصر تک اپنے تمام داعی بھیج کر سرفدائی پیدا کر لئے اور مسلمانوں نے فتوئے تکفیر جاری کر کے سرفدائیوں کا قتل ضروری سمجھا۔ مگر وہ بھی تیز ہو گئے اور شام میں بھی جم گئے۔ ان دنوں صلیبی لڑائیاں وہیں ہوتی تھیں۔ والئی حلب رضوان نامی اسماعیلی تھا۔ اس نے عیسائیوں سے مل کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مگر جب وہ مر گیا تو پھر مسلمانوں نے اسماعیلیوں کو بیدار بننے قتل کیا اور انہوں نے بغداد میں عین دربار کے روبرو والئی خراسان کو یہ سمجھ کر مار ڈالا کہ وہ اتا تک والئی دمشق ہے۔ اب تمام والیان ملک پر ہیبت بیٹھ گئی اور اپنے سنگین قلعے خود ہی مسار کر دیئے کہ کہیں شیخ الجبال کو نہ دینے پڑیں۔ آخر ۲۵ جمادی الثانی ۵۶۸ھ میں شیخ الجبار مر گیا اور وصیت کی کہ کیا بزرگ داعی الدعاة (گرینڈ ماسٹر) ہو کر سب پر حاکم ہو۔ دیدار علی نظام الملک ہو اور قصرانی سپہ سالار ہو۔ مگر سلطان سنجر کے بیٹے محمود نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اسماعیلیوں کو سخت اذیت پہنچائی۔ لیکن جب محمود مر گیا تو پھر کیا بزرگ نے قلعہ واپس لے لیا اور قزوین تک حکومت شیشی کا احاطہ وسیع ہو گیا۔

۸..... کیا بزرگ کے عہد خلافت میں فدائیوں نے قتل عام کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے سرفدائی بھیج کر ابو ہاشم گیلانی کو گیلان سے گرفتار کر کے مروا ڈالا۔ کیونکہ اس نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا اور جب اسے روکا گیا تو سختی سے جواب دیا تھا۔

دوم..... والئی موصل کو سرفدائیوں نے مار ڈالا۔ جن میں سے سات گرفتار ہو کر مارے گئے اور ایک بچ نکلا۔ جب اس کی والدہ نے پہلے سنا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ اس لئے بہت خوش تھی اور کپڑے بدل کر آراستہ ہوئی تھی۔ بعد میں جب سنا کہ وہ بچ گیا ہے تو سخت غمزدہ ہو کر کپڑے پھاڑ ڈالے کہ ہائے اسے جنت نصیب نہ ہوئی۔

سوم..... مصر کے خلیفہ ہشتم فاطمی کو بھی مار ڈالا۔ کیونکہ ان کے نزدیک مصر کی حکومت نزار کا حق تھا۔ جس سے فاطمیوں نے حکومت چھین لی تھی۔

چہارم..... آٹھ سال کے بعد خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کو بغداد میں سر بازار بری طرح مار ڈالا اور کان کاٹ کر لاش باہر پھینک دی۔

پنجم..... دولت شاہ والی اصفہان کو مار ڈالا۔

ششم..... آقا مستنصر باللہ حاکم مراٹھ کو بھی شہید کر ڈالا۔

ہفتم..... ابوالقاسم حسن مفتی قزوین کو بھی نہ چھوڑا۔ غرضیکہ ہر طبقہ کے لوگوں میں یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ آج نہیں تو کل ضرور مارے جائیں گے اور سرفدائیوں نے بھیس بدل بدل کر تمام ایشیاء کو چھان مارا۔ بلکہ یورپ میں بھی داخل ہو گئے تھے اور حکومت کی طرف سے ان کے پسماندگان کو جاگیریں دی جاتی تھیں۔ غلام ہوتے تو آزاد کئے جاتے اور مر جاتے تو سیدھی جنت نما دوزخ کی راہ مل جاتی۔

۹..... کیا بزرگ کے بعد اس کا بیٹا محمد خلیفہ ہوا۔ جس کے عہد میں الراشد باللہ خلیفہ بغداد اپنے باپ مستنصر باللہ کا انتقام لینے کو فوج لے کر روانہ ہوا تو راستہ میں ہی اس کو خوابگاہ میں سرفدائیوں نے مار ڈالا۔ جب محمد کو یہ خبر پہنچی تو ایک ہفتہ تک چراغاں کیا اور خوشیاں منائیں۔ مگر چونکہ وہ علمی قابلیت نہ رکھتا تھا اس لئے سرفدائی اس کے گرویدہ نہ ہوئے۔ بلکہ اس کے بیٹے حسن کی طرف راغب ہو گئے اور جب اسے اس اندرونی سازش کا سراغ ملا تو اس نے تمام ایسے ۲۵ سرفدائیوں کے سر کٹوا دیئے۔ بیٹے نے ڈر کر صاف کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی سروکار نہ تھا یہ خود دہریہ تھے۔ مگر در پردہ اس نے پھر اپنے ہم خیال پیدا کر لئے۔ کیونکہ اس کے باپ سے قلعوں کا انتظام نہ ہو سکتا تھا۔ جو خراسان سے بحر خزر اور آذربایجان تک پھر وہاں سے جنوب کو عراق اور بحتان تک اور وہاں سے سواحل روم تک پہاڑی سلسلوں میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور ابھی ان کوششوں میں مصروف ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا۔

۱۰..... اب حسن خلیفہ سوم نے تخت نشین ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ مجھے امام غائب نے خط لکھا ہے کہ سرفدائی آ کر سن جائیں۔ ۲۷ رمضان کو سب فدائی جمع ہو گئے تو اس نے منبر پر کھڑے ہو کر وہ خط سنایا کہ امام مہدی (امام غائب) کہتے ہیں کہ حسن ہمارا داعی اور نقیب ہے۔ اس لئے اس کی اطاعت واجب ہے اور جس امر کا حکم دے اسے مانو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ اس کا کلام وحی الہی ہے اور وہ ملہم بالغیب ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جو میری اطاعت کریں وہ مبارک اور قدوسی ہیں اور ان سے قیود شرعی اٹھادیئے گئے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت روزے تڑوائے گئے اور بڑی دعوت قائم کی گئی۔ جس میں شراب بھی پی گئی اور اسی آزادی کے

جلسہ کے بعد مسلمانوں میں اس فرقہ باطنیہ کا نام فرقہ ملاحہ (بے دین) قرار پایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ حسن بن صباح جب خلیفہ فاطمی مصر کو ملا تھا تو اس خلیفہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا نزار خلیفہ ہوگا۔ مگر نزار کو خلافت نصیب نہ ہوئی۔ لیکن اس کا ایک چھوٹا بیٹا قلعہ اتمونت میں لایا گیا اور درپردہ پرورش پا کر جوان ہو گیا۔ شادی ہوئی تو اس کے ہاں ایک بیٹا حسن نامی پیدا ہوا اور اسی دن محمد بن کیا کے ہاں بھی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو حسن سے تبدیل کیا گیا تھا۔ اب میں وہی حسن ہوں جو محمد کے گھرنزار کی اولاد سے پرورش پا کر غلندہ وقت بنا ہوں۔ اس طرح اس نے مصر کی خلافت کا بھی نام مٹا دیا تھا اور چار سال بعد اپنے ساتھ۔ کے ہاتھ سے مارا بھی گیا اور سید بنا کام نہ آیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ثانی تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔

..... محمد ثانی اپنے باپ سے کسی بڑھ کر فلا سفر اور عالم شریعت تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے باپ کے قاتل مرواڈا لے اور اسی کے عہد میں امام فخر الدین رازی شہر رے میں وعظ کرتے تھے اور بدنام ہو گئے تھے کہ وہ بھی اسماعیلی ہیں۔ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لئے آپ نے ایک دفعہ وعظ میں ملاحہ کے خلاف سخت لفظ کہہ دیئے۔ مگر جب محمد ثانی کو خبر ملی تو اس نے اپنا ایک سرفدائی بھیجا کہ آپ کو سیدھا کرے۔ وہ سات ماہ تک شاگرد بن کر زانوے ادب خم کر کے معتقد بنا رہا۔ آخر ایک دن موقعہ پا کر آپ کے حجرہ میں سینہ پر بیٹھ گیا اور خنجر سینہ پر رکھ دیا۔ آپ نے کہا آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ تم ہمیں برا کہنا چھوڑ دو تو آپ نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں ملاحہ کے متعلق کوئی لفظ نہ کہوں گا تو وہ سینہ پر سے اتر کر کہنے لگا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم پر رحم کھایا ہے۔ بلکہ مجھے قتل کا حکم نہ تھا ورنہ آپ ضرور مارے جاتے۔ یہ کہہ کر اس نے تین قیمتی تھان اور تین سواشر فیاں نذر کیں اور واپس چلا گیا اور کہہ گیا کہ یہ تنخواہ آپ کو سالانہ ملتی رہے گی۔ زبان بندی کے متعلق امام سے لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میں ملاحہ کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا۔ کیونکہ ان کے ارادے بہت تیز ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد ثانی نے آپ کو قلعہ میں رہنے کے لئے بلا بھیجا تھا مگر آپ نے معذرت پیش کر کے جان چھڑائی تھی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے خلافت فاطمیہ کا خاتمہ کر کے حلب میں تھا کہ چار فدائی اس پر آ پڑے۔ مگر وہ بچ نکلا اور شہر مسبات کا محاصرہ چھوڑ کر شام سے روانہ ہو گیا تو انہوں نے اپنا سردار رشید الدین سان بنالیا۔ جن نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ایک کتاب پیش کر کے کہنے لگا کہ میں بروزی خدا ہوں۔ پھر اس نے اپنا ایک سفیر بیت المقدس بھیجا۔ مگر عیسائیوں نے اسے مار ڈالا اور قاتل بھی نہ دیا۔ اس لئے سرفدائیوں نے عیسائیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کثیراؤ شہر طائر میں مارا گیا۔ فریڈرک شہر میلان کا

محاصرہ کر رہا تھا تو وہ بھی وہیں قتل کیا گیا۔ کسٹراؤ کے قتل کے بعد دو سال جب شانین فلسطین کا سفر کرتا ہوا شہر مسبات میں پہنچا تو سان کے ہاں مہمان ہوا۔ اس نے مرعوب کرنے کے لئے ایک برج دکھایا۔ جس کے ہر زینہ پر دو دو سپاہی کھڑے تھے۔ دو کو اشارہ کیا فوراً گر کر مر گئے۔ سان نے کہا آیا ایسی فرمانبرداری آپ کے پاس ہے۔ کہا میں کجا؟ کسی کے پاس نہیں۔ پھر سان نے کہا حکم دوں تو سب گر کر مر جائیں۔ بتاؤ کوئی دشمن ہے تو اسے مروا ڈالوں۔

۱۲..... محمد ثانی کے بیٹے حسن ثالث نے اس کو زہر دلوادیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ مگر یہ مسلمانوں کا ہم عقیدہ تھا۔ حسن بن صباح کی تعلیم کی کتابیں جلا دیں۔ مسجدیں آباد کیں اور حج کو گیا اور مسلمانوں نے غنیمت سمجھ کر اس کی بڑی عزت کی۔ مگر اس سے ڈرتے بھی تھے۔ ڈیڑھ سال تک اسلامی ممالک میں پھرتا رہا اور مسلمانوں سے اتفاق پیدا کیا۔ مگر سرفدائی برخلاف ہو گئے اور زہر سے مار ڈالا گیا۔

۱۳..... حسن ثالث کا بیٹا محمد ثالث علاؤ الدین ابھی نو برس ہی کا تھا کہ تخت نشین ہوا اور اپنے باپ کے قاتلوں کو مار ڈالا اور باطنی مذہب پھر زور پکڑ گیا۔ کیونکہ وہ آغاز حکومت میں ہی بیمار ہو گیا تھا۔ فصد لیا گیا تو اس کا دماغ اور کمزور ہو گیا کہ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے اراکین سلطنت خود ہی چپکے چپکے انتظام کرتے تھے۔ اسی کے عہد میں سلطان خوارزم نے آرخان کونیشاپور معہ مضافات کے بخش دیئے مگر وہ کسی مہم پر تھا۔ اس کے قائم مقام نے اسی گھمنڈ میں باطنیوں کے چند شہر لوٹ لئے۔ شیخ الجبال نے سرفدائی بھیج کر آرخان کو قتل کرا دیا اور شہر میں علاؤ الدین کے نعرے لگاتے ہوئے وزیر حملہ آور ہوئے۔ مگر وہ بیچ نکلا اور لوگوں نے ان کو ڈھیلے مار مار کر مار ڈالا۔ اسی وقت بدر الدین احمد شیخ الجبال کی طرف سے سفیر ہو کر آیا اور وزیر کا مہمان ہوا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے اور قلعہ وامغان باطنی خرید کر لیں۔ وہ سفیر ایک دن وزیر کے دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ کہنے لگا ہمارے دوست ہر جگہ ہیں۔ وزیر نے کہا اس جگہ پر کتنے ہیں۔ کہا کہ پانچ، وزیر نے اس کی طرف رومال پھینک کر ان کو امان دی کہ سامنے آئیں تو اس کے خاص ملازم پانچ سامنے حاضر ہو گئے۔ وزیر سہم گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ آپ مجھے اپنا نوکر سمجھیں۔ مگر میری جان بخشی ہو۔ سفیر واپس چلا گیا۔ مگر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ان پانچ باطنیوں کو آگ میں ڈال دے۔ مجبوراً جلاد دیئے گئے۔ مگر وہ بڑے خوش تھے۔ شیخ الجبال نے جب سنا تو پچاس ہزار اشرفی تاوان میں طلب کی اس وزیر نے غنیمت سمجھ کر قلعہ وامغان کی قیمت بھی واپس کر دی۔ انہی ایام میں محمد ثالث اپنے ایک نوکر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

۱۳..... اس کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین خورشاہ آخری خلیفہ تخت نشین ہوا۔ اسی کے عہد میں منقو خان تاتاریوں کا بادشاہ مشرق میں تھا۔ اس کے بھائی ہلاکو خان سپہ سالار نے مغرب کی طرف دریائے جیحون سے نیل تک سلطنت مغلیہ قائم کرنے کی خاطر حملہ کر دیا۔ کیونکہ باطنی مغلوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور خود خلیفہ بغداد بھی ملتی ہوا تھا کہ باطنی ڈیڑھ سو سال سے تنگ کر رہے ہیں۔ ان کا استیصال تمہارے سوا ممکن نہیں۔ اب وہ تورہ چنگیز خانیہ کی زیر ہدایت مخالفین کے اہل و عیال کو تہ تیغ کرتا ہوا بڑھا۔ بد قسمتی سے شیخ نصیر الدین طوسی نے ایک کتاب لکھ کر خلیفہ بغداد مستعصم باللہ کی خدمت میں پیش کی۔ جس میں اس نے بہت خوشامدی کی۔ مگر اس کے وزیر ابن علقمی نے اپنی عداوت کی بناء پر کہہ دیا کہ اس نے آپ کو خلیفہ اللہ فی ارضہ کا خطاب نہیں دیا تو خلیفہ نے ناراض ہو کر وہ کتاب دجلہ میں ڈلوادی اور شیخ نصیر الدین شیخ ابوالکمال کے پاس چلا گیا۔ مگر چونکہ وہاں بھی اس کو خاطر خواہ جگہ نہ ملی۔ اس لئے ہلاکو خان سے مل کر حکومت بغداد اور حکومت باطنیہ کا خاتمہ کروا دیا اور شام میں سلطان بھیرس نے شام کی باطنی حکومت کا استیصال کر دیا۔ اب عراق، شام اور ایران میں باطنی برائے نام رہ گئے۔ تیورلنگ جب ماژندران میں داخل ہوا تو اس نے وہاں پر بھی ان کا خاتمہ کر دیا۔ ترکی سلاطین نے بھی یمن، حضرموت، بحرین میں ان کا خاتمہ کر دیا۔ مگر جو بچے سندھ میں آئے اور یہاں ملتان اور ناصرہ (جو اس وقت معدوم ہے) کو اپنا مرکز بنالیا اور چونکہ بغداد کی حکومت مگرانی نہ کر سکتی تھی۔ اس لئے ملتان اور ناصرہ کی حکومت نے مسلمانوں کو باطنی بنانا شروع کر دیا۔ جب سلطان محمود غزنوی آیا تو اس نے ابوالفتح باطنی سے جو سومرہ خاندان سے تھا ملتان واگذا کر لیا اور ابوالفتح سرانڈیپ کو بھاگ گیا اور انگریزی حکومت تک ایران اور ترکی وہاں حکمران رہے۔ ابوالفتح مذکور کی اولاد دکن گجرات میں پھیلی جو بعد میں بھورے مشہور ہو گئے۔ ان دنوں حضرموت اور یمن کے باطنی بھی گجرات میں تجارت کرتے تھے۔ ان کی اولاد بھی بھورے مشہور ہو گئی۔ اب وہ آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ مگر ایرانی باطنیوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا امام شاہ خلیل ہے۔ شہر نج مشعل شہر قم میں رہتا ہے۔ جو اسماعیل بن جعفر کی نسل سے صاحب کرامات ہے۔ جس کی زیارت کو بھورے بھی جاتے ہیں۔

۳۰..... اسماعیلی فرقے جو شام میں رہتے ہیں

۱..... یہ تین فرقے ہیں۔ دروزی، خضر وانی اور سویدانی۔ یہ تینوں کو حسن بن صباح کے معتقد نہیں ہیں۔ مگر ان کا طریق معاشرت وہی ہے جو اس نے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ



دروزی شام کے پہاڑوں کی درزوں میں رہتے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ میں لوگ حیران ہیں۔ کسی نے کہا کہ درز کپڑے کو کہتے ہیں۔ درزی مکینہ قوم ہے جو کپڑے کی درز کی مانند کسپہری کے عالم میں پڑی رہتی ہے۔ کسی نے کہا کہ درز خوش آدی کو کہتے ہیں اور وہ آزاد ہیں۔ اس لئے دروزی ہوئے۔ انگریزی محققین نے کہا کہ کونٹ اوف درس کے تابع اور عیسائی ہیں اور کسی نے کہا کہ نارمن کی نسل سے جرمنی النسل ہیں۔ بہر حال اب یہ ثابت ہوا ہے کہ حکومت ترکی کے ماتحت خراج گزار مسلمانوں کی ایک جماعت ثابت ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید کی اصلی ماہیت ہم پر ہی منکشف ہوئی ہے۔

۲..... الحاکم بامر اللہ مصر میں فاطمی خلیفہ تھا۔ محمد بن اسماعیل نامی ایک اسماعیلی داعی نے اعلان کیا کہ الحاکم بامر اللہ مظہر الہی یا بروز خداوندی اور خدا کا روپ دیوتا ہے۔ حاکم نے بھی اپنے قوت بازو سے اپنی خدائی کا اعتراف کرایا۔ مگر جو زیادہ تر معتقد ہوئے وہ دروزی ہی تھے۔ حمزہ بن علی نے کتاب الدرر لکھی جو اس وقت یورپ میں چھپ چکی ہے۔ اس میں اس نے ایک لوح خداوندی کے اندر ظاہر کیا ہے کہ محمد (علیہ السلام) کو قرآن شریف کا اصلی مفہوم معلوم نہ تھا۔ صرف ظاہری اور لغوی معانی سمجھے تھے۔ اس لئے خدا نے انسانی روپ لیا اور اصلی معانی سمجھائے جو الحاکم بامر اللہ نے اپنے تبلیغی خط مسطے بہ عقائد میں بیان کئے ہیں اور ہم ہی ایک واحد جماعت ہیں جس کو پیغمبر اسلام کے بعد ایمان کے لئے خدا نے مخصوص کیا ہے۔ (قالیانی اور کترینی نوٹ کر لیں)

۳..... ان کا یہ بروزی نبی جناب امام اسماعیل بن جعفر صادق کی اولاد سے ثابت کیا جاتا ہے اور والدہ کی طرف سے بھی جناب فاطمہ علیہا السلام کے سلسلہ سے ملا دیا ہے۔ وہ ایک پہاڑ پر وحی لینے جایا کرتا تھا۔ ۳۶ سال اور چھ ماہ حکومت کی اور اپنی کرخت شریعت منوانے میں لوگوں کو تباہ کیا۔ آخر لوگ تنگ آ گئے تو اس کی ہمشیرہ ست الملک کی سازش سے جب کہ وہ وحی لینے پہاڑ پر گیا تھا مارڈالا گیا اور اس کی لاش بھی کہیں پھینک دی گئی۔ مگر مریدوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ غائب ہو کر جنت میں زندہ ہی چلا گیا ہے۔ اگر چاہے تو ابھی واپس آ کر مخالفین کا ناک میں دم کر دے گا۔ اب نہیں تو پھر جب کبھی بھی واپس آیا قیامت تک ہماری ہی حکومت ہوگی اور مخالفین کو یہاں تک ذلیل کیا جائے گا کہ وہ اپنے لباس میں خاص نشان رکھیں گے جس سے وہ شناخت ہو سکیں۔

۴..... موحدین کا خیال ہے کہ قرآن کا اصلی مفہوم ہمیں ہی حاصل ہوا ہے۔ جس

کو پیغمبر اسلام بھی نہیں پاسکے۔ اس لئے آپ کے متعلق ان کو نیک ظن نہیں کیونکہ جب ان کا نبی مرا تھا تو دوسرے روز ایک مسجد کے دروازے پر اس کی طرف سے ایک فرمان (عقائد نامہ) نظر آیا۔ جس میں اس نے افسوس ظاہر کیا تھا کہ ہر چند مصریوں کو سمجھایا گیا مگر وہ نہ سمجھے۔ آخر وہ لوگ اس کام کے لئے منتخب کئے گئے جو خدا کے ہاں نہایت ہی مقدس (دروزی) ہیں۔ اس لئے موحدین اس فرمان کی قدر قرآن سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ مگر ان کی عملی حالت یہ ہے کہ ان کی مسجدیں غیر آباد ہیں۔ کوئی اذان دے تو کہہ دیتے ہیں کہ گدھے خاموش رہو چارہ مل جائے گا۔ ہر ایک مسجد کے اندر ایک مورتی کپڑوں میں لپیٹی ہوئی موجود رہتی ہے۔ جس کی زیارت کے حقدار خاص خاص موحدین کے سوا دوسرے نہیں ہوتے۔ یہ مورتی پچھڑے کی شکل کی ہوتی ہے جو امام غائب کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ مسجدیں پہاڑ کی چوٹی پر ہوتی ہیں۔ مگر وہ نماز روزہ سے آزاد ہیں۔ شراب آزادی سے پیتے ہیں۔ لحم خنزیر شوق سے کھاتے ہیں۔ نکاح و طلاق میں بھی آزاد ہیں۔ مگر طلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ جاؤ اور جب تک اس لفظ کے ساتھ واپس آؤ کا فقرہ نہ ہو اسے تین طلاق سمجھا جاتا ہے۔ جو حلالہ کے سوا نفع نہیں ہو سکتیں۔ کتاب الدرر کوکا صندوق بہت پوشیدہ رکھا جاتا ہے اور جہاں پر پڑا ہے وہاں سے اٹھانے کا حکم نہیں۔ کیونکہ وہ جگہ بھی بہت مقدس ہو چکی ہے۔ حکومت عثمانی کے ماتحت یہ باجگدا ار خود مختار ہو کر رہے ہیں۔ برائے نام رعایا تھے ورنہ بات بات پر بغاوت کرتے تھے۔ ان کی تعلیم عملی طور پر ہوتی ہے۔ بچوں کو بڑوں کی محبت میں بٹھا کر ایسا ہوشیار کر دیا جاتا ہے کہ بڑی بڑی کونسلوں میں دندان شکن جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ مگر ان کا ہر ایک کام پر اسرار ہے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ان میں مشترکہ جلسے ہوتے ہیں۔ جن میں خیال کیا جاتا ہے کہ فحش اور حیا سوز امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک پیشین گوئی مشہور تھی کہ انگریز ان کو مسخر کریں گے۔ اس لئے یہ ان کے دشمن رہے اور بددعا بھی دیتے تھے تو یوں کہ جاؤ خدا تیرے سر پر ہیبت رکھے۔ انگریزوں کو بھی خیال تھا کہ وہ عیسائی بگڑے ہوئے ہیں۔ مگر بعد میں ابھی سو سال نہیں ہوا کہ ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ تو مسلمان بگڑے ہوئے ہیں۔ (مگر خدا کی قدرت ہے کہ وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی اور فرانس نے وہ علاقہ فتح کر لیا ہے)

۵..... حضریوں کے مرکز شہر مسباة پر نصیری (بنی ارسلان) حکمران چلے آتے ہیں اور شہر فزارہ (سویدانیوں کا مرکز) بھی ان کے ہی ماتحت ہے۔ مگر یہ تینوں فرقے آپس میں بگڑے رہتے ہیں۔ ۱۸۰۹ء کی ابتدا میں حضریوں اور سویدانیوں نے نصیریوں کو مار مار کر قلعہ مسباة سے نکال دیا اور شیخ مصطفیٰ ادریس کو اپنا سلطان بنایا۔ بعد میں نصیریوں نے ہر چند کوشش کی

مگر قلعہ پر قابض نہ ہو سکے۔ آخر اپنی پرانی چال چلے کہ خضریٰ بن کر شہر مساباۃ میں تمام جگہ میں پھیل گئے۔ یہاں تک کہ شیخ مصطفیٰ اور لیس کے خاص معاصیوں میں اپنی کافی جمعیت پیدا کر لی اور قلعہ کی فوجوں میں بھی کافی تعداد میں موجود ہو گئے۔ ایک دن موقعہ پا کر سلطان شیخ مصطفیٰ اور لیس کے پیٹ میں چھریاں بھونک کر اس کو ہلاک کر دیا اور سارے نصیری اپنے لباس اصلی میں جمع ہو کر قلعہ پر قابض ہو گئے اور آج تک خضریٰ اور سویدی سر نہ اٹھا سکے۔

۶..... خضریٰ اور سویدانی اس عقیدہ میں شریک ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بروز الہی اور خدا کا اوتار تھے اور نجف میں بغداد سے دو چار منزل کے فاصلہ پر حضرت امام کے مزار پر حج چھوڑ کر بھی جاتے ہیں اور کعبہ کرمہ کے نزدیک ایک غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیدہ پوشیدہ کسی مزار کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں۔ مگر ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ کس کا مزار ہے۔

۷..... ان تینوں فرقوں کے علاوہ چند اور فرقے بھی ہیں۔ اول زید یہ جو جناب زید بن زین العابدین بن حسین بن علی علیہم السلام کے پیرو ہیں۔ ان کے نزدیک خلافت شیخین صحیح ہے اور اماموں کی تعداد بارہ تک محدود نہیں بلکہ ایک وقت میں مختلف امام ہو سکتے ہیں اور وضع شریف پر حکمرانی کرنے کا حقدار ہو سکتا ہے۔

دوم..... جعفریہ جو جناب زین العابدین کے بعد زید کی بجائے آپ کے بیٹے امام باقر کو امام جانتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو امام مان کر ختم کر دیتے ہیں۔

سوم..... اسماعیلیہ جو امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کو امام سمجھ کر سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ جناب اسماعیل جناب امام جعفر صادق کے حسین حیات میں ہی ایک بیٹا محمد نامی چھوڑ کر وفات پا چکے تھے۔ جس کو تمام ائمہ سمجھ کر یوں بتایا گیا کہ یہ لڑکا گویا خود اپنا باپ اسماعیل ہی ہے۔ مغرب میں جا کر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کے نزدیک امامت سات سات کا دورہ ختم کرتی ہے۔ چنانچہ جناب اسماعیل تک سات امام ختم ہوئے اور محمد بن اسماعیل سابع تام ہیں۔ کیونکہ اپنے باپ کی ڈیوٹی دیتے رہے ہیں۔ ان کے بعد تین امام مخفی تھے۔ جن کی بجائے ان کے نقیب حکمران رہے۔ اول منشور بن محمد مکتوم، دوم جعفر مصدق اور سوم حبیب۔ نقباء کی تعداد بارہ رہتی ہے۔ بہر حال جب یہ دور ختم ہوا تو پھر سات ظاہری اماموں کا دور شروع ہوا۔ جن میں سے پہلا امام عبید اللہ مہدی ہے۔ جس نے مصر میں خلافت فاطمی شروع کی تھی۔ دوم ابو القاسم محمد (قائم بامر اللہ)، سوم اسماعیل (منصور)، چہارم سعد (المعز الدین اللہ)، پنجم نزار (عزیز بامر اللہ)، ششم الحاکم بامر اللہ، ہفتم علی الظاہر لدین اللہ اس کے عہد میں چار سال اس کی چھو بھی ست الملک حاکم

رہی۔ اس لئے اس کے بعد ابو جہیم سعد المستمصر باللہ حاکم ہوا۔ جس سے حسن بن صباح کی ملاقات ہوئی تھی۔ غرضیکہ جب نقابت ظاہر ہوتی ہے تو امامت مخفی ہو جاتی ہے اور جب امامت ظاہر ہوتی ہے تو نقابت مخفی ہو جاتی ہے اور قرآن کے ہر حکم قطع کے لئے ایک تاویل بھی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسلام ترمیم ہو سکتا ہے۔

۸..... حسن بن صباح معقولی آدمی تھا۔ اس لئے اس نے ثابت کیا کہ خدا مجرد عن المادہ اور مجرد عن الصفات ہے۔ ورنہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ حاصل ہو جاتی ہے اور جو صفات اس کی طرف منسوب ہیں وہ عارضی ہیں۔ جو مخلوق کی فیض یابی سے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ مثلاً جب اس نے کسی کو طاقتور بنایا تو قدرت کو خدا کی طرف منسوب کر کے اسے قادر کہا جاتا ہے۔ وجود سے بھی وہ خالی ہے۔ کیونکہ یہ صفت بھی مخلوقات کو موجود کرنے سے ہی اس کو حاصل ہوئی ہے۔ یعنی تمام صفات اضافیہ ہیں، حقیقیہ نہیں۔

### ۳۱..... خلاصہ کتاب ہذا

۱..... بابی اور بہائی تعلیم حسن بن صباح یا دیگر اسماعیلی فرقوں کی یادگار ہے۔ جو دولت قاچار یہ ایران میں چپکے چپکے پرورش پاتی رہی اور ان کے طریق پر ہی اپنے تقدس کے لپیٹ میں سرفردائی تیار کرتی رہی ہے۔ جس نے اخیر میں حکومت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہ حکم دے کہ بابی باطنی جہاں پاؤ مار ڈالو۔ مگر تعلیم بہائی نے اس کے اصول بدل ڈالے اور خاموش مقابلہ کے ساتھ تمام مذاہب کا مقابلہ شروع کر دیا اور ایسے ثابت قدم ثابت ہوئے کہ آج بھی جس قدر ان کو برا کہو برا نہیں مناتے اور اپنے اصول سے جو در پردہ رکھا جاتا ہے ہمیشہ اس پر قائم رہتے ہیں۔

۲..... قادیانی مذہب نے جو کچھ سیکھا ہے۔ بہائی تعلیم سے سیکھا ہے۔ تاویل در تاویل ترمیم و تنسیخ، خاموش مقابلہ بلکہ دستی مقابلہ بھی عند الضرورت جائز رکھا گیا ہے۔ بلکہ اگر ذرا غور کیا جائے تو قادیانیت بہائیت اور صابحی تعلیم میں سر موافق نہیں ہے۔ مؤخر الذکر دونوں تعلیمات جیسا کہ ظاہر ہے کہ اول الذکر تعلیم میں بحیثیت مجموعی موجود ہیں۔ چشم بینا اور عقل رسا چاہئے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ قادیانیت نے ملاحدہ قدیم سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے۔

۳..... قادیانیت کے عہد میں چونکہ مذہب طرازی کا راتو کھل گیا ہے۔ اس لئے کئی قسم کے اور بھی دعویدار کچھ اندرونی کچھ بیرونی پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے وحدت وجود اور تناخ کی بناء پر سب کچھ بننا اور ترمیم اسلام بچوں کا کھیل بنا دیا ہے۔ جن پر سرسری نظر ڈالنے سے

معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کو مستقل مذہب پیدا کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے۔

۴..... چودھویں صدی کے دعویداران نبوت و تجدید سے پہلے قرامطہ، ملاحدہ اور زنادقہ بھی مدعیان نبوت تھے۔ مگر ان کا منشاء اندرونی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی پابندی اور حکومت اسلامیہ سے تنگ آ کر آزادی کی راہ نکال کر آزاد ہو جائیں۔ اس لئے وہ بیدین قرار دیئے گئے تھے۔ مگر چودھویں صدی میں یہ تحریک کچھ ایسی مشتبہ ہے کہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا وہ اسلامی احکام سے تنگ آ کر نئی شریعت پیدا کرتے ہیں یا عیسائیوں کی طرف سے مامور ہو کر اسلام کو قابل نفرت ثابت کر رہے ہیں اور یا خود خوشامد کے طور پر حکومت ہند یا عیسائی مشنریوں کو خوش کرنے کے لئے یہ چالیں چلی جاتی ہیں تاکہ ان کو نوبل پرائز یا بطور دست غیب اندرونی طور پر سرکار کی خیر خواہی میں کچھ دستیاب ہو سکے یا شاید ان کا دماغ چکر کھا گیا ہے یا اس کو چکر دلایا گیا ہے اور نبوت فروشی کی دکان علیحدہ اور الگ کھولنا چاہتے ہیں۔ بظاہر کچھ بھی ہو ایسے لوگ اسلام کے بکے دشمن اور مسلمانوں کے لئے درحقیقت مارا آستین ثابت ہوئے ہیں۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو ان گندم نما جو فر و شوں سے بچنا چاہئے۔

۵..... مسلمانوں کو ایسی کسی نبوت کی ضرورت نہ تھی اور نہ کسی تجدید احکام کی مشکل پیش آئی تھی۔ بلکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کو ان کے پرانے دوزخ مذہب سنی و شیعہ پر چھوڑ کر ان کا مستقبل ٹھیک کیا جاتا۔ چونکہ یہ ہمسایہ اقوام سے پیچھے رہ چکے ہیں۔ ایسے وسائل سوچے جاتے کہ جن سے ان کے دوش بدوش چلنے کے قابل ہو جاتے۔ نہ یہ کہ جن خانہ جنگیوں سے پہلے تباہ ہو چکے تھے نئی تعلیمات پیش کر کے ان کی رہی سہی دماغی طاقت کو اختلافات جدیدہ کی نذر کیا جاتا۔ اب ہمیں یہ تمام مصلحین اسلام بتائیں کہ بہشتی مقبرہ کے لئے جدوجہد کرنے میں اسلام اور اہل اسلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یا کسی ناسخ شریعت کا خصوصی بیت المال پر کر دینے سے مسلم قوم کا کیا بھلا ہو سکتا ہے۔ یا وہ بتائیں کہ احکام شریعت چھوڑ کر عیسائی مذہب کے اصول پر عمل پیرا ہونے سے ان کی کون سی ترقی ہو سکتی ہے؟

یہ سب پیٹ کے دھندے ہیں  
جو سب پیٹ کے بندے ہیں  
نفسی نفسی کرتے ہیں  
ککے ککے پہ مرتے ہیں

۶..... اگر اسلام کی خیر خواہی پیش نظر تھی تو سب سے پہلے اسلامی زبان عربی کی

نشر و اشاعت میں توجہ مبذول کی جاتی۔ ایک بڑی بھاری مذہبی یونیورسٹی قائم کی جاتی۔ علوم قدیمہ اور فنون جدیدہ سے اسے مکمل کر کے علوم قرآنیہ پھیلانے جاتے۔ اس کے بعد علوم جدیدہ کی تکمیل کے لئے کمر بستہ ہو کر کھڑا ہونے کی اذ حد ضرورت تھی۔ جس کو سرسید نے محسوس کیا تھا۔ مگر افسوس کہ جس طریق پر اس نے مسلم قوم کو چلانا چاہا تھا وہ راستہ بھول گئے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کو آج اسلام اور اسلامی زبان سے متغیر نہ ہوتا۔ جو اس وقت محسوس ہو رہا ہے۔ مگر تاہم اس کمی کو مسلمانوں نے کسی حد تک پورا کیا۔ اس کے بعد تیسرے درجہ پر صنعت و حرفت اور تجارت یا کاشت کی تکمیل تھی۔ جس طرف کوئی مسلمان آج تک متوجہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی تحریک ہوئی ہے جو مسلمانوں میں اس کمی کا احساس پیدا کرے۔ گو فرد افراد مسلمانوں نے اس طرف توجہ کی ہے۔ مگر متحدہ حیثیت سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے مسلمانوں کو عالمگیر فائدہ ہو سکے۔ ہندو قوم کو دیکھئے، تجارت کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے بعد وہ کون سی تجارت ہے کہ جس پر ان کا قبضہ نہیں۔ اب مسلمان جس قدر بھی تجارت کر رہے ہیں وہ ان کے ہی دست نگر ہیں اور بہت سی ایسی تجارتیں ہیں کہ مسلمانوں کو ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کام کی چیز ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن میں باوجود معلوم ہونے کے کوئی مسلمان آدمی نظر نہیں آتا۔ یہی چالیس دعویداران نبوت اگر مسلم قوم کو بام ترقی پر پہنچانے کے لئے ایسے وسائل سوچتے کہ جن سے مسلمان ہر شعبہ تجارت پر قابض ہو جاتے تو نبی بننے کی بجائے ان کا رہنما بننا بہتر تھا اور یہ ایک بہانہ ہے کہ اسلام جب تک نہ چھوڑا جائے تجارت نہیں ہو سکتی۔ ورنہ کوئی ہمیں بتائے کہ جن لوگوں نے اسلام چھوڑ کر نئی نبوت کا کالہ پہن رکھا ہے ان کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے اور صنعت و حرفت اگرچہ بہت ضروری ہے۔ مگر چونکہ یورپ نے تمام مشینیں اپنے ملک کے لئے ہی مخصوص کر رکھی ہیں۔ اس لئے ایسے فنون کا حاصل کرنا چنداں مفید نہیں۔ کیونکہ جب کوئی ہنرور یورپ سے ہنر سیکھ کر آتا ہے تو چونکہ ہندوستان کو انقلاب زمانہ نے ایسی صنعتوں سے خالی کر رکھا ہے۔ ان کو پیٹ پالنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ اس لئے پھر وہ واپس یورپ چلے جاتے ہیں۔ بہر حال اس نازک حالت میں زیر بحث مدعیان نبوت کا وجود بہت معترض واقع ہوا ہے۔ سوائے شکم پروری یا غیر کی خوشامد کے اس کے تحت میں کچھ بھی نہیں ہے۔

نبی بنے ہو مجدد یا ناخ اسلام  
یہ غیر کی ہے خوشامد یا گوش و ناں کے لئے

نہ اس میں قوم کی رفعت کا راز مضمر ہے  
نہ اس جہاں کے لئے ہونہ اس جہاں کے لئے

۷..... بائبل کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام تو رات میں تھے۔ جن کا انجیل نے موقعہ ہی نہیں رہنے دیا کہ جن کا اجراء ہو سکے۔ کیونکہ اس میں صرف یہی تعلیم ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرو اور برائیوں سے رک جاؤ اور خدا کی یاد کرو۔ مگر یہ حصہ چھوڑ دیا ہے کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کون سی تعزیر عائد ہوتی ہے اور یہ تعزیر خدا کے سپرد کر دی ہے یا حکومت وقت کو اس میں مختار کر دیا ہے اور یاد الہی کا طریق بھی انجیل میں کوئی مخصوص نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اعمال الرسل کا مطالعہ کرو تو اس میں صاف لکھا ہوا بار بار تم کو نظر آئے گا کہ مقدس لوگوں کی پرورش کرو اور شریعت کی پابندی چھوڑ دو۔ ہم اسی لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ شرعی تعزیرات کا ایک ہی کفارہ (صلیب مسیح) سے دنیا کو آزاد کر دیں۔ اس کتاب میں ایسا ہی مجددین کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہو بہو یہی ہے تو ناظرین خود انصاف کریں کہ یہ لوگ مبلغین اسلام ہیں یا عیسائیوں کے کرایہ دار یا خوشامدی مفت کے تبلیغ کرنے والے ہیں؟ اس نکتہ کو سمجھ کر خوب امتحان کرو اور ان لوگوں سے الگ ہو کر اپنے اسلام پر قائم رکھو اور دینی و دنیاوی ترقی کرتے جاؤ۔

۸..... انصاف سے دیکھئے تو مسلمانوں میں بہ نسبت دیگر اقوام کے عیش پرستی شہوت رانی اور قہیش یا آزادی کے اسباب بہت کم موجود ہیں۔ مگر حیرت ہے کہ یہ مجددین نہ یہود کو برا کہتے ہیں نہ عیسائیوں کو غلط کار ثابت کرتے ہیں اور نہ ہندو سکھ اور آریوں کو گمراہ جانتے ہیں۔ شامت آئی ہے تو بیچارے مسلمانوں کی کہ صرف آج کل کے ہی مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے بلکہ صاف کہتے ہیں کہ آج تک اسلام ستر ہزار پردوں میں رہا۔

برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

یوں تو عہد رسالت کے متصل ہی لوگوں نے اسلام سے عداوت شروع کر دی تھی اور اس کی بجائے اپنی اپنی تعلیم کے احکام جاری کر رکھے تھے۔ لیکن آج کل کے مجدد مسلمانوں کو تو وہ گالیاں سناتے ہیں کہ الامان، کسی بازاری عورت کو بھی یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ ایک بازاری آشنا کی یوں خاطر کرے۔ پھر باوجود اس بدگمانی اور بدزبانی کے ہمارے نبی بنتے ہیں۔ بہت خوب! صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ۔ کیوں سادہ لوح انسانوں کی دنیا و عقبی خراب کر رہے ہو۔ اسلام کو چھوڑتے بھی نہیں اور اسلام کے

پیچھے سے بھی نہیں نلتے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ان سے قطع تعلق کر کے ان جدید اختلافات سے نجات پائیں اور اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیں۔

..... 9 ہر نادان بھی سمجھ سکتا ہے کہ آج ڈاکٹریا پیرسٹروہ بن سکتا ہے جو باقاعدہ تعلیم پا کر اس زبان کا پورا ماہر ہو۔ جس میں ڈاکٹری یا پیرسٹری نے نشوونما پایا ہے۔ شروع میں پیرسٹری صرف چند اصول کا نام تھا۔ مگر انقلاب زمانہ نے ایسے واقعات پیش کر دیئے کہ اب ان چند اصولوں کو پورے طور پر سمجھنے کے لئے بڑے بڑے کورس ختم کر کے جب تک حکومت کی طرف سے سند حاصل نہ کی جائے یا اگر کوئی عموماً عدالت میں یا کسی پیرسٹر کے سامنے دخل در معقول دے کر کوئی قانونی بحث چھیڑ کر اپنی رائے قائم کرنے لگ جائے یا کسی قاعدہ کو ترمیم و تنسیخ میں لا کر اپنے خیال پیش کردہ کو مقدم سمجھے، تو ضرور ہے کہ عدالت یا وہ پیرسٹر کان سے پکڑ کر باہر نکال دے گا یا یہ رائے قائم کرے گا کہ اس میں شئی لطیف بہت کم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس قرآن عربی میں ہے۔ جب تک اسلام صرف عرب میں رہا ان کو قرآن فہمی میں کوئی دقت نہ تھی۔ معاملات سادہ تھے۔ تمدن سادہ تھا۔ غیر کی مداخلت نہ تھی۔ قرآن کی زبان عربی تھی۔ سمجھنے والے عرب تھے۔ ان کی اولاد عرب تھی اور معلم بھی عرب تھے۔ مگر جب اسلام نے عرب سے باہر پاؤں پھیلا کر فارس میں ڈیرہ جمایا اور عجم کے فلسفہ نے اور یونان کی حکمت نے مذہبی مقابلہ شروع کر دیا اور ادھر عہد رسالت دور چلا گیا اور عجمی مسلمان قرآنی زبان سے نا بلند تھے۔ اس لئے صرف، نحو، تاریخی حالات، احادیث اور فتاویٰ نبویہ اور فیصلہ جات خلافت راشدہ کو قلم بند کرنا ضروری سمجھا گیا۔ ورنہ سارا اسلام عرب میں ہی بند رہتا۔ رفتہ رفتہ ازمنہ متوسطہ میں قرامطہ و ملاحدہ اور زنادقہ و دجاجلہ نے اور بھی اودھم مچا رکھا تھا اور موجودہ چالیس استاکاروں سے بڑھ کر اسلام میں تحریف کرنی شروع کر دی تھی۔ اس لئے اہل اسلام کو اور بھی علوم و فنون ایزاد کرنے پڑے۔ اس کے علاوہ حکومت کا نظم و نسق بھی اندرون عرب اور بیرون عرب میں اسلامی قواعد پر ہی قرار پایا۔ اس لئے نئے نئے واقعات پیش آنے لگے اور ایسے حوادث پیش آئے جو صدر اسلام میں ناممکن الوقوع خیال کئے جاتے تھے۔ مگر ان کو حل کرنے کے لئے مجتہدین اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سب کا جواب دریافت کر کے نظام اسلامی کو قائم رکھا۔ اب جب کہ وہ نظام ہی باقی نہیں رہا اور اسلام کے ملکی اور سیاسی قانون چھوڑ دیئے گئے اور اسلامی علوم و فنون کی تحصیل کا انتظام بھی باقاعدہ طور پر قائم نہیں رہا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کا حقیقی طور پر سمجھنا جیسا کہ پہلے زمانہ میں سمجھتے تھے کیسا مشکل



ہوگا۔ کیونکہ جب تک راستہ کی مشکلات کو حل نہ کیا جائے قرآن فہمی کا دعویٰ مشکل ہوگا۔ اس لئے جس قدر علوم اسلامیہ کی تحصیل آج کل قرآن فہمی کے لئے ضروری ہے۔ پہلے اس کا عشر عشر بھی نہ تھا۔ مگر آج نیم ملا جن کو عربی زبان میں صحیح طور پر ایک فقرہ بھی لکھنا نہیں آتا وہ اندھوں میں کاناراجہ بنا ہوا ہے اور یوں واقعات کو نظر انداز کر کے یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ بھلا اگر آسان ہے تو تم میں سے کوئی بڑا تعلیم یافتہ ایک لفظ بھی کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی حرکات و سکنات موجود ہیں۔ پھر ان دعویداروں کو پڑھنا نہیں آتا اور اکڑ کر کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لگانے سے کیا فائدہ؟ مانا کہ کوئی فائدہ نہیں مگر آپ کو کیا معلوم کہ کس لفظ کا ترجمہ فلاں لفظ ہے۔ انگریزوں نے انگریزی ترجمے کئے۔ جن کو پڑھ کر قرآن فہمی کے دعویدار بن گئے۔ صرف تراجم کی بناء پر تم نے نبی۔ اے کی ڈگری کیوں نہ حاصل کر لی۔ ساری عمر اصحاب الشمال میں گذری اب قرآن کے حاوی بن بیٹھے۔ نہ باقاعدہ تعلیم پائی نہ علوم و فنون اسلامیہ کی خبر، نہ خود میں اتنی لیاقت کہ اسلامی زبان میں دوچار سطریں لکھ سکیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس وقت کے نبی ہیں، ہم مجدد ہیں، کاشف اسرار قرآنی ہیں۔ کترین اور خاکسار بن کر سب کا بیڑہ غرق کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ہم کو براہ راست قرآن کے وہ معانی سمجھائے گئے ہیں کہ خود اس نبی کو بھی معلوم نہ تھے جس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اس کا یہ جواب نہیں ہو سکتا کہ تمہارے خود حواس اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے۔ علاوہ بریں تمہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس کتاب میں تمہارے اور تمہارے ہم خیال محرفین کے عربی اقوال یا عربی تحقیقات لکھی ہیں۔ ان میں کیا کیا سقم ہیں؟ ضرورت ہو تو کسی اہل علم کے بغیر خود اپنی کمزوریاں معلوم کریں۔ کتاب ہذا میں ان پر تنقید اس لئے نہیں کی گئی کہ ہم کو موضوع سے باہر لکلنا پڑتا تھا اور خواہ مخواہ تطویل مضمون کا بھی اندیشہ تھا۔

۱۰..... پنجابی مسخوں میں مسیح قادیانی کی لیاقت تسلیم کی گئی ہے۔ مگر ذیل میں ایک عربی اخبار کا اقتباس (جس کا عنوان سخاۃ القادیانیۃ ہے) درج کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کس لیاقت کے مالک تھے۔ چنانچہ (اخبار الفتح ممبر نمبر ۲۵۲ مورخہ ۹ صفر ۱۳۵۰ھ) رقمطراز ہے۔

”ولو اطلعت علی هذا الوحي السحيف في مؤلفات القادياني العربية (لجة النور وغيرها) لعلمت ان ای صبی من صبیان مدارسنا الابدائیة یشتمن ان تنسب الیه هذه الثرثرة، خصوصاً شعره العربی،

اجارنا اللہ وایاک من العی والضعف . فان قرأته تورث مرض السل حتما .  
ومن الواجب علی مصلحة الصحة ان تحرق هذه السخافات شفقة علی  
صحة من تتالم اعصابه من مثل هذا العبث بلغة العرب ”

اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مرزا کی نظم و نثر ایسی واہیات ہے کہ اگر عربی کے ابتدائی  
طالب علم کو بھی کہا جائے کہ اسے تم قبول کر کے اپنے نام پر شائع کرو تو وہ بھی بے چین نظر آئے گا۔  
لہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ تم اس کی عربی تعلیم سے بچو ورنہ تم کو (مذہبی) سل و دق کا مرض ضرور  
ہو جائے گا اور اسلامی ہیلتھ آفیسر کا فرض ہے کہ اس کی تمام کتابوں کے گندہ مواد کو نذر آتش کر دے  
تا کہ آئندہ امراض مہلکہ کے پھیلنے کا اندیشہ نہ رہے۔

..... ان لوگوں سے تو ناک ہی اچھا تھا کہ کسی کو کافر نہیں کہتا تھا۔ بلکہ مسلمانوں  
کے ساتھ مل کر خدا کی یاد میں مصروف رہتا تھا اور مسلمانوں کی یادگاریں اس کے پاس موجود تھیں  
اور اس نے اپنے چولے پر بھی اسلامی تعلیمات لکھوائی تھیں۔ چنانچہ دائیں بازو پر ”ان السیدین  
عند اللہ الاسلام“ لکھی تھی اور بائیں بازو پر کلمہ شہادت تھا۔ گردن سے ناف تک سورہ فاتحہ اور  
کچھ اسمائے الہی لکھے تھے اور ”لا الہ الا انت سبحنک انی کنت من الظالمین . ان  
السیدین یبایعونک“ یہ پیٹ کے دائیں طرف آیت الکرسی اور سورہ نصر۔ پھر کچھ رموزی اعداد  
اور اسماء حسنی، اسی وجہ سے قادیانیوں نے اس کو مسلمان سمجھ رکھا ہے اور مرزا قادیانی کا الہام ہے کہ  
میں نے اس کو مسلمان پایا اور جنم ساکھی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کلمہ طیبہ سے نجات  
حاصل ہوتی ہے اور خدا کا دیدار اس کو ہوگا جو تیس روزے اور پانچ نمازوں پر قائم رہے گا۔ انجیل،  
تورات اور وید کچھ نہیں صرف قرآن ہی باعث نجات ہے۔ تناخ کا قائل دوزخی ہے اور آج کل  
رادھا سوامی مت بھی ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی تلقین کرتا ہے اور مسلمانوں سے بڑی  
محبت سے پیش آتا ہے اور ان کو ان کے مذہب میں ہی اپنا مرید کرتا ہے۔ مگر یہ خیال غلط ہے کہ  
ایسے صلح کل ہونے سے انسان پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ کیونکہ ہندو فقیر اگر کبھی صلح کل ہو کر نماز  
روزہ کر بھی لے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس کی کوئی یادگار  
ایسی نہیں ملتی کہ جس میں کوئی مسجد ہو یا اسلامی تعلیم کو جاری رکھ کر اپنا مسلم ہونا ثابت کیا ہو۔ محمد  
یعقوب لاہوری مرزائی پرافٹ نمبر میں لکھتا ہے کہ گرو ناک اپنے خیالات کے رو سے پکا ہندو تھا  
اور صلح قوم اور ہندو قوم کی مذہبی دیواروں کا معمار تھا۔ دیکھئے مرزائی خود اپنے آقا کو جھوٹا ثابت کر

رہے ہیں۔ بالفرض اگر اسے مسلمان بھی مان لیں تو ہم کو کیوں کافر کہا جاتا ہے۔ جب کہ ہم میں ساری اسلامی تعلیم موجود بھی ہے اور ہم اسلام پر عمل پیرا بھی ہیں۔ افسوس۔

بادوستان عداوت بادشمنان مدار

۱۲..... پنجاب مرزا قادیانی کے طفیل سے نبوت خیز علاقہ بن گیا ہے۔ مرزائی کہا کرتے ہیں کہ خربوزہ کا موسم آتا ہے تو اس وقت پہلے پیچھے کڑوے خربوزوں کی بلیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے یہ بناوٹی نبی ہیں اور مرزا قادیانی سچے ہیں۔ مگر جب ذرہ اوپر نظر اٹھائی جائے تو مسیح ایرانی کی صداقت اسی مقولہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے خیال میں کابل کا سردہ تھا اور مرزائی مانجھے کی پھوٹ ہیں۔ غالباً چیت رامی فرقہ بھی سکھوں کی طرح آپ کے نزدیک پکا مسلمان ہوگا۔ جس کی تشریح یوں ہے کہ چک نمبر ۳ ڈاک خانہ خاص تحصیل ننکانہ ضلع شیخوپورہ میں ایک ہندو عورت ہے جو مسلمانوں سے بھی (مرزائیوں سے بڑھ کر) نیک سلوک کرتی ہے۔ ۲۵ یا ۳۰ سال کا عرصہ ہوا اسی جگہ ایک پیر صاحب محبوب شاہ رہتے تھے اور ان کی زمین بھی ایک مربع بطور جاگیر تھی۔ ایک ہندو (چیت رام اردو) بھی ان کا مرید ہوا جو اسی علاقہ میں رہتا تھا۔ مگر لوگ کہتے تھے کہ وہ مراتی اور پاگل ہے۔ پیر صاحب مرگئے تو لکڑی کے تابوت میں ان کی لاش اسی گاؤں میں دفن کی گئی۔ چیت رام کی لڑکی مسماۃ بدھاں بھی سادھن تھی۔ لاہور چونی منڈی میں اس نے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ ایک نکیہ بنایا ہوا تھا۔ چونکہ مسماۃ مذکورہ خوبصورت جوان تھی تو کسی پیر بھائی کے ساتھ مزگشت لگانے چلی گئی۔ جب کچھ عرصہ بعد فارغ ہو کر واپس آئی تو اس کا باپ چیت رام مرچکا تھا اور اس کی لاش بھی پیر صاحب مذکور کے پاس ہی صندوق میں دفن کی گئی تھی۔ اب سنتے ہی یہ وہاں چلی گئی اور دونوں صندوق باہر نکال کر شہر بشہر پھرانے شروع کر دیئے۔ آخر حکومت نے مجبور کیا تو چک مذکور میں واپس لے گئی اور قبر کے مقام پر رکھ دیا جو جائیداد اس کے پیر یا باپ کی تھی سب پر قابض ہو گئی۔ ہندو مسلمان اس کے پاس جمع رہتے ہیں اور اس کی عمر اب ۲۵ سال ہوگی۔ سال میں تین دفعہ میلہ لگاتی ہے۔ ایک پیر محبوب شاہ کا دوسرا اپنے والد چیت رام کا اور تیسرا اپنی والدہ کا۔ صبح سویرے حقہ کی نے پیر صاحب کے صندوق پر رکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے خیال میں وہ اب بھی حقہ پیتے ہیں۔ کبھی یوں بھی کرتی ہے کہ اس نے کے نیچے قرآن شریف بھی رکھ دیتی ہے۔ میلہ کے دن دائیں بائیں قرآن وانجیل رکھتی ہے اور درمیان میں حقہ کی نے۔ مسجد پاس ہے اذان کی اجازت نہیں دیتی ورنہ اس کے مرید زدو کو ب سے خوب تو اضع کرتے

ہیں۔ مگر نماز کی اجازت دے سکتی ہے۔ (انقلاب ۲۸ اگست ۱۹۳۰ء) امرتسر میں ابھی تک اس کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ چیت رام دراز قد ہندو تھا۔ گلے میں کٹی تھی۔ جس کے کان میں کچھ پھونکتا تھا۔ وہی اس کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اس کے مرید اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ حلال حرام اس کے ہاں سب ایک تھا۔ موریوں کا پانی بھی پی جاتا تھا۔ جا بجا اس کے مریدوں نے نکتے ابھی تک بنائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ خلافت جاری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا چیت رام بھی مسلمان تھا؟ اور اگر وہ مسلمان تھا تو ہم کو کیوں کافر کہا جاتا ہے۔ کیا اس نے مرزا قادیانی کا اقرار کر لیا تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے؟

۱۳..... یحییٰ بہاری اپنی کتاب فرمان کے آخری صفحہ پر لکھتا ہے کہ: ”مرحباً بك يا خلة البنجاب . انت في جميع الامصار والنواحي كالقمر الطالع في سماء المعالي في كل حال مع الاداب“ میں الوداع ہوتا ہوں۔ تجھ سے اے خطہ پنجاب اور میں تجھ کو اس بات کا شوق لیت دیتا ہوں کہ تو جمع خطوں سے مبارک ہے۔ بلکہ مصر عرب اور استنبول سے بھی ہمدردی میں فوقیت رکھتا ہے۔ تو نے مجھ کو آٹھ ماہ تک (فرمان کتاب چھپوانے کے لئے) اپنی آغوش میں رکھا۔ اے اللہ میں تجھ سے دعاء کرتا ہوں کہ بوقت معلوم اس خطہ کی زیادہ رعایت کرنا۔ یہاں کے لوگ اہل دل ہیں۔ مجھ کو عزیز گرامی رکھا۔ میری امتحان آمیز جباریت و قہاریت برداشت کی۔ ”السيد محمد يحيى خلدہ اللہ فی عينہ“ آخری صفحہ پر لکھا ہے کہ: ”لا اله يحيى الا الله“ یعنی حبیب اللہ۔

۱۴..... مدعیان نبوت کے حالات مطالعہ کرنے کے بعد یہ امر بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ آج کل امام الزمان اور نبی بننا بالکل آسان ہے۔ وہ یوں کہ سب سے پہلے قیامت کا انکار یوں کرو کہ وہ ایک روحانی حالت کا نام ہے۔ اس کے بعد جو آیات اور احادیث قیامت کے متعلق ہیں۔ ان کو یا تو موجودہ حالات پر چسپاں کرنے کی کوشش کرو یا ان کا سرے سے انکار ہی کر دو۔ اس کے بعد گذشتہ انبیاء کے معجزات کو اس طریق پر تبدیل کر ڈالو کہ اس طریق پر تم بھی نبی بن سکو اور تمام انبیاء کی شخصیت کو یہاں تک کمزور کر کے نیچے گرا دو کہ جس قدر بھی تم میں کمزور یوں ہوں وہ قابل اعتراض نہ رہیں۔ پھر قرآن و حدیث سے اپنے آنے کی پیشین گوئی ثابت کرنے میں لفظوں کو اپنی جگہ پر نہ رہنے دو اور کہہ دو کہ خدا تمہاری لغوی تحقیقات اور قواعد کا پابند نہیں رہا۔ تاکہ اب وہ غلط فقرے استعمال نہ کر سکے۔ بلکہ خدا ہمیشہ بولتا ہے اور رنگ برنگ کی تحالف بیانی سے

لوٹ ہوتا رہتا ہے۔ قانون قدرت کو نہیں بدلتا مگر اس کی وحی ضرور بدلتی رہتی ہے اور یہ تمام مراحل طے کر کے اپنے مریدوں میں تقدس جما کر یوں بھی کہہ دو کہ مسلمانوں نے اگرچہ کئی دفعہ قرآن کے معارف بیان کئے ہیں۔ مگر جو معارف اور نکات ہم نے بتائے ہیں ان کے فلک کو بھی یاد نہ تھے۔ یہ حصہ ہمارا ہی تھا جو خدا کی وحی سے ہمیں عنایت ہوا ہے۔ پھر تجہیل و تکفیر کی مشین چلا کر تمام مخالفین کو ہمارا ڈکڑا لو۔

۱۵..... سورہ مؤمنون کے آخری رکوع میں مذکور ہے کہ: ”حتیٰ اذا جاء احد

ہم الموت قال رب ارجعون . لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون“ روز مرگ میں بدکار کا فر کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ ہم نیک عمل کر کے رہائی پاسکیں۔ مگر جواب دیا جائے گا کہ اب تمہارا لوٹنا کسی طرح قیامت تک ممکن نہیں رہا۔ اس آیت کی رو سے جو نہ بھگتے کا خیال غلط ہوگا اور یہ بھی غلط ہوگا کہ پاک رو میں آج کل کے نبیوں میں جلوہ گر ہوتی ہیں یا حلول کرتی ہیں۔ کیونکہ قرآن میں بار بار یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ احواء و اموات کے مابین عالم برزخ موجود ہے۔ جس کی وجہ سے کوئی روح دنیا میں اپنا مسکن کسی وجود میں نہیں بنا سکتی اور یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ ایک جسم میں تمام انبیاء کی رو میں جمع ہو جائیں۔ ورنہ وہ جسم بالکل بیکار ہو جائے گا۔ کیونکہ جس ملک میں دو عملی پیدا ہو وہ ہمیشہ ویران ہو جاتا ہے۔ اس لئے اکٹھا بروز انبیاء اور بروز کرشن بنا صحیح نہ ہوگا۔ پھر مظہر الہی کا مطلب بھی اگر تراخ ہو تو قرآن کے رو سے مردود ہوگا۔ اگر صرف تجلی مراد ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے ہوں گے جو پہلے انبیاء میں موجود تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب مدعی کورے ہیں۔ اس لئے ان کے دعاوی غالباً کچھ اور مضمون رکھتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتے۔

میان عاشق و معشوق رجزیت

کرانا کاتیں راہم خبر نیست

۱۶..... بروز کے متعلق یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ: ”هو الذی بعث فی

الامیین رسولا“ خدا نے مکہ والوں کے پاس رسول بھیجا اور ان لوگوں میں جو ابھی ان سے آ نہیں طے۔

اب ظاہر ہے کہ جب تک حضور ﷺ خود زندہ رہے دنیا میں خود بدولت مبعوث تھے اور

جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بطور قدرت ثانیہ کے پچھلی قوموں کے لئے مبعوث ہوتے رہے۔ چنانچہ مسیح قادیانی حضور ﷺ کا مظہر قدرت ثانیہ بن کر محمد ثانی بن گئے ہیں اور آپ کی امت و آخرین منہم بن کر حضور ﷺ کے صحابہؓ سے ہم مرتبہ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ استدلال بالکل واہیات ہے۔ کیونکہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کی بعثت عامہ ہے اور قیامت تک تمام آئندہ بنی نوع انسان کے لئے ہے۔ کیونکہ آپ پہلے پہل مکہ کی طرف مبعوث تھے تاکہ ان کو اول المؤمنین کا درجہ حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد عرب کے دوسرے حصوں کی طرف مبعوث تھے جو ابھی تک اہل مکہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ عرب کے سوا تمام اہل عجم کی طرف بھی مبعوث تھے تاکہ غیر ملک کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو سکیں۔ چنانچہ سلمان فارسی اور شاہ جیش بھی آپ کی عین حیات میں ہی حلقہ بگوش ہو گئے تھے اور ان کے اسلام نے ثابت کر دیا تھا کہ اسلام تمام دنیا کے لئے ہے۔ کسی خاص ملک یا خاص قوم کے لئے نہیں ہے اور قیامت تک حضور ﷺ کی بعثت آئندہ نسلوں کے لئے بھی ہے جو اس وقت تک پیدا نہ ہوئی تھیں۔ چنانچہ تیرہ سو سال تک دیئے اسلام نے اس کو اسی طرح تسلیم کیا اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ سمجھی اور اکملت لکم دینکم اور خاتم النبیین سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی رہی اور نہ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ حضور ﷺ بار بار جلوہ گر ہو کر محمد ثانی کہلائیں اور نہ یہ مجبوری پیش آئی کہ دوسرا نبی ناخ قرآن پیدا ہو۔ کیونکہ گذشتہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا نبی اس وقت مبعوث ہوتا تھا جب کہ پہلے نبی کی تعلیم مٹ جاتی تھی۔ چنانچہ تورات جب مٹ گئی اور بائبل کی دستبرد نے اسے خاک میں ملوادیا اور بعد میں یہودیوں کے ہاں اس کا صرف افسانہ رہ گیا تو انجیل نازل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے مبعوث ہو کر وحی الہی کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد جب انجیل دنیا سے اٹھ گئی اور یہودیوں نے اس کا ایک ایک ورق تلف کر دیا اور عیسائیوں کے پاس صرف تاریخی کہانیوں (بائبل) کے کچھ نہ رہا تو قرآن مجید نازل ہوا اور چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ ”انالہ لحافظون“ تو یہ ممکن نہیں کہ یہ تعلیم دنیا سے مٹ جائے اور کسی دوسری تعلیم کی ضرورت محسوس ہو۔ پس ختم رسالت اور تکمیل دین اور حفاظت قرآن تینوں الگ الگ زبردست دلائل ہیں۔ اس امر پر کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے حضور ﷺ کے بعد نہ کسی اور نبی کا امکان ہے اور نہ یہ ضرورت ہے کہ بار بار آپ روپ بدل کر دنیا میں تشریف فرما ہوں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اسلام پر عمل پیرا لوگ سستی کا اظہار کریں۔ یا اس کی تعلیم کو (عہد حاضر کے مدعیان

نبوت کی طرح) بدلنا چاہیں تو اس وقت مجددین اسلام اور علمائے امت کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ فتنہ کا نور ہو جاتا ہے اور لوگ ایسی غلط فہمیوں سے نجات پاتے ہیں۔ مگر یہ نبی نہیں ہوتے اور نہ ہی انبیاء کا بروز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج تک کے واقعات اس پر گواہ ہیں۔ پس ظاہر ہو گیا کہ تعلیمات شرعیہ کا مٹ جانا اور چیز ہے اور اس میں دست اندازی کر کے منہ کی کھانا اور بات ہے۔

۱۷..... آیت متذکرہ بالا سے اگر رجعت محمدی ثابت کی جائے تو اس پر پہلا یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ صرف امین اہل مکہ ہی کی طرف سے مبعوث تھے نہ کہ اہل عجم کے لئے بھی اور جو مبلغین آس پاس اور دور و نزدیک ملکوں میں پہنچے۔ ماننا پڑے گا کہ وہ مظاہر قدرت ثانیہ تھے۔ حالانکہ یہ بالکل باطل ہے۔ کیونکہ قدرت ثانیہ کا ظہور نبی کی حیات میں تجویز نہیں کیا گیا۔ بلکہ وفات کے بعد تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد رسالت کے بعد جو مسلمان لمانٹھو ا کے مصداق ٹھہرے ہیں۔ ان کی طرف آپ کی بعثت نہ ہو بلکہ کسی مظہر قدرت ثانیہ اور محمد ثانی کی بعثت سے اسلامی تبلیغ پھیلی ہو۔ حالانکہ عہد صحابہ میں کوئی مدعی نبوت محمد ثانی بن کر ثابت نہیں ہوا تھا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نبی کی بعثت صرف اس کی حیات تک محدود ہو اور اس کی وفات کے بعد اس کے تمام خلفاء اور مبلغین سارے ہی مظہر قدرت ثانیہ مانے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے حواری سب عیسیٰ ثانی ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات پر حکم کرنے والے تمام سلاطین اور انبیاء بھی موسیٰ ثانی ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس حضور ﷺ کے بعد تمام مبلغین بھی محمد ثانی ہوں گے۔ بلکہ ہر ایک فرد امت بھی محمد ثانی ہوگا۔ کیونکہ ”کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر“ سے ثابت ہوتا ہے کہ ساری امت عہدہ تبلیغ بر ما مور ہے تو ہر ایک امتی محمد ثانی ہوا تو پھر مسیح قادیانی کی کیا تخصیص رہی؟ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح موعود ظاہر ہوگا تو وہ محمد ثانی بھی ہوگا۔ اس لئے ان اعتراضات کی روشنی میں یہ امر پایہ یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ مسیح قادیانی نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو یہ مشکل پیش آئی تھی کہ احادیث میں تو مسیح موعود کو نبی تسلیم نہیں کیا گیا ہے تو ہماری صداقت کیسے ظاہر ہوگی۔ اس لئے نبوت عکسی کا نظریہ گھڑ لیا۔ مگر جب پھر یہ مشکل آ پڑی کہ حضور ﷺ کی نبوت کا دور قیامت تک ہے تو پھر ہماری بعثت کیسے صحیح ہوگی۔ اب ذرہ اور کروث لی اور کہہ دیا کہ میری عکسی نبوت بروزی ہے اور میں محمد ثانی ہوں اور چونکہ نبوت محمدیہ کوئی غیر نبوت نہیں ہے۔ اس لئے نہ ختم رسالت پر حرف آیا اور نہ نبوت قادیانیہ قابل اعتراض رہی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام تعلیم ایرانی مدعیان نبوت سے نقل کی گئی ہے۔

۱۸..... واقعہ قتل عثمانؓ کے وقت عبداللہ بن سبا یہودی کو موقع مل گیا تھا کہ حضرت

علی کرم اللہ وجہہ سے اپنا انتقام لے۔ کیونکہ آپ کے ہاتھ سے خیبر کے یہودی تباہ ہوئے تھے اور عبداللہ بن سبا کا خاندان خصوصاً تباہ ہوا تھا۔ اب اس نے مسلمان بن کر حضرت علیؓ کے طرفداروں میں یوں کہنا شروع کر دیا کہ جب مسیح ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو کیا وجہ ہے کہ افضل المرسلین محمد علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف نہ لائیں۔ مگر چونکہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس لئے آپ کا ظہور بروزی طور پر ہوگا اور اس وقت حضرت علیؓ بروز محمدی ہیں۔ اس لئے ان کی مخالفت ناجائز ہوگی اور حق خلافت آپ کا ہی ہے۔ اسی بناء پر حدیث میں آیا ہے کہ: ”من کفرت مولاه فعلى مولاه“ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے طرفداروں میں اس عقیدہ کے پھیلائے سے بہت بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا اور دوسری طرف بنی امیہ کے طرفدار قتل عثمانؓ کا مرتکب حضرت علیؓ کو قرار دیتے تھے اور دنیائے اسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک آپ سے حضرت عثمانؓ کا قصاص نہ لیا جائے خلافت قائم نہ ہو سکے گی اور عبداللہ مذکور نے اس پارٹی کو بھی بڑے زور سے اندر ہی اندر جوش دلایا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ امیر معاویہؓ جمعہ کے روز حضرت عثمانؓ مقتول کا خون آلود کرتے عین خطبہ کے وقت پیش کر کے ماتم کیا کرتے تھے جس سے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا اور میدان جمل وصفین میں ہزاروں مسلمان آپس میں لڑ کر تباہ ہو گئے۔ واقعہ نہروان میں بھی بڑی تباہی ہوئی اور رفتہ رفتہ ان وجوہ خاصیت سے واقعہ کربلا اور بعد میں واقعہ مختار ثقفی بھی پیش آ گیا اور اسی کشمکش میں خاندان علوی تقریباً مٹ گیا اور عبداللہ بن سبا کے دلی ارمان پورے ہو گئے۔ بہر حال یہ عقیدہ رفتہ رفتہ قرامطہ و ملاحدہ شام و مصر میں ہوتا ہوا مدعیان نبوت ایران تک پہنچ گیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو مظہر الہی اور بروز محمدی ثابت کیا اور اس پر رجعت کا رنگ چڑھا کر تمام شریعت محمدی کو ہی بدل ڈالا اور کہہ دیا کہ محمد کی ہی شریعت تھی وہ آپ ہی واپس آ کر اس کو بدل رہے ہیں۔ کسی کا کیا دخل ہے۔ ایرانی مدعی رخصت ہوئے تو قادیان میں یہ رجعت بروزنی رنگ میں ظاہر ہو گئی اور جو کچھ اس نے کرنا تھا کر دکھلایا اور مرنے سے پہلے مسیح قادیانی نے کہہ دیا کہ میں قدرت ثانیہ بن کر پھر دنیا میں آؤں گا تو مرزا یوں میں بیسیوں مدعی کھڑے ہو گئے اور جب دوسرے آزاد منش لیڈروں نے دیکھا کہ اسلام میں ختم رسالت کی مہر ٹوٹ کر اجرائے رسالت کی روجاری ہو چکی ہے تو انہوں نے بھی اپنی نبوت چلتی کی اور جا بجا نبوت بازی کا کھیل شروع ہو گیا اور عبداللہ بن سبا کی روح خوش ہو گئی۔ مگر اس موقع پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ شیعہ قدیم میں



رجعت کا مسئلہ اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ امام الزمان جناب امام مہدی کے وقت خاندان رسالت اور جماعت یزیدونوں کا بروز ہوگا اور پھر واقعہ کر بلا پھر پیش آئے گا۔ جس میں یزیدیوں سے بدلہ لیا جائے گا اور یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ اس رجعت کے وقت اسلام ہی تبدیل یا منسوخ ہو جائے گا۔ لیکن آج کل بروز یوں نے ساری کا یا ہی پلٹ ڈالی ہے اور رجعت کو ایسے برے طریق پر استعمال کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا کی روح بھی پھڑک اٹھی ہوگی اور بیساختہ کہتی ہوگی کہ لو یہ تو ہمارے بھی باپ نکلے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ!

۱۹..... پہلے نمبروں میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ کے وقت اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور آئندہ اس میں ترمیم و منسوخ کا حق کسی کو حاصل نہ تھا۔ کیونکہ حضور ﷺ پر قرآن نازل ہوا تھا اور ہم پر نازل نہ ہوا تھا بلکہ حضور ﷺ کے ذریعہ سے ہماری طرف نازل کیا گیا تھا۔ (کیونکہ نزول علیہ اور نزول الیہ میں بڑا فرق ہے ہمکے اس قدر اہل قرآن کا دعویٰ حد سے بڑھ گیا ہے کہ قرآن درحقیقت ہم پر نازل ہوا تھا۔ رسول تو صرف قاصد تھا۔ اس لئے انہوں نے تعلیم احکام قرآن کی ڈیوٹی خود سنبھال لی ہے اور مخفی طور پر نبی بن کر اس تعلیم نبوی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو یقینی طور پر عہد حاضر تک دستور العمل بن کر چلی آ رہی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ حاطین اسلام کہ جن کی بدولت ہمیں اسلام نصیب ہوا ہے۔ معاذ اللہ سب جھوٹے تھے۔ اگر جھوٹے نہ تھے تو نادان اور جاہل ضرور تھے۔ کیونکہ انہوں نے علم فقہ وحدیث ان یہود ونصاریٰ سے حاصل کیا تھا۔ جو بظاہر مسلمان تھے اور باطن میں اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ جیسا کہ آج کل محققین یورپ نے ثابت کر دیا ہے۔ بہر حال ان مقلدین تعلیمات یورپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قرآن کو اس سادگی کی حالت میں دستور العمل بنانا چاہئے جو اسلام سے پہلے صحف قدیمہ کے وقت تھی۔ اس لئے موجودہ طرز ادا نیکی صوم وصلوٰۃ جو بعد میں گھڑی گئی ہے۔ گو بری نہیں ہے۔ مگر چنداں ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن بائبل جو ان کے نزدیک معتبر کتاب ہے۔ اس میں تو طریق عبادت یوں مذکور ہے کہ گناہ بخشوانے کے لئے ہیکل پر قربانیاں چڑھائی جائیں اور یاد الہی کرنا ہو تو ٹاٹ پھین کر سر پر راہ ڈالو اور الگ بیٹھ کر اللہ کی یاد کرو۔ نیل ڈاؤن ہوئے رہو یا صرف سجدہ میں گرے رہو تو کیا آج جناب اس طرز عبادت کو جاری کریں گے؟ ”فبہد ہم اقتدہ“ اگر نہیں تو قرآن کو احادیث کی روشنی میں کیوں نہیں سمجھنا پسند کرتے اور کیوں اہل علم کے نزدیک اپنا مبلغ علم خواہ مخواہ ظاہر کر کے تضحیک کر رہے ہیں۔ تمثیلی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آج جناب کے نزدیک نماز تسبیحات سے ادا

ہوسکتی ہے۔ حالانکہ سورہ حج میں صاف مذکور ہے کہ: ”یسبحون له بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وابتاء الزكوة“ مساجد اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ صبح و شام یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں اور ان کو تجارت یا سودا سلف کی پابندی اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اس آیت میں ادائے تسبیح اور اقام الصلوة الگ الگ دو امر بتائے گئے ہیں اور اسلام میں ان دونوں پر عمل در آمد یوں ہو رہا ہے کہ تسبیحات الگ ادا کی جاتی ہیں اور ذکر الہی میں خدا کے بندے ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور ان کے علاوہ نماز کی پابندی الگ کرتے ہیں۔ اگر جناب اب بھی نہیں مانتے تو ذرا یہ بتلائیے کہ اگر پہلا ہی طریق عبادت منظور تھا تو تکمیل دین کس مرض کی دوا تھی؟

۲۰..... آج کل کے مدعیان نبوت نے تصویر کشی کو اسلام میں داخل کر لیا ہے اور استدلالی طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت بنائے تھے۔ سیکنہ میں تصویریں تھیں۔ جناب عائشہؓ کی تصویر جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ فارسیوں کے با تصویر سکے عہد رسالت میں مروج تھے۔ ایک صحابیؓ کے گنبد میں تصویر تھی۔ حضور ﷺ کے گھروں کے پردوں پر تصویریں تھیں۔ گدیوں پر تصویر تھے۔ شیشہ میں تصویر آ جاتی ہے۔ بت پرستی کے خوف سے تصویر بند کی گئی تھی اور اب وہ خوف نہیں رہا۔ تصویر صرف تفہیم اور شناخت کے لئے بنائی جاتی ہے اور تصویر وکس میں فرق ہے۔ کیونکہ فوٹو گرافر کو عکاس کہتے ہیں اور تصویر بنانے والے کو مصور۔ مگر ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ ان تمام دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے تصویر سازی کا کام عہد رسالت، عہد خلافت یا بعد میں خلافت نبی امیہ یا عباسیہ میں کبھی بھی کیا ہو اور کیا ہو تو علمائے اسلام نے قرآن و حدیث یا فقہ سے اسے جائز قرار دیا ہو۔ حالانکہ بت پرستی کا وہم جاتا رہا تھا اور علوم و فنون کی تفہیم بھی درپیش آ چکی تھی اور انبیاء و اولیاء یا خلفاء و سلاطین کو اپنی شناخت کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مگر یہ آواز آتی تھی کہ۔

کس لئے تصویر جانا تم نے کچھوائی نہیں

بت پرستی دین احمدؐ میں کہیں آئی نہیں

ہاں استعمال کرنا ایسی حد تک پایا جاتا ہے کہ تصویر یا مجسمہ کو کچھ وقعت نہ دی جائے۔ ورنہ آج کل کی طرح تصویر کا استعمال بھی نہیں پایا جاتا اور یہ عذر بے بنیاد ہے کہ مسلمان اس فن سے بے بہرہ رہیں گے تو ان کی ترقی رک جائے گی۔ کیونکہ گائے کے گوشت کی بڑی تجارت ہے

مگر ہندو نہیں کرتے تو کیا ان کی ترقی بند ہوگئی ہے اور یہ نظریہ خود گھڑ لیا ہے کہ بت پرستی کے خوف سے تصویر سازی بند کی گئی تھی اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ اس وقت پھر تصویر پرستی مرزائیوں اور بعض صوفیوں میں مروج ہو چکی ہے اور اس کی ترویج میں دو بھاری نقص پیدا ہو گئے ہیں۔

اول ..... پاک دامن عورتوں کی عفت اس سے جاتی رہی ہے۔

دوم ..... نجس تصویروں میں اور سینماؤں میں حیا سوز تصاویر کے ذریعہ وہ بے حیائی سکھائی جاتی ہے کہ جانور بھی اس کے مرتکب نہیں ہوتے تو کیا اندریں حالات کوئی مسلمان حضور ﷺ کے خلاف فتویٰ دے سکتا ہے کہ مسلمان تصویر بنائیں یا ان کو بنظر تحسین استعمال کریں۔ ہم نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی دور اندیشی اور روحانی تربیت کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے مانیں یا نہ مانیں۔ ”وما علینا الا البلاغ“

## تنقید ثنائی

۲۱ ..... مرزا قادیانی کے آخری فیصلہ کی بحث کتاب ہذا محتاج تفصیل ہے۔ کیونکہ یہی فیصلہ مرزائی مشن کے لئے حقیقی فیصلہ ہے۔ سب سے اول چاہئے کہ مرزا قادیانی کے اصل الفاظ طحوظ ہوں۔ کیونکہ مدعی کے دعویٰ پر جیسی وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ دوسرا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ وہ یہ ہیں کہ مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ ”یستنبئونک احق ہو قل ای و ربی انه لحق“ بخد مت مولوی ثناء اللہ صاحب ”السلام علی من اتبع الهدی“ مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے پرچہ میں مردود و کذاب دجال اور مفسد کے نام سے منسوب کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا مگر چونکہ میں حق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ لوگوں کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی سخت لفظ نہیں ہو سکتا تو اگر میں ایسا ہی کذاب و مفتری ہوں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔“

ان الفاظ سے چار باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱ ..... وجہ اعلان فیصلہ یعنی ایذا پہنچانا۔

۲ ..... دعاء کرنا۔

۳ ..... اس سے بڑھ کر جملہ خبریہ کہ اگر میں مفتری ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہی

مر جاؤں گا۔

۳..... اس جملہ خبریہ کو آیت قرآنیہ مضمون حلف باللہ سے مؤکد کرنا گو مرزا نے اس کو مباہلہ نہیں لکھا۔

لیکن میں نے مرقع قادیانی میں اس اعلان کو دعاء لکھا ہے اور مباہلہ بھی مگر مباہلہ کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے دام قنادہ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ رہا میرا انکار یا اقرار سواس کو خدائی تصرف میں کیا دخل؟ جب کہ مرزا قادیانی اخیر اعلان میں لکھ چکے ہیں کہ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مضمون صاف کہ مولوی ثناء اللہ کی ہاں یا ناں کو دخل نہیں۔

کتاب ہذا میں مرقوم ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو کہا تھا کہ مرزا چوبیس گھنٹوں کے اندر مر جائے گا۔ مگر اس واقعہ کو اہل فقہ امرتسر نے یوں لکھا تھا کہ پیر صاحب نے مرزا قادیانی کی نسبت ان الفاظ میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ مرزا قادیانی بہت جلد عذاب کی موت مرے گا۔ (اہل فقہ ۲۹ مئی ۱۹۰۸ء)

ناظرین کو یاد رہنا چاہئے کہ پیر صاحب کے معاملہ میں اخبار اہل فقہ کی روایت سب سے زیادہ معتبر ہے۔ کیونکہ یہ اخبار پیر صاحب کا آرگن تھا۔ اگر چوبیس گھنٹوں کی پیش گوئی ہوتی تو اہل فقہ میں ضرور درج ہوتی۔ والسلام!

### تقریظ ثنائی

کتاب چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت مصنفہ جامع المعقول والمعقول جناب مولانا محمد عالم صاحب آسی میں نے دیکھی۔ کتاب اپنے مضمون میں جامع ہے۔ اسلامی دنیا میں بہاء اللہ ایرانی اور مرزائے قادیانی نے جو تہلکہ مچا رکھا ہے آج اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے حالات اور مقالات کی جامع کتاب چاہئے تھی۔ مصنف علام نے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ جزاہ اللہ! (شیر پنجاب فاتح قادیان) مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ (امرتسر) ۱۷ ستمبر ۱۹۳۳ء

### تقریظ حبیب

میں نے اس کتاب کا کچھ حصہ دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ تردید مرزائیت میں یہ ایک لاجواب کتاب ہے اور بہت مفید ہے۔

حافظ مرزائی لٹریچر باجو حبیب اللہ

کلرک دفتر نمبر امرتسر ۱۲ ستمبر ۱۹۳۳ء

تمت بالخیر!

بسم الله الرحمن الرحيم!

## فہرست ..... ”الکاویۃ علی الغاویۃ“ حصہ دوم

۳	عرض مرتب
۶	معروضات آسی
۷	سوانح حیات جناب مسیح ابن مریم
۷	(اقتباسات انجیل برنباس)
۱۵	انجیل سیاح روسی
۱۷	اکمال الدین و اتمام المعینہ للعلمی اور یوز آسف
۱۸	مورخ طبری اور مسیح ابن مریم
۲۰	علامہ ابن جریر اور مسیح ابن مریم
۲۳	حضرت مسیح کے متعلق قادیانی خیالات
۳۵	ہجرت مسیح بطرف کشمیر پر ایک لمحہ نظریہ
۳۳	لغات قادیانیہ
۵۷	سوانح باب اور اقتباسات نعتیہ الکاف
۵۷	ظہور ابواب اربعہ
۵۸	باب اول، باب دوم
۵۹	باب ثالث..... (باب اعظم)
۶۰	باب اعظم کے ابتدائی حالات
۶۱	باب کی تبلیغی جدوجہد
۶۱	باب کی گرفتاری
۶۲	باب کی ہجرت اور قیام اصفہان
۶۳	سفر طہران
۶۵	سفر طہران اور ظہور خوارق
۶۷	ورود تہریز و سفر ماکو
۶۷	ماکو میں تین سال کی نظر بندی
۶۸	مناظرہ تہریز
۷۰	باب کی سزایابی
۷۰	اخوند باب: بابیہ محمد حسین بشروی
۷۱	بروز قاطبہ قرظہ: لعین طاہرہ
۷۲	قتل ملا تقی
۷۳	بیعت بدشت اور بروز رسالت

۷۸	باب چہارم.....
۷۹	بارفروش میں چپقلش
۸۰	خسرو کی لڑائی۔ طبریہ کی لڑائی
۸۱	سلطانی لشکر سے قدوسیوں کی پہلی لڑائی اور تیاری
۸۱	جناب قدوس سے خط و کتابت
۸۳	مسئلہ رجعت
۸۶	قدوسیوں کی دوسری لڑائی
۸۶	خاندان بشروی
۸۷	باب پنجم و ششم
۸۷	بھوکے قدوسیوں کے حیرت ناک حالات
۸۹	قتل قدوس
۹۱	دعویٰ مسیحیت
۹۲	اسیران قدوس
۹۲	باب ہفتم
۹۳	باب ہشتم
۹۳	واقعہ زنجان
۹۶	باب نہم..... صبح ازل
۹۷	قتل جناب ذکر
۹۸	باب دہم..... ذبح
۹۹	باب یازدہم..... بصیر
۱۰۱	انتخاب مقالہ شخصے سیاح کہ در تفصیل قضیہ باب نوشتہ شد
۱۰۲	پہلا مقابلہ شیراز میں
۱۰۳	تیسرا اور ماگو میں قیام
۱۰۴	دلائل مہدویت
۱۰۶	انقلاب عظیم، قتل بشروی
۱۰۷	قتل باب و واقعہ زنجان
۱۰۹	سلطان پرگولی چلانا، تعلیمات باب
۱۱۰	من مظہرہ اللہ بہاء اللہ شاب بخنے ظہور عظیم، حقیقت شاخصہ
۱۱۰	رازداری
۱۱۱	خاموش مقابلہ
۱۱۲	تعلیمات بہائیت
۱۱۳	شکایت ازل زمان

۱۱۵	مسئلہ عراق
۱۱۶	جنرل بغداد کی ناکامی
۱۱۷	اڈریانو پیل کو روائیگی
۱۱۸	مرزا محمد یحییٰ کی علیحدگی
۱۱۹	حکومت ایران کی خدمت میں درخواست
۱۲۰	اقتباسات درخواست ہذا
۱۲۸	الواح جناب بہاء اللہ درخواست المل بصیر
۱۲۹	حکومت کارویہ اور قتل حسین
۱۳۰	رباعیات نکتہ الکاف
۱۳۲	بہائی مذہب کے مزید حالات، عباس آفندی
۱۳۳	شوقی آفندی
۱۳۴	بہاء اللہ
۱۳۶	عبدالبہاء کی شخصیت
۱۳۷	قرۃ العین طاہرہ
۱۳۸	قصیدہ اول طاہرہ در شان باب قصیدہ دوم و سوم طاہرہ
۱۴۰	مختصر تواریخ بابیہ
۱۴۱	تعلیمات بہائیہ
۱۵۰	صداقت بابیت و بہائیت
۱۵۲	اقتباسات کتاب ایقان
۱۵۶	نزول مسیح کی پیشین گوئی اور تحریف بہائیہ
۱۵۷	شمس و قمر و نجوم کا ایک اور معنی
۱۵۸	تبدیل ارض کا مفہوم
۱۵۹	طی الارض
۱۶۰	ظہور عیسیٰ کا مفہوم
۱۶۱	عیسیٰ علیہ السلام کا ابر سے اترنا
۱۶۳	تحریف (رجم)
۱۶۴	شمس حقیقت (نبوت)
۱۶۶	قیام سلطنت (امام)
۱۷۳	رجوع و بروز انبیاء و اولیاء
۱۷۴	بروز محمدی، ختم نبوت
۱۷۹	علم و جہالت
۱۸۰	نصائح بہائیہ

۱۸۱	مدینہ روحانی
۱۸۳	ادبی لیاقت (بہاء اللہ)
۱۸۴	مخالفین پر فتوائے کفر پیشاں نزول آیات سے انکار
۱۸۵	چار سو علمائے عصر کی شہادت
۱۸۷	تشیخ شریعت
۱۹۰	ہجرت اہل ایمان و امتحان
۱۹۱	بہائی مذہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات
۲۰۱	اقتباسات کتاب اقدس (وحی بہاء) الصوم والصلوٰۃ
۲۰۲	المواریث
۲۰۳	بیت العدل (کا قیام) مدعی نبوت کی تکفیر (جو ہزار سال سے پہلے ہو)
۲۰۵	تجزیرات (اور سیاسی احکام) نکاح و طلاق (کے احکام)
۲۰۶	ندائے تبلیغ، معاملات
۲۰۹	وقائع الاحوال اور حالات پیش آمدہ
۲۱۰	تکفیر اہل البیان (باہیوں کی تکفیر)
۲۱۲	المسکر حوالہ کافر (بہاء کا منکر کافر)
۲۱۲	الحکمۃ القدیمہ (فلسفہ قدیم)
۲۱۳	درقۃ بیضاہ (خوبصورت عورت)
۲۱۴	الثواب والعتاب
۲۱۵	الجن ونزولہ تعالیٰ (جلیلخانہ میں خدا)
۲۱۶	المیکل (وجود بہاء اللہ)
۲۱۶	اقتباسات کتاب البریہ
۲۱۷	مرزا گل محمد اور ریاست
۲۱۸	پیدائش مسیح قادیانی تعلیم اور باپ کی ناراضگی
۲۱۹	ایک خواب
۲۲۰	مجاہدہ اور ابتدائی حالات الہام اور مسیحیت
۲۲۱	سبح اموج کے تنازعات
۲۲۲	دلیل صداقت (مسیح قادیانی) وفات مسیح نامصری
۲۲۵	رفع جسمانی
۲۲۶	دجل و دجال
۲۲۸	اثبات مسیحیت (قادیانیہ)
۲۲۹	ابدی لعنت سے رہائی
۲۳۱	میں کب اور کیوں مجھ دینا؟



- ۲۳۲ میں مہدی کیسے ہوا  
 ۲۳۳ اشتہار برائے توجہ سرکار  
 ۲۳۷ کتاب البریہ کیوں لکھی؟  
 ۲۳۸ کارروائی مقدمہ قتل  
 ۲۳۹ پیشین گوئیاں (قادیانی)  
 ۲۴۰ مسیح ناصری سے مسیح قادیانی کی مشابہت  
 ۲۴۱ وسائل خلافت اطمینان قلبی تثلیث مسیح ناصری  
 ۲۴۱ آتھم اور قسم کھانا  
 ۲۴۳ عیسائیت پر اعتراضات  
 ۲۴۹ الہامات محویت (مسیح قادیانی)  
 ۲۵۱ مکاشفات محویت (مسیح قادیانی)  
 ۲۵۲ خدائی میں مقابلہ  
 ۲۵۵ اظہار مظلومیت  
 ۲۵۶ گندی کتابوں کی فہرست  
 ۲۵۷ کتاب البریہ پر ایک سرسری نظر  
 ۲۸۳ مسیح ابن مریم اور واقعہ صلیب  
 ۲۸۴ واقعہ صلیب اور قرآن شریف  
 ۲۸۵ مصلوب اور اس کی زندگی  
 ۲۸۶ نوابی فیصلہ پر جرح  
 ۲۸۸ اقتباسات سیرۃ المہدی قادیانی مرزا صاحب کے اسلاف و اقارب  
 ۲۹۶ عہد طفولیت اور تعلیم قادیانی  
 ۲۹۹ مزاج دعاوات (مسیح قادیانی)  
 ۳۰۰ بودوباش (مسیح قادیانی)  
 ۳۰۶ عہد شباب (مسیح قادیانی)  
 ۳۰۹ ادبیات (مسیح قادیانی)  
 ۳۱۱ کرامات (مسیح قادیانی)  
 ۳۲۵ زہد اتقائے (مسیح قادیانی)  
 ۳۳۰ سوانح مختلفہ (مسیح قادیانی)  
 ۳۵۴ عہد وفات (مسیح قادیانی)  
 ۳۵۸ خاص خاص حالات (مسیح قادیانی)  
 ۳۵۸ مسیح قادیانی کی بیماریاں اور دوائیں  
 ۳۶۱ مسیح قادیانی کا تمدن ریسمانہ

۳۶۳	مسح قادیانی کی دعائیں
۳۶۵	مشہور واقعات جماعت مرزائیہ
۳۷۰	تاریخ ہائے تصانیف مسیح قادیانی
۳۷۳	اشتہارات مسیح قادیانی
۳۸۰	دو کنگ مسجد
۳۸۱	تعبیر خواب از مسیح قادیانی
۳۸۳	عقائد و ملفوظات مسیح قادیانی
۳۸۵	نسخجات قادیانی
۳۸۶	مبلفین قادیانیت
۳۸۶	دس شرائط بیعت قادیانی
۳۸۸	انجام مکذبین
۳۸۸	اقتباسات الوصیہ قادیانی
۳۹۰	قدرت ثانیہ
۳۹۰	حصول نبوت
۳۹۲	وفات مسیح نشان صداقت اور زلزے
۳۹۳	بہشتی مقبرہ (قادیانی)
۳۹۵	تقیدات
۴۰۰	نقشہ قادیان
۴۰۳	مسح قادیانی کی وفات
۴۰۴	ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیشین گوئی معہ ہلاکت
۴۰۶	ہلاکت مولوی ثناء اللہ
۴۰۸	تقید بروفات مسیح قادیانی
۴۱۳	ہلاکت مرزا وسید جماعت علی شاہ صاحب کی کرامت
۴۱۵	ہلاکت مولوی عبدالحکیم قادیانی
۴۱۶	لیکچر سیا لکوٹ
۴۲۲	تشیخ عقائد قادیانی
۴۳۶	دانیال کی پیشین گوئی
۴۳۹	بائبل کی پیشین گوئیاں
۴۵۱	مکاشفات بائبل
۴۵۳	اعلان نبوت قادیانی
۴۵۶	تقید (براعلان نبوت)
۴۶۲	دشنام نامہ قادیانی

- ۴۶۷ الہام کشف اور خواہائے مسیح قادیانی  
 ۴۶۷ وحی رحمانی و شیطانی میں امتیاز  
 ۴۶۸ قلیل المقدار الہامات  
 ۴۷۰ بے معنی الہام  
 ۴۷۱ الہامات شرکیہ  
 ۴۷۴ البشری (قرآن قادیانی)  
 ۴۷۶ الہامات مرکبہ (فارسی عربی وغیرہ)  
 ۴۸۶ تنقیدات الہامات مرکبہ  
 ۴۸۷ عربی الہامات (بشری نصف اول)  
 ۴۹۴ عربی الہامات (بشری نصف ثانی)  
 ۵۰۹ الہام عربی پر تنقید  
 ۵۱۰ الہامات اردو (بشری نصف اول)  
 ۵۱۱ الہامات اردو (بشری نصف ثانی)  
 ۵۱۶ اردو الہام پر تنقید  
 ۵۱۸ پنجابی الہام  
 ۵۱۸ فارسی الہام  
 ۵۲۰ انگریزی الہام  
 ۵۲۰ مرزائیت اور اہل اسلام میں فرق  
 ۵۲۲ اسلام و قادیانیت میں وجوہات تفرقہ  
 ۵۲۳ عہد قادیانیت میں مدعیان نبوت  
 ۵۲۳ چراغین، الہی بخش، ڈاکٹر عبدالحکیم  
 ۵۲۳ ڈاکٹر ڈوٹی، احمد سعید سنہریالی  
 ۵۲۵ ظہیر الدین، یار محمد، فضل احمد  
 ۵۲۷ مرزا محمود قادیانی  
 ۵۲۸ عبداللہ حار پوری، عابد علی شاہ  
 ۵۲۸ محمد بخش، ڈاکٹر محمد صدیق  
 ۵۲۲ نظم صدیق  
 ۵۵۲ محمد صدیق پر تنقید، احمد نور کالمی  
 ۵۵۶ احمد نور کالمی پر تنقید  
 ۵۵۶ غلام محمد لاہوری و عبداللطیف گناچوری  
 ۵۶۱ تنقید رسالت عبداللطیف  
 ۵۶۲ نبی بخش، غلام حیدر، محکم اندین محمد زمان

۵۶۳	حکیم نور الدین بھیروی
۵۶۸	خوابہ کمال الدین
۵۶۸	تنقید
۵۷۱	رجل - یسعی چچا وطنی
۵۷۸	رجل - یسعی پر تنقید
۵۸۲	محبوب عالم شاہ گوجرانوالہ
۵۸۳	نماز امام حقیقی
۵۸۵	روزہ نکاح و طلاق امام حقیقی
۵۸۶	عام احکام حقیقی نمبر ۱
۵۸۹	تسخیر
۵۹۱	احکام امام حقیقی نمبر ۲
۵۹۳	احکام امام حقیقی نمبر ۳
۵۹۹	احکام امام حقیقی نمبر ۴
۶۰۵	تنقید بر احکام امام حقیقی
۶۲۵	خوابہ احمد الدین کترین
۶۲۶	یحییٰ بہاری
۶۲۷	نظم یحییٰ
۶۲۹	احکام یحییٰ
۶۳۰	نظم معائب
۶۳۱	صداقت یحییٰ بہاری
۶۳۳	یحییٰ پر تنقید
۶۳۷	عنایت اللہ مشرقی
۶۳۸	عنایت اللہ پر تنقید
۶۴۰	میدیم محمد یوحنا رام
۶۴۲	میدیم پر تنقید
۶۴۷	امام الدین گجراتی مؤلف بانگ دل
۶۴۸	نظم امام الدین مذکورہ معہ تنقید
۶۴۹	حسن بن صباح اور اس کا معنوی بہشت
۶۶۰	شام میں اسماعیلی فرقے
۶۶۳	خلاصہ کتاب ہذا
۶۷۹	تنقید ثانی
۶۸۰	تقریظ ثانی، تقریظ حبیب